

عام فہم اردو تفسیر

# آوار الہیات

فی کشف اسرار القرآن

سُلیس اور عام فہم زبان میں اردو کی سب سے پہلی مفصل اور جامع تفسیر، تفسیر القرآن بالقرآن اور تفسیر القرآن بالحدیث کا خصوصی اہتمام، دلنشین انداز میں احکام و مسائل اور مواظ و نصائح کی تشریح، اسباب نزول کا مفصل بیان، تفسیر وحدیث اور کتب فقہ کے حوالوں کیساتھ

مدظلہ العالی  
محقق العصر محمد عاشق الہی مہاجر مدنی  
حضرت مولانا مفتی

ادارۃ تالیفات اشرفیہ

بیرون پوهن گیت ملتان شہر نمبر 540513



# الزَّيْلَعِي

في كشف أسرار القرآن

٨٤٤

اضافہ شدہ ایڈیشن

عام فہم اردو تفسیر

جلد ۱-۲

# اَوَّلُ السِّلَاسِ

فی کشف اسرار القرآن

سورة القصص تا سورة الحجرات

سلیس اور عام فہم زبان میں اردو کی سب سے پہلی مفصل اور جامع تفسیر، تفسیر القرآن بالقرآن اور تفسیر القرآن بالحدیث کا خصوصی اہتمام، دلنشین انداز میں احکام و مسائل اور مواضع و نصوص کی تشریح، اسباب نزول کا مفصل بیان، تفسیر وحدیث اور کتب فقہ کے حوالوں کیساتھ

محقق العصر  
حضرت مولانا مفتی محمد عاشق الہی  
ہجرت مدنی

ادارۃ تالیفات اشرفیہ

چوک دارہ ملتان، پاکستان فون: 540513

## ضروری وضاحت

ایک مسلمان جان بوجھ کر قرآن مجید، احادیث رسول اور دیگر دینی کتابوں میں غلطی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا بھول کر ہونے والی غلطیوں کی تصحیح و اصلاح کیلئے بھی ہمارے ادارہ میں مستقل شعبہ قائم ہے اور کسی بھی کتاب کی طباعت کے دوران اس کی اغلاط کی تصحیح پر سب سے زیادہ توجہ اور عرق ریزی کی جاتی ہے۔

تاہم چونکہ یہ سب کام انسان کے ہاتھوں ہوتا ہے اس لئے پھر بھی کسی غلطی کے رہ جانے کا امکان موجود ہے۔

لہذا قارئین کرام سے گزارش ہے کہ اگر کوئی غلطی نظر آئے تو ادارہ کو مطلع فرما دیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح کر دی جائے۔ نیکی کے اس کام میں آپ کا تعاون آپ کے لئے صدقہ جاریہ ہوگا۔

(ادارہ)

نام کتاب..... انوار البیان جلد ۷، ۸

نام مؤلف..... مولانا عاشق الہی مدنی رحمہ اللہ

باہتمام..... محمد اسحاق عفی عنہ

تاریخ اشاعت..... محرم الحرام ۱۴۲۳ھ

مطبع..... سلامت اقبال پریس ملتان



### ملنے کے پتے

- ☆ ادارہ تالیفات اشرفیہ چوک فوارہ ملتان
- ☆ ادارہ اسلامیات انارکلی ، لاہور
- ☆ مکتبہ سید احمد شہید اردو بازار لاہور
- ☆ مکتبہ رشیدیہ، سرکی روڈ، کوئٹہ
- ☆ کتب خانہ رشیدیہ راجہ بازار راولپنڈی
- ☆ یونیورسٹی بک ایجنسی خیبر بازار پشاور
- ☆ دارالاشاعت اردو بازار کراچی
- ☆ صدیقی ٹرسٹ لسبیلہ چوک کراچی نمبر ۵





## عرض ناشر

تفسیر انوار البیان جلد ۷، ۸ جدید کمپیوٹر کتابت کے ساتھ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔  
اس میں خصوصی طور پر اس کا اہتمام کیا گیا ہے کہ قرآن پاک کے متن میں ہی ترجمہ دیا گیا ہے اور عربی عبارات مثلاً روح المعانی اور قرطبی وغیرہ کا اردو میں ترجمہ کر دیا گیا ہے اس سے استفادہ میں مزید آسانی ہوگی۔  
مزید جلدیں بھی اسی طرح ان شاء اللہ آتی رہیں گی۔

افسوس کے ساتھ لکھنا پڑ رہا ہے یہ جلد نئی ترتیب و تزئین کے ساتھ ایسے وقت منظر عام پر آرہی ہے جبکہ  
حضرت مؤلف رحمہ اللہ اس دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

حضرت مولانا مفتی عاشق الہی بلند شہری ثم مہاجر مدنی رحمہ اللہ ان علمائے ربانین میں سے تھے جن سے  
دین کی صحیح رہنمائی ملتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود آپ میں تعلیٰ تو کیا خود نمائی کا  
شائبہ تک بھی نہ تھا۔ اور اسی کی برکت ہے کہ آپ کی تصانیف مقبول عام ہیں۔

زندگی کے آخری دور کی تصنیف تفسیر انوار البیان (کامل نو جلد) جو آپ کی زندگی ہی میں ادارہ  
تالیفات اشرفیہ ملتان سے چھپ کر مقبول عام ہو چکی ہے جس کو آپ نے مدینہ منورہ کی مبارک فضاؤں میں رہ  
کر لکھا آپ کے صاحبزادہ مولانا عبدالرحمن کوثر بتلاتے ہیں کہ جب تفسیر کا کام ہو رہا تھا تو میں نے خواب میں  
اس طرح دیکھا کہ جیسے جیسے تفسیر کا کام مکمل ہوتا جا رہا ہے ویسے ویسے مسجد نبوی کی تعمیر مکمل ہو رہی ہے۔ آپ کی  
عربی، اردو تصانیف کی تعداد تقریباً سو ہے ایک پرانے بزرگ سے سنا ہے کہ مولانا کا جن دنوں دہلی میں قیام تھا  
تو مولانا کی بے سرو سامانی کا یہ حال تھا کہ ائمہ مساجد (احباب) کے پاس جا کر ان کے پاس سے خشک روٹیوں

کے ٹکڑے اکٹھے کر لاتے اور پھر ان کو بھگو کر انہیں پر گزارہ کرتے ان حالات میں بھی استغناء برقرار رکھا اور کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا یا اور حضور ﷺ کے ارشاد الفقیر فخری کا نمونہ بن کر دکھلایا۔  
 آپ نے اپنی زندگی کے آخری چھیس برس مدینہ منورہ میں گزارے آپ کو جنت البقیع میں دفن ہونے کا بہت ہی شوق تھا اسی لئے آپ جاز سے باہر نہیں جاتے تھے اور اپنی علالت کے بعد تو وہ اس میں بہت ہی احتیاط فرماتے تھے۔

آپ کا انتقال پر ۱۳ مئی ۱۳۲۲ھ کو ہوا روزہ کے ساتھ، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے مسنون طریقہ پر سوئے اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے عالم راحت و امن میں چلے گئے۔ نماز تراویح کے بعد مسجد نبوی میں آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی، اور آپ کی خواہش بھی اللہ تعالیٰ نے پوری فرمادی کہ آپ کو جنت البقیع میں حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی مدفون ملا رحمۃ اللہ علیہ رحمۃً واسعۃً۔  
 یا اللہ! اس ناکارہ کو بھی ایمان کے ساتھ جنت البقیع کا مدفون نصیب فرما، آمین۔  
 اللہ پاک حضرت مولانا کی بال بال مغفرت فرمائے، اعلیٰ مقامات نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔

احقر محمد اسحاق عفی عنہ  
 محرم الحرام ۱۴۲۳ھ

# حضرت مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ”ادارہ تالیفات اشرفیہ“ ملتان کیلئے دُعاء و تشکر اور خصوصی اجازت کے کلماتِ مبارکہ

مسلمًا و محمدًا و مصلیًا و مسلمًا

تفسیر انوار البیان جب احقر نے لکھنی شروع کی تھی بظاہر کوئی انتظام اس کے شائع ہونے کا نہ تھا بعض ناشرین سے اس کی اشاعت کیلئے درخواست کی تو عذر پیش کر دیا، احقر کی کوشش جاری رہی حتیٰ کہ حافظ محمد اخلق صاحب دام مجدہم مالک ”ادارہ تالیفات اشرفیہ“ ملتان کی خدمت میں معروض پیش کر دیا، جس کی انہوں نے کتابت شروع کرادی اور کتابت، تصحیح اور طباعت کے مراحل سے گزر کر جلد اول جلد ہی شائع ہو گئی جو ناظرین کے سامنے ہے، یہ حافظ صاحب موصوف کی مسلسل محنت اور جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ اللہ جل شانہ ان کی مساعی کو قبول فرمائے اور انہیں دنیا اور آخرت کی خیر نصیب فرمائے اور ان کے ادارہ کو بھی بھرپور ترقی عطا فرمائے۔

افریقہ کے بعض احباب نے تفسیر کی کتابت کیلئے بھرپور رقم عطا فرمائی۔ (جو اپنا نام ظاہر کرنا پسند نہیں کرتے) اللہ جل شانہ ان سے راضی ہو جائے اور ان کے اموال میں برکت عطا فرمائے اور انہیں اور ان کی اولاد کو اعمالِ صالحہ کی توفیق دے اور رزقِ حلال وسیع نصیب فرمائے، ان کے علاوہ اور جس کسی نے بھی اس تفسیر کی اشاعت میں دے دے درمے قدم کسی قسم کی شرکت فرمائی خصوصاً وہ احباب جنہوں نے اس کی تالیف میں میری مدد کی اور تسوید و تمییز کے مراحل سے گزارنے میں میرے معاون بنے اور مراجعت کتب میں میرا ساتھ دیا، میں سب کا شکر گزار ہوں اور سب کیلئے دُعاء گو ہوں اللہ جل شانہ ان سب کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔

محتاجِ رحمت لا یتناہی محمد عاشق الہی بلند شہری

عفا اللہ عنہ و عافاہ و جعل آخرتہ خیر امن اولاہ



## اجمالی فہرست

۲۰	سورۃ القصص
۶۷	سورۃ العنکبوت
۱۰۶	سورۃ الروم
۱۳۶	سورۃ لقمن
۱۵۷	سورۃ السجدة
۱۷۲	سورۃ الاحزاب
۲۷۰	سورۃ سبا
۲۹۶	سورۃ فاطر
۳۱۷	سورۃ یس
۳۴۳	سورۃ الصافات
۳۷۹	سورۃ ص
۴۱۲	سورۃ الزمر
۴۴۹	سورۃ المؤمن
۴۸۰	سورۃ حم السجدة
۵۰۵	سورۃ الشوری
۵۲۹	سورۃ الزخرف
۵۵۷	سورۃ الدخان
۵۷۹	سورۃ الجاثیہ
۵۸۵	سورۃ الاحقاف
۶۰۵	سورۃ محمد
۶۲۶	سورۃ الفتح
۶۵۴	سورۃ الحجرات

## فہرست عنوانات

۴۹	ہدایت دیتا ہے	۲۰	سورة القصص
۴۹	اہل مکہ کی اس بات کی تردید کہ ہم ہدایت		فرعون کی سرکشی اور بنی اسرائیل پر مظالم کا تذکرہ ۲۱
۵۱	قبول کر لیں تو اپنی زمین سے نکال دیئے جائیں گے		حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا صندوق میں رکھ کر
	اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی بستی کو ہلاک نہیں فرماتا جب	۲۱	انہیں سمندر میں ڈال دینا
۵۲	تک انکی مرکزی بستی میں کوئی رسول نہ بھیجے	۲۶	حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک شخص کا قتل ہو جانا
	قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا مشرکین سے خطاب اور یہ سوال	۳۳	فوائد
۵۴	کہ جنہیں تم نے شریک ٹھہرایا تھا وہ کہاں ہیں؟	۳۳	فائدہ اولیٰ
	اگر اللہ تعالیٰ رات یا دن کو ہمیشہ باقی رکھتے تو وہ کون ہے	۳۳	فائدہ ثانیہ
۵۶	جوزس کے مقابلہ میں رات یا دن لا سکے	۳۳	فائدہ ثالثہ
۵۸	قیامت کے دن ہر اُمت میں سے گواہ لانا	۳۴	فائدہ رابعہ
	قارون کا اپنے مال پر اترانا اور قارون کا اپنے گھر کیساتھ	۳۴	فائدہ خامسہ
۶۰	زمین میں دھنس جانا	۳۵	فائدہ سادسہ
	آخرت کا گھر اُن لوگوں کے لئے ہے جو زمین میں بلندی	۳۶	فائدہ سابعہ
۶۴	اور فساد کا ارادہ نہیں کرتے	۳۶	فائدہ ثامنہ
۶۶	یا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کو کتاب دی گئی	۳۶	فائدہ ناسعہ
۶۷	سورة العنکبوت	۳۷	فائدہ عاشرہ
۶۸	دُعوائے ایمان کے بعد امتحان بھی ہوتا ہے		حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی اہلیہ کیساتھ مدین سے واپس
۶۸	ہر شخص کا مجاہدہ اُس کے اپنے نفس کے لئے ہے	۳۸	مصر کیلئے روانہ ہونا پھر رسالت سے سرفراز کیا جانا
۷۰	اور اللہ تعالیٰ سارے جہانوں سے بے نیاز ہے		رسالت سے سرفراز ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مصر کو
۷۱	والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم	۴۰	واپس ہونا
۷۳	مدعیان ایمان کا امتحان لیا جاتا ہے	۴۴	توریت شریف سر اپا بصیرت ہدایت اور رحمت تھی
۷۴	قیامت کے دن کوئی کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا		سابق اہل کتاب جو قرآن کریم پر ایمان لاتے ہیں انکے
۷۶	حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ اور ان کی قوم کی بغاوت و ہلاکت	۴۷	لئے دو ہزار اجر ہے
			آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے اللہ جسے چاہے

۱۰۳	اہل مکہ کو امن و امان کا خصوصی انعام	۷۷	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کو توحید کی دعوت دینا
۱۰۶	سورۃ السورہ	۷۸	اثبات قیامت پر دلیل آفاقی اور منکرین قیامت کیلئے زجر
	اہل فارس پر رومیوں کے غالب ہونے کی پیشین گوئی		حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا جواب کہ ان کو قتل کر دیا
	اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ابی بن خلف سے ہار	۸۰	آگ میں جلادو
۱۰۶	جیت کی بازی لگانا	۸۰	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قوم کو سمجھانا
	جنہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں دنیاوی علم کے	۸۰	حضرت لوط علیہ السلام کا دعوت ابراہیمی کو قبول کرنا
۱۰۸	باوجود جاہل ہیں	۸۱	اور دونوں حضرات کا فلسطین کیلئے ہجرت کرنا
۱۱۰	آسمان وزمین کی تخلیق میں فکر کرنے کی تلقین	۸۲	بیٹے اور پوتے کی بشارت اور موعبت
۱۱۰	اُمم سابقہ سے عبرت حاصل کرنے کا حکم	۸۲	حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سلسلہ نبوت
۱۱۲	مؤمنین باغوں میں سرور ہو گئے، مجرمین بد حال ہو گئے	۸۲	ذکر خیر کی دعا اور قبولیت
۱۱۲	صبح و شام اور دن کے پچھلے اوقات میں اللہ کی تسبیح کرنے کا حکم		حضرت لوط علیہ السلام کا اپنی قوم کو تبلیغ کرنا اور اہل مدین
۱۱۵	اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر اور توحید کے دلائل	۸۶	اور فرعون ہامان قارون کی ہلاکت کا تذکرہ
۱۲۰	ایک خاص مثال سے شرک کی تردید اور توحید کا اثبات	۸۷	مشرکین اپنے معبودوں سے جو امیدیں لگائے
۱۲۱	فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا	۸۸	بیٹھے ہیں اُس کی مثال کڑی کے جالے کی طرح ہے
۱۲۳	رحمت اور رحمت کے بارے میں انسان کا ایک خاص مزاج	۸۹	قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور نماز قائم کرنے کا حکم
۱۲۴	رشتہ دار، مسکین اور مسافر کو دینے کا حکم	۷۹	نماز بے حیائی سے روکتی ہے
۱۲۸	لوگوں کے اعمال بد کی وجہ سے مجرموں میں فساد ظاہر ہو گیا	۹۰	ذکر اللہ کے فضائل
۱۳۱	اللہ تعالیٰ ہواؤں کو بھیجتا ہے اور بارش برساتا ہے	۹۳	ابن ابی سبیر سے مجادلہ اور مباحثہ کرنے کا طریقہ
۱۳۱	آپ مردوں اور بہروں کو نہیں سنا سکتے	۹۵	رسالت محمدیہ پر ایک واضح دلیل
۱۳۲	اور اندھوں کو ہدایت نہیں دے سکتے	۹۷	اہل باطل کی تکذیب اور تکذیب پر تعذیب
۱۳۳	انسان ضعف و قوت کے مختلف احوال سے گذرتا ہے	۹۸	ہجرت کی اہمیت اور ضرورت
	قیامت کے دن مجرمین کی جھوٹی قسمادھری اور قرآن عمدہ	۹۹	ہر جان کو موت چکھنا ہے
۱۳۵	مضامین پر مشتمل ہے	۹۹	رزق مقدر ضرور ملے گا
۱۳۶	سورۃ لقمن	۱۰۰	توحید کے دلائل
۱۳۶	قرآن مجید محسنین کے لئے ہدایت اور رحمت ہے		دنیا والی زندگی لہو و لعب ہے، حقیقی زندگی آخرت ہی کی
۱۳۷	قرآن کے دشمنوں کی حرکتیں اُن کیلئے عذاب مہین کی وعید	۱۰۱	زندگی ہے
۱۳۸	گانے بجانے کی مذمت و حرمت	۱۰۳	مشرکین کی ناشکری اور ناسپاسی



۱۵۷	پیدا فرمایا	۱۳۹	ارشاد نبوی (ﷺ) کہ میں گانے بجانے کی چیزیں
۱۵۸	اللہ تعالیٰ آسمان سے زمین تک تدبیر فرماتا ہے	۱۴۰	مٹانے کیلئے آیا ہوں
۱۶۱	انسان کی تخلیق اور تصویر کا تذکرہ	۱۴۱	جابلہ بیروں کی بد عملی
۱۶۲	قیامت کے دن مجرمین کی بد حالی اور دنیا میں واپس ہونے کی درخواست کرنا	۱۴۲	لَهُوَ الْحَدِيثُ ..... (جو چیز کھیل میں لگائے)
۱۶۳	اہل ایمان کی صفات، مومنین کا جنت میں داخلہ اہل کفر کا دوزخ میں برا ٹھکانہ	۱۴۳	شطنج وغیرہ کا تذکرہ
۱۶۵	نماز تہجد کی فضیلت	۱۴۴	آسمان وزمین اور پہاڑ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اس کے سوا کسی نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا
۱۶۷	مومن اور فاسق برابر نہیں	۱۴۵	حضرت حکیم لقمان (رضی اللہ عنہ) کے نصائح
۱۶۹	جن چیزوں میں اختلاف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں قیامت کے دن فیصلہ فرمادے گا	۱۴۶	حضرت لقمان کا تعارف
۱۶۹	ہلاک شدہ اقوام کے مساکن سے عبرت حاصل کرنے کی تاکید	۱۴۷	شرک ظلم عظیم ہے
۱۷۰	کھیتیاں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں	۱۴۸	والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت
۱۷۱	فتح کے دن کافروں کا ایمان نفع نہ دے گا	۱۴۹	نماز قائم کرنے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تاکید
۱۷۲	سورة الاحزاب	۱۵۰	صبر کرنے کی اہمیت اور تواضع سے پیش آنے کی تاکید
۱۷۳	اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیے اور اس پر توکل کیجئے کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانئے	۱۵۱	تکبر کی مذمت
۱۷۴	منہ بولے بیٹے تمہارے حقیقی بیٹے نہیں	۱۵۲	آواز کو پست کرنے کا حکم
۱۷۵	ظہار کیا ہے	۱۵۳	اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھرپور ظاہری اور باطنی نعمتوں سے نوازا ہے، منکرین آباد اجداد کی تقلید میں گمراہ ہوئے
۱۷۶	بیٹا بنا لینا	۱۵۴	اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور تسخیر اور تصرفات تکوینیہ کا تذکرہ
۱۷۷	ضروری مسائل	۱۵۵	کلمات اللہ غیر متناہی ہیں
۱۷۸	مومنین سے نبی کا تعلق اس سے زیادہ ہے جو ان کا اپنے نفوس سے ہے اور آپ کی بیویاں ان کی مائیں ہیں	۱۵۶	مشرکین کو جب موج گھیر لیتی ہے تو اخلاص کے ساتھ دعاء کرتے ہیں
۱۷۹	رسول اللہ (ﷺ) کی شفقت عامہ	۱۵۷	اللہ تعالیٰ سے ڈرو، قیامت کے دن کی حاضری کا فکر کرو
۱۸۰	ازواج مطہرات کا اکرام و احترام	۱۵۸	شیطان دھوکہ باز تمہیں دھوکہ نہ دیدے
۱۸۱	رشتہ داری کے اصول مقررہ کے مطابق میراث تقسیم کی جائے	۱۵۹	پانچ چیزوں کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے
۱۸۲	حضرات انبیاء کرام علیہم السلام سے عہد لینا	۱۶۰	سورة السجدة
		۱۶۱	قرآن مجید حق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے
		۱۶۲	آسمان اور زمین اور کچھ ان کے درمیان ہے چھ دن میں

۲۲۰	متمنی کی سابقہ بیوی سے نکاح کرنے کا جواز	۱۸۱	غزوہٴ احزاب کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کی مدد
۲۲۱	فوائد ضروریہ	۱۸۲	غزوہٴ احزاب کا مفصل واقعہ
۲۲۳	محمد رسول اللہ ﷺ خاتم النبیین ہیں	۱۸۲	دشمنوں سے حفاظت کے لئے خندق کھودنا
۲۲۵	ختم نبوت کے منکر قرآن کے منکر ہیں	۱۸۳	دشمنوں کا خندق پار کرنے سے عاجز ہونا
۲۲۵	خاتم النبیین بھی قرأت متواترہ ہے	۱۸۴	بعض کافروں کا مقتول ہونا
۲۲۶	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ختم نبوت کے منافی نہیں	۱۸۴	جہاد کی مشغولیت میں بعض نمازوں کا قضا ہو جانا
۲۲۷	قادیانی زندیقوں کا جھوٹ	۱۸۵	رسول اللہ ﷺ کی دعاء
۲۲۸	ایمان والوں کو ذکر اللہ کی کثرت کرنے کا حکم	۱۸۵	دعاء کی قبولیت اور دشمنوں کی ہزیمت
۲۲۹	ذکر اللہ کے فضائل	۱۸۵	بعض ان واقعات کا تذکرہ جو خندق کھودتے وقت پیش آئے
۲۳۰	اللہ تعالیٰ ذکرین کو یاد فرماتا ہے	۱۸۵	سخت بھوک اور سردی کا مقابلہ
۲۳۲	رسول اللہ ﷺ کی صفات جلیلہ	۱۸۶	رسول اللہ ﷺ کی پیشین گوئی
۲۳۵	عدت کے بعض مسائل	۱۸۷	حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے ہاں ضیافت عامہ
۲۳۷	نکاح کے بعض احکام، رسول اللہ ﷺ کی بعض خصوصیات	۱۹۰	منافقوں کی بد عہدی اور شرارتیں
۲۳۱	ازواج مطہرات ﷺ کے بارے میں آپ کو اختیار ہے کہ جسے چاہیں اپنے پاس رکھیں اور جسے چاہیں دور کر دیں	۱۹۰	مؤمنین کے لئے رسول اللہ ﷺ کی ذات گرامی اُسوہ ہے
۲۳۳	اس کے بعد آپ کیلئے عورتیں حلال نہیں ہیں اور نہ آپ ان بیویوں کے بدلے دوسری عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں	۱۹۴	اہل ایمان نے اللہ سے سچا وعدہ کیا
۲۳۴	سرورِ دو عالم ﷺ کے لئے کثرتِ ازواج کی حکمت	۱۹۷	اہل کتاب کو غداری کی سزا مل گئی اور اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمادیا
۲۳۸	نزولِ آیتِ حجاب کا واقعہ	۲۰۴	ازواجِ مطہرات کو نصابِ ضروریہ
۲۵۰	عورتوں کو اپنے محرموں کے سامنے آنے کی اجازت ہے	۲۰۶	دوہرے عذاب و ثواب کا استحقاق
۲۵۱	اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رسول اللہ ﷺ پر صلوٰۃ بھیجتے ہیں اے مسلمانو! تم بھی نبی پر صلوٰۃ و سلام بھیجا کرو	۲۰۷	ازواجِ مطہرات کی فضیلت
۲۵۳	درود شریف کے فضائل	۲۰۷	نامحرموں سے بات کرنے کا طریقہ
۲۵۵	ضروری مسئلہ	۲۰۸	گھروں میں ٹھہرے رہنے کا حکم
۲۵۶	درود شریف پڑھنے کی حکمتیں	۲۱۳	مومن مردوں اور عورتوں کی صفات
۲۵۸	ایذا دینے والے اور تہمت لگانے والوں کا برا انجام	۲۱۶	زید بن حارثہ کا تعارف
		۲۱۷	زید بن حارثہ سے زینب بنت جحش کا نکاح اور طلاق
		۲۱۹	زینب بنت جحش کا رسول اللہ ﷺ کے نکاح میں آنا

۲۸۴	ہے نہ آسمان وزمین میں ان کا کوئی ساجھا	۲۶۰	بد زبانی اور بد گوئی پر وعید
۲۸۵	قیامت کے دن صحیح فیصلے ہونگے		ازواج مطہرات اور بنات طاہرات اور عام مؤمنات کو پردہ
۲۸۶	رسول اللہ ﷺ کی بعثت عامہ کا اعلان	۲۶۰	کا اہتمام کرنے کا حکم اور منافقین کے لئے وعید
	قیامت کا وقت مقرر ہے اس میں تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی ہے	۲۶۲	کافروں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے
۲۸۸	عذاب کی وجہ سے کافروں کی بد حالی		ایمان والوں کو خطاب کہ اُن لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ
۲۸۹	انفرادی اور اجتماعی طور پر غور و فکر کرنے کی دعوت	۲۶۳	جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایذا دی
۲۹۳	سورۃ فاطر	۲۶۵	اللہ اور رسول ﷺ کی اطاعت میں کامیابی ہے
۲۹۶	اللہ تعالیٰ خالق ارض و سما ہے ہر چیز پر قادر ہے		آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں نے بار امانت اٹھانے
۲۹۷	برے عمل کو اچھا سمجھنے والا اچھے عمل والے کے برابر نہیں ہو سکتا	۲۶۶	سے انکار کر دیا اور انسان نے اُسے اٹھالیا
۳۰۰	ساری عزت اللہ تعالیٰ ہی کیلئے ہے	۲۶۷	امانت کی تشریح اور توضیح و تفصیل
۳۰۲	سمندر کے سفر کے فوائد اور چاند سورج کی تسخیر کا بیان	۲۷۰	سورۃ سبا
	سب اللہ کے محتاج ہیں قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھائیگا	۲۷۰	اللہ تعالیٰ مستحق حمد ہے اُسے ہر چیز کا علم ہے
۳۰۴	بارش کے منافع		کافروں کی طرف سے وقوع قیامت کا انکار اور اُن کیلئے
	دوزخیوں کو نہ موت آئے گی نہ اُن کا عذاب ہلکا کیا جائے	۲۷۲	عذاب کی وعید
۳۱۱	گانہ اس میں سے کبھی نکلیں گے	۲۷۳	حضرت داؤد اور سلیمان علیہما السلام والے انعامات کا تذکرہ
۳۱۲	کفر کا وبال اہل کفر ہی پر پڑے گا	۲۷۴	پہاڑوں اور پرندوں کا تسبیح میں مشغول ہونا
	قریش مکہ نے قسم کھا کر کہا کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آ گیا تو ہم دوسروں سے بڑھ کر ہدایت والے ہونگے	۲۷۵	لوہے کو نرم فرمانا
	پھر جب ڈرانے والا آ گیا تو متکبر بن گئے اور حق سے منحرف ہو گئے	۲۷۵	ہوا کی تسخیر
۳۱۳	زمین میں چل پھر کر دیکھتے ہیں پھر بھی سابقہ امتوں کے انجام سے عبرت حاصل نہیں کرتے لوگوں کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مواخذہ فرماتا تو زمین کی پشت پر کسی کو کبھی نہ چھوڑتا	۲۷۶	تانے کا چشمہ بہا دینا
۳۱۵	سورۃ یٰس	۲۷۶	جنات کی تسخیر
۳۱۷	آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف	۲۷۶	محاریب اور تماثل کا تذکرہ
		۲۷۶	ادائیگی شکر کا حکم
		۲۷۷	شریعت محمدیہ میں تماثل اور تصاویر کا حرام ہونا
		۲۷۸	جنات غیب کو نہیں جانتے
			قوم سباء پر اللہ تعالیٰ کے انعامات، پھر ناشکری کی وجہ سے
		۲۸۰	نعمتوں کا مسلوب ہونا
			مشرکین نے جن کو شریک قرار دیا ہے نہ انہیں کچھ اختیار



۳۴۹	اتباع اور تابعین سب عذاب میں مشترک ہوں گے	۳۱۸	سے نازل کیا گیا ہے
۳۵۰	کافر و زناک عذاب میں ہونگے		ایک بستی میں پیامبروں کا پہنچنا اور بستی والوں کا معاندانہ
۳۵۱	ایک جنتی اور ایک دوزخی کا مکالمہ	۳۲۱	طریقہ پر گفتگو کرنا
۳۵۳	شجرۃ الزقوم کا تذکرہ جسے اہل جہنم کھائیں گے		مردہ زمین کو زندہ فرمانا اور اس میں سے کھیتیاں اور پھل
۳۵۴	اہل جہنم آباؤ اجداد کی تقلید کر کے گمراہ ہوئے	۳۲۹	پیدا فرمانا
	حضرت نوح علیہ السلام کا دعاء کرنا اور ان کی قوم کا ہلاک		رات دن اور شمس و قمر اللہ تعالیٰ کے مظاہر قدرت میں سے
۳۵۵	ہونا اور ان کی ذریت کا نجات پانا	۳۳۰	ہیں سورج کی رفتار میں مظاہر قدرت ہے
۳۵۶	کیا طوفان نوح سارے عالم کو محیط تھا؟	۳۳۱	سورج کا سجدہ کرنا
	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کو توحید کی دعوت دینا اور بتوں	۳۳۱	منازل قمر کا تذکرہ
	کو توڑ دینا پھر آگ میں ڈالا جانا اور صحیح سالم محفوظ رہ جانا	۳۳۲	سورج چاند کو نہیں پکڑ سکتا
	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے علاقہ سے ہجرت کرنا پھر بنی کے	۳۳۲	کشتی اللہ کی نعمت ہے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے
	ذبح کرنے کا حکم ملنا اور فرمانبرداری میں کامیاب ہونا	۳۳۳	اعراض کرنے والوں کی محرومی
۳۶۲	نیک نیتی پر ثواب	۳۳۳	منکرین بعثت کا قول اور ان کی تردید
۳۶۳	امت محمدیہ کے لئے قربانی کا حکم	۳۳۴	نفع صور کے وقت حیرانی اور پریشانی
۳۶۳	حضرت اسحق علیہ السلام کی بشارت	۳۳۵	اہل جنت کی نعمتوں کا تذکرہ
	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کون سا فرزند ذبح تھا	۳۳۶	مجرمین سے خطاب اور ان کے عذاب کا تذکرہ
۳۶۵	حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام کا تذکرہ	۳۳۷	انسان قوت کے بعد دوبارہ ضعف کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے
۳۶۶	حضرت الیاس علیہ السلام کا اپنی قوم کو توحید کی دعوت دینا	۳۳۸	شاعری رسول اللہ ﷺ کی شان کے لائق نہیں
۳۶۸	حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ اور قوم کا ہلاک ہونا	۳۳۹	جانوروں میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں
	حضرت یونس علیہ السلام کا کشتی سے سمندر میں کود پڑنا	۳۴۱	انسان قیامت کا منکر ہے وہ اپنی خلقت کو بھول گیا
۳۷۰	ایک بیلدار درخت کا سایہ دینا	۳۴۱	اللہ پاک قادر ہے مطلق ہے
۳۷۰	امتوں کی تعداد	۳۴۳	سورۃ الصافات
۳۷۲	مشرکین کی تردید جو اللہ کے لئے اولاد تجویز کرتے تھے		صرف اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے آسمان و زمین اور مشارق و
۳۷۳	فرشتوں کی بعض صفات کا تذکرہ	۳۴۳	مغارب کا رب ہے
۳۷۴	پیغمبروں کی مدد کی جائے گی اللہ کے لشکر غالب رہیں گے	۳۴۴	ستارے آسمان دنیا کے لئے زینت ہیں
۳۷۵	انخلاص اور تقویٰ کی ضرورت		معجزات کا استہزاء کرنے والوں اور وقوع قیامت کے
	اللہ رب العزت ہے اُن باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ	۳۴۶	منکرین کی تردید
۳۷۶	بیان کرتے ہیں		قیامت کے دن مجرمین کا ایک دوسرے پر بات ڈالنا
۳۷۶	سب تعریف اللہ ہی کے لئے ہے	۳۴۹	مجرمین کا اقرار کہ ہم عذاب کے مستحق ہیں

## فہرست عنوانات جلد ۸

۳۷۹	سورۃ ص	۲۰۱	تکمیل تذکرہ حضرت ایوب علیہ السلام
۳۸۰	مکرین توحید و مکذبین رسالت کیلئے وعید	۲۰۲	حضرت ابراہیمؑ، حضرت اسحقؑ، حضرت یعقوب علیہم السلام کا تذکرہ
۳۸۳	گزشتہ ہلاک شدہ اقوام کا تذکرہ	۲۰۳	حضرت اسماعیلؑ، حضرت اسماعیلؑ اور ذوالکفل علیہم السلام کا تذکرہ
۳۸۳	ذوالاوتاد کا معنی	۲۰۳	محقق حضرات کی نعمتوں کا ذکر
۳۸۵	حضرت رسول اکرم ﷺ کو تسلی	۲۰۴	سرکشوں کا برا انجام دوزخ میں ایک دوسرے سے بیزار ہونا
۳۸۶	حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں دو شخصوں کا حاضر ہو کر فیصلہ چاہنا	۲۰۵	اہل دوزخ کو حیرت ہوگی جب اہل ایمان کو اپنے ساتھ نہ دیکھیں گے
۳۸۷	حضرت داؤد کا بتلائے امتحان ہونا پھر استغفار کرنا	۲۰۶	صرف اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے وہ واحد و قہار ہے
۳۸۸	شرکاء مالیات کا عام طریقہ	۲۰۷	ابلیس کی حکم عدولی اور سرتابی
۳۸۹	حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک دُعاء	۲۱۰	ابلیس اور اس کے قبیحین سے دوزخ کو بھر دیا جائے گا
۳۸۹	سورۃ ص کا سجدہ	۲۱۰	دعوت حق پر کسی معاوضہ کا مطالبہ نہیں
۳۸۹	ایک مشہور قصہ کی تردید	۲۱۲	سورۃ الزمر
۳۹۰	حضرت داؤد علیہ السلام کی خلافت کا اعلان	۲۱۳	اللہ واحد ہے قہار ہے عزیز ہے غفار ہے
۳۹۰	اتباع ہوئی کی مذمت	۲۱۵	اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے کفر سے راضی نہیں
۳۹۱	خواہشوں کا اتباع گمراہ کر دیتا ہے	۲۱۶	تکلیف پہنچتی ہے تو انسان اپنے رب کو توجہ کے ساتھ پکارتا ہے
۳۹۲	گمراہ لوگ عذاب شدید کے مستحق ہیں	۲۱۷	صالحین کی صفات
۳۹۲	مفسدین اور اعمال صالحہ والے برابر نہیں ہو سکتے!	۲۱۷	نماز تہجد کی فضیلت
۳۹۳	حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ	۲۱۹	اللہ سے ڈرنے اور خالص اس کی عبادت کرنے کا حکم
۳۹۳	گھوڑوں کا پیش کیا جانا آخر میں متنبہ ہونا	۲۲۳	اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لئے جس کا سینہ کھول دیا وہ صاحب نور ہے
۳۹۵	حضرت سلیمان علیہ السلام کا ابتلاء اور دُعاء شیاطین کا مسخر ہونا کاموں میں لگنا اور زنجیروں میں باندھا جانا	۲۲۳	شرح صدر کی دو نشانیاں
۳۹۷	حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری اور دُعاء اور شفا یابی کا تذکرہ	۲۲۳	ذکر اللہ کی فضیلت اور اہمیت
۳۹۹	فائدہ دُعاء کی قبولیت اور برکات	۲۲۵	مُتَشَابِهَاتِ مَنَافِی کی تشریح
۴۰۰	سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر کے موافق ہوتا ہے		

ذکرین کی صفات	۴۲۵	اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو اور دلوں کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے	۴۲۶
مشرک و موحّد کی مثال	۴۲۶	کیا زمین میں چل پھر کر سابقہ امتوں کو نہیں دیکھا وہ قوت میں بہت بڑھے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی وجہ سے ان کی گرفت فرمالی	۴۲۷
قیامت کے دن ادعاء اور انحصام	۴۲۷	ہم نے موسیٰ کو فرعون ہامان قارون کی طرف بھیجا انہوں نے ان کو ساحر اور کذاب بتایا	۴۲۸
جھوٹوں سے بڑھ کر ظالم کون ہے	۴۲۸	آل فرعون میں سے ایک مومن بندہ کی حق گوئی	۴۲۹
بندہ کو اللہ کافی ہے اللہ کے سوا تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا	۴۳۰	بندہ مومن کا سابقہ امتوں کی بربادی کو یاد دلانا	۴۳۱
اللہ تعالیٰ جانوں کو قبض فرماتا ہے سفارش کے بارے میں	۴۳۱	مسرف و مرتاب کا گمراہ ہونا	۴۳۲
صرف اسی کو اختیار ہے	۴۳۲	فرعون کا اوپر چڑھنے کیلئے اونچا محل بنانے کا حکم دینا	۴۳۳
رسول اللہ ﷺ کو ایک خاص دعاء کی تلقین	۴۳۳	مرد مومن کا فائدہ دنیا اور بقاء آخرت کی طرف متوجہ کرنا	۴۳۴
اللہ تعالیٰ کی رحمت عامہ کا اعلان انابت الی اللہ کا حکم	۴۳۴	مرد مومن کا قوم کی شرارتوں سے محفوظ ہو جانا اور قوم فرعون کا برباد ہونا	۴۳۵
مکذبین اور متکبرین کی بد حالی	۴۳۵	عذاب قبر کا تذکرہ	۴۳۶
آپ فرما دیجئے کہ اے جاہلوں میں اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہیں کر سکتا	۴۳۶	دوزخیوں کا آپس میں جھگڑنا	۴۳۷
وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ	۴۳۷	دوخیوں کا فرشتوں سے تخفیف عذاب کے لئے عرض و معروض کرنا	۴۳۸
قیامت کے دن صور پھونکنے جانے کا تذکرہ	۴۳۸	اللہ تعالیٰ کا اپنے رسولوں اور اہل ایمان سے نصرت کا وعدہ فرمانا	۴۳۹
إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ کا استثناء	۴۳۹	صبر کرنے اور استغفار کرنے اور تسبیح و تحمید میں مشغول رہنے کا حکم	۴۴۰
اہل کفر اور اہل ایمان کی جماعتوں کا گروہ	۴۴۰	اللہ کی آیات میں جھگڑا کرنے والوں کے سینے میں کبر ہے	۴۴۱
سورۃ المؤمن	۴۴۱	بیٹا اور بیٹا اور منین صالحین اور برے لوگ برابر نہیں ہو سکتے	۴۴۲
اللہ تعالیٰ گناہ بخشے والا ہے توبہ قبول کر نیوالا ہے	۴۴۲	اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعاء کرنے کا حکم اور قبول فرمانے کا وعدہ	۴۴۳
کافر لوگ اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں	۴۴۳	دعاء کی ضرورت اور فضیلت	۴۴۴
حاملین عرش کا مؤمنین کے لئے دعاء کرنا	۴۴۴	اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے	۴۴۵
کافروں کا اقرار جرم کرنا	۴۴۵		
اللہ تعالیٰ رفیع الدرجات ہے ذوالعرش ہے جس کی طرف چاہتا ہے وحی بھیجتا ہے	۴۴۶		
انہیں قیامت کے دن سے ڈرایئے جس دن دل گھٹن میں ہو گئے ظالموں کے لئے کوئی دوست یا سفارش کرنے والا نہ ہوگا	۴۴۷		



۴۷۴	میں تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کر سکتا	۴۷۴	رات اور دن چاند اور سورج اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں
۴۷۴	انسان کی تخلیق اور اس کی زندگی کے مختلف اطوار و ادوار	۴۷۶	ان کے پیدا کرنے والے کو سجدہ کرو
۴۷۶	دوزخیوں کا طوق اور زنجیروں میں گھسیٹا جانا ہے	۴۷۷	زمین کا خشک ہو کر زندہ ہو جانا بھی اللہ کی نشانی ہے
۴۷۷	ہم نے آپ سے بعض رسولوں کا تذکرہ کر دیا ہے اور بعض کا نہیں کیا	۴۷۸	محمد بن ہم پر پوشیدہ نہیں ہیں جو چاہو کر لو اللہ دیکھتا ہے!
۴۷۹	چوپائیوں اور کشتیوں کی نعمت کا تذکرہ	۴۷۹	رسول اللہ ﷺ کو تسلی
۴۷۹	گزشتہ قوموں کی بربادی کا تذکرہ	۴۷۹	مکذبین کا عناد
۴۸۰	سورۃ حمۃ السجدة	۵۰۰	قرآن مومنین کے لئے ہدایت ہے اور شفا ہے
۴۸۰	قرآن کی آیات مفصل ہیں وہ بشیر ہے اور نذیر ہے مگر	۵۰۰	يُنَادُونَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ کی تفسیر
۴۸۰	ین اس سے اعراض کرتے ہیں	۵۰۱	ہر شخص کا نیک عمل اس کے لئے مفید ہے
۴۸۱	آپ فرمادیجئے میں تمہارا ہی جیسا بشر ہوں	۵۰۲	قیامت کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے
۴۸۲	زمین و آسمان کی تخلیق کا تذکرہ	۵۰۳	انسان کا حب دنیا اور ناشکری کا مزاج
۴۸۲	قریش کے انکار و عناد پر رسول اللہ ﷺ کا آیات بالا پڑھ کر سننا	۵۰۴	منکرین کو قرآن حکیم کے بارے میں غور و فکر کی دعوت
۴۸۳	حق سے اعراض کر نیوالوں کو تنبیہ	۵۰۵	سورۃ الشوریٰ
۴۸۶	اللہ کے دشمنوں کا دوزخ کی طرف جمع کیا جانا ان کے	۵۰۵	اللہ تعالیٰ عزیز ہے حکیم ہے علیٰ ہے عظیم ہے غفور ہے رحیم ہے
۴۸۸	اعضاء کا ان کے خلاف گواہی دینا	۵۰۷	مشرکین کی تردید
۴۹۰	کافروں کو ان کے گمان بند نے ہلاک کیا	۵۰۸	تم جس چیز میں اختلاف کرو اس کا فیصلہ اللہ ہی کی طرف ہے
۴۹۱	مشرکین اور کافرین پر برے ساتھی مسلط کر دیئے گئے	۵۰۸	لَيْسَ كَيْفُ ثَلَاثَةٍ شَيْءٍ
۴۹۲	کافروں کا قرآن سننے سے روکنا	۵۰۹	اللہ ہی کے لئے آسمانوں اور زمین کی کھجیاں ہیں
۴۹۳	گمراہ لوگ درخواست کریں گے کہ ہمارے بڑوں کو سامنے لایا جائے	۵۱۰	اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے وہی دین مشروع فرمایا ہے جس کی وصیت فرمائی نوح اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کو
۴۹۳	اہل استقامت کو بشارت	۵۱۱	مشرکین کو آپ کی دعوت ناگوار ہے
۴۹۴	فرشتوں کا اہل ایمان سے خطاب	۵۱۱	اللہ جسے چاہتا اپنا بنالیتا ہے
۴۹۴	غفور رحیم کی طرف سے مہمانی	۵۱۱	علم آنے کے بعد تو لوگ متفرق ہوئے
۴۹۵	داعی الی اللہ کی فضیلت	۵۱۲	استقامت اور عدل کا حکم کافروں سے برأت کا اعلان
		۵۱۳	معاندین کی دلیل باطل ہے
		۵۱۳	اللہ تعالیٰ نے کتاب کو میزان کو نازل فرمایا

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شرک سے برأت کا اعلان فرمانا ۵۳۶  
 مکہ والوں کا جاہلانہ اعتراض کہ مکہ یا طائف کے بڑے  
 لوگوں میں سے نبی کیوں نہ آیا ۵۳۷  
 جو حُجُن کے ذکر سے غافل ہو اس پر شیطان مسلط کر دیا  
 جاتا ہے ۵۴۰  
 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قوم فرعون کے پاس پہنچنا ۵۴۳  
 قریش مکہ کی ایک جاہلانہ بات کی تردید ۵۴۷  
 قیامت کے دن دنیا والے دوست آپس میں دشمن  
 ہوں گے ۵۵۱  
 مجرمین ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے ان کا عذاب ہلکا  
 نہ کیا جائے گا ۵۵۲  
 اللہ جل شانہ کی صفات جلیلہ کا بیان ۵۵۵  
 سورۃ اللہ خان ۵۵۷  
 قرآن مجید مبارک رات میں نازل کیا گیا ۵۵۷  
 اس دن کا انتظار کیجئے جبکہ آسمان کی طرف سے لوگوں پر  
 دھواں چھا جائے گا ۵۵۹  
 دھان سے کیا مراد ہے؟ ۵۵۹  
 قوم فرعون کے پاس اللہ تعالیٰ کا رسول آنا ۵۶۱  
 مؤمن کی موت پر آسمان وزمین کا رونا ۵۶۲  
 بنی اسرائیل پر انعام اور امتحان ۵۶۲  
 منکیرین قیامت کی کٹ چمتی ۵۶۳  
 شیخ کون تھے؟ ۵۶۳  
 قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا ۵۶۵  
 دوزخیوں کے لئے طرح طرح کا عذاب ہے ۵۶۶  
 دنیا کی بڑائی کا انجام ۵۶۷  
 متقیوں کے انعامات باغ اور چشمے ۵۶۸  
 ہم نے قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا ہے ۵۶۹

عجب نہیں کہ قیامت قریب ہو ۵۱۴  
 اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے ۵۱۴  
 طالب آخرت کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اضافہ ہوگا ۵۱۵  
 قیامت کے دن ظالم لوگ اپنے اعمال بد کی وجہ سے ڈر  
 رہے ہونگے ۵۱۶  
 دعوت و تبلیغ کے عوض تم سے کچھ طلب نہیں کرتا ۵۱۷  
 قرآن کو افتراء علی اللہ بتانے والوں کی تردید ۵۱۷  
 اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے اور تمہارے اعمال کو جانتا ہے ۵۱۸  
 آسمان وزمین اور چوپایوں کی تخلیق میں اللہ کی نشانیاں ہیں ۵۱۹  
 جو بھی کوئی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے تمہارے اعمال کی  
 وجہ سے ہے ۵۲۰  
 جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے دنیاوی زندگی کا سامان ہے ۵۲۲  
 برائی کا بدلہ برائی کے برابر لے سکتے ہیں معاف کرنے  
 اور صلح کرنے کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے ۵۲۳  
 قیامت کے دن ظالموں کی بد حالی ہلاکت اور زلزلت کا سامنا ۵۲۴  
 قیامت آنے سے پہلے اپنے رب کا حکم مانو ۵۲۵  
 انسان کا خاص حزان رحمت کے وقت خوش اور تکلیف میں ناشکرا! ۵۲۶  
 اللہ تعالیٰ کی شان خالقیت کا بیان ۵۲۶  
 بندے اللہ تعالیٰ سے کیسے ہمکلام ہو سکتے ہیں؟ ۵۲۷  
 سورۃ التہخوف ۵۲۹  
 قرآن کتاب بین ہے عربی میں ہے نصیحت ہے ۵۲۹  
 آسمان وزمین کی تخلیق ۵۳۰  
 سوار ہونے کی دعاء ۵۳۱  
 سَخَّرْنَا کی تشریح ۵۳۲  
 اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد تجویز کرنے والوں کی تردید ۵۳۳  
 مشرکین کی ایک جاہلانہ بات کی تردید ۵۳۴

۵۹۲	والدین کے بارے میں وصیت	۵۷۹	سورۃ الجاثیہ
۵۹۳	فائدہ اولیٰ	۵۸۰	یہ کتاب عزیز و حکیم کی طرف سے ہے
۵۹۴	فائدہ ثانیہ	۵۸۱	ہر جھوٹے گناہگار اور متکبر اور منکر کے لئے عذاب الیم ہے
۵۹۴	فائدہ ثالثہ	تسخیر بحر اور تسخیر مانی السموات والارض میں فکر کرنیوالوں	۵۸۲
	کافروں سے کہا جائے گا کہ تم نے اپنی لذت کی چیزیں دنیا		کے لئے نشانیاں ہیں
	میں ختم کر دیں آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا ۵۹۶	۵۸۳	آپ اہل ایمان سے فرمادیں کہ منکرین سے درگزر کریں
	قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کی بعثت قوم کا	۵۸۴	بنی اسرائیل پر طرح طرح کے انعامات کتاب حکم
۵۹۸	انکار اور تکذیب پھر ہلاکت اور تعذیب	۵۸۵	اور نبوت سے سرفراز فرمانا
	جنات کا رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہونا پھر	۵۸۵	ہم نے آپکو مستقل شریعت دی ہے کفار آپ کو کچھ نفع
۶۰۱	واپس جا کر اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دینا!	۵۸۵	نہیں پہنچا سکتے
۶۰۳	رسول اللہ ﷺ کو تسلی اور صبر کی تلقین	۵۸۶	کیا گناہگار یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں اہل ایمان اور اعمال
۶۰۵	سورۃ محمد	۵۸۶	صالحہ والوں کے برابر کر دیں گے
۶۰۵	اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنے والوں کی بربادی	۵۸۶	اے مخاطب کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی
	جہاد و قتال کی ترغیب قیدیوں کے احکام مجاہدین	۵۸۸	خواہش کو اپنا معبود بنا لیا اور اللہ نے اسے علم کے باوجود
۶۰۷	اور مقتولین کی فضیلت	۵۸۸	گمراہ کر دیا
۶۰۹	دنیا میں چل پھر کر عبرت حاصل کریں	۵۸۸	اتباعِ حق کے بارے میں ضروری تنبیہ
۶۰۹	اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا مولیٰ ہے	۵۸۰	دہریوں کی جاہلانہ باتیں اور ان سے ضروری سوال
۶۰۹	اہل ایمان کا انعام اور کفار کی بد حالی	۵۸۱	منکرین قیامت کی حجت بازی
۶۱۰	اہل مکہ کو تنبیہ	۵۸۲	قیامت کے دن اہل باطل خسارہ میں ہوں گے ہر امت
۶۱۰	اہل ایمان اور اہل کفر برابر نہیں ہو سکتے	۵۸۲	گھنٹوں کے بل گری ہوئی ہوگی
۶۱۱	اہل جنت کے مشروبات طیبہ	۵۸۳	اللہ ہی کے لئے حمد ہے اور اسی کے لئے کبریا ہے
۶۱۳	منافقین کی بعض حرکتیں	۵۸۵	سورۃ الاحقاف
۶۱۳	توحید پر جبر رہنے اور استغفار کرنے کی تلقین	۵۸۵	مشرکین کے باطل معبودوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا
۶۱۳	مُتَقَلِّبُکُمْ وَ مَمْلُؤُکُمْ کی تفسیر	۵۸۶	منکرین قرآن کی ایک جاہلانہ بات
۶۱۵	منافقین کی بد حالی اور نافرمانی		قریش مکہ کی اس بات کا جواب کہ آپ نے قرآن اپنے
۶۱۶	تدبیر قرآن کی اہمیت اور ضرورت	۵۸۷	پاس سے بنالیا ہے
۶۱۷	مرتدین کے لئے شیطان کی تسویل	۵۹۰	کافروں کی کٹ چھٹی کی تردید

حدیبیہ کی شرکت سے ٹھکر جانے والے دیہاتیوں سے مزید خطاب ۶۴۰  
 معذوروں سے کوئی مواخذہ نہیں؛ فرمانبرداروں کے لئے  
 جنت اور روگردانی کرنے والوں کے لئے دردناک  
 عذاب ہے ۶۴۱  
 بیعت رضوان والوں کی فضیلت ان سے فتح و نصرت  
 اور اموال غنیمت کا وعدہ ۶۴۲  
 اللہ تعالیٰ نے مؤمنوں اور کافروں کو ایک دوسرے پر حملہ  
 کرنے سے باز رکھا ۶۴۵  
 کافروں نے مسلمانوں کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکا  
 ان پر رحمت جاہلیہ سوار ہو گئی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر سکینہ  
 نازل فرمائی اور انہیں تقویٰ کی بات پر جمادیا! ۶۴۶  
 اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا اس نے آپ کو  
 ہدایت اور حق کے ساتھ بھیجا ۶۴۹  
 حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی فضیلت اور منقبت ۶۵۰  
 ۶۵۳ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
 رسول اللہ ﷺ کی عظمت اور خدمت عالیٰ میں حاضری  
 کے احکام و آداب کی تلقین! ۶۵۴  
 کوئی فاسق خبر دے تو اچھی طرح تحقیق کر لویا نہ ہو کہ  
 نادانی کی وجہ سے کسی قوم کو ضرر پہنچا دو ۶۵۷  
 اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و انعام سے تمہارے دلوں میں ایمان کو  
 مزین فرمادیا اور کفر و فساد اور عصیان کو مکروہ بنادیا ۶۵۸  
 مؤمنین کی دو جماعتوں میں قتال ہو تو انصاف کے ساتھ صلح  
 کرادو سب مؤمن آپس میں بھائی بھائی ہیں ۶۵۹  
 باہمی مل کر زندگی گزارنے کے چند احکام ۶۶۲  
 محض زبانی اسلام کا دعویٰ کرنے والوں کو تنبیہ ۶۶۹

موت کے وقت کافر کی مار پیٹ ۶۱۸  
 منافقین کے دلوں میں مرض ہے ۶۱۹  
 کافر لوگ اللہ تعالیٰ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے ۶۲۰  
 نفلی نماز روزہ فاسد کرنے کے بعد قضاء واجب ہونا ۶۲۱  
 کمزور نہ ہو اور دشمنوں کو صلح کی دعوت نہ دو ۶۲۱  
 تم ہی بلند رہو گے اگر مؤمن ہو ۶۲۲  
 دنیاوی زندگی اہل ولع ہے ۶۲۳  
 اگر تم دین سے پھر جاؤ تو اللہ دوسری قوم کو لے آئے گا ۶۲۴  
 عجمی اقوام کی دینی خدمات ۶۲۴  
 سورۃ الفتح ۶۲۶  
 فتح مبین کا تذکرہ نصر عزیز اور غفران عظیم کا وعدہ ۶۲۶  
 صلح حدیبیہ کا مفصل واقعہ ۶۲۷  
 حضرات صحابہ کی محبت اور جانثاری ۶۲۹  
 بیعت رضوان کا واقعہ ۶۲۹  
 صلح حدیبیہ کا متن اور مندرجہ شرائط ۶۳۰  
 حضرت عمرؓ کا تردد اور سوال و جواب ۶۳۱  
 حلق رؤس اور ذبح ہدایا ۶۳۲  
 حضرت ابوبصیر اور ان کے ساتھیوں کا واقعہ ۶۳۲  
 اہل ایمان پر انعام کا اعلان ۶۳۳  
 رسول اللہ ﷺ شاہد اور مبشر اور نذیر ہیں ۶۳۵  
 رسول اللہ ﷺ سے بیعت کرنا اللہ ہی سے بیعت کرنا ہے ۶۳۵  
 آپ ﷺ کے ساتھ سفر میں نہ جانے والے دیہاتیوں کی  
 بدگمانی اور حیلہ بازی کا تذکرہ ۶۳۷  
 جو لوگ حدیبیہ والے سفر میں ساتھ نہ گئے تھے ان کی مزید  
 بد حالی کا بیان! ۶۳۹

سُورَةُ الْقَصَصِ مَكِّيَّةٌ مِنْ ثَمَانِ آيَاتٍ قِسْمٌ رُكُوعِيٌّ

سورہ قصص مکی ہے اور اسکی اٹھاسی آیات اور نو رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے﴾

طَسْمَ ۝ تِلْكَ آيَةُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ۝ نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَأِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ

طَسْمَ یہ کتاب مبین کی آیات ہیں ہم آپ کو موسیٰ اور فرعون کی بعض خبریں

بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيْعًا

حق کے ساتھ سناتے ہیں اُن لوگوں کے لئے جو ایمان لاتے ہیں۔ بلاشبہ فرعون زمین میں چڑھ گیا تھا۔ اور اس نے زمین والوں کی

يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُلْبِسُهُمْ آبَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ

کئی قسمیں بنا رکھی تھیں۔ ان میں ایک جماعت کو کمزور کر رکھا تھا۔ انکے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور انکی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ بلاشبہ

الْمُفْسِدِينَ ۝ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً

وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ اور ہم نے چاہا کہ جن لوگوں کو زمین میں کمزور کیا ہوا ہے ان پر احسان کریں اور ان کو پیشوا بنادیں

وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ۝ وَنُكِّنْ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا

اور انہیں وارث بنادیں اور زمین میں انہیں حکومت دیدیں۔ اور فرعون اور ہامان دونوں کے لشکروں کو ان مستضعفین کی جانب سے

مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ ۝

وہ واقعہ دکھلائیں جس سے وہ اپنا بچاؤ کرتے تھے

## فرعون کی سرکشی اور بنی اسرائیل پر مظالم کا تذکرہ

**تفسیر:** ان آیات میں اول تو یہ فرمایا کہ یہ کتاب مبین کی آیات ہیں پھر فرمایا کہ آپ کو موسیٰ اور فرعون کی بعض خبروں کو حق کے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھیک آپ کو سناتے ہیں آپ کے واسطے سے یہ خبریں اہل ایمان کو پہنچیں گی اور وہ ان سے عبرت حاصل کریں گے۔

پھر فرمایا کہ فرعون زبانی و سرزمین مصر میں حکومت کرتا تھا اور اقتدار کے اعتبار سے بڑھ چڑھ گیا تھا۔ اس نے وہاں کے رہنے والوں کو کئی جراثیموں میں تقسیم کر رکھا تھا انہیں جماعتوں میں سے ایک جماعت بنی اسرائیل کی تھی انکو اس نے ضعیف بنا رکھا تھا اور انکے ضعف اور مجبوری کا یہ عالم تھا کہ انکے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور انکی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا



تھا۔ اتنی مظلومیت ہوتے ہوئے بنی اسرائیل اف نہیں کر سکتے تھے سورۃ بقرہ کی تفسیر میں لکھا جا چکا ہے کہ بنجیوں نے فرعون کو خبر دی تھی کہ تیری حکومت کا زوال بنی اسرائیل کے ایک لڑکے کے ہاتھوں ہوگا۔ لہذا اس نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہوتا تھا اسے ذبح کر دیتا تھا اور لڑکیوں سے کیونکہ کوئی خطرہ نہیں تھا اس لئے انہیں زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ إِنَّكَ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (بلاشبہ وہ فساد کر نیوالوں میں سے تھا) وَنُفِذَ أَنْ لَقْنِي (الائتین) سارے بندے اللہ تعالیٰ ہی کے مخلوق ہیں۔ سب کی عزت اور ذلت بلندی اور پستی اسی کے قبضہ قدرت میں ہے اس کی حکمت کا تقاضا ہوا کہ جو لوگ سرزمین مصر میں ضعیف اور ذلیل بنائے ہوئے ہیں ان پر احسان فرمائے اور انہیں انہی نسلوں کے لئے پیشوا بنادے اور انہیں زمین میں حکومت بھی عطا فرمائے۔ اور فرعون اس کا وزیر ہامان اور ان دونوں کے لشکر والے جن خطرات کا ان ضعیف لوگوں کی طرف سے خوف رکھتے تھے وہ خطرات واقعہ بن کر ان کے سامنے آ جائیں چنانچہ فرعون اور اس کا لشکر غرق ہوئے اور ہلاکت اور زوال سلطنت کا جو انہیں اندیشہ تھا کہ بنی اسرائیل اس کا ذریعہ بن جائیں آخر وہ واقعہ کی صورت سامنے آ گیا اور بنی اسرائیل ذریعہ قتل کر کے جو اس کی پیش بندی کی تھی اس کا اُسے کچھ فائدہ نہ پہنچا۔

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا اخْضَعَتْ عَلَيْهِ فَلَقْنِيهِ فِي اللَّيْلِ وَلَا تَخَافِي

اور ہم نے موسیٰ کی والدہ کے دل میں ڈالا کہ تم ان کو دودھ پلاؤ۔ پھر جب تمہیں اس کی جان کا خطرہ ہو تو اسے سمندر میں ڈال دینا

وَلَا تَحْزَنِي ۚ إِنَّا رَأَوْنَاهُ إِلَيْكَ ۖ وَجَاعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۖ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ

اور نہ ڈرنا نہ غم کرنا بلاشبہ ہم اُسے تیری طرف واپس کر دیں گے اور اسے پیغمبروں میں سے بنا دیں گے سوائے آل فرعون نے

لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ۚ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ ۖ

اٹھالیا تاکہ ان کے لئے دشمن بن جائے اور غم کا باعث بنے۔ بلاشبہ فرعون اور ہامان اور اس کا لشکر خطا کرنے والوں میں سے تھے

وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرْتُ عَيْنِي ۖ وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ ۖ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا

اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ میرے اور تیرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اسے قتل نہ کرو کچھ بعد نہیں کہ یہ ہمیں نفع پہنچا دے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنالیں۔

وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۖ وَاصْبِرْ فَوَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فِرْعَاوْنُ كَادَتْ لِتَبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ

اور ان کو خبر نہ تھی اور موسیٰ کی ماں کا دل بیقرار ہو گیا قریب تھا کہ وہ اس کا حال ظاہر کر دیتی اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے

رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَقَالَتْ لِاخْتِهِ قُصِيْهِ قُبُصَرْتُ بِهِ عَنْ

تاکہ وہ یقین کر نیوالوں میں سے رہے اور موسیٰ کی والدہ نے اسکی بہن سے کہا کہ تو اسکے پیچھے چلی جا۔ سو اس نے اسے دور سے

جَنِبَ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۖ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ

دیکھ لیا اور انہیں خبر بھی نہ ہوئی اور ہم نے پہلے ہی سے موسیٰ پر دودھ پلانے والیوں پر بندش کر رکھی تھی۔ موسیٰ کی بہن بولی کیا میں تمہیں ایسے گھرانے کا

عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ ۖ فَرُدُّهُ إِلَىٰ أَقْبِهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا

پتہ بتا دوں جو تمہارے لئے اس کی پرورش کریں اور وہ اس کے خیر خواہ بھی ہوں۔ سو ہم نے موسیٰ کو اسکی والدہ کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں

وَلَا تَحْزَنْ وَلَا تَعْلَمْ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝

اور غمگین نہ ہو اور تا کہ وہ اس بات کو جان لے کہ بلاشبہ اللہ کا وعدہ حق ہے لیکن ان میں سے بہت سے لوگ نہیں جانتے

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا صندوق میں رکھ کر انہیں سمندر میں ڈال دینا اور فرعون کے گھر والوں کا اُن کو اٹھا لینا پھر فرعون کے محل میں پرورش پانا

**تفسیر:** فرعون یہ سن کر کہ میری سلطنت کا زوال بنی اسرائیل کے لڑکے کے ہاتھ ہوگا اس کے توڑ میں لگ گیا اور اس کے نزدیک اس کا توڑ یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہوا اسے قتل کر دیا جائے چنانچہ اس کی حکومت کے جاسوس بنی اسرائیل کے رہنے کی جگہوں میں گھومتے پھرتے تھے اور بنی اسرائیل کے جس گھر میں کسی لڑکے کے پیدا ہونے کی خبر ملتی تھی اسے ماں باپ سے چھین کر لے جاتے تھے اور ذبح کر ڈالتے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو انکی والدہ اپنے بچہ کی حفاظت کے بارے میں فکر مند ہوئیں اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کے دل میں ڈالا کہ تم بچہ کو دودھ پلاتی رہو پھر جب تمہیں جاسوسوں کا خطرہ ہو تو اس بچہ کو تابوت میں رکھ کر دریا میں ڈال دینا اور اسکی ہلاکت کا خوف نہ کرنا اور نہ اسکی جدائی سے رنجیدہ ہونا ہم اسے تمہاری طرف واپس لوٹا دیں گے اور یہی نہیں کہ تمہارے پاس واپس پہنچ کر وہ دوسرے انسانوں کی طرح ایک عام انسان ہوگا بلکہ ہم اسے رسالت کا مرتبہ دیں گے۔ اور اسے اپنے پیغمبروں میں سے بنادیں گے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ تعالیٰ کے وعدہ پر یقین کر کے بچہ کو دریا میں ڈال دیا دریا کے کنارے کنارے تابوت بہ کر جا رہا تھا۔ فرعون کے گھر والوں کی نظر پڑی تو اس کو منگا کر دیکھا اس میں ایک بچہ نکلا اور یہ بچہ بڑا پیارا معلوم ہوا۔ جو دیکھتا گود میں لینے کی کوشش کرتا۔ لیکن فرعون کو یہ کھٹک ہوئی کہ کہیں یہ بنی اسرائیل کا وہی لڑکا نہ ہو جس کے بارے میں نجومیوں نے بتایا ہے کہ وہ میری سلطنت کے زوال کا باعث ہوگا۔ لہذا اس نے قتل کرنے کا ارادہ کیا کہا جاتا ہے فرعون لا ولد تھا۔ جب فرعون کی بیوی نے محسوس کیا کہ وہ اس بچہ کو قتل کرنے کے درپے ہے تو کہنے لگی کہ یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اس کو دیکھ کر جی خوش ہوا کرے گا اسے قتل نہ کرو ممکن ہے کہ بڑا ہو کر ہمیں فائدہ پہنچا دے یا ہم اس کو بیٹا ہی بنالیں گے۔ فرعون کی سمجھ میں بات آ گئی اور طے ہوا کہ اس کے لئے کوئی دودھ پلانیوالی اور پرورش کرنیوالی تلاش کی جائے۔ جتنی بھی دایاں دودھ پلانیوالی عورتیں بلائی گئیں (بوتل سے دودھ پلانے کا رواج نہ تھا) حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ پینا گوارا نہ کیا۔ اب تو بڑی مشکل پیش آئی اور فکر مند ہوئے کہ اس کی پرورش کس طرح ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل سے تو باز آ گئے اور اپنے مشوروں میں اپنی حکومت کے اعتبار سے چوک گئے انہیں پتہ نہ تھا کہ جس کی پرورش کے مشورے کر رہے ہیں یہی وہ بچہ ہے جس کے ہاتھوں ہماری سلطنت برباد ہوگی۔ اِنَّهُمْ كَانُوا

خَاطِبَيْنِ کی ایک تفسیر یہ ہے کہ وہ لوگ نافرمان تھے اس نافرمانی کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں تباہ و برباد ہوئے۔ و هذا الذي اختاره في الجلالين وهو الثواب عندى والجنود لادخل لهم في تربية موسى عليه السلام فيقال ان فرعون وهامان وجنودهما اضطنوا في تربيته عليه السلام. (اور یہی تفسیر ہے جو تفسیر جلالین میں مختار بھی گئی ہے اور میرے نزدیک یہی صحیح ہے کیونکہ فرعون کے لشکر کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت میں کوئی دخل نہیں تھا۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ فرعون ہامان اور ان کے لشکروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت میں غلطی کی ہے۔ اسی کو فرمایا گیا ہے کہ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِبِينَ)

ادھر تو یہ ہوا اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بقرار ہو گیا۔ اور اتنا بے قرار ہوا کہ قریب تھا کہ اپنی بے قراری ظاہر کر دیں اور یہ بتا دیں کہ میرا بیٹا تھا میں نے ایسے ایسے تابوت میں ڈالا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو مضبوط رکھا اور ظاہر کرنے نہ دیا۔ تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو حفاظت کا وعدہ فرمایا تھا اس پر ان کا یقین پختہ رہے۔

موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات ڈالی کہ انہوں نے موسیٰ کی بہن کو حکم دیا کہ جاؤ اس کے پیچھے پیچھے چلی جاؤ۔ یعنی جدھر کون تابوت جائے ادھر ہی چلتی رہو اور یہ دیکھتی رہو کہ تابوت کہاں جاتا ہے وہ ان کے پیچھے پیچھے چلتی رہیں پھر دور سے دیکھ لیا کہ اسے آل فرعون نے اٹھالیا ہے اور اس انداز سے پیچھے لگی رہیں کہ آل فرعون کو پتہ نہ چلے کہ یہ کون عورت ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ نے دیکھا کہ موسیٰ کسی عورت کا دودھ نہیں پیتے اور آل فرعون اس کے بارے میں پریشان ہو رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ کیا میں تمہیں ایسا خاندان نہ بتا دوں جو نہ صرف اسے دودھ پلائیں بلکہ اسکی پرورش میں انہیں کسی لالچ کی امید نہ ہو وہ اسکی پوری خیر خواہی کے ساتھ کفالت کر دیں۔ وہ لوگ پریشان تو ہو ہی رہے تھے کہنے لگے کہ بلاؤ وہ کون عورت ہے جس کا دودھ یہ بچہ قبول کر سکتا ہے۔ اس پر انہوں نے اپنی والدہ کا پتہ بتا دیا چنانچہ وہ پلائی گئیں جب موسیٰ علیہ السلام کو انکی گود میں دیا گیا تو فوراً ہی دودھ پینا شروع کر دیا آل فرعون نے کہا کہ اچھا تم اسے لے جاؤ دودھ پلاؤ اور پرورش کرو چنانچہ وہ انہیں لے گئیں دودھ پلائی رہیں اور پرورش کرتی رہیں مفسرین نے لکھا ہے انہیں اس کا معاوضہ بھی ملتا رہا جو روزانہ ایک دینار تھا۔

فَوَدَّذُنْهُ إِلَىٰ آبَائِهِ (الآیۃ) سو ہم نے موسیٰ کو انکی والدہ کی طرف لوٹا دیا تاکہ انکی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور بچہ کی جدائی سے غمگین نہ ہوں اور تاکہ اس بات کا اور زیادہ یقین کر لیں کہ اللہ کا وعدہ حق ہے لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کس کس طرح اپنے بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ فرماتا ہے۔ اور کس کس طرح ظالموں کو ان کی تدبیروں میں ناکام بناتا ہے۔

فائدہ: یہاں بعض مفسرین نے یہ سوال اٹھایا کہ اپنی اولاد کی پرورش کرنا تو فرض ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے بچہ کی پرورش کرنے اور دودھ پلانے پر اجرت کیسے قبول فرمائی؟ لیکن قرآن مجید میں اجرت لینے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اور اگر اجرت لی بھی ہو تو کافر ہی سے لی تھی اور حرجی کا مال یوں بھی مباح ہے جبکہ وہ کسی دھوکہ دہی کے طریقہ پر نہ لیا جائے پھر جب دشمن کی خوشی سے معاملہ معاہدہ کر کے لے لیا تو اسکے جواز میں کوئی شبہ رہتا ہی نہیں۔

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ١٥

اور جب موسیٰ اپنی بھری جوانی کو پہنچے اور پوری طرح درست ہو گئے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا فرمایا اور اچھا کام کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں

وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ

اور وہ ایسے وقت میں شہر میں داخل ہوئے کہ وہاں کے لوگ غافل تھے سو اس میں دو مردوں کو پایا جو آپس میں سے تھا

هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَعَاثَ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ

سو جو شخص ان کی جماعت میں سے تھا اس نے ان سے اس شخص کے مقابلہ میں مدد طلب کی جو ان کے دشمنوں میں سے تھا۔ سو مویٰ نے اس کو گھونسا مار دیا۔

فَوَكَرَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ ۝ قَالَ

سو اس کا کام تمام کر دیا۔ مویٰ نے کہا یہ شیطانی حرکت ہے بلاشبہ وہ دشمن ہے گمراہ کر نوالا ہے واضح طور پر مویٰ نے کہا اے میرے

رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝ قَالَ رَبِّ إِنَّمَا

رب بلاشبہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ سو آپ میری مغفرت فرما دیجئے۔ سو اللہ نے ان کو بخش دیا۔ بلاشبہ وہ بخشنے والا ہے ہر مان ہے مویٰ نے عرض کیا کہ اے میرے رب

أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ۝ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ

اس سبب سے کہ آپ نے مجھ پر انعام فرمایا۔ سو میں ہر گز بھی مجرمین کو مدد کر نوالا نہیں بنوں گا۔ پھر اگلے شہر میں مویٰ کو صبح ہوئی خوف کی حالت میں

فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ ۝ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ ۝ فَلَمَّا

کہا چاک وہی شخص جس نے کل گزشتہ میں ان سے مدد طلب کی تھی پھر اسے مدد طلب کر رہا ہے۔ مویٰ نے کہا بلاشبہ تو تو صریح گمراہ ہے۔ پھر جب

أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَمْوَسَىٰ أَرِيدُ أَنْ تُقَاتِلَنِي كَمَا

مویٰ نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو پکڑیں جو ان دونوں کا دشمن تھا تو وہ اسرائیلی شخص بول اٹھا کہ اے مویٰ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ مجھے قتل کر دو

قَاتَلْتَ نَفْسًا يٰلَا مِسْ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ

جیسا کہ کل تم نے ایک شخص کو قتل کیا ہے بس تم یہی چاہتے ہو کہ زمین میں اپنا زور بٹھلاتے رہو

تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ ۝ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَمْوَسَىٰ

اور اصلاح کرنے والوں میں سے نہیں ہوتا چاہتے اور ایک شخص شہر کے دور والے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا کہنے لگا کہ اے مویٰ

إِنَّ الْمَلَائِكَةَ آمَتُوا بِكَ لَيُقَتَّلَنَّكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ الصَّحِيحِينَ ۝ فَخَرَجَ مِنْهَا

بلاشبہ بات یہ ہے کہ الٰہی ہاتھ آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ قتل کر دیں لہذا آپ نکل جائیے بلاشبہ میں آپ کی بھلائی چاہنے والوں میں سے ہوں۔ سو وہاں سے

خَائِفًا يَتَرَقَّبُ ۝ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝

ڈرتے ہوئے انتظار کرتے ہوئے نکل گئے۔ کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار مجھے ظالم قوم سے نجات دیجئے۔

## حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک شخص کا قتل ہو جانا پھر مصر چھوڑ کر مدین چلے جانا

**تفسیر:** ان آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مصر سے نکل جانے کا اور اس کے لئے ایک قبطی کے قتل کا بہانہ بن جانے کا ذکر ہے اور چونکہ مصر سے نکل کر مدین تشریف لے گئے تھے اور وہاں سے واپس ہو کر راستہ میں نبوت سے سرفراز کر دیئے گئے تھے اس لئے قتل قبطی کے قصہ سے پہلے یہ بیان فرمادیا کہ جب وہ اپنی بھرپور جوانی کو پہنچ گئے اور صحت اور تندرستی کے اعتبار سے خوب اچھی طرح مضبوط اور ٹھیک ہو گئے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا فرمادیا اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے فہم سلیم اور عقل مستقیم مراد ہے جو مدین کو جانے سے پہلے انہیں عطا کر دی گئی تھی۔

وَكَذَلِكَ يَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (اور ہم اسی طرح اچھے کام کر نیوالوں کا بدلہ دیا کرتے ہیں) حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن کہیں شہر سے باہر تشریف لے گئے (ممکن ہے کہ اپنی والدہ کے پاس تشریف لے گئے ہوں جو بظاہر شہر سے دور کسی دیہات میں رہتی ہوں گی) پھر وہاں سے شہر میں ایسے وقت داخل ہوئے جو عام طور سے لوگوں کے غفلت کا وقت تھا بعض مفسرین نے فرمایا کہ وہ دوپہر کا وقت جبکہ لوگ سو چکے تھے۔ جب شہر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں ایک آدمی انکی جماعت میں سے تھا یعنی اسرائیلی تھا اور دوسرا شخص انکے دشمنوں میں سے تھا یعنی فرعون کی قوم میں سے جنہیں قوم قبط کہا جاتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برادری والے شخص کو اپنا ایک آدمی نظر آ گیا اور آدمی بھی وہ جو خوب جوانی میں بھرا ہوا تھا اور قوت جسمانیہ کے اعتبار سے بالکل مضبوط اور پکا تھا۔ اس نے آپ سے مدد مانگی اور کہنے لگا کہ دیکھئے یہ شخص مجھ پر زیادتی کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک گھونٹہ مار دیا جس سے اس کا کام تمام ہو گیا یعنی اس کا دم نکل گیا اور جان جاتی رہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقصد اس کو جان سے مارنا نہ تھا تاہم ایک گھونٹہ مارا تھا لیکن ایک ہی گھونٹہ اسکی موت کا بہانہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑی پشیمانی ہوئی کہ ایک شخص کا قتل ہو گیا لہذا انہوں نے اول تو یوں کہا کہ یہ ایک شیطانی حرکت ہو گئی اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اس کا کام گمراہ کرنا ہے بنی آدم سے ایسی حرکتیں کراتا رہتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہوتی ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا لہذا میری مغفرت فرمائیے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی۔ اہل خیر اور اہل اصلاح کا یہ طریقہ ہے کہ بلا ارادہ بھی اگر ان سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے جو گناہ کی فہرست میں آ سکتا ہو تو اس کے لئے بھی اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں۔ اور قتل خطا میں تو دیت بھی لازمی ہوتی ہے لیکن چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کافر حرلی کو قتل کیا تھا اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی شریعت بھی جاری نہیں تھی اس لئے دیت کا سوال پیدا نہیں ہوا۔ لیکن قتل نفس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور مغفرت کی درخواست پیش کر دی اور اللہ تعالیٰ نے انکی مغفرت فرمادی إِنَّكَ هُوَ الْعَفُوُّ الرَّحِيمُ (بلاشبہ اللہ غفور ہے رحیم ہے)

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں مزید عرض کیا کہ اے میرے رب مجھ پر آپ کے بڑے بڑے

انعامات ہیں۔ ان کا تقاضا یہ ہے کہ میں مجرمین کا مددگار نہ بنوں لہذا میں کبھی ان کی مدد نہ کروں گا جو گناہ کر نیوالے اور گناہ کروانے والے ہوتے ہیں۔ دونوں قسم کے مجرموں سے دور رہنے اور ان کا معاون نہ بننے کا بارگاہ خداوندی میں عہد کیا شیطان چونکہ گناہ کراتا ہے لہذا اس بیزاری کے عموم میں وہ بھی آگیا اس میں یہ بات بھی داخل ہوگئی ہے کہ شیطان کے کہنے پر عمل نہ کروں گا کیونکہ اسکی بات ماننے میں اسکی مدد ہوتی ہے اور یہ عہد بھی ہو گیا کہ ہمیشہ احتیاط سے کام لوں گا۔ آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جس طرح ہر گناہ گناہ ہے اسی طرح گناہ کی مدد کرنا بھی گناہ ہے عام طور سے لوگ اس سے غافل ہیں گناہگاروں کے ساتھ جاتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں رشوت دلانے کے ایجنٹ بنتے ہیں بنکوں میں اور انشورنس کمپنیوں میں نوکریاں کرتے ہیں شراب پیچنے والی دکانوں میں ملازم ہو جاتے ہیں امیروں و زیروں اور چھوٹے بڑے حاکموں کے مظالم میں ان کا ساتھ دیتے ہیں یہ سب گناہ ہے۔

حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں تجھے بیوقوفوں کی امارت سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں فرمایا میرے بعد ایسے امراء ہوں گے کہ جو شخص ان کے پاس گیا اور ان کے جھوٹ کو سچا بتایا اور ظلم پر انکی مدد کی تو وہ شخص مجھ سے نہیں اور ایسے اشخاص سے میرا تعلق نہیں اور وہ ہرگز میرے پاس حوض پر نہ پہنچیں گے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۱۳۲۲ از ترمذی)

رسول اللہ ﷺ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی ظالم کیساتھ چلا تا کہ اس کو قوت پہنچائے اور وہ جانتا ہے کہ وہ ظالم ہے تو یہ شخص اسلام سے نکل گیا۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۳۶ عن ابی ہریرۃ فی شعب الایمان)

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ٹیکس وصول کر نیوالا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۳۲۲) ہر وہ ملازمت حرام ہے جس میں گناہ کیا جاتا ہو ظلم کیا جاتا ہو ظالم کی مدد کی جاتی ہو کیونکہ گناہ کرنا اور گناہ کی مدد کرنا دونوں حرام ہیں اسی لئے گناہ کی اجرت اور گناہ پر مدد کرنیکی اجرت بھی حرام ہے جو لوگ حکومتوں کے حکموں میں یا دوسرے اداروں اور فرموں میں اور کمپنیوں میں لگے ہوئے ہیں وہ اپنے بارے میں غور کر لیں کہ وہ کس طرز پر چل رہے ہیں اور وہ خود اپنی جان کیلئے وبال تو نہیں بن رہے ہیں؟

قرآن مجید میں اسکی تصریح ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو قتل ہو گیا تھا اس کے لئے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کر لی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا اس کے بعد جب ان سے قیامت کے دن سفارش کرنے کے لئے عرض کیا جائے گا تو وہ اپنے اس قتل والے واقعہ کو یاد کر کے شفاعت کرنے سے یہ فرما کر عذر کر دیں گے قتل نفسا لم اؤمّر بقتلہا کہ میں نے ایک جان کو قتل کر دیا تھا جس کے قتل کا مجھے حکم نہیں دیا گیا جن کے بلند مراتب ہیں انکی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں۔

آج یہ واقعہ ہوا کہ ایک قبطی کو تادیباً گھونسا مارا تو وہ مر ہی گیا اب اگلے دن یہ ہوا کہ جب صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام شہر میں نکلے لیکن ساتھ ہی خوف زدہ بھی تھے کہ دشمنوں کو واقعہ قتل کا پتہ نہ چل گیا ہو اور اس کا بھی انتظار تھا کہ فرعونی حکومت اور اس کے کارندے کہیں قبطی کے قتل کرنے کی وجہ سے میرے قتل کے درپے نہ ہوں اسی خوف اور غور و فکر میں تھے کہ اچانک وہی اسرائیلی شخص نظر آ گیا جس نے گزشتہ کل ایک قبطی کے مقابلے میں مدد طلب کی تھی۔ آج بھی ایک



آدمی سے اس کی لڑائی ہو رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو مدد طلب کرنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اول تو اسکو تنبیہ فرمائی کہ تو کل بھی لڑ رہا تھا اور آج بھی لڑ رہا ہے، تو تو صریح طور پر بے راہ آدمی ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام قبطی کی طرف متوجہ ہوئے جس سے اسرائیلی کی لڑائی ہو رہی تھی قبطی پورے بنی اسرائیل کے دشمن تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چاہا اسے پکڑیں ابھی ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اسرائیلی نے یہ سمجھا کہ جب مجھے بے راہ بتا رہے ہیں تو مجھ ہی کو مارنے کے لئے ہاتھ بڑھا رہے ہیں مشہور ہے کہ نادان دوست سمجھدار دشمن سے بھی زیادہ تکلیف دیتا ہے اسرائیلی نے کہا کہ اے موسیٰ کیا تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو جیسا کہ کل ایک آدمی کو قتل کر چکے ہو بس تمہارا یہی کام رہ گیا ہے کہ زمین میں اپنی زور آوری دکھایا کرو اور تم اصلاح کر نیوالوں میں ہونا نہیں چاہتے۔ بعض مفسرین نے یہاں پر یہ نکتہ بیان کیا ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ فَلَئِنْ أَكُنْ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ کے ہاتھ اٹھا لیا تھا کہ اس لئے اگلے ہی دن پھر اسی میں مبتلا ہو گئے جس میں کل ابتلا ہوا تھا اور جبکہ ایک اسرائیلی کی زبان سے یہ بات نکل گئی کہ کل تم ایک آدمی کو قتل کر چکے ہو تو اس شخص کے قاتل کا پتہ چل گیا جو کل مقتول ہو گیا تھا۔ اس بات کو فرعون کی قوم کے آدمی نے بھی سن لیا اور فرعون کے درباریوں کو قاتل کا علم ہو گیا لہذا فرعون نے اور اس کے درباریوں نے باہمی مشورہ کیا کہ موسیٰ کو قتل کر دینا چاہئے اور گو کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کروائی تھی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طور طریق سے اسے اس بات کا خطرہ لگا رہتا تھا کہ یہ وہی شخص تو نہیں جس کے ذریعہ میری حکومت برباد ہوگی؟

جب موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا مشورہ ہو گیا تو ایک شخص کو اس مشورے کا پتہ چل گیا (ممکن ہے یہ شخص فرعون کے درباریوں میں سے ہو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت اور عقیدت رکھتا ہو) یہ شخص دوڑتا ہوا شہر کے دور والے کنارہ سے آیا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تمہارے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں تم یہاں سے چلے جاؤ اور یہ میں آپ کی خیر خواہی کی بات کر رہا ہوں۔ اس شخص کی بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ہوئے اور دشمن کا گرفت کا خطرہ دل میں لئے ہوئے وہاں سے تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار مجھے ظالموں سے نجات دیدے۔

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ ۖ وَلَمَّا

اور جب موسیٰ نے مدین کی طرف توجہ کی تو یوں کہا کہ امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھا راستہ چلا دے گا۔ اور جب

وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ ۖ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ

مدین کے پانی پر پہنچے تو وہاں لوگوں کی ایک جماعت کو دیکھا جو پانی پلا رہے تھے اور وہاں دو عورتوں کو دیکھا جو ان لوگوں سے روک رہی تھیں موسیٰ نے پوچھا تم دونوں کا

تَذَوُّنَ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ ۖ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ۝

کیا حال ہے؟ وہ دونوں کہنے لگیں کہ ہم اس وقت تک پانی نہیں پلائے جب تک کہ چراوے واپس نہ لے جائیں اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں

فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴿۲۹﴾

موسیٰ نے ان کے لئے پانی پلایا پھر سایہ کی طرف ہٹ گئے پھر یوں کہا کہ اے میرے رب آپ جو کچھ خیر میرے لئے نازل فرمائیں میں اس کا محتاج ہوں

فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَتَشَتَّى عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ ابْنِي يَدْعُوكَ لِیَجْزِيكَ أَجْرًا مَا سَقَيْتَ

سوان دو عورتوں میں سے ایک عورت موسیٰ کے پاس آئی جو چلتے ہوئے شرابی تھی اس نے کہا کہ بلاشبہ میرے والد تم کو بلا رہے ہیں تاکہ تمہیں اس کا سلاہیں جو تم نے ہمارے لئے

لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَفَخْتُ مِنَ الْقُومِ

پانی پلایا پس جب موسیٰ انکے پاس آئے اور انکو واقعات سنائے تو انہوں نے کہا کہ خوف نہ کرو تم ظالم قوم سے نجات

الظَّالِمِينَ ﴿۳۰﴾ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿۳۰﴾

پائے گئے وہاں دونوں عورتوں میں سے ایک کہنے لگی کہ ابائی آپ اس شخص کو مزدوری پر رکھ لیجئے چونکہ جس کی کواپ مزدوری پر ہمیں ان میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قوی و امانت دار ہو۔

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكَحَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَاجَةً فَإِنْ

شرخ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم سے اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح کروں اس شرط پر کہ تم میرے پاس آٹھ سال نوکری کے طور پر عمل کرو۔ سواگر

أَتَمَمْتُ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلَأَ عَيْنَكَ أَسْقُ عَلَىكَ سَهْدَ بَنِي إِسْرَءِيلَ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ مِنْ

تم دس سال پورے کر دو تو یہ تمہاری طرف سے ہو گا اور میں یہ نہیں چاہتا کہ تم پر مشقت ڈالوں اِنْ شَاءَ اللہ تم مجھے

الصَّالِحِينَ ﴿۳۱﴾ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّتُهَا الْجَاهِلِينَ كُفَيْتُمْ فَلَا تُعْذِرُونَ عَلَىٰ وَاللَّهِ

صالحین میں سے پاؤ گئے موسیٰ نے کہا یہ معاملہ ہے میرے سوا آپ کے درمیان میں دونوں مدتوں میں سے جو کسی مدت پوری کروں تو مجھے پر کوئی زیادتی نہ ہوگی اور

عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿۳۲﴾

جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس پر وکیل ہے۔

موسیٰ علیہ السلام کا مدین پہنچنا وہاں دولڑکیوں کی بکریوں

کو پانی پلانا پھر ان میں سے ایک لڑکی سے شادی ہونا

**تفسیر:** حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب ایک شخص نے رائے دی کہ دربار والے تمہارے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں

تم یہاں سے نکل جاؤ تو وہ سرزمین مصر سے روانہ ہو گئے اور مدین کی طرف چل دیئے جو ملک شام کا ایک شہر ہے۔ یہ علاقہ

فرعون کی حکومت میں شامل نہیں تھا۔ اور وہ زمانہ پاسپورٹ اور ویزے کا بھجوا نہیں تھا جو شخص جس ملک میں اور جس شہر میں

چاہتا جاسکتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا رخ کیا وہاں کبھی تشریف نہیں لے گئے تھے راستہ معلوم نہیں تھا اللہ

تعالیٰ سے خیر کی امید باندھ کر نکل کھڑے ہوئے اور یوں کہا کہ عَلٰی دُنٰی اَنْ یَّحْدِیْنِیْ سَوَاءَ السَّیِّئِیْلِ (امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھا راستہ بتا دے گا) موسیٰ علیہ السلام تنہا تھے کوئی رہبر نہ تھا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے اور اللہ کی مدد سے سیدھی راہ پر چلے۔ مدین پہنچنے کی امید باندھ کر روانہ ہو گئے بالآخر صحیح سلامت مدین پہنچ گئے۔ پہنچ تو گئے لیکن وہاں کبھی نہ جانا ہوا تھا نہ کسی سے شناسائی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کے سوا کوئی ظاہری اور مجازی مدد سامنے نہ تھی جب مدین پہنچے تو ایک کنوئیں پر گزر رہا وہاں دیکھا کہ ایک بڑی جماعت ہے بھیڑ بھاڑ ہے بکریاں چرانے والے اپنی اپنی بکریاں لے کر آئے ہیں۔ اور انہیں پانی پلا رہے ہیں اور یہ بھی دیکھا کہ دو عورتیں اپنی بکریاں لئے کھڑی ہیں وہ اپنی بکریوں کو روک رہی ہیں تاکہ دوسروں کی بکریوں میں رمل نہ جائیں اور دوسروں کا کھینچا ہوا پانی نہ پی لیں ورنہ پانی کھینچنے والے ان بکریوں کو مار بھگائیں گے جو ان کی اپنی نہیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں سے کہا کہ تمہارا کیا حال ہے الگ کھڑے ہونے کا مقصد کیا ہے ان دونوں نے جواب دیا کہ یہ لوگ جو پانی پلا رہے ہیں مرد ہیں ہم ان کے ساتھ کنوئیں میں ڈول ڈال کر اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتے لہذا ہم یہ کرتے ہیں کہ جب چرواہے اپنے اپنے مویشیوں کو پانی پلا کر واپس لے جاتے ہیں تو ہم اپنی بکریوں کو پانی پلاتے ہیں ایک تو عورت ذات مردوں کی بھیڑ میں ڈول نہیں کھینچ سکتی دوسرے مردوں کے اختلاط سے بھی بچتا ہے چونکہ یہ ایک اشکال ہوتا تھا کہ بکریوں کو پانی پلانا تم دونوں کے ذمہ کیوں پڑا؟ کیا تمہارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے اس لئے اس کا جواب بھی انہوں نے دیدیا وَابُوْنَا شَیْخٌ کَبِیْرٌ کہہ کر بتا دیا کہ ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں وہ پانی پلانے کیلئے نہیں آ سکتے اور اتنا کہنے کے بعد جو خاموشی اختیار کر لی اسی خاموشی میں یہ بھی بتا دیا کہ نہ ہمارے شوہر ہیں اور نہ بھائی ہیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ترس آ گیا اور جلدی سے آگے بڑھ کر انکی بکریوں کو پانی پلا دیا اور پانی پلانے کے بعد کنوئیں سے ہٹ کر سایہ میں چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں متوجہ ہو کر عرض کیا رَبِّیْ اِنِّیْ لَبَاۤءُ اَنْزَلْتَ لِیْ مِنْ خَیْرِیْ فَقِیْدٌ (اے میرے رب جو خبر آپ میرے لئے نازل فرمائیں میں اس کا محتاج ہوں حضرت انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور مومنین صالحین کا یہی طریقہ رہا ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور ہر مشکل میں اور ہر بے بسی میں اسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں)

لفظ مِنْ خَیْرِیْ میں جو کمرہ ہے اس کی عموم میں سب کچھ آ گیا۔ بھوک دور کرنے کا انتظام بھی کچھ غذا بھی اور امن و امان بھی نیز رہنے کا ٹھکانہ بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے روانہ ہو کر مدین پہنچے پورے سفر میں سبزیوں کے پتے کھاتے رہے بھوک کی وجہ سے پیٹ کمر سے لگ گیا تھا بھوکے بھی تھے دہلا پن بھی ظاہر ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے جو خیر کا سوال کیا اس میں خاص طور سے کھانے والی چیز کا سوال بھی تھا۔

دونوں عورتیں آج اپنی بکریوں کو لے کر خلاف عادت جلدی گھر پہنچیں تو انکے والد نے کہا کہ کیا بات ہے کہ آج تم جلدی آگئیں انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا ہے اور ساتھ ہی اس شخص کی اچھی صفات بھی بیان کر دیں۔ ان دونوں عورتوں کے والد نے کہا کہ اچھا جاؤ اس شخص کو بلا لاؤ۔ چنانچہ ان دونوں میں سے ایک عورت آئی جو شرماتی ہوئی چل رہی تھی۔ روح المعانی میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے چہرہ پر کپڑا ڈال رکھا تھا اس نے کہا کہ یقین جانیے

کہ میرے والد آپ کو بلارہے ہیں تاکہ آپ کو پانی پلانے کا صلہ دیدیں۔

روح المعانی میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ لیکن انہوں نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا کہ وہ شرماتی ہوئی آرہی ہے اور خود بھی شرمیلے تھے اور حیا و شرم تمام نبیوں کا شعار تھا لہذا اس عورت سے کہا کہ تو میرے پیچھے پیچھے چل اور مجھے راستہ بتاتی رہنا۔ دائیں بائیں جدھر کو مڑنا ہو بتا دینا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی گوارہ نہ کیا کہ پردہ دار عورت کے پیچھے چلیں جو اچھی طرح کپڑوں کو ڈھانکی ہوئی تھی۔ اسی طرح چلتے ہوئے اس لڑکی کے والد کے پاس پہنچے۔ جب انکے پاس پہنچ گئے تو اپنا واقعہ بتایا۔ انہوں نے قصہ سنا کر تسلی دی اور کہا کہ آپ خوفزدہ نہ ہوں آپ ظالم قوم سے نجات پا چکے ہیں جن لوگوں نے آپ کے قتل کا مشورہ کیا ہے انکی دسترس سے نکل چکے ہیں اس ملک میں ان لوگوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک عورت نے کہا کہ ابا جان اس شخص کو آپ ملازمت پر رکھ لیجئے۔ یہ بکریاں بھی چرا لیں گے اور دوسری خدمات بھی انجام دیں گے۔ میرے نزدیک یہ شخص قوی بھی ہے امین بھی ہے اور ملازم رکھنے کے لئے وہی شخص بہتر ہے جو قوی ہو اور امین بھی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قوی ہونا انکی بھری ہوئی جوانی سے ظاہر تھا اور پانی پلاتے وقت جو ان کا عمل دیکھا تھا اس سے بھی انکی قوت و طاقت کا مظاہرہ ہو چکا تھا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جب ان دونوں عورتوں نے یوں کہا کہ ہم اس وقت تک پانی نہیں پلا سکتے جب تک چرواہے اپنے مویشیوں کو پانی پلا کر واپس نہ لے جائیں تو موسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا، کیا اس کنویں کے علاوہ کہیں اور بھی پانی ہے؟ اس پر ان دونوں عورتوں نے کہا کہ ہاں قریب میں ایک کنواں اور ہے اس کے منہ پر ایک بھاری پتھر رکھا ہوا ہے اسے چند آدمی بھی ملکر نہیں اٹھا سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ وہ کہاں ہے وہ دونوں انہیں اس کنویں میں لے گئیں حضرت موسیٰ نے ایک ہی ہاتھ سے اس پتھر کو ہٹا دیا پھر انکی بکریوں کو پانی پلا کر پتھر کو اسی طرح کنویں کے منہ پر رکھ دیا جس طرح پہلے رکھا تھا۔ (روح المعانی ص ۶۳ ج ۲) اور موسیٰ علیہ السلام کا امین ہونا اس سے ظاہر ہوا کہ انہوں نے اپنی نظر تک کو خیانت سے بچایا اور یہاں تک کہ احتیاط کی کہ عورت کو اپنے پیچھے چلنے کے لئے فرمایا اور خود آگے آگے چلے۔ شیخ مدین نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں لڑکیوں میں سے تمہارے ساتھ ایک کا نکاح کر دوں بشرطیکہ تم میرے پاس بطور اجیر آٹھ سال کام کرو۔ میری طرف سے تو آٹھ سال ہی مطالبہ رہے گا اور اگر تم دس سال پورے کر دو تو یہ تمہاری طرف سے بطور تفضل اور مہربانی کے ہوگا یعنی تمہاری طرف سے ایک احسان ہوگا۔ میں تمہیں تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتا نہ دس سال پورے کرنے کے لئے کہوں گا اور نہ کاموں میں دارو گیر کروں گا۔

(قال فی الروح بالزام إتمام العشر والمناقشة فی مراعاة الاوقات واستيفاء الاعمال) ساتھ ہی یہ بھی فرمایا: سَتَجِدُنِي اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ (کہ اِنَّ اللّٰهَ تَمَّ مَجْهَ اِچھے لوگوں میں پاؤ گے) حسن معاملہ اور برتاؤ میں نرمی اور وفائے عہد میں تم مجھے اچھا پاؤ گے اور میری طرف سے کوئی دکھ تکلیف اور کدورت والی کوئی بات محسوس نہ کرو گے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شیخ مدین کی پیش کش پسند آگئی اللہ تعالیٰ سے جو خیر کی دعا کی تھی اسکی قبولیت سامنے آگئی، نکاح کا بھی انتظام ہو گیا اور کھانے پینے کا بھی نیز رہنے کا ٹھکانہ بھی مل گیا، لہذا شیخ مدین کے جواب میں فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ میرا اور آپ کا معاملہ اور معاہدہ ہو گیا، آپ بھی اپنی بات پر قائم رہیں اور میں بھی اس معاملے کے مطابق عمل کرتا

رہوں گا۔ آپ نے آٹھ یا دس سال کے لئے مجھ سے خدمت لینے کا معاملہ کیا ہے۔ دونوں مدتوں میں جو بھی پورا کر لوں مجھے اختیار ہے اگر آٹھ سال کے بعد میں نے کام چھوڑ دیا تو آپ کی طرف سے مجھ پر زیادہ طاقت دینے کے لئے زیادتی نہ ہوگی۔ آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوں کہا کہ وَاللّٰهُ عَلٰی مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (اللہ اس پر وکیل ہے جو ہم کہہ رہے ہیں) وکیل کا ترجمہ کسی نے نگران کا کیا ہے کسی نے گواہ کا کیا ہے اور کسی نے معنی معروف کا مراد لیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي وَكَّلَ اِلَيْهِ الْاُمُورَ سَارَے معانی مراد لئے جاسکتے ہیں۔ وکیل بمعنی گواہ مراد لینے سے یہ مطلب ہوگا کہ ہم نے جو کچھ آپس میں معاہدہ و معاملہ کیا ہے ہم اس بارے میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتے ہیں کسی بھی فریق کو اپنے عہد کی مخالفت کرنے کی گنجائش نہ ہوگی۔ حضرت عتبہ بن نذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس تھے۔ آپ نے سورہ طسّم پڑھی۔ یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کے قہقہے تک پہنچ گئے (اور) فرمایا بلاشبہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی شرمگاہ کو پاک رکھنے کی اور اپنے پیٹ کی روزی حاصل کرنے کے لئے اپنی جان کو آٹھ سال یا دس سال مزدوری کی کام میں لگایا۔ (رواہ احمد ابن ماجہ ص ۱۶) مفسر ابن کثیرؒ نے متعدد روایات نقل کی ہیں جن میں اس بات کی تصریح کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورے دس سال شیخ مدین کے پاس گزارے اور انکی بکریاں چرائیں۔ (ابن کثیر ص ۳۸۶ ج ۳)

شرح مواہب لدنیہ میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا حاضر خدمت ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ میرے اور علی کے پاس صرف ایک مینڈھے کی کھال ہے جس پر ہم رات کو سوتے ہیں اور دن کو اسپر اونٹ کو چارہ کھلاتے ہیں۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اے میری بیٹی! صبر کر! کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے دس برس تک اپنی بیوی کے ساتھ قیام کیا اور دونوں کے پاس صرف ایک عبا تھی (اسی کو اوڑھتے اور اسی کو بچھاتے تھے) اگر یہ روایت صحیح السند ہو تو پھر دس سال پورے کرنا متعین ہو جاتا ہے اور اس صورت میں حضرت عتبہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں جو دس سال یا آٹھ سال کے الفاظ شک کے ساتھ ہیں اس شک کو راوی کے شک پر محمول کیا جائیگا۔ ۱۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں چند قیراط کے عوض میں نے بھی اہل مکہ کی بکریاں چرائی ہیں۔ (رواہ البخاری ص ۱۰۰)

مرقات شرح مشکوٰۃ میں لکھا ہے کہ اس زمانہ میں ایک قیراط ایک درہم کا چھٹا حصہ ہوتا ہے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ بکری ضعیف جنس ہے ادھر ادھر بھاگ جاتی ہے اُسے مارا جائے تو ناگ ٹوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے لہذا بکری چرانے والے کو شفقت اور صبر ہی سے کام لینا پڑتا ہے۔ حضرات انبیاء کرامؑ نے پہلے بکریاں چرائیں مزارع میں صبر اور تحمل کی شان پیدا ہوئی پھر ان کو نبوتیں عطا کی گئیں تاکہ مخالفین سے پیش آنیوالی مصیبتوں پر صبر کر سکیں اور تحمل اور برداشت سے کام لیں۔

۱۔ صحیح بخاری ص ۳۶۹ میں ہے کہ حضرت سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے دریافت کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دونوں مدتوں میں سے کوئی مدت پوری کی انہوں نے جواب میں فرمایا کہ دونوں میں جو اکثر اور اطیب تھی وہی پوری کی (یعنی دس سال شیخ مدین کی خدمت میں رہے) اللہ کے رسولوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب کوئی بات کہتے تھے تو اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ ولفظہ قضی اکثرهما واطیہما ان رسول اللہ اذا قال فعل (باب من امر بانجاز الوعد) (اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دونوں مدتوں میں سے زیادہ اور بہتر مدت کو پورا کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا رسول جب کوئی بات کہتا ہے تو کر کے دکھاتا ہے)

## ﴿فوائد﴾

**فائدہ اولی:** قرآن مجید میں اسکی تصریح نہیں ہے کہ ان دونوں عورتوں کے والد نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی معاوضہ دیا یا کھانا کھلایا البتہ روح المعانی (ص ۶۵ ج ۲) میں ابن عساکر سے نقل کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو شیخ رات کے کھانے کے لئے بیٹھے تھے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آؤ کھانا کھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ میرے پانی پلانے کا عوض بھی نہیں دے سکتے جس سے پوری زمین بھر جائے شیخ نے کہا کہ یہ اجرت نہیں ہے۔ میرے اور میرے باپ دادوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ ہم مہمان نوازی کرتے ہیں اور کھانا کھلاتے ہیں اس پر موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھالیا۔

**فائدہ ثانیہ:** یہ شیخ مدین کون تھے جن کے یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قیام فرمایا؟ اس کے بارے میں بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے مفسر ابن کثیرؒ نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا یہ قول نقل کیا ہے لیکن بہت سے علماء نے فرمایا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ سے بہت پہلے گزر چکے تھے ان لوگوں کا استدلال سورہ ہود کی آیت وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنْكَفَرٍ بَعُودٍ سے ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ لوط کی قوم زمانے کے اعتبار سے تم سے دور نہیں ہے اور یہ معلوم ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں ہوئی تھی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان چار سو سال کا فصل تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے خسر شعیب علیہ السلام کیسے ہو سکتے ہیں؟ بعض لوگوں نے اس اشکال کو یوں رفع کیا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی عمر اتنی زیادہ دراز ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کا زمانہ پالیا۔ لیکن اسکی کوئی سند نہیں ہے (ابن کثیر)

صاحب روح المعانی نے حضرت ابو عبیدہ سے نقل کیا ہے کہ جو صاحب موسیٰ علیہ السلام کے خسر تھے اُن کا نام اُثرون تھا اور یہ حضرت شعیب علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور بعض حضرات نے اُن کا نام ہارون اور بعض حضرات نے مروان اور بعض حضرات نے (عاوید) بتایا ہے اور ان سب کو حضرت شعیب علیہ السلام کا بھتیجا ظاہر کیا ہے۔ مفسر ابن جریرؒ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ جس صاحب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بطور اجیر اپنے یہاں رکھا تھا ان کا نام یثرب تھا۔ اسی بارے میں بعض دیگر اقوال بھی ہیں۔ صاحب روح المعانی اور علامہ قرطبیؒ کا رجحان اسی طرف ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خسر شعیب علیہ السلام ہی تھے، لیکن مفسر ابن کثیرؒ نے ابن جریر سے نقل کیا ہے کہ اِنَّ هٰذَا لَا يَدْرُکُ الْاَبْحُوْر وَلَا خَبِرْتُ سَجْبَ بَنِي الْحِجَّةِ فِيْ ذٰلِكَ یعنی کسی حدیث کے بغیر اس کے بارے میں صحیح بات نہیں کہی، کئی اور اس بارے میں کوئی ایسی روایت سامنے نہیں ہے جس سے حجت قائم ہو سکے واللہ اعلم بالصواب۔

**فائدہ ثالثہ:** جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شیخ مدین نے یوں کہا کہ میں آپ کو اپنے یہاں کام پر ملازم رکھنا چاہتا ہوں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بلا تکلف اسے منظور فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ اپنے ضرورت اور حاجت کے لئے مزدوری کرنا کوئی عار اور عیب نہیں ہے، خود رسول اللہ ﷺ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں نے بھی چند قیراط کے عوض



اہل مکہ کی بکریاں چرائی ہیں۔ (کما مر الحدیث) بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ کچھ پڑھ لکھ لیتے ہیں یا اپنے آپ کو کسی اونچے خاندان کا فرد سمجھتے ہیں تو ملازمت و مزدوری کرنے کو عار سمجھتے ہیں۔ بھوکے رہتے ہیں۔ حاجتیں رُک رہتی ہیں۔ لیکن مزدوری کرنے سے بچتے ہیں اور اس میں اپنی حقارت سمجھتے ہیں۔ قرضوں پر قرضے لئے چلے جاتے ہیں جبکہ ادائیگی کا بظاہر انتظام بھی نہیں ہوتا لیکن محنت مزدوری کر کے کسب حلال کی طرف نہیں بڑھاتے۔ یہ صالحین کا طریقہ نہیں ہے۔

**فائدہ رابع:** شیخ مدین کی ایک لڑکی نے جو کہا کہ اے ابا جان اس شخص کو اپنے یہاں اجرت پر رکھ لیجئے اور ساتھ یوں بھی کہا **إِنْ خِدْمَتِ الْفَتَى الْأَمِينُ** (کہ جسے آپ مزدوری پر رکھیں ان میں بہتر آدمی وہ ہے جو قوی بھی ہو امین بھی ہو) اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعریف تو ہے ہی کہ یہ شخص قوت والا ہے اور امانت دار ہے ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ اپنے کام کے لئے ایسے شخص کو مزدور رکھا جائے جو اس کام کو کر سکتا ہو جس کے لئے ملازم رکھا جا رہا ہے اور ہر عمل کی قوت علیحدہ ہوتی ہے کسی کو پڑھانے کی قوت و صلاحیت ہونی چاہئے۔ جس کسی کو محاسب رکھا جائے وہ حساب دان ہونا چاہئے۔ جس کسی سے عمارت بنوائے وہ اس کا اہل ہونا چاہئے۔ خواہ معمار ہو خواہ سیمنٹ بنانے والا ہو خواہ اینٹیں اٹھا کر دینے والا ہو لفظ قوی، جسمانی، قلبی، دماغی سب قوتوں کو شامل ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ جسے کسی کام پر رکھا جائے وہ امانت دار بھی ہونا چاہئے اس میں ہر قسم کی امانت داخل ہے۔ مال میں بھی خیانت نہ کرنے وقت بھی پورا دے اور جس کے یہاں کام پر لگے اس کے اہل و عیال کے بارے میں بھی بد نظری کے خیال سے پاک اور صاف رہے۔ آج کل لوگوں میں خیانت بہت ہے جب کوئی شخص مزدوروں کو کام پر لاتا ہے تو جب تک سامنے رہتا ہے اچھی طرح لگ کر کام کرتے ہیں اور جہاں وہ نظروں سے اوجھل ہو باتیں بنانے لگے۔ عموماً دفاتروں میں کام کر نیوالے اور اسکولوں میں پڑھانے والے تنخواہ پوری لے لیتے ہیں اور کام آدھا تہائی کرتے ہیں۔ آپس میں ملکر نمبر وار ایک شخص پورے مہینہ غیر حاضری کرتا ہے اور رجسٹر حاضری میں برابر لکھی جاتی ہے یہ سب خیانت ہے۔ جن لوگوں کو حکومت کے محکموں میں یا دوسرے اداروں میں ملازم رکھنے کا اختیار دیا گیا ہو ان لوگوں پر لازم ہے کہ جسے ملازم رکھیں اسکی صلاحیت بھی دیکھیں اور امانت دار ہونے کا بھی پتہ چلائیں محض ڈگریاں دیکھنے پر اکتفاء نہ کریں اور رشوت لے کر کسی کو ملازم رکھیں اور نہ قربت داری کو ملازم رکھنے کا سبب بنائیں۔

**فائدہ خامسہ:** شیخ مدین نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں تم سے اپنی ان دولڑکیوں میں سے ایک لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب لڑکی نکاح کے قابل ہو جائے اور اس کے مناسب حال رشتہ مل جائے تو اس میں دیر نہ لگائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اے علی! تین چیزیں ایسی ہیں جس میں دیر نہ لگائی جائے۔

۱- نماز (جب اس کا وقت ہو جائے) ۲- جنازہ (اسکی نماز اور تدفین) جب حاضر ہو جائے۔

۳- بے شوہر والی عورت (جب تو) اسکے لئے کفو پا لے (رواہ الترمذی مشکوٰۃ المصابیح ص ۶۱)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے راضی ہو تو اس کا نکاح کر دو۔ ایسا نہ کرو گے تو زمین میں بڑا فتنہ ہو

جائے گا اور (لمبا) چوڑا فساد ہوگا۔ (مشکوٰۃ المصابیح)

شیخ مدین کے عمل سے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ کسی شخص سے یہ کہنا کہ میں تم سے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ آجکل جو لوگوں میں یہ طریقہ ہے کہ لڑکیوں کے لئے خود رشتہ نہیں ڈھونڈتے پیغام آنے کے انتظار میں رہتے ہیں اگر اچھا رشتہ سامنے آ جائے تو اپنی زبان سے بات چلانے کو عیب سمجھتے ہیں۔ یہ جاہلانہ بات ہے۔ اسی طرح اگر لڑکی کا نکاح ہوتا ہے تو باپ چھپا چھپا پھرتا ہے۔ اور مجلس عقد میں حاضر ہوتا ہے تو خود ایجاب و قبول کرنے کو آبرو کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہا انکے شوہر کے شہید ہو جانے کی وجہ سے بیوہ ہو گئیں تو عدت گزار جانے کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ میری بیٹی کو نکاح میں قبول کر لیں۔ وہ خاموش ہو گئے۔ انہی دنوں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اہلیہ حضرت رقیہ (رسول اللہ ﷺ کی صاحبزادی) کی وفات ہو گئی تھی لہذا حضرت عمر نے حضرت عثمان سے کہا کہ میری بیٹی کو اپنی نکاح میں قبول کر لو۔ انہوں نے جواب دیا کہ مجھے ان دنوں نکاح کرنے کا خیال نہیں ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات بطور شکایت رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں ذکر کر دی تو آپ نے فرمایا کہ حفصہ سے وہ شخص نکاح کریگا جو عثمان سے بہتر ہے اور عثمان کے نکاح میں ایسی بیوی آ جائے گی جو حفصہ سے بہتر ہے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت حفصہ سے خود نکاح فرمالیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے اپنی صاحبزادی حضرت کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح کر دیا۔ اسکے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو اپنے دل میں ناراض نہ ہونا رسول اللہ ﷺ نے میرے سامنے تذکرہ فرمایا تھا کہ میں حفصہ سے نکاح کر لوں گا لہذا مجھے یہ بات پسند نہ ہوئی کہ رسول اللہ ﷺ کا راز افشا کروں اگر آپ حفصہ سے نکاح کرنے کا خیال چھوڑ دیتے تو میں نکاح کر لیتا۔ (راجع الاستیعاب والاصابہ ذک حفصہ ورقیہ و ام کلثوم رضی اللہ عنہن)

فائدہ سادہ: شیخ مدین نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یوں کہا کہ میں ان دو لڑکیوں میں اس شرط پر تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں کہ آٹھ سال میرے پاس ملازمت کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ مہر میں کوئی دینار و درہم روپیہ و پیسہ اور کوئی مالیت کی چیز دینا ہی ضروری نہیں ہے۔ شوہر کا خدمت کرنا بھی مہر بن سکتا ہے۔ البتہ فقہاء حنفیہ یوں کہتے ہیں کہ کوئی آزاد شخص (جو غلام نہ ہو) اپنی بیوی کی خدمت کرنے کو مہر بنا کر نکاح کر لے تو اسے مہر مثل ملے گا۔ نکاح تو ہو جائے گا لیکن شوہر اس کی خدمت نہ کریگا کیونکہ یہ قلب موضوع ہے کہ شوہر بیوی کا خادم بن جائے اور شیخ مدین اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاملہ سے جو شوائع نے جواز پر استدلال کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں اس شرط پر نکاح کرنے کا ذکر ہے کہ تم آٹھ سال میرے ہاں اجرت پر کام کرو وہاں مہر کا ذکر ہی نہیں ہے اور اس کی بھی کوئی دلیل نہیں کہ انکی شریعت میں مہر ضروری تھا پھر یہ بات بھی ہے کہ بکریاں بیوی کے باپ کی تھیں اور انہیں کی خدمت کا وعدہ تھا اسی لئے ان تاجرنی فرمایا ہے ان تاجرہا نہیں فرمایا۔ قال ابن الہمام فی فتح القدیر ص ۲۲۴ ج ۳ و کون الاوجه الصحة لقص الله سبحانه قصة شعيب وموسى عليهما السلام من غير بيان نفية في شرعنا انما يلزم لو كانت الغنم ملك البنات دون شعيب وهو منتف۔ (امام ابن الہمام فتح

القدیر میں فرماتے ہیں حضرت شعیب و حضرت موسیٰ علیہما السلام کے قصہ کو ہماری شریعت میں نفی کے بغیر بیان کرنا آزاد آدمی کی خدمت کو بیوی کے حق مہر مقرر کرنے کے جائز ہونے کی دلیل تب ہوتا جب بکریاں ان کی بیٹی کی ملکیت ہوئیں تاکہ حضرت شعیب کی جبکہ یہ بات ہے نہیں کہ بکریاں بیٹی کی تھیں (شوہر اگر بیوی کے علاوہ کسی دوسرے شخص کی خدمت کر دے اگرچہ مہر ہی کے طور پر تو حنفیہ اسکے جواز کے قائل نہیں ہیں۔ رہی یہ بات کہ جب باپ کی خدمت کر دی تو بیٹی کو کیا ملا اور اس کا مہر اس طرح ادا ہوا تو اسکی ادائیگی اس کے ذمہ آتی ہے جس نے محنت مزدوری پر رکھا اور کام لیا۔ اب تو باپ کے ذمہ ہوگا کہ حق الخدمت کا عوض اپنی بیٹی کے حوالے کر دے بیٹی کو بھی اختیار ہے کہ پہلے ہی سے معاف کر دے یا باپ دینے لگے تو وصول نہ کرے۔

فائدہ سابعہ: شیخ مدین نے جو یوں کہا تھا کہ میں تم سے ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اسوقت انہوں نے بیٹی کی تعیین نہیں کی تھی اگر کوئی شخص اس پر یہ اشکال کرے کہ بغیر تعیین کے نکاح کیسے صحیح ہوا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسوقت شیخ مدین آٹھ سال ملازمت کرنے کی شرط پر نکاح کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا نکاح نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت موسیٰ نے معاہدہ کر لیا۔ بعد میں باقاعدہ نکاح کر دیا گیا۔ اس وقت منکوحہ کی بھی تعیین ہوگئی۔ قال القرطبی ص ۲۷۲ ج ۷ بدل علیٰ انہ لا عقد لانه لو كان عقد التعتین المفقود علیہا لہ۔ (امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آیت کے الفاظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ شیخ مدین نے ارادہ ظاہر کیا تھا ان مذکورہ الفاظ سے عقد نکاح نہیں کیا اگر اسی بات میں نکاح بھی مقصود ہوتا جو جس کا نکاح ہو رہا تھا اس کی تعیین بھی فرما دیتے)

فائدہ ثامنہ: آیت کریمہ میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ شیخ مدین نے اپنی بیٹی سے نکاح کرنے کی اجازت لی تھی۔ حضرات شوافع کا مذہب یہ ہے کہ بالغ لڑکی کا نکاح اس کا والد اس سے دریافت کئے بغیر کر سکتا ہے لیکن اس پر آیت کریمہ سے استدلال کرنا صحیح نہیں۔ کیونکہ آیت میں صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نکاح بشرط ملازمت کرنے کا ذکر ہے۔ جب آپس میں معاہدہ ہو گیا تب نکاح ہوا اس میں لڑکی سے دریافت کرنے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ ہاں بعض روایات حدیث سے شوافع کا استدلال ہو سکتا ہے جو متکلم فیہا ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ بالغ لڑکی سے ولی کا اجازت لینا ضروری ہے اگر لڑکی کنواری ہے تو اجازت کے وقت اس کا چپ ہو جانا کافی ہے۔ یعنی خاموشی اجازت میں شمار ہے اور جو عورت بیوہ یا مطلقہ ہو اس کا ولی اس سے نکاح کی اجازت طلب کرے تو جب تک وہ زبان سے نہ دے اس وقت تک اجازت نہیں مانی جائے گی۔ نیز قرآن مجید کی آیت وَلَا تَعْضَلُوْهُنَّ اَنْ يَّبْكَحْنَ اِذْ وَاَجِهْنَّ سے بھی یہ بات صاف ظاہر ہے کہ بالغ عورت اپنا نکاح خود کرے تو کر سکتی ہے البتہ جب عورت کا مخلص خیر خواہ ولی موجود ہو تو عورت آگے نہ بڑھے اور نکاح کا معاملہ ولی کے سپرد رکھے۔ احادیث کے رابعہ کے لئے مشکوٰۃ المصابیح ص ۲۷۰ کا مریعہ کیا جائے۔

فائدہ تاسعہ: شیخ مدین نے یہ جو فرمایا کہ وَمَا اُرِيْدُ اَنْ اَشْكِيَ عَلَيْكَ اس میں یہ بتا دیا کہ تمہارے ذمہ جو کام لگایا جائے گا تمہارے ذمہ بس وہی ہوگا اور میں تم پر سختی نہ کروں گا۔ معاہدہ اور طے شدہ معاملہ سے زیادہ کام نہ لوں گا پھر سَجْدَتِيْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ وَسِوَالِ الصَّلٰوٰتِ بھی فرمایا اس میں یہ بھی بتا دیا کہ تم مجھے حسن معاملہ میں اور نرم برتاؤ میں اور عہد کے پورا کرنے میں اچھا پاؤ گے معلوم ہوا کہ مزدور اور ملازم پوری طرح محنت سے مفوضہ اعمال پورا کرنے کی کوشش کرے اور جو شخص ملازم

رکھے وہ اسکے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اس کا حق واجب ادا کرے اسکی ادائیگی میں دیر نہ لگائے اور ملازم سے کبھی کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس سے درگزر کرے اگر کسی بات پر مواخذہ کرنا ہو تو اس کا انداز بھی مناسب رکھے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دیدو (رواہ ابن ماجہ ص ۱۷۶)۔ اور حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن میں تین آدمیوں کے خلاف مدعی بنوں گا۔

۱۔ وہ شخص جس نے میرا نام لیکر عہد کیا پھر دھوکہ دیا۔ ۲۔ جس شخص نے کسی آزاد کو بیچ دیا پھر اس کی قیمت کھا گیا۔

۳۔ جس شخص کو مزدوری پر لیا پھر اس سے اپنا کام پورا لے لیا اور اسے اس کی مزدوری نہ دی۔ (رواہ البخاری)

۱۰۔ عاشرہ: شیخ مدین کی جن دونوں بیٹیوں کا ذکر ہے بعض مفسرین نے انکے نام بھی لکھے ہیں اور یہ بھی لکھا ہے ان میں سے ایک بڑی تھی ایک چھوٹی تھی۔ ان میں سے ایک کا نام لیا اور دوسری کا نام صفور یا تھا اور یہ بھی لکھا ہے کہ صفور یا چھوٹی تھی اور وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے گئی تھی اور اسی سے ان کا نکاح ہوا تھا اور ایک قول یہ بھی ہے کہ بڑی لڑکی موسیٰ علیہ السلام کے نکاح میں دی گئی تھی۔

فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَىٰ الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ النَّاسُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا ۚ قَالَ لِأَهْلِهِ

پھر جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی اور اپنے اہل کو لیکر روانہ ہوئے تو طور کی جانب سے آگ کو محسوس کیا۔ اپنی اہل سے کہا

امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا ۚ الْعَلَىٰ إِلَيْكُمْ مِنْهَا يَحْبُرُ ۚ أَوْجَدُ وَقَوْهٖ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿۱۰﴾

کہ تم ٹھہرو بے شک میں نے ایک آگ دیکھی ہے امید ہے کہ میں تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا آگ کا انگارہ لے آؤں تاکہ تم تپ لو۔

فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبْرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن

سو جب وہ آگ کے پاس پہنچے تو اس میدان کی دائیں جانب سے اس مبارک مقام میں ایک درخت میں سے آواز آئی کہ

يُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۱﴾ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تُهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌ

اے موسیٰ بیشک میں اللہ ہوں رب العالمین ہوں۔ اور یہ کہ تم اپنی لاٹھی کو ڈال دو سو جب انہوں نے دیکھا کہ وہ اس طرح حرکت کر رہی ہے

وَلِي مُدْبِرٌ ۚ وَلَمْ يُعَقِّبْ ۚ يَمُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ ۚ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ ﴿۱۲﴾ أَسْلَكَ يَدَكَ

کہ گویا وہ سانپ ہے تو پشت پھیر کر پلٹ گئے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ اے موسیٰ آگے آؤ اور مت ڈرو بیشک تم امن والوں میں سے ہو

فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءُ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ۚ وَاضْمُمُ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ

اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں داخل کرو وہ بغیر کسی مرض کے سفید ہو کر نکلے گا اور اپنے ہاتھ کو بوجہ خوف کے اپنے بازو سے ملا لو۔

فَذَنِكَ بُرْهَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿۱۳﴾

سو تمہارے رب کی طرف سے یہ دو دلیلیں ہیں۔ فرعون اور اسکے سرداروں کی طرف بلاشبہ وہ نافرمان لوگ ہیں

قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ۝ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْضَلُ

موسیٰ نے کہا کہ سب بیگ میں نے ان میں سے ایک جان گول کر دیا تھا سو مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل کریں اور میرے بھائی ہارون زبان کا اعتبار سے مجھ سے زیادہ نفع ہیں

وَيُنِي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي ۚ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ۝ قَالَ سَنُنْذِرُ

سواپ انکو میرا لہجہ دگار بنا کر میرے ساتھ بھیج دیجئے وہ میری تصدیق کریں گے۔ مجھ سے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ میری تکذیب کریں۔ فرمایا ہم غریب تمہارا

عَصُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطٰنًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا ۚ إِنَّهُمْ وَكِنَ ۝

بازو تمہارے بھائی کے ذریعہ مضبوط کر دیں گے تم دونوں کو ایک خاص شوکت عطا کریں گے جس سے وہ لوگ تم دونوں تک نہ پہنچ سکیں گے تم دونوں ہمارے بھروسے لکھ جاؤ تم دونوں اور

اتَّبِعْكُمَا الْغٰلِبُونَ ۝

جو شخص تمہارا اتباع کریگا غالب رہو گے

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی اہلیہ کیساتھ مدین سے واپس مصر کے لئے

روانہ ہونا اور کوہ طور پر آگ نظر آنا پھر وہاں پہنچنے پر رسالت سے سرفراز کیا جانا

**تفسیر:** حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں اپنے خسر صاحب کے پاس اہلیہ کے ساتھ رہتے رہے پھر وہاں سے

مصر کی طرف واپس لوٹنے کا ارادہ فرمایا جب آنے لگے تو اپنی اہلیہ کو ساتھ لیا چلتے چلتے راستہ بھی بھول گئے اور رات کی

ٹھنڈک کی وجہ سے سردی بھی لگنے لگی طور پہاڑ سے کچھ دور ہی تھے کہ طور کی جانب آگ نظر آئی فرمایا میں وہاں جاتا ہوں۔

امید ہے کہ وہاں راستہ کی کوئی خبر مل جائے گی یعنی کسی راستہ بتانے والے سے ملاقات ہو جائے گی اگر یہ نہ ہوا تو کم از کم

اتنا تو ہوگا کہ آگ کا کوئی شعلہ کسی لکڑی میں لے آؤں گا جسے جلا کر تم تاپ لو گے یعنی گرمی حاصل کر لو گے اہل خانہ سے

فرما کر آگ کی طرف چل دیئے جیسے ہی طور پہاڑ کے داہنے جانب کے کنارے پر پہنچے تو اس مبارک جگہ سے انہیں

پکارنے کی آواز آئی اور یہ آواز ایک درخت سے نکلتی معلوم ہو رہی تھی۔ یہ آواز اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی اللہ تعالیٰ کا

ارشاد ہوا اے موسیٰ میں اللہ ہوں رب العالمین ہوں اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے اسے ڈال دو

موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو ڈال دیا تو اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ وہ تو چھوٹے سانپ کی طرح حرکت کر رہا ہے اس کو

جو حرکت کرتے ہوئے دیکھا تو پشت پھیر کر چل دیئے اور مڑ کر دیکھا بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ ڈرو نہیں

آگے بڑھو تم امن میں ہو تمہیں کوئی تکلیف پہنچنے والی نہیں ہے مزید یہ کہ وہ کہنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو پھر اسے نکالو وہ

چمکدار ہو کر تمہارے سامنے آجائے گا گندی رنگ کی بجائے زیادہ تیز روشنی والا ہو کر جو نکلے گا تو کسی مرض یعنی برص وغیرہ

کی وجہ سے ایسا نہ ہوگا چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا کہ ہاتھ گریبان میں ڈال کر باہر نکالا ان کا ہاتھ خوب زیادہ روشن ہو کر

گریبان سے باہر آ گیا۔ اللہ جل شانہ نے مزید فرمایا کہ ہاتھ کی یہ کیفیت دیکھ کر کچھ خوف محسوس ہوا تو اسے دور کرنے کے

لئے اپنے بازو یعنی اسی سفید ہاتھ کو دوبارہ اپنے گریبان میں ڈال لینا ایسا کرنے سے وہ اپنی پہلی حالت پر آ جائے گا۔

اللہ تعالیٰ نے ان کے عصا کو سانپ بنا کر پہلی حالت پر لوٹا دیا اور انکے داہنے ہاتھ کو خوب زیادہ روشن چمکدار بنادیا پھر اسکو اصلی حالت پر لوٹا دیا اور بطور معجزہ ان کو یہ دونوں چیزیں عطا فرمادیں اور فرمایا کہ تمہارے رب کی طرف سے یہ دو دلیلیں ہیں۔ تم فرعون اور اسکی جماعت کے بڑے لوگوں کے پاس چلے جاؤ اور انہیں حق کی اور اعمال صالحہ کی دعوت دو اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور عبادت کی طرف متوجہ کرو۔ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِیْنَ (بلاشبہ وہ لوگ نافرمان ہیں)

موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں دو باتیں عرض کیں ایک تو یہ کہ میں نے مصریوں کا ایک شخص قتل کر دیا تھا اب مجھے ڈر ہے کہ انکے پاس جاؤں تو مجھے قتل کر دیں اور اس صورت میں رسالت کا کام نہ ہو سکے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے ساتھ کوئی ایک شخص ہونا چاہئے جو میرا معاون ہو لہذا میرے خاندان میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنادیں (کمافی سورۃ طہ) اس سے مجھے قوت بھی ملے گی اور میری زبان میں روانی نہیں ہے۔

ہارون زبان کے اعتبار سے مجھ سے زیادہ فصیح ہیں۔ جب وہ بھی رسول ہوں گے اور میرے کام میں شریک ہوں گے اور ہم دونوں ملکر فرعون کے پاس جائیں گے تو انکی وجہ سے ہمت بندھی رہے گی اور اگر زبانی مناظرے کی ضرورت پیش آگئی تو چونکہ ان کی زبان میں روانی ہے اسلئے وہ مناظرہ میں بھی اچھی طرح گفتگو کر سکیں گے۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ لہذا مناسب یہ ہے کہ اس موقع پر ہارون میرے مددگار ہوں اور میری تصدیق کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا وہیں کوہ طور کے پاس کی تھی جب نبوت سے سرفراز ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے انکی دعا قبول فرمائی اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمادی مفسرین نے لکھا ہے کہ ہارون مصر ہی میں تھے ابھی موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے بھی نہیں تھے کہ اس سے پہلے انہیں رسالت سے سرفراز کر دیا گیا تھا۔

قَالَ سَنَنْتُكَ عَصًا ذَاکَ بِأَخِيكَ (الآیۃ) اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہارے بھائی کے ذریعہ تمہارے بازو کو مضبوط کر دیں گے اور تمہیں ایسا غلبہ دے دیں گے کہ وہ لوگ تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے تم دونوں میری آیات کو لے کر چلے جاؤ۔ تم دونوں اور جو بھی شخص تمہارا اتباع کرے تم سب غالب ہو گے۔

هذا اذا تعلق قوله تعالى باياتنا بالفعل المحذوف ای اذ ہا باياتنا واختاره المحلی فی تفسیرہ وفیہ اوجہ ذکرہا فی حاشیۃ تفسیر الجلالین۔ (یہ تفسیر تب ہے جبکہ باياتنا کا تعلق فعل محذوف سے ہو یعنی اذہنا باياتنا (تم دونوں میری آیات لیجاؤ) اسی توجیہ کو علامہ محلی نے اپنی تفسیر میں اختیار کیا ہے اور آیت کے اس جملہ میں اور بھی کئی ساری توجیہات ہیں جو تفسیر جلالین کے حاشیہ میں مذکور ہیں)

فائدہ: صاحب معارف القرآن لکھتے ہیں کہ طور پر جو تجلی تھی کہ تجلی بشکل نار تجلی مثالی تھی کیونکہ تجلی ذاتی کا مشاہدہ اس دنیا میں کسی کو نہیں ہو سکتا اور خود موسیٰ علیہ السلام کو اس تجلی ذاتی کے اعتبار سے لن ترانی فرمایا گیا ہے یعنی آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے مراد مشاہدہ ذات حق ہے۔

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا

پھر جب ان کے پاس موسیٰ ہماری واضح آیات کے ساتھ آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو محض ایک جادو ہے جو افتر کیا گیا ہے اور ہم نے



بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ۝ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِالْهُدَىٰ

یہ بات اپنے پہلے باپ دادوں میں نہیں سنی اور موسیٰ نے کہا کہ میرا رب اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کے پاس سے ہدایت لے کر آیا

مَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ۝ وَقَالَ

اور اُسے بھی خوب جانتا ہے جس کا دار آخرت میں اچھا انجام ہوگا۔ بلاشبہ بات یہ ہے کہ ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے اور فرعون نے کہا

فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَهَامُنُ عَلَى الطِّينِ

کہ اے میرے درباریو! میں تمہارے لئے اپنے علاوہ کوئی معبود نہیں جانتا سوائے ہامان تو میرے لئے مٹی پر آگ جلا دے

فَاجْعَلْ لِّي صَرْحًا لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى اللَّهِ مُوسَىٰ ۖ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۝

سو میرے لئے ایک محل بنا دے تاکہ میں موسیٰ کے معبود کو دیکھوں اور بلاشبہ میں اسے جھوٹوں میں سے سمجھتا ہوں

وَأَسْتَكْبِرُ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُم إِلَيْنَا لَا

سو اس نے اور اسکے لشکروں نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور انہوں نے خیال کیا کہ وہ ہماری طرف نہیں

يُرْجَعُونَ ۝ فَآخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَاظْطَرُّوْكَفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ۝

لوٹیں گے۔ سو ہم نے اسے اور اسکے لشکروں کو پکڑ لیا سو انہیں سمندر میں پھینک دیا۔ سوائے مخاطب دیکھ لے ظالموں کا کیا انجام ہوا۔

وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يُدْعَوْنَ إِلَى التَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ لَا يُنْصَرُونَ ۝ وَاتَّبَعْنَاهُمْ

اور ہم نے انہیں پیشوا بنا دیا جو آگ کی طرف دعوت دیتے رہے اور قیامت کے دن انکی مدد نہ کی جائے گی اور ہم نے

فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً ۖ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ ۝

اس دنیا میں انکے پیچھے لعنت لگا دی اور قیامت کے دن قباحت والوں میں سے ہونگے

رسالت سے سرفراز ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مصر کو واپس ہونا

پھر فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس پہنچ کر حق کی دعوت دینا

**تفسیر:** حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس ہوتے ہوئے وادی طویٰ میں نبوت سے سرفراز کئے گئے اور

وہیں انہوں نے اللہ جل شانہ سے دعا کی کہ میرے بھائی ہارون کو بھی رسول بنا دیجئے تاکہ میں اور وہ ملکر فرعون اور اسکی قوم

کے پاس جائیں اور آپ کا فرمان پہنچائیں اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرما

دی جس کی کچھ تفصیل گزر چکی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر پہنچے تو اپنے گھر گئے اور حضرت ہارون علیہ السلام کو

ساتھ لیا۔ دونوں ملکر فرعون کے پاس پہنچے فرعون اپنے درباریوں کے ساتھ موجود تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے

اللہ جل شانہ کو واحد معبود ماننے کی دعوت دی اور فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ میں صحیح بات پہنچاؤں گا۔

(حَقِيقٌ عَلَىٰ أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ) اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دو بڑے معجزے دکھائے۔ عصا کو ڈالا تو وہ اڑ دھا بن گیا اور گریبان میں ہاتھ ڈال کر نکالا تو وہ نہایت زیادہ سفید اور روشن تھا۔ سب دیکھنے والوں نے جب یہ دونوں معجزے دیکھ لئے تو فرعون اور اسکے درباری کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے جسے اس نے خود ہی بنالیا ہے اور اس شخص کا یہ دعویٰ کہ میں نبی ہوں۔ ایسا دعویٰ ہم نے اپنے باپ دادوں کے زمانوں میں تو نہیں سنا یہ بات انہوں نے جھوٹ کہی یہ کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے تھے۔ اور وہ ایمان کی دعوت دیتے رہے تھے۔

چونکہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو جادو پر محمول کیا اسلئے مقابلہ کرنے کے لئے جادو گروں کو بلایا جس کا ذکر سورۃ اعراف (ع) اور سورۃ طہ (ع) اور سورۃ شعراء (ع) میں مذکور ہے۔ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعدد سوالات بھی کئے اور آپ نے بڑی جسارت اور بے باکی کے ساتھ جواب دیئے یہ سوال و جواب بھی سورۃ طہ اور سورۃ شعراء میں مذکور ہیں۔ چونکہ فرعون اور اسکے درباری حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب پر تلے ہوئے تھے اس لئے

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ رَبِّیْ أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَهُ بِالْهُدٰی مِنْ عِنْدِہٖ وَ مَنْ تَكُونُ لَہٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ (میرا رب خوب جانتا ہے اس کو جو ہدایت لے کر آیا اور اس شخص کو بھی جس کا انجام آخرت میں اچھا ہونے والا ہے) تم لوگ مجھے جھٹلاتے ہو لیکن میرے رب کو تو معلوم ہے کہ میں اس کا رسول ہوں جو شخص میری بات مان لے گا اس کا انجام اچھا ہو گا عَاقِبَةُ الدَّارِ سے بعض حضرات نے دار دنیا کا انجام اور بعض حضرات نے دار آخرت کا انجام مراد لیا ہے اگر دار دنیا مراد ہو تو اس میں اس بات کی پیشگی اطلاع ہے کہ تم میری دعوت قبول نہ کرو گے تو تمہارا برا انجام ہو گا چنانچہ ایسا ہوا کہ فرعون اور اسکے لشکر سمندر میں غرق کر دیئے گئے۔ اِنَّہٗ لَا یُعْطِیْہُمُ الظَّالِمُوْنَ (بلاشبہ ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے) صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرمان کا حاصل یہ ہے کہ میرے رب کو خوب معلوم ہے کہ فلاح اعظم کا کون اہل ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنادیا اور ہدایت دے کر بھیج دیا اور حسن عاقبت کا وعدہ فرمالیا اور اگر ایسی بات ہوتی جیسے تم کہتے ہو کہ تمہارے پاس ہدایت لانے والا جادو گر ہے افترا پرداز ہے تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نبی کیوں بناتا؟ وہ غنی ہے حکیم ہے جھوٹوں کو اور جادو گروں کو رسالت اور نبوت سے نہیں نوازتا۔

فرعون نے جب یہ محسوس کیا کہ مصر کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات سے متاثر ہو رہے ہیں اور وہ جو معبود ہونے کا دعویٰ کرتا تھا اس میں رخنہ پڑ رہا ہے اور موسیٰ اور اس کا بھائی مجھے معبود ماننے کو تیار نہیں ہے تو اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ جہاں تک میں جانتا ہوں تمہارے لئے میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ (جب بڑوں کا معبود ہونے کا دعویٰ کر دیا تو چھوٹے کس شمار میں ہو سکتے ہیں) اس کا دل تو جانتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام حق پر ہیں جیسا کہ سورۃ بنی اسرائیل میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا۔ لَقَدْ عَلِمْتُمْ اَنَّکُمْ کُنتُمْ اَوْلَادُ الرَّبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ بَصَآئِرٌ (تو خوب جانتا ہے کہ یہ عجائبات خاص آسمان اور زمین کے پروردگار ہی نے بھیجے ہیں جو کہ بصیرت کے ذرائع ہیں) لیکن وہ انکار پر جمار ہوا اور خواص کی نظر ہٹانے کے لئے اور انکے غور و فکر کو الجھانے کے لئے اپنے وزیر ہامان سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا۔ فَاَوْفِقْنِیْ یٰہٰ اَمْرًا عَلٰی الطَّیِّبِْنَ فَاجْعَلْ لِّیْ صَدْرًا عَلٰی اُظْفِرِیْ اَطْلِعْہٖ اِلٰی اللّٰہِ مُؤْمِنًا وَاِنِّیْ لَاطْلُکَہٗ مِنَ الْکَذٰبِیْنَ (اے

ہامان تو ایسا کر کہ اول کچی اینٹیں بنوا اور اس کام کے لئے ایک بھٹ لگا پھر اس میں اینٹوں کو پکا کر بہت بڑی تعداد میں کچی اینٹیں تیار کر پھر ان اینٹوں سے ایک اونچا محل تیار کرتا کہ میں اوپر چڑھ کر موسیٰ کے معبود کا پتہ چلاؤں۔ بلاشبہ میں اسے جھوٹوں میں سے سمجھتا ہوں) اس کا ذکر سورہ زمر میں اس طرح سے ہے۔ وَقَالَ فِرْعَوْنُ لِّهَامَانَ ابْنِ لِي صُنْ لِيَ آلِهَةَ الْآسَافِ آسَابُ السَّمَوَاتِ فَكُلَّمَا عَلَىٰ لِّهَامُونِی (اور فرعون نے کہا کہ اے ہامان میرے لئے ایک محل بنا دے تاکہ میں آسمانوں کے راستوں پر پہنچ جاؤں پھر میں موسیٰ کے رب کو دیکھوں) یہ بات جاہلوں کو بیوقوف بنانے کے لئے کہی۔ کتنا ہی بڑا محل بنا لیا جائے پہلے آسمان پر نہیں پہنچ سکتے۔ (پھر کوئی شخص زینہ سے چڑھ کر سارے آسمانوں پر کیسے پہنچ سکتا ہے) جو لوگ ایک بڑی مدت تک جہالت میں رہتے ہیں معبود حقیقی کو نہیں جانتے وہ ایسی باتوں میں آ جاتے ہیں ورنہ عوام کیلئے تو اسکے جواب میں یہ کہہ دینا کافی تھا کہ تو اپنے آپ کو معبود بتاتا ہے حالانکہ تو آسمان پر پہنچنے کے لئے زینہ اور عمارت کا محتاج ہے اپنے اور تیرے چاہنے سے تو اینٹیں بھی وجود میں نہیں آ سکتیں پہلے کچی اینٹیں بنائی جائیں پھر ان کو پکایا جائے پھر عمارت بنائی جائے پھر تو اس پر چڑھے کیا ایسے عاجز کو بھی خدائی کا دعویٰ کرنا زیب دیتا ہے۔ جن لوگوں کو کچھ سمجھ عقل تھی وہ دنیاوی مفاد اور فرعون کی سطوت اور سلطنت کی وجہ سے دب گئے اور زبان نہ ہلا سکے۔

قال صاحب الروح ص ۸۰ ج وایا ما كان فالقوم كانوا في غاية الغباوة والجهل وإفراط العمایة والبلادة والا لماتفق عليهم مثل هذا الهدیان الخ ماقال. (تفسیر روح المعانی کے مصنف علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قوم ان دنوں ایسی انتہاء درجہ کی بے عقل اور جاہل بالکل اندھی اور بے وقوف تھی ورنہ جب فرعون نے ان کے سامنے اس طرح کا ہدیان کہا تو انہیں سمجھ جانا چاہئے تھا..... الخ)

قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ محل تیار ہوا یا نہیں اور تیار ہوا تو نتیجہ کیا نکلا۔ علامہ قرطبیؒ نے سدی سے نقل کیا ہے کہ ہامان نے محل بنایا اور فرعون اس پر چڑھا اور اس نے آسمان کی طرف تیر پھینکے اور وہ خون میں بھرے ہوئے واپس ہوئے اس پر وہ کہنے لگا کہ میں نے موسیٰ کے معبود کو قتل کر دیا۔ جب اس نے یہ بات کہی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اس محل میں اپنا ایک پر مارا جس کا ایک ٹکڑا فرعون کے لشکر پر گرا جس کی وجہ سے ہزاروں آدمی ہلاک ہو گئے اور ایک سمندر میں گرا اور ایک مغرب میں گرا جن لوگوں نے اس محل کے بنانے میں کام کیا تھا وہ سب ہلاک ہوئے۔ علامہ قرطبیؒ نے نقل کر دیا لیکن انہیں خود ہی اسکے صحیح ہونے میں تردد تھا اسلئے آخر میں وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِصَحَّةِ ذٰلِكَ فرما دیا۔ بعض مفسرین کا موقف یہ ہے کہ فرعون نے یہ بات بطور مذاق اڑانے کے کہی تھی موسیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ تمہارا اور تمہارے باپ داداؤں کا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا اور ان چیزوں کا رب ہے جو انکے درمیان ہیں (کمافی سورۃ الشعراء) تو میں بھی تو اسکے رب کو دیکھوں یعنی مقصود محل بنانا اوپر چڑھنا نہ تھا بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلانا مقصود تھا۔ وَاَسْتَكَبَّرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ (اور فرعون نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں ناحق تکبر کیا) وَقَضَّوْا السَّحَابَ الْبَيْنَا لَا يَرُجَعُونَ (اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ ہماری طرف نہیں لوٹیں گے) یعنی قیامت کے دن کے اور انکار و تکذیب کے قائل نہ تھے۔ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھا اور انکا تکبر انہیں لے ڈوبا۔ فَاَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ (سو ہم نے فرعون کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور انہیں سمندر میں پھینک دیا) فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِيْنَ (سو اے مخاطب تو دیکھ

لے ظالموں کا کیسا انجام ہوا)

وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يَدْعُونَ إِلَى التَّكْوَرِ (اور ہم نے انہیں پیشوا بنا دیا جو دوزخ کی طرف بلاتے رہے) یعنی کفر و شرک کی دعوت دیتے رہے جس کا نتیجہ دوزخ میں جانا ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ (اور قیامت کے دن انکی مدد نہیں کی جائے گی)

وَاتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً (اور اس دنیا میں ہم نے انکے پیچھے لعنت لگا دی) اہل ایمان ان پر ہمیشہ لعنت بھیجتے رہے اور بھیجتے رہیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ اور وہ لوگ قیامت کے دن بری حالت میں ہوں گے۔ سورہ زمر میں فرمایا اَلْكَافِرُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ۔ (وہ صبح و شام آگ پر پیش کئے جاتے ہیں) (یعنی برزخ میں) اور قیامت کے دن کہا جائے گا کہ آل فرعون کو سخت عذاب میں داخل کر دو)

فائدہ: فرعون اس کی جماعت کے لئے آيَةً يَدْعُونَ إِلَى التَّكْوَرِ فرمایا کہ ہم نے انہیں پیشوا اور امام بنایا جو دوزخ کی طرف بلاتے تھے اس سے معلوم ہوا کہ لفظ امام بطرح خیر کی دعوت دینے والوں کے لئے بولا جاتا ہے اسی طرح شرکی دعوت دینے والے کے لئے مستعمل ہے جو اہل شرکی دعوت قبول کر لیتے ہیں یہ داعی انکے امام پیشوا بنے رہتے ہیں بہت سے باطل فرتے ہیں جو اپنے پیشوا کو امام کہتے ہیں لفظ ”امام“ سے دھوکہ کھا کر انہیں مسلمان نہ سمجھیں جو شخص کفریات کی دعوت دیتا ہو وہ کفر کا اور کافروں کا امام ہے اگرچہ مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہو اس کو خوب سمجھ لیا جائے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ

اور اس کے بعد ہم نے اگلی امتوں کو ہلاک کر دیا تھا ہم نے موسیٰ کو کتاب دی جو لوگوں کے لئے بصیرتوں کا ذریعہ تھی

وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّعَالَمِهِمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝ وَمَا كُنْتَ بِمَجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ

اور سراپا ہدایت اور رحمت تھی تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اور آپ مغربی جانب میں نہیں تھے جبکہ ہم نے

مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ۝ وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ

موسىٰ کو احکام دیئے اور آپ مشاہدہ کرنے والے نہ تھے اور لیکن ہم نے بہت سی جماعتوں کو پیدا کیا پھر ان پر دراز

الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًّا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا

زمانہ گزر گیا اور آپ اہل مدین میں مقیم نہ تھے آپ ان پر ہماری آیتیں تلاوت کرتے ہیں اور لیکن ہم ہی

مُرْسِلِينَ ۝ وَمَا كُنْتَ بِمَجَانِبِ الطُّوَرِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ

رسول بنانے والے ہیں۔ اور آپ طور کی جانب نہ تھے جب ہم نے آواز دی۔ اور لیکن آپ کے رب کی طرف سے آپ پر رحمت ہوئی۔

قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝ وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ

تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں۔ جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اور ہم رسول نہ بھیجے اگر یہ بات نہ ہوئی کس کا عمل کی وجہ سے

مُصِيبَةٍ يُبَادِّمَتْ أَيْدِيَهُمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنُتَّبِعَ آيَتِكَ

ان پر مصیبت آ جاتی تو یہ کہنے لگتے کہ اے ہمارے رب ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا تاکہ ہم آپ کی آجوں کا اتباع کر لیتے

وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ

اور ایمان لانے والوں میں سے ہو جاتے ہو جب ہماری طرف سے ان کے پاس حق آ گیا تو کہنے لگے کہ اس شخص کو ایسی کتاب کیوں نہ ملی جیسی

مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا ۖ

موسیٰ کو ملی تھی کیا اس سے پہلے لوگوں نے اس چیز کے ساتھ کفر نہیں کیا جو موسیٰ کو دی گئی کہنے لگے یہ دونوں جادوگر ہیں۔ دونوں نے

وَقَالُوا إِنَّا بِكُمْ لَكَافِرُونَ ۝ قُلْ فَاتُوا بِلِكْتِ بْنِ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا

آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا معاملہ کر لیا جا کہنے لگے کہ ہم دونوں میں سے کسی کو نہیں مانتے آپ فرمائیے کئی کتاب لے دو جو اللہ کی طرف سے ہو ہدایت کرنے میں

اتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يُتَّبَعُونَ أَهْوَاءَهُمْ ۖ

ان دونوں سے بہتر ہوا اگر تم سچے ہو۔ سو وہ اگر آپ کی بات قبول نہ کریں تو آپ جان لیجئے کہ وہ اپنی خواہشوں کا اتباع کرتے ہیں

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ يُغَيِّرْهُدَىٰ ۖ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝

اور اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو اللہ کی طرف سے ملنے والی ہدایت کے بغیر اپنی نفسانی خواہشوں کا اتباع کرتا ہو۔ بلاشبہ اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں کرتا

## توریت شریف سراپا بصیرت ہدایت اور رحمت تھی

**تفسیر:** ان آیات میں چند امور ذکر فرمائے ہیں۔

**اول:** یہ کہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام تشریف لائے تھے انھوں نے تو حید کی دعوت دی تھی حق پہنچایا ایمان قبول کرنے پر بشارتیں دیں کفر پر جہے رہنے پر دنیا و آخرت کے عذاب سے ڈرایا ان کی امتوں نے نہیں مانا ہم نے انہیں ہلاک کر دیا جو اقوام و افراد باقی تھے ان کی نسلیں چلیں پلے او بڑھے حتیٰ کہ بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیج دیا اس وقت بنی اسرائیل کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی ضرورت تھی اور فرعون کو اور اس کی قوم کو بھی موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے ہم نے انہیں کتاب دی اس کتاب میں بصیرتیں یعنی عقل و فہم اور سمجھ کی باتیں تھیں اور ہدایت بھی تھی اور اس ہدایت کا قبول کرنا ان لوگوں کے لئے رحمت کا سبب تھا یہ کتاب انہیں موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے دی گئی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں مزید فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم نے بہت سی جماعتوں کو بھیجا ان کا زمانہ

دراز ہو گیا اس درازی زمانہ کی وجہ سے بعد میں آنے والے لوگ علوم نبوت سے اور ہدایت سے نا آشنا ہو گئے۔ لہذا ہماری حکمت کا تقاضا ہوا کہ آپ کو نبوت اور رسالت سے سرفراز کر دیا اور گمراہ لوگوں کی طرف آپ کو مبعوث کریں۔

**دوم:** حضرت خاتم الانبیاء ﷺ کی رسالت اور نبوت کے جو دلائل جگہ جگہ قرآن مجید میں مذکور ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ نے سابقہ امتوں کے احوال کہیں نہیں پڑھے تھے نہ کسی نے آپ کو بتائے تھے۔ اسکے باوجود آپ نے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے اور انکی امتوں کے واقعات بتائے تھے۔ ان واقعات کا بتانا اور اہل کتاب کا ان کو ماننا کہ ہاں ایسا ہوا تھا کم از کم اہل کتاب اور انکی بات کی تصدیق کر نبیوں کے لئے اس امر کی بڑی بھاری دلیل تھی کہ سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ انکے واقعات کو جاننا اور صحیح صحیح بیان کرنا اس بات کی صریح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعہ بتائے ہیں ان واقعات میں سے یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کا حوالہ دے کر فرمایا جو عنقریب ہی گزرا ہے اور خطاب رسول اللہ ﷺ سے فرمایا کہ جب کوہ طور کی مغربی جانب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو احکام دیئے اس وقت آپ وہاں موجود نہ تھے اور یہ بھی فرمایا کہ آپ اہل مدین میں مقیم نہ تھے جو اپنی آنکھوں سے موسیٰ کے واقعات کا مشاہدہ کرتے۔ پھر بھی آپ نے وہاں کے واقعات کی خبر دی۔ یہ واقعات ہماری آیات میں موجود ہیں جنہیں آپ انکو پڑھ کر سناتے ہیں۔ ان لوگوں کے سامنے ان آیات کا پڑھنا آپ کے نبی اور رسول ہونے کی واضح دلیل ہے۔ وَلَیْکُنَا اٰیٰتًا مُّزِیْلٰیْنِ (اور لیکن ہم رسول بنانے والے ہیں) ہم نے آپ کو رسول بنا کر مذکورہ واقعات وحی کے ذریعہ دیئے۔ وَمَا کُنْتَ بِجَانِبِ الطُّوْرِ اِذْ نَادٰیْنَا (اور آپ طور کی جانب میں اسوقت بھی موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو پکارا) وَلٰکِنْ رَّحِمْنٰهُ مِنْ قَبْلِکَ اور لیکن اس کا علم آپ کو اس طرح حاصل ہوا کہ آپ اپنے رب کی رحمت سے نبی بنا دیئے گئے۔ جب نبوت مل گئی تو اسکے ذریعہ انبیاء سابقین علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات معلوم ہو گئے لَتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا اَتَتْهُمْ مِنْ نَّذْرِ مِنْ قَبْلِکَ تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جنکے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ لَعَلَّهُمْ یَتَذَكَّرُوْنَ تاکہ وہ لوگ نصیحت قبول کر لیں۔ یہاں اس قوم سے اہل عرب مراد ہیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں ہیں انکے بعد سیدنا حضرت محمد ﷺ تک اہل عرب میں کوئی پیغمبر مبعوث نہیں ہوا تھا۔

**سوم:** یہ فرمایا کہ جن لوگوں کی طرف آپ مبعوث ہوئے ہیں آپ کی بعثت سے ان پر حجت قائم ہو گئی اگر آپ کی بعثت نہ ہوتی اور انکے گناہوں کی وجہ سے انہیں کوئی مصیبت پہنچ جاتی تو وہ کہنے لگتے کہ ہمارے پاس کوئی رسول آیا ہوتا تو ہم اس کا اتباع کر لیتے نہ گناہ گار ہوتے نہ مصیبت کا منہ دیکھتے جب کوئی نہ آیا تو ہم کیا کریں۔ ان لوگوں کی اس بات کی پیش بندی کرنے اور انکا عذر ختم کرنے کے لئے ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیج دیا۔ اب جب حجت تمام ہو گئی پھر بھی کفر پر جمے ہوئے ہیں تو اس کا وبال ان پر پڑیگا۔ اس آیت کا مضمون تقریباً سورہ طہ کی آیت کریمہ وَلَوْ اَنَّ اَکْثَرَ النَّاسِ عَلِمُوْا بِمَقْصِدِیْ اِلَیْہِمْ لَکُنَّا لَآ اٰیٰتًا لِّہُمْ اَلَّا یَعْبُدُوْا مِنْ قَبْلِہِ لَقَدْ اَوَّلَیْنَا لَوْلَا اَنْرَسَلْتُ الْاِنْبِیَاۡءَ لَاسُوْا فَتُنَبِّہُ اٰیٰتِکَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَذٰلَکَ وَتَخْزٰی (اور اگر ہم اس سے پہلے ان لوگوں کو عذاب کے ذریعہ ہلاک کر دیتے تو یوں کہتے کہ اے ہمارے رب آپ نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم آپ کی آیات کا اتباع کرتے اس سے پہلے کہ ہم ذلیل اور رسوا ہوں)

**چہارم:** یہ فرمایا کہ جب ان لوگوں کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا یعنی رسول اللہ ﷺ نے اللہ کی

کتاب پیش کر دی تو قبول نہ کرنے کا بہانہ بنانے کے طور پر یوں کہنے لگے کہ انکو ایسی کتاب کیوں نہ ملی جیسی موسیٰ کو ملی یعنی قرآن پورا مکمل ایک ہی دفعہ کیوں نازل نہیں ہوا جیسے توراۃ شریف ایک ہی مرتبہ مکمل عطا کر دی گئی تھی۔ یہ بات اہل مکہ نے یہودیوں کو کہی تھی کہ حضرت موسیٰ کو دفعہ واحدہ پوری کتاب دے دی گئی تھی۔ ان کے جواب میں فرمایا اَوَلَمْ يَكْفُرُوا لِمَا آتَوْهُم مِّنْ قَبْلُ (کیا لوگوں نے اس کتاب کے ساتھ کفر نہیں کیا جو اس سے پہلے موسیٰ کو دی گئی تھی) انکے زمانہ کے لوگوں نے نہ صرف یہ کہ توراۃ شریف کا انکار کیا بلکہ حضرت موسیٰ اور انکے بھائی ہارون علیہما السلام کے بارے میں یوں بھی کہا کہ دونوں جادوگر ہیں۔ (کما فی قراءۃ سبعیۃ "ساحران" "علی صیغۃ" اسم الفاعل) آپس میں مشورہ کر کے ایک دوسرے کے معاون بن گئے ہیں اور یہ بھی کہا کہ اِنَّا بِكُمْ لَكَافِرُونَ۔ (کہ ہم دونوں میں سے ہر ایک کے منکر ہیں) پس اگر کسی کتاب کے قبول کرنے کے لئے ایک ہی مرتبہ نازل ہونا انکے خیال میں مشروط ہے تو جن لوگوں کے پاس توراۃ شریف آئی تھی وہ اسے مان لیتے معلوم ہوا کہ ان لوگوں کو ماننا نہیں ہے بہانہ بازی سے کام لیتے ہیں اور عناد پر جتے ہوئے ہیں قال القرطبی اولم یکفر ہنولاء الیہود بما اوتی موسیٰ حین قالوا موسیٰ و ہارون ہما ساحران وانا بکمل کافرون ای وانا کافرون بکل واحد منہما اھ و فیہ قول آخر و ہوان المراد بساحران سیدنا موسیٰ و سیدنا محمد علیہما السلام یوافق قولہما فیما ادعیاه۔ (امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا ان یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل شدہ کتاب کا انکار نہیں کیا جبکہ انہوں نے کہا کہ موسیٰ اور ہارون دونوں جادوگر ہیں اور یہ کہا کہ اِنَّا بِکُمْ لَكَافِرُونَ یعنی ہم ان دونوں میں سے ہر ایک کے منکر ہیں اھ اس بارے میں دوسرا قول بھی ہے اور وہ یہ کہ یہاں دو جادوگروں سے مراد سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا حضرت محمد ﷺ ہیں یہ قول یہودیوں کے دعویٰ کے موافق ہے)

**پنجم:** یوں فرمایا قُلْ فَاَتُوبُ اِلَیْکُمْ قُرْآنٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ هُوَ اَھْدٰی مِنْہُمَا (الآیۃ) (آپ فرمادیجئے کہ تم اللہ کے پاس

سے کوئی کتاب لے آؤ جو ان کتابوں یعنی قرآن اور توراۃ سے بڑھ کر ہدایت دینے والی ہو میں اس کا اتباع کر لوں گا اگر تم اپنی بات میں سچے ہو) مطلب یہ ہے کہ تم نہ توراۃ کو ماننے ہو نہ قرآن کو ماننے ہو۔ چلو تم اور کوئی کتاب لے آؤ جو اللہ کی طرف سے ہو اگر تم بالفرض اسے اللہ کی کتاب ثابت کر دو تو میں اسکی پیروی کر لوں گا۔ اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو میری لائی ہوئی کتاب کو مانو میں نے اس کا حق ہونا ثابت کر دیا ہے اور اس میں توریت شریف کی بھی تصدیق ہے۔

یہ لوگ اگر آپ کی یہ بات قبول نہ کر سکیں اور قبول کر بھی نہیں سکتے کیونکہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کتاب نہیں ہے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ لوگ ہدایت کی تلاش میں ہیں ہی نہیں یہ تو حق سے منہ موڑنے کے لئے بہانے تلاش کر رہے ہیں۔ انکا یہی طریقہ ہے کہ اپنی خواہشوں کا اتباع کرتے ہیں جس کے پاس اللہ کی ہدایت نہ ہو اور وہ اپنی خواہشات نفسانی ہی کا اتباع کرتا رہے اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الظّٰلِمِیْنَ (بلاشبہ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا) جو وضوح حق کے بعد ہدایت سے منہ موڑے اور نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتا رہے۔ اَھْدٰی مِنْہُمَا میں تشبیہ کی ضمیر قرآن مجید میں اور اصلی توراۃ کی طرف راجع ہے۔ لہذا یہ اشکال نہیں ہوتا کہ محرف توراۃ کو ہدایت کا ذریعہ کیسے بتا دیا اور بات بھی علی سبیل الفرض ہے کہ اگر تم سے ہو سکے تو ان دونوں کتابوں سے زیادہ



ہدایت والی کتاب لے آؤ جو اللہ کی طرف سے ہو لہذا یہ اشکال بھی نہیں رہا کہ اصل توریت بھی تو منسوخ ہے۔ اس پر عمل کرنے کا وعدہ کیوں فرمایا۔

وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿۴۷﴾ الَّذِينَ اتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ مِنْ

اور ہم نے اس کلام کو ان لوگوں کے لئے مسلسل بھیجا تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی ہے

قَبْلَهُ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿۴۸﴾ وَإِذْ آتَيْنَاهُمْ عَلَيْهِمُ الْقَالَوَا امْنَابِيَا إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّكَ كُنَّا

وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور جب ان کے سامنے اُن کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے بلاشبہ یہ حق ہے ہمارے پروردگار کی طرف سے بے شک ہم

مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴿۴۹﴾ أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرُهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ

پہلے ہی سے فرمانبردار تھے وہ لوگ ہیں جن کو ہم کرنے کی وجہ سے دہرائو اب دیا جائے گا اور یہ لوگ بھلائی کے ذریعہ برائی کو دفع کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے دیا ہے

السَّيِّئَةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿۵۰﴾ وَإِذْ أَسْمَعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا

اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور جب لغویات سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ ہمارے لئے ہمارے اعمال

وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ﴿۵۱﴾

اور تمہارے لئے تمہارے اعمال، ہم تم کو سلام کرتے ہیں ہم جاہلوں سے بات کرنا نہیں چاہتے

سابق اہل کتاب قرآن کریم پر ایمان لاتے ہیں ان کے لئے دوہرا اجر ہے

**تفسیر:** یہ پانچ آیات ہیں پہلی آیت میں یہ فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن کو اس طرح نازل کیا کہ یکے بعد دیگرے آیات

نازل ہوتی رہی ہیں جن میں وعدے بھی، وعیدیں بھی، قصے بھی ہیں اور عبرت کے واقعات بھی، نصائح بھی ہیں اور مواظظ بھی انکا تقاضا یہ ہے کہ ان سے نصیحت حاصل کریں شرک اور کفر کو چھوڑیں۔ قرآن لائے بغیر پیغمبر پر ایمان لائیں۔

دوسری اور تیسری آیت میں اہل کتاب کے بارے میں فرمایا کہ جنہیں اس سے پہلے کتاب دی گئی وہ اس پر

ایمان لاتے ہیں جب رسول اللہ ﷺ مدینہ منورہ تشریف لائے تو انصاف پسند چند یہودیوں نے اسلام قبول کر لیا

جن میں حضرت عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بھی تھے اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو پہلے نصرانی تھے اور

آپ کے انتظار ہی میں برسا برس پہلے سے مدینہ منورہ میں مقیم تھے انہوں نے بھی علامات دیکھ کر ایمان قبول کر

لیا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ بھی پہلے نصرانی تھے وہ بھی ایمان لے آئے۔ پھر چند سال کے بعد یہ ہوا کہ حضرت

جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ (جو ہجرت کرنے والوں کی جماعت میں حبشہ چلے گئے تھے اور انہوں نے ہی وہاں

کے بادشاہ نجاشی اور اس کے درباریوں کے سامنے سورہ مریم پڑھی تھی) کے ساتھ تیس آدمی حبشہ سے آئے ان

لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا، حق ظاہر ہونے کے بعد ان لوگوں نے تامل نہیں کیا اور ایمان قبول کر لیا۔ انہوں نے یوں

کہا کہ ہم تو پہلے ہی سے اس بات کو مانتے تھے یہ نبی آخر الزماں ﷺ مبعوث ہوں گے اور ان پر کتاب نازل ہوگی۔

چوتھی آیت میں مؤمنین اہل کتاب کے بارے میں فرمایا کہ انہیں انکے صبر کرنے کی وجہ سے دہرا اجر ملے گا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تین شخص ایسے ہیں جن کے لئے دو اجر ہیں ایک اہل کتاب میں سے وہ شخص جو اپنے نبی پر ایمان لایا اور محمد رسول اللہ پر ایمان لایا اور دوسرا وہ مملوک غلام جس نے اللہ کا حق ادا کیا (فرائض واجبات کی پابندی کی اور جو احکام اس سے متعلق تھے ان کو ادا کرتا رہا) اور اس نے اپنے آقاؤں کا حق بھی ادا کیا۔ اور تیسرا وہ شخص جس کے پاس کوئی لونڈی تھی اس سے وہ جماع کرتا تھا پھر اسے اُس نے ادب سکھایا اور اچھی طرح ادب سکھایا اور اسے تعلیم دی اور اچھی طرح تعلیم دی۔ پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا۔ سو اس شخص کے لئے (بھی) دو اجر ہیں۔ (رواہ البخاری ص ۲۰ ج ۲)

حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ اہل کتاب میں سے جو شخص اسلام قبول کرے اس کے لئے ایک اجر اپنے نبی پر ایمان لانے کا اور ایک اجر خاتم الانبیاء ﷺ پر ایمان لانے کا ہے۔ آیت میں جو لفظ بَمَا صَبَرُوا ہے اس میں یہ بتایا کہ صبر کرنے کی وجہ سے انہیں دہرا اجر ملے گا۔ صبر میں سب کچھ داخل ہے پہلے نبی کی طرف سے جو اعمال خیر پہنچے تھے ان پر عمل کرنا اور خاتم الانبیاء ﷺ کی طرف سے جو اعمال ملے ان پر عمل کرنا اور ایمان قبول کرنے کے بعد یہود و نصاریٰ سے جو تکلیفیں پہنچیں مال اور جائیداد سے ہاتھ دھونا پڑا صبر میں یہ سب چیزیں شامل ہیں۔

مؤمنین اہل کتاب کی ایک صفت بیان فرمائی کہ وہ اچھائی کے ذریعہ برائی کو دفع کرتے ہیں یعنی گناہ کے بعد نیک کام کر لیتے ہیں جن سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نیکیوں کے ذریعہ گناہوں کا معاف ہو جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے اور یہ اس کا بہت بڑا کرم ہے۔ سورہ ہود میں فرمایا ہے إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ (بلاشبہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں) حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا کہ تو جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈر اور برائی کے پیچھے نیکی لگا دو۔ یہ نیکی اس برائی کو مٹا دے گی۔ اور لوگوں سے اچھے اخلاق کے ساتھ میل جول رکھو۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۳۳۲ از احمد ترمذی داری)

اور بعض حضرات نے برائی کو اچھائی سے ذریعہ دفع کرنے کا مطلب یہ لیا ہے کہ جب کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس کے سر زد ہو جانے پر توبہ واستغفار کر لیتے ہیں اس نیکی سے وہ برائی کم ہو جاتی ہے یہ معنی مراد لیما بھی الفاظ قرآنیہ سے بعید نہیں ہیں۔ وَيَذُرْنَ لِلسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ کا مطلب مفسرین نے یہ بتایا ہے جو سیاق قرآنی سے اقرب ہے کہ جو لوگ انکے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئیں۔ بدکلامی کریں وہ انکی اس حرکت کو تحمل اور برداشت کے ذریعہ دفع کر دیتے ہیں یعنی بدلہ لینے اور ترکی بہ ترکی جواب دینے کا ارادہ نہیں کرتے عفو اور درگزر اور نرمی اختیار کرتے ہیں۔ یہ مفہوم سورہ فصلت کی آیت کریمہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُنَافِقُونَ فَاغْلُظْ صُدُورَكُمْ لَهُمْ لَا تَقُولُوا لَهُمْ نِعْمَ بِمُنَافِقِينَ (اور ہمارے دیئے ہوئے

مؤمنین اہل کتاب کی تیسری صفت اتفاق مال بتائی اور فرمایا وَمِمَّا زَكَّاهُمْ أَنْ يَقُولُوا (اور ہمارے دیئے ہوئے مال میں خرچ کرتے ہیں) اہل ایمان کی یہ صفت قرآن مجید میں کئی جگہ بیان فرمائی ہے۔ یہاں مؤمنین اہل کتاب کی صفات میں خاص طور سے اس کا ذکر اس لئے فرمایا کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حبشہ سے جو افراد آئے

تھے (جن کا ذکر اوپر ہوا مبینہ منورہ پہنچ کر جب انہوں نے مسلمانوں کی مالی تنگی دیکھی تو کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی ﷺ) ہمارے پاس بہت سے اموال ہیں اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو واپس جا کر اپنے اموال لے آئیں اور انکے ذریعہ مسلمانوں کی مدد کریں۔ آپ نے انہیں اجازت دیدی اور واپس گئے اور اپنے اموال لیکر آ گئے جن کے ذریعہ انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی اس پر آیت بالا نازل ہوئی۔) (ذکرہ فی عالم التقریل عن سعید بن جبیر)

پانچویں آیت میں مومنین اہل کتاب کی ایک صفت بیان فرمائی (جو دیگر اہل ایمان کی صفات میں بھی مذکور ہے کہ) جب وہ کوئی لغویات سنتے ہیں تو وہ اس سے اعراض کرتے ہیں۔ یعنی اس طرح گزر جاتے ہیں جیسے سنائی نہیں اور جو لوگ انکے ساتھ یہودہ باتوں سے پیش آتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ (ہمارے لئے ہمارے اعمال اور تمہارے لئے تمہارے اعمال) تم لغو باتیں کیوں کرتے ہو اپنے اعمال کو دیکھو اور اپنی جان کی خیر منانے کی فکر کرو۔ عذاب میں مبتلا ہونے کا کام کر رہے ہو اور ہم سے بلا وجہ الجھتے ہو سَلِّمُوا عَلَیْكُمْ تم پر سلام ہو۔ یہ سلام وہ نہیں ہے جو اہل ایمان ملاقات کے وقت ایک دوسرے کو پیش کرتے ہیں بلکہ یہ جان چھڑانے کا ایک طریقہ ہے جیسے اہل اردو کسی بیہودہ آدمی سے جان چھڑانے کے لئے یوں کہہ دیتے ہیں کہ بھیا سلام کریں اور اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ ہم تمہاری حرکتوں کا جواب نہ دیں گے بدلہ نہ لیں گے تم ہماری طرف سے باسلامت رہو ہم تم سے کوئی انتقام نہیں لیں گے۔ لَا تَنْتَبِیْ الْیَہْلِیْنَ (ہم جاہلوں سے بات چیت کرنا الجھنا نہیں چاہتے تفسیر قرطبی ص ۲۹۶ ج) میں حضرت عروہ بن زبیر سے نقل کیا ہے کہ آیت بالا انجاشی اور اسکے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ نجاشی نے بارہ آدمی بھیجے یہ لوگ نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایمان لے آئے ابو جہل انکے ساتھ ہی وہیں قریب تھا جب یہ لوگ ایمان قبول کر کے خدمت عالی سے اٹھے تو ابو جہل اور اسکے ساتھی انکے پیچھے پڑ گئے کہنے لگے کہ تم تو نامراد لوگ نکلے تمہاری یہ جماعت بری جماعت ہے تم نے محمد رسول اللہ ﷺ کی تصدیق کرنے میں ذرا بھی دیر نہ لگائی۔ سواروں کی کوئی جماعت ہم نے تم سے بڑھ کر احمق اور جاہل نہیں دیکھی ان حضرات نے جواب میں کہا کہ سَلِّمُوا عَلَیْكُمْ اور یہ بھی کہا کہ ہمارے سامنے جب ہدایت آ گئی تو ہم نے اسے قبول کر لیا اور اپنے جانوں کی خیر خواہی میں کوتاہی نہیں کی اور ساتھ ہی یوں بھی کہا کہ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ (ہمارے لئے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لئے تمہارے اعمال ہیں) ابو جہل اور اسکے ساتھیوں کو جواب دیا اور اللہ تعالیٰ نے انکا یہ جواب نقل فرمایا اور انکی توصیف فرمائی۔

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿۵﴾

بلاشبہ جسے آپ چاہیں ہدایت پر نہیں لا سکتے اور لیکن اللہ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے اور وہ ہدایت پانچواں کو خوب جانتا ہے

آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے

**تفسیر:** اول تو ہدایت کا مفہوم سمجھنا چاہئے۔ سو واضح رہے کہ لفظ ہدایت عربی میں دو معنی کے لئے آتا ہے۔ اول صحیح راہ بتا دینا اور دوسرے پہنچا دینا۔ اول کو اراء الطریق اور دوسرے کو ایصال الی المطلوب کہتے ہیں۔ لفظ ہدایت قرآن مجید

میں دونوں معنی میں استعمال ہوا ہے اس بات کو سمجھنے کے بعد اب یہ سمجھیں کہ رسول اللہ ﷺ کے واسطے سے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں اور جنات کو حق کی راہ بتادی اور راہ دکھادی اور چونکہ یہ سب رسول اللہ ﷺ کے توسط سے ہوا اس لئے آپ بھی سب کے ہادی اور رہبر اور راہ دکھانے والے ہیں آپ نے خوب واضح طریقہ پر حق واضح فرما دیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نازل ہوا ہے بڑی محنت اور کوشش سے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو پہنچا دیا اب پہنچانے کے بعد لوگوں کی طرف سے قبول کرنا رہ جاتا ہے کسی نے قبول کیا اور کسی نے قبول نہ کیا لیکن آپ کا دل چاہتا تھا سب ہی ہدایت پر آجائیں اور مسلمان ہو جائیں لیکن لوگوں سے حق منوانا اور اسلام قبول کرنا آپ کے بس میں نہیں تھا۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے بار بار آپ کو قرآن مجید میں خطاب فرمایا ہے کہ آپ کا کا تاناؤ رانا اور سمجھانا ہے۔ منوادینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔

چونکہ آپ کے جذبات یہ تھے کہ سب ہی ہدایت یاب ہو جائیں تو اپنے چچا ابوطالب کے واسطے اس بات کے فکر مند کیوں نہ ہوتے کہ وہ مسلمان ہو جائیں انہوں نے آپ کی بہتر خدمت کی تھی بچپن سے آپ کے ساتھ رہے تھے جب آپ نبوت سے سرفراز ہوئے تو مشرکین سے جو آپ کو تکلیفیں پہنچیں ابوطالب انکا بھی دفاع کرتے رہے۔ جب آپ کو معلوم ہوا کہ ابوطالب کے موت کا وقت ہے اور ابھی ہوش میں ہیں تو آپ انکے پاس تشریف لے گئے اور ان سے کہا کہ آپ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہہ دیں میں اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کے اس کلمہ کی کہنے اور پڑھنے کی گواہی دیدوں گا۔ وہیں پر ابو جہل اور عبد اللہ بن امیہ دونوں مشرک بھی موجود تھے وہ ابوطالب کو عبد المطلب کی ملت پر مرنے کی ترغیب دیتے رہے۔ آپ نے بار بار اپنی بات پیش کی لیکن ابوطالب نے یوں کہہ کر انکار کر دیا کہ اگر قریش یہ کہہ کر مجھے عار نہ دلاتے کہ گھبراہٹ کی وجہ سے کلمہ اسلام قبول کر لیا ہے تو تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا انہوں نے کلمہ اسلام پڑھنے سے انکار کر دیا اور موت آگئی۔ رسول اللہ ﷺ کو اس کا رنج تھا اللہ تعالیٰ شانہ نے آیت بالانازل فرمائی اور فرمایا کہ آپ جسے چاہیں ہدایت دیں یعنی حق قبول کرادیں اور مؤمن بنادیں یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے اللہ جسے چاہے ہدایت دے۔ (راجع صحیح مسلم ص ۴۰ ج ۱ و صحیح البخاری ص ۳۰ ج ۲)

معلوم ہوا کہ آپ کا کام بیان کرنا پہنچا دینا ہے اور کسی کے دل میں ایمان ڈال دینا یہ صرف للہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔

وَقَالُوا إِن تَتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَفُّ مِنْ أَرْضِنَا ۖ أَوَلَمْ تُكُنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا

اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کا اتباع کرنے لگیں تو ہم اپنی زمین سے اچک لئے جائیں گے کیا ہم نے انہیں امن و امان والے حرم میں جگہ نہیں دی

يُحِبُّ إِلَيْهِ شَرُّ كُلِّ شَيْءٍ رَزَقًا مِّنْ لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۖ وَكَمْ

جہاں ہر چیز کے پھل لائے جاتے ہیں جو ہمارے پاس سے کھانے کے لئے دیئے جاتے ہیں۔ اور لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے اور

أَهْلَكْنَا مِمَّنْ قَبِضَتْ بِطَرْتِ مَعِيشَتَهَا فِتْلًا مَسْكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِّنْ بَعْدِهِمْ

کتنی ہی بستریاں ہم نے ہلاک کر دیں جو اپنے سامان عیش پر اترانے والی تھیں۔ سو یہ ان کے گھر میں جن میں انکے بعد سکونت اختیار

إِلَّا قَلِيلًا ۖ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ ۝ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَمٍ

نہیں کی گئیں مگر تھوڑی سی اور بلا آخر ہم ہی مالک ہیں اور آپ کا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں جب تک کہ انکی مرکزی بستی میں

رُسُلًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ۖ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ۝ وَمَا

رسول نہ بھیج دے جو ان پر ہماری آیات تلاوت کرتا ہو اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں الا یہ کہ انکے رہنے والے ظالم ہوں اور تمہیں

أَوْتِيتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَّاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا ۚ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۚ

جو بھی کوئی چیز دی گئی ہے سو وہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور زینت ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے سو وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے

أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

کیا تم نہیں سمجھتے ہو۔

اہل مکہ کی اس بات کی تردید کہ ہم ہدایت قبول کر لیں تو اپنی زمین سے نکال دیئے جائیں گے

**تفسیر:** علامہ قرطبیؒ نے لکھا ہے ص ۳۰۰ ج ۷ کہ حارث بن عثمان نوفل بن عبد مناف نے رسول اللہ ﷺ سے کہا ہے ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ کی بات حق ہے لیکن ہم جو ایمان لانے اور ہدایت قبول کرنے سے فخر ہے ہیں سواس کا سبب یہ ہے کہ ہمیں ڈر ہے کہ اہل عرب ہمیں ہماری سرزمین مکہ سے اچک لیں گے یعنی ہمارے خلاف محاذ بنا کر ہمیں مکہ معظمہ سے نکال دیں گے یہ خواہ خواہ کی حیلہ بازی تھی کیونکہ عرب کے قبائل آپس میں ایک دوسرے پر حملہ کر کے لوٹ مار تو کرتے تھے اور ایک دوسرے کے خون کے دشمن بنے رہتے تھے لیکن حرم مکہ کو محترم جانتے تھے اور اہل مکہ پر کبھی حملہ نہیں کرتے تھے اسی کو فرمایا **أَوَلَمْ نَكُنْ لَهُمْ مَعْرَظًا** (کیا ہم نے انہیں امن وامان والے حرم میں جگہ نہیں دی؟) جب امن کی جگہ میں رہتے ہیں جہاں قتل و قتل اور لوٹ مار کرنے سے سارے عرب بچتے ہیں تو یہ بہانہ کیوں بناتے ہو کہ ہم ایمان قبول کر لیں گے تو ہمیں اہل عرب اچک لیں گے۔ **يُحْيِي إِلَيْهِ تُبْرُكُ كُلُّ شَيْءٍ وَرَزَقْنَا مِنْ لَدُنْكَ** (جہاں ہر چیز کے پھل لائے جاتے ہیں) جو ہمارے پاس سے کھانے کے لئے دیئے جاتے ہیں۔

حرم پر امن بھی ہے اور کھانے پینے کے لئے ہر قسم کے پھل وہاں کھنچے چلے آ رہے ہیں۔ تو وہاں نہ خوف کی بات ہے نہ بھوکے رہنے کا ڈر ہے۔ اسی کو سورۃ القریش میں فرمایا: **فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ قَبْلِهِمْ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفِهِ** (سواس بیت کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک کی فوج سے کھلایا اور خوف سے امن دیا)

**وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ** (اور لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے) کہ انکا استدلال غلط ہے کہ اسلام قبول کر لیں گے تو بھوکے مر جائیں گے جس ذات نے انہیں انکے زمانہ میں کفر میں امن دیا اور رزق عطا فرمایا کیا اسلام قبول

کرنے پر انہیں رزق سے محروم فرما دے گا اور ان پر کافروں کو مسلط فرما دیگا؟

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَوْمٍ بِخُرُثِ مَعِيَّتِهِمْ - (اور کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں جو اپنے سامان عیش پر اترانے والی تھیں) فَنَلَّكَ مَسْكَنُهُمْ لَمْ تَسْكُنْ مِنْهُمْ بَعْدَ هَمِّ الْأَقْلِيَّةِ - (سو یہ انکے گھر ہیں کہ انکے بعد آباد ہی نہ ہوئے مگر تھوڑی دیر کے لئے)۔

اس میں بتایا کہ تم جو اس وہم کی وجہ سے ایمان لانے سے ڈرتے ہو کہ لوگ ہمیں اچک لیں گے اور ایمان لانے کو قتل و غارت کا سبب سمجھتے ہو یہ تمہارا غلط خیال ہے ایمان سبب ہلاکت نہیں ہے بلکہ کفر سبب ہلاکت ہے۔ اہل مکہ گو امن و امان میں ہیں اور انہیں رزق ملتا ہے لیکن انکا رزق اور مال اتنا زیادہ نہیں جتنا گزشتہ اقوام کے پاس تھا بہت سی ایسی ایسی بستیاں اسی زمین پر آباد تھیں جنہیں اپنے سامان عیش و عشرت پر ناز تھا۔ نعمتوں میں مست تھے۔ مال و دولت پر اتراتے تھے لیکن ساتھ ہی کافر بھی تھے انہوں نے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی دعوت پر کان نہ دھرا ایمان قبول نہ کیا لہذا ہم نے انہیں ہلاک کر دیا انکی بستیاں تباہ ہو گئیں مضبوط قلعے برباد ہو گئے ان کے رہنے کے جو مکانات تھے ان مکانوں میں ان کے بعد تھوڑا بہت ہی کسی کو رہنے کا موقع ملا۔ اگر ان میں سے کوئی گھریا تو رہ گیا تو مسافروں نے آتے جاتے تھوڑی بہت قیام کر لیا۔ لم یسکنھا الا المسافر او مار الطريق یوما و ساعۃ (قرطبی) (حضور ﷺ کے دور کے ان میں کوئی نہیں رہتا مگر کوئی مسافر ایک آدھ دن یا کوئی راہ گذر تا ہو گھری بھر ٹھہر جاتا ہو تو الگ بات ہے)۔

وَلَمَّا كَانَتْ الْوَرِثَیْنِ (اور ہم ہی مالک ہیں) جو مجازی ملکہیں تھیں وہ سب ہلاک ہو گئیں۔ سدا رہے نام اللہ کا وہ سب کا حقیقی مالک اور بادشاہ ہے۔ ہمیشہ سے اسی کا اختیار اور اقتدار باقی ہے اور باقی رہے گا۔

اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی بستی کو ہلاک نہیں فرماتا جب تک انکی مرکزی بستی میں کوئی رسول نہ بھیجے اور بستیوں میں رہنے والے ظلم پر نہ اتر آئیں

اس کے بعد فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ (آیہ) کہ آپ کا رب اس وقت تک بستیوں کو ہلاک نہیں فرماتے جب تک مرکزی بستی میں کوئی رسول نہ بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول آتے رہے اللہ کے احکام پہنچاتے رہے جب مخاطبین نے نہیں مانا اور ظلم پر جے رہے۔ گناہوں پر اڑے رہے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک فرما دیا۔ مطلب یہ ہے کہ اتمام حجت کے بعد ظالموں کو ہلاک کیا جاتا رہا ہے۔ قال القرطبی اخبر تعالیٰ انه لا یهلكهم الا اذا استحقوا الہلاک بظلمهم ولا یهلكهم مع كونهم ظالمین الا بعد تاكيد الحجۃ والا لزام ببعثۃ الرسل ولا یجعل علمہ باحوالہم حجۃ علیہم۔ (امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ قوموں کو ہلاک نہیں کرتا مگر اس وقت جب کہ وہ اپنے ظلم کی وجہ سے ہلاک ہونے کے مستحق ہو جاتے ہیں اور ان کے ظالم ہونے کے باوجود بغیر بھیج کر انہما حجت کرنے کے بعد ہی ہلاک کرتا ہے اور قوموں کے حالات کے علم کو ان پر حجت نہیں بنایا)

پھر فرمایا: وَمَا أَوْفَيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّاعِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَذُرِّيَّتُهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْغَى (اور تمہیں جو بھی کوئی چیز دی گئی ہے سو دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور زینت ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے سو وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔) چونکہ دنیاوی زندگی اور اس میں کام آئی والا مال متاع اہل کفر کو ایمان لانے سے روکتا تھا اور ابھی ہماری تعداد میں ایسے کافر و مشرک ہیں جو رسول اللہ ﷺ کو واقعی اللہ تعالیٰ کا رسول سمجھتے ہیں اور یہ یقین کرتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے لیکن دنیاوی اموال اور اغراض اور تھوڑی سی دیر کی دنیاوی عزت اور جاہ کو دیکھتے ہوئے ایمان قبول نہیں کرتے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ تمہیں دنیا میں جو بھی کچھ دیا گیا ہے۔ یہ سب دنیا والی زندگی میں کام آنے والی چیز ہے اور اسی دنیا کی زیب و زینت ہے یہ سب کچھ موت کے ساتھ ختم ہو جائے گا تھوڑی سی دیر کی چیزیں ہیں۔ انکی وجہ سے ایمان نہ لا کر آخرت کی نعمتوں سے کیوں محروم ہوتے ہو وہاں جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا وہ اس سب سے بہتر ہوگا اور دائمی ہو گا، کفر کی وجہ سے اس سے محرومی ہوگی اور روزخ میں داخل ہو گے حقیر فانی دنیا کے لئے وہاں کی دائمی اور بہتر در بہتر نعمتوں سے محروم ہونا اور دائمی عذاب میں جانا کوئی سمجھ داری کی بات نہیں۔ اسی کو فرمایا أَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا تم سمجھتے نہیں۔

حرم شریف میں ہر قسم کے ماکولات و مشروبات اور مصنوعات ملتے ہیں جس میں یُجَبِّی إِلَيْهِ شَرِئَتْ كُلُّ شَيْءٍ کا مظاہرہ ہے۔ حرم کے بارے میں جو یہ فرمایا کہ جہاں ہر چیز کے پھل لائے جاتے ہیں۔ اس سے بعض حضرات نے یہ استنباط کیا ہے کہ لفظ ثمرات پھلوں کو تو شامل ہے ہی دوسری مصنوعات کو بھی شامل کیا ہے جو فیکٹریاں اور ملوں اور کارخانوں کے ثمرات ہیں۔ چنانچہ ہمیشہ اس کا مشاہدہ ہوتا ہے کہ دنیا بھر کی پیدا ہونے والی غذائیں اور ہر اعظم کی مصنوعات بڑی تعداد میں فراوانی کے ساتھ مکہ معظمہ میں ملتی ہیں۔ حج کے موقع پر لاکھوں افراد بیک وقت جمع ہو جاتے ہیں سب کو رزق ملتا ہے اور دنیا بھر کی چیزیں مکہ مکرمہ میں اور منی میں بڑی وافر مقدار میں ملتی ہیں۔ اور مدینہ منورہ میں بھی اس کا مشاہدہ ہے بلکہ وہاں مکہ مکرمہ سے زیادہ غذائیں اور دوائیں انسانی ضرورت کی چیزیں ملتی ہیں جو رسول اللہ ﷺ کی دعا کا اثر ہے آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا اللھم اجعل بالمدينة ضعفی ما جعلت بمكة اے اللہ مکہ میں جو برکت آپ نے رکھی ہے مدینہ میں اسکی دگنی برکت رکھ دیجئے (رواہ البخاری)

أَفَمِنْ وَعْدِنَا وَعَدًا حَسَنًا فَهُمْ لَا يَتَذَكَّرُونَ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ

سو جس شخص سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو پھر وہ اسے پانے والا ہو کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے دنیا والی زندگی کا سامان دیدیا پھر وہ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ۝ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ

قیامت کے دن گرفتار کر کے لایا جائے گا اور جس دن وہ انہیں پکارے گا سو فرمائے گا کہ میرے وہ شرکاء کہاں ہیں جن کے بارے میں تم

تَزْعُمُونَ ۝ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَهُمْ

گمان کرتے تھے جن لوگوں پر اللہ کافر مودہ ثابت ہو چکا ہو گا وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے بہکایا ہم نے انکو یہ سابی بہکایا



كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِلَّا كَايِبُدُونُ ۝ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ

جیسا کہ ہم خود بہکے تھے ہم آپ کے حضور ان سے بیزاری ظاہر کرتے ہیں یہ لوگ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے اور کہا جائے گا کہ اے شرکاء کو بلاؤ

فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَحْتَدُونَ ۝ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ

سو وہ انکو بلائیں گے پھر وہ انکی پکار کا جواب نہ دیں گے اور عذاب کو دیکھ لیں گے اے کاش وہ ہدایت پائے ہوئے ہوتے اور جس دن انہیں آواز دے گا

فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ۝ فَعِيتُ عَلَيْهِمْ أَلَيْسَ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ ۝

سو فرمائے گا کہ تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا سو اس دن انکی خبریں گم ہو جائیں گی پھر وہ آپس میں پوچھ پچھ نہ کریں گے

فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأَعْلَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُغْلَبِينَ ۝

سو جس شخص نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کئے سو امید ہے کہ یہ لوگ فلاح پانے والوں میں سے ہوں گے۔

## قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا مشرکین سے خطاب اور

### یہ سوال کہ جنہیں تم نے شریک ٹھہرایا تھا وہ کہاں ہیں؟

**تفسیر:** مذکورہ بالا سات آیات ہیں۔ پہلی آیت میں آخرت کے انجام کے اعتبار سے مؤمن اور کافر کا فرق بتایا ہے۔

ارشاد فرمایا ہے کہ ایک تو وہ شخص ہے جس سے ہم نے اچھا وعدہ کر رکھا ہے کہ اس کو ایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ سے ابدی نعمتیں ملیں گی، اور ایک وہ شخص ہے جو مؤمن نہیں ہے لیکن اسے ہم نے دنیا والی زندگی کا سامان دے رکھا ہے جسے وہ استعمال کرتا ہے دنیا میں تو بظاہر کامیاب سمجھا جاتا ہے لیکن کیونکہ وہ کافر ہے اسلئے وہ قیامت کے دن گرفتار ہو کر آئے گا۔ اور پھر دوزخ میں چلا جائے گا۔ غور کریں غور کریں اور سمجھنے والے بتائیں کیا یہ مؤمن اور کافر برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس میں جہاں کافروں کو تنبیہ کی گئی ہے چند روزہ زندگی اور سامان عشرت پر نہ اترائیں وہاں مسلمانوں کو بھی بتا دیا گیا ہے کہ کافروں کے سامان کی طرف نظر نہیں نہ اٹھائیں یہ تھوڑے دن کی حقیر دنیا ہے اس کو دیکھ کر لپٹا نا ایمانی تقاضے کے خلاف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ہرگز کسی فاجر کی نعمت پر رشک نہ کر، کیونکہ تجھے معلوم نہیں کہ موت کے بعد کس چیز سے ملاقات کرینو والا ہے بیشک اللہ کے نزدیک اس کے لئے ایک قاتل ہے جسے کبھی موت نہ آئے گی یعنی دوزخ ہے۔ (اس میں داخل ہوگا اور چھٹکارہ کا کوئی راستہ نہ ہوگا۔)

دوسری آیت سے لیکر چھٹی آیت کے ختم تک مشرکین اور کافرین سے جو خطاب ہوگا اس کا ذکر ہے۔ اول تو یہ فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے پکار کر سوال فرمائے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں؟ جنہیں تم میرا شریک سمجھ رہے تھے اس کے جواب میں انکے گمراہ کرینوالے شیاطین جن کے بارے میں یہ طے ہو چکا ہے کہ انہیں دوزخ میں جانا ہی ہے یوں کہیں گے کہ اے ہمارے رب بیشک یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے بہکایا ہم نے انہیں ایسے ہی بہکایا جیسے ہم بہکے تھے

یعنی نہ ہم پر کسی نے کوئی زبردستی کی تھی نہ ہم نے ان پر زبردستی کی، ہم گمراہ ہوئے۔ انہیں بھی گمراہی کی باتیں بتائیں انہوں نے بات مان لی۔ دنیا میں ہم نے انہیں گمراہی پر لگایا اور یہ بھی ہماری باتوں میں آ گئے اب یہاں تو ہم آپ کے حضور میں ان سے بیزار ہیں جب بہکانیوالے اور گمراہ کرنے والے اپنے پیغمبرین سے بیزار ہو کر ظاہر کریں گے تو وہ یوں کہیں گے کہ اگر ہمیں دنیا میں واپس جانا نصیب ہو جاتا تو ہم بھی ان سے بیزار ہو کر ظاہر کرتے (کافی سورة البقرة)۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ اَنَّ لَنَا كَوْفَةً فَاَتَيْنَاهَا لَكُنَّا مُسْلِمِينَ۔ (کافی سورة البقرة)۔ یہ لوگ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے (یہ حقیقت میں اپنی خواہشوں کے بندے تھے گمراہی کی باتیں انکی خواہشوں کے مطابق تھیں لہذا انہیں قبول کر لیا اور وہ اپنی بربادی کا سبب خود بنے) مشرکین سے یہ بھی کہا جائے گا کہ جنہیں تم اپنے خیال میں ہمارا شریک سمجھتے تھے انہیں پکارو! وہ حیرانی کے عالم میں انہیں پکاریں گے لیکن وہ انکی بات کا جواب نہ دیں گے وہ اپنی ہی مصیبت میں مبتلا ہوں گے کسی کو کیا جواب دیں۔ وَارْأُوا الْعَذَابَ (اور گمراہی کی دعوت دینے والے اور جنہیں گمراہی کی دعوت دی گئی عذاب کو دیکھ لیں گے) لَوْ اَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ (اس وقت وہ آرزو کریں گے کہ ہائے کاش ہم دنیا میں ہدایت پر ہوتے) اور بعض مفسرین نے اس کا یہ مطلب بتایا ہے کہ کاش اس وقت کوئی ایسی تدبیر جان لیتے جس سے یہ عذاب دفع ہو سکتا۔ اگر کوئی تدبیر ہوتی تو اس کو اختیار کر لیتے۔

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا اجِبتُمْ لِرُسُلِكُمُ (اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکار کر سوال کیا جائے گا کہ جب تمہیں رسولوں نے تبلیغ حق کی دعوت پہنچائی تو تم نے کیا جواب دیا؟) فَجَبَّتْ عَلَيْهِمُ الْاُكْبَادُ يَوْمَئِذٍ (سوساری خبریں یعنی ہر طرح کے مضامین جن کے ذریعہ جواب دیں سب غائب ہو جائیں گے) اور انہیں کچھ سمجھ نہ آئے گا کہ کیا جواب دیں۔ صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام سے یہ سوال ہو گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا (کافی سورة المائدة) يَوْمَ يَجْمَعُ اللهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا اجِبتُمْ لَوْ اَلَا عِلْمُ لَنَا اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّمَهُ الْغِيُوبُ (تو اس وقت کی حیرانی میں کچھ جواب نہ دے سکیں گے جب اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا یہ حال ہو گا تو گمراہ لوگوں کا جو حال ہو گا ظاہر ہے انہیں بولنے اور جواب دینے کی تاب کہاں ہو سکتی ہے؟) فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ (سو وہ آپس میں پوچھ پچھ نہ کریں گے) کیونکہ اس دن کی وحشت اور مصیبت نے سب کچھ بھلا رکھا ہو گا کوئی کسی سے نہ پوچھے گا کہ کیا جواب دوں شرک اور کفر پر مرنے والوں کا حال بتانے کے بعد ان حضرات کا تذکرہ فرمایا جنہوں نے شرک اور کفر سے توبہ کی اور ایمان اور اعمال صالحہ سے آراستہ ہوئے۔ ارشاد فرمایا: فَاَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَغَسَّيْنَا اَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُغْلِقِينَ (یعنی جس نے کفر شرک سے توبہ کی اور ایمان لایا اور اعمال صالحہ اختیار کئے۔ سو یہ لوگ کامیابی پانیدالوں میں سے ہوں گے)

وَرُبُّكَ يُخَلِّقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ٥٥

اور آپ کا رب جسے چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے اور چاہتا ہے چن لیتا ہے ان لوگوں کو جن لینے کا کوئی حق نہیں ہے اللہ پاک جہاں سے بڑے جویہ لوگ شرک کرتے ہیں

وَرُبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ٥٦ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْخِزْيُ فِي

اور آپ کا رب جانتا ہے جسے انکے سینے چھپاتے ہیں اور جسے یہ لوگ ظاہر کرتے ہیں اور اللہ وہی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی کے لئے سب تعریف ہے۔

الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةَ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۵۶﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ

دنیا میں اور آخرت میں اور اسی کے لئے حکم ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے آپ فرما دیجئے تم بتاؤ اگر اللہ

عَلَيْكُمْ الْيَلَّ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَآءٍ أَوْ لَا

قیامت کے دن تک تمہارے اوپر ہمیشہ کے لئے رات ہی کو موجود رکھے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہارے پاس روشنی کو لے آئے تو

تَسْمَعُونَ ﴿۵۷﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ التَّهَارُ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ

کیا تم نہیں سنتے؟ اور آپ فرما دیجئے کہ تم یہ بتاؤ کہ اگر اللہ قیامت تک ہمیشہ کے لئے تم پر دن ہی کو موجود رکھے تو

إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بَلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿۵۸﴾ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ

اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہارے لئے رات کو لے آئے۔ اس میں تم آرام کرتے ہو۔ کیا تم نہیں دیکھتے؟ اور اس نے

لَكُمْ الْيَلَّ وَالتَّهَارُ لَتَسْكُنُوا فِيهِ وَلَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۵۹﴾

اپنی رحمت سے تمہارے لئے دن کو اور رات کو بنایا تاکہ تم اس میں آرام کرو اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔

## اگر اللہ تعالیٰ رات یا دن کو ہمیشہ باقی رکھتے تو وہ کون ہے جو اس کے مقابلہ میں رات یا دن لا سکے

**تفسیر:** ان آیات میں اللہ تعالیٰ شانہ کی صفات جلیلہ اور قدرت کاملہ کے مظاہر بیان فرمائے جن میں بندوں پر بھی اتمان ہے۔ پہلی آیت میں فرمایا **وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ** (آپ کا رب جو چاہے پیدا فرمائے اور جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے) بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس میں ولید بن المغیرہ کی اس بات کا جواب دیا ہے جو اس نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو رسول بھیجنا ہی تھا تو مکہ اور طائف کے شہروں میں سے کسی بڑے آدمی کو بھیجنا چاہئے تھا (یعنی جو اسکے ذہن میں بڑا تھا) اہل دنیا دنیا داروں ہی کو بڑا سمجھتے ہیں اسلئے اس نے ایسی بات کہی اس کا مقصد رسول اللہ ﷺ کی نبوت کا انکار کرنا تھا اسی کو سورۃ زخرف میں یوں بیان فرمایا ہے **وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْفَرِيقَيْنِ عَظِيمٍ**۔

اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ یہ مذکورہ بالا آیت یہودیوں کے جواب میں نازل ہوئی۔

انہوں نے کہا تھا کہ محمد ﷺ کے پاس وحی لانے والا فرشتہ اگر جبریل کے علاوہ کوئی دوسرا فرشتہ ہوتا تو ہم ان پر ایمان لے آتے ان لوگوں کو جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ اس نے سارے نبیوں کے بعد خاتم النبیین بنانے کے لئے محمد رسول اللہ ﷺ کو چن لیا۔ اور سب فرشتوں میں سے وحی بھیجنے کے لئے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو چن لیا۔ اس پر اعتراض کرنے کا کسی کو کوئی حق نہیں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آیت کا یہ مطلب بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے پیدا فرمائے اور جسے چاہے اپنی اطاعت کے لئے چن لے

(ذکر ذلک القمر طیبی فی تفسیرہ) اور بعض حضرات نے بختار کا یہ مطلب بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس حکم کو چاہتا ہے پسند فرماتا ہے اور اپنے نبی ﷺ کے ذریعہ نازل فرما دیتا ہے۔ پہلے جملہ میں یہ بتایا کہ تکوینی امور میں بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں اور تشریحی اختیارات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ آیت کریمہ کے عموم لفظی میں یہ سب باتیں داخل ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت کے لئے جسے چاہا چن لیا۔ اور جن حضرات کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ ان میں بھی آپس میں ایک دوسرے کو فضیلت دی۔ بعض کو اولوالعزم بنایا اور بعض کو بہت بڑی اُمت عطا فرمادی اور بعض پر ایمان لانے والے تھوڑے ہی سے تھے۔ بعض انبیاء کرام علیہم السلام پر ایک شخص بھی ایمان نہیں لایا۔ حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا اور سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ کو حبیب اللہ بنایا اور معراج کا شرف عطا فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مناجات کی فضیلت عطا فرمائی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کلمۃ اللہ کے ساتھ موصوف فرمایا۔ اسی طرح فرشتوں میں جس کو جو مرتبہ دیا اس میں کوئی دخل اور شریک نہیں۔ سورہ حج میں فرمایا اللہ یصطفیٰ من الملائکہ رسولاً (اللہ فرشتوں میں پیغام پہنچانے والے چن لیتا ہے اور انسانوں میں سے بھی)۔

اسی طرح سے جنتوں میں بھی باہم فضیلت ہے۔ جنت الفردوس سب سے اعلیٰ اور افضل ہے آسمانوں میں بھی ایک کو دوسرے پر برتری عطا فرمائی اور زمین کے خطوں میں بھی ایک دوسرے کو فضیلت دی۔ کعبہ شریف کے لئے مکہ معظمہ کو منتخب فرمایا اور مسجد نبوی میں بھی ایک حصہ کو روضۃ من ریاض الجنۃ قرار دیدیا۔ اور مدینہ منورہ کو رسول ﷺ کو مسکن اور مدفن بنایا۔ جو لوگ اہل علم ہیں ان میں بھی کسی کو بہت زیادہ علم دیا کسی سے دین کی خدمت بہت لی کسی کو مفسر کسی کو محدث کسی کو مفتی اور فقیہ بنایا کسی کی طرف بہت زیادہ رجوع عطا فرمایا طلبہ و تلامذہ کی ہزاروں کی تعداد ہو گئی۔ کسی سے بہت بڑا مدرسہ قائم کروادیا اور اسکی طرف اُمت کا رجوع عام کر دیا کسی کو کتابیں لکھنے کی توفیق زیادہ دے دی پھر اسکی کتابوں کی مقبولیت عامہ نصیب فرمادی۔ وھلم جوا الی مالا یعد ولا یحصی

مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ (لوگوں کو چن لینے اور اختیار کرنے کا کوئی حق نہیں) اللہ نے جسے چاہا فضیلت دے دی اور جو حکم چاہا بھیج دیا۔ یہ سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے۔ سبحان اللہ و تعالیٰ عما یشرکون۔ اللہ پاک ہے اور وہ برتر ہے اس سے وہ جو شریک کرتے ہیں۔

دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ شانہ کی صفت علم کو بیان فرمایا اور فرمایا کہ آپ کا رب وہ سب کچھ جانتا ہے جسے لوگ اپنے سینوں میں چھپاتے ہیں۔ اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ لہذا کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ میں نے جو کچھ اپنے دل میں بات رکھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں نہیں ہے اسے ظاہر اور باطن ہر چیز اور ہر بات کا پورا پورا علم ہے۔

تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان فرمائی اور صفات جلیلہ و جمیلہ سے اس کا متصف ہونا ذکر فرمایا۔ ارشاد ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْخَيْرُ الْأَوَّلَى وَالْآخِرَةُ قَوْلُهُ الْخَيْرُ وَاللَّهُ يُرْجَعُونَ (اور اللہ وہی ہے اسکے سوا کوئی معبود نہیں اسی کے لئے سب تعریف ہے دنیا میں اور آخرت میں اور اسی کے لئے حکم ہے۔ اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے) تمام تعریفوں کا وہی مستحق ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی اسی کا فیصلہ حق ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اسے سب کا حال معلوم ہے وہ اپنے علم کے مطابق فیصلے فرمائے گا اور جزا و سزا دے گا۔

چوتھی پانچویں چھٹی آیت میں اللہ تعالیٰ شانہ نے بندوں کو اپنی دو بڑی نعمتیں یاد دلائیں اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دن بھی دیا ہے اور رات بھی دی ہے۔ یہ محض اس کا فضل ہے اور اسی کی قدرت سے لیکن دنہار کا آنا جانا ہے۔ وہ اگر چاہے تو قیامت تک ہمیشہ رات ہی رات کر دے۔ دن کبھی نہ آئے اور دن کی روشنی سے تم بالکل محروم ہو جاؤ اسی طرح اگر وہ ہمیشہ ہمیشہ قیامت تک دن ہی دن رکھے رات نہ لائے جس میں تم آرام کرتے ہو تو تم کیا کر سکتے ہو؟ چونکہ مشرکین غیر اللہ کو بھی عبادت میں شریک کرتے تھے جب کہ انہیں کچھ قدرت اور اختیار نہیں اسی لئے پہلی جگہ یوں فرمایا کہ **مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيَكُمُ بَظِيءًا** (کہ اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو روشنی کو لے آئے) اور دوسری جگہ فرمایا **مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيَكُمُ بَلْبَلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ** (کہ اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو رات کو لے آئے جس میں تم آرام کرتے ہو یہ بطور استغھام انکاری ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو رات کو دن سے بدل دے اور دن کو رات سے بدل دے تم عقل اور فہم اور سمجھ و بصر سے کام کیوں نہیں لیتے؟

رات اور دن کے آگے پیچھے آنے جانے میں فوائد تو بہت ہیں۔ لیکن دن میں معاش حاصل کرنا اور رات کو آرام کرنا دونوں عظیم فائدے ہیں انکو اجمالاً آخری آیت میں بطور یاد دہانی مکرر بیان فرمایا چنانچہ ارشاد ہے **وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ جَعَلَ لَكُمُ الْيَوْمَ وَالْغَدَ لَتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ** (اور اسکی رحمت سے یہ بات ہے کہ اُس نے تمہارے لئے رات کو بنایا اور دن کو بنایا تاکہ رات کو تم آرام کرو اور دن میں اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو) عام طور سے کسب اموال اور تحصیل رزق کے لئے دن ہی کو اختیار کیا جاتا ہے اور رات کو سکون حاصل ہوتا ہے ان دونوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا لازم ہے اسی لئے آخر میں **وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ** فرمایا۔

**وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ۝ وَنَزَعْنَا مِنْ**

اور جس دن وہ ان سے فرمائے گا کہ میرے شرکاء کہاں ہیں جنہیں تم شریک سمجھتے تھے۔ اور ہم ہر امت میں سے

**كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعِلْهُمْ أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا**

ایک ایک گواہ نکال کر لائیں گے پھر ہم کہیں گے کہ اپنی دلیل پیش کرو۔ سوائیں معلوم ہو جائے گا کہ سچی بات اللہ ہی کی ہے اور وہ جو کچھ جھوٹی باتیں گھڑا کرتے تھے۔

**كَانُوا يَفْتُرُونَ ۝**

وہ سب گم ہو جائیں گی

**قیامت کے دن ہر امت میں سے گواہ لانا اور شرک کی دلیل طلب فرمانا**

**تفسیر:** یہ دو آیات ہیں پہلی آیت کے الفاظ تو مکرر ہیں لیکن سیاق کے اعتبار سے مقام مختلف ہے۔ پہلے تو یہ فرمایا تھا کہ جب ان لوگوں سے یہ سوال ہوگا کہ میرے شرکاء کہاں ہیں جنہیں تم میرا شریک بناتے تھے تو اس پر وہ لوگ جواب دیں گے جنہوں نے انہیں بہکایا تھا اور گمراہ کیا کہ اے ہمارے رب ہم نے انہیں گمراہ کیا جیسے ہم گمراہ ہوئے ہم نے بہکایا

تو تھا لیکن زبردستی نہیں کی تھی ہم بھی بیکے انکو بہکایا ہم ان سے بیزاری ظاہر کرتے ہیں اور یہاں دوسری جگہ جو آیت شریفہ کو دوبارہ ذکر فرمایا ہے وہ بعد والی آیت کی تمہید ہے یعنی جب انہیں پکارا جائے گا تو ان سے جواب نہ بن پڑے گا اور ہر امت کا نبی ان پر گواہی دے گا کہ یہ لوگ دنیا میں کافر تھے، مشرک تھے۔ ایمان لانے سے منکر تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ **هَٰؤُلَاءِ بَوَّهْنَا لَکُمْ** (تم اپنی دلیل لے آؤ) اول تو انکے نبی کی انکے خلاف گواہی ہوگی پھر اپنے شرک اور کفر پر کوئی دلیل نہ لاسکیں گے اور اس وقت انہیں عین یقین کے طور پر معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی بات سچی تھی جو انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعہ پہنچی تھی اور ہمارا کفر شرک پر جہار ہنا جہالت اور ضلالت پر مبنی تھا۔ جب دنیا میں کہا جاتا تھا کہ کفر و شرک سے بچو تو بڑی کٹ جتنی سے پیش آتے تھے اور جھوٹی باتوں کو دلیل کے طور پر پیش کیا کرتے تھے۔ آج قیامت کے دن دلیل کا سوال ہوگا تو وہ سب باتیں جو دنیا میں تراشتے تھے اور جھوٹ بناتے تھے سب گم ہو جائے گا۔

**إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ**

بلاشبہ قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا سو وہ انکے مقابلہ میں تکبر کرنے لگا اور ہم نے اسے خزانوں میں سے اس قدر دیا تھا کہ اسکی چابیاں

**مَفَاتِحُهَا لَتَنُوءَ أُولَىٰ الْعُصْبَةِ أُولَىٰ الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ**

ایسی جماعت کو گراں بار کر دیتی تھیں جو قوت والے لوگ تھے جبکہ اسکی قوم نے اس سے کہا کہ تو مت اتر! بلاشبہ اللہ

**لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ۖ وَابْتَغَ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ**

اتر آنے والوں کو پسند نہیں فرماتا اور اللہ نے تجھے جو کچھ دیا ہے اس میں دایر آخرت کو جتو کرتا رہے

**مِنَ الدُّنْيَا وَاحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ**

اور دنیا میں سے اپنا حصہ فراموش مت کر اور جیسے اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے اسی طرح تو بھی احسان کر اور زمین میں فساد کو تلاش مت کر بیشک

**اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ۚ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي ۖ أَوَلَمْ يَعْلَمُوا**

اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا وہ کہنے لگا کہ مجھے جو کچھ دیا گیا ہے یہ تو صرف میرے علم کی وجہ سے ہے جو میرے پاس ہے کیا اس نے نہیں جانا کہ

**أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَآكْثَرُ**

بلاشبہ اللہ نے اس سے پہلے کتنی ہی جماعتوں کو ہلاک کر دیا جو قوت میں اس سے زیادہ سخت تھیں۔ اور اس سے زیادہ

**جَمْعًا وَلَا يَسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ۚ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ۖ قَالَ**

جھٹھ والی تھیں۔ اور مجرموں سے انکے گناہوں کے بارے میں سوال نہ کیا جائے گا۔ سو وہ اپنی قوم کے سامنے اپنی ٹھاٹھ بٹھ میں نکلا جو لوگ

**الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لَيَلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو**

دنیا والی زندگی کے طالب تھے وہ کہنے لگے کاش ہمارے لئے بھی ایسا ہی مال ہوتا جیسا قارون کو دیا گیا ہے۔ بلاشبہ وہ

حَظٍّ عَظِيمٍ ۝ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيُذَكِّرُوا ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ

بڑے نصیب والا ہے اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا انہوں نے کہا تمہارے لئے ہلاکت ہے اللہ کا ثواب اس شخص کے لئے بہتر ہے

أَمِنْ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلْقِيهَا إِلَّا الصِّدُوقَ ۝ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبَدَارِهِ الْأَرْضَ فَنَف

جو ایمان لایا اور نیک عمل کئے اور یہ بات انہی کے دلوں میں ڈالی جاتی ہے جو صبر کر نیوالے ہوں سو ہم نے قارون کو اور اسکے گھر کو زمین

فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُوهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ ۝

میں دھنسا دیا سو کوئی بھی جماعت نہ تھی جو اسکی مدد کر کے اللہ سے بجاتی اور وہ خود بھی اپنی مدد کرنے والا نہ تھا اور کل گزشتہ جولوگ آرزو کر رہے تھے

وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيَكَانَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ

کہ ہم بھی اس جیسے ہو جاتے صبح ہونے پر کہنے لگے کہ ارے! بات یہ ہے کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ اپنا رزق اپنے بندوں میں سے

لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْ لَا أَنْ مِّنَ اللَّهِ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيَكَانَ

جیسے چاہے زیادہ دیدے اور جس پر چاہے رزق تنگ کر دے اگر اللہ ہم پر احسان نہ فرماتا تو ہمیں بھی دھنسا دیتا۔ ارے! بات یہ ہے کہ

لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ۝

کافر لوگ کامیاب نہیں ہوتے

قارون کا اپنے مال پر اترانا، دنیا داروں کا اس کا مال دیکھ کر  
رتجھنا، اور قارون کا اپنے گھر کیساتھ زمین میں دھنس جانا

**تفسیر:** ان آیات میں قارون کا اور اس کی مال داری کا اور بغاوت اور سرکشی کا اور زمین میں دھنسائے جانے کا ذکر ہے یہ تو قرآن مجید میں ذکر ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا اور بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا لڑکا تھا اور ایک قول یہ ہے کہ ان کا چچا تھا اور ایک قول یہ ہے کہ انکی خالہ کا لڑکا تھا یہ سب اسرائیلی روایات ہیں۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے اسے اتنا زیادہ مال دیا تھا کہ اسکے خزانوں کا اٹھانا تو بہت دور کی بات ہے اسکے خزانوں کی کنجیاں اتنی زیادہ تھیں کہ قوت والی ایک جماعت کو ان چابیوں کے اٹھانے میں بوجھ محسوس ہوتا تھا۔ جب مال زیادہ ہوتا ہے تو انسان کو تکبر ہو جاتا ہے اور مال غرور میں پھولا نہیں سماتا۔ قارون نے اپنے مال کی وجہ سے بنی اسرائیل پر بغاوت کی یعنی فخر کیا اور انکو حقیر جانا اپنے مال پر اترانے لگا۔ انکی قوم نے اس سے کہا کہ دیکھ تو اتر امت بلاشبہ اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا اور تجھے جو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو اسکے ذریعہ دار آخرت کا طالب بن جا یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا رہ تا کہ یہ مال موت کے بعد تیرے کام آئے کیونکہ سب مال یہیں اسی دنیا میں دھرا رہ جائے گا ہاں جس نے آگے بھیج دیا اس کا آگے بھیجا ہو مال کام دے گا۔ جو مال آخرت کے لئے نہ بھیجا وہ پیچھے رہ جانے والے لوگوں



کو مل جائے گا۔ پھر ایسی بیوقوفی کیوں کرے کہ دوسرے لوگ اپنے چھوڑے ہوئے مال سے گل چھڑے اڑائیں اور آخرت میں خود خالی ہاتھ حاضر ہو جائے اور بخیل بن کر اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مطابق مال کو خرچ نہ کر کے اپنے ہی مال کو اپنے لئے وبال اور باعث عذاب بنالے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ میرا مال، میرا مال حالانکہ اس کا مال صرف وہ ہے جو تین کاموں میں لگ گیا جو کھایا اور فنا کیا اور جو پہنا اور پرانا کر دیا اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے دے دیا۔ سو اس نے اپنے لئے ذخیرہ بنالیا اور اسکے سوا جو کچھ بھی ہے اسے لوگوں کے لئے چھوڑ کر چلا جائے گا (یعنی مر جائے گا) (رواہ مسلم ص ۲۴۰ ج ۲) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے (حاضرین سے) سوال فرمایا کہ تم میں ایسا کون ہے جسے اپنے مال کی بہ نسبت اپنے وارث کے مال سے زیادہ محبت ہو؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم میں سے ایسا کوئی بھی نہیں جسے اپنے مال کی بہ نسبت اپنے وارث کے مال سے زیادہ محبت ہو! آپ نے فرمایا کہ اب تم سمجھ لو کہ اپنا مال وہ ہے جو آگے بھیج دیا (یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے خرچ کر دیا تاکہ آخرت میں ثواب ملے اور وارث کا مال وہ ہے جو اپنے پیچھے چھوڑ کر چلا گیا۔ یعنی موت آنے پر خود اسی کا مال اسکے وارثوں کا ہو جائے گا) اب ہر شخص سوچ لے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لئے مال خرچ کرنے میں کنجوسی کرنا اور اس مال کو وارثوں کے لئے چھوڑ جانا یہ اپنے مال سے محبت نہ ہوئی بلکہ وارث کے مال سے محبت ہوئی۔

انسان کا یہ عجیب مزاج ہے کہ جتنا زیادہ مال ہو جائے اسی قدر کنجوس ہوتا چلا جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لئے خرچ نہیں کرتا۔ ایک فیکٹری کے بعد دوسری فیکٹری کروڑوں میں خریدے گا اور اگر کوئی سائل آجائے تو سو پچاس ہاتھ پر رکھ دیگا اگر مسجد و مدرسہ میں خرچ کرنے کیلئے کہا جائے تو سو پچاس روپے سے زیادہ کی ہمت کرے گا۔ مالدار اکثر دنیا دار ہوتے ہیں آگے بھی دنیا پیچھے بھی دنیا سوتے بھی دنیا جاتے بھی دنیا اگر نماز پڑھنے لگے تو اس میں بھی دکان کا حساب لگانے کا دھیان، امپورٹ اور ایکسپورٹ کے بارے میں غور و فکر۔

قارون کی قوم نے یہ بھی کہا کہ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا (کہ دنیا میں سے اپنے حصہ کو مت بھول جا) یعنی اس دنیا میں سے اپنا حصہ لے لے جو آخرت میں تیرے کام آئے دنیا میں سے اپنا حصہ وہی ہے جو آخرت کے لئے بھیج دیا وہاں جائیں گے تو وہ مل جائے گا۔ سورہ مزمل میں فرمایا۔ وَمَا تَنْقُضُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَحَدُّثُهُ عَشَدَّ اللَّهُ (اور جو کچھ اپنی جانوں کے لئے پہلے سے بھیج دو گے اسے اللہ کے پاس لو گے)۔

بعض مفسرین نے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا کا یہی مطلب بتایا ہے جو ہم نے ابھی ذکر کیا۔ اس معنی کے اعتبار سے یہ جملہ پہلے جملہ کی تاکید ہوگا۔ اور بعض حضرات نے اس کا یہ مفہوم بتایا ہے کہ اپنے مال کو دنیا میں بھیجنا اپنی جان پر خرچ کر لے۔ کھالے پی لے اور معاش کی ضروریات میں خرچ کر لے لیکن پہلا معنی اقرب اور رائج ہے کیونکہ کسی مالدار کو جو مال پر اترتا ہو اس بات کی تلقین کرنے کی ضرورت نہیں کہ تو اپنی دنیا سے اپنے اوپر بھی خرچ کر لے وَاحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ (اور تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کر جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان فرمایا)۔

وَلَا تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ (اور زمین میں فساد کا خواہاں مت ہو) یعنی اللہ تعالیٰ کے مقرر فرمودہ حقوق اور فرائض سے جان مت چرا اور گناہوں میں خرچ نہ کر زریا کاری کے کاموں میں نہ لگا کیونکہ یہ زمین میں فساد برپا کرنے کی

چیزیں ہیں إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (بلاشبہ اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا) قوم نے جو فساد سے بچنے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی نصیحت کی تھی اسکے جواب میں قارون نے کہا إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي (کہ یہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو کہ اللہ نے میرے ساتھ احسان فرمایا ہے مجھے مال دیا ہے میں اس بات کو نہیں مانتا مجھے تو یہ مال میری دانشمندی اور ہنرمندی کی وجہ سے ملا ہے) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قارون سونا بنانے کی صنعت یعنی کیمیا گری سے واقف تھا اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے تجارت کے طریقوں سے اور کسب اموال کے مختلف ذرائع سے یہ مال کمایا ہے (قرطبی) پس جب میری ممتنوں سے ملا ہے تو مجھے اختیار ہونا چاہیے کہ اپنا مال جہاں لگاؤں جس طرح لگاؤں اور کسی کو دوں یا نہ دوں اللہ جل شانہ نے فرمایا: أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَآكْثَرُ جَعَلًا (کیا اس نے نہیں جانا کہ بلاشبہ اللہ نے اس سے پہلے کتنی ہی جماعتوں کو ہلاک کر دیا جو قوت میں اس سے زیادہ سخت تھیں اور جتھ کے اعتبار سے زیادہ تھیں) قارون نے اپنے مالدار ہونے کے گھمنڈ میں یوں کہہ دیا کہ میرے پاس جو کچھ مال ہے میری ہنرمندی سے ملا ہے اور اللہ تعالیٰ کی داد و بخشش کا منکر ہو گیا۔ اور ناشکری پر تل گیا، ناشکروں کا برا انجام ہوتا رہا ہے کیا اسے یہ پتہ نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے بہت سی ایسی جماعتوں کو ہلاک فرما چکا ہے جو مالی قوت میں بھی اس سے زیادہ تھیں اور مجمع کثیر ہونے کے اعتبار سے بھی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت ہوئی تو ان کے اموال اور جماعت اور جتھ کچھ بھی کام نہ آیا۔

وَلَا يَنْفَعُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ (اور مجرموں سے انکے گناہوں کے بارے میں سوال نہ ہوگا) یعنی ان سے گناہوں کی تصدیق کے طور پر یہ نہ پوچھا جائے گا کہ تم نے جرم کیا ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ کو تمام مجرمین کے گناہوں کی خبر ہے۔ اور فرشتوں نے جو صحائف اعمال لکھے تھے ان میں بھی سب کچھ موجود ہے۔ لہذا اس نوع کا سوال نہ ہوگا کہ اقرار کر لیں تو عذاب دیا جائے بلکہ جو سوال ہوگا (جس کا بعض آیات میں ذکر ہے) وہ سوال زبرد تو بیع کے لئے ہوگا۔

فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ (الٰی آخرا آیات الاربع) قارون کو اپنے مال پر فخر بھی تھا تکبر بھی تھا ایک دن ریا کاری کے طور پر مالی حیثیت دکھانے کے لئے ٹھانٹھ بانٹھ ساز و سامان کے ساتھ نکلا (جیسے اس دور میں مالدار لوگ بعض علاقوں میں ہاتھی پر بیٹھ کر بازاروں میں نکلتے ہیں اور بعض لوگ بلا ضرورت بڑی بڑی کوٹھیاں بناتے ہیں پھر ریا کاری کے لئے لوگوں کی دعوتیں کرتے ہیں اور آنے والوں کو مختلف کمرے اور ان کا ساز و سامان دکھاتے پھرتے ہیں حد یہ ہے کہ بیٹی کو جو چیز دیتے ہیں وہ بھی ریا کاری کے ساتھ گاڑی کے ساتھ آگے پیچھے اس طرح روانہ کرتے ہیں کہ ایک ایک چیز کو ایک ایک مزدور ہاتھ میں لیکر یا سر پر رکھ گزرتا ہے) پھر جب لڑکی کے سرال میں سامان پہنچتا ہے تو آنے جانے والوں کو دکھانے کے لئے گھر سے باہر سجاتے ہیں۔

جب قارون زینت کی چیزیں لیکر نکلا اور لوگوں کو لمبا جلوس نظر آیا تو انکی رال ٹپکنے لگی۔ کہنے لگے اے کاش ہمارے پاس بھی اسی طرح کا مال ہوتا جیسا کہ قارون کو دیا گیا ہے بیشک وہ بڑا نصیب والا ہے یہ بات سن کر اہل علم نے کہا (جو دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کے اجور کی بقا کو جانتے تھے) کہ تمہارا انجام برا ہو تم دنیا دیکھ کر لپچائے گئے یہ تو حقیر اور فانی تھوڑی سی دنیا ہے اصل دولت ہے ایمان کی اور اعمال صالحہ کی جو شخص ایمان لائے اور اعمال صالحہ کو اختیار کرے اس کیلئے اللہ کا

ثواب بہتر ہے۔ (رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ادنیٰ درجہ کے جنتی کو جنت میں اتنی وسیع جنت دی جائیگی جو اس پوری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اور اس سے دس گنا زیادہ ہوگی۔ اسی سے دوسری نعمتوں کا اندازہ کر لیا جائے) وَلَا يُلْقِيهَا إِلَّا الظَّالِمُونَ (اور یہ بات جو بیان کی گئی کہ اہل ایمان اور اعمال صالحہ والوں کے لئے اللہ کا ثواب بہتر ہے) یہ بات انہی بندوں کے دلوں میں ڈالی جاتی ہے جو طاعات اور عبادات پر جتے رہتے ہیں اور معاصی سے بچتے ہیں۔ قارون کو فر کے ساتھ نکلا۔ اہل دنیا دیکھنے والے اس پر سمجھ گئے اب اس پر اللہ تعالیٰ کی گرفت کا وقت آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا۔ نہ مال کام آیا نہ جماعت کام آئی نہ نوکروں اور چاکروں نے مدد کی اور نہ کوئی تدبیر کر سکا کہ اللہ کے عذاب سے بچ جاتا۔

جب صبح ہوئی تو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں گیا قارون اور کہاں گیا اس کا گھر نہ خود ہے نہ گھر ہے وہ خود اور اس کا گھر زمین کا لقمہ بن چکے ہیں۔ اب تو وہ لوگ کہنے لگے جو کل اس کے جیسا مالدار ہونے کی آرزو کر رہے تھے یہ ہماری بے وقوفی تھی اصل بات یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے زیادہ رزق دے دے اور جس کے لئے چاہے تنگ کر دے مالدار پر رشک کیا جائے۔ یہ تو اچھا ہوا کہ ہماری آرزو کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہمیں قارون جیسا مال کثیر عطا نہیں فرمایا۔ اگر ہمیں مال مل جاتا تو ہم بھی اسی کی طرح اترتے اور زمین میں دھنسا دیے جاتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے مال کثیر نہ دے کر ہم پر کم فرمایا اور زمین میں دھنسانے سے بچالیا۔ وہ لوگ آخر میں اظہار ندامت کے طور پر کہنے لگے واقعی بات یہ ہے کہ کافر کا میاں نہیں ہوتے (اب ایمان اور اعمال صالحہ کی قدر ہوئی)

کافروں کی چہل پہل مال و دولت پر کبھی نہ جائے انکے اموال اور احوال کو کبھی نظر میں نہ لائے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہرگز فاجر کی نعمت پر رشک نہ کر کیونکہ تو نہیں جانتا کہ موت کے بعد اسے کس مصیبت سے ملاقات کرنا ہے بلاشبہ اس کے لئے اللہ کے نزدیک ایک قاتل ہے جسے کبھی موت نہ آئے گی یہ قاتل دوزخ کی آگ ہے (وہ اسی میں ہمیشہ رہے گا) (کذا فی مشکوٰۃ ص ۴۷۷ از شرح النہ)

جب کافر کو دوزخ میں جانا ہے تو اسکی دولت کو دیکھ کر لالچاں کسی طرح زیب نہیں دیتا مومن بندے جنت کے طالب ہیں اسی کے لئے عمل کرتے ہیں انکی نظر میں کافر کی دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔

فائدہ: قارون کے واقعہ کا گزشتہ مضامین سے ربط کیا ہے اس کے بارے میں بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ شروع سورت میں جو تَعْلَوْا عَلَيْكَ مِنْ بَنِي مُوسَىٰ فرمایا تھا یہ اسی سے متعلق ہے سورت سے شروع میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بتایا اور سورت کے ختم کے قریب قوم کے ایک شخص کی مالدار اور بربادی کا تذکرہ فرمایا اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس کا ربط آیت کریمہ وَمَا أَوْثَقْتُم مِّنْ مَّثْنًى وَهَمَّ تَوَلَّىٰ تَحَمُّلًا يَّجُودًا سے ہے قارون کو مالدار اور دنیا داری اور بربادی کی ایک نظیر پیش فرما کر یہ بتادیا کہ اہل دنیا کا برباد انجام ہوتا ہے (روح المعانی)

قوله تعالى "ويكان الله" ويكانه قال صاحب الروح ووی عند الخليل وسيبويه اسم فعل ومعناها اعجب وتكون للتحسر والتندم ايضا كما صرحوا به ، وعن الخليل أن القوم ندموا فقالوا امتندمين على ما سلف منهم ، وكل من ندم وأراد اظهار ندمه قال "وی"

ولعل الاظهر ارادة التعجب بأن يكونوا تعجبوا اولاً مما وقع وقالوا اثناناً كأن الخ و كان فيه عارية عن معنى التشبيه جنى بها للتحقيق۔ (ص ۱۲۴ ج ۲۰) (اللہ تعالیٰ کا ارشاد دیکھنا اس کے بارے میں تفسیر روح المعانی کے مصنف فرماتے ہیں غلیل اور سیبویہ کے نزدیک ”وئی“ اسم بمعنی فعل ہے اور اس کا معنی ہے ”اُعجب“ ”مجھے تعجب ہے“۔ اور یہ وئی حضرت وندامت کے اظہار کے لئے بھی آتا ہے جیسا کہ اہل علم نے اس کی صراحت کی ہے۔ غلیل کہتے ہیں کہ قوم والے پشیمان ہوئے اور کہنے لگے ”وئی“ یعنی جو کچھ ان سے ہو چکا اس پر ندامت کرتے ہیں۔ اور ہر آدمی جو پشیمان ہوا اور اُس نے اپنی ندامت ظاہر کرنا چاہی تو کہتا ہے ”وئی“ اور اس سے زیادہ ظاہر یہ کہ اس سے مراد تعجب ہو اس طرح کہ جو واقعہ پیش آیا پہلے انہوں نے اس پر تعجب کیا اور پھر کہا ”کأن“ اور اس وقت یہ کأن تشبیہ کے معنی سے خالی ہو گا اور تحقیق کے لئے استعمال کیا گیا ہے)

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فُسَادًا

یہ آخرت کا گھر ہم اسے ان لوگوں کے لئے خاص کر دیں گے جو زمین میں بلندی اور فساد کا ارادہ نہیں کرتے

وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ۝ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ

اور اچھا نتیجہ متقیوں کے لئے ہے جو شخص نیکی لے کر آئے گا سو اس کے لئے اس سے بہتر بدلہ ملے گا۔ اور جو شخص بدی لیکر آئے گا

فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

سو جن لوگوں نے برے عمل کئے انہیں انہی اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ لوگ کیا کرتے تھے

آخرت کا گھر اُن لوگوں کے لئے ہے  
جو زمین میں بلندی اور فساد کا ارادہ نہیں کرتے

**تفسیر:** یہ دو آیتیں ہیں پہلی آیت میں یہ بتایا کہ دار آخرت یعنی موت کے بعد جو مومنین صالحین کو ٹھکانہ ملے گا اسے ہم انہیں لوگوں کے لئے خاص کر دیں گے جو زمین میں بڑائی برتری اور بلندی کا ارادہ نہیں کرتے اور فساد کو نہیں چاہتے۔ اور اچھا انجام متقیوں ہی کا ہے بندوں کو تو وضع کے ساتھ رہنا لازم ہے۔ ساری بڑائی خالق اور مالک ہی کے لئے ہے جس نے سب کو پیدا فرمایا ہے۔ اسکی بڑائی اور کبریا کے سامنے ہر بندہ کو جھک جانا لازم ہے۔ جن لوگوں کو جتنی زیادہ معرفت حاصل ہوتی ہے ان میں اسی قدر تواضع ہوتی ہے۔ جو لوگ دنیا میں بڑا بننا چاہتے ہیں اس بڑائی کے حاصل کرنے کے لئے بہت سے گناہ کرتے ہیں اللہ کی مخلوق کو ستاتے ہیں دکھ دیتے ہیں قتل تک کرواتے ہیں۔ اللہ کے احکامات کو پامال کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ لوگ اپنے لئے دار آخرت یعنی جنت سے محرومی ہی کا انتظام کرتے ہیں پھر دنیا میں بھی انہیں وہ عزت حاصل نہیں ہوتی جو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے والوں کو حاصل ہوتی ہے اگر لوگ دنیاوی اقتدار کے دباؤ میں کچھ نہ کہیں تو دلوں سے تو برا سمجھتے ہی ہیں۔

تواضع کی منفعت اور تکبر کی مذمت: رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کے لئے تواضع اختیار کی اللہ اسے بلند فرما دے گا وہ اپنے نفس میں چھوٹا ہوگا اور لوگوں کی آنکھوں میں بڑا ہوگا اور جس نے تکبر اختیار کیا اللہ اسے گرا دے گا۔ پس وہ لوگوں کی نظروں میں چھوٹا ہوگا اور اپنے نفس میں بڑا ہوگا۔ (لوگوں کے نزدیک اسکی ذلت کا یہ حال ہوگا کہ) وہ کتے اور خنزیر سے بڑھ کر انکے نزدیک ذلیل ہوگا۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۳۴) ایک حدیث میں ہے کہ دوزخ میں کوئی ایسا شخص داخل نہ ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا۔ اور کوئی ایسا شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۳۳ مسلم)

نیز رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تکبر کرنے والے انسانی صورتوں میں چیونٹیوں کے برابر چھوٹے چھوٹے جسموں میں جمع کئے جائیں گے انہیں دوزخ کے جبل خانہ کی طرف ہٹا کر لے جایا جائے گا جس کا نام بولس ہے ان کے اوپر آگوں کو جلانے والی آگ چڑھی ہوئی ہوگی ان لوگوں کو طینۃ الخبال (یعنی دوزخیوں کے جسموں کا نچوڑ) پلایا جائے گا۔ (رواہ الترمذی)

تکبر بری بلا ہے شیطان کو لے ڈوبا اسکی راہ پر چلنے والے انسانوں کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ دوسری آیت میں یہ بتایا کہ جو شخص قیامت کے دن نیکی لے کر آئے گا اسے اس کا اس سے بہتر بدلہ ملے گا۔ سب سے بڑی نیکی تو ایمان ہے اس کا بہت بڑا بدلہ ہے یعنی ہمیشہ کے لئے جنت میں داخل ہونے کا انعام ہے اور صاحب ایمان جتنی بھی نیکیاں کرے گا ہر نیکی کا بہت بڑا ثواب پائے گا جو اسکی نیکی سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا اور ہر نیکی کا ثواب کم از کم دس گنا ہو کر تو ملنا ہی ہے یہ تو اہل ایمان کا ذکر ہوا۔ اب رہے کافر انکو بھی انکے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ سب سے بڑا برا عمل کفر و شرک ہے اور کفر کے ساتھ اہل کفر اور بھی بڑے بڑے گناہ کرتے رہتے ہیں۔ کافروں میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو دنیا میں غریب تھے اصحاب اقتدار کی رعیت تھے انکے سامنے ذلیل تھے تنگدست بھی تھے لوگوں کے سامنے حقیر بھی تھے اور وہ لوگ بھی ہوں گے جو بڑے بڑے مالدار تھے بادشاہ تھے امیر تھے وزیر تھے کافر و شرک امیر ہو یا غریب ہو عزت دار ہو یا ذلیل ہو اپنے کفر کی وجہ سے دوزخ کا ایندھن بنے گا اور کفر کے علاوہ جو گناہ کئے ہوں گے ان کی سزا بھی ملے گی۔

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ

بلاشبہ جس نے آپ پر قرآن کو فرض کیا ہے وہ آپ کو لوٹنے کی جگہ واپس پہنچا دے گا۔ آپ فرمادیجئے کہ میرا رب اس شخص کو خوب جانتا ہے

بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۚ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ

جو ہدایت لے کر آیا اور اسے بھی جانتا ہے کہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ اور آپ کو اسکی امید نہ تھی کہ آپکو کتاب

إِلَّا رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ ۚ وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ آيَاتِ

دی جائے گی مگر محض آپ کے رب کی رحمت سے سو آپ ہرگز کافروں کے مددگار نہ ہو جائیں۔ اور ہرگز یہ لوگ آپ کو اللہ کی آیات سے

اللَّهُ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ وَلَا

نہ روک دیں اسکے بعد کہ وہ آپ کی طرف نازل ہو چکی ہے۔ اور آپ اپنے رب کی طرف بلا تے رہیں اور ہرگز مشرکین میں سے نہ ہو

تَدْعُمَهُ اللَّهُ إِلَهًا آخَرَ وَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ۚ لَهُ الْحُكْمُ

جائے اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریے اسکی ذات کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے۔ اسی کی حکومت ہے

وَالِيَهُ تُرْجَعُونَ ۝

اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے

## اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کو کتاب دی گئی

**تفسیر:** حضرات مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ معاد سے آنحضرت ﷺ کا سابق وطن یعنی مکہ معظمہ مراد ہے اور اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دی گئی ہے کہ آپ واپس اپنے وطن تشریف لائیں گے۔ چنانچہ آپ ۸ھ میں فاتح ہو کر مکہ معظمہ میں داخل ہوئے تھے انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ علامہ قرطبیؒ لکھتے ہیں کہ ہجرت کے سفر میں جب رسول اللہ ﷺ حجفہ میں نازل ہوئے اس وقت مکہ معظمہ یاد آ گیا اور آپ کو اپنے وطن کا اشتیاق ہوا۔ اس موقع پر جبریل علیہ السلام یہ آیت لے کر حاضر ہوئے جس میں آپ کے واپس مکہ معظمہ تشریف لانے کا وعدہ ہے اسی لئے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت حجفہ میں نازل ہوئی نہ مکہ ہے نہ مدنی ہے اس روایت کی بناء پر فرض کا ترجمہ انزل کیا جائے گا یعنی جس ذات نے آپ پر قرآن مجید نازل فرمایا ہے وہ آپ کو آپ کے وطن واپس پہنچا دے گا۔ بعض حضرات نے فرض کا معنی معروف لیا ہے۔ اور معاد سے جنت مراد لی ہے اور مطلب یہ ہے کہ جس ذات نے آپ پر یہ فرض کیا ہے کہ قرآن پر عمل کریں وہ آپ کو جنت میں پہنچا دے گا۔

قُلْ رَبِّيَ أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ (آپ فرمادیجئے کہ میرا رب اسے خوب جانتا ہے جو ہدایت لے کر آیا) وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (اور اسے بھی خوب جانتا ہے جو کھلی گمراہی میں ہے) صاحب روح المعانی نے معالم التنزیل سے نقل کیا ہے کہ اس میں مکہ معظمہ کے کفار کا جواب ہے جنہوں نے آپ کو گمراہی پر بتایا تھا۔

وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ (اور آپ کو یہ اُمید نہیں تھی کہ آپ پر کتاب نازل کی جائے گی لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور اپنی رحمت سے آپ کو نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا اور آپ پر قرآن نازل کیا) پس جس طرح آپ کو اُمید کے بغیر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتاب عطا فرمادی اسی طرح سمجھ لیں کہ گوا سباب ظاہرہ کے اعتبار سے آپ مکہ معظمہ چھوڑنے پر مجبور ہو رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پھر مکہ معظمہ میں واپس ہوں گے اور یہ بھی صرف اللہ کی رحمت سے ہوگا۔ قال صاحب الروح ای سیردک الی معاد کما انزل الیک القرآن العظیم الشان وما کنت ترجو۔

فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ (سو آپ کافروں کے مددگار نہ ہوجئے) اس میں خطاب تو آپ کو ہے لیکن جواب کافروں کی اس بات کا ہے جنہوں نے آپ کو اپنے آباء و اجداد کے دین پر آ جانے کی دعوت دی تھی۔ وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ (اور اسکے بعد کہ اللہ کی آیات آپ کی طرف نازل کی گئی ہیں کافر لوگ آپ کو ان کے پڑھنے سے اور ان پر عمل کرنے سے نہ روک دیں) یہ حکم امت کو بھی ہے کافروں کے کہنے اور روکنے سے اللہ تعالیٰ کی آیات کے پڑھنے پڑھانے سے رکیں۔ وَأَذِّنْ إِلَى رَبِّكَ (اور آپ اپنے رب کی طرف بلا تے رہیں) یعنی توحید کی دعوت دیتے رہیں۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (اور آپ مشرکین میں سے نہ ہو جائیے) علامہ قرطبیؒ نے لکھا ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی۔ جب قریش مکہ نے آپ کو اپنے بتوں کی تعظیم کرنے کی دعوت دی، صاحب معالم التنزیل لکھتے ہیں کہ بظاہر اس میں آنحضرت ﷺ کو خطاب ہے لیکن مقصود آپ کے دشمنوں کو سنانا ہے کہ تم جو اُمید رکھتے ہو کہ آپ تمہاری طرف مائل ہو جائیں گے۔ ایسا کبھی نہ ہوگا۔

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ۔ (اور آپ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریئے) اس میں اہل ایمان کو واپس شرک میں چلے جانے کی ممانعت ہے گو بظاہر خطاب آپ کو ہے (ﷺ) (روح المعانی ص ۱۳۰ ج ۲۰) لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ (اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں) كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ (ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اسکی ذات کے) لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (اسی کے لئے حکومت ہے اور اسی کے پاس تم سب کو جانا ہے)۔

وقد تم والحمد لله تفسیر سورة القصص فی ليلة السابع والعشرين من شهر ربيع الثانى ۱۴۱۶ھ من هجرة سيد المرسلين واکرام الاكرمين صلى الله تعالى عليه وسلم فى الاولين والآخرين وعلى اله واصحابه اجمعين، ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿۱﴾

سورہ عنکبوت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ﴿شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے﴾ اس میں انہتر آیات اور سات رکوع ہیں

الَّذِينَ أَحْسَبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۖ وَقَدْ

الْتَمَّٰهُمْ كَمَا لَوْ كُنُوا عَنْ يَدٍ ۚ وَإِنَّهُمْ لَخَبِيرَةٌ ۚ وَكَانَ لَكُمْ فِيهِمْ لَكِبٌ ۚ

فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ﴿۲﴾

ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو آزمایا ہے سو اللہ ضرور ضرور ان لوگوں کو جان لے گا جو سچے ہیں اور ضرور ضرور جھوٹوں کو بھی جان لے گا۔

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا ۚ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿۳﴾

جو لوگ بُرے کام کرتے ہیں کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم سے چھوٹ کر کہیں بھاگ جائیں گے برا فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں

## دعوائے ایمان کے بعد امتحان بھی ہوتا ہے

**تفسیر:** یہاں سے سورہ عنکبوت شروع ہو رہی ہے عربی زبان میں عنکبوت مکڑی کو کہا جاتا ہے اس سورہ کے پانچویں رکوع میں عنکبوت یعنی مکڑی کا ذکر ہے اسی لیے یہ سورہ اس نام سے مشہور ہے۔ آیت کے ابتدائی مضمون میں اول تو یوں فرمایا کہ جو لوگ مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کیا انہوں نے یہ خیال کیا کہ صرف اتنا کہہ دینے سے چھوڑ دیئے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کا امتحان نہ کیا جائے گا؟ یہ استفہام انکاری ہے اور مطلب یہ ہے کہ صرف زبان سے یہ کہہ دینا کہ میں مومن ہوں کافی نہیں ہے دل سے مومن ہونا لازم ہے اور جب کوئی سچا مومن ہوگا تو آزمائشوں میں ڈالا جائے گا یہ آزمائشیں کئی طرح سے ہوں گی عبادات میں مجاہدہ ہوگا خواہشوں سے خلاف بھی چلنا ہوگا مصائب پر بھی صبر کرنا ہوگا ان چیزوں کے ذریعہ مومن بندوں کا امتحان لیا جاتا ہے۔ جب امتحان ہوتا ہے اور مجاہدات اور مشقتیں سامنے آتی ہیں تو مخلص مومن اور منافق کے درمیان امتیاز ہو جاتا ہے۔

صاحب روح المعانی نے (جلد ۲ ص ۱۳۴) بحوالہ ابن جریر وابن ابی حاتم حضرت شععیؒ سے نقل کیا ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے ہجرت کے بعد مکہ مکرمہ میں ہوتے ہوئے اسلام قبول کر لیا تھا رسول اللہ ﷺ کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے (جو ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ چکے تھے) ان لوگوں کو لکھا کہ جب تک ہجرت نہ کرو گے تمہارا اسلام لانا مقبول اور معتبر نہ ہوگا اس پر وہ لوگ مدینہ منورہ کے ارادہ سے نکلے تو مشرکین ان کے پیچھے لگ گئے اور انہیں واپس لے گئے اس پر آیت بالا نازل ہوئی، مہاجرین نے انہیں پھر لکھا کہ تمہارے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے اس پر انہوں نے پھر مکہ معظمہ سے نکلنے کا ارادہ کیا اور یہ طے کیا کہ اگر مشرکین آڑے آئے تو ہم ان سے جنگ کریں گے چنانچہ یہ لوگ ہجرت کے ارادہ سے نکلے اور مشرکین پھر ان کے پیچھے لگ گئے جس پر انہوں نے قتال کیا، بعض مقتول ہو گئے اور بعض نجات پا کر مدینہ منورہ پہنچ گئے اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی یہ آیت نازل فرمائی: ثُمَّ لَاقَٰ رَبَّكَ بِالْذِّكْرِ

هَاجِرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهِدُوا وَصَبِّرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُوٌّ رَحِيمٌ (پھر بیشک آپ کا رب ایسے لوگوں کے لئے جنہوں نے فتنہ میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کی پھر جہاد کیا اور قائم رہے تو آپ کا رب ان کے بعد بڑی مغفرت کرنے والا بڑی رحمت کرنے والا ہے)

اس کے بعد صاحب روح المعانی نے حضرت حسن بصریؒ کا مقولہ نقل کیا ہے کہ یہاں الناس سے منافقین مراد ہیں۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ (اور ہم نے آزمایا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے) فَكَيْعَلَعَلَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا (سو ضرور ضرور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جان لے گا جو اپنے دعوائے ایمان میں سچے ہیں) وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَافِرِينَ (اور ضرور ضرور ان لوگوں کو بھی جان لے گا جو جھوٹے ہیں) یعنی جو زبان سے ایمان کے مدعی ہیں لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے۔

مطلب یہ کہ پہلے لوگوں کو آزمائش میں ڈالا گیا ان کو بھی تکلیفیں پہنچیں اور دشمنان اسلام سے واسطہ پڑا مقتول ہوئے زخم کھائے اور دوسری تکلیفوں میں مبتلا ہوئے اب امت محمدیہ (علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والتحیۃ) مخاطب ہے ان کا بھی امتحان لیا جائے گا۔

سورة آل عمران میں فرمایا: وَكَأَيِّنْ مِنْ قَبْلِي فَتَىٰ قَتَلَ مَعَدْرِبِيْفُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (اور بہت سے نبی گذرے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی، پھر جو مصیبتیں ان کو اللہ کی راہ میں پہنچیں ان کی وجہ سے نہ وہ ہمت ہارے نہ کمزور پڑے اور نہ عاجز ہوئے اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے)

اہل ایمان کے ساتھ آزمائش کا سلسلہ چلتا رہتا ہے دعا امن و عافیت اور سلامتی کی ہی کرنی چاہیے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آجائے تو صبر و تحمل اور برداشت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو سامنے رکھتے ہوئے آزمائش کا وقت گذار دیں، تکلیفوں پر بھی اجر اور صبر پر بھی صبر کا پھل میٹھا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔

جو لوگ صدق دل سے مسلمان ہوتے ہیں وہ تکلیفوں اور آزمائشوں میں بھی ثابت قدم رہتے ہیں اور جو لوگ دفع الوقتی کے طور پر دنیا سازی کے لئے اوپر اوپر سے اسلام کے مدعی ہو جاتے ہیں وہ آڑے وقت میں اسلام کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ مصائب اور مشکلات کے ذریعہ مخلص اور غیر مخلص کا امتیاز ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ کو مخلوق پیدا فرمانے سے پہلے ہی سب کچھ معلوم تھا کہ کون کیا کرے گا اور کیسا ہوگا، اسے پہلے ہی سے اس کا علم ہے، پھر جب اسی علم ازلی کے مطابق لوگوں کے اعمال اور احوال کا ظہور ہو جاتا ہے تو یہ علم بھی ہو جاتا ہے کہ علم ازلی کے مطابق جو واقعہ ہونے والا تھا وہ ہو چکا۔ مفسرین کرام اسے علم ظہوری سے تعبیر کرتے ہیں یہ مسئلہ ذرا بار یک سا ہے کسی اچھے عالم سے سمجھ لیں۔

یہ جو کچھ امتحان اور آزمائش کا ذکر تھا ایمان کا دعویٰ کرنے والوں سے متعلق تھا اور جو لوگ تکلیفیں پہنچاتے تھے (یعنی مشرک) ان کے بارے میں فرمایا اَفَرَحِيبَ الَّذِينَ يَعْصُونَ السَّيِّئَاتِ اَنْ يَسْتَفْزُوا جَوْلُوكَ بِرَعَامٍ كَرْتِے ہیں کہ ہم سے آگے بڑھ جائیں گے (یعنی ہماری گرفت میں نہ آسکیں گے اور کہیں نکل کر بھاگ جائیں گے؟) سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (یہ لوگ جو کچھ اپنے خیال میں گمان کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں اور اپنے گمان کے مطابق فیصلہ کر

رہے ہیں یہ برفیصلہ ہے) اور بہبودہ خیال ہے خداوندی گرفت سے بچ کر کہیں نہیں جاسکتے اس میں ایذا ادا دینے والوں کے لیے تہدید بھی ہے اور اہل ایمان کو تسلی بھی ہے کہ یہ لوگ جو تمہیں ستاتے ہیں اور دکھ دیتے ہیں انہیں اس کی سزا ضرور ملے گی۔

مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

جو شخص اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے سو بلاشبہ اللہ کا مقرر کردہ وقت ضرور آنے والا ہے اور وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ۝

جو شخص مجاہدہ کرتا ہے سو وہ اپنے لئے ہی محنت کرتا ہے بلاشبہ اللہ سارے جہانوں سے بے نیاز ہے اور جو لوگ

آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي

ایمان لائے اور نیک عمل کئے ضرور ضرور ہم ان کی برائیوں کا کفارہ کر دیں گے اور ضرور ہم انہیں ان کے

كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

کاموں کا اچھے سے اچھا بدلہ دیں گے۔

ہر شخص کا مجاہدہ اُس کے اپنے نفس کے لئے ہے  
اور اللہ تعالیٰ سارے جہانوں سے بے نیاز ہے

**تفسیر:** جو شخص اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اسے ثواب ملے تو اسے سمجھ لینا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ملاقات اور ثواب عطا فرمانے کے لیے ایک وقت مقرر فرمایا ہے اور وہ وقت ضرور آئے گا اور جو مکمل ثواب کے لائق ہوگا اس پر ضرور ثواب ملے گا اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے وہ سب کی دعائیں سنتا ہے آرزوئیں جانتا ہے سب کے اعمال سے باخبر ہے وہ تمام مخلصین کو بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ اہل ایمان کو جو ایمان قبول کرنے پر بعض مرتبہ تکلیفیں ہوتی ہیں اور دشمنان دین سے اذیت پہنچتی ہے یہ ایک مجاہدہ ہے یعنی نفس سے مقابلہ ہے۔ یہ لفظ جہد سے مشتق ہے عربی زبان میں جہد و مشقت کو کہتے ہیں یہ باب مفاعلہ ہے جو جاتین کی شرکت پر دلالت کرتا ہے جب کوئی شخص آخرت کی بہتری کے لیے کوئی عمل کرنا چاہے (جس میں ایمان کا قبول کرنا بھی ہے) تو نفس کو شاق گزرتا ہے اور نفس کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے اس لیے اس کو مجاہدہ سے تعبیر فرمایا اور ارشاد فرمایا جو شخص مشقت اٹھائے محنت اور مجاہدہ کرے تو اس کا تکلیف اٹھانا اور مشقت برداشت کرنا اس کی اپنی جان کے لیے ہے وہ اس کا اجر و ثواب پالے گا اللہ تعالیٰ پر کوئی احسان نہیں ہے اسے کسی کے کسی عمل کی حاجت نہیں وہ سارے جہانوں سے بے نیاز ہے۔

اس کے بعد ایک عمومی قانون بتایا: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ (الآیۃ) اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے ہم ان کی برائیوں کا کفارہ کر دیں گے یعنی ان کی برائیوں کو اپنی مغفرت سے ڈھانپ دیں گے توبہ کے ذریعہ اور نیکوں کے ذریعہ اور اپنے فضل و کرم سے انہیں معاف کر دیں گے کفر اور شرک کا ایمان سے کفارہ ہو جاتا ہے اور اسلام

قبول کرنے کے بعد جو گناہ کئے ہوں ان کا کفارہ ہوتا رہتا ہے اسلام پر باقی رہتے ہوئے اخلاص کے ساتھ جو اعمال صالحہ اختیار کیے جائیں ان کا اچھے سے اچھا بدلہ ملے گا جو ان کے اعمال سے بہت زیادہ اچھا اور عمدہ ہوگا، تھوڑے سے کام پر بہت زیادہ نعمتیں ملیں گی اور ہر نیکی کم از کم دس گنا کر دی جائے گی اور اسی اعتبار سے ثواب ملے گا۔

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَكَ لِتُشْرِكَ بِنِي مَا لَيْسَ

اور ہم نے انسان کو تاکید کی کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کر اور اگر وہ تجھ پر اس بات کا زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرا

لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأَنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ وَالَّذِينَ

جس کی دلیل تیرے پاس نہیں ہے وہ تو ان کی فرمانبرداری نہ کرنا میری طرف تم لوگوں کو واپس ہونا ہے سو میں تمہیں ان کاموں سے باخبر کروں گا جو تم کیا کرتے تھے اور جو لوگ

أَنُؤُوا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ۝

ایمان لائے اور نیک کام کئے سو ہم ان کو ضرور ضرور نیک بندوں میں داخل کر دیں گے

## والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم

**تفسیر:** یہ دو آیتوں کا ترجمہ ہے، پہلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو وصیت کی کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، سورہ بنی اسرائیل رکوع ۳ میں اس کا طریقہ کار بھی بیان فرمایا ہے وہاں ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَيَالِ الَّذِينَ إِخْسَانًا لِأَبَائِهِمْ بَلْغُوا عِندَ الْكِبَرِ أَحَدًا ۚ أَوَكُلُّهُمْ أَفَلَا تَعْقِلُ كَلِمَاتٍ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۚ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا (اور تیرے رب نے حکم دیا کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور تم ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو اگر تیرے پاس ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں سو ان کو کبھی اف بھی مت کہنا اور نہ ان کو جھڑکنا اور ان سے خوب ادب سے بات کرنا اور ان کے سامنے شفقت سے انکساری کے ساتھ جھک رہنا اور یوں دعا کرتے رہنا اے میرے رب ان دونوں پر رحمت فرمائیے جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے۔)

سورہ بنی اسرائیل کی مندرجہ بالا آیات میں اول تو وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فرمایا جس میں والدین کے ساتھ اچھی طرح پیش آنے کا حکم دیا ہے جو حسن سلوک کرنے اور ان پر مال خرچ کرنے کو شامل ہے۔

پھر بوڑھے ماں باپ کا خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا کہ ان کو اف بھی نہ کہو اور ان کو مت جھڑکو اور ان سے اچھے طریقے سے بات کرو۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ماں باپ کے سامنے شفقت اور رحمت کی وجہ سے انکساری کی ساتھ جھک رہو۔ پھر ان کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا کہ یوں دعا کرو کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے چھٹ پنے میں میری پرورش کی ہے۔ اس میں رحمت اور شفقت کا سبب بھی بیان فرمایا کہ کبھی تم ایسے تھے کہ ان کی شفقت کے محتاج تھے انہوں نے تمہیں پالا پوسا تمہارے لیے تکلیفیں اٹھائیں اب وہ ضعیف ہیں تم قوی ہو تمہیں ان کے لیے فکر مند ہونا

چاہیے۔ مزید تفصیل کے لیے سورہ بنی اسرائیل کی مذکورہ آیات کی تفسیر دیکھئے وہاں ہم نے بہت سی احادیث شریفہ کا ترجمہ بھی لکھ دیا ہے جو والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرنے سے متعلق ہیں۔

والدین کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرنے کا حکم دینے کے بعد ارشاد فرمایا: وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا (اور اگر تیرے ماں باپ تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائے جس کے معبود ہونے کی تیرے پاس دلیل نہیں تو ان کی فرمانبرداری مت کرنا) یہ حکم سورہ لقمن میں بھی ہے وہاں مزید فرمایا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا (کہ ان کے ساتھ دنیا میں اچھے طریقے پر پیش آتے رہو) یعنی اگر وہ کفر و شرک کرنے کا حکم دیں تو اس میں ان کی اطاعت مت کرنا، اور باوجودیکہ وہ کافر ہوں حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا اور ان کی خدمت سے دریغ نہ کرنا، جیسا کہ ماں باپ کے کہنے سے کفر و شرک حرام ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بھی نافرمانی کرنا ممنوع ہے۔

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ (کہ خالق تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی بھی مخلوق کی فرمانبرداری کی اجازت نہیں) ہاں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک میں اور مالی انفاق میں کوتاہی نہ کرے (مشکوٰۃ المصابیح)

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا تھیں وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئیں تھیں ان کی والدہ مشرک تھیں اور وہ مکہ مکرمہ میں رہ گئیں تھیں سن ۶ھ میں جب رسول اللہ ﷺ سے مشرکین مکہ کا معاہدہ ہوا جس میں یہ بھی تھا کہ ایک دوسرے پر حملہ نہ کریں گے اس زمانہ میں حضرت اسماءؓ کی والدہ مدینہ آ گئیں حضرت اسماءؓ نے رسول اللہ ﷺ سے مسئلہ پوچھا کہ میری والدہ آئی ہیں اور اس وقت عاجز ہیں اور مالی مدد چاہتی ہیں کیا میں مال سے ان کی خدمت کر دوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ہاں ان کے ساتھ صلہ رحمی کا برتاؤ کرو۔ (رواہ البخاری)

آجکل نوجوانوں کو اس میں بڑا ابتلا ہوتا ہے کہ ماں باپ انہیں گناہوں کی زندگی اختیار کرنے پر زور دیتے ہیں داڑھی مونڈوانے پر اصرار کرتے ہیں رشوت لینے پر آمادہ کرتے ہیں بینک کی نوکری اختیار کرنے اور سود لینے کا بھی حکم دیتے ہیں بے پردگی اختیار کرنے کو کہتے ہیں انکے علاوہ اور بہت سے گناہوں کی فرمائش کرتے ہیں۔ اوپر حدیث سے معلوم ہوا کہ خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی کوئی فرمانبرداری نہیں ماں باپ کے لیے حرام ہے کہ اولاد کو گناہوں کا حکم دیں اور اولاد کے لیے بھی حلال نہیں ہے کہ ماں باپ کے کہنے پر کوئی گناہ کریں اللہ تعالیٰ خالق اور مالک ہے اس نے سب کو وجود بخشا ہے اس کا حق سب سے پہلے ہے اور سب سے زیادہ کسی مخلوق کا حق اس کے بعد میں ہے اللہ تعالیٰ کے حق کی رعایت کرنا لازم اور فرض ہے اس کے حکم کی خلاف ورزی کسی کے کہنے سے بھی حلال نہیں ہے۔

تفسیر روح المعانی ص ۱۳۹ میں آیت بالا کا سبب نزول یوں لکھا ہے کہ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تو ان کی والدہ نے کہا کہ اے سعد میں نے سنا ہے کہ تو اپنا دین چھوڑ کر دوسرے کے دین میں داخل ہو گیا ہے؟ میں اللہ کی قسم کھاتی ہوں کہ میں کسی گھر میں داخل نہ ہوں گی (یوں ہی میدان میں پڑی رہوں گی خواہ دھوپ ہو اور ہوا سے میرا کچھ بھی نہ بنے) اور مجھ پر کھانا پینا حرام ہے جب تک کہ تو (محمد ﷺ) کے اتباع کا انکار نہیں کرے حضرت سعدؓ اپنی والدہ کے سب سے زیادہ چہیتے بیٹے تھے انہوں نے کفر اختیار کرنے سے صاف انکار کر دیا اور ان کی والدہ نے

اپنی قسم کی وجہ سے بغیر کھائے پیئے یوں ہی میدان میں پڑے ہوئے تین دن گزار دیئے حضرت سعدؓ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا واقعہ سنایا اس پر آیت بالا اور سورہ لقمن کی آیت (وَوَضَّيْنَا لِلْإِنْسَانِ يَوْمَ الذِّكْرِ حُسْنًا) نازل ہوئی۔

معالم التنزیل ص ۴۶۱ میں لکھا ہے کہ حضرت سعدؓ کی والدہ نے دو دن اور دو رات تک کچھ نہ کھایا پیا اس کے بعد حضرت سعدؓ والدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اماں جان اگر آپ کے بدن میں سو ۱۰۰ رو میں بھی ہوتیں اور ایک ایک کر کے نکلتی رہتی تو میں اس کو دیکھ کر بھی کبھی اپنا دین نہ چھوڑتا اب تم چاہو تو کھاؤ پیو یا مر جاؤ بہر حال میں اپنے دین سے نہیں ہٹ سکتا ماں نے اس گفتگو سے مایوس ہو کر کھانا کھالیا۔

إِنَّ مَرْجِعَكُمْ فَإِنْ تَكْفُرُوا بَمَا لَكُمْ تَكْفُرُوا تَعْمَلُونَ (میری طرف تمہارا لوٹنا ہے سو میں تمہیں ان کاموں سے باخبر کر دوں گا جو تم کیا کرتے تھے) اس میں یہ بتا دیا کہ دنیا میں کوئی شخص کیسا بھی عمل کرے بہر حال اسے قیامت کے دن حاضر ہونا ہے اور دنیا میں جو اعمال کیے تھے وہ سامنے آ جائیں گے اور اعمال کے مطابق جزا سزا ملے گی۔ پھر اہل ایمان اور اعمال صالحہ والے بندوں کو خوشخبری دی اور فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ (اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ہم ضرور ضرور انہیں صالحین میں داخل کریں گے) یعنی ان کا شمار صالحین میں ہوگا اور انہیں صالحین کے مراتب اور درجات سے سرفراز کیا جائے گا۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ

اور بعض لوگ وہ ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے پھر جب انہیں اللہ کے بارے میں تکلیف دی جاتی ہے تو لوگوں کے ایذا رسانی کو اللہ کے عذاب کی طرح

اللَّهُ وَلَكِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوْ كَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا

بتا لیتے ہیں اور اگر ان کے پاس آپ کے رب کی طرف سے مدد آ جائے تو ضرور ضرور یوں کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ تھے کیا اللہ جہاں والوں کے سینوں کی باتوں کو

فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ۖ وَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَيْعَلَمَنَّ الْمُفْطِقِينَ ۝

خوب اچھی طرح جاننے والا انہیں ہے؟ اور البتہ اللہ ایمان والوں کو ضرور جان لے گا اور وہ ضرور ضرور منافقوں کو جان لے گا

## مدعیان ایمان کا امتحان لیا جاتا ہے

**تفسیر:** صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ بعض مسلمان تھے وہ زبان سے تو اسلام کا اظہار کر دیتے تھے پھر جب کافروں کی طرف سے تکلیف پہنچ جاتی تھی تو انکے موافق ہو جاتے تھے اور اس موافقت کو مسلمانوں سے چھپاتے تھے۔ اور قنادہ سے یہ نقل کیا ہے کہ بعض لوگ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تھے پھر مشرکین مکہ انہیں واپس لے گئے۔ دنیا داری حقیقت میں کمزوری کا سبب ہے اگر آخرت کا یقین پختہ ہو اور آخرت کی ضرورت سمجھ کر ایمان قبول کیا ہو تو منافقت کی شان ختم ہو جاتی ہے اگر کافروں میں پھنس کر کوئی مومن بندہ مجبور ہو جائے تو گو وہ بظاہر زبان سے کوئی نامناسب کلمہ کہہ دے لیکن دل سے کفر اختیار نہیں کر سکتا اور کافروں کا ہمنوا نہیں بن سکتا اگر کافروں سے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اس پر صبر

کرتا ہے جیسے عہد نبوی کے مسلمانوں (حضرت بلال حضرت عمار اور حضرت خباب رضی اللہ عنہم) نے تکلیفیں برداشت کیں پختہ مسلمان سمجھتا ہے کہ یہ تو تھوڑی سی تکلیف ہے کفر پر مرنے کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوگا وہ بہت ہی شدید ہوگا لیکن جن لوگوں کا ایمان یوں ہی نام کو ہوتا ہے وہ لوگ ایمان پر پہنچنے والی تکلیفوں کو اس عذاب کے برابر سمجھ لیتے ہیں جو آخرت میں کافروں کو ہوگا اور اس کی وجہ سے صریح کفر اختیار کر لیتے ہیں اور کافروں کا ساتھ دینے لگتے ہیں اور چونکہ دنیا ہی کے طالب ہوتے ہیں اس لئے خفیہ طور پر کفر اختیار کرنے کے باوجود مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو تمہیں جو فلاحی جگہ مال غنیمت حاصل ہوا ہمیں بھی اس میں شریک کرو ہم بھی تو تمہارے ساتھ تھے (یعنی ہم دینی اعتبار سے تمہارے ساتھی ہیں) ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا اُولَئِکَ الَّذِیْنَ یَاۡتُکُم بِمَا فِیْ صُدُوۡرِ الْعِلْمِیۡنَ (کیا اللہ جہاں والوں کے سینوں کی باتوں کو خوب اچھی طرح جاننے والا نہیں ہے) یعنی اللہ تعالیٰ کو سب علم ہے کہ کس کے دل میں کیا ہے کون مخلص ہے کون منافق ہے اگر کسی نے بندوں سے اپنے نفاق کو چھپا لیا تو اللہ تعالیٰ سے تو نہیں چھپا سکتا۔

وَلَیَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَلَیَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الْفٰقِیۡنَ (اور البتہ اللہ ایمان والوں کو ضرور جان لے گا اور وہ ضرور ضرور منافقوں کو جان لے گا) اسے ہمیشہ سے سب کچھ معلوم ہے اور آئندہ بھی جس کا جو عقیدہ اور عمل ہوگا وہ اسے جان لے گا۔ اہل ایمان کو ایمان کی جزا اور اہل نفاق کو نفاق کی سزا دے گا۔

وَقَالَ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا لِلَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا تَتَّبِعُوۡا سَبِیۡلَنَا وَلَنَحْمِلُ خَطِیۡکُمْ وَمَا هُمْ

اور کافروں نے ایمان والوں سے کہا کہ تم ہمارے راستہ کا اتباع کرو اور تمہارے گناہوں کو ہم اٹھالیں گے حالانکہ وہ ان کے گناہوں

بِحَامِلِیۡنَ مِنْ خَطِیۡہُمْ مِنْ شَیْءٍ اِنَّہُمْ لَکٰذِبُوۡنَ ۝۱۰ وَلَیَحْمِلُنَّ اَثْقَالُہُمْ وَاَثْقَالًا

میں سے کچھ بھی اٹھانے والے نہیں ہیں بلاشبہ وہ جھوٹے ہیں۔ اور وہ لوگ ضرور ضرور اپنے بوجھوں کو اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے

مَعَ اَثْقَالِہُمْ ۚ وَلَیَسْئَلُنَّ یَوْمَ الْقِیَمَۃِ عَمَّا کَانُوۡا یَفْتَرُوۡنَ ۝۱۱

ساتھ دوسروں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور قیامت کے دن ضرور ضرور ان باتوں کا سوال کیا جائے گا جو انہیں جھوٹ بناتے ہیں

## قیامت کے دن کوئی کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا

**تفسیر:** دشمنان اسلام خود تو کفر پر جھمپے ہوئے تھے ہی اہل ایمان کو بھی کفر پر لانے کی کوشش کرتے رہتے تھے اور انہیں ترغیب دیتے رہتے تھے کہ تم ہمارے دین میں آ جاؤ ان کی ان باتوں میں سے یہاں پر ایک بات نقل فرمائی ہے اور وہ یہ کہ کافروں نے اہل ایمان سے کہا کہ تمہیں جو رسول اللہ ﷺ کی باتوں پر یقین آ گیا ہے اور تم اس بات سے ڈرتے ہو کہ اگر تم محمد ﷺ کے دین سے پھر جاؤ گے تو تم قیامت کے دن عذاب میں گرفتار ہو گے اس کے بارے میں ہماری پیشکش سن لو! تمہیں اس عذاب سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے فرض کرو اگر قیامت کا دن واقعی کوئی چیز ہے اور اس دن محمد ﷺ کا اتباع نہ کرنے سے تمہارا مواخذہ ہوا اور تم دوزخ میں جانے لگے تو ہم تمہاری سب خطاؤں کو اپنے اوپر لا د



لیس گے اور تمہارے بارے میں جو عذاب کا فیصلہ ہوگا اس عذاب کو ہم بھگت لیں گے بس تم ہمارے دین کا اتباع کرو اور ہمارے ساتھ رہو۔ چونکہ ان لوگوں کو قیامت کے واقع ہونے اور وہاں کی جزا سزا پر یقین نہیں تھا اس لیے ایسی بات کہہ دی اگر قیامت کو مانتے اور قیامت کے دن کے عذاب کا اور دوزخ کا یقین رکھتے تو ایسی بات نہ کہتے۔ دنیا میں کوئی شخص ایک منٹ کے لیے بھی دنیا والی آگ ہاتھ میں رکھنے کے لیے تیار نہیں بھلا وہاں آگ کی تکلیف کیسے برداشت کر سکتا ہے جس کی حرارت دنیاوی آگ کی حرارت سے بہتر درجہ زیادہ ہے جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہوا ہے۔

جب قیامت کا دن ہوگا کوئی کسی کو نہ پوچھے گا نہ کوئی کسی کا عذاب اپنے سر لینے کو تیار ہوگا اسی کو سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ (اور کوئی گنہگار نفس کسی دوسرے گنہگار نفس کا بوجھ نہ اٹھائے گا) اور یہاں سورہ عنکبوت میں فرمایا ہے: وَمَا لَهُمْ حَمِيلِينَ مِّنْ خَطِيئَتِهِمْ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ (اور وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی اٹھانے والے نہیں ہیں بلاشبہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں)

اور پھر یہ بھی تو سمجھنا چاہئے کہ کفر اختیار کرنے میں اور دوسرے گناہوں پر چلنے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے اور سزا دینے کا اختیار اللہ تعالیٰ ہی کو ہے جو کفر کرے گا اور گنہگاری کی زندگی گزارے گا وہ اپنی نافرمانی کی وجہ سے عذاب کا مستحق ہوگا، مستحق عذاب کو چھوڑ کر اس کی جگہ کسی اور کو عذاب دینا یہ اللہ تعالیٰ کے قانون میں نہیں ہے۔

بالفرض اگر کوئی شخص کسی کا عذاب اپنے سر لینے کے لئے تیار ہو بھی جائے تو اس کے لیے اس کی رضامندی بھی تو ضروری ہے جس کی نافرمانی کی ہے اپنی طرف سے بات بنا دینے سے گناہ کرنے والے کی جان نہیں چھوٹ سکتی۔ کفار کا یہ کہنا کہ ہم عذاب بھگت لیں گے اس میں دو جھوٹ ہیں اول عذاب بھگتنے کا وعدہ! حالانکہ قیامت کے دن کوئی کسی کو نہ پوچھے گا رشتہ دار دوست احباب سب ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے باپ بیٹے کی طرف سے اور بیٹا باپ کی طرف سے کوئی بدلہ نہ دے سکے گا نہ بدلہ دینے کے لیے تیار ہوگا۔

اور ان کے دعوے میں دوسرا جھوٹ یہ ہے کہ ہم نے جو بات کہی ہے اللہ تعالیٰ اس کو منظور فرمالے گا اور تم عذاب سے بچ جاؤ گے۔ ان لوگوں کی تکذیب کے لیے فرمایا إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ (بلاشبہ وہ جھوٹے ہیں) اور یہ بھی فرمایا ہے وَلَيَسْئَلَنَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ (اور ضرور ضرور قیامت کے دن اس کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا جو جھوٹ وہ بتاتے ہیں)

یاد رہے کہ آیت کریمہ میں یہ بتلایا ہے کہ ایک شخص کے کفر اور معاصی پر دوسرے شخص کو عذاب نہ ہوگا ہر ایک شخص اپنے کفر اور عمل بد کی خود سزا بھگتے گا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ گمراہ کرنے والوں کو گمراہ کرنے کی سزا نہیں ملے گی، گمراہ کرنے والوں کو خود اپنے کفر کی بھی سزا ملے گی اور گمراہ کرنے کے لیے جو کوششیں کی ہیں اور کفر و شرک اور گمراہی پر لگایا اس کی بھی سزا ملے گی یہ اس وجہ سے کہ گمراہ کرنا اور کفر و شرک پر ڈالنا کہ ان کا اپنا عمل ہے۔ اسی کو سورہ نحل میں فرمایا يُحْمِلُونَ آثَرَهُمْ كَالِیَوْمِ الْقِيَمَةِ وَمِنَ آثَرِهِمُ الَّذِيْنَ يُضِلُّوْنَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِلَّا سَاءَ مَا يَزِفُونَ (تاکہ وہ اپنے گناہوں کے بوجھ پورے پورے اٹھالیں اور ان لوگوں کے بوجھ بھی اٹھالیں جنہیں وہ علم کے بغیر گمراہ کرتے ہیں) خبردار برا بوجھ ہے جو وہ اٹھا رہے ہیں)

اور یہاں سورہ عنکبوت میں فرمایا وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَهُ أَثْقَالًا (اور وہ اپنے بوجھوں کے ساتھ

دوسروں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے) یعنی جن کے گمراہ کرنے کا سبب بنے ان کی گمراہی کا بھی عذاب بھگتیں گے اور ان کے گمراہ کرنے سے گمراہی اختیار کرنے والے سکدوش نہ ہونگے انہیں گمراہی اختیار کرنے پر مستقل عذاب ہوگا۔

اس تفسیر سے حدیث نبوی کا مفہوم بھی واضح ہو گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ہدایت کی دعوت دی اسے ان سب لوگوں کے اعمال کا بھی ثواب ملے گا جنہوں نے اس کا اتباع کیا اور ان اتباع کرنے والوں کے ثواب میں سے کچھ بھی کمی نہ ہوگی اور جس کسی شخص نے گمراہی کی دعوت دی تو اس پر ان سب لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی ہوگا جنہوں نے اس کا اتباع کیا اور ان لوگوں کے گناہوں میں سے کچھ بھی کمی نہ ہوگی۔ (رواہ مسلم)

بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ اپنے ساتھ کے اٹھنے بیٹھنے والوں کو گناہ کی زندگی گزارنے کی ترغیب دیتے ہیں اور اپنے ماحول کی وجہ سے مجبور کرتے ہیں کہ تو ہماری طرح گنہگار ہو جا، اگر کوئی شخص یوں کہتا ہے کہ گناہ پر گرفت ہوگی اور آخرت میں عذاب ہوگا تمہارے کہنے پر گناہ کیوں کروں؟ تو اس پر کہہ دیتے ہیں کہ اس کا جو گناہ ہے وہ ہمارے اوپر رہا اس کی سزا ہم بھگت لیں گے۔

درحقیقت اس میں وہی کافرانہ عقیدہ پوشیدہ ہے کہ قیامت کے دن عذاب نہیں ہوگا، اگر عذاب کا یقین ہوتا تو ایسی باتیں نہ کرتے، کسی کے یوں کہہ دینے سے کہ میں تیری طرف سے عذاب بھگت لوں گا عذاب سے چھٹکارا نہ ہوگا البتہ یہ بات کہنے والا اپنی اس بات کی سزا پائے گا کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ترغیب دی اور اپنی طرف سے یہ قانون بنالیا کہ ایک شخص دوسرے شخص کی طرف سے عذاب بھگت لے گا اللہ کے دین میں داخل کیا۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ

اور بلاشبہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا سو وہ ان میں پچاس کم ہزار سال رہے سو ان لوگوں کو طوفان نے پکڑ لیا اس حال میں کہ

وَهُمْ ظَالِمُونَ ۝ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَبَ السَّفِينَةَ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ۝

وہ ظالم کرنے والے تھے۔ پھر ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو نجات دے دی ہے اور اس واقعہ کو ہم نے تمام جہان والوں کیلئے عبرت بنادیا

**حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ اور ان کی قوم کی بغاوت و ہلاکت کا تذکرہ**

**تفسیر:** ان دونوں آیتوں میں حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت اور بعثت اور مدت اقامت اور قوم کی عداوت و بغاوت اور ہلاکت کا واقعہ اجمالی طور پر بیان فرمایا ہے، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں ساڑھے نو سو سال رہے ان لوگوں کو تو حید کی دعوت دی اور تبلیغ کی اور بت پرستی چھوڑنے کی تبلیغ فرمائی مگر ان لوگوں نے بہت بڑی سرکشی کی اور حضرت نوح علیہ السلام کو اٹے لائے جواب دیتے رہے اور کفر و شرک پر سچے رہے حد یہ ہے کہ انہوں نے یوں کہہ دیا کہ تم جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو وہ لے آؤ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا، جب کشتی بنائی تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اپنے با ایمان گھر والوں کو اور دوسرے اہل ایمان کو کشتی میں اپنے ساتھ سوار کر لیں، جب یہ حضرات

کشتی میں سوار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیج دیا زمین نے پانی اگلا اور آسمان نے بھی پانی برسایا کافر قوم میں سے کوئی بھی نہ بچا سب غرق ہو گئے سورۃ اعراف میں فرمایا: فَكَذَّبُوهُ فَاَتَجَنَّبُهَا وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلِ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۖ اَلَهُمْ كَانُوا اَقْصٰى عَمِلٰیۙنَ (سوان لوگوں نے نوح کو جھٹلایا سو ہم نے انہیں اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے نجات دے دی اور ہم نے ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا بلاشبہ وہ لوگ اندھے تھے۔)

حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی بغاوت اور غرقابی کا مفصل قصہ سورۃ اعراف (ع ۸) اور سورۃ ہود (ع ۴) کی تفسیر میں لکھا جا چکا ہے اور سورۃ شعراء (ع ۵) میں بھی گزر چکا ہے اور سورۃ نوح میں بھی آئے گا۔ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ الْعَزِیْز۔

وَاِبْرٰهٖمَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖۤ اَعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝۵
اور ہم نے ابراہیم کو بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔
اِنَّمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا وَتَخْلُقُوْنَ اِفْكَارًا ۚ اِنَّ الَّذِیْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا یَسْلُبُوْنَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوْا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوْهُ وَاشْكُرُوْا لَہٗ اِلَیْہٖ تُرْجَعُوْنَ ۝۶
اللہ کو چھوڑ کر تم بتوں ہی کی عبادت کرتے ہو اور جھوٹی باتیں تراشتے ہو یہ تمہارے لئے رزق کے مالک نہیں ہیں سو تم اللہ کے پاس رزق تلاش کرو اور اس کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ تم اسی کی طرف لوٹائے
تُرْجَعُوْنَ ۝۶ وَاِنْ تَکْذِبُوْا فَقَدْ کَذَّبَ اُمَمٌ مِّنْ قَبْلِکُمْ وَمَا عَلٰی الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبُلٰغُ الْمُبِیْنُ ۝۷
جاؤ گے۔ اور اگر تم جھٹلاؤ گے تو تم سے پہلی امتیں جھٹلا چکی ہیں اور رسول کے ذمہ واضح طور پر پیغام پہنچانے کے علاوہ اور کچھ نہیں

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کو توحید کی دعوت دینا اور اللہ تعالیٰ سے رزق طلب کرنے اور اس کا شکر ادا کرنے کی تلقین فرمانا

**تفسیر:** ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعثت اور رسالت کا اور قوم کو توحید کی دعوت دینے اور شرک سے بیزار ہونے کا اجمالاً تذکرہ فرمایا ہے ان کا واقعہ جگہ جگہ قرآن مجید میں مذکور ہے سورۃ آل عمران میں ان کا نرو د سے مناظرہ کرنا اور سورۃ انعام میں اپنی قوم کو اور اپنے باپ کو بت پرستی اور ستارہ پرستی سے روکنا اور انہیں یہ بتانا کہ یہ سب گمراہی کا کام ہے اور سورۃ انبیاء میں اور سورۃ شعراء میں اپنی قوم کو سمجھانے اور بت پرستی کا ضرر اور نقصان اور خسران سمجھانے کا تذکرہ گزر چکا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے ہو اور جھوٹی باتیں تراشتے ہو تمہارا یہ کہنا جھوٹ ہے کہ یہ اللہ کے شریک ہیں اور تمہارا یہ خیال کرنا کہ یہ ہمارے کام آئیں گے یہ سب جھوٹ ہے اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہیں رزق دینے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے تم ان کی عبادت

چھوڑ دو اللہ سے رزق طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو اور یہ بھی سمجھ لو کہ تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے اس کی عبادت کرو گے اور اس کا شکر ادا کرو گے تو موت کے بعد اچھی حالت میں رہو گے اور اگر تم کفر اور شرک پر جسے رہے تو مرنے کے بعد اس کی سزا بھگتو گے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ اگر تم مجھے جھٹلاؤ گے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ تم سے پہلے بھی بہت سی امتیں اپنے اپنے رسولوں کو جھٹلا چکی ہیں وہ اپنے کردار کی وجہ سے ہلاک ہو گئیں رسول کا کام بس اتنا ہی ہے کہ واضح طور پر حق کو بیان کر دے ایسا کرنے سے اس کی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے تم سے پہلے جو لوگ رسولوں کی رسالت کے منکر ہوئے انہوں نے اپنا ہی برا کیا اور اپنی جانوں کو عذاب میں جھونکنے کا راستہ اختیار کیا تم بھی سمجھ لو کہ اگر تم نے میری دعوت قبول نہیں کی شرک سے توبہ نہ کی تو حید پر نہ آئے تو تمہارا اپنا ہی برا ہوگا۔

اَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيرٌ ۝۱۰ قُلْ يَسِّرُوْا

کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کس طرح مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا فرمایا ہے پھر وہ اسے دوسری بار پیدا فرمائے گا بلاشبہ اللہ پر آسان ہے آپ فرمادیجئے

فِي الْاَرْضِ فَانظُرُوْا كَيْفَ بَدَا الْخَلْقَ ثُمَّ اللّٰهُ يُنْشِئُ النَّشْاَةَ الْاٰخِرَةَ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ

شے قدير ۝۱۱ یَعَذِّبُ مَنْ يُّشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يُّشَاءُ وَاِلَيْهِ تُقْلَبُوْنَ ۝۱۲ وَمَا اَنْتُمْ

چیز پر قادر ہے وہ جس کو چاہے گا عذاب دے گا اور جس پر چاہے گا رحم فرمائے گا اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور تم

مُعْجِزِيْنَ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ دَلٰلٍ وَلَا

نَصِيْرٍ ۝۱۳ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَلِيْتُ اللّٰهَ وَلِقَايَہٗ اُولٰٓئِكَ يَسُوْا مِّنْ رَّحْمَتِيْ وَاُولٰٓئِكَ

مددگار نہیں اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا اور اس کی ملاقات کا انکار کیا یہ لوگ میری رحمت سے ناامید ہو گئے اور ان کیلئے

لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝۱۴

دردناک عذاب ہے

## اثبات قیامت پر دلیل آفاقی اور منکرین قیامت کے لئے زجر

**تفسیر:** ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو باقی ہے جو ان کی قوم کے درمیان تھی درمیان میں قریش مکہ کو خطاب فرمایا جو قرآن کے مخاطبین اولین تھے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ قیامت کے دن زندہ ہونے کے منکر ہیں کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کے سامنے انسان اور حیوان اور دوسری چیزوں کی ابتدائی پیدائش ہوتی رہتی ہے چیزیں پیدا ہوتی ہیں اور فنا

ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کو پیدا فرمادیتا ہے ایسا پیدا فرمانا اور دوبارہ پیدا فرمانا کہ اسکے لیے آسان ہے دیکھو زمین ہری بھری ہوتی ہے کھیتیاں پیدا ہوتی ہیں پھر فنا ہو جاتی ہیں زمین مردہ ہو جاتی ہے یعنی خشک ہو جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ زمین سے بار بار ہری بھری کھیتیاں نکال دیتا ہے یہ سب نظروں کے سامنے ہے پھر انسان کی دوبارہ تخلیق میں کیوں شک ہے؟

قال صاحب الروح: قوله تعالى (ثم يعيد) عطف على (اولم يروا) لا على يبدئ وجوز العطف عليه بتاويل الا عادة بانشاء تعالى كل سنة مثل ما انشاء سبحانه في السنة السابقة من النبات والثمار وغيرهما فان ذلك مما يستدل به على صحة البعث ووقوعه على ما قيل من غير ريب. (تفسير روح المعاني کے مصنف فرماتے ہیں ثُمَّ يُعِيدُكَ عَطْفٌ أَوْلَمْ يَرَوْا پر ہے نہ کہ یَبْدِئُ پر اور بعض حضرات نے یَبْدِئُ پر عطف کا احتمال نکالا ہے تو اس تاویل کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہر آنے والے موسم میں پچھلے موسم کی طرح کھیتوں اور پھلوں وغیرہ کو نئے سرے سے اُگاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ایسا ہے کہ اس سے انسانوں کے مرنے کے بعد جی اٹھنے پر اور وقوعِ حشر پر بلا شک استدلال کیا جاسکتا ہے)

پھر فرمایا تم زمین میں چلو پھر اور دیکھو کہ اللہ نے ابتداء مخلوق کی تخلیق فرمائی اس کے بعد جب دوبارہ پیدا کرنے کا ارادہ فرمائے گا تو پھر پیدا فرمادے گا۔

لَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (بلاشبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے) يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ (وہ جس کو چاہے عذاب دے) وَيَرْحِمُ مَن يَشَاءُ (اور جس پر چاہے رحم فرمائے) وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ (اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے) دنیا میں مشیت اور ارادہ کے مطابق سب کچھ ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اسی کے فیصلوں کے مطابق سب کچھ ہوگا آسمان اور زمین میں کوئی عاجز کرنے والا نہیں اگر کوئی یہ چاہے کہ کہیں چھپ جائے یا بھاگ جائے اور اللہ کے قضا اور قدر والے فیصلے سے بچ جائے یا اس کے عذاب سے چھوٹ جائے ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی کو یہاں فرمایا ہے: وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ (اور تم عاجز کرنے والے نہیں زمین میں نہ آسمان میں) وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِن دُونٍ وَلَا مُصِیْرٍ (اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی کارساز اور مددگار نہیں ہے) وہ جس پر چاہے رحم کرے اور جس کی چاہے مدد کرے۔ جب اس کا کسی کو عذاب دینے کا فیصلہ ہو جائے تو کوئی بھی اس کی کسی قسم کی مدد نہیں کر سکتا، وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَلِيتُ اللَّهُ وَلِقَائِهِ (الایہ) (اور جو لوگ اللہ کی آیات اور ملاقات کے منکر ہوئے وہ میری رحمت سے ناامید ہوں گے اور ان کے لیے درد ناک عذاب ہوگا) اس وقت سمجھ لیں گے کہ ہم اپنے کفر کی وجہ سے اس لائق نہیں ہیں کہ ہم پر رحم کیا جائے اور اللہ کی رحمت سے ناامید ہوں گے۔

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ

سوان کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اس کو قتل کر ڈالو یا جلا ڈالو سو اللہ نے اُن کو آگ سے نجات دے دی بلاشبہ

فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ

اس میں اُن لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اور ابراہیم نے کہا کہ تم نے جو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو معبود بنالیا ہے

بَيْنَكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمُ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمُ

یہ تمہاری آپس کی دوستی کی وجہ سے ہے جو دنیا والی زندگی میں ہے پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کے مخالف ہو گے اور تم میں سے بعض

بَعْضًا وَمَاؤُكُمْ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَّاصِرِينَ ﴿۱۵﴾ فَاَمَنْ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ اِنِّیْ

بعض پر لعنت کریں گے اور تمہارا ٹھکانا دوزخ ہو گا اور تمہاری مدد کرنے والے بالکل نہ ہو گئے سولوٹ نے ابراہیم کی تصدیق کی اور ابراہیم نے کہا کہ بلاشبہ

مُهَاجِرٌ اِلٰی رَبِّیْ اِنَّهٗ هُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ﴿۱۶﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ اِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا

میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں بلاشبہ وہ عزیز ہے حکیم ہے۔ اور ہم نے ابراہیم کو اسحق اور یعقوب عطا فرمائے اور ہم نے

فِی ذُرِّیَّتِهٖ السُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ وَاتَّيْنَاهُ اَجْرَهٗ فِی الدُّنْيَا وَارٰتَهٗ فِی الْاٰخِرَةِ

ان کی ذریت (اولاد) میں نبوت اور کتاب کو قائم رکھا اور ہم نے ان کو دنیا میں اس کا اجر دیا اور بلاشبہ وہ آخرت

لِّمَنِ الصّٰلِحِیْنَ ﴿۱۷﴾

میں صالحین میں سے ہوں گے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا جواب کہ ان کو قتل کر دیا آگ میں جلا دو

**تفسیر:** اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اور تبلیغ کا ذکر تھا درمیان میں کچھ تنبیہات آگئیں جو قرآن کریم کے مخاطبین سے متعلق ہیں یہاں سے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے مخالفین کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور بت پرستی چھوڑنے کی تلقین کی تو ان کی قوم نے یہی کہا کہ ان کو مار ڈالو یا آگ میں جلا دو چنانچہ قوم نے انہیں آگ میں ڈال دیا اور اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈی ہو جانے کا حکم دے دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات دے دی وہ آگ سے صحیح سالم نکل آئے اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ یُّؤْمِنُوْنَ (بلاشبہ اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قوم کو سمجھانا کہ تم دنیاوی دوستی کی وجہ سے بت پرستی میں لگے ہو اور قیامت کے دن ایک دوسرے پر لعنت کرو گے

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنی قوم سے دعوت توحید کے سلسلہ میں باتیں کیں ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ تم لوگوں نے جو بتوں کو معبود بنا رکھا ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ تم لوگوں کی دیکھا دیکھی اس کام میں لگ گئے ہو تم نے غور و فکر تو کیا ہی نہیں جس سے تم پر حق واضح ہو جاتا کہ بتوں کا پوجنا بہت بڑی حماقت ہے تم نے تو یہ دیکھ لیا کہ ساری قوم ان کی پرستش کرتی ہے اور باپ دادے ان کی پوجا کرتے چلے آئے ہیں تمہاری دنیا والی دوستیاں ایک دوسرے جو کفر و شرک پر لگائے

ہوئے ہیں، تم یہ سمجھتے ہو کہ توحید کو مانیں اور بتوں کو چھوڑیں تو قوم سے علیحدہ ہو جائیں گے، قوم ہم سے ناراض ہو جائے گی۔ صاحب روح المعانی (جلد ۲۰ ص ۱۵۰) مَوَدَّةٌ بَيْنَكُمْ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: المعنی ان مودة بعضکم بعضا ہی التی دعوتکم الی اتخاذها بان رایتہم بعض من تودونہ اتخذہا فاتخذتموها موافقة له لمودتکم ایاء، وهذا كما يرى الانسان من يوده يفعل شيئاً فيفعله مودة له۔ (اس آیت کا معنی یہ ہے کہ تمہاری ایک دوسرے سے محبت ہی ہے جس نے تمہیں بچھڑے کو معبود بنانے کی دعوت دی۔ اس طرح کہ تم نے اپنی محبت والے بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ بچھڑے کو پوج رہے ہیں تو تم نے بھی محبت کی وجہ سے ان کی موافقت میں بچھڑے کو معبود بنالیا۔ اور یہ ایسے ہے جیسے انسان اپنے کسی گہرے تعلق والے کو کوئی کام کرتے دیکھتا ہے تو وہ بھی اس کی محبت کی وجہ سے اسی کام کو کرنے لگتا ہے)

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ دنیا میں تو تم دوست بنے ہوئے ہو، اور تمہاری یہ دوستی آپس میں ایک دوسرے سے بت پرستی کرانے کا سبب بنی ہوئی ہے لیکن قیامت کے دن تمہاری یہ دوستی دشمنی سے بدل جائے گی وہاں ایک دوسرے کے مخالف ہو جاؤ گے اور تم میں سے بعض بعض پر لعنت کریں گے کیونکہ تم نے ایک دوسرے کو راہ حق سے روکا تھا، لیکن طعن آپس میں ہوگا اور سب ہی کو دوزخ میں جانا ہوگا اور وہاں تم میں سے کوئی کسی کا مددگار نہ ہوگا، یہاں شرک کرانے میں ایک دوسرے کے مددگار بنے ہوئے ہو لیکن وہاں کوئی کسی کی مدد نہ کرے گا۔

سورۃ اعراف میں فرمایا: كَلِمَاتٍ خَلَّتْ اِنَّهُ لَعَنَ اَخْتَهَا (جب کوئی جماعت دوزخ میں داخل ہوگی اپنی ساتھ والی جماعت پر لعنت کرے گی جو ان سے پہلے دوزخ میں داخل ہو چکی ہوگی) سورۃ ص میں فرمایا: قَالُوا بَلْ لَّعَنَهُمُ اللَّهُ لَمَّا رَجَعُوا اِلَيْكُمْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّشْرِكُونَ (یعنی دنیا میں جو لوگ اتباع تھے وہ اپنے متبوعین یعنی لیڈروں اور سرداروں سے کہیں گے تمہارے لیے کوئی مبارکبادی نہیں تم نے کفر کو ہماری طرف بڑھایا اب یہ برا ٹھکانہ ہے جس میں ہمیں بھی ٹھہرنا ہے اور تمہیں بھی) جو حال اہل کفر کا ہے وہی اہل معاصی کا ہے، ایک دوسرے کو دنیا میں گناہوں پر ابھارتے ہیں، اپنے ساتھ لگاتے ہیں، اپنے پاس سے پیسے دے کر گناہ کراتے ہیں اور آخرت میں کوئی کسی کا یا رو مددگار نہ ہوگا۔

حضرت لوط علیہ السلام کا دعوت ابراہیمی کو قبول کرنا [اس کے بعد فرمایا: فَاٰمَنَ لَهُ لُوطٌ عَلَيْهِ السَّلَام اور دونوں حضرات کا فلسطین کیلئے ہجرت کرنا] ابراہیم کی نبوت پر ایمان لے آئے (جو حضرت ابراہیم کے بھائی ہارون کے بیٹے تھے) جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم پر ہر طرح سے حجت پوری کر دی تو فرمایا اب میں اس وطن کو چھوڑتا ہوں اور اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں یعنی میرے رب نے جو ہجرت کی جگہ بتائی ہے وہاں جاتا ہوں بلاشبہ میرا رب عزیز ہے حکیم ہے۔

بعض مفسرین نے یہ احتمال ظاہر کیا ہے کہ وَقَالَ اِنِّیْ مُہَاجِرٌ کا فاعل حضرت لوط علیہ السلام ہیں لیکن پہلی بات راجح ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول ہے جیسا کہ سورۃ صافات میں مذکور ہے: وَقَالَ اِنِّیْ ذٰہِبٌ اِلٰی رَبِّیْ سَیِّئٌ مِّنْ عَمَلٍ (اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں وہ عنقریب مجھے راہ بتا دے گا)

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وطن سے (جو عراق اور فارس کے درمیان تھا) ہجرت فرمائی اور حضرت لوط



علیہ السلام اور حضرت سارہ سلام اللہ علیہا کو ساتھ لے کر (جو آپ کے چچا کی بیٹی تھیں اور آپ کی بیوی تھیں) ہجرت فرما کر فلسطین میں آ کر مقیم ہو گئے۔

بیٹے اور پوتے کی بشارت اور موہبت: اس وقت آپ کی عمر بعض مفسرین کے قول کے مطابق ۷۵ سال تھی اور آپ کی اہلیہ محترمہ بھی بوڑھی تھیں، شام میں پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی: رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الطَّيِّبِينَ (اے میرے رب مجھے صالحین میں ایک لڑکا عطا فرمائے) اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور فرشتوں کے ذریعہ آپ کو لڑکا پیدا ہونے کی بشارت دی، یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کے لئے آئے تھے جیسا کہ سورہ ہود میں گذر چکا ہے۔

یہ بشارت حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیدائش سے متعلق تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام دوسری بیوی یعنی حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سلسلہ نبوت جاری فرمانا: حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہم السلام اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائے اور ہمیشہ کے لیے ان کی ذریت میں نبوت بھی رکھ دی اور کتابوں کا نازل فرمانا بھی انہیں کی ذریت میں رکھ دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں نبیوں پر ہی نازل ہوا کرتی تھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام تشریف لائے تھے سب انہیں کی نسل میں سے تھے، آخر الانبیاء والمرسلین سیدنا حضرت محمد حضرت اسماعیل ابن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔

ذکر خیر کی دعا اور قبولیت: اللہ تعالیٰ شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑا مرتبہ دیا، دنیا میں بھی ان کو جن لیا اور اپنا خلیل بنا لیا اور بعد میں آنے والی قوموں میں اچھائی کے ساتھ ان کا ذکر جاری فرمادیا، جتنے ادیان ہیں ان کے ماننے والے حضرت ابراہیم کو اچھائی کے ساتھ یاد کرتے ہیں ان میں یہود و نصاریٰ بھی ہیں اور دیگر مشرک اقوام بھی ہیں، مسلمانوں کے علاوہ دوسری قومیں گو سیدنا حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی نبوت کا انکار کرنے کی وجہ سے کافر ہیں لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سب ہی اچھے کلمات کہتے ہیں انہوں نے جو دعا کی تھی وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور ان کا ذکر حسن تمام ادیان میں جاری رکھا۔

وَإِنِّي أَنَا عَبْدُكَ فِي الدُّنْيَا (اور ہم نے ان کو ان کا صلہ دنیا میں دے دیا) ان کی ذریت میں انبیاء کرام علیہم السلام کا آنا متعین فرمادیا اور انہیں دار الکفر سے نجات دے کر فلسطین میں پہنچا دیا اور ان سے کعبہ شریف بنوایا اور ان کے ذریعے قربانی کا سلسلہ جاری فرمادیا، دنیا میں جو کچھ ملا وہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی وجہ سے آخرت کا اجر و ثواب اور رفیع درجات اور قرب الہی کا حصول اس کے علاوہ ہیں اسی کو سورہ بقرہ سورہ نحل اور سورہ عنکبوت میں فرمایا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَكَيْنِ الطَّيِّبِينَ (اور بلاشبہ وہ آخرت میں نیک بندوں میں سے ہوں گے)

وَلَوْ طَا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنكُمْ لَتَكُونُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ

اور ہم نے لوط کو بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ بلاشبہ تم بے حیائی کا کام کرتے ہو تم سے پہلے اس کام

أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿۸۳﴾ إِنَّمَا كُنْتُمْ لَكَائُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ ۚ وَتَأْتُونَ

کو دنیا جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔ کیا تم مردوں کے پاس آتے ہو اور رہنری

فِي نَادِيكُمُ الْمُنَكَّرُ ۚ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اسْتِنَابِعْزَابِ

کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں بُرا کام کرتے ہو سو ان کی قوم کا جواب یہی تھا کہ تو

اللَّهُ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿۸۴﴾ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ﴿۸۵﴾

اللہ کا عذاب لے آ اگر تو سچوں میں سے ہے۔ لوط نے عرض کیا کہ اے میرے رب بسا د کرنے والے لوگوں کے مقابلہ میں میری مدد فرما۔

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُونَ أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ

اور جب ہمارے فرشتے خوشخبری لے کر ابراہیم کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ بلاشبہ ہم اس بستی کو ہلاک کرنے والے ہیں

إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ ﴿۸۶﴾ قَالَ إِنْ فِيهَا لُوطًا فَقَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا ۚ

بلاشبہ اس بستی کے لوگ ظالم ہیں۔ ابراہیم نے کہا یہ بستی بات ہے کہ اس بستی میں لوط بھی ہے انہوں نے کہا کہ ہم خوب جانتے ہیں کہ اس بستی میں کون ہے

لَنَنْجِيكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتُكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿۸۷﴾ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا

اور ہم لوط کو اور اس کے گھر والوں کو ضرور نجات دے دیں گے سوائے اُس کی بیوی کے وہ رہ جائے والوں میں سے ہے۔ اور جب ہمارے فرستادے

لُوطًا سِوَىٰ بِيهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذُرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ ۚ إِنَّا مُنْجُونَكَ

لوط کے پاس آئے تو وہ ان کی وجہ سے رنجیدہ ہوئے اور تنگ دل ہوئے اور قاصدوں نے کہا کہ آپ ڈرئیے نہیں اور رنج نہ کیجئے بلاشبہ ہم آپ کو

وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿۸۸﴾ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ

اور آپ کے گھر والوں کو نجات دینے والے ہیں سوائے آپ کی بیوی کے وہ رہ جائے والوں میں سے ہے۔ بلاشبہ ہم اس بستی والوں پر آسمان سے عذاب اتارنے

رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿۸۹﴾ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿۹۰﴾

والے ہیں اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کے کام کرتے رہے ہیں۔ اور البتہ تحقیق ہم نے اس بستی کے بعض نشان چھوڑ دیئے ہیں جو ظاہر ہیں ان لوگوں کیلئے جو سمجھتے ہیں۔

حضرت لوط علیہ السلام کا اپنی قوم کو تبلیغ کرنا اور برے اعمال سے

روکنا پھر قوم کا نافرمانی کی وجہ سے ہلاک کئے جانے کا ذکر

**تفسیر:** جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وطن سے ہجرت کی تو ان کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام بھی تشریف لے آئے، حضرت لوط علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرما دیا اور انہوں نے سدوم نامی بستی میں

قیام کیا وہاں اور بھی چند بستیاں تھیں جو نہر اردن سے قریب تھیں، حضرت لوط علیہ السلام ان بستیوں کی طرف مبعوث ہوئے اور وہاں کے رہنے والوں کو توحید کی دعوت دی اور برے کاموں سے روکا، یہ لوگ ایک ایسے برے کام میں مبتلا تھے جو ان سے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا اور وہ یہ کہ مرد مردوں سے شہوت پوری کرتے تھے اور ہرنی بھی کرتے تھے اور اپنی مجلسوں میں بعض دیگر منکرات کے بھی مرتکب ہوتے تھے، حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ تم ان سارے فواحش و منکرات کو چھوڑ دو لیکن وہ نہیں مانے بلکہ الٹا یہ جواب دیا کہ اگر تم سچے ہو تو اللہ کا عذاب لے آؤ۔

یہ جو فرمایا وَلَقَطَعْنَاهُ السَّبِيلَ اس کا ایک مطلب تو یہی ہے کہ راہزنی کرتے ہو یعنی جو لوگ تمہارے علاقہ سے گذرتے ہیں کہیں تم ان پر ڈاکہ ڈالتے ہو اور اس کا ایک معنی بعض مفسرین نے یہ لیا ہے کہ تم مردوں سے شہوت پوری کر کے تو والد و تاسل کا راستہ روک رہے ہو کیونکہ اولاد و عورتوں سے پیدا ہوتی ہے مردوں سے پیدا نہیں ہوتی، اور تیسرا مطلب یہ بتایا کہ جو لوگ تمہارے علاقہ سے گذرتے ہیں ان کے ساتھ برا کام کرتے ہو جس کی وجہ سے لوگوں نے تمہارے علاقے سے گذرنا چھوڑ دیا یہ بھی قَطَعَ السَّبِيلَ کا ایک طریقہ ہے۔

وَتَالَّذِينَ فِي نَافِئَتِكُمُ الْمُشْكِرُونَ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ”تم مجلس میں برا کام کرتے ہو“ اس کے بارے میں حضرت ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون سا منکر تھا جس کا آیت کریمہ میں ذکر ہے؟ فرمایا کہ وہ لوگ راگیروں کو دور سے کنکریاں مارتے تھے اور ان کی ہنسی اڑاتے تھے۔ بعض روایات میں یوں ہے کہ وہ اپنے پاس کنکریاں لے کر بیٹھتے تھے پھر گذرنے والوں کو مارتے تھے جس کی کنکری جس راگیر کو لگ گئی وہ اس کا ہو گیا اور وہ اس کے ساتھ لے جا کر برا کام کرتا تھا اور اس کو چند درہم دے دیتا تھا ان کے ہاں قاضی بھی تھا جو اس بات کا فیصلہ کر دیتا تھا۔ اور حضرت قاسم بن محمد سے مروی ہے کہ یہ لوگ اپنی مجلسوں میں ہوا چھوڑنے میں مقابلہ کیا کرتے تھے اور حضرت مجاہدؒ نے فرمایا کہ یہ لوگ پوری بے شرمی کے ساتھ اپنی مجلسوں میں مردوں کے ساتھ برا فعل کیا کرتے تھے (معالم التنزیل جلد ۳ ص ۳۶۶)

حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب فساد کی قوم کے مقابلہ میں میری مدد فرما (یعنی میں نے جو ان سے عذاب کا وعدہ کیا ہے میرے وعدہ کو سچا کر دے) اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کی قوم کو ہلاک کرنے کے لئے فرشتے بھیج دیئے، فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں بشارت دی کہ تمہارے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو صاحب علم ہوگا اور ساتھ ہی اس لڑکے کا ایک لڑکا پیدا ہونے کی خوشخبری دی اور پہلے ہی سے انہوں نے لڑکے کا نام اٹھایا اور پوتے کا نام یعقوب بتا دیا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے دریافت کیا کہ آپ حضرات کا کیسے تشریف لانا ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے کے لئے بھیجے گئے ہیں جس میں حضرت لوط علیہ السلام رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خیال آیا کہ بستی پر عام عذاب آئے گا اور اس میں لوط علیہ السلام بھی ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ اہلنا یہ سوال فرشتوں کے سامنے رکھ دیا۔ فرشتوں نے جواب میں کہا کہ ہمیں خوب معلوم ہے کہ اس بستی میں کون کون ہے، ہم لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دے دیں گے ہاں ان کی بیوی نجات نہ پائے گی کیونکہ اس نے ایمان قبول نہ کیا

اس لئے وہ ان لوگوں میں رہ جائے گی جو ہلاک ہونے والے ہیں یعنی ہلاکت والوں کے ساتھ وہ بھی ہلاک ہوگی۔

حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بات کا جواب دینے کے بعد حضرات ملائکہ علیہم السلام حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے یہ حضرات خوبصورت انسانوں کی صورت میں تھے انہیں دیکھ کر لوط علیہ السلام رنجیدہ ہوئے اور دل میں پریشانی کی کیفیت پیدا ہوگئی انہیں خیال ہوا کہ میری قوم کے لوگ بدکار ہیں اور یہ لوگ میرے مہمان ہیں خوبصورت ہیں بستی کے رہنے والے بدکار کہیں ان کی طرف متوجہ نہ ہو جائیں فرشتوں نے پریشانی کو محسوس کر لیا اور ان سے کہا کہ آپ نہ ڈریں اور غم نہ کریں ہم ان لوگوں کو ہلاک کرنے کے لئے بھیجے گئے ہیں آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو ہم نجات دے دیں گے البتہ آپ کی بیوی ہلاک کئے جانے والوں میں شامل رہے گی ان بستی والوں پر ہم عذاب اتارنے والے ہیں ان کے کرتوتوں کے سبب ان پر عذاب آئے گا اور ہلاک ہوں گے۔

فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے ایک حصہ میں اس بستی سے نکل جائیں اور آپ میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے ہاں اپنی بیوی کو ساتھ نہ لے جانا کیونکہ وہ بھی قوم کے ساتھ عذاب میں شریک ہوگی۔

حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کو اور دیگر اہل ایمان کو لے کر بستی سے نکل گئے جب صبح ہوئی تو ان کی قوم پر عذاب آ گیا یہ بستی جس میں حضرت لوط علیہ السلام رہتے تھے اور اس کے آس پاس کی بستیاں جن کے رہنے والے کافر تھے اور بدکار بھی ان سب بستیوں کا تختہ الٹ دیا گیا حضرت جبریل علیہ السلام نے اٹھا کر اس طرح پلٹ دیا کہ نیچے کا حصہ اوپر اور اوپر کا حصہ نیچے کر دیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش بھی ہوگئی اس طرح یہ سب لوگ ہلاک و برباد ہو گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام رات کے کسی وقت اپنے ساتھیوں کو لے کر بستی سے نکلے تھے اور سورج نکلنے کے وقت ان کی قوم پر مذکورہ بالا عذاب آ گیا۔

سورة اعراف سورة هود سورة حجر سورة الشعراء اور سورة النمل میں بھی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کا واقعہ گزر چکا ہے آخر میں فرمایا وَلَقَدْ نَزَّلْنَاهَا آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (اور ہم نے لوط علیہ السلام کی بستی کے بعض نشان چھوڑ دیئے ہیں جو ظاہر ہیں جنہیں دیکھ کر گزرنے والے عبرت حاصل کر سکتے ہیں جو فہم اور تدبر سے کام لیں) یعنی لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیوں کے نشانات اب تک موجود ہیں۔ چلو پھر دیکھو اور عبرت حاصل کرو۔ سورة صافات میں فرمایا وَارْتَبِعْ زَيْدُونَ عَلَيْهِمْ فَضِيلًا (اور بلاشبہ تم ان پر صبح کے وقت اور رات کے وقت گزرتے ہو کیا تم سمجھ نہیں رکھتے) اہل مکہ جب تجارت کے لئے ملک شام جایا کرتے تھے تو حضرت لوط علیہ السلام کی ہلاک شدہ بستیوں پر گزرتے تھے۔ اس جگہ سے کبھی صبح کو کبھی رات کو گزرنا ہوتا تھا۔ اُن (اہل مکہ) سے فرمایا تم انہیں دیکھ کر عبرت حاصل کیوں نہیں کرتے۔ ان بستیوں کی جگہ آج کل حجر میت موجود ہے افسوس ہے کہ سفر کرنے والے آج تفرقہ کے لئے دیکھتے ہیں اور ذرا بھی عبرت حاصل نہیں کرتے۔

وَالِیْ مَدَیْنٍ اَخَاهُمْ شَعِیْبًا فَقَالَ يَقُوْمُ عَبْدُ اللّٰهِ وَارْجُوا الْیَوْمَ الْاٰخِرَ وَلَا تَعْتَوْا

اور ہم نے مدین والوں کے پاس اُن کے بھائی شعیب کو بھیجا سو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور آخرت کے دن کو توقع رکھو

فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۖ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جُثَيَيْنَ ۝

اور زمین میں فساد مچا دیا۔ سو ان لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا لہذا انہیں زلزلہ نے پکڑ لیا اور وہ صبح کے وقت اپنے گھروں میں اوندھے منہ گرے ہوئے رہ گئے۔

وَعَادًا وَثُمُودَ ۚ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَّسْكِنِهِمْ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ

اور ہم نے عاد اور ثمود کو ہلاک کیا اور حال یہ ہے کہ تمہیں ان کے رہنے کی جگہوں سے ان کا حال معلوم ہو چکا ہے اور شیطان نے ان کے اعمال کو

فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ ۚ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ۝ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ ۚ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ

ان کے لئے اچھا کر کے دکھایا سو اس نے انہیں راستہ سے روک دیا اور وہ صاحب بصیرت تھے۔ اور ہم نے قارون اور فرعون اور ہامان کو ہلاک کیا۔ اور یہ واقعہ ہے کہ

مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ۖ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ ۝ فَكَلَّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِ

موسیٰ ان کے پاس کھلی ہوئی دلیل لے کر آئے سو انہوں نے اپنے کو بڑا سمجھا اور وہ آگے بڑھنے والے نہ تھے۔

فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ۚ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ ۚ وَمِنْهُمْ مَنْ

سو ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑ لیا۔ سو بعض پر ہم نے سخت ہوا بھیج دی اور بعض کو چیخ نے پکڑ لیا اور بعض کو

خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ

ہم نے زمین میں دھنسا دیا اور بعض کو غرق کر دیا اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان پر ظلم فرماتا اور لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر

يُظْلِمُونَ ۝

ظلم کرتے تھے۔

## اہل مدین اور فرعون، ہامان، قارون کی ہلاکت کا تذکرہ

**تفسیر:** ان آیات میں اجمالی طور پر بعض گزشتہ اقوام کی ہلاکت کا تذکرہ فرمایا ہے، پہلی اور دوسری آیت میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے جو علاقہ مدین میں رہتے تھے ان لوگوں کو حضرت شعیب علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا اور فرمایا کہ آخرت کا دن بھی واقع ہو گا وہاں کفر کی اور اعمال بد کی سزا ملے گی تم یہ نہ سمجھو کہ دنیا ہی سب کچھ ہے بلکہ موت کے بعد حساب کتاب ہے پیشی ہے اس کے واقع ہونے کا یقین رکھو اور اس یقین کے مطابق عمل کرو اور زندگی گزارو جو برے افعال کرتے ہو ان کو چھوڑ دینا لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے جیسا کہ سورہ ہود اور سورہ الشعراء میں مذکور ہے حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں تنبیہ فرمائی کہ زمین میں فساد مچا دیا ان لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بات نہ مانی لہذا ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور ایسا زلزلہ آیا کہ ان سب کو جھنجھوڑ کر اور تباہ کر کے رکھ دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل اوندھے منہ گرے ہوئے رہ گئے جیسا کہ سورہ ہود میں ذکر فرمایا ہے ان پر چیخ کا عذاب بھی آیا اور زلزلہ نے بھی

دبایا اور یہ دونوں چیزیں ہلاکت کا ذریعہ بن گئیں۔

تیسری آیت میں قوم عاد اور ثمود کی ہلاکت کا تذکرہ فرمایا اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ ان کی ہلاکت کے نشانات تمہاری نظروں کے سامنے ہیں جب تم سفر میں جاتے ہو تو ان کے برباد شدہ گھروں کے پاس سے گزرتے ہو یہ عبرت کی جگہ ہے غور کرو اور کفر سے توبہ کرو۔ وَرَبِّكَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَاهُمْ (اور شیطان نے ان کے اعمال بد اور کفر و معاصی کو ان کے سامنے مزین کر کے پیش کیا) یعنی انہیں سمجھایا تھا کہ تم اچھی زندگی گزار رہے ہو۔ فَصَدَّقْنَاهُمْ فِي سُبُلِهِمْ (سو انہیں راہ حق سے ہٹا دیا) وَكَاذِبُوا مُنْذَرِيْنَ (حالانکہ وہ لوگ صاحب بصیرت تھے سمجھدار تھے) لیکن شیطان کے کہنے میں آگئے عقل سے کام نہ لیا دنیاوی لذتوں کو سامنے رکھا اور اللہ تعالیٰ نے جو سمجھ دی تھی اسے استعمال نہ کیا اور شیطان کی ترغیبیں اور تحشیں کی وجہ سے مدہوش ہو گئے۔

چوتھی آیت میں قارون فرعون اور ہامان کی بربادی کا تذکرہ فرمایا سورہ عنکبوت سے پہلے سورہ قصص میں ان لوگوں کی ہلاکت اور بربادی کا ذکر گزر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث فرمایا وہ ان کے پاس کھلے ہوئے معجزات لے کر آئے لیکن ان لوگوں نے آپ کی بات نہ مانی اور کفر پر جبرے انکار پر مصر رہے اور انکار کا سبب ان کا استکبار تھا یعنی یہ کہ وہ اپنے کوزمین میں بڑا سمجھتے تھے اور ایمان قبول کرنے میں اپنی خفت محسوس کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتے تو یہ ہم سے اونچے ہو جائیں گے۔

سورہ المؤمنین میں ہے کہ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں نے یوں کہا کہ أَنُؤْمِنُ بِالْبَشَرَيْنِ مِثْلًا وَلَوْ أَنَّهُمَا لَنُتْلَٰعِدُونَ (کیا ہم ایسے دو شخصوں (موسیٰ و ہارون علیہ السلام) پر ایمان لائیں جو ہمارے ہی جیسے ہیں اور حال یہ ہے کہ ان کی قوم ہماری فرمانبرداری ہے) سورہ الزخرف میں ہے کہ فرعون نے کہا أَفَرَأَيْتُم مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مِثْلُ آبَائِكُمْ أَكُفِّرُونَ (بلکہ میں افضل ہوں اس شخص سے جو کہ کم قدر ہے اور قوت بیانیہ بھی نہیں رکھتا) بہر حال ان لوگوں کو ان کا کفر اور کبر لے ڈوبا فرعون اپنے لشکروں کے ساتھ ڈوب گیا۔ فَكَفَّيْهُمْ مِّنَ النَّارِ مَا غَشَّيَهُمْ۔ وَمَا كَانُوا بِأَفْقَيْنِ (اور یہ لوگ ہم سے آگے بڑھنے والے نہ تھے) یعنی ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ ہمارے عذاب سے بچ کر نکل جاتے اور کہیں فرار ہو کر اس کی جگہ پہنچ جاتے۔

پانچویں آیت میں مذکورہ بالا اقوام کی ہلاکت کی طرف اجمالی اشارہ فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذُنُبِهِ (سو ہم نے ان میں سے ہر ایک کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا) فَمِنْهُمْ مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْكَ حَاصِبًا (سو بعض پر ہم نے تیز ہوا بھیج دی) جو کہ آندھی کی صورت میں آئی اور اس نے انہیں ہلاک کر دیا۔ یہ قوم عاد کے ساتھ ہوا یہ ہوا ان پر سات رات اور آٹھ دن مسلط رہی جیسا کہ سورہ الحاقہ میں بیان فرمایا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَّنْ أَخَذْنَا مِنَ الصَّيْحَةِ (اور بعض کو چیخ نے پکڑ لیا) اس سے قوم ثمود مراد ہے (کمانی سورہ ہود علیہ السلام)۔ پھر فرمایا: وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا لَهُ الْأَرْضَ (اور ہم نے بعض کوزمین میں دھنسا دیا) اس میں قارون کی ہلاکت کی طرف اشارہ ہے جس کا ذکر سورہ قصص کے ختم کے قریب گزر چکا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَّنْ أَعْرَفْنَا (اور بعض کو ہم نے غرق کر دیا) اس میں فرعون اور اس کی قوم کی ہلاکت کا ذکر ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ (اور اللہ ایسا نہیں کہ ان پر ظلم فرماتا) یعنی اس نے کسی کو بغیر گناہ کے عذاب نہیں دیا۔ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (اور لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے) یعنی وہ حق قبول نہیں کرتے تھے کفر پر جبرے رہتے تھے گناہوں پر مصر رہتے تھے۔

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بُيْتًا وَإِنْ

جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کارساز بنا رکھے ہیں ان کی مٹری جیسی مثال ہے کہ اُس نے گھر بنایا اور بلاشبہ

أَوْ هَنَ الْبُيُوتِ لَبِيتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُدْعُونَ

سب گھروں میں کمزور تر گھر مٹری کا ہے اگر وہ جان لیتے تو ایسا نہ کرتے۔ بلاشبہ اللہ جانتا ہے جس کسی کو بھی

مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۚ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ

وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ زبردست ہے حکمت والا ہے اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لئے

وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ۚ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ

بیان کرتے ہیں ان کو بس علم والے ہی سمجھتے ہیں۔ اللہ نے پیدا فرمایا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ بلاشبہ اس میں

لَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ۚ

ایمان والوں کے لئے نشانیاں ہیں

مشرکین اپنے معبودوں سے جو امیدیں لگائے  
بیٹھے ہیں اُس کی مثال مٹری کے جالے کی طرح ہے

**تفسیر:** جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی عبادت ہمارے لئے فائدہ مند ہو گی اور یہ ہمارے مددگار ہوں گے۔ ان لوگوں کی جہالت اور گمراہی کی مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کے اعتقاد کی ایسی مثال ہے جیسے مٹری کا گھر ہو مٹری جالا بن کر اس میں بیٹھی رہتی ہے اور اس جال کے ذریعہ مکھی کو شکار کرتی ہے۔ جانوروں کے جتنے بھی چھوٹے بڑے گھر گھونسلا وغیرہ کی صورت میں ہوتے ہیں مٹری کا گھر ان میں سب سے زیادہ بودا اور کمزور ہوتا ہے یہی حال ان لوگوں کا ہے جو غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں اور ان پر اعتقاد کرتے ہیں اور اپنا مددگار سمجھتے ہیں۔ ان کا یہ اعتقاد و اعتماد اور بھروسہ کرنا مٹری کے جالے کی طرح کمزور ہے جو انہیں کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے اگر سمجھ رکھتے تو ایسی بیہودہ حرکت نہ کرتے اور معبود حقیقی کو چھوڑ کر مخلوق کی پرستش میں نہ لگتے۔

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ (یہ لوگ اللہ کے سوا جس جس کی بھی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ

کو ان سب کا علم ہے) یہ چیزیں نہایت ضعیف ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (اور وہ غلبہ والا حکمت والا ہے) وَتِلْكَ

الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ (اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لئے بیان کرتے ہیں) وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ (اور ان

مثالوں کو بس علم والے ہی سمجھتے ہیں) جو لوگ سمجھنا ہی نہیں چاہتے علم سے دور رہنے ہی کو پسند کرتے ہیں یہ لوگ ان سے

مستفید نہیں ہوتے۔



خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ (اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا) ان کے پیدا کرنے میں بڑی حکمت ہے جو مکر ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں لیکن ایمان نہیں لاتے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ (بلاشبہ اس میں مومنین کے لئے نشانیاں ہیں) یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل ہیں۔ دلائل تو سب ہی کے لئے ہیں لیکن ان سے اہل ایمان ہی منتفع ہوتے ہیں جنہیں ایمان قبول کرنا نہیں وہ جانتے بوجھتے مکر بنے ہوئے ہیں اور انکار پر تلے ہوئے ہیں۔

**أَثَلُ مَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ**

جو کتاب آپ پر وحی کی گئی ہے آپ اس کی تلاوت فرمائیے اور نماز قائم کیجئے بلاشبہ نماز بے حیائی سے اور برے کاموں سے

**وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ** ۱۵

روکتی ہے اور البتہ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے اور جو کام تم کرتے ہو اللہ جانتا ہے

## قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور نماز قائم کرنے کا حکم

**تفسیر:** اس آیت کریمہ میں دو حکم ہیں پہلا حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب آپ کو دی ہے آپ اسکی تلاوت کرتے رہیں۔ تنہائی میں تلاوت کرنا نمازوں میں قرآن مجید پڑھنا لوگوں کے سامنے پڑھنا اور اس کی تعلیم دینا الفاظ کا عموم ان سب کو شامل ہے دوسرا حکم یہ ہے کہ آپ نماز قائم کریں۔ دیگر آیات میں بھی نماز قائم کرنے کا حکم وارد ہوا ہے سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہے **أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ اللَّهِ** اور سورہ ہود میں فرمایا ہے **وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا** **قَرْنِ الْبَيْتِ**۔ ان آیات میں آنحضرت ﷺ کی نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ حکم جہاں آپ ﷺ کو ہے وہاں آپ کی امت کو بھی ہے اور امت کو علیحدہ خطاب بھی ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا **وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ** علماء نے فرمایا ہے کہ لفظ اقامۃ الصلوٰۃ اپنے مفہوم کے اعتبار سے بہت زیادہ عام ہے اسکا مطلب یہ ہے کہ نماز کو پڑھنے کی طرح پڑھو اس میں سنتوں اور مستحبات کا اہتمام اور نماز باجماعت کی ادائیگی اور خشوع و خضوع سے پڑھنا سب آ جاتا ہے۔

نماز بے حیائی سے روکتی ہے: پھر نماز کا ایک خاص بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ **إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ** (بلاشبہ نماز بے حیائی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے)۔

درحقیقت نماز کو نماز کی طرح پڑھا جائے تو وہ گناہوں کے چھڑانے کا سبب بن جاتی ہے نماز میں قراءت قرآن بھی ہے اور تسبیح بھی تکبیر بھی ہے تحمید بھی رکوع بھی ہے سجود بھی خشوع بھی ہے خضوع بھی اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اظہار بھی ہے اور اپنی عاجزی اور فروتنی کا تصور بھی ان سب امور کا دھیان کر کے نماز پڑھی جائے تو بلاشبہ نمازی آدمی بے حیائی کے کاموں اور گناہوں سے رک جائے گا جس شخص کی نماز جس قدر اچھی ہوگی اسی قدر گناہوں سے دور ہوگا اور جس قدر نماز میں کمی ہوگی اسی قدر گناہوں کے چھوٹنے میں دیر لگے گی نمازی آدمی اگرچہ گنہگار ہی کیوں نہ ہو بہر حال نماز پڑھتا ہے۔ کبھی نہ کبھی اس کی نماز انشاء اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو چھڑا ہی دے گی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے عرض کیا کہ فلاں شخص رات کو نماز پڑھتا ہے اور صبح ہوتی ہے تو چوری کر لیتا ہے آپ نے فرمایا کہ اس کا نماز پڑھنے والا اعلیٰ اسے اس عمل سے روک دے گا جسے تو بیان کر رہا ہے (ذکرہ صاحب الروح وعزاه الی احمد وابن حاتم والبیہقی ۱۲) دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ گناہوں میں بھی مشغول رہتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں اس پر جو اشکال ہوتا ہے اس کا جواب ہمارے بیان میں گزر چکا ہے اور بعض حضرات نے یوں فرمایا ہے کہ نماز تو بلاشبہ برائیوں سے روکتی ہے لیکن روکنے کی وجہ سے رک جانا ضروری نہیں آخر داعظ بھی تو وعظ کرتے ہیں برائیوں کی وعیدیں سناتے ہیں پھر جو رکنا چاہتا ہے وہی رک جاتا ہے اور جو رکنا نہیں چاہتا وہ گناہ کرتا رہتا ہے۔ اور بعض علماء نے جواب دیا ہے کہ نماز کم از کم اتنے وقت تک تو گناہوں سے روکتی ہی ہے جتنی دیر نماز میں مشغول رہتا ہے۔

بعض گناہ ایسے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے انسان نماز نہیں پڑھ سکتا نمازی آدمی اس سے ضرور بچے گا۔ مثلاً پیشاب کر کے یوں ہی اٹھ جائے اور استنجانہ کرے نمازی سے یہ نہیں ہو سکتا اور کوئی نمازی ستر کھول کر رانیں دکھاتا ہوا نہیں پھر سکتا اور نماز کو جاتے ہوئے راستہ میں گناہ نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح کی بہت سی باتیں ہیں جو غور کرنے سے سمجھ میں آ سکتی ہیں۔

**ذکر اللہ کے فضائل:** نماز کی اہمیت بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا وَلَنُكَفِّرَنَّ الْكُفْرَ (اور اللہ کا ذکر البتہ بہت بڑی چیز ہے) درحقیقت اللہ کا ذکر ہی پورے عالم کی جان ہے جب تک دنیا میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے آسمان و زمین قائم ہیں اور دوسری مخلوق بھی موجود ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک زمین میں ایک مرتبہ بھی اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا (رواہ مسلم ص ۸۴ ج ۱)

نماز بھی اللہ کا ذکر کرنے کے لئے ہے جو سراپا ذکر ہے سورہ طہ میں فرمایا ہے: وَاَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي کہ میری یاد کے لئے نماز قائم کیجئے نماز میں اول سے آخر تک ذکر ہی ذکر ہے نمازی آدمی تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک برابر اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے اس کی زبان بھی ذکر اللہ میں مشغول رہتی ہے اور دل بھی۔

رسول اللہ ﷺ کے بارے میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان فرمایا كَانَ يَذْكُرُ اللَّهَ فِي كُلِّ أَحْيَانِهِ (کہ آپ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے) (رواہ مسلم باب ذکر اللہ تعالیٰ حال الجنابة وغیرہا) یوں تو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کا ہر عمل اللہ کے ذکر میں شامل ہے لیکن دیگر اعمال ایسے ہیں کہ ہر وقت ان کی ادائیگی کے مواقع نہیں ہوتے اور ذکر اللہ ایسی چیز ہے جو وضو بے وضو ہر وقت حتیٰ کہ ناپاکی کی حالت میں بھی ہو سکتا ہے البتہ غسل فرض ہو تو تلاوت کرنا ممنوع ہے۔

تلاوت قرآن مجید تسبیح و تحمید تکبیر، تہلیل دعایہ سب اللہ کا ذکر ہے درود شریف بھی اللہ کے ذکر میں شامل ہے اس میں حضور نبی کریم ﷺ کے لئے اللہ سے رحمت کی دعا مانگی جاتی ہے وہ لوگ مبارک ہیں جو دل سے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں اس کی نعمتوں کے شکر گزار ہوتے ہیں اس کی کتاب کی تلاوت میں مشغول رہتے ہیں اور اس کی حمد و ثناء بیان کرتے رہتے ہیں۔

رسول اللہ ﷺ نے قرآن مجید کی تلاوت کی فضیلت بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھے اس کی وجہ سے اسے ایک نیکی ملے گی اور ہر نیکی دس گنا ہو کر ملے گی۔ (رواہ الترمذی وقال حسن صحیح)

اور تسبیح و تحید وغیرہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر میں ایک بار سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ کہوں تو یہ مجھے ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے جس پر سورج نکلتا ہے۔ (رواہ مسلم کما فی مشکوٰۃ ص ۲۰۰)

رسول اللہ ﷺ نے یہ بھی فرمایا کہ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بلکہ ہیں تراویح میں بھاری ہوں گے رَحْمَنُ کو محبوب ہیں اور وہ یہ ہیں سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ (رواہ البخاری و ہواخر الحدیث من کتابہ)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ کہا اس کے لئے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ (رواہ الترمذی)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی انہوں نے فرمایا کہ اے محمد اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا اور بتا دینا کہ جنت کی اچھی مٹی ہے اور میٹھا پانی ہے اور وہ چٹیل میدان ہے اور اس کے پودے یہ ہیں سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ۔ (رواہ الترمذی وقال حسن غریب اسناداً) مطلب یہ ہے کہ جنت میں ہے تو سب کچھ مگر اسی کے لئے ہے جو یہاں سے کچھ کر کے لے جائے جو عمل سے خالی ہاتھ گیا اس کے لئے تو چٹیل میدان ہی ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا ایک ایسے درخت پر گزرا ہوا جس کے پتے سوکھے ہوئے تھے آپ نے اس میں اپنی عصا کو مارا تو پتے چمڑے لگے آپ نے فرمایا کہ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اور سُبْحَانَ اللَّهِ اور لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور اللَّهُ أَكْبَرُ بندہ کے گناہوں کو اس طرح گرا دیتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے گر رہے ہیں۔ (رواہ الترمذی)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَافْضَلُ الدُّعَاءِ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ یعنی سب سے بڑی فضیلت والا ذکر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہے اور سب سے بڑی فضیلت والی دعا اَلْحَمْدُ لِلَّهِ ہے۔ (رواہ الرمدی)

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتا دوں؟ میں نے عرض کیا ارشاد فرمائیے! فرمایا لَا خَوْلَ وَلَا تَوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ ہے۔ (رواہ البخاری)

جب ذکر اللہ کی اس قدر فضیلت ہے تو اسی میں لگا رہنا چاہئے ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہونے دیں بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ کوئی کام کاج نہیں ریٹائرمنٹ کے بعد بیس بیس سال گزار دیتے ہیں دکانوں میں لڑکے اور ملازم کام کرتے ہیں اور اتنی بڑی قیمتی زندگی فضول گفتگو میں اخبار پڑھنے میں دنیا کے ملکوں کا تذکرہ کرنے میں بلکہ غیبتوں میں گزار دیتے ہیں یہ بڑے نقصان کا سودا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھے جس میں انہوں نے اللہ کا ذکر نہیں کیا تو یہ مجلس ان کے لئے نقصان کا باعث ہوگی پھر اگر اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے اور چاہے تو مغفرت فرمادے۔ (رواہ الترمذی)

ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ اسلام کی چیزیں تو بہت ہیں آپ مجھے ایک ایسی چیز بتلا دیجئے کہ میں اسی میں لگا رہوں آپ نے فرمایا لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۱۹۸ الترمذی وغیرہ) کہ

تیری زبان ہر وقت اللہ کی یاد میں تر رہے) ایک اور شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ فضیلت کے اعتبار سے سب سے بڑا عمل کون سا ہے؟ فرمایا وہ عمل یہ ہے کہ تو دنیا سے اس حال میں جدا ہو کہ تیری زبان اللہ تعالیٰ کی یاد میں تر ہو (مشکوٰۃ المصابیح ص ۱۹۸ عن الترمذی وغیرہ)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ذکر اللہ کے علاوہ زیادہ باتیں نہ کیا کرو کیونکہ اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ بولنے سے دل میں قساوت یعنی سختی آ جاتی ہے اور اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ دور وہی شخص ہے جس کا دل سخت ہو۔ (رواہ الترمذی)

نیز حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کے لئے صاف کرنے کی ایک چیز ہوتی ہے اور دلوں کو صاف کرنے والی چیز اللہ کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دینے والی کوئی چیز نہیں، صحابہؓ نے عرض کیا کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس قدر جہاد کرے کہ مارتے مارتے اس کی تلوار ٹوٹ جائے تو یہ عمل بھی عذاب سے بچانے میں ذکر اللہ سے بڑھ کر نہیں ہے۔ (رواہ البیہقی فی الدعوۃ الکبیرہ ص ۱۹۹) آخر میں فرمایا وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ (اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو) ہر شخص کے اعمال خیر اور اعمال شر کا اس کو علم ہے وہ اپنی حکمت کے مطابق اصحاب اعمال کا بدلہ دے گا، عمل کرنے والے اس چیز کا مراقبہ کرتے رہیں کہ ہمارے اعمال پیش ہوں گے اور ان کا بدلہ دیا جائے گا۔

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ

اور اہل کتاب سے بحث مت کرو مگر ایسے طریقہ پر جو اچھا طریقہ ہو مگر وہ لوگ جو ان میں سے بے انصاف ہیں اور یوں کہو کہ ہم

وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَالْهَذَا إِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَمَنْ يَّمْكُنْ لَهُ مُسْلِمُونَ

ایمان لائے اس پر جو ہماری طرف نازل ہوا اور اس پر جو تمہاری طرف نازل ہوا اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم اس کے فرمانبردار ہیں

وَكَذَلِكَ أُنْزِلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابُ فَالَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ

اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی سو جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے بعض

مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ

وہ ہیں جو اس پر ایمان لے آتے ہیں اور کافر لوگ ہی ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اور اس سے پہلے

مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخْطُهُ بِمِيمِكَ إِذَا لَزَّابَ الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي

آپ کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے دہانے ہاتھ سے لکھتے تھے اگر ایسا ہوتا تو ہل بطل شک میں پڑ جاتے۔ بلکہ یہ قرآن بذات خود بہت سے واضح دلائل کا

صُدُورُ الَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ

مجموعہ ہے ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا اور ہماری آیتوں کا انکار بے انصاف لوگ ہی کرتے ہیں۔ اور ان لوگوں نے کہا کہ اس پر اس کے

عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝ اَوْ لَمْ

رب کی طرف سے نشانیاں کیوں نازل نہیں ہوئیں آپ فرما دیجئے کہ نشانیاں اللہ کے اختیار میں ہیں اور میں تو صرف واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ کیا

يَكْفِيهِمْ أَتَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرْحْمَةً وَذِكْرَىٰ

یہ بات انہیں کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی جو ان پر پڑھی جاتی ہے بلاشبہ اس میں رحمت ہے اور نصیحت ہے

لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝

ایمان لانے والوں کے لئے

## اہل کتاب سے مجادلہ اور مباحثہ کرنے کا طریقہ

**تفسیر:** ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اہل کتاب سے مباحثہ کرنے کے بارے میں نصیحت فرمائی ہے ارشاد فرمایا کہ یہود و نصاریٰ سے جب گفتگو کرنے کا موقع آجائے تو ان سے اچھے طریقے پر بحث کرو۔ یہود و نصاریٰ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے اور اب بھی مانتے ہیں اور یہ بھی مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کیلئے انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث فرمائے اس لئے ان سے اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور پیغمبروں کی رسالت کے بارے میں کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہ تھی البتہ خاتم الانبیاء والمرسلین جناب محمد رسول اللہ ﷺ کی رسالت کے جو منکر تھے ان سے اس بارے میں بحث کرنے کی ضرورت تھی اور ان لوگوں نے جو اپنے دین میں تحریف کر لی تھی اور اپنی کتابوں کو بدل دیا تھا اور یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اور نصاریٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بتا دیا۔ ان کی اس گمراہی پر بھی تنبیہ کرنا ضروری تھا۔ یہودی پہلے سے مدینہ منورہ میں رہتے تھے جب رسول اللہ ﷺ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں سے واسطہ پڑا ان سے دینی امور میں مباحثہ ہوتا رہتا تھا۔ اور ایک مرتبہ نجران کے نصاریٰ بھی حاضر ہوئے ان سے بھی بحث ہوئی اور سورہ آل عمران کے شروع کی تقریباً اسی آیات نازل ہوئیں جن میں مبہلہ کی دعوت بھی ہے جو آیت کریمہ فَقُلْ تَعَالَوْنَا نَعْبُدِ اللَّهَ مَا وَكَّنَا لَهُ مَلَأَتْ كُفْرًا وَنَسَاءَ كُفْرًا (الآیہ) میں مذکور ہے۔ اہل مکہ مشرک تھے ان سے بھی بحث ہوتی رہتی تھی۔ سورہ نحل میں تمام انسانوں سے دعوت حق کا خطاب کرنے کے لئے ارشاد فرمایا ہے: اذْعُرُّوْا اِلٰی سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلُوْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ اور یہاں سورہ عنکبوت میں خصوصیت کے ساتھ اہل کتاب سے اچھے طریقے پر بحث کرنے کا حکم فرمایا ہے اچھے طریقہ پر بحث کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سخت بات کا جواب نرمی کے ساتھ اور غصہ کا جواب بردباری کے ساتھ اور جاہلانہ شور و شغب کا جواب باوقار گفتگو کے ساتھ دیا جائے، حق کی تبلیغ ہو اور نرمی اور بردباری کے ساتھ ہو تو وہ زیادہ نافع ہوتی ہے ہاں جن لوگوں نے ضد اور ہٹ دھرمی پر کمر باندھ لی ہو تو وہ خوش اخلاقی سے پیش آنے والے داعی کی بات بھی قبول نہیں کرتے لیکن داعی کو چاہئے کہ ہر حال میں حلم اور وقار، سنجیدگی اور نرمی پر قائم رہے۔ مذکورہ بالا نصیحت کے ساتھ اَلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا بھی فرمایا جس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ

بے انصافی پر ہی اتر آئیں اور بھونڈے طریقہ پر گفتگو کرنے لگیں تو تم بھی انہیں ایسا جواب دے سکتے ہو جس سے ان کی بدتمیزی اور بیوقوفی کا کٹ ہوتا ہو۔

صاحب روح المعانی نے حضرت مجاہد تابعی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ اَلَا الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ سے وہ اہل کتاب مراد ہیں جنہوں نے اللہ کے لئے بیٹا تجویز کیا اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرایا جنہوں نے یوں کہا کہ اِنَّ اللّٰهَ فَقِیْرٌ یا یوں کہا یَا اِلٰهَ مَعْلُوْلَةٌ ایسی باتیں سکر مومن آدمی کو زیادہ غصہ آ جاتا ہے اس غصہ میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور عظمت ثابت کرتے ہوئے کوئی سخت بات نکل جائے تو اس کی گنجائش ہے۔

اس کے بعد فرمایا وَقُولُوا اَعْتَابًا لِّذِیْ اُنْزِلَ اِلَیْنَا وَ اُنْزِلَ اِلَیْكُمْ وَ اَلْهٰنَا وَ اَلْهٰکُمْ وَ اٰحَدٌ وَ نَحْنُ لَ الْمُسْلِمُوْنَ (اور یوں کہو کہ ہم ایمان لائے اس پر جو ہماری طرف نازل ہوا اور اس پر جو تمہاری طرف نازل ہوا اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم اس کے فرمانبردار ہیں) اس خطاب میں اہل کتاب سے بات کرنے کا طریقہ بتایا ہے اور وہ یہ کہ تم اہل کتاب سے یوں کہو کہ ہم تو قرآن کریم پر بھی ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل ہوا اور ان کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں جو تم پر نازل ہوئیں یعنی تورات اور انجیل اور ہمارا اور تمہارا معبود بھی ایک ہی ہے پھر تم دین اسلام سے دور کیوں بھاگتے ہو؟ اگر ہم تمہاری کتابوں کو اللہ تعالیٰ کی کتاب نہ مانتے اور ہمارا تمہارا معبود ایک نہ ہوتا تو اختلاف کرنے اور دور بھاگنے کی کوئی وجہ بھی تھی جب کوئی وجہ اختلاف نہیں ہے تو آ جاؤ اور جناب محمد رسول اللہ ﷺ کی رسالت پر ایمان لے آؤ اختلاف ختم ہم تم ایک جو کچھ انکار ہے تمہاری طرف سے ہے اصحاب کتاب ہو کر اللہ کی آخری کتاب سے کیوں منہ موڑتے ہو؟ دیکھو ہم تو اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہیں تم بھی فرمانبردار ہو جاؤ اور اسکے آخری نبی ﷺ پر ایمان لے آؤ۔

صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اہل کتاب تورات کو عبرانی زبان میں پڑھتے تھے اور مسلمانوں کے سامنے عربی میں اسم کی تفسیر بیان کرتے تھے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ لا تصدقوا اهل الکتاب ولا تکذبوہم وقولوا امنّا بِالَّذِیْ اُنْزِلَ اِلَیْنَا وَ اُنْزِلَ اِلَیْكُمْ وَ اَلْهٰنَا وَ اَلْهٰکُمْ وَ اٰحَدٌ وَ نَحْنُ لَ الْمُسْلِمُوْنَ (اہل کتاب کی نہ تصدیق کرو نہ تکذیب کرو اور یوں کہو کہ ہم ایمان لائے اس پر جو ہماری طرف نازل ہوا اور اس پر جو تمہاری طرف نازل ہوا اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم اس کے فرمانبردار ہیں) جب ہمیں معلوم نہیں کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں یا جھوٹ تو ان کی تکذیب یا تصدیق کیسے کر سکتے ہیں۔

بعض صحابہؓ نے یہود سے جو بعض روایات لی ہیں (اور تفسیر کی کتابوں میں بھی نقل ہو گئی ہیں) وہ صرف تاریخی حیثیت سے لی گئی ہیں احکام شرعیہ اور حلال و حرام میں ان کا اعتبار نہیں کیا گیا۔

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰ اِلَیْكَ الْكِتٰبَ اور جس طرح ہم نے پہلی کتابیں نازل کیں اسی طرح ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل فرمائی یعنی قرآن مجید فَاَلَمْ یَنْتَظِرُوْا اَنْ یَّخْرُجْ اِلَیْہِمْ الْکِتٰبُ یُؤْمِنُوْنَ یہ (جو لوگوں کو ہم نے آپ سے پہلے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں) اس سے وہ اہل کتاب مراد ہیں جنہوں نے حق ظاہر ہوتے ہی حق کو قبول کیا اور اسلام لے آئے جیسے عبد اللہ بن سلام فارسی اور حبشہ کے نصاریٰ وَمِنْ هٰؤُلَآءِ مَنْ یُّؤْمِنُ یہ (اور ان لوگوں میں سے یعنی قریش مکہ اور دیگر قبائل اہل عرب میں سے بعض لوگ قرآن کریم پر ایمان لاتے ہیں) وَمَا یَجْحَدُ بِآیٰتِنَا اِلَّا الْکٰفِرُوْنَ

(اور ہماری آیات کا وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو کافر ہیں) حق کو چھپاتے ہیں باطل پر جسے رہتے ہیں۔

رسالت محمدیہ پر ایک واضح دلیل: اس کے بعد رسول اللہ ﷺ کی رسالت پر ایک واضح دلیل بیان فرمائی اور وہ یہ کہ آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اہل مکہ میں آپ نے پورے چالیس سال گزارے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا، مکہ والے جانتے تھے کہ آپ بالکل امی ہیں کسی سے آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھا، آپ نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا۔ اہل کتاب بھی اپنی کتابوں میں جو آپ کی صفات پاتے ان میں یہ واضح طور پر موجود تھا کہ آپ امی ہوں گے۔ مکہ معظمہ میں آپ نے نبوت کے بعد تیرہ سال گزارے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی کتاب سنائی تو انہوں نے ضد اور عناد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہونے سے انکار کر دیا اور یوں کہنے لگے کہ إِنَّمَا يَعْزِمُهُ بَشَرٌ (انہیں ایک آدمی سکھاتا ہے) جب ان سے کہا گیا کہ تم اس جیسی ایک سورت بنا کر لاؤ تو بالکل عاجز رہ گئے حالانکہ وہ فصحاء اور بلغاء تھے جس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ یہ کتاب آپ کی بنائی ہوئی نہیں ہے آپ نے کسی سے پڑھا نہیں اور یہ کسی دوسرے بشر کی سکھائی اور پڑھائی ہوئی کتاب نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو تم لوگ اس جیسا کلام بنا کر لے آتے، خصوصاً جبکہ وہ شخص عجمی ہے جسکے بارے میں کہتے ہو کہ وہ آپ کو سکھاتا ہے ایک امی شخص جس نے کسی سے بھی نہیں پڑھا اس کا ایسی فصیح و بلیغ کتاب پیش کر دینا جس کے مقابلہ سے بڑے بڑے فصحاء عاجز رہ گئے اس کی نبوت کی صاف صریح اور واضح دلیل ہے۔

پھر جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں پہلے سے اہل علم یعنی یہود موجود تھے انہوں نے آپ کو پہچان لیا کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی تشریف آوری کا ہمیں انتظار تھا، وہ لوگ آپ کی نشانیاں جانتے تھے اور اپنے اسلاف سے سنتے آرہے تھے ان نشانیوں میں یہ بھی تھا کہ آپ امی ہوں گے امی ہوتے ہوئے آپ نے حضرات انبیاء سابقین علیہم السلام اور ان کی امتوں کے واقعات بتائے اور جامع شریعت پیش کی عقائد صحیحہ سے واقف کیا، یہود نصاریٰ کی تحریفات سے آگاہ فرمایا، ان کی گمراہیوں پر مطلع کیا، یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ علوم دے دیئے جو کسی کو نہیں دیئے۔

اس تمہید کے بعد اب آیت کا مفہوم سمجھیں، ارشاد فرمایا: وَمَا كُنْتُمْ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّونَ بِيَمِينِكُمْ إِذَا لَكُمُ الْكِتَابُ الْمُبِطُونَ (اور اس سے پہلے آپ کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے داینے ہاتھ سے کتاب کو لکھتے تھے اگر ایسا ہوتا تو باطل والے شک کرتے) یعنی انہیں شک کرنے اور یوں بات بنانے کا موقع مل جاتا کہ یہ تو پڑھے لکھے آدمی ہیں اپنے پاس سے لکھ لیتے ہیں پھر یوں کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن جب آپ پڑھنا لکھنا جانتے ہی نہیں تو خود سے لکھنے کا احتمال ہی، لہذا اب یہ بات کہنے کا موقع نہیں رہا کہ انہوں نے یہ کتاب لکھ لی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دی ہے۔ (العیاذ باللہ)

پھر فرمایا: بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ بلکہ بات یہ ہے کہ یہ کتاب یعنی (قرآن شریف) اگرچہ ایک کتاب ہے لیکن بہت سے معجزات پر مشتمل ہونے کی وجہ سے بہت بڑی دلیل ہے جو اپنی قوت و عظمت کی وجہ سے بہت سی واضح دلیلوں کا مجموعہ بنا ہوا ہے اور ان لوگوں کے دلوں میں ہے جن کو علم عطا کیا گیا ہے، وَلَا يَجِدُهَا بُالْأَيْتَاتِ إِلَّا الظَّالِمُونَ (اور ہماری آیتوں کا انکار صرف بے انصاف لوگ ہی کرتے ہیں) باوجودیکہ قرآن مجرب ہے اور اس کا اعجاز سب پر ظاہر



ہے پھر بھی ظالم لوگ انکار پر تے ہوئے ہیں۔

**فائدہ:** سورۃ اعراف میں خاتم النبیین ﷺ کے بارے میں الَّذِينَ يَكْتُمُونَ الزُّبُرَ الْكُبْرَىٰ الذِّكْرَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ فرمایا ہے اور یہاں یوں فرمایا ہے کہ آپ اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے دہانے ہاتھ سے لکھتے تھے اور آپ کا یہ معجزہ تھا کہ اسی ہوتے ہوئے آپ نے علوم کے سمندر بہا دیئے یہ امتیازی صفت بطور معجزہ آخر تک باقی رہی جو ایک فضل و کمال کی بات ہے۔ بعض علماء نے یوں کہا ہے کہ آخر میں آپ لکھنا پڑھنا جان گئے ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر صلح نامہ لکھا جا رہا تھا تو اس میں آپ کے کاتب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے هَذَا مَا قَضَىٰ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لکھ دیا مشرکین مکہ کے نمائندہ سہیل بن عمرو نے یوں کہا کہ محمد رسول اللہ نہ لکھا جائے بلکہ محمد بن عبد اللہ لکھا جائے اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہوتے تو کوئی جھگڑے والی بات ہی نہ تھی نہ آپ سے قتال کرتے اور نہ آپ کو بیت اللہ سے روکتے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ محمد بن عبد اللہ لکھ دو اس وقت ان پر ادب کی شان غالب تھی اسلئے انہوں نے عذر کر دیا اس پر آنحضرت ﷺ نے ان کے ہاتھ سے ورق لے لیا اور خود هَذَا مَا قَضَىٰ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ لکھ دیا صحیح مسلم کی بعض روایات میں اسی طرح سے ہے۔ (صحیح مسلم جلد ۲ ص ۱۰۵)

(یہ وہ دستاویز ہے جس پر اللہ کے رسول ﷺ نے معاہدہ کیا ہے)

لیکن بعض علماء نے فرمایا کہ آپ نے حضرت علیؑ کے علاوہ کسی دوسرے صحابی کو لفظ محمد بن عبد اللہ لکھنے کا حکم دیا اور اس حکم فرمانے کو راوی نے اس طرح تعبیر کیا کہ آپ نے لکھ دیا۔ درحقیقت یہ تاویل نہ بھی کی جائے تب بھی آپ کی طرف کتاب کی نسبت کرنے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ کے امی ہونے کی صفت باقی نہیں رہی کیونکہ بطور معجزہ کوئی چیز لکھ دینا دوسری بات ہے اور باقاعدہ پوری طرح کاتب ہونا یہ دوسری بات ہے بلکہ کتاب نہ جانتے ہوئے آپ کا لکھ دینا یہ مستقل معجزہ ہے لہذا یہ کہنا کہ آپ بعد میں کتابت سے واقف ہو گئے تھے اس میں اس سے زیادہ فضیلت نہیں ہے کہ آپ نے امی ہوتے ہوئے بھی لکھ دیا۔

اس کے بعد فرمایا وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْكَ آيَاتُ رَبِّهِ (اور انہوں نے کہا کہ ان پر نشانیاں کیوں نازل ہوئیں) ان لوگوں کا مطلب یہ تھا کہ ہم جن معجزات کی فرمائش کرتے ہیں انہیں کیوں ظاہر نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمادیا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ (آپ فرمادیجئے کہ نشانیاں اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہیں) میرے اختیار کی چیزیں نہیں ہیں وَلَا إِنَّا آتَانَاكَ بِغَيْرِ قَدَرٍ (اور میں تو صرف واضح طریقہ پر ڈرانے والا ہوں) تمہارے فرمائش معجزات لا نا میرے اختیار میں نہیں ہے۔

أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَاتُنَا عَالِيَةً الْكِتَابُ يَشْكُرُ عَلَيْهِمْ (کیا ان کے لئے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی ہے جس کی ان لوگوں پر تلاوت کی جاتی ہے) یہ کتاب سراپا معجزہ ہے اس کا اعجاز سب کے سامنے ہے اگر کوئی منصف قبول حق کا ارادہ کرے تو اس کے لئے یہی قرآن بطور نشانی اور بطور معجزہ کافی ہے۔ إِن فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (بلاشبہ اس قرآن میں بڑی رحمت ہے اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لئے جو ایمان لاتے ہیں) جن کو ایمان لانے سے گریز ہے وہ اس سے دور رہتے ہیں اور نصیحت حاصل کرنے سے کتراتے ہیں۔

قُلْ كَفَىٰ بِاللّٰهِ يَنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالَّذِيْنَ

آپ فرمادیجئے کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے وہ ان سب چیزوں کو جانتا ہے جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں اور جو لوگ

اٰمَنُوْا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوْا بِاللّٰهِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰرِعُونَ ۝۱۰ وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ ۝۱۱ وَلَوْ لَا

باطل پر ایمان لائے اور اللہ کے منکر ہو گئے یہی لوگ نقصان والے ہیں۔ اور وہ لوگ آپ سے عذاب کا تقاضا کرتے ہیں اور اگر مقررہ

اَجَلٌ مُّسَمًّى لِّجَآءِ هُمُ الْعَذَابِ ۝۱۲ وَلِيَاْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً ۝۱۳ وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝۱۴ يَسْتَعْجِلُوْنَكَ

اجل نہ ہوتی تو ضرور ان کے پاس عذاب آ جاتا اور البتہ ان پر اچانک عذاب آپنیجے گا اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ یہ لوگ آپ سے جلدی

بِالْعَذَابِ ۝۱۵ وَاِنْ جَهِنَّمَ لَمُحِيْطَةٌ ۝۱۶ بِالْكَافِرِيْنَ ۝۱۷ يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ

عذاب آنے کا تقاضا کر رہے ہیں اور بلاشبہ جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ جس دن ان کے اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے

وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ وَيَقُوْلُ ذُوْ قُوْلًا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝۱۸

ان پر عذاب چھا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کافرمان ہو گا کہ کچھ لو جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔

## اہل باطل کی تکذیب اور تکذیب پر تعذیب

**تفسیر:** رسول اللہ ﷺ کی باتوں پر منکرین کو یقین نہیں تھا حالانکہ آپ کے معجزات ظاہر ہوتے رہتے تھے اور سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے فرمادیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے تم مانویا نہ مانو وہ میری رسالت کا گواہ ہے آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ ان سب کو جانتا ہے میں جو تم پر حق پیش کرتا ہوں اسے اس کا بھی علم ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو یعنی انکار اور تکذیب کے ساتھ پیش آتے ہو اسے اس کا بھی علم ہے تمہیں اپنی حرکتوں کی سزا ضرور ملے گی اور تم بہت بڑے خسارہ میں پڑو گے۔

اسی کو فرمایا: وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوْا بِاللّٰهِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰرِعُونَ (جو لوگ باطل پر ایمان لائے اور اللہ کے ساتھ کفر کیا یہی لوگ نقصان والے ہیں) نقصان بھی کتنا بڑا؟ خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ وَاَهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ قیامت کے دن اپنی جانوں سے بھی گئے اور گھر والوں سے بھی جب جان دوزخ میں گئی تو جان کہنے کے لائق نہ رہی اور نہ کوئی اپنا رہا عذاب سے چھوٹنے کا کوئی راستہ نہیں یہ کتنا بڑا خسارہ ہے منکرین کو سمجھ لینا چاہئے۔

منکرین اپنے کفر کو جرم نہیں سمجھتے تھے اور عذاب آ جانے کی بات سنتے تھے تو اس کا یقین نہیں کرتے تھے اور یوں کہتے تھے کہ عذاب آنا ہے تو جلد آ جائے اور ان کی مانگ کے مطابق فوراً عذاب نہ آنے کی وجہ سے آنحضرت سرور عالم ﷺ کی رسالت میں شک کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَلَوْ لَا اَجَلٌ مُّسَمًّى لِّجَآءِ هُمُ الْعَذَابِ (اگر اللہ کے علم میں عذاب آنے کی میعاد مقرر نہ ہوتی تو ان پر عذاب آ جاتا) جب اجل مقررہ کا وقت آ جائے گا ان پر عذاب دفعہ آ جائے گا جس کی انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ یہ عذاب دنیا میں بھی آ سکتا ہے اور کافر کی موت کے وقت سے ہی عذاب شروع ہو جاتا ہے

موت کے وقت بھی عذاب موت کے بعد برزخ میں بھی عذاب قیامت کے دن بھی عذاب دوزخ کا داخلہ وہاں بھی عذاب اور دائمی عذاب اوپر سے بھی عذاب اور نیچے سے بھی عذاب دوزخ کافروں کو گھیر لے گی ہر طرف سے عذاب ہی عذاب ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کافرمان ہوگا کہ تم جو عمل کیا کرتے تھے اس کا مزہ چکھ لو اور سزا بھگت لو۔

يُعْبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِيَّ وَأَسْعَىٰ فَيَايَ فَاْعَبُدُونِ ۖ كُلُّ نَفْسٍ

اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو بلاشبہ میری زمین کشادہ ہے سو تم میری ہی عبادت کرو ہر نفس

ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ

موت کو چکھنے والا ہے پھر تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے ہم انہیں ضرور ضرور

مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعَمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ۖ

جنت کے بالا خانوں میں ٹھکانہ دیں گے ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا۔

الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۖ وَكَآيِنٌ مِّنْ دَآئِبَةٍ لَا تَحِيلُ رِزْقَهَا ۚ

جنہوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور کتنے ہی چوپائے ہیں جو اپنا رزق نہیں اٹھاتے

اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۖ

اللہ انہیں اور تمہیں رزق دیتا ہے اور وہ سنے والا ہے جاننے والا ہے۔

## ہجرت کی اہمیت اور ضرورت

**تفسیر:** معالم التنزیل (جلد ۳ ص ۴۷۲) میں علامہ بغویؒ نے لکھا ہے کہ آیت يُعْبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا (الآیۃ) ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے مکہ معظمہ میں رہتے ہوئے اسلام قبول کر لیا تھا لیکن وہاں کے مقامی حالات کی وجہ سے (جو کافروں کی طرف سے دکھ تکلیف کی صورت میں پیش آتے رہتے تھے) اپنا ایمان ظاہر کرنے سے قاصر تھے اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ میری زمین وسیع ہے فراخ ہے یہاں سے ہجرت کر جاؤ دشمنوں کے خوف کی وجہ سے میری عبادت نہیں کر سکتے ہو تو اس شہر کو چھوڑ دو اور میری عبادت میں لگو۔ اس وقت مدینہ منورہ دارالہجرہ تھا رسول اللہ ﷺ اور بہت سے صحابہ مدینہ منورہ پہنچ گئے تھے اور اس سے پہلے بہت سے صحابہ حبشہ کو ہجرت کر چکے تھے کوئی شخص اللہ کے لئے وطن چھوڑ کر ہجرت کرنے کو آمادہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی ہے اور رہنے کا ٹھکانہ ملتا ہے جیسا کہ سورہ نساء میں فرمایا وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْعًا كَثِيرًا وَسَعَةً (اور جو شخص اللہ کے لئے وطن چھوڑے وہ زمین میں جانے کی بہت سی جگہ پائے گا اور اسے کشادگی سے جگہ ملے گی) چونکہ وطن کو مستقل طریقہ پر چھوڑ دینا دنیاوی حالات کے اعتبار سے ایک مشکل چیز ہے اس لئے بعض لوگ ہجرت کرنے کی ہمت نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ

شانہ نے ان سے فرمایا کہ میری زمین بہت وسیع ہے ہجرت کرو اور میری عبادت کرو۔

ہجرت کرنے میں دو طرح کی تکلیفیں پیش آنے کا خطرہ ہوتا ہے، اول موت کا خطرہ (کافروں کی طرف سے حملہ آور ہونے کا قوی احتمال) اور دوسرے بھوکے مر جانے کا خطرہ۔ انسان سوچتا ہے کہ یہاں اپنے گھر میں کمائی کرتا ہوں، بیٹے بھی کماتے ہیں، تجارت چالو ہے، اپنی کھیتی باڑی ہے، وطن سے باہر نکلتا ہوں تو کھانے کو کہاں سے ملے گا؟

**ہر جان کو موت چکھنا ہے:** اللہ تعالیٰ شانہ نے دونوں باتوں کا جواب دے دیا، اول تو یہ فرمایا كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ کہ ہر جان کو موت چکھنا ہے کہیں بھی رہو موت اپنے مقرر وقت پر آ جائے گی پھر موت سے کیا ڈرنا اور اس کے لئے ہجرت کو چھوڑنے کا کیا معنی؟ ثُمَّ إِلَيْنَا تَرْجَعُونَ (پھر موت کے بعد ہمارے پاس آؤ گے) اگر ہجرت کر لی تھی تو اس کا اجر پاؤ گے، اور اگر بالفرض ہجرت نہ کی تو سزا ملے گی۔

اس کے بعد اہل ایمان کے اجر و ثواب کا تذکرہ فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ (الآیۃ) (اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے ضرور ضرور ہم انہیں جنت کے بالا خانوں میں ٹھکانہ دیں گے، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا) اتنی بڑی جنت کا چھوٹا سا گھر اور وطن مالوف چھوڑنے کے عوض مل جانا بہت بڑی کامیابی ہے۔

**رزق مقدر ضرور ملے گا:** دوسری بات کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَكَايْنِ قُرْنٍ ذَاتِئَةٍ لَا تَخْشَىٰ رِزْقَهَا اللہ يَرْزُقُهَا وَلَا كَلَمَ (زمین پر چلنے والے بہت سے جانور ہیں جو اپنا رزق نہیں اٹھاتے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے) اس کے دو مطلب ہیں، ایک تو یہ کہ جانور اپنا رزق ساتھ لئے نہیں پھرتے جہاں ہوتے ہیں اللہ ان کا رزق دے دیتا ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ ذخیرہ نہیں رکھتے، جو ملا کھالیا آگے کی فکر نہیں کرتے نہ ان کے یہاں رزق جمع کرنے کا انتظام ہے نہ تحصیل رزق کی کوشش، وہ اسباب کے پیچھے نہیں پڑتے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے رزق عطا فرماتا ہے، اسی طرح جب تم ہجرت کرو گے تو وہ تمہیں رزق دے گا اب تک جس نے کھلایا پلایا ہجرت کے بعد بھی وہی کھلائے پلائے گا۔

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ پر توکل کرتے جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح رزق دیتا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے، وہ صبح کو بھوکے جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ (رواہ الترمذی وابن ماجہ، مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۵۲)

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ رزق بندہ کو اس طرح طلب کر لیتا ہے جیسے اسے موت طلب کر لیتی ہے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۵۲)

آخر میں فرمایا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے) وہ سب کی باتیں سنتا ہے اور سب کے احوال جانتا ہے، جو شخص اخلاص کے ساتھ ہجرت کرے، سچے دل سے اللہ پر توکل کرے اور جو شخص عذر کی وجہ سے ہجرت کرنے سے رکے اور جو شخص محض دنیاوی مفاد کے پیش ہجرت کے لئے نکلے اللہ تعالیٰ کو ان سب کے احوال و اقوال معلوم ہیں۔

جب رسول اللہ ﷺ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو بہت سے لوگ مکہ معظمہ میں رہ گئے ان میں

اصحابِ عذر بھی تھے اور وہ لوگ بھی تھے جن کے لئے واقعی عذر نہ تھا وہ ہجرت کر سکتے تھے اس زمانے میں مدینے کے لئے ہجرت کرنا فرض تھا، جو شخص ہجرت نہ کرتا اس کا ایمان معتبر نہ سمجھا جاتا تھا جب مکہ معظمہ فتح ہو گیا تو ہجرت کی فرضیت منسوخ ہو گئی لیکن مختلف احوال کے اعتبار سے ہمیشہ ایسے احوال مسلمانوں کے لئے پیش آتے رہتے ہیں جن کی وجہ سے ایمان اور اعمال باقی رکھنے کے لئے ہجرت کرنا فرض ہو جاتا ہے لیکن گھریا مال جائیداد اور رشتہ داروں کی محبت میں وطن نہیں چھوڑتے ایسی جگہوں میں رہتے ہیں جہاں اذان بھی نہیں دے سکتے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے مگر دنیا کی محبت انہیں ہجرت نہیں کرنے دیتی ایسے لوگ تارکِ فرض ہوتے ہیں۔ (تفصیل کے لئے سورۃ نساء کو غنمبر کی تفسیر کا مطالعہ کیجئے) (انوار البیان ج ۲)

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ

اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کیا تو ضرور جواب دیں گے کہ

اللَّهُ فَإِنِّي يُوقِفُونَ ۝ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ

اللہ نے سو وہ پھر کہاں اٹلے جا رہے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لئے چاہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لئے چاہے تنگ کر دیتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ تَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ

بلاشبہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ کس نے آسمان سے پانی نازل کیا پھر

الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۝

زمین کی موت کے بعد پانی کے ذریعہ اس کو زندہ کیا تو وہ ضرور ضرور جواب دیں گے کہ اللہ نے آپ فرمادیجئے کہ سب تعریف اللہ ہی کے لئے ہے بلکہ ان میں اکثر لوگ نہیں سمجھتے

## توحید کے دلائل

**تفسیر:** جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں غیر اللہ کو بھی شریک کرتے تھے ان کے بارے میں فرمایا کہ اے نبی (ﷺ) اگر آپ ان لوگوں سے دریافت کریں کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کیا اور انہیں ایک طریقہ خاص پر کس نے کام میں لگایا تو یہ لوگ اس کا یہی جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کیا ہے جب اقرار بھی ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہی کیا ہے تو پھر کہاں اٹلے پاؤں جا رہے ہیں یعنی توحید کو چھوڑ کر شرک کو کیوں اختیار کر رہے ہیں؟ خالقیت میں جس طرح اللہ کا کوئی شریک نہیں اسی طرح صفت رزاقیت میں بھی کوئی شریک نہیں وہ اپنے بندوں میں سے جس کے لئے چاہے رزق وسیع کر دے یعنی رزق میں فراخی دیدے اور جس کے لئے چاہے رزق تنگ کر دے بہت سے لوگ بڑی بڑی سختیاں کرتے ہیں، مشقتیں اٹھاتے ہیں مگر ان کا رزق تنگ ہی رہتا ہے اور بہت سے لوگ کچھ بھی نہیں کرتے انہیں بہت زیادہ وسعت کے ساتھ رزق ملتا ہے اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ رزق سے زیادہ کسی کو کچھ نہیں ملتا۔

اس کے بعد سب رزق کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر آپ ان سے سوال کریں کہ بتاؤ آسمان سے کس نے پانی اتارا؟ پھر اس پانی کے ذریعہ کس نے زمین کو زندہ کر دیا جبکہ زمین مرچکی تھی یعنی خشک ہونے کی وجہ سے کوئی چیز اگانے کے قابل نہ تھی تو یہی جواب دیں گے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی نے کیا ہے۔ **قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰہِ** (آپ فرمادیجئے کہ سب تعریف اللہ ہی کے لئے ہے) پیدا بھی اسی نے فرمایا اور نعمتیں بھی اسی نے دیں رزق بھی وہی دیتا ہے زمین بھی وہی زندہ فرماتا ہے جب وہی فاعل مختار ہے خالق و مالک ہے اور رازق بھی وہی ہے تو پھر عبادت بھی صرف اسی کی کرنا لازم ہے یہ ان سب باتوں کا اقرار کرتے ہیں لیکن عقل سے کام نہیں لینے، غور فکر نہیں کرتے، تھوڑے ہی سے افراد ہیں جو سمجھ سے کام لیتے ہیں اسی لئے فرمایا **بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ**۔

**وَمَا هَذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا لَهْوٌ وَ لَعِبٌ وَّ اِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيٰوَانُ**

اور یہ دنیا والی زندگی نہیں ہے مگر لہو و لعب اور بلاشبہ آخرت والا گھر ہی زندگی ہے

**لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ** ۱۰

کاش لوگ جانتے ہوتے۔

**دنیا والی زندگی لہو و لعب ہے، حقیقی زندگی آخرت ہی کی زندگی ہے**

**تفسیر:** اس آیت کریمہ میں دنیا کی فنا اور آخرت کی بقا کو اجمالی طور پر بیان فرمایا ہے اور مشرکین و کافرین کی ناسمجھی اور نادانی اور بے عقلی کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی جتنی بھی دراز ہو جائے اور اس میں جتنی بھی نعمتیں مل جائیں سب بچھ ہیں۔

کیونکہ انسان کی اصل ضرورت آخرت کی ضرورت ہے جہاں دوام ہے اور ابدی زندگی ہے وہاں کی دائمی زندگی اور ابدی نعمتوں کے سامنے یہ فنا ہونے والی دنیا جو وہاں کچھ بھی کام نہ دے گی بالکل لہو و لعب ہے جیسے بچے آپس میں کھیلتے ہیں ہوٹل بھی کھولتے ہیں، دوکاندار بن کر بھی بیٹھتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں بھی بیچتے ہیں، پھر جب بھوک لگتی ہے تو اپنی ماں کے پاس آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امی جان کھانا دے دیجئے، اگر والدہ ان سے پوچھے کہ تم تو ابھی ہوٹل کھولے ہوئے تھے روٹی سالن فروخت کر رہے تھے اسی میں سے کھا لیتے اب مجھ سے کیوں مانگ رہے ہو؟ تو بچے جواب دیں گے کہ وہ تو ایک کھیل تھا حقیقت نہیں تھی۔ اسی طرح اہل دنیا کا حال ہے کہ دنیا میں لگتے ہیں اسی کے لئے جیتے ہیں اسی کے لئے مرتے ہیں، مال بھی جمع کرتے ہیں، جائیدادیں بھی بناتے ہیں پھر موت کی وقت سب کچھ یہیں چھوڑ جاتے ہیں اس مال و جائیداد سے جو یہاں کی تھوڑی بہت حاجت پوری ہو جاتی ہے آخرت کی حاجتوں کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہاں پہنچیں گے تو یہاں کی جائیداد اور مال و اولاد کچھ بھی کام نہ آئیں گے وہاں تو ایمان اور اعمال صالحہ کی قیمت لگے گی اور یہی وہاں کی اصل ضرورت پورا کرنے کا ذریعہ نہیں گے وہاں کی ضرورت دوزخ سے بچنا ہے (یہ دفع

مضرت ہے) اور جنت میں داخل ہونا ہے (جو جلب منفعت ہے) وہاں کی ان دونوں ضرورتوں کے لئے جب دنیاوی چیزیں کام نہ آئیں تو ساری دنیا کھیل ہی ہوئی جس سے واقعی ضرورتیں پوری نہیں ہوتیں اگر دوزخ کے دائمی عذاب سے بچنے کا انتظام کر کے دنیا سے نہ سدھارے اور خدا نخواستہ وہاں عذاب میں گرفتار ہوئے تو اس وقت سمجھ میں آئے گا کہ دنیا واقعی لہو و لعب تھی وہاں حسرت اور افسوس کے سوا کچھ نہ ہوگا جو کچھ کرنا ہے یہیں سے لے کر جانا ہے۔

دنیا کو لہو و لعب بتانے کے بعد یوں فرمایا: وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَكَهِيَ الْحَيَوَانُ (اور بلاشبہ دار آخرت ہی زندگی ہے) مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو جنت کا داخلہ ملے گا وہ ہمیشہ نعمتوں میں رہیں گے نہ کبھی موت آئے گی نہ نعتیں چھیننی جائیں گی اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان سے راضی رہے گا۔ درحقیقت وہی زندگی زندگی کہنے کے قابل ہے۔ کافر کی نہ دنیاوی زندگی زندگی کہنے کے قابل ہے کیونکہ فانی ہے اور کمروہات، مشکلات، مکررات، مصائب و آلام، امراض و اسقام سے بھری ہوئی ہے اور نہ اس کی آخرت کی زندگی زندگی ہے کیونکہ وہاں تو عذاب ہی عذاب ہے۔ سورۃ الاعلیٰ میں فرمایا ہے ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيٰی (پھر وہ اس میں نہ مرے گا نہ جنے گا) دوزخ کی بھی کوئی زندگی ہے؟

آخر میں فرمایا **لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ** اگر یہ حیات دنیاویہ اور دار آخرت کو جان لیتے اور دونوں میں جو فرق ہے اسے سمجھ لیتے تو دنیا کو زندگی کا مقصد نہ بناتے۔

فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ

سوجہ بدگشتی میں سوار ہوتے ہیں تو خوب خالص اعتقاد کر کے اللہ کو پکارنے لگتے ہیں مگر جب وہ انہیں فحش کی طرف نجات دے دیتا ہے تو اچانک شرک کرنے لگتے ہیں

لِيُشْرِكُونَ ۖ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾ وَلَلْمُرُوءُ إِنَّا جَعَلْنَا

تا کہ ان چیزوں کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں دی ہیں اور تا کہ مزے اُڑالیں، سو وہ عفتقریب جان لیں گے، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے

حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَفُّ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ

حرم کو اس کی جگہ بنائی ہے اور ان کے گرد و پیش کے لوگ اُچک لئے جاتے ہیں؛ کیا وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی

يَكْفُرُونَ<sup>٥٦</sup> وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ

ناشکری کرتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جب وہ اس کے پاس آ جائے

الَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَشْوًى لِّلْكَافِرِيْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِىْنَا لَنَهْدِيْهُمُ

کیا دوزخ کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے اور جن لوگوں نے ہماری راہ میں تکلیفیں اٹھائیں ضرور ہم انہیں اپنی راہیں

وَسَبِّحْ تَكَذُّوْا إِنَّ اللّٰهَ كَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝۱۶

بتائیں گے اور بلاشبہ اللہ اچھے کام کرنے والوں کے ساتھ ہے



## مشرکین کی ناشکری اور ناسپاسی

**تفسیر:** جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ آڑے وقت میں تمام باطل معبودوں کی طرف سے ذہن ہٹا لیتے ہیں اور خالص اعتقاد کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مصیبت دفع کرنے کی درخواست کرتے ہیں۔ یہاں بطور مثال ان کی حالت بیان فرمائی ہے اور وہ یہ کہ جب کشتی میں سوار ہوں اور تیز ہوا چلنے لگے جس سے کشتی ڈگمگانے لگے اور ڈوبنے کا خطرہ لاحق ہو جائے تو صرف اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ لَیْسَ مِنَّا مَنْ هَذَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِیْنَ (اگر آپ نے ہمیں اس سے نجات دے دی تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے) جب مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو بڑے سچے وعدے کرتے ہیں لیکن جب اللہ تعالیٰ مصیبت سے نجات دے دیتا ہے تو پھر وہی ناشکری اور کفر و شرک اختیار کر لیتے ہیں۔ اسی کو فرمایا فَلَمَّا فَجَّطْنَاهُمْ إِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِكُوْنَ (سو جب اللہ انہیں نجات دے کر خشکی میں لے آتا ہے تو اسی وقت شرک کرنے لگتے ہیں) لَیْكَفِّرُوْا بِمَا اٰتٰیْنَاهُمْ (تاکہ وہ ان نعمتوں کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں دی ہیں) وَلَیْسَ تَتَّعَفُوْا (اور تاکہ مزے اڑاتے رہیں) دنیا کے اشغال اور لذات اور مزدوں کے کاموں میں لگے رہیں مصیبت ٹل جانے پر سارے وعدے بھول جاتے ہیں فَمَوْفٍ یَّعْلَمُوْنَ (سو عنقریب جان لیں گے کہ کفر و شرک اختیار کرنے اور اپنے وعدوں کو بھول بھلیاں کرنے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے) یہ نتیجہ عذاب کی صورت میں سامنے آ جائے گا۔

**اہل مکہ پر امن و امان کا خصوصی انعام:** اہل مکہ بھی شرک میں مبتلا تھے اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ انعام فرمایا تھا کہ وہ امن و چین سے اپنے شہر میں رہتے تھے جبکہ عرب کے دوسرے علاقوں میں لڑائیاں رہتی تھیں قتل خون لوٹ مار غارت گری کا سلسلہ قبل عرب میں جاری تھا۔ اہل عرب اگرچہ شرک تھے لیکن حرم مکہ کو محترم جانتے تھے اور اہل مکہ پر کوئی حملہ نہیں کرتے تھے اہل مکہ پر اس کی قدر دانی کرنا لازم تھا جب نبی کریم ﷺ نے توحید کی دعوت دی تو انہیں سب سے پہلے مسلمان ہونا چاہئے تھا ان پر لازم تھا کہ انہیں امن و امان سے رکھنے پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نبی مبعوث ہوا جو کہ انہیں میں سے تھا اس پر ایمان لے آتے لیکن وہ حسب سابق باطل معبودوں کی پرستش میں لگے رہے جن کی عبادت میں پہلے سے مشغول تھے۔ اسی کو فرمایا اَوْ لَعَلَّہُمْ یُرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا مَّحَرَّمًا (کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو امن والی جگہ بنا دیا) وَلَیْتَخَذَنَّ النَّاسُ مِنْ حَوْلِہُمْ (اور ان کے آس پاس لوگوں کو اچک لیا جاتا ہے) اَفَیْذَا بَاطِلٍ یُّؤْمِنُوْنَ (کیا باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کے منکر ہوتے ہیں) وَ یَنْعِمْنَ اللّٰہُ لَیْكَفِّرُوْنَ (اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں)

مشرکین کا عجیب حال تھا اور اب بھی ہے کہ پیدا تو اللہ نے فرمایا اور وہی رزق دیتا ہے اور پرورش فرماتا ہے اور حاجتیں پوری فرماتا ہے جس کا اقرار بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی کفر و شرک اختیار کئے رہتے ہیں۔

مشرکین کا یہ کہنا کہ اللہ کے لئے شریک ہے یہ اللہ تعالیٰ پر تہمت ہے اور افتراء ہے اسی کو یہاں فرمایا ہے وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرٰی عَلٰی اللّٰہِ کَذِبًا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ (اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق آ جانے پر اس کو جھٹلائے) اَلْیُسُ فِیْ جَہَنَّمَ مَشْغُوْیٌ بِلُکْفِیْرِیْنَ (کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانا نہیں ہے) یہ

استفہام تقریری ہے مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے اسکو استفہام کی صورت میں بیان کیا تاکہ خوب سوچ لیں اور اپنا انجام اور واقعی واصلی ٹھکانہ جان لیں۔

آخر میں فرمایا **وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَكَمَّ الْمُتَحْسِبِينَ** (اور جن لوگوں نے ہماری راہ میں تکلیفیں اٹھائیں ضرور ضرور ہم انہیں اپنی راہیں بتائیں گے اور بلاشبہ اللہ اچھے کام کرنے والوں کے ساتھ ہے) اس آیت میں ایک اہم مضمون بیان فرمایا ہے اور وہ یہ کہ اللہ کی رضا اختیار کرنے اور اس کی طلب میں محنت کرنے اور مشقت اٹھانے پر اللہ تعالیٰ شانہ کا وعدہ ہے کہ وہ ضرور اپنے راستے بتا دے گا۔ آیت شریفہ میں بہت بڑی جامعیت ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے جس طرح بھی جو بھی کوششیں کی جائیں مثلاً طلب علم ہو، کافروں سے مقابلہ ہو، اہل فتن سے مقابلہ ہو زبان سے یا قلم سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو یا ظالموں کے سامنے اظہار حق ہو یہ سب کچھ مجاہدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ہمارے بارے میں یعنی ہماری رضا کے لئے ہمارے دین کو بلند کرنے کے لئے محنت کریں گے، تکلیف اٹھائیں گے، مصیبتیں برداشت کریں گے ہم انہیں ضرور ضرور اپنے راستے دکھادیں گے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ انہیں اور زیادہ ہدایت سے نوازیں گے جیسا کہ سورہ محمد میں فرمایا **وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادْهُمْ هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا قَدْ ضَلُّوا** (اور جن لوگوں نے ہدایت کو اختیار کیا اللہ تعالیٰ انہیں اور زیادہ ہدایت دے گا اور انہیں ان کے تقویٰ عطا فرما دے گا) دوسرا مطلب یہ ہے کہ جنت کے راستے دکھادیں گے۔

جو شخص علم میں لگے اللہ تعالیٰ اس کے لئے علم کی راہیں کھول دیتے ہیں اور علم پر عمل کرنے سے مزید علم عطا فرماتے ہیں۔ جو شخص دعوت و تبلیغ اور جہاد کے کام میں لگے، تصنیف و تالیف کا کام کرے اس کا سینہ کھول دیتے ہیں تفسیر قرآن لکھنے لگے تو اسے ایسی معرفت عطا فرماتے ہیں جس کی وجہ سے قرآن مجید کے اسرار و رموز اس پر کھلتے چلے جاتے ہیں جو شخص معاشرہ کی اصلاح کرنا چاہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کی نظر معاشرہ کی خرابیوں پر جاتی ہے پھر زبان سے یا تحریر سے ان خرابیوں پر تنبیہ کرنے کی بھی توفیق ہو جاتی ہے اور بات کہنے کے ایسے پیرائے ذہن میں ڈال دیئے جاتے ہیں جنہیں اختیار کرنے سے مخاطبین بات کو قبول کرتے چلے جاتے ہیں۔ مومن بندہ کو اپنے ہر عمل میں مخلص ہونا لازم ہے یعنی محض اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب ہو پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی کیسی مدد نازل ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی بڑھو تو سہی پھر دیکھیں کہ اس کا کیا فضل و انعام ہوتا ہے۔

حدیث قدسی میں ہے **مَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شَبْرًا تَقَرَّبَتْ مِنْهُ ذِرَاعًا وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبَتْ مِنْهُ بَاعًا**۔ (یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص میری طرف ایک باشت قریب ہوتا ہے میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں اور جو شخص ایک ہاتھ میرے نزدیک ہو تو میں چار ہاتھ اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں)

آخر میں فرمایا کہ **إِنَّ اللَّهَ لَكَمَّ الْمُتَحْسِبِينَ** (اور بلاشبہ اللہ محسین کے ساتھ ہے) لفظ **مُتَحْسِبِينَ** جمع ہے محسن کی جو لفظ احسان سے لیا گیا ہے اور احسان کا معنی ہے اچھائی کرنا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اس کو وحدہ لا شریک ماننا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اس کے بھیجے ہوئے دین کو قبول کرنا اخلاص کے ساتھ اسکی عبادت کرنا نماز کے ارکان اور اعمال ادا کرنے میں خوبی اختیار کرنا خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا ہر عمل کو ریا کاری اور شہرت کے جذبہ سے پاک رکھنا اور

جس طرح جس عمل کے ادا کرنے کا حکم ہو اسی طرح عمل کرنا لفظ ”احسان“ ان سب کو شامل ہے۔ جو لوگ صفت احسان سے متصف ہیں وہ محسنین ہیں ان کے بارے میں وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اور وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ فرمایا اور یہاں سورۃ عنکبوت میں فرمایا ہے وَإِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (اور بلاشبہ اللہ محسنین کے ساتھ ہے) اللہ تعالیٰ کی معیت یہ ہے کہ وہ مدد فرماتا ہے اور آفات و مصائب سے محفوظ رکھتا ہے، ہدایت دیتا ہے اور ہدایت پر باقی رکھتا ہے اور مزید ہدایت دیتا ہے۔ سورۃ عنکبوت کے ابتداء میں فرمایا أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ (کیا لوگوں نے یہ خیال کیا کہ ہم یوں کہہ کر چھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ کی جائے گی) وہاں یہ بتا دیا تھا کہ الہ ایمان کو تکلیفیں پہنچیں گی اور سورت کے ختم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد نصرت اور معیت کا وعدہ فرمایا۔

فالحمد لله الذي بنعمته وعزته تتم الصالحات وقد تم  
تفسير سورة العنكبوت بحمد الله تعالى وحسن توفيقه  
والحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد  
الاولين والاخرين وعلى اله واصحابه اجمعين

سُورَةُ الرَّحْمٰنِ وَفِيهَا سِتُّونَ اٰیَةً نَزَّلْنَاهَا مِنْ قَبْلِ الْاٰیَةِ الْاُولٰٓئِیَّ

سورۃ روم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اس کی ساٹھ آیات اور چھ رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے﴾

اَلَمْۤ اَغْلِبَ الرَّوْمَ ۙ فِیْ آَذٰنِیْ الْاَرْضِ وَهُمْ مِّنۢ بَعْدِ عَلَیْهِمْ سَیَغْلِبُوْنَ ۙ

اللہ ۛ روم والے زمین کے قریب والے حصے میں مغلوب ہو گئے اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد قریب چند سال میں غالب ہو جائیں گے۔

فِیْ یَضَعُ سِنِیْنِ ۙ لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْۢ بَعْدُ ۙ وَیَوْمَیْذِ یَفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ ۙ

اللہ ہی کے لئے اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ اور ایمان والے اُس دن خوش ہوں گے اللہ کی مدد کی وجہ سے۔

بِنَصْرِ اللّٰهِ یُنْصِرُ مَنۢ یَّشَآءُ ۙ وَهُوَ الْعَزِیْزُ الرَّحِیْمُ ۙ وَعَدَ اللّٰهُ لَا یُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهُ ۙ

وہ مدد فرماتا ہے جس کی چاہے اور وہ زبردست ہے رحمت والا ہے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ اپنے وعدہ کو خلاف نہیں فرماتا۔

وَلٰكِنۢ اَكْثَرُ النَّٰسِ لَا یَعْلَمُوْنَ ۙ یَعْلَمُوْنَ ظٰهِرًا مِّنَ الْحَیٰوةِ الدُّنْیَا ۙ وَهُمْ عَنِ

اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے یہ لوگ دنیا والی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں اور وہ

الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ ۙ

آخرت سے غافل ہیں

اہل فارس پر رومیوں کے غالب ہونے کی پیشین گوئی اور

حضرت ابو بکر صدیق ؓ کا اُبی بن خلف سے ہار جیت کی بازی لگانا

**تفسیر:** حضرات مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ان آیات کا سبب نزول ذکر فرماتے ہوئے لکھا ہے کہ

فارس اور روم کے درمیان جنگ ہونے کی صورت بن گئی تھی اہل فارس جن کا بادشاہ کسری تھا یہ لوگ مشرک تھے اور رومیوں کا بادشاہ قیصر تھا یہ لوگ اہل کتاب تھے۔ اہل اسلام کی خواہش تھی کہ روم والے فارس پر غالب ہو جائیں کیونکہ اہل روم اہل کتاب تھے اور مشرکین کی خواہش تھی کہ فارس والے اہل روم پر غالب ہو جائیں کیونکہ وہ اہل شرک تھے قریش مکہ کے ہم مذہب تھے کسری نے بھی اپنا لشکر بھیجا اور قیصر نے بھی اور مقام اذرعات اور بصری پر دونوں لشکروں کی ٹکڑ بھڑ ہوئی۔ یہ شام کا علاقہ ہے جو سرزمین عرب سے قریب ہے جس میں مسلمان رہتے تھے۔ جنگ کے نتیجے میں اہل فارس رومیوں پر غالب آ گئے جب یہ خبر پہلی تو مسلمانوں کو رنج ہوا اور کفار مکہ نہ صرف یہ کہ خوش ہوئے بلکہ انہوں نے مسلمانوں سے یہ بھی

کہا کہ تم اہل کتاب ہو اور نصاریٰ یعنی رومی بھی اہل کتاب ہیں اور ہمارے بھائی اہل فارس تمہارے رومی بھائیوں پر غالب آ گئے، اس سے معلوم ہوا کہ اگر تم نے ہم سے جنگ کی تو ہم بھی تم پر غالب ہو جائیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں جن میں بتا دیا کہ عنقریب ہی رومی لوگ اہل فارس پر چند سال میں غالب ہو جائیں گے۔

یہ پیشین گوئی فرماتے ہوئے لفظ بَضْعِ سِنِينَ فرمایا ہے لفظ بَضْع عربی زبان میں تین سے لے کر نو تک کے عدد کے لئے بولا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بتا دیا کہ جس دن اہل روم اہل فارس پر غالب ہوں گے اس دن اہل ایمان خوش ہوں گے۔

جب مذکورہ بالا آیات نازل ہوئیں تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کفار مکہ سے کہا کہ تم آج اس بات پر خوش ہو رہے ہو کہ تمہارے ہم مذہب غلبہ پا گئے، تم خوشی نہ مناؤ اللہ کی قسم ہم فارس پر غالب ہو گئے جیسا کہ ہمارے نبی ﷺ نے ہمیں خبر دی ہے۔ اس پر ابی بن خلف نے کہا کہ تم جھوٹ کہتے ہو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ اے اللہ کے دشمن! تو جھوٹا ہے، چل تو مشارطہ کر لے، یعنی ہم اور تم اپنے درمیان ایک میعاد مقرر کر لیں اور دس دس اونٹ لینے دینے کی ذمہ داری قبول کر لیں، اگر اس مدت میں رومی فارس پر غالب آ گئے تو مجھے دس اونٹ دے گا اور اگر اہل فارس غالب ہو گئے تو میں دس اونٹ دوں گا آپس میں اس کا معاہدہ کر لیا گیا اور تین سال کی مدت مقرر کر لی گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جو معاملہ اور معاہدہ کیا تھا وہ خدمت عالی میں پیش کر دیا، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو بَضْعِ سِنِينَ فرمایا ہے جس میں تین سے لے کر نو سال کے درمیان رومیوں کے غالب ہونے کی خبر دی ہے لہذا تم ایسا کرو کہ مدت بڑھا لو جو آپس میں لینا دینا طے کیا ہے اس میں بھی اضافہ کر لو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پھر ابی بن خلف سے ملاقات کی ابی نے دیکھتے ہی کہا کہ تم نے جو شرط باندھی ہے اس پر نادم ہو رہے ہو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نادم نہیں ہوں اپنی بات پر قائم ہوں بلکہ مجھے مدت اور اونٹوں کی تعداد میں اضافہ کرنا ہے۔ اس کے بعد مدت مقررہ کو آپس میں طے کر کے نو سال کر دیا گیا اور بجائے دس دس اونٹ دینے کے ہر جانب سے سو سو اونٹ دینے کی بات ہو گئی۔

بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ سات سال کے اندر ہار جیت ہونے پر معاہدہ و معاملہ کیا گیا تھا ابی بن خلف کو یہ خوف ہوا کہ کہیں ابوبکر مکہ معظمہ سے باہر نہ چلے جائیں، وہ ان سے آ کر کہنے لگا کہ مجھے ضامن دے دو، اگر شرط میں تم ہارے تو تمہارے ضامن سے مقررہ تعداد میں اونٹ لے لوں گا، اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو ضامن بنا دیا (کچھ عرصہ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے) اس کے بعد ابی بن خلف کو مکہ معظمہ سے نکلنے کی ضرورت پیش آئی، وہ قریش مکہ کے ساتھ جنگ احد کے موقع پر مکہ معظمہ روانہ ہونے لگا، اس پر عبداللہ بن ابی بکرؓ نے اس سے کہا تو مجھے ضامن دے دے اگر تیری ہار ہو جائے تو تیرے ضامن سے سو اونٹ لے لوں چنانچہ اس نے ایک شخص کو ضامن بنا دیا اس کے بعد یہ ہوا کہ واقعہ حدیبیہ کے پہلے سال اہل روم اہل فارس پر غالب آ گئے جبکہ مشارطہ اور معاہدہ کو چھ سال گزر گئے تھے اور ساتواں سال شروع ہو چکا تھا (ابی بن خلف زندہ نہ تھا اس سے پہلے مقتول ہو چکا تھا) رومیوں نے جو اہل فارس پر غلبہ پایا تو اس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی

اللہ عنہ کی جیت ہوگئی اور ابی بن خلف کے وارثوں سے سواوث وصول کر لئے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ مال لے کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپؐ نے فرمایا کہ اس مال کو صدقہ کر دو۔

چونکہ مذکورہ مشارطہ قمار یعنی جوا ہے اس لئے آنحضرت ﷺ نے اس کو صدقہ کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ جس وقت معاہدہ کیا تھا اس وقت قمار یعنی جوا ممنوع نہ تھا جب مال وصول ہوا اس وقت قمار کی حرمت نازل ہو چکی تھی یہ وجہ صدقہ کا حکم فرمانے کی سمجھ میں آتی ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس وقت تک حرمت نازل ہوئی ہو یوں ہی مسلمانوں کی عام ضرورتوں میں خرچ کرنے کا حکم فرمایا ہو۔ اور بعض روایات میں اس کے لئے جو لفظ حرام وارد ہوا ہے اگر روایت صحیح ہو تو مکروہ اور ناپسندیدہ کے معنی میں لیا جائے گا (کما قال صاحب الروح)

لِللّٰهِ الْاَكْمَرُ مِنْ قَبْلِ وَهْمٍ يُعَدُّ (اللہ ہی کے لئے اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی) یعنی جو کچھ پہلے ہوا کہ اہل فارس غالب ہوئے اور رومی مغلوب ہوئے اور جو اس کے بعد ہوگا کہ رومی غالب ہوں گے اور اس کے علاوہ جو بھی کچھ ہوگا وجود میں آئے گا وہ سب اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار سے ہوگا اور اسی کی قدرت کا مظاہرہ ہوگا۔

وَيَوْمَئِذٍ يُفْعَلُ الْوَعْدُ لِلّٰهِ (اور جس دن رومی اہل فارس پر غالب ہوں گے مومن بندے اللہ کی مدد کے ساتھ خوش ہوں گے) مومنین کی خوشی ایک تو اس اعتبار سے ہوگی کہ انہوں نے کفار مکہ کو جو بتایا تھا کہ عنقریب اہل روم اہل فارس پر غالب ہوں گے اس بات کی سچائی سب کے سامنے آجائے گی۔ اور یوں بھی خوشی ہوگی کہ انہی دنوں میں بدر کا واقعہ پیش آئے گا خوشی کے اسباب ہو جائیں گے لفظ بِنَصْرِ اللّٰهِ کا تعلق ان سب باتوں سے ہو سکتا ہے کیونکہ ان میں اللہ تعالیٰ کی مدد ہوئی۔ بِنَصْرِ مَنْ يَشَاءُ (وہ جس کی چاہے مدد فرمائے) جسے چاہے غالب کرے جسے چاہے مغلوب کرے۔ اس میں مسلمانوں کی آئندہ مدد ہونے کی طرف اشارہ ہو گیا چنانچہ بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برابر مدد ہوتی رہی۔

وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (اللہ زبردست ہے رحم فرمانے والا ہے) جسے چاہے غلبہ دے دے اور جس پر چاہے رحم فرمادے کوئی اسے روکنے والا نہیں۔ وَعَدَ اللّٰهُ (اللہ نے وعدہ فرمایا ہے) لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدًا (اللہ اپنے وعدہ کے خلاف نہیں فرماتا) وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے) نہ ان کو اللہ کے قادر اور مطلق ہونے کا علم ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین ہے محض ظاہری اسباب کو دیکھتے ہیں خالق کائنات جل مجدہ کی صفات قدرت عزت اور رحمت اور صدق الوعد کو نہیں جانتے۔

## جنہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں دنیاوی علم کے باوجود جاہل ہیں

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا (یہ لوگ دنیا والی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں) وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غٰفِلُونَ (اور وہ آخرت سے غافل ہیں) یہاں جن لوگوں کے حق میں لَا يَعْلَمُونَ فرمایا انہی کے حق میں يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا

۱۔ یہ تفصیل ہم نے معالم العزیز جلد ۳ ص ۵۷۷ سے نقل کی ہے اس سلسلہ میں اور بھی متعدد روایات ہیں جنہیں حافظ ابن کثیرؒ نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے روح المعانی میں سنن ترمذی سے نقل کیا ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر رومیوں نے اہل فارس پر غلبہ پایا امام ترمذیؒ نے اس کی سند کو حسن بتایا ہے غزوہ بدر ۲ھ میں ہوا تھا اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے یوں کہا جائے گا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ابی بن خلف ہی سے سواوث وصول کئے کیونکہ ابی بن خلف کی موت رسول اللہ ﷺ کے نیزہ مارنے سے ہوئی تھی یہ واقعہ غزوہ احد کا ہے جو ۳ھ میں پیش آیا تھا۔

قِرْنِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا بھی فرمادیا اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات صفات اور اس کے تصرفات کو نہ جانتا اور اس کی معرفت حاصل نہ کرنا یہ جہالت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت حاصل نہ ہو اور دنیاوی زندگی کے آلات اور اسباب کو جانتے ہوں نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہوں دنیاوی ترقی میں آگے بڑھ گئے ہوں اور مال جمع کرنے کے طریقوں سے واقف ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو نہ جانتے ہوں اور آخرت سے غافل ہوں (جہاں دائمی زندگی ملے گی جس کی خبر اللہ تعالیٰ کی کتابوں اور رسولوں نے دی ہے) تو ایسے لوگ اصحاب علم نہیں ہیں۔ انسان کی اصل ضرورت آخرت کے عذاب سے بچنا اور جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہونا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان نہ لایا اور اپنی آخرت کے لئے فکر مند نہ ہوا وہ شخص دنیا کے اسباب کو کتنا ہی جانتا اور سمجھتا ہو صاحب علم اور صاحب عقل نہیں ہے۔ سورۃ آل عمران میں فرمایا اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاٰخِلَافِ الْيَلِیْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰیٰتٍ لِّاُولِی الْاَلْبَابِ الَّذِیْنَ یَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ عِبَادًا وَفَعُوْذًا وَّعَلٰی جُنُوْهُهُمْ یَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (بلاشبہ آسمانوں اور زمینوں کے پیدا فرمانے میں ضرور نشانیاں ہیں عقل والوں کے لئے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہوئے بھی بیٹھے بھی اور لیٹے بھی اور وہ آسمانوں اور زمینوں کے بارے میں فکر کرتے ہیں) اس آیت شریفہ میں ان لوگوں کو عقل والا فرمایا ہے جو اللہ کی یاد میں لگے رہتے ہیں اور آسمان وزمین کی تخلیق کے بارے میں فکر کرتے ہیں یعنی ان کے وجود کو دیکھ کر خالق تعالیٰ شانہ کی ذات اور صفات کی معرفت حاصل کرتے ہیں جو لوگ دنیا ہی پر دل دیے ہوتے ہیں خواہ وہ کسی ہی مشینیں ایجاد کرتے ہوں اور دنیا کو ترقی دینے میں مشہور ہوں وہ حقیقی صاحب عقل نہیں ہیں۔ سورۃ زمر میں فرمایا: قُلْ هَلْ یَسْتَوِی الَّذِیْنَ یَعْلَمُوْنَ وَالَّذِیْنَ لَا یَعْلَمُوْنَ اِلَّا اَلَّذِیْنَ كَرِهُوا الْاَلْبَابِ (آپ فرمادیجئے کیا وہ لوگ برابر ہیں جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے پس عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں) جس کا علم اللہ تعالیٰ کی توحید نہ سکھائے اور اس کے رسول ﷺ پر ایمان لانے پر آمادہ نہ کرے اور آخرت کا فکر مند نہ بنائے اس کا دنیاوی علم اس لائق نہیں ہے کہ اسے علم کہا جائے۔

اَوْ لَمْ یَتَفَكَّرُوْا فِیْ اَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا اِلَّا

کیا انہوں نے اپنے نفسوں میں غور نہیں کیا؟ اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا نہیں فرمایا

بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّیٍّ وَاِنْ کَثِیْرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ لَکٰفِرُوْنَ ۝۶

مگر حق کے ساتھ اور ایک معین مدت تک اور بلاشبہ بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔

اَوْ لَمْ یَسِیْرُوْا فِی الْاَرْضِ فِیَنْظُرُوْا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ کَانُوْا اَشَدَّ

کیا یہ لوگ زمین میں نہیں چلے پھرے سو دیکھ لیتے کیا انجام ہوا اُن لوگوں کا جو اُن سے پہلے تھے

مِنْهُمْ قُوَّةً وَّاَثَارُوا الْاَرْضَ وَعَمَرُوْهَا اَکْثَرَ مِمَّا عَمَرُوْهَا وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ

وہ لوگ قوت کا اعتبار ان سے بڑھے ہوئے تھے اور انہوں نے زمین کو بویا جتنا اور اس سے زیادہ آباد کیا جتنا ان لوگوں نے آباد کیا ہے اور ان کے پاس ان کے رسول



بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ

واضح دلیلیں لے کر آئے، سو اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، اور لیکن وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، پھر جن لوگوں نے

الَّذِينَ اسَاءُوا السُّوْاۤى اَنْ كَذَّبُوْا بِآيَاتِ اللّٰهِ وَكَانُوْا بِهَا يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝

برے کام کئے اُن لوگوں کا برا انجام ہوا۔ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور وہ ان کا مذاق بناتے تھے۔

## آسمان وزمین کی تخلیق میں فکر کرنے کی تلقین

**تفسیر:** قرآن کریم کے اولین مخاطبین مشرکین عرب تھے۔ ان آیات میں ان کو اور ان کے بعد آنے والے پوری دنیا جہاں کے انسانوں کو غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ اول تو یہ فرمایا کہ ان لوگوں کو اپنے نفسوں میں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو آسمان وزمین اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے اور ان کے درمیان جو کائنات ہے اس کو وجود بخشا، یہ سب یوں ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے یعنی ان کے پیدا فرمانے میں بڑی حکمتیں ہیں اور بات یہی ہے کہ ان کو ایک معین مدت تک کے لئے وجود بخشا ہے، یہ سب چیزیں خالق کائنات کے پچھاننے کے لئے ہیں، اس وجود کی بقاء کے لئے ایک مدت معین ہے، جب قیامت آئے گی تو آسمان پھٹ جائے گا، زمین پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر ڈال دے گی، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، زندے مرجائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کے حضور پیشی ہو گی اور اعمال کی جزا اور سزا سامنے آئے گی، جس نے آسمانوں کو اور زمین کو اور ان کے درمیان کی کائنات کو پیدا فرمایا ہے جس میں بنی آدم بھی ہیں اس نے بلا حکمت پیدا نہیں فرمایا، اس نے زندگی بخشی پھر موت دے گا پھر زندہ فرمائے گا، یہ ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو مومن بندے ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور بہت سے لوگ آخرت کو نہیں مانتے اور اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں، ان منکرین میں وہ بھی ہیں جو وقوع قیامت کے قائل نہیں اور وہ لوگ بھی ہیں جن کے نزدیک جزا و سزا کا صرف دھندلا سا تصور ہے اور کچھ لوگوں نے جزا و سزا کے لئے اپنے طور پر تضحیح یعنی آواگون کا عقیدہ تراش رکھا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دنیا یوں ہی رہے گی۔ ان سب لوگوں کو تنبیہ فرمادی، مانویانہ مانویہ دنیا اس کے خالق کی مقررہ مدت تک باقی رہے گی پھر اس پر فتنائاری ہوگی اور خالق تعالیٰ شانہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی لہذا ہر شخص فکر مند ہو اور اپنی جان کی سلامتی اور قیامت کے دن کی نجات کے لئے سوچے۔

## زمین پر چلنے پھرنے کی تلقین اور اُمم سابقہ سے عبرت حاصل کرنے کا حکم

اس کے بعد فرمایا: اَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْاَرْضِ (الآیۃ) کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا تاکہ پرانے لوگوں کے احوال سے عبرت حاصل کرتے، ان سے پہلے جو لوگ تھے وہ ان سے زیادہ قوت والے تھے انہوں نے زمین کو جوتا اور بویا بیج ڈالا اور اس کی پیداوار کو اپنے تصرف میں لائے، نیز کھیتی باڑی کے علاوہ بھی انہوں نے زمین کو آباد کیا، اپنے مکانات بنائے، قلعے تعمیر کئے، باغات لگائے، نہریں جاری کیں، اور بہت کچھ کیا لیکن وہ اس سب کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اللہ

تعالیٰ جل شانہ نے اپنے رسول بھیجے جو ان کے پاس دعوت حق لے کر آئے لیکن ان لوگوں نے نہیں مانا، بالآخر فنا کے گھاٹ اتر گئے، ان کے قلعوں اور محلات کے کھنڈرات ابھی تک دنیا میں موجود ہیں، دیکھنے والے انہیں دیکھ کر عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو ہلاک فرمایا اس کا سبب ان کا اپنا ظلم تھا، وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، انہوں نے اپنے خالق کو نہیں مانا، اسکے رسولوں کو جھٹلایا، معجزات سامنے آنے پر بھی برابر کفر پراڑے رہے، ان کے اعمال ہی ان کی بربادی کا سبب بنے۔

ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ (الآیۃ) پھر دنیاوی ہلاکت کے بعد موت کے بعد بھی برے کاموں میں لگنے والوں کا برا انجام ہوگا، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا ہی نہیں ان کا مذاق بھی اڑایا، ان کے اپنے اعمال ہی موت کے بعد عذاب میں مبتلا ہونے کا سبب بن گئے، قوله تعالیٰ: ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ اسَاءَ وَابْتَصَبِ الْعَاقِبَةُ“ و اضافتہ الی الموصول و نصبہا علیٰ انہا خبر کان و قوله تعالیٰ: ”السوء“ تانیث الاسوء کالحسنی تانیث الاحسن، وہی مرفوعة علیٰ انہا اسم کان و هذا علیٰ قرأۃ حفص و من وافقہ و قرء الحریمان و ابو عمرو ”عاقبۃ“ بالرفع علیٰ انہ اسم کان و ”السوء“ بالنصب علی الخبریۃ۔ (اللہ تعالیٰ کا ارشاد ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ اسَاءَ وَ السَّوْءُ عَاقِبَةُ النَّاسِ کے ساتھ ہے اور موصول کی طرف مضاف ہے اور یہ منصوب اس لئے ہے کہ یہ کان کی خبر ہے اور اللہ تعالیٰ کا قول السَّوْءُ یہ السَّوْءُ کی تانیث ہے جیسے الْحَسَنُ الْاَحْسَنُ کی تانیث ہے اور یہ السَّوْءُ مرفوع ہے اس لئے کہ یہ تَنَان کا اسم ہے اور امام حفص اور ان کے موافقین کی قراءت کے مطابق ہے اہل حرم اور ابو عمر نے عاقبہ کو رفع کے ساتھ پڑھا ہے اس بنیاد پر کہ یہ تَنَان کا اسم ہے اور السَّوْءُ کو نصب کے ساتھ پڑھا ہے اس لئے کہ یہ کان کی خبر ہے)

اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ ۝

اللہ مخلوق کو ابتداء پیدا فرماتا ہے پھر اُسے دوبارہ پیدا فرمائے گا، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرمین

وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِّنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ ۝ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ

نا امید ہو کر رہ جائیں گے اور ان کے شرکاء میں سے کوئی بھی سفارش کرنے والا نہ ہوگا اور وہ اپنے شرکاء کے منکر ہوں گے اور جس دن

يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ ۝ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ۝

قیامت قائم ہوگی، اُس دن لوگ متفرق حالتوں میں ہوں گے۔ سو جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے وہ باغ میں سرور ہوں گے۔

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُخَضَّرُونَ ۝

اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، سو یہ لوگ عذاب میں حاضر کئے جائیں گے۔

فَسُبْحَنَّ اللَّهَ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ۝ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا

سبحن اللہ کی تسبیح بیان کر و شام کے وقت اور صبح کے وقت اور اسی کے لئے سب تعریف ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور دن کے پچھلے اوقات میں

وَحِينَ تَظْهَرُونَ<sup>۱۶</sup> يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُخْبِئُ الْأَرْضَ

اور دوپہر کے وقت اس کی تسبیح بیان کرو۔ وہ جاندار کو بے جان سے باہر لاتا ہے اور بے جان کو جاندار سے نکالتا ہے اور زمین کو اُس کے مردہ ہونے کے

بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرِجُون<sup>۱۷</sup>

بعد زندگی بخشتا ہے اور اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔

## قیامت کے دن مختلف جماعتیں ہونگی، مومنین باغوں میں مسرور ہونگے، مجرمین بد حال ہونگے

**تفسیر:** ان آیات میں اوّل تو یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا فرماتا ہے پھر جب سب مرجائیں گے تو دوبارہ زندہ فرمادے گا اور یہ دوبارہ زندہ ہونا قیامت کے دن ہوگا۔ مرنے والے زندہ ہو کر اس دن حساب کتاب کیلئے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اس کے بعد مجرمین کی حالت بیان فرمائی کہ جب قیامت قائم ہوگی تو وہ ناامید ہو جائیں گے، ان مجرموں میں مشرک بھی ہوں گے جنہوں نے دنیا میں مخلوق کو عبادت میں اللہ کا شریک بنا رکھا تھا اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے لئے سفارش کریں گے ان میں سے کوئی بھی ان کی سفارش نہیں کرے گا نہ کر سکے گا بلکہ شفاعت کے امیدوار خود ہی منکر ہو جائیں گے اور یوں کہیں گے کہ ہم تو مشرک تھے ہی نہیں۔

اس کے بعد فرمایا کہ جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن حاضر ہونے والے مختلف حالتوں میں ہوں گے، اہل ایمان کی حالت اہل کفر کی حالت سے مختلف ہوگی، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے وہ تو بہشت کے باغوں میں مسرور اور خوش و خرم ہوں گے اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا اور قیامت کے دن کی ملاقت کو نہ مانا، یہ لوگ عذاب میں حاضر کر دیئے جائیں گے۔

## صبح و شام اور دن کے پچھلے اوقات میں اللہ کی تسبیح کرنے کا حکم

اس کے بعد اللہ تعالیٰ شانہ کی پاکی بیان کرنے کا حکم دیا کہ شام کے وقت اور صبح کے وقت اور دن کے پچھلے اوقات میں اور ظہر کے وقت اللہ کی پاکی بیان کرو، اوقات مذکورہ میں اللہ کی تسبیح اور تزیینہ بیان کرنے کا حکم دیتے ہوئے درمیان میں یہ بھی فرمایا کہ آسمانوں اور زمین میں اللہ تعالیٰ ہی کی حمد ہے، یعنی آسمانوں میں فرشتے اور زمین میں اہل ایمان اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں اور جو لوگ اہل کفر ہیں ان کا وجود ہی اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے کے لئے کافی ہے گویا ان سے اس کی حمد بیان نہ کرتے ہوں (ملاحظہ ہو ادار البیان جلد ۵ ص ۳۸۸) جیسا کہ سورۃ النور میں فرمایا: **الْحَمْدُ لِلَّهِ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالظِّلُّ بِصَفَاتٍ كُلِّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ** (کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں اور پرندے بھی جو پر پھیلائے ہوئے ہیں ہر ایک نے اپنی نماز اور تسبیح کو جان لیا)

(ہے) یوں تو ہر وقت ہی اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید میں مشغول رہنا چاہئے لیکن چونکہ یہ اوقات تجد و نعمت اور آثار قدرت ظاہر ہونے کے خصوصی اوقات ہیں اس لئے ان میں تسبیح کا حکم دیا گیا ہے۔ صاحب روح المعانی جلد ۲۱ ص ۲۸ پر تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ قرآن مجید میں پانچ نمازوں کا کس جگہ ذکر ہے؟ تو انہوں نے یہ آیت پڑھ کر بتایا کہ تُمْسُونَ سے مغرب کی نماز اور تُصْبِحُونَ سے صبح کی نماز اور عِشَاء سے عصر کی نماز تُظْهِرُونَ سے ظہر کی نماز مراد ہے۔ اس طرح آیت شریفہ میں چار نمازوں کا ذکر آ گیا اور پانچویں نماز ثابت کرنے کے لئے انہوں نے سورۃ التور کی ایک آیت کا یہ حصہ پڑھ دیا: وَمِنْ بَعْدِ صَلَوةِ الْعِشَاءِ۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ لفظ تُمْسُونَ ہی سے مغرب اور عشاء دونوں مراد ہیں اور اسی آیت سے پانچوں نمازوں کو ثابت کر دیا۔ نماز چونکہ افضل الاعمال ہے اور سرِ ایا اللہ کے ذکر پر مشتمل ہے اس لئے ان اوقات میں عام ذکر کے علاوہ فرض نمازوں کا اہتمام کرنے کا بھی خصوصیت کے ساتھ حکم فرمایا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ پانچ نمازیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائی ہیں جس نے ان نمازوں کو اچھی طرح ادا کیا اور ان کو بروقت پڑھا اور ان کا رکوع اور سجدہ پورا کیا ایسے شخص کے لئے اللہ تعالیٰ کا عہد ہے کہ اسکی مغفرت فرما دے گا، اور جس نے ایسا نہ کیا تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ کا کوئی عہد نہیں اگر چاہے تو اس کی مغفرت فرما دے اور چاہے تو اسے عذاب دے (رواہ احمد و ابوداؤد کما فی مشکوٰۃ ص ۵۸) لفظ ”عشی“ عربی زبان میں زوال سے لے کر غروب آفتاب کے لئے بولا جاتا ہے جس کا ترجمہ ہم نے ”دن کے پچھلے اوقات“ کیا ہے۔ آیت شریف میں یہ لفظ حِينَ تَظْهِرُونَ سے پہلے آیا ہے اور اس سے عصر کا وقت مراد لیا ہے۔

بعض اکابر نے اس میں یہ نکتہ بتایا ہے کہ نماز عصر چونکہ صلوٰۃ وسطیٰ ہے اور اس کی ادائیگی کے لئے خاص تاکید وارد ہوئی ہے اور چونکہ یہ وقت عموماً کاروبار کا ہوتا ہے اور اس میں مشغولیت کی وجہ سے نماز کی طرف سے غافل ہو جاتے ہیں (جیسا کہ بازاروں میں دیکھا جاتا ہے کہ عام حالات میں نمازوں کا اہتمام کرنے والے بھی نماز کو چھوڑ بیٹھتے ہیں) اس لئے اس کا ذکر مقدم فرمایا۔

يُنْفِخُ الْحَنُوتَ مِنَ الْمَكِيتِ (الآیۃ)۔ (اللہ تعالیٰ مردہ کو زندہ سے اور زندہ کو مردہ سے پیدا کرتا ہے) اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان فرمایا ہے کہ وہ جاندار کو مردہ سے اور مردہ کو جاندار سے نکالتا ہے۔ مفسرین نے اسکی شرح میں فرمایا ہے کہ مردہ سے نطفہ مراد ہے جو بے جان ہے اور بعض حضرات نے اس کی مثال بچہ اور انڈے سے دی ہے کہ چوزے کو انڈے سے اور انڈے کو پرندے سے نکالتا ہے۔ وَيُنْفِخُ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا (اور زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ فرماتا ہے) یعنی جب زمین خشک ہو کر مردہ ہو جاتی ہے اس میں ایسی جان ہی نہیں رہتی جس سے کھیتی اور گھاس وغیرہ پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو زندہ فرماتا ہے وہ تروتازہ اور شاداب ہو جاتی ہے اس میں سے کھیتیاں نکل کر لہلہانے لگتی ہیں۔ آخر میں فرمایا: وَكَذَلِكَ تَخْرُجُونَ۔ (اور تم بھی اسی طرح نکالے جاؤ گے) یعنی قیامت کے دن قبروں سے زندہ ہو کر اٹھو گے۔ موت کے بعد زندہ ہونے کی یہ نشانی تمہارے سامنے ہے پھر بھی قیامت کا انکار کرتے ہو اور قیامت کے دن زندہ اٹھنے کو نہیں مانتے۔

**فائدہ:** حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کو یہ تین

آیات (فَسُبْحَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَكَ تَخْرُجُونَ نَكَبًا) پڑھ لے اس کا جو رد چھوٹ جائے گا اس کا ثواب پالے گا اور جو شخص یہ آیات شام کو پڑھ لے اس رات کو جو اس کا ورد چھوٹ جائے گا اس کا ثواب پالے گا۔

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ۝ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ

اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا پھر اچانک تم آدمی بن کر پھیلے ہوئے پھرتے ہو۔ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے

لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

کہ اس نے تمہارے لئے تمہاری جنس سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان کے پاس آرام کرو اور تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی پیدا فرمادی اُس میں

لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَالْوِلْدَانِ

ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو فکر کرتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں کا پیدا فرمانا اور تمہاری بولیوں اور رنگتوں کا مختلف ہونا ہے

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ ۝ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاءُكُمْ

بلاشبہ اس میں جاننے والوں کے لئے نشانیاں ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا سونا ہے رات میں اور دن میں اور تمہارا تلاش کرنا ہے

مَنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُسْمِعُونَ ۝ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا

اس کے فضل کو بلاشبہ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو سنتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے جس سے ڈر ہوتا ہے

وَطَمَعًا ۚ يُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

اور امید بھی اور وہ آسمان سے پانی اتارتا ہے پھر اس کے ذریعہ زمین کو زندہ فرماتا ہے اس کی موت کے بعد بلاشبہ اس میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں

لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِ رَبِّهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً

جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں پھر جب وہ تم کو پکار کر

مَنْ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ۝ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ ۝ وَهُوَ

زمین سے بلائے گا تو تم اسی وقت نکل پڑو گے۔ اور اسی کے لئے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے سب اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ اور وہی

الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ۚ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ

ہے جو مخلوق کو پیدا فرماتا ہے پھر اسے لوٹائے گا اور وہ اس پر زیادہ آسان ہے اور اسی کیلئے شان اعلیٰ ہے آسمانوں میں

وَالْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

اور زمین میں اور وہ عزت والا ہے حکمت والا ہے

## اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر اور تو حید کے دلائل

**تفسیر:** یہ پوری آٹھ آیات کا ترجمہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی صفتِ تخلیق اور مخلوقات میں تصرف فرمانے کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفتِ تخلیق اور تصرفات بیان فرماتے ہوئے بار بار یوں فرمایا ہے کہ اس میں نشانیاں ہیں یہ بات چار جگہ فرمائی ہے۔ اَوَّلًا: اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ اور ثَانِيًا: اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلَمِيْنَ اور ثَالِثًا: اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُوْنَ اور رَابِعًا: اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ فرمایا ہے درحقیقت ان آیات میں جن مظاہر قدرت کو بیان فرمایا ہے ان میں غور و فکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی صفتِ تخلیق اور صفتِ ربوبیت و الوہیت اور اس کا وحدہ لاشریک لہ ہونا پوری طرح سمجھ میں آ جاتا ہے۔ آخری تین آیتوں میں قیامت کے دن دوبارہ پیدا فرمانے کا تذکرہ فرمایا ہے اور یہ فرمایا کہ جس نے ابتداءِ تخلیق فرمائی وہ دوبارہ بھی پیدا فرمائے گا۔

**اَوَّل** تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یعنی تمہارے باب آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا ہے تم لوگ انہیں کی نسل سے ہو سورہ نساء میں فرمایا: يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَنٰ وَبَنَاتٍ مِنْهَا اِلٰهًا كَبِيْرًا وَّسَبْحًا (اے لوگو! اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا اور اسی ایک جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے خوب زیادہ مرد و عورت پھیلانے) نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ (ایک جان) سے حضرت آدم علیہ السلام مراد ہیں ان کی تخلیق مٹی سے تھی لہذا سب انسانوں کی اصل مٹی ہی ہوئی۔ اسی لئے یہاں سورہ روم میں خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے ان کا جوڑا پیدا کیا یعنی حضرت حوا علیہا السلام وجود میں آئیں پھر دونوں میاں بیوی سے نسل چلی، نسلیں چلتی ہیں مرد و عورت پیدا ہوتے ہیں تدریجی طور پر نشو و نما ہوتی ہے ہوش سنبھالتے ہیں جسم میں قوت آتی ہے اپنی حاجات اور ضروریات کے لئے زمین میں پھیل پڑتے ہیں مٹی جو بالکل بے جان چیز تھی اللہ تعالیٰ نے اس سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلہ بنایا پھر اس میں جان ڈال دی اس طرح سب سے پہلے انسان کی تخلیق ہوئی۔ اس کے بعد برابر مادہ منویہ سے تخلیق ہو رہی ہے جس نے بے جان مٹی میں جان ڈال دی اور بے جان مادہ سے جاندار کو پیدا فرمادیا۔ اُسے قدرت ہے کہ وہ موت دینے کے بعد دوبارہ پیدا فرمادے جبکہ مٹی میں رَل مل چکے ہوں گے۔ پہلے رکوع کے ختم پر جو وَكَذٰلِكَ تُخَوِّجُوْنَ فرمایا تھا اس کی مزید تفہیم اس رکوع کی پہلی آیت میں فرمادی۔

**دوم** یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے جوڑے پیدا فرمادیے جو تم ہی میں سے ہیں یعنی عورت مرد جو آپس میں شرعی نکاح کے ذریعہ زوجین بن جاتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے ہے۔ اگر وہ بیویاں پیدا نہ فرماتا تو انسان کو زندگی گزارنا دو بھر ہو جاتا۔ بیویوں کے تذکرہ میں جو خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عورتیں جو تمہاری بیویاں ہیں یہ تمہاری ہی جنس سے ہیں اگر یہ ہم جنس نہ ہوتیں تو آلفت و اُلفت کے ساتھ زندگی نہ گذرتی اسی لئے لِتَتَكَوَّنُوْا اِلَيْهَا بھی فرمایا مطلب یہ ہے کہ ان بیویوں کی تخلیق تمہارے لئے ہے تاکہ تم اُن کے پاس جاؤ اور اُن سے تمہیں سکون حاصل ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیوی وہ ہونی چاہئے جس کے پاس جانے اور رہنے اور زندگی گزارنے سے سکون اور چین نصیب ہو۔ جب

میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے آرام و راحت کا خیال رکھتے ہیں تو اچھی طرح زندگی گذرتی ہے، جن عورتوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ نافرمانی کرتی ہیں، بات بات میں لڑتی جھگڑتی ہیں وہ مرد کے لئے وبال بن جاتی ہیں۔

مزید فرمایا: وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً (اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا فرمادی) یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے کہ میاں بیوی میں ایسا تعلق پیدا فرمادیتا ہے کہ صرف شرعی قانونی ہی نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے دل میں اُلفت بھی پیدا فرمادیتا ہے اور رحمت بھی یہ دونوں ایک دوسرے کے چاہنے والے اور ایک دوسرے کے خیر خواہ اور ہمدرد اور رحمت کا برتاؤ کرنے والے بن جاتے ہیں۔ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ شوہر کہاں کا بیوی کہاں کی، جب نکاح ہو جاتا ہے تو ایک دوسرے میں بے مثال محبت پیدا ہو جاتی ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: لَمْ تَرَ لِلْمُتَعَابِينَ مِثْلَ النِّكَاحِ (کہا اے مخاطب دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بڑھ کر تو نے کوئی چیز نہیں دیکھی) چونکہ نکاح والی زندگی شرعی زندگی ہے اور اس میں جذبات نفسانیہ کی تسکین کے علاوہ ایک دوسرے کے ساتھ نباہنے کے جذبات بھی ہوتے ہیں اور عموماً زندگی بھر ساتھ رہنے کی نیت ہوتی ہے اس لئے مومن مرد اور عورت آپس میں میل و محبت سے رہنے ہی کو ترجیح دیتے ہیں اور آپس میں اونچ نیچ کو نباہتے ہوئے زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ بعض مفسرین نے یہاں یہ نکتہ بیان فرمایا ہے کہ مَوَدَّةٌ کا تعلق جوانی کے زمانہ سے ہے جس میں دونوں کی خواہشات آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے پر مجبور کرتی ہیں اور رَحْمَةٌ کا تعلق بڑھاپے سے ہے جب جذبات شہوانیہ ختم ہو جاتے ہیں تو آپس میں صرف رحمت ہی کا تعلق رہ جاتا ہے اور طبعی طور پر ایک دوسرے پر رحم کھاتے ہیں کہ جس کے ساتھ اتنی لمبی زندگی گذاری ہے اُس کے اعزاز اور امراض کے زمانہ میں خدمت کرنا چاہئے اور اس کے کام آنا چاہئے۔ نکاح سے پہلے بھی یہ دیکھ لینا ہے کہ عورت میل و محبت کے ساتھ رہنے والی ہے یا نہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے: تَزَوَّجُوا الْوُدَّ وَالْوُدَّ فَإِنَّهُ مَكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ (ایسی عورت سے نکاح کرو جو محبت کے ساتھ گزارہ کرنے والی ہو اور جس سے اولاد زیادہ ہو کیونکہ میں دوسری امتوں کے مقابلہ میں تمہاری کثرت پر فخر کروں گا) (عورت کے خاندان کی عورتوں کے احوال جاننے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ خاندان کثیر الاولاد ہے کہ نہیں)

نکاح کے برخلاف جو نفسانی تعلق مردوں اور عورتوں میں پیدا ہو جاتا ہے جس کا مظاہرہ زنا کاری کی صورت میں ہوتا ہے اس سے آپس میں محبت پیدا نہیں ہوتی، ایک نفسانی اور مطلب برآری کا تعلق ہوتا ہے یہ تعلق کتنا رہتا ہے جہاں جس سے مطلب نکلتا دیکھا اُسی سے جوڑ لگالیا پھر جب جی چاہا تعلق توڑ دیا۔ جیسا کہ انگلینڈ میں اس کا عام مزاج اور رواج بن گیا ہے وہاں زنا کار مرد اور عورت جو آپس میں دوست (فرینڈ) بنتے ہیں وہ جھوٹی دوستی ہوتی ہے آپس میں محبت اور رحمت کے وہ جذبات نہیں ہوتے جو شرعی نکاح کی وجہ سے دلوں میں رچ بچ جاتے ہیں۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ مومن بندہ کو خوفِ خدا کی نعمت حاصل ہونے کے بعد نیک بیوی سے بڑھ کر کوئی نعمت حاصل نہیں ہوئی اگر اس بیوی کو حکم دے تو فرمانبرداری کرے اور اس کی طرف دیکھے تو اُسے خوش کرے اور اگر وہ اس سے متعلق کوئی قسم کھا بیٹھے تو اُسے قسم میں سچا کر دے (ایسا معاملہ نہ کرے جس سے اُس کی قسم ٹوٹ جائے) اور اگر شوہر کہیں چلا جائے تو اپنی جان میں اور اس کے مال میں اس کی خیر خواہی کرے (یعنی اس کی خیانت نہ کرے) مرد کو کبھی



چاہئے کہ نباہنے اور آرام پہنچانے کی فکر رکھے اگر کوئی بات ناگوار ہو تو اُسے ٹال دے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مومن مرد اپنی مومن بیوی سے بغض نہ رکھے اگر اس کی کوئی خصلت ناگوار ہوگی تو دوسری خصلت پسند آ جائے گی۔ (رواہ مسلم)

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْتَلِفُونَ (بلاشبہ ان میں اُن لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو فکر کرتے ہیں) یعنی میاں بیوی کے مذکورہ تعلق کے مختلف پہلوؤں پر اور ان سے حاصل ہونے والے دینی اور دنیاوی مقاصد پر نظر کی جائے تو پہلے سے نشانیاں سمجھ میں آ سکتی ہیں۔

**سوم** آسمان اور زمین کی تخلیق کا اور **چهارم** انسانوں کی بولیوں اور رنگتوں کا تذکرہ فرمایا اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ آسمان و زمین کی تخلیق کا دیگر آیات میں بھی تذکرہ ہے ان دونوں کا وجود سب کے سامنے عیاں ہے، ظاہر ہے آسمان اور زمین بڑی چیزیں ہیں بنی آدم آسمان کے نیچے رہتے ہیں زمین کے فرش پر بستے ہیں۔ انسانوں کی زبانوں کا مختلف ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیمہ کا مظاہرہ ہے انسانوں کو بولنے کی صفت سے محض فرمانا اور اُسے الفاظ و کلمات سکھانا اور بات کرنے کی قوت اور استعداد عطا فرمانا یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے اور اس میں قدرت الہیہ کا مظاہرہ بھی ہے جس کسی کو گونگانا دیا وہ بول نہیں سکتا اور جس کسی کو بولنے کی قوت دی ہے وہ حروف اور کلمات کی ادائیگی میں خود مختار نہیں حروف کے جو مخارج اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمادیئے ہیں انسان انہی مخارج سے حروف ادا کرنے پر مجبور ہے۔ ب دونوں ہونٹوں کے ملنے سے ادا ہوتی ہے اور میم کا مخرج بھی یہی ہے لیکن ب بڑی ہے اور میم بحری ہے (اسے اصحاب تجوید جانتے ہیں) ایک کو دوسرے کی جگہ سے ادا نہیں کر سکتے جب ب اور میم کا یہ حال ہے جو بہت زیادہ قریب المخرج ہیں (بلکہ دونوں کا مخرج ایک ہی بتایا جاتا ہے تو ب کو جیم کے مخرج سے اور جیم کو ح کے مخرج سے کیسے ادا کر سکتے ہیں)

پھر اللہ تعالیٰ نے جو قوت گویائی عطا فرمائی ہے یہ مختلف لغات میں اور بے شمار بولیوں میں مٹی ہوئی ہیں، مشرق سے مغرب تک اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کتنی زبانیں ہیں ہر زبان کے لغات علیحدہ ہیں طرز تکلم مختلف ہے کسی زبان میں مضاف الیہ پہلے بولا جاتا ہے اور کسی زبان میں مضاف پہلے ہوتا ہے، بعض زبانوں میں مذکر مؤنث کے لئے ایک ہی فعل ہے (مثلاً فارسی میں) اور بعض زبانوں میں تشبیہ کا صیغہ الگ ہے اور جمع کا صیغہ اس سے مختلف ہے، بعض زبانوں میں وہ حروف ہیں جو دوسری زبانوں میں نہیں ہیں مثلاً ص اور ظ اور ق اور ذ اور ث عربی زبان میں ہیں اور کھ اور گھ ہندی زبان میں ہیں جو دوسری زبانوں میں نہیں ہیں اور بری زبان میں را نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بات بھی ہے کہ جو حرف جس زبان کا ہے اس کے علاوہ دوسری زبان والے آدمی کو اس کا بولنا مشکل ہو جاتا ہے بلکہ بہت سے لوگ محنت کرنے پر بھی نہیں بول سکتے۔ ان امور کا برابر مظاہرہ ہوتا رہتا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بھی مظاہرہ ہے اور اس کی نعمت کا بھی اور انسانوں کے عاجز ہونے کا بھی۔

پھر یہ بات بھی ہے کہ کلمات اور لغات تو مختلف ہیں لیکن لہجہ بھی مختلف ہے آوازیں بھی مختلف ہیں، مختلف علاقوں کے لوگ مختلف لہجہ میں بات کرتے ہیں بات سننے سے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں شخص فلاں علاقہ کا آدمی ہے یا فلاں نسب و نسل سے تعلق رکھتا ہے پھر مردوں کی آواز الگ اور عورتوں کی آواز جدا، بچوں کی آواز علیحدہ، پھر ہر فرد ہر شخص کی

آواز علیحدہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی نشانیاں ہیں۔

زبانوں کا اختلاف بیان فرمانے کے بعد رنگتوں کا اختلاف بیان فرمایا، سارے انسانوں کی صورتیں اس اعتبار سے تو ایک ہی ہیں کہ ہر شخص کے چہرہ پر ناک ہے اور ناک کے اوپر دو آنکھیں ہیں اور ناک کے نیچے منہ ہے اور اس کے اندر دانت ہیں جو ہونٹوں کے کھولنے سے نظر آتے ہیں، لیکن صورتوں میں اتنا اختلاف ہے کہ نسب و نسل کے اعتبار سے بھی صورتیں مختلف ہیں اور علاقوں کے اعتبار سے بھی مردانہ صورتیں علیحدہ ہیں اور زنانہ صورتیں الگ اور باہمی امتیاز بھی ہے ہر شخص اور ہر فرد کی صورت جدا ہے یہ تو ہوا صورتوں کی بنیادوں کا اختلاف، پھر ان صورتوں کا مزید اختلاف رنگوں کے اعتبار سے بھی ہے کسی کا رنگ کالا ہے کسی کا گورا ہے پھر ان میں بھی تفاوت ہے۔ یہ الوان و اشکال کا فرق صرف اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے ہے۔ آیت کے ختم پر فرمایا: **إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ** (بلاشبہ اس میں جاننے والوں کے لئے نشانیاں ہیں)

**پنجم اور ششم:** السنہ اور الوان کی نعمت کا تذکرہ فرمانے کے بعد انسانوں کے سونے اور رزق تلاش کرنے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ بات یہ ہے کہ انسانوں کا سونا اور سونے کے لئے مجبور ہونا اور نیند کا آجانا اور آرام پانا جو عموماً رات کو ہوتا ہے اور بہت سے افراد دن میں بھی سو جاتے ہیں خاص کر جنہیں قیلولہ کی عادت ہوتی ہے، یہ سونا اور آرام پانا سب اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی ہے اور اس کی قدرت کی نشانی بھی، انسان بعض مرتبہ سونا نہیں چاہتا لیکن نیند کا غلبہ اسے سلا ہی دیتا ہے اور بہت مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ سونے کی نیت سے لیٹا، دماغ تھکا ہوا ہے جسم تھکن سے بے جان ہو رہا ہے آنکھیں میچتا ہے، کروٹیں بدلتا ہے پوری رات گزر جاتی ہے لیکن نیند نہیں آتی اللہ تعالیٰ ہی چاہتا ہے تو سلا دیتا ہے اور وہی چاہتا ہے تو جگا دیتا ہے۔ اسی لئے تو سو کر اٹھنے کی دعا میں دونوں نعمتوں کی یاد دہانی کرائی گئی ہے اور نیند چونکہ موت کی بہن ہے اس لئے اسے موت سے تعبیر فرمایا ہے۔ سو کر اٹھنے کی دعا یہ ہے: **اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَحْیَاَنَا بَعْدَ مَا مَاتْنَا وَ اَلِیْہِ النُّشُورُ** (سب تعریف اللہ کیلئے ہے جس نے ہمیں موت دے کر زندگی بخش دی اور اسی کی طرف زندہ ہو کر قبروں سے نکل کر جانا ہے) کیونکہ بہت سے لوگ رات میں بھی کسب کرتے ہیں اور رزق تلاش کرتے ہیں اس لئے **مَنَامُکُمْ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ وَ اَبْنَعَاکُمْ فِیْہِمْ فَضْلَہُ** فرمایا۔ جس طرح دن میں بھی سونا ہو جاتا ہے گوعومی طور پر سونے کے لئے رات ہی کو اختیار کیا جاتا ہے اسی طرح رات میں بھی تحصیل رزق کی صورتیں بن جاتی ہیں الفاظ کے عموم نے دو باتیں بنا دی ہیں۔

دن کا نکلنا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور رزق تلاش کرنے کے قابل ہونا بھی اس کا انعام ہے اور ان سب چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں آدمی نہ سونے میں مختار ہے نہ جاگنے میں نہ رزق کمانے کے لئے گھر سے باہر نکلنے میں اللہ تعالیٰ ہی کی مشیت کا ارادہ ہو تو یہ سب چیزیں وجود میں آتی ہیں آخر میں فرمایا: **إِنَّ فِیْ ذٰلِکَ لَآیَاتٍ لِّقَوٰمٍ یَّسْتَعُوْنَ** (بلاشبہ اس میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں)

**ہفتم و ہشتم:** بجلی کے چمکنے اور آسمان سے پانی نازل فرمانے اور اس کے ذریعہ زمین کو زندہ فرمانے کا تذکرہ فرمایا۔ جب بجلی چمکتی ہے تو انسان ڈرتے بھی ہیں اور بارش ہونے کی امید بھی رکھتے ہیں، کیونکہ عام طور پر بجلی چمکنے کے بعد بارش ہو جاتی ہے اور جب بارش ہو جاتی ہے تو مردہ زمین میں زندگی آ جاتی ہے، زمین سرسبز ہو جاتی ہے اور کھیتیاں لہلہانے لگتی ہیں، ان سب چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، عقلمندوں کو چاہئے کہ اس میں غور کریں اور سوچیں، بجلی چمکنے

خوف و ہراس طاری ہوا بارش کی امید بندھی پانی برسا زمین سرسبز ہوئی یہ سب کیسے ہوا؟ کس کی قدرت سے ہوا؟ إِنْ فِي ذَلِكَ  
لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (بلاشبہ اس میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں) اگر غور کریں گے تو یہی سمجھ  
میں آئے گا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مشیت اور ارادہ سے ہوا۔

**نہم اور دہم:** یہ فرمایا کہ آسمان اور زمین اسی کے حکم سے قائم ہیں۔ تین آیات پہلے آسمان اور زمین کے پیدا  
فرمانے کا تذکرہ تھا اور اس آیت کریمہ میں آسمان اور زمین کی بقا کا تذکرہ ہے جب تک ان کے باقی رکھنے کا اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے  
اس وقت تک باقی رہیں گے اور جب قیامت کے دن ان کا حال بدلنے کا ارادہ ہوگا تو اس وقت ان کی حالت بدل جائے گی  
آسمان پھٹ پڑے گا اور زمین میں زلزلہ آجائے گا آسمان کو اپنی مقررہ جگہ پر اور موجودہ حالت پر قائم رکھنا اور زمین کو اس کی  
مقررہ جگہ پر اور موجودہ حالت پر باقی رکھنا یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے ہے اس میں کسی اور کا کچھ بھی کوئی دخل نہیں۔ سورۃ فاطر  
میں فرمایا: إِنَّ اللَّهَ يُصَوِّرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَرُوءَا وَكُنَّ نَارًا كَانَتْ أَفْئِدَتُهُنَّ مُحِيطًا بِمَا فِي بَنَانِ (بلاشبہ اللہ آسمان اور زمین کو اس  
سے روکے ہوئے ہے کہ وہ اپنی جگہ سے نہیں اور اگر وہ اپنی جگہ سے نہیں تو اس کے علاوہ کوئی بھی انہیں روکنے والا نہیں ہے)

یہ آسمان قائم ہے اس کے نیچے جیتے لوگ ہیں زمین کے اوپر بستے ہیں اس کے بقا کی اللہ تعالیٰ کے علم میں ایک مدت  
مقرر ہے وہ جب تک اس دنیا کو باقی رکھے گا باقی رہے گی جب فنا کرنا چاہے گا فنا ہو جائے گی صور پھونکا جائے گا اللہ تعالیٰ  
کا بلاوا ہوگا قبروں سے نکل کھڑے ہونگے اور حساب کے میدان میں جمع ہو جائیں گے اسی کو فرمایا: فَإِذَا دُاعُوا لَكَ دَعْوَةُ  
حَرْنِ الْأَرْضِ إِذَا اتَّخَذَتُ خُجُجُونَ (پھر جب وہ تمہیں بلائے گا زمین سے اچانک تم نکل آؤ گے) پھر فرمایا: وَلَا مَنْ فِي  
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهَ كَافٍ (آسمانوں میں اور زمین میں جو بھی کچھ ہے سب اللہ تعالیٰ ہی کی مخلوق ہے اور سب اس کے  
حکم کے تابع ہیں) نگوینی طور پر وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے)

آخری آیت میں ابتداء اور اعادہ کا تذکرہ فرمایا وَهُوَ الَّذِي بَيَّنَّ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ (اور وہی ہے جو پہلی بار پیدا فرماتا  
ہے پھر وہی دوبارہ زندہ فرمائے گا) وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ (اور اسے دوبارہ پیدا فرمانا پہلی بار پیدا فرمانے کے بہ نسبت زیادہ  
آسان ہے) یہ لوگوں کی سمجھ کے اعتبار سے فرمایا ہے کیونکہ لوگ اس بات کو جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ کسی چیز کا دوبارہ وجود  
میں لانے کے اعتبار سے زیادہ آسان ہوتا ہے۔

اسی لئے حدیث قدسی میں فرمایا: فَمَا تَكْذِيبُهُ إِيَّاي فَقَوْلُهُ لَنْ يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ  
بَاهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ أَعَادَتِهِ (ابن آدم یوں کہہ کر مجھے جھٹلاتا ہے کہ اللہ نے جو پہلی بار مجھے پیدا کیا تھا اس کے بعد مجھے دوبارہ  
ہرگز پیدا نہ فرمائے گا حالانکہ میرے لئے پہلی بار پیدا کرنا دوسری بار پیدا کرنے سے زیادہ آسان ہے) یعنی جو قدرت  
ابتداء پیدا کرنے پر ہے وہی دوبارہ پیدا کرنے پر ہے اس کے لئے دونوں برابر ہیں (رواہ البخاری) هَذَا إِذَا أُرِيدَ بَاهْوَنَ  
مَا يَذَلُّ عَلَيْهِ اسْمُ التَّفْضِيلِ (قال صاحب الروح وروی الزجاج عن أبي عبيدة و كثير من اهل اللغة ان  
(أهون) ههنا بمعنى هين وروی ذلك عن ابن عباس والربيع و كذا هو في مصحف عبد الله۔) (یہ اس  
وقت ہے جبکہ یہاں أَهْوَنَ کو اسم تفصیل کا صیغہ سمجھا جائے تفسیر روح المعانی والے کہتے ہیں زجاج نے ابو عبیدہ اور بہت  
سارے اہل لغت سے روایت کیا ہے کہ یہاں أَهْوَنَ ہین کے معنی میں ہے اور یہی بات حضرت عبد اللہ بن عباسؓ اور زجاجؓ

سے بھی مروی ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے مصنف میں بھی اسی طرح تھا)

پھر فرمایا وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى (اور آسمانوں اور زمین میں اس کی شان اعلیٰ ہے) یعنی آسمان اور زمین کے رہنے والے جانتے ہیں اور اس کا یہ وصف بیان کرتے ہیں کہ اس کی شان سب سے اعلیٰ و ارفع ہے وہ صفات کمال سے متصف ہے اس کی صفت قدرت بھی عام ہے اور حکمت بھی تام ہے قَالَ صَاحِبُ الرُّوحِ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مُتَعَلِّقٌ بِمُضْمُونِ الْجُمْلَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ عَلَىٰ مَعْنَىٰ أَنَّهُ سَبْحَانَهُ وَقَدْ وَصَفَ بِذَلِكَ وَعُرفَ بِهِ فِيهِمَا عَلَىٰ أَلْسِنَةِ الْخَلَائِقِ وَالسَّنَةِ الدَّلَائِلُ: (تفسیر روح المعانی کے مصنف علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فِی السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ پچھلے جملہ کے مضمون سے متعلق ہے اس معنی میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان صفات کے آسمانوں اور زمینوں میں اسی وصف کے ساتھ جانا پہچانا جاتا ہے مخلوقات کی زبانوں پر بھی یہی ہے اور دلائل کی زبان سے بھی) وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (اور وہ عزت اور غلبہ والا ہے اس کی بڑی قدرت ہے اور وہ حکمت والا بھی ہے) قیامت واقع کرنے اور دوبارہ پیدا فرمانے میں جو تاخیر ہے وہ اس کی حکمت ہے وہ اس کی حکمت کے موافق ہے۔

ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِي

اللہ نے تمہارے لئے ایک مثال بیان فرمائی جو تمہارے نفسوں کے اندر سے ہے جن کے تم مالک ہو کیا ان میں سے کوئی اس مالک میں شریک ہے

مَا رَزَقْنَكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ

جو ہم نے تمہیں دیا کہ وہ اور تم اس میں برابر ہو تم ان سے اسی طرح ڈرتے ہو جیسا اپنے نفسوں سے ڈرتے ہو ہم اسی طرح آیات کو بیان کرتے ہیں

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُلِّ قَوْمٍ مَّثَلًا فَمِنْهُمْ مَّنْ يَعْقِلُونَ ۖ بَلْ أَتَىٰ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۖ بَلْ أَتَىٰ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۖ بَلْ أَتَىٰ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۖ

ان لوگوں کے لئے جو عقل رکھتے ہیں۔ بلکہ بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے ظلم کیا وہ بغیر علم کے اپنی خواہشوں کا اتباع کرتے ہیں سو جسے اللہ گمراہ کر دے

مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نَّاصِرِينَ ۚ

اُسے کون ہدایت دے گا اور کوئی بھی اُن کے لئے مددگار نہ ہوگا۔

## ایک خاص مثال سے شرک کی تردید اور توحید کا اثبات

**تفسیر:** مشرکین جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مخلوق کو شریک کرتے ہیں اُن سے اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر ایک سوال فرمایا اور وہ یہ کہ تم لوگوں کو ہم نے مال دیا ہے اس مال میں تمہارے غلام اور باندیاں بھی ہیں تم ان کے مالک ہو۔ مال تو تمہارے پاس غلام باندیوں کے علاوہ بھی ہے لیکن غلاموں اور باندیوں کے پاس سمجھ ہے کیونکہ وہ انسان ہیں ان سے تم خدمت لیتے ہو دوسرے مال کے اٹھانے اور رکھنے اور خرچ کرنے میں انہیں استعمال کرتے ہو ان غلاموں اور باندیوں سے کام تو لیتے ہو لیکن تم نے انہیں اپنے مالوں میں شریک تو نہیں کیا؟ اگر تم انہیں اپنے مالوں میں شریک کر لیتے تو یہ بھی اختیارات میں تمہارے برابر ہو جاتے اور تم سے پوچھے بغیر خرچ کرتے اور جب وہ شریک ہو جاتے تو تم ان سے اسی

طرح خوف کھاتے جیسے اپنے شرکاء سے اعتراض کا اندیشہ رکھتے ہو اور انہیں خوش کر کے چلتے ہو اور باوجود اپنی ذاتی شرکت کے اپنے شرکاء سے دریافت کر کے اور مشورہ لے کر تصرف کرتے ہو۔

جب تمہارے غلام تمہارے مالوں میں اور مال خرچ کرنے کے اختیار میں شریک نہیں جو تمہاری طرح کی مخلوق ہیں تو وہ جو تم نے اللہ کے سوا معبود بنا رکھے ہیں اُن کو تم اللہ تعالیٰ کی صفت خاص یعنی معبودیت میں شریک کرتے ہو؟ وہ تو اللہ کی مخلوق ہیں اپنے مالوں میں تو تم اپنے غلاموں کو شریک کرنے کو تیار نہیں اور عبادت میں تم نے مخلوق کو خالق کے ساتھ شریک کر دیا یہ کیسی بھونڈی بات ہے اور اُلٹی سمجھ ہے۔ كَذَلِكَ نَقُصِّلُ الذِّلَّةَ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (جو لوگ سمجھتے ہیں اور اپنی عقل کو کام میں لاتے ہیں ہم اسی طرح ان کے لئے واضح طور پر آیات بیان کرتے ہیں) بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ (الآيَةِ) جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا آیات میں غور نہ کیا یہ لوگ بغیر علم کے جہالت کے ساتھ اپنی اہواء یعنی نفس کی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے جو جی میں آیا اُسی کو معبود بنالیا حق اور حقیقت کی طرف متوجہ نہ ہوئے جب گمراہی کو قصد اور ارادۂ اختیار کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں گمراہی میں چھوڑ دیا۔ سو وہ کون ہے جو اُسے ہدایت دے جسے اللہ نے گمراہ کر دیا۔ جب اس گمراہی پر عذاب ہونے لگے گا تو کوئی بھی مددگار اور عذاب سے چھڑانے والا نہ ملے گا۔

**فَاقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ**

آپ ایک طرف ہو کر اسی دین کی طرف اپنا رخ رکھئے اللہ کی دی ہوئی قابلیت کا اتباع کیجئے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا فرمایا ہے اللہ کی

**ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا**

تخلیق میں تبدیل نہیں ہے یہ دین قیّم ہے اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اللہ کی طرف رجوع ہو کر اس کی فطرت کا اتباع کرو اور اس سے ڈرو۔

**الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا كُلُّ حِزْبٍ**

اور نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور مختلف گروہ ہو گئے ہر گروہ

**يُمَاكَدُهُمْ فِرْحُونٌ ۝**

اس چیز پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔

**فَاقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا**

**تفسیر:** یہ ماقبل کے مضمون پر تفریع ہے بظاہر آنحضرت ﷺ کو خطاب ہے لیکن مخاطب سب ہی انسان ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب شرک کی مذمت سامنے آگئی تو جو لوگ موحد ہیں صحیح راستہ پر ہیں وہ سیدھے راستہ پر ہی قائم رہیں اور اپنا رخ دین قیّم کی طرف رکھیں اور برابر اسی پر جمے رہیں اور تمام دینوں سے ہٹ کر یکسو ہو کر اسی دین میں لگے رہیں جو دین اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے یعنی دین توحید جس پر اُس نے اپنے بندوں کو پیدا فرمایا ہے اور جو لوگ کافر و شرک ہیں وہ بھی اسی دین پر آ جائیں۔

فَطَرَتُ اللّٰهُ سے کیا مراد ہے؟ بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے دین اسلام مراد ہے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے دین اسلام قبول کرنے کی قابلیت مراد ہے ترجمہ میں اسی کو اختیار کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ اُسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی (آتش پرست) بنا دیتے ہیں جیسا کہ چوپایہ کا بچہ بالکل صحیح سالم پیدا ہوتا ہے کیا تم اس میں دیکھتے ہو کہ اس کا کوئی حصہ کٹا ہوا ہو؟ اس کے بعد آپ نے یہی آیت فَطَرَتُ اللّٰهُ الَّذِیْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْہَا لَا تَبْدِیْلَ لِحُکْمِ اللّٰهِ ذٰلِکَ الَّذِیْ یُنِیُّ الْقَیْمَہُ تلاوت فرمائی۔ (رواہ البخاری و مسلم)

معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں قبول حق کی صلاحیت اور قابلیت رکھی ہے یہ قابلیت ہوش اختیار کرنے سے لے کر بوڑھا ہو کر مرنے تک باقی رہتی ہے۔ اگر انسان اپنے ماں باپ یا معاشرہ کے ماحول میں کافر و مشرک ہو گیا ہو اگر وہ پھر اپنی عقل کو کام میں لائے اور کسی دنیاوی رکاوٹ سے متاثر نہ ہو تو وہ ضرور حق کو قبول کر لے گا اور دین حق پر آ جائے گا۔

مندرجہ بالا تشریح سے لَا تَبْدِیْلَ لِحُکْمِ اللّٰهِ کا مطلب بھی واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر جو انسان میں دین حق پر غور کرنے کی استعداد رکھی ہے وہ نہیں بدلتی۔ کیسا ہی کافر یا مشرک ہو اگر اپنی عقل سے لے گا اور غور و فکر کرے گا تو اسے دین اسلام قبول کرنے کی طرف توجہ ہو ہی جائے گی اگر غور و فکر کی طرف متوجہ نہ ہو اور حق سے اعراض کرتا رہے تو یہ دوسری بات ہے۔

حضرت حکیم الامت قدس سرہ نے لَا تَبْدِیْلَ لِحُکْمِ اللّٰهِ کو نبی کے معنی میں لیا ہے (گو وہ بظاہر نفی ہے) اور ترجمہ یوں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیز کو جس پر اس نے تمام آدمیوں کو پیدا کیا ہے بدلنا نہ چاہئے اگر یہ معنی لئے جائیں تو اس سے ہر اُس چیز کو ممانعت ثابت ہو گئی جس سے دینی ماحول خراب ہوتا ہو مثلاً طحیروں اور زندیقوں کی کتابیں پڑھنا اور اُن کی مجلسوں میں اٹھنا بیٹھنا اور اُن کے درس میں جانا کیونکہ ان چیزوں سے قبول حق کی استعداد کمزور ہو جاتی ہے اور پھر انسان طحیروں اور زندیقوں کے ہی گن گانے لگتا ہے۔ ذٰلِکَ الَّذِیْ یُنِیُّ الْقَیْمَہُ (یہ دین قیم ہے سیدھا راستہ ہے) وَلٰکِنْ اَکْثَرُ النَّاسِ لَا یَعْلَمُوْنَ (اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے) غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے دُور بھاگتے ہیں۔ مُنِیْنِیْنَ اِلَیْہِ (اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے فطرت کا اتباع کرو) وَالْعَوَہُ (اور اللہ سے ڈرو) وَاکْفُوا الصَّلٰوۃَ (اور نماز قائم کرو) وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ (اور مشرکین میں سے مت ہو جاؤ) الَّذِیْنَ فَوَّضُوْا دِیْنَہُمْ وَکَانَوْا شَیْعًا (جنہوں نے اپنے دین میں پھوٹ ڈالی اور جو دین اختیار کیا اُسے ٹکڑے ٹکڑے کیا) دین حق تو ہمیشہ سے ایک ہی ہے اس کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے جو لوگ اسے چھوڑتے ہیں اُن کے سامنے مختلف راہیں ہوتی ہیں ان راہوں میں سے کسی راہ کو اختیار کر لیتے ہیں اگر حق پر رہتے تو سب ایک راہ پر ہوتے۔ کُلٌّ حِزْبٌ اِلَّا کُلٌّ یُّؤْمِنُ فَرِحُوْنَ (ہر جماعت اُس سے خوش ہے جو اُن کے پاس ہے) حالانکہ ان باطل والوں میں سے کسی کی راہ بھی حق نہیں ہے اور اگر اللہ کے بھیجے ہوئے دین پر ہوتے تو افتراق بھی نہ ہوتا اور اللہ کے دین پر ہی خوش اور نازاں ہوتے۔

شاید یہاں کوئی یہ سوال کرے کہ مسلمانوں میں بھی تو بہت سے فرقے ہیں؟ حقیقت میں یہ فرقے اسلام سے تعلق رکھنے والے نہیں ہیں اسلام سے بٹے تو یہ فرقے بنے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اور اس کے رسول کریم ﷺ کی سنت کو سامنے رکھ کر چلتے ہیں سب آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں جیسا کہ چاروں مذاہب کے مقلدین ہیں۔ جو اشخاص قرآن و

حدیث کو چھوڑتے گئے اُن کے فرقے الگ الگ بنتے گئے اگرچہ دھوکہ دینے کے لئے قرآن وحدیث کا دم بھرتے ہیں۔

وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاهُمْ مِنْهُ رَحْمَةٌ

اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کی طرف رجوع ہو کر پھر جب اللہ انہیں اپنی رحمت کا

إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ۚ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَسْعُوا فُسُوفَ تَعْلَمُونَ ۝

کچھ مزہ چکھاتا ہے تو اچانک ان میں سے بعض لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ وہ اس کے سحر ہو جائیں جو ہم نے انہیں دیا ہے سو مزے اڑاؤ

أَمْ أُنْزِلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ۚ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً

عقرب جان لو گے کیا ہم نے ان پر کوئی سنا نازل کی ہے سو وہ ان سے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو وہ شرک کرتے ہیں اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا

فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَوْمَ قَدَمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ۝

کچھ مزہ چکھاتے ہیں تو اس پر خوش ہوتے ہیں اور اگر ان کے اعمال بد کی وجہ سے انہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے تو اچانک وہ ناامید ہو جاتے ہیں۔

## رحمت اور رحمت کے بارے میں انسان کا ایک خاص مزاج

**تفسیر:** ان آیات میں اوّل تو انسانوں کی ایک عادت کا تذکرہ فرمایا ہے اور وہ یہ ہے کہ ان پر جب کوئی مصیبت

آتی ہے اور کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور پوری توجہ کے ساتھ اُسے پکارتے ہیں کہ یہ

مصیبت دور ہو جائے یہ تو مصیبت کے وقت ان کا عمل ہوتا ہے پھر جب اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کچھ رحمت سے نوازتا ہے تو

اچانک اُن میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے جس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی

نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ ان لوگوں سے خطاب فرمایا: فَتَسْعُوا فُسُوفَ تَعْلَمُونَ (کہ تم مزے اڑاؤ عقرب کفر و

شرک اور ناشکری کا انجام دیکھ لو گے) یہ مضمون سورہ عنکبوت کے ختم کے قریب بھی گذر چکا ہے۔

یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں خود ان کے نزدیک بھی ان کے باطل معبود کسی نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں اگر ان

باطل معبودوں سے انہیں کوئی نفع ہوتا یا دکھ درد میں کام آنے والے ہوتے تو مصیبت کے وقت میں انہیں کیوں چھوڑ دیتے

اور صرف رب تعالیٰ شانہ ہی کی طرف کیوں متوجہ ہوتے۔ ان کی عقل خود یہ بتاتی ہے کہ غیر اللہ کی پرستش اور پوجا بالکل

حماقت ہے عقلی طور پر بھی باطل معبودوں کا باطل ہونا ان کی سمجھ میں آچکا ہے اور اس اعتبار سے بھی یہ لوگ باطل پر ہیں کہ

اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس کوئی سند نہیں آئی یعنی کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی جس نے شرک کرنا بتایا ہو یا ان کے

شرک کرنے کی تحسین کی ہو؟ یہ لوگ ہر اعتبار سے گمراہی میں ہیں۔ شرک کے درست ہونے کی نہ اُن کے پاس عقلی دلیل

ہے اور نہ خالق کائنات جل مجدہ کی طرف سے انہیں سند ملی ہے اسی کو فرمایا: أَمْ أُنْزِلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا (الآیہ)

پھر فرمایا: وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا (الآیہ) کہ جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت چکھادیتے ہیں تو اس پر خوش

ہوتے ہیں اور پھولے نہیں ساتے اُن کی یہ خوشی غفلت اور مستی کی حد تک پہنچ جاتی ہے اور نعمت دینے والے کو بھول جاتے ہیں



اور اُس کی نافرمانیوں میں لگ جاتے ہیں اسی خوشی اور مستی کے بارے میں اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ فرمایا۔ (بلاشبہ اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا) یہ تو ہوا رحمت الہی کے ساتھ انسان کا معاملہ ہے۔ اب اس کے مزاج کا دوسرا رخ یہ ہے کہ جب انہیں اُن کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچ جاتی ہے تو نا اُمید ہو کر اُس توڑ کر بیٹھے رہتے ہیں گویا کہ اب اُن کو کوئی نعمت نہ ملے گی اور کوئی خیر نہ پہنچے گی۔

اَوْ لَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ يَسْطُرُ الرَّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ ﴿۱﴾

کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ رزق پھیلا دیتا ہے جس کے لئے چاہے اور تنگ کر دیتا ہے بلاشبہ اس میں اُن لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں

فَاِنَّ ذَا الْقُرْبٰى حَقُّهُ وَالْمَسْكِيْنَ وَاَبْنَ السَّبِيْلِ ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ ﴿۲﴾

سوائے مخاطب تو رشتہ دار کو اس کا حق دے دے اور مسکین کو اور مسافر کو یہ اُن لوگوں کے لئے بہتر ہے جو اللہ کی رضا کے طالب ہیں

وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿۳﴾ وَمَا اَتَيْتُمْ مِّنْ رَّبٍّ اَلَيْزَبُوْا فِىْ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرِيْبُوْا

اور یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں اور جو بڑھنے والی چیز تم دو گے تاکہ وہ لوگوں کے مالوں میں شامل ہو کر بڑھ جائے سودہ

عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا اَتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ﴿۴﴾

اللہ کے نزدیک نہیں بڑھے گی اور جو بھی زکوٰۃ تم دو گے جس کے ذریعہ اللہ کی رضا چاہتے ہو سو یہ وہ لوگ ہیں جو بڑھانے والے ہیں اللہ

الَّذِىْ خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَسَقَكُمْ ثُمَّ يُبَيِّتُكُمْ ثُمَّ يُخَيِّكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَّنْ يَّفْعَلُ

وہی ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا پھر تمہیں رزق دیا پھر تمہیں موت دے گا پھر تمہیں زندہ فرمائے گا کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے

مِّنْ ذٰلِكُمْ مَّنْ شَيْءٍ سُبْحٰنَہٗ وَتَعَالٰی عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿۵﴾

جو اُن کاموں میں سے کچھ بھی کر سکے؟ اللہ ان کے شرک سے پاک ہے اور برتر ہے۔

**رشتہ دار، مسکین اور مسافر کو دینے کا حکم اللہ کی رضا میں خرچ کر نیکی فضیلت**

**تفسیر:** یہ چار آیات ہیں پہلی آیت میں تو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ شانہ اپنے بندوں کو رزق دیتا ہے اور رزق دینے میں وہ جس کو چاہتا ہے زیادہ رزق دیتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے رزق میں تنگی فرما دیتا ہے اور کھلی ہوئی بات ہے جو سب کے سامنے ہے اہل ایمان اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگوں کو تھوڑی سی محنت سے اور بعض لوگوں کو بلا محنت ہی میراث یا ہبہ کے ذریعہ بہت زیادہ مال مل جاتا ہے اور بعض لوگ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں طرح طرح کی تجارت میں ہاتھ ڈالتے ہیں بڑی بڑی اسکیمیں سوچتے ہیں لیکن ان کا اصل مال بھی ختم ہو جاتا ہے ایک شخص تجارت لے کر بیٹھتا ہے تھوڑا سا مال لگاتا ہے اُس کا مال خوب زیادہ ہو جاتا ہے یہ سب کچھ اللہ کی مشیت اور ارادہ سے ہوتا ہے۔ وہ اپنی حکمت سے جس کے لئے چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے اس میں

دونوں فریق کا امتحان بھی ہوتا ہے۔ مال والا مال کی کثرت کی وجہ سے احکام الہیہ سے غافل ہوا اور گناہوں میں لگ گیا تو امتحان میں نفل ہو گیا اور ناشکروں میں شمار ہو گیا اور جس پر رزق میں تنگی کی گئی اس پر صبر لازم ہے، جزع فزع نہ کرے، زبان سے بُرے کلمات نہ نکالے، تنگدستی کی وجہ سے احکام شرعیہ کی خلاف ورزی نہ کرے جو اس سے متعلق ہیں، کسب مال کے لئے حرام طریقے اختیار نہ کرے۔

دوسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ ذَا الْقُرْبَىٰ یعنی رشتہ داروں کو ان کا حق دے دو اور مسکینوں کو بھی دو اور مسافروں کو بھی۔ علماء تفسیر نے فرمایا ہے کہ اس سے صلہ رحمی کے طور پر خرچ کرنا اور نفلی صدقہ دنیا مراد ہے کیونکہ سورۃ الروم مکیہ ہے اور زکوٰۃ کی فرضیت مدینہ منورہ میں ہوئی تھی ان لوگوں پر اللہ کی رضا کے لئے خرچ کیا جائے اللہ کے لئے خرچ کریں گے تو یہ بہتر ہوگا، ریاکاری کے لئے خرچ نہ کریں اور جس کو مال دیں اُسے عمل سے یا قول سے تکلیف نہ پہنچائیں اور اس پر احسان نہ دھریں محض اللہ کی رضا کے لئے دیں اللہ سے ثواب لینے کی نیت رکھیں اسی کو فرمایا: ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللّٰهِ (یہ ان لوگوں کے لئے بہتر ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں) ذٰلِكَ هُمُ الْفٰطِرُونَ (اور یہی لوگ کامیاب ہیں)۔

ذَوِی الْقُرْبٰی اور یتامیٰ اور مَسٰكِیْن اور مُسَافِرِیْن پر خرچ کرنے کا ثواب کی قدر تفصیل سے سورۃ بقرہ کی آیت شریفہ لَیْسَ الْبِرُّ اَنْ تُولُوْا وُجُوْهُكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ کے ذیل میں اور سورۃ بنی اسرائیل کی آیت وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰی حَقَّكَ وَالْمَسْكِیْنَ وَابْنَ السَّبِیْلِ کے ذیل میں بھی بیان ہو چکا ہے۔ (انوار البیان جلد ۲) نیز اتفاق مال کے احکام و آداب کے بارے میں سورۃ بقرہ کے رکوع (۳۶) اور (۳۷) کی تفسیر بھی دیکھ لی جائے۔ (انوار البیان ج ۲)

تیسری آیت میں فرمایا: وَمَا اَتَيْتُمْ مِنْ زَكٰیٰتٍ یُّوْبٰی فِیْ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا یُرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ (تم جو کچھ بڑھنے والی چیز دو گے تاکہ وہ لوگوں کے مالوں میں شامل ہو کر بڑھ جائے سودہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھے گی) پہلے یہ سمجھنا چاہئے کہ لفظ رِبُوْا اصل میں رِبُوْا ہے جس کا معنی زائد چیز کا ہے یہ فعل کے وزن پر ہے اس کا ماضی مضارع رَبٰی یُرْبُوْا ہے۔ لغت میں تو اس کا ترجمہ یہی ہے جو اوپر لکھا گیا ہے یعنی بڑھنے والی چیز پھر یہ لفظ عام طور سے سود کے لئے استعمال ہونے لگا جیسا کہ سورۃ بقرہ (رکوع ۳۸) میں کئی جگہ یہ لفظ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ مال چونکہ بڑھنے والی چیز ہے سلیقہ سے اُسے کاروبار میں لگایا جائے اور شرعی طریقہ کے مطابق خرچ کیا جائے تو اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اس لئے اس آیت بالا میں رَبٰیوَا سے تعبیر فرمایا۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس آیت میں سود لینے کی ممانعت بیان فرمائی ہے اور اس کی بے برکتی کو واضح فرمایا ہے اور مطلب یہ ہے کہ جب تم کسی کو قرض کے طور پر مال دو گے تاکہ وہ دوسروں کے مال میں شامل ہو کر زائد مال لے کر آئے تو اگرچہ تمہارے خیال میں اس سے مال میں اضافہ ہوا لیکن اللہ کے نزدیک اس میں کوئی اضافہ نہیں۔ اول تو سود لینے کی نیت سے دینا ہی حرام ہے پھر جو زائد مال مل گیا وہ بھی حرام ہے اور جو بظاہر زیادہ ہوا ہے وہ تمہاری نظروں میں زیادہ ہوا ہے۔ چونکہ یہ مال حلال نہیں ہے اس لئے قانون شرعی میں تمہارے لئے کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ یہ زائد مال کا واپس کرنا واجب ہے پھر اگر تم نے واپس نہ کیا تو وہ بے برکت ہوگا اور حرام خوری کا گناہ اپنی جگہ پر رہا۔ یہ تفسیر آیت کریمہ یَسْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوَا وَیُرِیْ الصَّدَقٰتِ کے مطابق ہے۔

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ اگرچہ سود

بہت ہو جائے اس کا انجام کمی ہی کی طرف ہوگا۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۲۳۶)

سود سے جو مال جمع ہوتا ہے اس سے اسباب معیشت تو جمع ہو جاتے ہیں لیکن سکون و اطمینان سلب ہو جاتا ہے سودی اموال ہلاک ہو جاتے ہیں، بینکوں کا دیوالیہ ہو جاتا ہے مالوں سے بھرنے ہوئے جہاز ڈوب جاتے ہیں، پھر اگر کسی سود خور کا مال دنیا میں ہلاک و برباد نہ ہوا تو آخرت میں تو پوری طرح بربادی ہے ہی وہاں تو یہ مال بالکل ہی کام نہ دے گا بلکہ دوزخ میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی کوئی شخص حرام مال کما کر صدقہ کرے گا تو وہ قبول نہ ہوگا اور جو کچھ اس میں سے خرچ کرے گا اس میں برکت نہ ہوگی اور اپنے پیچھے چھوڑ کر جائے گا تو وہ اس کے لئے دوزخ کی آگ میں لے جانے والا توشہ بنے گا۔ (رواہ احمد کما فی مشکوٰۃ ص ۲۳۲) مزید توجہ کے لئے سورہ بقرہ رکوع ۳۸ کی تفصیل کا مطالعہ کر لیا جائے۔ (انوار البیان ج ۱)

بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ آیت کریمہ میں وہ بخشش اور عطیہ مراد ہے جس میں دینے والے نے یہ نیت کی ہو کہ جسے میں بخشش کر رہا ہوں وہ مجھے اس سے زائد دے گا۔ اپنے کسی عزیز قریب کو یا کسی استاذ یا شیخ کو یا کسی دوست کو جو بھی کچھ پیش کیا جائے اس سے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہوتی چاہئے دوسری جانب سے مال ملنے کی نیت نہ رکھے اگر دوسری جانب سے مال ملنے کی نیت کی تو یہ اللہ کی رضا کے لئے خرچ کرنا نہ ہوا لہذا یہ مال اللہ کے نزدیک نہیں بڑھے گا اور اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ کیونکہ خرچ کئے ہوئے مال کا بڑھنا اسی مال کے ساتھ مخصوص ہے جو محض اللہ کی خوشنودی کے لئے خرچ کیا جائے۔ آیت کے الفاظ میں جو عموم ہے اس کے اعتبار سے یہ معنی اور مفہوم مراد لینا بھی صحیح ہے البتہ اتنی بات یاد رہے کہ ہدیہ دینے والے کو تو صرف اللہ کی رضا کے لئے دینا چاہئے لیکن جسے ہدیہ دیا گیا ہو اُسے چاہئے کہ ذہن میں رکھے کہ مجھے فلاں شخص نے ہدیہ دیا تھا پھر جب موقع دیکھے اس کا بدلہ دے دے لیکن اُسے نہ جتائے کہ یہ تمہارے ہدیہ کے بدلہ میں ہے اور جزاک اللہ کی دعا تو اُسی وقت دیدے جب کسی نے کچھ دیا ہو۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: مَنْ أَعْطَى عَطَاءً فَلَوْ جَدَّ فَلْيَجْزِ بِهِ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْتِ فَيَنْتِ فَقَدْ شَكَرَ وَمَنْ كَتَمَ فَقَدْ كَفَرَ (یعنی جسے بطور بخشش کچھ دیا جائے اور اُسے مقدور ہو تو اس کا بدلہ دے دے اور جسے بدلہ دینے کا مقدور نہ ہو وہ لوگوں کے سامنے بیان کر دے کہ فلاں شخص نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے جس نے اس کے احسان کو بیان کیا اس نے شکریہ ادا کر دیا اور جس نے پوشیدہ رکھا اُس نے ناشکری کی) (مشکوٰۃ المصابیح ص ۲۶۱) یہ تو ہدیہ لینے والے کی طرف سے ہونا چاہئے اور جو شخص ہدیہ دے اُسے مال زیادہ ملنے کی اُمید تو کیا شکریہ تک کی اُمید سے غافل ہو جانا چاہئے جیسا کہ سورہ البقرہ میں فرمایا: إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا تَكُونُوا (ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لئے کھلاتے ہیں ہم تم سے کوئی بدلہ یا شکریہ نہیں چاہتے)

رسول اللہ ﷺ ہدیہ قبول فرماتے تھے پھر اس کے بدلہ میں اس سے زیادہ دیتے تھے ایک اعرابی نے آپ ﷺ کو ایک جوان اونٹ ہدیہ دیا تھا تو آپ نے اُسے چھ جوان اونٹ عطا فرمائے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۲۶۱)

آیت کے ختم پر فرمایا: وَمَا إِلَهُكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا تَرْجُوا مِنْهُمْ شَيْئًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُغْضُوبُونَ (اور جو بھی تم زکوٰۃ دو گے جس سے اللہ کی رضا مقصود ہو تو ایسا عمل کرنے والے ہی بڑھانے والے ہیں) اس میں مفسرین نے لفظ زکوٰۃ سے صدقہ ناقلہ مراد لیا ہے (کیونکہ سورہ روم مکیہ ہے اور زکوٰۃ بمعنی معروف مدینہ منورہ میں فرض ہوئی تھی) چونکہ اللہ تعالیٰ کے لئے مال کا خرچ کرنا

نفس کے بخل سے پاک کرنے کے لئے بھی ہے اس لئے عام صدقات کو بھی زکوٰۃ سے تعبیر کر دیا جاتا ہے جیسا کہ نیک کام ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ مفروضہ کو بھی صدقہ سے تعبیر فرمایا ہے۔ (کَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ) آیت کریمہ میں یہ بتایا کہ تم جو کچھ بھی کوئی صدقہ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے دو گے اس میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ اس اضافہ کو لفظ الْمُضْعِفُونَ سے تعبیر فرمایا۔ یہ لفظ اِضْعَاف سے اسم فاعل کا صیغہ ہے جس کا مادہ ضَعَف ہے۔ ضَعَف عربی میں دو گنے کو کہتے ہیں اور اس کی جمع اِضْعَاف آتی ہے جب کوئی چیز بہت زیادہ بڑھ جائے اور چند در چند ہو جائے تو اُسے اِضْعَافًا مُّضَاعَفَةً کہا جاتا ہے۔ اس تشریح کو سامنے رکھ کر آیت کریمہ کا مطلب سمجھ لیں کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لئے کوئی صدقہ دے گا تو اس کا یہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے اور اس کا ثواب بڑھ کر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ تو عام قانون ہے مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَلِهَا (جو شخص ایک نیکی کرے اُس کے لئے دس گنا ہے) یہ قانون تو ہر نیکی کو شامل ہے اور اس سے زائد جس قدر بھی اللہ تعالیٰ چاہے بڑھا چڑھا کر ثواب عطا فرماتا ہے جسے سورہ بقرہ کی آیت کریمہ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ میں بیان فرمادیا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کیا تو اللہ تعالیٰ اُسے قبول فرمالیتا ہے پھر اُسے صدقہ دینے والے کے لئے بڑھا تا رہتا ہے جیسا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچہ کی تربیت کرتا رہتا ہو یہ صدقہ جو کھجور کے برابر کیا تھا بڑھتے بڑھتے پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ (رواہ البخاری) جب صدقہ دینے والے کو قیامت کے روز ثواب دیا جانے لگے گا تو اُسے اس تھوڑے سے صدقہ کا اتنا بڑا ثواب ملے گا جیسے اُس نے پہاڑ کے برابر صدقہ کیا ہو۔

چوتھی آیت میں پھر توحید کی طرف متوجہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا فرمایا ہے پھر تمہیں رزق دیا، اس رزق کو کھاتے پیتے ہو اور زندہ رہتے ہو پھر اس زندگی کے بعد تمہیں موت دے گا پھر زندہ فرمائے گا، اسی کی قدرت کے یہ سب مظاہرے ہیں اور وہی مستحق عبادت ہے وحدہ لا شریک ہے تم لوگوں نے جو اس کے لئے شریک بنا رکھے ہیں کیا ان میں سے کوئی ایسا ہے جسے ان چیزوں پر قدرت ہو؟ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی یہ کام نہیں کر سکتا جب اُس کے علاوہ کوئی بھی قدرت رکھنے والا نہیں ہے تو پھر عبادت میں دوسروں کو شریک کیوں کرتے ہو سُبْحَنَكَ وَعَلَى عِزَّتِكَ إِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الْوَاحِدُ (وہ ان کے شرک سے پاک ہے اور برتر ہے)

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا

ظاہر ہو گیا فساد خشکی میں اور دریا میں لوگوں کے اعمال کی وجہ سے تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے تاکہ وہ

لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ

لوگ باز آ جائیں آپ فرما دیجئے زمین میں چلو پھر دیکھو ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جو تم سے پہلے تھے اُن میں سے

كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ۝ فَأَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ

اکثر مشرک تھے۔ سوائے مخاطب تو اپنا دین قییم کی طرف رکھ اس دن کے آنے سے پہلے جس کیلئے اللہ کی طرف سے ٹہنا نہ ہوگا اس دن لوگ

مِنَ اللّٰهِ يُؤْمِنُ يَتَّصِدُ عُوقُنٌ ۝۱۲۸ مَنُ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۝۱۲۹ وَمَن عَمِلَ صَالِحًا فَلَا نَفْسَ لَهُ

جدا جدا ہو جائیں گے۔ جو شخص کفر اختیار کرے گا تو اس کا کفر اسی پر پڑے گا اور جو شخص نیک کام کرے گا سو ایسے لوگ اپنی ہی جانوں کے لئے

يَمْهَدُونَ ۝۱۳۰ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ۝۱۳۱

راہ ہموار کر رہے ہیں۔ تاکہ اللہ ان لوگوں کو اپنے فضل سے جزا دے جو ایمان لائے اور نیک عمل کئے بلاشبہ وہ کفر اختیار کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا

## لوگوں کے اعمال بد کی وجہ سے محروبر میں فساد ظاہر ہو گیا

**تفسیر:** اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا اور اُسے ایمان اور اعمال صالحہ اختیار کرنے کا حکم فرمایا امتحان کے لئے اس میں خیر و شر کے اپنانے کی قوت رکھ دی اس کے اندر ایسے جذبات ہیں جو اُسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی طرف کھینچتے ہیں اور شیطان بھی ساتھ لگا ہوا ہے وہ لوگوں کو ایمان سے اور اعمال صالحہ سے ہٹاتا ہے اور کفر اور شرک کی راہ پر ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ذریعہ یہ بتا دیا کہ کفر اور شرک اور برے اعمال کا نتیجہ بُرا ہے کفر اور شرک کی سزا دنیا میں بھی مل جاتی ہے اور آخرت میں بھی ملے گی اور کفر اور شرک کے علاوہ جو برے اعمال ہیں انکی سزا بھی دونوں جہاں میں مل سکتی ہے۔ انسانوں کا مزاج کچھ ایسا ہے کہ عموماً برائیوں کی طرف زیادہ ڈھلتے ہیں اور یہ بُرائیاں طرح طرح کی مصیبتوں کا سبب بن جاتی ہیں دنیا میں امن و امان قائم نہیں رہتا اور ایسے ایسے انقلاب آتے رہتے ہیں جن کی وجہ سے دنیا مصیبتوں کی آماجگاہ بنی رہتی ہے۔ آیت کریمہ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الدِّينِ وَالْبَعْثُ میں اسی مضمون کو بیان فرمایا ہے کہ خشکی (جس میں آبادیاں اور جنگل سب شامل ہیں) اور سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا آپس میں قتل و خون ہوتا اور قحط آتا ہے مہلک امراض کا عام ہو جانا نئے نئے امراض کا پیدا ہو جانا آندھیوں کا چلنا کھیتوں کو کیتروں کا کھا جانا اور زلزلوں کا آنا اور سخت سردی سے تباہ ہو جانا (جسے بعض علاقوں میں بالامارنا کہتے ہیں) اور اس طرح کی بہت سی مصیبتوں کا ظہور ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سزائیں دی جاتی ہیں تاکہ بندے ہوش میں آئیں کفر و شرک اور گناہوں کو چھوڑیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور یہ انسانوں کے پورے اعمال کی سزا نہیں ہے بلکہ بعض اعمال کی سزا ہے۔ اسی لئے فرمایا ہے: لِيُنْذِرَهُمْ بَعْضُ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے) اگر تمام اعمال پر گرفت کی جائے تو زمین پر کوئی بھی چلنے پھرنے والا زندہ نہ بچے۔ سورۃ فاطر میں فرمایا: وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهِيرهَا مَن دَابَّتْ وَ لٰكِن يُّؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى (اور اگر اللہ لوگوں کا مواخذہ فرمائے اُن کے اعمال کی وجہ سے تو زمین کی پشت پر کسی بھی چلنے پھرنے والے کو نہ چھوڑے اور لیکن وہ انہیں مقررہ عیاد تک مؤخر فرماتا ہے) اور سورۃ شوریٰ میں فرمایا: وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ۔ (اور جو کچھ تمہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے سو وہ تمہارے اعمال کے سبب سے ہے اور اللہ بہت سے اعمال کو معاف فرما دیتا ہے)۔

زمین کے خشک حصہ میں جو فساد اور بگاڑ ہے وہ تو نظروں کے سامنے ہے سمندر میں جو فساد ہے اس سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں تفسیر قرطبی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو سمندر

میں جو سپیاں ہیں اُن کا منہ کھل جاتا ہے اور جس پسی میں بارش کا قطرہ گر جائے وہ موتی بن جاتا ہے اور بارشیں انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے رک جاتی ہیں لہذا موتیوں کی پیدائش بھی کم ہو جاتی ہے اور یہ موتی جو انسانوں کے کام آتے ہیں اُن سے انسان محروم ہو جاتے ہیں۔

صاحب روح المعانی نے حضرت مجاہدؒ (تابعی) سے پوچھ لیا ہے کہ ظالم لوگ غریب کشتی والوں کی کشتیاں چھین لیتے تھے۔ آیت میں اس کو بیان فرمایا ہے۔ (اور یہ کشتی چھیننا بطور مثال کے ہے سمندر کی سطح پر کشتیوں اور جہازوں میں جو لوگوں پر ظلم ہوتا ہے، ٹیکس لئے جاتے ہیں اور ملکوں کی آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے جو گولہ باری ہوتی ہے، جہاز تباہ ہوتے ہیں، ہر فریق کے آدمی مرتے ہیں اور سامانوں سے بھرے ہوئے جہاز ڈوب دیئے جاتے ہیں یہ سب فساد فی البحر کے ذیل میں آتا ہے)

یاد رہے کہ آیت کریمہ میں عمومی فساد کا ذکر ہے جب گناہوں کی وجہ سے عمومی مصیبتیں آتی ہیں تو ان کی وجہ سے مومن اور کافر، نیک اور بد حتیٰ کہ جانور بھی متاثر ہوتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ ایک شخص یوں کہہ رہا ہے کہ ظالم شخص صرف اپنی ہی جان کو نقصان پہنچاتا ہے اس پر حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا کہ یہ بات نہیں ہے بلکہ دوسری مخلوق بھی اس سے متاثر ہوتی ہے یہاں تک کہ جہاڑی (ایک پرندہ کا نام ہے) بھی اپنے گھونسلہ میں ظالم کے ظلم کی وجہ سے ڈبلی ہو کر مر جاتی ہے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۳۶)

جب بارش نہ ہوگی تو زمین میں پانی کی بھی کمی ہوگی۔ بارش کا پانی جو جگہ جگہ ٹھہر جاتا ہے جس سے انسان اور جانور سب ہی پیتے ہیں وہ نہ ہوگا تو پیا سے مریں گے اور بارش نہ ہو سکی وجہ سے جب کھیتوں میں پیداوار نہ ہوگی تو انسان اور جانور سب ہی مصیبت میں پڑ جائیں گے۔

یاد رہے کہ آیت کریمہ میں اُن تکلیفوں کا ذکر نہیں ہے جو نیک بندوں کو ان کے گناہ معاف کرنے یا درجات بلند کرنے کے لئے پیش آتی ہیں۔ ان حضرات کو آلام و امراض سے تکلیف تو ہوتی ہے لیکن یہ اُن کے حق میں مفید ہوتی ہے اس لئے مصیبت نہیں رہتی۔ پھر یہ لوگ صبر کرتے ہیں اس کا بھی ثواب پاتے ہیں اور گناہوں پر متنبہ ہو کر توبہ و استغفار کی طرف متوجہ ہوتے ہیں لہذا یہ تکلیفیں ان پر بطور قہر نہیں ہوتیں ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور مہربانی ہوتی ہے اور صبر اور توبہ و استغفار کا مستقل ثواب ملتا ہے۔

پھر فرمایا: قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ (الآیۃ) کہ آپ اپنے مخاطبین یعنی مشرکین مکہ وغیرہم سے فرما دیجئے کہ تم زمین میں چل پھر کر دیکھ لو۔ تم سے پہلے جو قومیں تھیں اُن کا کیا انجام ہوا؟ ان لوگوں میں اکثر مشرک تھے ان لوگوں کے کفر اور شرک کی وجہ سے عام عذاب آیا اور ہلاک و برباد ہوئے اُن کے گھروں کے نشانات تمہارے سامنے ہیں چلو پھر دیکھو اور عبرت حاصل کرو۔ اس آیت میں جو کَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ فرمایا اس میں یہ بتا دیا کہ ان برباد ہونے والوں میں اکثر تو مشرکین تھے اور بعض ایسے تھے جو کفر کی دوستی انواع میں مبتلا تھے۔ اور اس میں اس طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ شرک کفر کی بدترین اقسام میں سے ہے اس کا وبال بہت بڑا ہے۔ اس کے لئے فرمایا کہ فَاقْصِرْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْغَيْرِ (الآیۃ) اے مخاطب! اپنا رخ دینِ قیم کی طرف رکھ لینی تو حید پر جمارہ اس سے پہلے کہ ایسا دن آجائے یعنی اللہ کی طرف سے عذاب والا دن آجائے اور اس عذاب کو ہٹایا نہ جائے گا (اس سے قیامت کا دن مراد ہے) اس دن لوگ متفرق یعنی جدا جدا ہو



جائیں گے نیک اعمال والے الگ اور بُرے اعمال والے الگ ہوں گے۔

پھر فرمایا: **مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ** (کہ جو شخص کفر کرے اس کا وبال اسی پر پڑے گا) **وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا نُفْسِهِمْ** (اور جو شخص نیک کام کرے سو ایسے لوگ اپنی ہی جانوں کے لئے راہ ہموار کر رہے ہیں) یعنی بیٹگی سامان کر رہے ہیں۔ **لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ** (تا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنے فضل سے جزا دے جو ایمان لائے اور نیک عمل کئے) اللہ تعالیٰ کے اس فضل سے کافر محروم ہوں گے **إِنَّمَا لَا يَجِبُ الْكَافِرِينَ** (بلاشبہ اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا) جب دنیا میں کافر اللہ کی ذات پر ایمان نہ لائے اُس کے انعامات کا شکریہ ادا نہ کیا اور مزید یہ کیا کہ دوسروں کو اس کی عبادت میں شریک کر لیا تو قیامت کے دن اس کی سزا پائیں گے ایمان لاتے تو اللہ کے محبوب ہوتے اب انہیں کفر کی سزا دی جائے گی اور دوزخ میں داخل ہوں گے۔

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَّاسَ مُبْشِرَاتٍ ۖ لِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلُكُ بِأَمْرِهِ**

اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے جو خوشخبری دیتی ہیں تاکہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھائے اور تاکہ کشتیاں اس کے حکم سے

**وَلِتَسْبَحُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ** ① **وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ**

جاری ہوں اور تاکہ تم اس کے فضل کو تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو اور بلاشبہ ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا

**فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَأَنْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرُنَا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ** ②

سو وہ ان کے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے پھر ہم نے ان لوگوں سے انتقام لے لیا جنہوں نے جرم کئے اور اہل ایمان کو غالب کرنا ہمارا عزم ہے۔

**اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيُبْسِطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُ السَّحَابَ**

اللہ وہ ہی ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو جو اُٹھاتی ہیں بادل کو پھر وہ اس کو آسمان میں پھیلا دیتی ہیں جیسے اللہ چاہے اور وہ بادل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے

**فَتَرَى الْوَدُقَ يَخْرُجُ مِنْ خَلِيلِهِ ۖ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ**

پھر اے مخاطب تو بارش کو دیکھتا ہے کہ اس کے اندر سے نکلتی ہے پھر وہ اس میں سے کو اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے پہنچا دیتا ہے پھر

**يَسْتَبْشِرُونَ** ③ **وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْسِلِينَ** ④

وہ خوشی کرنے لگتے ہیں۔ اگرچہ وہ اس سے پہلے کہ ان پر پانی اتارا جائے نا اُمید ہو گئے تھے

**فَانْظُرْ إِلَى ثَرْ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَجْمِ الْمُؤْتَى ۖ وَهُوَ**

سو دیکھ لو اللہ کی رحمت کے آثار کو وہ کیسے زندہ فرماتا ہے زمین کو اس کی موت کے بعد بلاشبہ وہی مردوں کو زندہ فرمانے والا ہے اور وہ

**عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ** ⑤ **وَلَكِنْ أَرْسَلْنَا رِجَالًا فَأَرَاهُمُ مُصَفَّرًا لَظْلُمًا ۖ مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ** ⑥

ہر چیز پر قادر ہے اور اگر ہم ان پر دوسری قسم کی ہوا چلا دیں پھر یہ اپنی کھتی کو ایسی حالت میں دیکھیں کہ پہلی پڑ گئی ہو سو یہ ناشکری کرنے لگیں گے۔



## اللہ تعالیٰ ہواؤں کو بھیجتا ہے اور بارش برساتا ہے، وہی مردوں کو زندہ فرمائے گا

**تفسیر:** ان آیات میں اول تو ہواؤں کا ذکر فرمایا جن کے چلنے سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ بارش آنے والی ہے یہ ہواؤں بارش آنے سے پہلے بارش کی خوشخبری دے دیتی ہیں پھر جب بارش ہو جاتی ہے انسان ان کے منافع سے مستفید ہوتے ہیں ان منافع میں سے یہ بھی ہے کہ ان کے ذریعہ بادیانی کشتیاں چلتی ہیں۔ جب ان کشتیوں میں سوار ہو کر سفر کرتے ہیں تو ان سفروں میں اللہ تعالیٰ کا رزق بھی تلاش کرتے تجارت کے لئے بھی مال لاتے ہیں اور آل اولاد کے کھانے پینے کے لئے بھی ان سب چیزوں میں اللہ تعالیٰ کے انعامات بھی ہیں اور اس کی قدرت کے دلائل بھی ہیں ان دلائل کے ذریعہ اُسے پہچانیں اور اُس کی جو نعمتیں ہیں اُن کا شکر ادا کریں۔ اُس کے بعد رسول اللہ ﷺ کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا واضح دلائل پیش کئے لیکن جنہیں ماننا نہ تھا انہوں نے نہ مانا انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا اور کفر پر جبر ہے اُن کے جرم کی وجہ سے ہم نے انتقام لے لیا۔ وہ انتقام یہ تھا کہ یہ مجرمین ہلاک ہوئے اور اہل ایمان عذاب سے محفوظ رہے۔ جو لوگ آپ ﷺ کی مخالفت کر رہے ہیں وہ بھی مجرم ہیں ان سے بھی انتقام لیا جائے گا۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ (اور اہل ایمان کی مدد کرنا ہمارے ذمہ ہے) اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ کلیہ بیان فرمادیا اور یہ وعدہ فرمایا کہ جس طرح ہم نے گزشتہ زمانوں میں مؤمنین کی مدد کی ہے اسی طرح آئندہ بھی مؤمنین کی مدد ہوتی رہے گی البتہ مدد میں حکمت کے موافق دیر بھی لگ جاتی ہے جیسا کہ انبیاء سابقین علیہم الصلوٰۃ والسلام کی امتوں کے ساتھ ہوا ہے لہذا اہل ایمان کو ناامید اور اُداس نہ ہونا چاہئے اور یہ بھی سمجھنا چاہئے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ دُنیا ہی میں مدد ہو جائے۔ سب سے بڑی مدد یہ ہے کہ موت کے بعد انسان دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے۔ دنیا میں جو صبر شکر کے ساتھ زندگی گزاری اور نیک اعمال کئے یہ جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بنیں گے۔ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی مسلمان نے اپنے بھائی کی آبرو کی طرف سے دفاع کیا (یعنی بے آبرو کرنے والے کو جواب دیا) تو یہ بات اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے کہ اس دفاع کرنے والے سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو دور رکھیں گے۔ اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے یہ آیت وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ تلاوت فرمائی۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۲۴)

درمیان میں بطور جملہ معترضہ تسلی دینے کے طور پر کافروں سے انتقام لینے اور اہل ایمان کی مدد فرمانے کا تذکرہ فرمانے کے بعد پھر ہواؤں کے ارسال فرمانے اور ان کے بعض منافع کا تذکرہ فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ وہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے یہ ہواؤں بادلوں کو اُٹھا کر لاتی ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان بادلوں کو جیسے چاہے پھیلا دیتا ہے اور کبھی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے پھر ان بادلوں سے بارش کو نکالتا ہے بارش آتی ہے تو دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ بادل کے اندر سے بارش آ رہی ہے اسی کو فرمایا: فَتَزَيُّ الْوَدْقُ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادَةٍ إِذَا هُمْ يَسْتَبِشِرُونَ (پھر اللہ اس بارش کو اپنے بندوں میں سے جسے چاہے پہنچا دیتا ہے جنہیں بارش پہنچ گئی وہ خوش ہوتے ہیں) وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ

اَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِمْ مِّنْ قَبْلِهِ الْكِتَابُ (اور یہ بات واقعی ہے کہ وہ لوگ اس سے پہلے نا اُمید ہو چکے تھے) نا اُمیدوں کو اُمیدیں برلانا یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے بارش آنے پر خوشی بھی منائیں اور شکر بھی ادا کریں۔ (قرطبی)

پھر فرمایا: فَانْظُرْ إِلَىٰ اَثْرِ رَّسْمِ الَّذِي (الآیۃ) (کہ اے مخاطب تو اللہ کے آثار کو دیکھ لے کہ وہ زمین کو اس کی موت کے بعد کیسے زندہ کرتا ہے) اس زمین کو بار بار زندہ فرماتا ہے بلاشبہ وہ وہی مردوں کو زندہ فرمانے والا ہے۔ زمین کی نظیر سب کے سامنے ہے پھر مردوں کو زندہ کئے جانے میں تردد اور تامل کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی نے زمین کو بار بار زندہ فرمایا ہے وہ ہی مردوں کو زندہ فرمائے گا۔ اس میں منکرین بعث بعد الموت کو تنبیہ ہے کہ بار بار اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں دیکھتے ہو پھر قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہو کر قبروں سے نکلنے کا کیوں انکار کرتے ہو؟

اس کے بعد فرمایا: وَلَٰكِنْ اَرْسَلْنَا رِجَالًا (الآیۃ) اور اگر ہم خاص قسم کی ہوا چلا دیں جس سے ان کی کھیتیاں زرد نظر آنے لگیں یعنی اُن کی سرسبزی اور شادابی جاتی رہے اور پتے پیلے پڑ جائیں سو اس کے بعد ناشکری کرنے لگیں گے یعنی پچھلی نعمتوں کو بھول جائیں گے اور نئی صورت حال دیکھ کر ناشکری پر اتر آئیں گے۔

فَاِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰی وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اِذَا وَلَوْ اَمْدَدْتَ بِرِیْنٍ ۝۵۰ وَمَا اَنْتَ بِهٰدِ الْعُمٰی

سو آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو پکار سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پشت پھیر کر چل دیں اور آپ اندھوں کو اُن کی گمراہی سے ہٹا کر

عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ اِنْ تُسْمِعُ اِلَّا مَنْ یُّؤْمِنُ بِآیٰتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ

ہدایت نہیں دے سکتے، آپ اُسی کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لائے سو وہ ماننے والے ہیں

آپ مردوں اور بہروں کو نہیں سنا سکتے

اور اندھوں کو ہدایت نہیں دے سکتے

**تفسیر:** یعنی آپ کے جو مخاطبین ہیں آپ ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں اُن کے سامنے دلائل پیش کرتے ہیں یہ سننے کا ارادہ ہی نہیں کرتے۔ جس طرح آپ مردوں کو اور بہروں کو نہیں سنا سکتے جبکہ یہ بہرے پیٹھ پھیر کر چل دیں اور اشارہ کو بھی نہ دیکھیں اسی طرح یہ لوگ ہیں ان کا سننے کا ارادہ ہی نہیں ہے مردوں کی طرح بنے ہوئے ہیں پھر یہ لوگ اندھے بھی بنے ہوئے ہیں راہ پر آنے کو تیار ہی نہیں لہذا آپ کی ہدایت دینے سے ہدایت پر نہ آئیں گے۔ (صُمُّ بِكُمْ عُمٰی فَهُمْ لَا یَرْجِعُوْنَ)

آپ تو بس انہیں لوگوں کو سنا سکتے ہیں جو اللہ کی آیات پر یقین رکھتے ہیں اور اس یقین کی وجہ سے وہ فرمانبردار بنے ہوئے ہیں۔ اس میں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ ﷺ کو تسلی ہے کہ جو لوگ آپ کی باتیں سنکر اُن سنی کر دیتے ہیں اور گونگے بہرے بنے ہوئے ہیں آپ اُن کی حالت پر غم نہ کریں اور اُن سے ایمان کی اُمید نہ رکھیں آپ کا کام دعوت دینا اور حق کو ظاہر کر دینا ہے جو لوگ دعوت حق قبول نہ کریں اور اُن کی اپنی گمراہی ہے۔

آیت کریمہ میں جو **فَاِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتٰی** فرمایا ہے اس کے بارے میں سورۃ نمل کی آیت **اِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتٰی** و **لَا تَسْمِعُ الْعَمٰی الدُّعَا** کے ذیل میں ضروری بحث گذر چکی ہے۔

**اَللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ**

اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ضعف کی حالت میں پیدا فرمایا پھر ضعف کے بعد قوت پیدا کر دی پھر قوت کے

**بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشِبْہَہٗ یَخْلُقُ مَا یَشَآءُ وَهُوَ الْعَلِیْمُ الْقَدِیْرُ** ﴿۱۳۳﴾

بعد ضعف اور بڑھا یا پیدا فرمادیا وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے وہ خوب جاننے والا ہے بڑی قدرت والا ہے

انسان ضعف و قوت کے مختلف احوال سے گذرتا

ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے ہوتا ہے

**تفسیر:** اس آیت میں انسان کی پیدائش اور اس کی قوت و ضعف کی حالت بیان فرمائی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو ایسی حالت میں پیدا فرمایا کہ تم کمزور تھے یعنی بچے تھے پھر ضعف کے بعد قوت سے نواز دیا انسان پہلے دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے حرکت کے قابل بھی نہیں ہوتا پھر ہاتھ پاؤں چلاتا ہے نظریں گھماتا ہے اپنے گھر والوں کو پہنچاتا ہے پھر لیٹے لیٹے پیٹیں کھانا شروع کر دیتا ہے پھر ٹیک لگا کر بیٹھنے کے قابل ہوتا ہے پھر بغیر سہارے کے بیٹھنے لگتا ہے پھر گھٹنوں کے بل چلنا شروع کر دیتا ہے پھر سہارے سے کھڑا ہوتا ہے ایک دو قدم چلنا شروع کرتا ہے پھر بلا سہارہ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ ضعف کے احوال سے گذرتا ہوا جوانی میں داخل ہوتا ہے جوانی کا زمانہ قوت اور طاقت کا ہوتا ہے جسمانی طاقت بھی اچھی ہوتی ہے اور بچپن اور بڑھاپے کے مقابلہ میں عقل و فہم و ادراک بھی جوانی میں زیادہ ہوتا ہے (گو بعض مرتبہ بڑھاپے میں ارزل العمر آنے سے پہلے پہلے تجربات کی بناء پر سوچ سمجھ کی قوت زیادہ ہوتی ہے) جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو پھر کمزوری آ جاتی ہے بال بھی سفید ہو جاتے ہیں اور جیسے جیسے بڑھاپا بڑھتا جاتا ہے کمزوری بھی بڑھتی جاتی ہے پھر ارزل العمر یعنی گھٹیا ترین ٹکی زندگی کو پہنچ جاتا ہے اور بچپن والا ضعف آ جاتا ہے ہوش و حواس بھی باقی نہیں رہتے واپس ہو کر پھر اسی ضعف پر پہنچ جاتا ہے جو بچپن میں تھا۔ اسی کو سورۃ یٰسین میں فرمایا **وَمَنْ نُّعِذْكَ نُنَكِّسْہٗ فِی الْخَلْقِ اَفَلَا یَعْقِلُوْنَ** (اور ہم جس کو زیادہ عمر دیتے ہیں اُس کی خلقی حالت میں واپس کر دیتے ہیں کیا وہ نہیں سمجھتے؟)

**یَخْلُقُ مَا یَشَآءُ** (اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے) **وَهُوَ الْعَلِیْمُ الْقَدِیْرُ** (اور وہ خوب جاننے والا ہے اور بڑی قدرت والا ہے) اُسے سب کے احوال اور اعمال کا علم ہے اور اُسے پوری طرح سے قدرت ہے جس طرح چاہے پیدا فرمائے اور جس حالت میں رکھے اُسے پورا اختیار ہے۔

**وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْجَرْمُونَ مِمَّا لَبِثُوا غَیْرَ سَاعَةٍ کَذٰلِکَ کَانُوا یُفْکُوْنَ** ﴿۱۳۴﴾

اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرمین قسم کھائیں گے کہ ایک گھڑی سے زیادہ نہیں ٹھہرے وہ اسی طرح سے دنیا میں اُلٹے چلائے جاتے تھے

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ

اور جن کو علم اور ایمان دیا گیا وہ کہیں گے کہ بلاشبہ تم اللہ کے نوشتہ میں بعث کے دن تک ٹھہرے ہو سو یہ

الْبَعْثِ وَلَٰكِنَّمَا كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۱۳۳﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ

بعث کا دن ہے اور لیکن تم نہیں جانتے سو اُس دن ظالموں کو اُن کی معذرت نفع نہ دے گی اور نہ انہیں اس کا

يُسْتَعْتَبُونَ ﴿۱۳۴﴾

موقع دیا جائے گا۔

## قیامت کے دن مجرمین کی جھوٹی قسما دھرمی اور اہل ایمان کی حق بیانی

**تفسیر:** یہ تین آیات ہیں پہلی آیت میں یہ بتایا کہ جب قیامت قائم ہوگی اور زندہ ہو کر قبروں سے نکلیں گے تو اس وقت مجرمین یعنی کافر لوگ قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہم تو موت کے بعد قبروں میں تھوڑی سی ہی دیر رہے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے بتایا کہ اس سے دنیا کی زندگی مراد لیں گے اور ان کے کہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ دنیا میں ہم ذرا دیر ہی رہے تھے عمریں تو اچھی خاصی گذاریں لیکن ایمان نہ لائے اور نیک عمل نہ کئے اتنی بڑی زندگی بے کار ہی چلی گئی جو چیز زیادہ ہو اور اس سے نفع نہ اٹھایا جائے تو وہ قلیل مانی جاتی ہے جیسا کہ قلیل چیز نفع مند ہو تو اسے کثیر کہا جاتا ہے۔ (ذکرہ صاحب الروح) ان لوگوں کا یہ کہنا کہ ہم دنیا میں یا دیرِ زرخ میں صرف ذرا دیر ہی رہے جھوٹ ہی ہوگا اور یہ ان کا پہلا جھوٹ نہیں ہوگا بلکہ دنیا میں جب ان کے سامنے حق آتا تھا تو اس سے اعراض کرتے تھے اور اس کی تکذیب کرتے تھے اور الٹی ہی چال چلتے تھے شیطان اور نفس انہیں حق کی تکذیب پر آمادہ کرتے تھے۔ جن لوگوں کو اللہ نے علم دیا اور ایمان دیا (ان میں فرشتے بھی ہیں اور بنی آدم میں سے وہ افراد بھی ہیں جنہیں علم اور ایمان کے لئے منتخب فرمایا) یہ حضرات ان سے یوں کہیں گے کہ تم اللہ کے نوشتہ میں یعنی اللہ کی کتاب میں بعث کے دن تک ٹھہرے رہے ہو اللہ تعالیٰ شانہ نے جو لوح محفوظ میں لکھ دیا تھا اور اپنی کتاب میں جو وَمِنْ ذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِيَوْمِ الْبَعْثِ فرمادیا تھا تم اسی کے مطابق بعث کے دن تک ٹھہرے رہے ہو۔ يَوْمَ الْبَعْثِ سے قبروں سے اٹھائے جانے کا دن مراد ہے۔

اہل علم و ایمان مجرمین سے خطاب کرتے ہوئے یوں کہیں گے کہ یہ يَوْمَ الْبَعْثِ ہے قبروں سے زندہ ہو کر اٹھائے جانے کا دن ہے تم جس کے منکر تھے وہ سامنے آ گیا اور آج واضح ہو گیا کہ تمہارا انکار کرنا باطل تھا لیکن تم نہیں جانتے تھے جو حضرات قیامت واقع ہونے اور وہاں کی پیشی ہونے کی باتیں کرتے تھے تم ان کو جھٹلاتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے ان کی بات مانتے تو تمہیں آج کے دن کا اور آج کے دن کے حالات کا علم ہوتا۔

تیسری آیت میں فرمایا کہ جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، کفر اختیار کیا، قیامت کے دن پر ایمان نہ لائے اب جو بھی کوئی معذرت کریں وہ قبول نہیں ہوگی اور معذرت انہیں کوئی نفع نہ دے گی اور نہ ان کو اس کا موقع دیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں کیونکہ کفر پر مرنے کے بعد توبہ کرنے کا کوئی موقع نہیں اور ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ کبھی راضی نہیں ہوگا۔

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ كَيُفْهَوْنَ

اور یہ بات واقعی ہے کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لئے عمدہ مضامین بیان کر دیئے ہیں اور اگر آپ ان کے پاس کوئی بھی نشانی لے

الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ۝ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝

آئیں تب بھی وہ لوگ جو کافر ہیں یہی کہیں گے کہ تم لوگ صرف باطل والے ہو۔ جو لوگ نہیں جانتے ان کے دلوں پر اللہ یوں ہی مہر کر دیتا ہے۔

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفُّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ۝

سو آپ صبر کیجئے بلاشبہ اللہ کا وعدہ حق ہے اور جو لوگ یقین نہیں کرتے وہ لوگ آپ کو بے برداشت نہ بنادیں۔

قرآن عمدہ مضامین پر مشتمل ہے، معاندین کو حق ماننا نہیں ہے آپ صبر سے کام لیں، اللہ کا وعدہ حق ہے

**تفسیر:** یہ تین آیات کا ترجمہ ہے۔ اول تو یہ بتایا کہ ہم نے اس قرآن میں ہر طرح کی عمدہ باتیں بتادی ہیں ان میں جو کوئی شخص غور و فکر کرے گا تو اس کے ذہن پر یہ وارد ہوگا کہ قرآن حق ہے اور قرآن کا ہر بیان حق ہے قرآن اور صاحب القرآن ﷺ کی دعوت حق ہے، لیکن جو لوگ انکار پر تلے ہوئے ہیں اور ضد و عناد اور ہٹ دھرمی پر کمر باندھ رکھی ہے وہ بات ماننے والے نہیں ہیں یہ قرآن خود ایک معجزہ ہے اس کے علاوہ بھی جتنے معجزے اور آیات آپ پیش فرمادیں کافر لوگ آپ ﷺ کے اور آپ ﷺ کے ساتھیوں کے بارے میں یوں ہی کہیں گے کہ تم لوگ باطل والے ہو۔

اہل باطل کا یہ طریقہ ہے کہ خود بھی حق قبول نہیں کرتے اور اہل حق کو اہل باطل بتاتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، جیسے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی اسی طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو نہیں جانتے یعنی جاننا نہیں چاہتے اور حق قبول کرنے کے بجائے اپنی خرافات پر ہی مصر رہتے ہیں۔

رسول اللہ ﷺ کو مکذبین و معاندین کی باتوں سے تکلیف ہوتی تھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صبر کیجئے بلاشبہ اللہ کا وعدہ حق ہے اس نے جو آپ سے مدد کا اور دین اسلام کو غالب کرنے کا اور کلمہ حق کو بلند کرنے کا وعدہ فرمایا ہے وہ ضرور پورا ہوگا آپ کے صبر میں فرق نہ آئے پوری طرح ثابت قدم رہیں یہ لوگ جو یقین نہیں کرتے آپ کی دعوت کو نہیں مانتے ان کے اس طرز عمل سے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے پائے ثبات میں لغزش آ جائے یہ لوگ آپ کو بے صبری پر آمادہ نہ کر دیں۔



سُورَةُ لُقْمَانَ مَكِّيَّةٌ مَرَّةً وَاحِدَةً وَخَلْفَتُهَا اِيْتَانِ وَأَنْتَ رَكْعَتَانِ

سورہ لقمان مکہ معظمہ میں نازل ہوئی اس میں چونتیس (۳۴) آیات اور چار رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے﴾

الْعَمَّ ۝ تِلْكَ اَيُّ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ۝ هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ ۝ الَّذِيْنَ يَقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ

الْعَمَّ ۝ یہ قرآن حکیم کی آیات ہیں جو اچھے کام کرنے والوں کے لئے ہدایت ہے اور رحمت ہے جو نماز قائم کرتے ہیں

وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُوْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ عَلٰی هُدًى مِّنْ رَبِّهِمْ

اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں

وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

اور یہی لوگ کامیاب ہیں

## قرآن مجید محسنین کے لئے ہدایت اور رحمت ہے

**تفسیر:** حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ سورہ لقمان مکہ معظمہ میں نازل ہوئی اور ان کا ایک قول یہ ہے کہ پوری سورت میں سے تین آیات وَلَوْ اَنَّ مَآبِیَ الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ سے لے کر اِنَّ اللّٰهَ يَمَاتَعْلَمُوْنَ خَبِيْرًا تک مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں۔

الْعَمَّ ۝ یہ حروف مقطعات میں سے ہے کا معنی اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ تِلْكَ اَيُّ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ یہ کتاب حکیم یعنی قرآن کریم کی آیات ہیں پر حکمت ہیں۔ هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ یہ قرآن اچھے کام کرنے والوں کے لئے ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ ہدایت اور رحمت تو سارے انسانوں کے لئے ہے لیکن سب اسے قبول نہیں کرتے، قبول کرنے والے وہی لوگ ہیں جو صفات احسان سے متصف ہیں، اُن کے قلوب صالح ہیں، نیتوں میں اخلاص ہے، اس لئے قرآن کو سکر اس کی ہدایت کو قبول کر لیتے ہیں پھر اس کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور یہ قرآن کے مطابق زندگی گزارنا ان کے لئے رحمت کا باعث بن جاتا ہے ان محسنین کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا الَّذِيْنَ يَقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ کہ یہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُوْنَ اور یہ لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ درحقیقت اقامت صلوٰۃ اور ادا نیکی زکوٰۃ یہ دونوں اسلام کے اہم رکن ہیں جن کا درجہ توحید اور رسالت پر ایمان لانے کے بعد ہے باقی دو رکن یعنی صیام رمضان اور حج بیت اللہ اسلام کے ارکان تو ہیں لیکن ان کا درجہ نماز اور زکوٰۃ کے بعد ہے نماز اور زکوٰۃ کی پابندی ہی رہے اور آخرت کا معنیو ط یقین ہو تو انسان اسلام کے دوسرے احکام پر بآسانی چل سکتا ہے

اور ان کی ادائیگی کے لئے اپنے نفس کو آمادہ کر سکتا ہے۔ ایسے حضرات کے بارے میں فرمایا کہ **أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ** یہ حضرات اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں **وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ** اور یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ (اصل کامیاب آخرت کی کامیابی ہے یعنی دوزخ سے بچ جانا اور جنت میں داخل ہونا) جنہیں دنیا ہی میں اس کی بشارت دے دی گئی ان کا عظیم مرتبہ ہے یہ مضمون سورۃ بقرہ کے شروع میں بھی گزر چکا ہے۔

چونکہ آیت بالا میں زکوٰۃ دینے کا بھی ذکر ہے اس لئے بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ یہ آیات بھی مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں اور اس بات کی بنیاد اس پر ہے کہ زکوٰۃ مدینہ منورہ میں فرض ہوئی۔ اور جن حضرات نے مذکورہ بالا آیات کو مکی کہا ہے انہوں نے فرمایا ہے کہ زکوٰۃ بھی مکہ معظمہ میں فرض ہو گئی تھی البتہ اس کے تفصیلی احکام، مقادیر نصاب وغیرہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئے لیکن اگر زکوٰۃ سے عام صدقہ مرد لے لیا جائے جیسا کہ چند صفحات پہلے سورۃ روم کی آیت **وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن زَكَاةٍ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ** کے ذیل میں گزر چکا ہے تو پھر ان آیات کو بھی مکی کہنے میں کوئی تاثر نہیں رہتا۔

**وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ**

اور بعض ایسے لوگ ہیں جو ان باتوں کو خریدتے ہیں جو کھیل کی باتیں ہیں تاکہ بغیر علم کے اللہ کے راستے سے ہٹائیں اور اللہ کی راہ کا مذاق بنائیں

**وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝۱۰ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلِيَ مُّسْتَكْبِرًا**

اور لوگوں کے لئے ذلیل کرنے والا عذاب ہے اور جب ایسے شخص پر ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو تکبر کرتے ہوئے پیٹھ پھیر دیتا ہے

**كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَسَّرَهُ بِعَذَابٍ إِلَيْهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ أَمْنُوا**

گویا کہ اس نے ان کو سنا ہی نہیں گویا کہ اس کے دونوں کانوں میں بوجھ ہے سو آپ اس کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے بلاشبہ جو لوگ ایمان لائے

**وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ۚ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝۱۱**

اور نیک عمل کئے ان کیلئے نعمتوں والے باغ ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اللہ نے سچا وعدہ فرمایا ہے اور وہ عزیز ہے حکیم ہے

## قرآن کے دشمنوں کی حرکتیں، اُن کیلئے عذاب مہین کی وعید

**تفسیر:** قرآن پر ایمان لانے والوں کے اعمال اور ان کے ہدایت پر ہونے اور آخرت پر کامیاب ہونے کی بشارت دینے کے بعد قرآن کا انکار کرنے والوں اور اس کے مقابلہ میں بعض چیزیں اختیار کرنے والوں کا شغل پھر ان کے عذاب کا تذکرہ فرمایا ہے جو قرآن کے مخالف رویہ رکھتے ہیں اور قرآن سے خود بھی دور رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا حدیث ہر وہ بات جو اللہ کی یاد سے غافل کرے اور کھیل میں لگائے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے **لَهُوَ الْحَدِيثُ** کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا: **هو كل ما شغلك عن عبادة الله تعالى** و ذکرہ یعنی ہر وہ چیز جو اللہ کی عبادت سے ہٹائے وہ **لهو الحديث** ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس سے غناء یعنی گانا بجانا مراد ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی یہ بات منقول ہے۔ حضرت مکحول تابعی نے فرمایا



کہ لَہُوَ الْحَدِيثُ سے گانے بجانے والی لوٹیاں مراد ہیں۔ (روح المعانی)

آیت بالا کا سبب نزول بیان کرتے ہوئے کئی باتیں منقول ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان فرمایا کہ نضر بن حارث (جو مشرکین مکہ میں سے اسلام کے بڑے کُردشمنوں میں سے تھا) نے ایک گانے والی باندی خرید لی تھی اُسے جس کسی کے بارے میں یہ خبر ملتی تھی کہ وہ اسلام قبول کرنے کا ارادہ کر رہا ہے تو وہ اسے اس لوٹنی کے پاس لے جاتا تھا اور اس لوٹنی سے کہتا تھا کہ اس شخص کو کھلا پلا اور گانا سنا پھر جس شخص کو ساتھ لے جاتا تھا اس سے کہتا تھا کہ یہ اس سے بہتر ہے جس کی طرف تجھے محمد ﷺ دعوت دیتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ نماز پڑھ روزے رکھ اور ان کے ساتھ مل کر ان کے دشمنوں سے جنگ کر اس پر آیت کریمہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَكْتُمُونَ لَہُوَ الْحَدِيثُ نَازِلَ ہُوَی۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ نضر بن حارث تجارت کیلئے فارس جاتا تھا وہاں سے عجمیوں کی کتابیں خریدتا تھا پھر انہیں مکہ معظمہ میں لا کر قریش کو سنا تا تھا اور کہتا تھا کہ محمد ﷺ تمہیں عباد اور شمود کی باتیں سناتے ہیں اور میں تمہیں رستم اور اسفندیار اور فارس کے بادشاہوں کی خبریں سناتا ہوں لوگوں کو یہ باتیں پسند آتی تھیں اور قرآن کے بجائے ان چیزوں کی طرف متوجہ ہوتے تھے اس پر آیات بالا نازل ہوئی۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ ابن نطل نے یہ حرکت کی تھی کہ اُس نے گانے والی باندی خریدی تھی جو ایسے گانے گاتی تھی جو مسلمانوں کو اور اسلام کو برے الفاظ سے ذکر کرنے پر مشتمل ہوتے تھے۔

حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو فرمایا کہ لَہُوَ الْحَدِيثُ سے ہر وہ چیز مراد ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے اور اُس کے ذکر سے ہٹائے یہ لغت کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے اور حدیث شریف سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: كُلْ شَيْءٍ يَلْهُوْهُ الرَّجُلُ بِاطِلَالٍ اِلَّا رُغْمَةً بِقَوْسِهِ وَتَادِيَةً فَرَسِهِ وَمَلَا عِبَتَهُ اِمْرَاَتَهُ فانہن من الحق (رواہ الترمذی وابن ماجہ کما فی مشکوٰۃ ص ۳۳۷) مطلب یہ ہے کہ تین چیزوں کے علاوہ جو بھی کوئی لہو کا کام کوئی شخص کرتا ہے تو وہ باطل ہے ہاں تین کھیل ایسے ہیں جو درست ہیں (۱) اپنی کمان سے تیر پھینکنے کی مشق کرنا (۲) گھوڑے کو سدھانا (یہ دونوں جہاد کے کام میں آتے ہیں جو دینی ضرورت ہے) (۳) اپنی بیوی کے ساتھ دل لگی کرنا (جو نفس و نظر کو پاک رکھنے کا ذریعہ ہے)

گانے بجانے کی مذمت و حرمت: لہو و لعب میں ہر طرح کا جو اور تاش کھیلنا اور ہر وہ شغل آ جاتا ہے جو شرعاً ممنوع ہو اور جو نماز سے اور اللہ کے ذکر سے غافل کرتا ہو۔ کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے اچھی آواز دی ہو اور وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے یا نعت کے اشعار پڑھے (جس میں بجانے کا سامان بالکل نہ ہو) یا عبرت کے لئے کچھ اشعار پڑھے تو یہ جائز ہے۔ گندے گانے، عشقیہ غزلیں اگر چہ ان کے ساتھ بجانے کا سامان نہ ہو یہ سب ممنوع ہیں اس قسم کے گانوں کو بعض اکابر نے رُقِیۃ الزَّناء (زنا کا منتر) فرمایا ہے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اَلْغِنَاءُ يُنْبِثُ النِّفَاقَ فِی الْقَلْبِ کَمَا یُنْبِثُ الْمَاءُ الزَّرْعَ (کہ گانا دل میں نفاق کو اگاتا ہے جیسے پانی کھیتی کو اگاتا ہے) (مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۱۱) اگر عشقیہ غزلیں نہ ہوں تو پھر شعر پڑھنے والا خوش آواز ہو تب بھی اسے یہ دیکھ لینا چاہئے کہ میرے آس پاس کون ہے اگر عورتیں آواز سن رہی ہوں تو پھر شعر نہ پڑھے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ انیس ایک صحابی تھے وہ سفر میں جا رہے تھے۔

عرب کا طریقہ تھا کہ سفر میں اونٹوں کو مست کرنے اور اچھی رفتار سے چلانے کے لئے بلند آواز سے شعر پڑھتے ہوئے جاتے تھے۔ انجھہ خوش آواز آدمی تھے انہوں نے اونٹوں کی رفتار جاری رکھنے کے لئے اشعار پڑھنا شروع کئے جسے حدی پڑھنا کہتے ہیں، رسول اللہ ﷺ نے ان کی آواز سن لی اور فرمایا کہ اے انجھہ! ٹھہر جاؤ شیشوں کو نہ توڑو۔ راوی قادہؓ نے شرح کرتے ہوئے بتایا کہ شیشوں سے عورتیں مراد ہیں جو جلدی متاثر ہو جاتی ہیں۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۱۰)

دیکھو حضرت انجھہؓ اونٹوں کو سنانے کے لئے اشعار پڑھ رہے تھے چونکہ وہاں عورتیں بھی تھیں اس لئے رسول اللہ ﷺ نے ان کو ٹوک دیا۔

آجکل تو گانا بجانا جزو زندگی بن چکا ہے، حلق سے لقمہ ہی تب اترتا ہے جب گانے کی کیسٹ لگا کر کھانا شروع نہ کریں۔ اور آجکل تو ہر گھر کوئی دی نے ناچ گھر اور گانا گھر بنا دیا ہے، چھوٹے بڑے مل کر سب گانا سنتے ہیں جس کی وجہ سے فرض نمازیں تک غارت کی جاتی ہیں اور اللہ کی یاد میں مشغول ہونے کا تو ذکر ہی کیا ہے جن گھروں کو کبھی شریف گھر نہ سمجھا جاتا تھا آج ان گھرانوں کی بچوں کو ناچ گانا سکھایا جاتا ہے اور ان کی ہمت افزائی کی جاتی ہے اور انہیں گلوکارہ اور فنکار کے القاب دیئے جاتے ہیں پھر اوپر سے غضب یہ ہے کہ اسے اسلامی ثقافت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ گانے والی لونڈیوں کی فروخت نہ کرو اور انہیں (گانا) نہ سکھاؤ اور ان کی قیمت حرام ہے۔ اور فرمایا اسی جیسے معاملے کے لئے آیت کریمہ وَمِنْ الثَّالِثِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ نازل ہوئی۔

حضرت ابوالصہبہؓ نے بیان کیا کہ میں نے اس آیت کے بارے میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ قسم اللہ کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں اس آیت میں غناء یعنی گانے کی مذمت کی گئی ہے۔ (معالم التنزیل ج ۳ ص ۴۹۰)

گانے بجانے کے شغل نے لوگوں کو بربادی کے گڑھے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ جو مصیبتیں آتی ہیں انہیں اپنی بد عملی کا نتیجہ نہیں سمجھتے اور اگر سمجھتے ہیں تو جھوٹی زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے لیکن ان اعمال کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتے، گناہوں میں جیسے لت پت تھے ایسے ہی مصیبتوں کے آنے پر ان میں مشغول رہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم نے نفس ہی کو آگے رکھ لیا ہے اسی کو امام بنالیا ہے اسے ناراض کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے۔ حضرت ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ضرور ایسے لوگ ہوں گے جو زنا کو اور رشیم کو اور شراب کو اور گانے بجانے کے سامان کو حلال کریں گے اور بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو ایک پہاڑ کے قریب قیام کریں گے ان کے جانور شام کو ان کے پاس پہنچا کریں گے ان کے پاس ایک شخص کسی ضرورت سے آئے گا تو اس سے کہیں گے کہ کل کو آنا پھر کل آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک فرمادے گا اور ان پر پہاڑ گر پڑے گا اور ان میں سے کچھ لوگوں کو قیامت کے دن تک کے لئے بند خنزیر بنا دے گا۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۵۶ از مجمع بخاری)

ارشاد نبوی (ﷺ) کہ میں گانے بجانے کی چیزیں مٹانے کیلئے آیا ہوں: حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جہانوں کے لئے رحمت بنا

کر اور جہانوں کے لئے ہدایت بنا کر بھیجا ہے اور میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ گانے بجانے کے آلات کو اور بتوں کو اور صلیب کو (جسے عیسائی پوجتے ہیں) اور جاہلیت کے کاموں کو مٹا دوں۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۳۱۸) اب نام نہاد مسلمانوں کو دیکھو کہ حضور رحمۃ اللعالمین ﷺ جن چیزوں کو مٹانے کے لئے تشریف لائے انہیں چیزوں کو آنحضرت ﷺ کی نعت سننے میں استعمال کرتے ہیں پھر اوپر سے ثواب کی امید کرتے ہیں۔ نفس و شیطان نے ایسا مزاج بنا دیا ہے کہ قرآن وحدیث کا قانون بتانے والوں کی بات ناگوار معلوم ہوتی ہے۔ راتوں رات ہارمونیم اور سارنگی پر اشعار سنتے ہیں اور ساری رات اس کام میں مشغول رہتے ہیں جس کے مٹانے کے لئے رسول اللہ ﷺ تشریف لائے اور رات بھر قوالی سن کر فجر کی آذان ہوتے ہی نماز پڑھے بغیر سو جاتے ہیں۔ دیکھ لو یہ ہیں حب نبوی کے متوالے جنہیں فرض نمازوں کے غارت کرنے پر ذرا بھی ملال نہیں خدا را انصاف کرو یہ راتوں کو جاگنا نبی اکرم ﷺ کی نعت سننے کے لئے ہے یا آپ کا اسم گرامی استعمال کر کے نفس و شیطان کو لذیذ گانے کی غذا دینے کے لئے ہے؟

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: الْجَرَسُ مَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ (گھنٹیاں شیطان کے باجے ہیں) اور یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ: لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رَفَقَةً فِيهَا كَلْبٌ وَلَا جَرَسٌ (جن لوگوں کے ساتھ کتیا گھنٹی ہو رحمت کے فرشتے ان کے ساتھ نہیں رہتے) ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ: بَعَثَ كُلَّ جَرَسٍ شَيْطَانٌ (ہر گھنٹی کے ساتھ شیطان ہوتا ہے) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں ایک لڑکی داخل ہونے لگی اس کے پاؤں میں بجنے والا زور تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اس لڑکی کو میرے پاس ہرگز نہ لائیں جب تک اس کے جھانچن نہ کاٹ دیئے جائیں میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے جس گھر میں گھنٹی ہو اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔

بات یہ ہے کہ گانے بجانے کا دھندا شیطانی دھندا ہے جو لوگ شیطانی اعمال کرتے ہیں انہیں بجتے بجانے والی چیزوں سے محبت اور رغبت ہوتی ہے اسی لئے دیکھا جاتا ہے کہ ہندوؤں کے مندروں اور نصاریٰ کے گرجوں میں اور ان تمام مواقع میں جہاں شیطان کا راج ہو گا گانے بجانے کا انتظام اور اہتمام ہوتا ہے شیطان ان سے گانے گواتا ہے اور باجے بجواتا ہے اور خود بھی سنتا ہے اور مزے لیتا ہے۔

جاہل پیروں کی بد عملی: بعض لوگ جو پیری مریدی کا پیشہ کرتے ہیں وہ اپنی خانقاہوں میں اور قبروں پر ساز سارنگی اور ہارمونیم اور طبلہ بجانے کا خاص اہتمام کرتے ہیں اور عجیب بات یہ ہے کہ اس کو کار خیر سمجھتے ہیں اور بزرگوں کا طریقہ بتاتے ہیں حالانکہ جن بزرگوں سے نعتیہ اشعار سننا منقول ہے انہوں نے فرمایا ہے کہ ایسی محفلوں میں شریک ہونے کی شرط یہ ہے کہ ”بجانے کا سامان نہ ہو اور بے ریش لڑکے نہ ہوں اور عورتیں نہ ہوں“ اگر کسی شخص نے ساز اور سارنگی کے ساتھ قوالی سن لی (اگرچہ پیر بنتا ہو) تو اس کا یہ عمل کیسے دلیل بن سکتا ہے جبکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں گانے بجانے کے سامان کو مٹانے کے لئے آیا ہوں۔ اسلام میں جب بچتا ہوا زیور گوارا نہیں اور جانوروں کے گلے میں گھنٹی ڈال دی جاتی ہے وہ بھی برداشت نہیں تو گانے بجانے کا اہتمام کرنا اور اس کے لئے جمع ہونا کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟

حضرت نافعؓ نے بیان کیا کہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ جا رہا تھا انہوں نے مزار کی آواز سنی (جو

بجانے کی چیز تھی) یہ آواز سکرانہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے دیں اور ایک جانب کو راستہ سے دور ہو گئے پھر دور چلے جانے کے بعد دریافت فرمایا کہ اے نافع کیا آواز آرہی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اب آواز نہیں آرہی اس پر انہوں نے اپنے کانوں سے انگلیاں ہٹا دیں اور فرمایا کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جا رہا تھا کہ آپ نے ایک بانسری کی آواز سنی اور یہی عمل کیا ہے جو میں نے کیا ہے۔ واقعہ بیان کر کے حضرت نافع نے فرمایا کہ جس وقت کا یہ واقعہ ہے میں اس وقت گم عمر تھا (مشکوٰۃ المصابیح ص ۳۱۱ از احمد ابوداؤد)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بلاشبہ رسول اللہ ﷺ نے شراب سے جوے سے طبل سے اور غیر اء سے منع فرمایا۔ یہ اہل حبشہ کی ایک شراب تھی اور فرمایا کہ ہر نشہ والی چیز حرام ہے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۳۱۸)

**لَهُوَ الْحَدِيثُ..... (جو چیز کھیل میں لگائے):** اس کے عموم میں ہر چیز آجاتی ہے چونکہ سب نزول میں گانے بجانے کی چیزوں کا بھی ذکر ہے اور یہ اللہ کے ذکر سے اور نماز سے غافل کرنے میں سب سے زیادہ بڑھ کر ہے اور بعض لوگ ساز اور سارنگی کے ساتھ قوالی سننے کو ثواب سمجھتے ہیں اس لئے مندرجہ بالا مضمون کو ہم نے اہتمام سے بیان کیا ہے اور گانے بجانے کے ساتھ میں جو روایت سرسری طور پر سامنے آئی ہیں ان کو جمع کر دیا ہے جو لوگ کسی بھی ایسے کام میں مشغول ہوں جو اللہ کی یاد سے ہٹائے یہ سب لَهُوَ الْحَدِيثُ ہے۔

یاد رہے کہ لایعنی باتوں میں مشغول ہونے میں یہ نقصان بہر حال ہے کہ جتنی دیر میں یہ باتیں کی جائیں گی تلاوت قرآن اور ذکر اللہ سے محروم رہے گا جو بہت بڑا نقصان ہے مباح ہونا اور بات ہے اور ثواب سے محروم ہونا دوسری چیز ہے اور غیبت اور چغلی جھوٹ تو بہر حال حرام ہی ہے۔

**لَهُوَ الْحَدِيثُ** میں بعض چیزیں حرام ہیں جن میں قمار یعنی جو اکیلنا بھی شامل ہے اور بعض چیزیں مکروہ ہیں جن میں گناہ تو نہیں مگر وقت ضائع ہوتا ہے اگر ضیافت طبع اور دماغ کی تفریح کے لئے کوئی شعر پڑھا جائے جو گندائے ہو تو یہ مباح ہے۔

**شطرنج وغیرہ کا تذکرہ:** شطرنج کے بارے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شطرنج سے وہی شخص کھیلے گا جو گنہگار ہوگا۔ اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ یہ باطل چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کو باطل چیز پسند نہیں۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۳۸۷) حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ ہی سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نزد سے کھیلا (جو شطرنج کی طرح کھیلنے کی ایک چیز تھی) سو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۳۸۶)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کو دیکھا جو بوتر کے پیچھے لگا ہوا تھا اسے دیکھ کر آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ شیطان ہے جو شیطان کے پیچھے لگ رہا ہے (مشکوٰۃ المصابیح ص ۳۸۶) روایات حدیث میں تاش کھیلنے کا ذکر نہیں ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں نہیں تھا اگر ہار جیت کی شرط کے ساتھ ہو تو قمار یعنی جو اے اس کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں اور اگر قمار کے بغیر ہو تو بہر حال اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کرنے والا تو ہے ہی جیسا کہ تاش کھیلنے والوں کو دیکھا جاتا ہے۔

قرآن مجید میں وَمِنَ الْكَاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ فرمایا ہے۔ اشتہری کے لغوی معنی خریدنے کے ہیں اور ایک

کام کے بدلہ دوسرے کام کو اختیار کرنے کے لئے بھی اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے جیسا کہ اُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ میں استعمال ہوا ہے۔ یہاں آیت کریمہ میں جو یَشْتَرُوْنَ فرمایا ہے اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ بعض لوگ قرآن کو چھوڑ کر اس کے عوض لہو الحدیث کو اختیار کر لیتے ہیں یعنی کھیلنے کی چیزوں میں لگ جاتے ہیں اور قرآن کریم کی طرف متوجہ نہیں ہوتے جس کی فضیلت سورۃ کے شروع کی دو آیتوں میں بیان فرمائی، قَالَ الْبَغْوَىٰ فِیْ مَعَالِمِ التَّنْزِیْلِ اِیْ یَسْتَبْدِلُ وَ: شَتَارَ الْغِنَاءِ وَالْمَزَامِیْرِ وَالْمَعَارِفِ عَلٰی الْقُرْآنِ۔ (ج ۳ ص ۴۹۰) (علامہ بغویؒ نے معالم التنزیل میں لکھا ہے ”یعنی گانے بجانے اور لہو لعب کے آلات کو قرآن کے بدلے میں لیتا ہے اور انہیں قرآن کے مقابلہ میں ترجیح دیتا ہے“)

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَّرَوْنَهَا وَاَلْقٰی فِی الْاَرْضِ رَوٰسِیَ اَنْ تَمِیْدَ بِكُمْ

اللہ نے آسمانوں کو بلا ستون پیدا فرمایا تم اُسے دیکھ رہے ہو اور زمین میں پہاڑ ڈال دیئے کہ وہ تم کو لے کر ڈالناں ڈال نہ ہو

وَبَقِیْ فِیْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَنْبَتْنَا فِیْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ

اور اس میں ہر طرح کے جانور پھیلادےئے اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا سو ہم نے زمین میں ہر قسم کے اچھے پھل

کَرِیْمٍ ۝ هٰذَا خَلَقَ اللّٰهُ فَاَرْوٰی مَاذَا خَلَقَ الَّذِیْنَ مِنْ دُوْنِهٖۤ اَبَلِ الظّٰلِمُوْنَ فِیْ

اُگادےئے۔ یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں سو تم مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے کیا پیدا کیا جو اس کے علاوہ ہیں؟ بلکہ بات یہ ہے کہ ظالم لوگ

ضَلٰی مُبِیْنٌ ۝

کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں

آسمان وزمین اور پہاڑ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق

ہیں اس کے سوا کسی نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا

**تفسیر:** یہ دو آیتیں ہیں پہلی آیت میں آسمان کی تخلیق اور زمین کے بعض احوال بیان فرمائے اول تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بغیر ستون کے پیدا فرمایا ہے تم آسمانوں کو دیکھ رہے ہو کہیں بھی کوئی ستون نہیں ہے اتنے بڑے اور بھاری ساتوں آسمان محض اللہ تعالیٰ کی قدرت سے قائم ہیں انہیں قائم رکھنے کے لئے اُسے ستون بنانے اور اُن پر قائم رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

اس کے بعد پہاڑوں کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں بڑے بڑے بھاری بھاری پہاڑ ڈال دیئے تاکہ وہ تمہیں لے کر حرکت نہ کریں اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو مسندروں کے پانیوں کی وجہ سے جو اُسے گھیرے ہوئے ہیں اور سخت تیز ہواؤں کی وجہ سے زمین حرکت کرتی رہتی جب وہ حرکت کرتی تو بنی آدم بھی اس کے ساتھ متحرک ہوتے گرتے

پڑتے اور کوئی کام نہ کر پاتے یوں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ پہاڑوں کے بغیر بھی زمین کو پلنے جلنے سے محفوظ رکھے لیکن اس نے اسباب کے طور پر اس پر پہاڑ پیدا فرمادیئے۔ اسی لئے جب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے تو پہاڑوں کے ہوتے ہوئے بھی زمین میں زلزلہ آ جاتا ہے اور قیامت کے دن تو زمین میں پوری طرح بھونچال آنا ہی ہے جسے **إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا** میں بیان فرمایا ہے۔ یاد رہے کہ آیت کریمہ میں جس حرکت کی نفی فرمائی ہے اس سے زلزلہ جیسی حرکت مراد ہے اگر زمین کی حرکت مستدیرہ ہو جیسا کہ اہل سائنس کہتے لگے ہیں تو آیت کریمہ میں اس کی نفی نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں ہر طرح کے چوپائے پیدا فرمادیئے یہ چوپائے زمین پر پھیلے ہوئے ہیں چرتے پھرتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں اور انسانوں کی ضرورت میں کام آتے ہیں نیز اللہ تعالیٰ نے آسمان سے زمین پر پانی برسایا جو بار بار برستا ہے اور برستار ہوتا ہے اس پانی کی وجہ سے مختلف انواع کی چیزیں پیدا ہوتی رہتی ہیں جو انسانوں کے بھی کام آتی ہیں اور ان کے چوپایوں کو بھی ان میں سے چارہ ملتا ہے۔

دوسری آیت میں فرمایا کہ جو اوپر مذکور ہوا یہ سب اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے جو ان چیزوں کا خالق ہے صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ مشرکین نے اللہ تعالیٰ کے سوا جو معبود تجویز کر رکھے ہیں وہ تو عاجز محض ہیں اگر انہوں نے کوئی چیز پیدا کی ہو تو دکھاؤ وہ کیا ہے۔ جب کائنات کا وہ ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور تمہارے تجویز کئے ہوئے باطل معبود بھی اسی کی مخلوق ہیں اور ان کے عاجز ہونے کا یہ عالم ہے کہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے **(لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَا أَجْمَعًا)** تو انہیں اللہ تعالیٰ کا شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے سوا معبود تجویز کرنا صریح گمراہی ہے اس بات کو واضح فرمانے کے لئے آیت کریمہ کو **بَلِ الْطَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ** پر ختم فرمایا۔

**وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَنَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّا نَشْكُرْ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفِيْرٌ حَمِيْدٌ ۝۱۰** **وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَبْنِي لَا تَشْرِكْ بِاللَّهِ**

اور بلاشبہ ہم نے لقمان کو دانشمندی عطا فرمائی کہ اللہ کا شکر ادا کر اور جو شخص شکر ادا کرے سو وہ اپنے ہی بھلے کے لئے شکر ادا کرتا ہے اور جو

کفر کرے تو اس میں شک نہیں کہ اللہ بے نیاز و کا شاق ہے اور جب لقمان نے نصیحت کرتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا

**إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ۝۱۱** **وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَسَنَةً إِنَّهُ هُوَ عَلَى**

بلاشبہ شرک بہت ظلم ہے اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں تاکید کر دی اس کی ماں نے ضعف پر ضعف برداشت کرتے ہوئے اسے پیٹ میں رکھا

**وَهُنَّ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَبِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيْرِ ۝۱۲** **وَأِنْ جَاهَدَاكَ**

اور اس کا دودھ چھوٹا دو سال میں ہے کہ تو میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی میری ہی طرف لوٹ کر آتا ہے اور اگر تیرے ماں باپ تجھ پر زور دیں کہ تو

**عَلَى أَنْ تَشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۝۱۳**

میرے ساتھ شرک کرے جس کی تیرے پاس کوئی دلیل نہیں تو ان کی فرمانبرداری نہ کرنا اور ان کے ساتھ دنیا میں خوبی کے ساتھ رہنا

وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۱۵﴾

اور جو شخص میری طرف متوجہ ہو اس کا اتباع کرنا پھر تم سب کو میری طرف لوٹنا ہے سو میں تمہیں ان اعمال سے باخبر کروں گا جو تم کیا کرتے تھے

## حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ کے نصائح

**تفسیر:** اس رکوع میں حضرت لقمانؑ کا اور ان کی نصیحتوں کا ذکر ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھیں، درمیان میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو وصیت کی کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھی طرح پیش آئے۔

**حضرت لقمانؑ کا تعارف:** لقمانؑ کون تھے اور کس زمانہ میں تھے؟ اس بارے میں اصحاب سیر اور علمائے تفسیر نے کئی باتیں لکھی ہیں یہ سب باتیں اسرائیلیات میں سے ہیں صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بہن کے بیٹے تھے اور ایک قول یہ ہے کہ ان کی خالہ کے بیٹے تھے والد کا نام باعوراء اور عتقا لکھا ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آزریٰ اولاد میں سے تھے ایک ہزار سال تک زندہ رہے اور داؤد علیہ السلام کا زمانہ پایا اور ان سے علم بھی حاصل کیا و اقدی سے نقل کیا گیا ہے وہ حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد ﷺ کے درمیان جو زمانہ تھا اُس میں گذرے ہیں۔ پھر اس میں یہ اختلاف ہے کہ وہ نبی تھے یا نہیں۔ حضرت عکرمہ اور شععی سے نقل کیا ہے کہ وہ نبی تھے، بعض لوگوں نے انہیں حبشی بتایا ہے ان کے آزاد اور غلام ہونے میں بھی اختلاف ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

ان کا شغل کیا تھا؟ اس بارے میں بھی متعدد اقوال ہیں: اول یہ کہ وہ نجار تھے یعنی بڑھئی کا کام کرتے تھے۔ اور دوم یہ کہ گدے اور تکیے بناتے تھے۔ سوم یہ کہ درزی کا کام کرتے تھے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ بکریاں چراتے تھے۔ یہ سب باتیں لکھنے کے بعد صاحب روح المعانی جلد ۲ ص ۸۳ میں فرماتے ہیں: ولا وثوق لی بشیء من ہذہ الاخبار غیر انی اختار انہ کان رجلاً صالحاً حکیمًا ولم یکن نبیاً (یعنی ان باتوں میں سے کسی بات پر بھی وثوق نہیں کیا جاسکتا اور میں یہ مانتا ہوں کہ وہ رجل صالح تھے، حکیم تھے اور نبی نہیں تھے) جب نبی نہیں تھے تو ان کو جو خطاب ہے وہ بذریعہ الہام تھا یا ان کے زمانہ کے نبی کے ذریعہ تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے قاضی تھے۔ حضرت لقمانؑ سے بہت کلمات حکمت منقول ہیں، مؤطا امام مالک میں ہے کہ حضرت لقمان حکیم سے دریافت کیا گیا کہ یہ جو آپ کو علم اور فضل ملا ہے اس کا کیا سبب ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ تین باتوں پر عمل کرنے سے یہ مقام حاصل ہوا (۱) سچی بات کرنا (۲) امانت ادا کرنا (۳) لایعنی بات اور لایعنی کام کو چھوڑ دینا۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۳۵)

یہ جو فرمایا کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی، اس حکمت کی تشریح میں بھی متعدد اقوال ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ حکمت سے عقل وفہم اور سمجھداری مراد ہے۔ اور علامہ راعبہ اصفہانیؒ نے فرمایا کہ اس سے موجودات کی معرفت اور اچھے کام کرنا مراد ہے۔ امام رازیؒ نے فرمایا کہ علم کے مطابق عمل کرنا مراد ہے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے علم و عمل دونوں کی پختگی مراد ہے۔ (روح المعانی)

اِنْ اشْكُرْ لِيْ (کہ تو اللہ کا شکر ادا کر) جو نعمتیں تمہیں دی ہیں ان سب کا اور خاص کر حکمت جو عطا فرمائی ہے اس کا



شکر ادا کرو: وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّا لَنُضَاعِفْهُ (اور جو شخص اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ اپنی ہی جان کے لئے شکر کرتا ہے) کیونکہ اس شکر کا نفع خود اسی کو پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ ثواب بھی عطا فرمائے گا اور مزید نعمتیں دے گا جیسا کہ لَبَسْنَا شُكْرَكُمْ لَازِلْنَدْنُكُمْ میں واضح فرمادیا ہے: وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ اور جو شخص ناشکری کرے گا تو اس میں اس کا اپنا ہی نقصان ہے اور اللہ تعالیٰ کو کسی کے شکر گزار ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ ساری مخلوق سے اور ساری مخلوق کے اعمال سے اور طاعات سے بے نیاز ہے اور وہ حمید ہے تمام خوبیوں والا ہے اس کی ذات کامل ہے صفات عالیہ سے مہصف ہے کوئی شخص اس کی حمد و ثناء بیان کرنے میں مشغول ہو یا نہ ہو وہ بہر حال حمید ہے۔

**شرک ظلم عظیم** ہے: اس کے بعد حضرت لقمانؑ کی ایک اہم نصیحت کا تذکرہ فرمایا اور وہ یہ کہ تو کسی کو اللہ کا شریک نہ بنانا نہ اعتقادات میں نہ عبادات میں اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (بلاشبہ شرک ظلم عظیم ہے) جس کسی چیز کو بے محل استعمال کیا جائے اسے ظلم کہتے ہیں اور اس سے بڑا کیا ظلم ہوگا کہ اپنے خالق اور اپنے مالک کو چھوڑ کر اپنے جیسی مخلوق کی عبادت کی جائے۔

**والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت:** وَوَضَعْنَا لِلْإِنْسَانِ (الآیہ) اور ہم نے انسانوں کو تاکہ کی کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھی طرح پیش آتا رہے ان کی خدمت کر، حسن سلوک کا رویہ اختیار کر، انسان کو سمجھنا چاہئے کہ کبھی وہ حاجت مند تھا اس وقت اس کی ماں نے اس کی خدمت کی اس کی ضرورتوں کا خیال رکھا اور اس کے لئے تکلیفیں برداشت کیں ایک والدہ ہی کی مصیبت کو دیکھ لو اس نے زمانہ حمل میں پیٹ میں رکھا، ضعف پر ضعف کو برداشت کیا کیونکہ جیسے جیسے حمل کی مدت بڑھتی چلی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ عورت کا ضعف بھی بڑھتا چلا جاتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں جو دعا تلقین فرمائی ہے اس میں ماں اور باپ دونوں کی محنت و مشقت کا ذکر ہے: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا (اے انسان تو یوں دعا کر کہ اے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے چھپنے میں پالا ہے)۔

وَفَصَّلَهُ فِيْ عَامَيْنِ (اور انسان کا دودھ چھوٹا دو سال میں ہے) بچے کی پیدائش کے بعد دودھ پلانے کا سلسلہ چلتا ہے اس زمانہ میں بھی ماں باپ کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے بچہ دودھ پیتا جاتا ہے جسم بڑھتا رہتا ہے توانائی آتی رہتی ہے ماں دودھ پلانے کا اہتمام کرتی ہے باپ مال کسب کرتا ہے بچہ سوتے سوتے ڈر جاتا ہے کبھی بخار آ جاتا ہے کبھی کسی اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے ماں باپ جان نثاری کے ساتھ اس کی خدمت کرتے ہیں اسے آرام سے سلاتے ہیں اپنی نیند کھواتے ہیں اور اسے سینے سے لگائے لگائے پھرتے ہیں یہ تو چھپنے کی باتیں ہیں اور اس کے بعد بھی بالغ ہونے تک اس کی پرورش اور پرداخت میں لگے ہی رہتے ہیں۔ ان کی محنتوں اور مشقتوں کو سامنے رکھا جائے تو ایک شریف انسان کا دل بھی چاہتا ہے کہ جب بڑا ہو گیا تو اب انہیں آرام پہنچائے اور ان کی خدمت کرے اور ان کی خدمات کا شکر گزار ہو۔ شرافت انسانی کا تقاضا ہے پھر خالق مجبہ نے بھی اس کا حکم فرمایا ہے۔ سب سے بڑا شکر تو اللہ کا ہے جس نے انسان کو پیدا فرمایا اور اس کے ماں باپ کو بھی اور ماں باپ کے دل میں محبت اور مانتا ڈالی جنہوں نے دکھ سکھ میں پرورش کی ان کی یہ محنت اور مشقت لائق شکر ہے اس لئے فرمایا: اِنَّ الشُّكْرَ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ (کہ تو میرا شکر ادا کر اور اپنے ماں باپ کا)۔ ساتھ ہی اِلَى الْمَصِيْدِ بھی فرمایا (کہ سب کو میری طرف لوٹنا ہے) جو شخص جو بھی عمل کرے گا اس کی جزا سزا پالے گا۔

اس کے بعد فرمایا: وَاِنْ جَاهَدَكَ عَلَى اَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا (اور اگر تیرے والدین تجھ پر اس

بات کا زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے جس کی تیرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو ان کی فرمانبرداری نہ کرنا۔ دنیا میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے اور غیر اللہ کی عبادت کرنے کا سلسلہ چلا ہوا ہے، یہ ایک محض اندھی تقلید کے طور پر ہے۔ ماں باپ کو مشرک پاتے ہوئے شرک کا رواج دیکھتے ہیں تو خود بھی شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسی لئے جب مشرکین کو تنبیہ کی جاتی ہے اور شرک سے روکا جاتا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو اسی پر پایا، علمی عقلی دلیل کوئی نہیں محض تقلید ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ جو چیز بے دلیل ہے وہ غلط ہے، مگر اہی ہے اسے اختیار نہ کرو اگر ماں باپ زور دیں کہ اللہ کے ساتھ شرک کرو تو اس میں ان کی اطاعت نہ کرنا۔ انہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دیں سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا حق ہے کیونکہ وہ خالق اور مالک ہے کسی کے کہنے سے اس کی نافرمانی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کسی کے کہنے سے نہ شرک اختیار کرنا جائز ہے نہ کسی بھی قسم کا کفر نہ کسی بھی قسم کا گناہ۔ اسی لئے حدیث شریف میں فرمایا لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِی مَعْصِیَةِ الْخَالِقِ کہ خالق کی نافرمانی میں کسی کی فرمانبرداری نہیں ہے۔

وَصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ الَّذِي مَعْرُوفًا (اور دنیا میں ان کے ساتھ خوبی کے ساتھ رہنا سہنا رکھو) یعنی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ رکھو مومن ہوں یا کافر، حسن سلوک کے ساتھ پیش آتے رہو، اگر وہ کافر ہیں تو ان کے کفر کی وجہ سے ان کی خدمت اور حسن سلوک سے منہ نہ موڑو بس اتنا خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو۔

وَالَّذِينَ سَبَقُوا مِنَ الْأَكْبَابِ (اور جو لوگ میرے راستے کی طرف رجوع کریں ان کا اتباع کرنا) اس میں نیک بننے اور نیکیوں پر ثابت قدم رکھنے کا طریقہ بتا دیا اور وہ یہ کہ جو بندے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں ان کا اتباع کیا جائے۔ انسان کا مزاج ہے کہ وہ محبت سے متاثر ہوتا ہے برے آدمیوں میں آنا جانا رکھتا ہے تو ان کا اثر لے لیتا ہے اور اگر صالحین کے پاس آتا جاتا ہے ان کی مجلسوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے تو نیکی کی طرف طبیعت چلے لگتی ہے لہذا انسان پر لازم ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں ان کی بتائی ہوئی راہ پر چلے انہیں کے ساتھ رہے اور ان کا اتباع کرے ورنہ شیطان اچک لے گا اور بری راہ پر ڈال دے گا۔

ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (پھر میری طرف تم سب کو لوٹنا ہے سو میں تمہیں ان کاموں سے باخبر کر دوں گا جو تم کیا کرتے تھے) ہر ایک اپنے عمل سے باخبر ہوگا اور اپنے اپنے عمل کے مطابق سزا و جزا کا مستحق ہوگا۔ والدین کی خدمت اور فرمانبرداری کے بارے میں سورۃ الاسراء کے رکوع نمبر ۳ میں اور سورۃ العنکبوت کے رکوع نمبر ۱ میں تفصیل سے لکھا جا چکا ہے اس کا بھی مطالعہ کر لیا جائے۔

يٰۤاِبْنٰی اِنَّكَ اَنْتَ مُثْقَلٌ حَبۡتَہٗ مِّنْ خُرَدٍ لِّفَتٰنُکُنْ فِی صَخْرَۃٍ اَوْ فِی السَّمٰوٰتِ

اے میرے بیٹا! بے شک بات یہ ہے کہ اگر کوئی عمل رائی کے دانہ کے برابر ہو تو پھر وہ پتھر کے اندر ہو یا آسمانوں میں ہو

اَوْ فِی الْاَرْضِ یٰۤاِبْنٰی اِنَّ اللہَ لَطِیْفٌ خَبِیۡرٌ ۝۹ یٰۤاِبْنٰی اَقِمِ الصَّلٰوۃَ وَاْمُرْ

یا زمین میں ہو اللہ اس کو حاضر کر دے گا بلاشبہ وہ لطیف ہے خبیر ہے۔ اے بیٹو نماز قائم کرو اور بھلائی کا حکم کرو

بِالْمَعْرُوفِ وَإِنَّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْدُرْ عَلَىٰ مَا آصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ۝

اور برائی سے منع کرو اور تجھے جو تکلیف پہنچ جائے اس پر صبر کر بلاشبہ یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔

وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ

اور تو لوگوں سے اپنا رخ مت پھیر اور زمین پر اترا کر مت چل بلاشبہ تکبر کرنے والے کو اللہ پسند نہیں

فَخُورٍ ۝ وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْظُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ۝

فرماتا اور تو اپنی چال میں درمیانہ طریقہ اختیار کر اور اپنی آواز کو پست کر بلاشبہ سب سے زیادہ مکروہ آواز گدھوں کی آواز ہے۔

## نماز قائم کرنے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تاکید

**تفسیر:** انسانوں کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ زندگی گزارنے کا حکم فرمانے کے بعد پھر حضرت لقمان کی وصیتوں کا بیان شروع ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا علم بہت وسیع ہے وہ اپنی مخلوق کو اور مخلوق کے ہر عمل کو خوب اچھی طرح جانتا ہے جب قیامت کے دن حاضر ہوں گے تو وہ چھوٹے بڑے عمل کی جزا دے گا، اگر کسی شخص نے بہت ہی چھپا کر کوئی عمل کیا ہو جو چھوٹا ہونے میں رائی کے دانہ کے برابر ہو اور اس کے پوشیدہ ہونے کی یہ صورت ہو کہ وہ کسی پتھر کے اندر چھپا ہوا ہو یا آسمانوں کے اندر موجود ہو یا زمین میں ہو تو اللہ شانہ کو اس کا بھی علم ہے جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں وہ بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ حضرت لقمان نے فرمایا کہ دیکھو بیٹا کسی کا کوئی بھی عمل ہو کسی بھی طرح اور کہیں بھی پوشیدہ ہو قیامت کے دن اللہ اس کو حاضر فرما دے گا۔ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ میں جو عمل چھپ کر کر لوں گا اس کی جزا سے بچ جاؤں گا بلاشبہ اللہ تعالیٰ لطیف ہے باریک بین ہے ہر چیز کو جانتا ہے اور خیر بھی ہے اسے ہر شخص ہر فرد اور ہر عمل کی خبر ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نماز قائم کرنے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی بھی وصیت فرمائی نماز کو قائم کرنا اچھی طرح پڑھنا دنیاوی دھندوں سے دل فارغ کر کے نماز میں لگنا نماز ہی کی طرف متوجہ رہنا اور نماز کو صحیح طریقہ پر ادا کرنا اور خود نیکی پر قائم رہتے ہوئے دوسروں کو بھی بھلائی کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا یہ سب بہت بڑا اور اہم کام ہے۔ پھر جب کوئی شخص لوگوں کو فرائض و واجبات کی طرف متوجہ کرے نیک کاموں کی تلقین کرے اور گناہوں پر متنبہ کرے تو اس کے مخاطبین بعض مرتبہ آڑے آ جاتے ہیں بے تکے جواب دیتے ہیں طرح طرح کی باتیں سناتے ہیں جس سے قلبی و روحانی تکلیف ہوتی ہے اور بعض مرتبہ معاند جاہل چٹ مخاطب مبلغ اور داعی کو جسمانی تکلیف بھی پہنچاتے ہیں اس پر صبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے ثابت قدمی کے ساتھ کام کرتے رہنے اور جو تکلیف پہنچے اسے سہنے اور اس پر صبر کرنے کی ہمت بیان کرتے ہوئے إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ فرمایا کہ بلاشبہ یہ سب کچھ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔

صبر کرنے کی اہمیت و ضرورت اور تواضع سے پیش آنے کی تاکید: وَأَصْدُرْ عَلَىٰ مَا آصَابَكَ جو فرمایا گو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سباق میں واقع ہے لیکن الفاظ کا عموم ہر طرح کی مصیبت پر صبر کرنے کو شامل

ہے۔ درحقیقت کسی بھی تکلیف پر صبر کرنا عین وقت پر تو بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن اس کا پھل بیٹھا اور اچھائی سامنے آتا ہے جسے **إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ** میں بیان فرمایا ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے یہ بھی فرمایا کہ لوگوں سے اپنا رخ پھیر یعنی تکبر نہ کرو اور ایسا انداز رکھو جس سے اپنی بڑائی اور لوگوں کی حقارت ظاہر نہ ہوتی ہو یعنی لوگوں کے ساتھ بشاشت کے ساتھ پیش آؤ حق پر قائم رہتے ہوئے گھل مل کر رہو ان کی طرف سے اپنا رخ پھیر کر اور چہرہ موڑ کر نہ گذر جاؤ درحقیقت یہ بہت بڑی نصیحت ہے اور ان لوگوں کو تنبیہ ہے جنہیں کچھ علم یا مال یا عہد مل جاتا ہے تو وہ دوسروں کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ ان کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں یا ان کے ساتھ لطف اور رفق اور مہربانی سے پیش آئیں۔ رسول اللہ ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑائی دی کہ جو کسی بھی مخلوق کو عطا نہیں فرمائی آپ ﷺ تو وضع کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ شامک ترمذی میں آپ کے اخلاق کریمانہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے: **وَإِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ مَعًا** کہ جب آپ ﷺ کسی کی طرف توجہ فرماتے تو پورے بدن کے ساتھ توجہ فرماتے تھے ایسا نہیں کہ جس سے بات ہو رہی ہو اس کے ساتھ لا پرواہی اور بے توجہی کا معاملہ فرماتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ کا یہ طریقہ تھا کہ جب کسی سے مصافحہ فرماتے تو اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ خود نہیں چھڑاتے تھے جب تک کہ وہی اپنا ہاتھ نہ چھڑا لیتا اور جس سے ملاقات ہوتی تھی اس کی طرف سے اپنا چہرہ نہیں پھیرتے تھے جب تک کہ وہ خود نہ پھیر لیتا۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۵۲۰ از ترمذی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مومن الفت والا ہوتا ہے اور اس میں کوئی خیر نہیں جو الفت نہیں رکھتا اور جس سے لوگ الفت نہیں رکھتے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۲۲۵ از احمد و بیہقی و مجمع الزوائد جلد ۱ ص ۲۷۳)

**تکبر کی مذمت:** حضرت لقمان رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا یہ زمین پر اتراتے ہوئے اکڑتے مکڑتے ہوئے نہ چلو کیونکہ یہ تکبر کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے اور فخر کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا سورۃ الاسراء کو ص ۳ میں بھی یہ مضمون گذر چکا ہے وہاں یہ بھی فرمایا ہے: **إِنَّكَ لَنْ تَخْضُقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طَوْلاً** (بلاشبہ تو زمین کو نہیں پھاڑ سکتا اور لمبائی کے اعتبار سے پہاڑوں تک نہیں پہنچ سکتا) یعنی تجھ سے بڑی بڑی مخلوق موجود ہے تجھے اکڑنا مکڑنا اترنا اور شیخی بھگانا کہاں زیب دیتا ہے؟

حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے یہ بھی کہا کہ اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کرو یعنی اس طرح چلو کہ دوڑ بھاگ نہ ہو کیونکہ وقار کے خلاف ہے اور اس میں خود اپنی ذات کو اور زمین پر رہنے اور بسنے والوں اور چلنے پھرنے والوں کے لئے بھی خطرہ ہے اور نہ بہت آہستہ چلو کہ تکبر اور تضرع والے چلتے ہیں تاکہ لوگوں پر اپنا امتیاز ظاہر کریں ہاں اگر کوئی بیمار اور ضعیف ہے تو وہ دوسری بات ہے۔

**آواز کو پست کرنے کا حکم:** حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت بھی فرمائی کہ اپنی آواز کو پست کرو یعنی شور نہ کرو اور ضرورت سے زیادہ بلند آواز نہ نکالو ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ آوازوں میں سب سے زیادہ مکروہ آواز گدھوں کی آواز ہے جس طرح گدھوں کی آواز سے تکلیف ہوتی ہے اسی طرح انسانوں کے چیخنے اور چلانے سے بھی وحشت اور اذیت ہوتی ہے۔

اَلَمْ تَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَاَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بلاشبہ اللہ نے تمہارے لئے وہ سب کچھ مسخر فرمایا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور تم پر اپنی ظاہری

وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ۝۱۳۹

اور باطنی نعمتیں بھڑپور اٹیل دی ہیں اور لوگوں میں بعض لوگ ایسے ہیں جو بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں اور جب

قِيلَ لَهُمْ اَتَّبِعُوا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْنَاۤ اِبَاءَنَاۤ اَوْ لَوْ كَانَ الشَّيْطٰنُ

ان سے کہا جاتا ہے کس چیز کا اتباع کرو جو اللہ نے نازل فرمائی تو کہتے ہیں کہ بلکہ ہم تو اس چیز کا اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے کیا باپ دادوں کا اتباع کریں گے

يَدْعُوهُمْ اِلَى عَذَابِ السَّعِيْرِ ۝۱۴۰ وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُۥ اِلَى اللّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ

اگر چہ ان کے باپ دادوں کو شیطان عذاب دوزخ کی طرف بلاتا رہا ہو۔ اور جو شخص اپنی ذات کو اللہ کا فرمانبردار بنادے اور وہ محسن بھی ہو تو اس نے مضبوط کڑے کو

بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ۖ وَاِلَى اللّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْر ۝۱۴۱ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنُكَ كُفْرُهُۥ ۚ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ

اچھی طرح سے پکڑ لیا اور اللہ ہی کی طرف سے کاموں کا انجام ہے۔ اور جو کوئی شخص کفر اختیار کرے تو اس کا کفر آپ کو بخیرہ نہ کرے گا۔ ان سب کو ہمارے ہی پاس لوٹنا ہے

فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوْۤا اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذٰلِكَ الصُّدُوْر ۝۱۴۲ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيْلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ اِلٰى

سو ہم انہیں وہ عمل بتا دیں گے جو انہوں نے کئے بلاشبہ اللہ کو دلوں کی باتیں خوب معلوم ہیں۔ ہم انہیں چند روزہ عیش دیں گے پھر انہیں سخت

عَذَابٍ غَلِيْظٍ ۝۱۴۳

عذاب کی طرف مجبور کریں گے۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھرپور ظاہری اور باطنی نعمتوں سے نوازا ہے، منکرین

آباؤ اجداد کی تقلید میں گمراہ ہوئے اہل ایمان نے مضبوط کڑے کو پکڑ رکھا ہے

**تفسیر:** حضرت لقمان کی نصائح کا تذکرہ ختم کرنے کے بعد پھر توحید کا مضمون شروع فرمایا۔ ارشاد فرمایا کیا تم نے

نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ تمہارے لئے مسخر فرمادیا جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے مطلب یہ

ہے کہ جو چیزیں آسمان وزمین میں پیدا فرمائی ہیں انہیں تمہارے کام میں لگا دیا ہے ان میں بعض چیزیں تو وہ ہیں جو انسان

کے حکم کے تابع ہیں اور جو تابع نہیں ہیں وہ بھی واسطہ یا بلا واسطہ انسانوں کیلئے فائدہ مند ہیں ان کا وجود کسی نہ کسی طرح سے

انسان کے منافع کا ذریعہ ہے انسان اگر غور کرے اور اپنے واقعی نفع و ضرر کو پہچانے تو یہ بات اس کی سمجھ میں آ جائے گی۔

پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں اٹیل دی ہیں یعنی بھرپور نعمتیں عطا فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ نے

انسان کو اتنی زیادہ نعمتیں دی ہیں جن کو شمار بھی نہیں کر سکتا اور یہ نعمتیں جسمانی بھی ہیں اور روحانی بھی ظاہری بھی اور باطنی

بھی اہل ایمان کے لئے تو ایمان بہت بڑی نعمت ہے بلکہ سب سے بڑی نعمت ہے جو آخرت میں ابدی نعمتیں ملنے کا ذریعہ

ہے۔ تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے جسم دیا ہے، صحت و عافیت عطا فرمائی ہے، طرح طرح کی غذائیں دی ہیں، حواس خمسہ (یعنی قوت سامعہ اور باصرہ اور شانہ اور ذائقہ اور لامسہ) عطا فرمائی اور عقل و فہم سے نوازا ہے، اچھی صورت دی ہے، جسم میں جوڑ رکھے ہیں جن کے ذریعہ اٹھتا بیٹھتا اور لیٹتا ہے اور چلتا پھرتا ہے اور ضرورت کی چیزوں کو پکڑتا اور استعمال کرتا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ ظاہری نعمتوں سے کون سی نعمتیں مراد ہیں اور باطنی نعمتیں کون سی ہیں؟ اس کے بارے میں صاحب روح المعانی نے متعدد اقوال نقل کئے ہیں، ایک قول یہ ہے کہ ظاہری نعمتوں سے اسلام کا غالب ہونا اور دشمنوں کے مقابلے میں فتح یاب ہونا اور باطنی نعمتوں سے فرشتوں کی امداد آنا مراد ہے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ نعم ظاہرہ سے دنیاوی نعمتیں اور نعم باطنہ سے اخروی نعمتیں مراد ہیں۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ ظاہری نعمتوں سے سمع، بصر، زبان اور تمام اعضا مراد ہیں اور باطنی نعمتوں سے قلب اور عقل و فہم مراد ہیں، اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ ظاہری نعمتیں وہ ہیں جو سب کے سامنے ہیں اور باطنی نعمتیں وہ ہیں جو ہر شخص کے ساتھ مخصوص ہیں۔

نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ جس ذات پاک نے یہ نعمتیں دی ہیں صرف اُسی کی عبادت کی جائے لیکن بعض لوگ توحید کے بارے میں جھگڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کو معبود حقیقی ماننے کو تیار نہیں نہ اُن کے پاس علم ہے نہ ہدایت ہے نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی نازل فرمودہ کتاب ہے جس کی ہدایت میں کوئی بات کرتے، محض باپ دادوں کی اندھی تقلید کر رکھی ہے۔ جب انہیں توحید کی دعوت دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل فرمایا ہے اس کا اتباع کرو تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے جس دین پر اپنے باپ دادوں کو پایا ہے اُسی کا اتباع کرتے رہیں گے ان لوگوں کی جہالت اور حماقت پر تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا: اَوَلَوْ كُنَّا الشَّيْطٰنُ يَدْعُوهُمْ اِلٰى عَذَابِ السَّعِيْرِ (کیا یہ لوگ اپنے باپ دادوں کا اتباع کرتے رہیں گے اگر چہ ان لوگوں کو شیطان دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو) اور وہ اس کی دعوت کو قبول کر کے (جو شرک اور کفر کی دعوت ہے) دوزخ میں جا چکے ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ ہوش گوش سے کام لو دنیاوی نقصان اور خسران کے بارے میں تو کسی کا اتباع کرنے کو تیار نہیں ہوتے اور صاف کہہ دیتے ہیں کہ فلاں شخص کنویں میں گرنے لگے تو ہم کیوں گریں، لیکن باپ دادوں کی تقلید کر کے دوزخ کے دائمی عذاب میں جانے کو تیار ہیں۔

اہل شرک اور اہل کفر کی حماقت اور ضلالت بتانے کے بعد اہل ایمان کی تعریف فرمائی اور فرمایا وَمَنْ يُضِلَّهُمْ وَجْهَكَ اِلٰى الدُّوْرِ هُوَ مُضِلٌّ فَقَدْ اَسْتَشْرَكَ بِالْعَزْوَةِ الْوُثْقٰى (اور جو شخص اپنی ذات کو اللہ کا فرمانبردار بنادے اور وہ مخلص بھی ہو تو اس نے مضبوط کڑے کو اچھی طرح سے پکڑ لیا) یعنی جس نے اپنے جسم اور جان کو اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار بنا دیا (عقائد میں بھی اعمال میں بھی) اور اس کی یہ فرمانبرداری اخلاص کے ساتھ ہے ظاہر اور باطن دونوں یکساں ہیں تو اس نے بڑے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا، یعنی ایسے دین کو اختیار کیا جو ہلاکت و خسران اور تباہی سے پوری طرح محفوظ ہونے کا سبب بن گیا اور اس کی وجہ سے وہ دارالعداب یعنی دوزخ میں جانے سے بچ گیا اور اس نے جو دین اختیار کیا یہ دین اُسے دارالنعیم یعنی جنت میں لے جانے کا ضامن بن گیا۔ دین توحید مضبوط حلقہ ہے جو ٹوٹنے والا نہیں ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں لَا اَنْفُسًا لِّهَا فرمایا ہے۔

وَاللّٰى اَلَّوْا عَاقِبَةُ الْمُؤْمِرِ (اور اللہ ہی کی طرف سب کاموں کا انجام ہے) یعنی حق کا اتباع کرنے والے اور باطل کے ماننے والے اور ان کے اعمال سب ہی اس کے حضور پیش ہوں گے وہ سب کو ان کے عقائد و اعمال کے مطابق جزا سزا دے گا۔

اس کے بعد رسول اللہ ﷺ کو تسلی دینے کے لئے ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزَنُكَ لِقَاءُهُ (جو شخص کفر کرے اُس کا کفر آپ کو رنجیدہ نہ کرے) آپ اپنا کام کرتے رہیں اور واضح طور پر حق کو واضح فرماتے رہیں آپ کی اتنی ہی ذمہ داری ہے پھر آپ کسی کے کفر سے رنجیدہ کیوں ہوں؟ جو شخص کفر پر رہے گا اپنا ہی برا کرے گا۔ اَلَا اِنَّا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا (ہماری ہی طرف سب کو لوٹنا ہے سو وہ جو اعمال کرتے تھے ہم ان کو بتا دیں گے) ہر ایک کا عمل سامنے آ جائے گا پھر اس کے مطابق جزا سزا پائے گا۔ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِذٰلِكَ الْحُدُوْدِ (بلاشبہ اللہ کو دلوں کی باتیں خوب معلوم ہیں) اُسے اہل ایمان کے ایمان اور اہل کفر کے کفر کا پتہ ہے کسی کا کوئی عمل اور عقیدہ اُس سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔

دنیا میں کافروں کو جو کچھ مال ملا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے اُن کی دنیاوی زندگی اچھے حال میں گزر رہی ہے اُن کے بارے میں فرمایا کہ نُبَيِّعُهُمْ قَلِيْلًا (ہم انہیں چند روز عیش دیں گے) ثُمَّ نَصْطَرُّهُمْ اِلٰى عَذَابٍ عَلِيْمٍ (پھر انہیں سخت عذاب کی طرف مجبور کریں گے) جب قیامت کے دن حاضر ہوں گے تو دنیا کا چند روزہ عیش انہیں وہاں ذرا بھی فائدہ نہ دے گا اور انہیں دوزخ کے سخت عذاب میں داخل ہونے پر مجبور کیا جائے گا جس سے بچنے کا کوئی راستہ نہ ہوگا۔

وَلِيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لِيَقُوْلَنَّ اللّٰهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا

اورا آپ ان سے سوال کریں کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا فرمایا تو وہ ضرور یہ جواب دیں گے کہ اللہ نے پیدا فرمایا آپ فرمادیجئے کہ سب تعریف اللہ ہی کے لئے ہے

يَعْلَمُوْنَ ۝ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۝ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ۝ وَلَوْ اَنَّ مَا فِى الْاَرْضِ

بلکہ ان میں اکثر لوگ نہیں جانتے اور اللہ ہی کے لئے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے بلاشبہ وہ بے نیاز ہے سب خوبیوں والا ہے اور زمین میں

مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ ۝ وَ الْبَحْرِ يَدُّ ۝ مِنْ بَعْدِ ۝ سَبْعَةُ اُمْحُرٍ ۝ قَانِعِدَتْ كُلُّمِّنُ اللّٰهِ ۝ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ

جتنے بھی درخت ہیں اگر وہ سب قلم بن جائیں اور یہ جو سمندر ہیں اس کے بعد سات سمندر اس میں اور شامل ہو جائیں تو اللہ کے کلمات ختم نہ ہو گئے بلاشبہ اللہ عزیز ہے

حَكِيْمٌ ۝ مَا خَلَقَكُمْ وَاَلَمْ يَعْلَمْكُمُ اِلَّا الْاَنْفُسُ ۝ وَاِحْدَقِ ۝ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ ۝ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُوَلِّجُ

حکیم ہے نہیں ہے تمہارا پیدا کرنا اور موت کے بعد اٹھانا اگر ایک ہی جان کی طرح بلاشبہ اللہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے اور اللہ اٹل کرتا ہے

الْيَلَّ فِى النَّهَارِ وَيُوَلِّجُ النَّهَارَ فِى الْيَلِّ ۝ وَسَخَّرَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ ۝ كُلٌّ يَّجْرِيْ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۝ وَاِنَّ

رات کو دن میں اور دن کو رات میں اور اس نے چاند اور سورج کو سخر فرمایا ہر ایک اپنے وقت مقررہ تک چلتا ہے اور

اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ ۝ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ

بلاشبہ اللہ ان کاموں سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو یہ اس وجہ سے ہے کہ بلاشبہ اللہ حق ہے اور بلاشبہ یہ لوگ اس کے علاوہ جن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں

الْبَاطِلُ ۝ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ۝

وہ باطل ہیں اور بلاشبہ اللہ عالی شان ہے اور بڑا ہے۔



## اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور تسخیر اور تصرفاتِ تکوینیہ کا تذکرہ

﴿کلمات اللہ غیر متناہی ہیں﴾

**تفسیر:** ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی صفتِ خالقیت اور قدرت اور شانِ بے نیازی اور محمودیت اور عزت و حکمت اور وسع و بصر اور علم اور برتری اور کبریائی کو بیان فرمایا ہے۔ اول تو یہ فرمایا ہے کہ اگر آپ مشرکین سے دریافت فرمائیں کہ بتاؤ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ یہی جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے آپ فرمادیتے کہ سب تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے جب تمہارے اقرار سے خالق وہی ہے جس نے اتنے بڑے آسمانوں کو اور زمین کو وجود بخشا تو یہ بھی سمجھ لینا کہ سب تعریفوں کا مستحق بھی وہی ہے جب یہ بات ہے تو اس کے ساتھ دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہو اور شرک کے مرتکب کیوں ہوتے ہو؟ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (بلکہ بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے) ماحول سے متاثر ہو کر اور اپنے باپ دادوں کی تقلید کو سامنے رکھ کر ایسی جہالت میں مبتلا ہوئے ہیں کہ توحید کی طرف آتے ہی نہیں۔ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے وہ سب اللہ ہی کی مخلوق و مملوک ہے) منجملہ اس مخلوق اور مملوک کے وہ چیزیں بھی ہیں جن کی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں یہ ان کی بیوقوفی ہے اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَمِيدُ یہ بھی سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی عبادت کی حاجت و ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہر حال میں ہر ایک سے بے نیاز ہے اور وہ حمید بھی ہے تمام صفاتِ کمال سے متصف ہے اگر کوئی بھی شخص اس کی حمد و ثناء بیان نہ کرے وہ تب بھی حمید ہے اس کی صفتِ محمودیت میں کوئی فرق نہیں۔

اس کے بعد فرمایا کہ زمین میں جتنے بھی درخت ہیں اگر ان سب کے قلم بن جائیں (جو کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے) اور سمندر کو روشنائی کی جگہ استعمال کیا جائے اور ایک سمندر ختم ہو جائے اور اس کے بعد سات سمندر اور ملا دیئے جائیں یعنی ان کی بھی روشنائی بنادی جائے اور اس روشنائی سے اللہ تعالیٰ کے کلمات کو لکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہ ہوں گے کیونکہ اس کے کلمات غیر متناہی ہیں اور متناہی خواہ کتنا بھی زیادہ ہو بہر حال وہ غیر متناہی کے مقابلہ میں کہیں پہنچ کر ختم ہو ہی جائے گا۔ اور سات دریا جو فرمایا یہ بھی بطور فرض ہے ان کے علاوہ جتنے بھی سمندر روشنائی کی جگہ استعمال ہوتے رہیں گے ختم ہوتے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہ ہوں گے۔

کلمات سے کیا مراد ہے؟ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی صفتِ قدیم کلامِ نفسی مراد ہے اور بعض حضرات نے اس سے اللہ تعالیٰ کی معلومات اور مقدورات مراد لی ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی معلومات اور مقدورات غیر متناہی ہیں جتنے بھی قلم تیار کر لئے جائیں اور جتنے بھی سمندروں کی روشنائی بنائی جائے پھر قلموں سے اللہ تعالیٰ کی معلومات و مقدورات کو لکھا جائے تو یہ معلومات و مقدورات ختم نہیں ہو سکتیں ان کا احصاء نہیں ہو سکتا اور بعض حضرات نے اس سے اللہ تعالیٰ کی صفاتِ کمالیہ مراد لی ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے کمالات کو لکھا جائے تو کبھی ختم نہیں ہو سکتے ان کو لکھتے لکھتے بے انتہاء کروڑوں قلم اور کروڑوں بڑے بڑے دریا ختم ہو جائیں گے لیکن اللہ کی صفات اور کمالات کو اس طرح نہیں لکھا جاتا کہ وہ

ختم ہو جائیں اس کا کچھ بیان سورہ کہف کی آیت **قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدادًا لَّيَكْفِيَنَّ لِلَّذِي ذَلِيلٌ فِيهِ** کے ذیل میں گزر چکا ہے۔  
**إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ** (بلاشبہ اللہ عزت والا ہے حکمت والا ہے)۔

اس کے بعد فرمایا: **مَا خَلَقَكُمْ وَلَا يَحْكُمُكُمْ إِلَّا كَفِّينٌ وَاحِدٌ** (تمہارا پہلی بار پیدا کرنا اور موت دے کر دوبارہ زندہ فرمانا یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک جان کو پیدا کرنا) یعنی سارے انسانوں کو دوبارہ زندہ فرمانا اللہ تعالیٰ کے لئے کچھ بھی مشکل نہیں ہے جس نے کثیر تعداد میں جانیں پیدا فرمادیں وہی دوبارہ ان سب کو زندہ اٹھا دے گا ابتداء پیدا کرنا اور ایک جان کو پیدا کرنا اور بہت بھاری تعداد میں جانوں کا پیدا کرنا اور ان سب کو موت دے کر دوبارہ زندہ فرمانا اس قادر مطلق کے لئے یکساں ہے لہذا بعثت کا انکار کر کے اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ **إِنَّ اللَّهَ يَمِيزُ الْيَقِينُ** (بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے) جو لوگ اہل ایمان ہیں وہ ان کے اقوال کو سنتا ہے اور اعمال کو دیکھتا ہے اور جو لوگ کافر و منکر ہیں وہ ان کے اقوال و اعمال سے بھی باخبر ہے وہ ہر ایک کو اس کے عقیدہ اور قول کے مطابق جزا اور سزا دے گا۔

اس کے بعد ارشاد فرمایا: **أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ (الآیۃ) اے مخاطب کیا تو اس کو نہیں دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے (یہ سب نظروں کے سامنے ہے) اور اس کے علاوہ کسی کو بھی اس تصرف پر قدرت نہیں ہے اور اسی نے چاند اور سورج کو سحر کیا ہے ان دونوں کو جس کام میں لگایا ہے اس کے کرنے پر مجبور ہیں ان کے لئے جو محور مقرر فرمایا ہے اُسی پر چلتے رہتے ہیں ایک سر مواس سے ہٹ نہیں سکتے ان کے لئے جو اللہ تعالیٰ نے ایک اجل مقرر فرمادی ہے اسی اجل تک چل رہے ہیں اپنی ذات میں ان کا اپنا ذاتی کوئی تصرف نہیں۔ **وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ** (اور تم جو کچھ عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے) وہ اسی کے مطابق جزا و سزا دے گا۔ **ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ (الآیۃ) یہ اس سبب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اُس کا وجود حقیقی ہے اور اس کا معبود ہونا بھی برحق ہے لہذا اسی کی عبادت کرنا لازم ہے **وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ** (اور مشرک لوگ جو اس کے علاوہ دوسروں کی عبادت کر رہے ہیں وہ باطل ہیں نہ وہ معبود ہیں نہ معبود ہونے کے قابل ہیں) **وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ** (اور بلاشبہ اللہ عالی شان ہے اور بڑا ہے) کوئی اس کے برابر و ہمسر نہیں لہذا اُس کے علاوہ کوئی بھی مستحق عبادت نہیں۔****

**أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ**

اے مخاطب کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بلاشبہ کئی اللہ کی نعمت کے ساتھ سمندر میں چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی نشانیں میں سے کھلائے بلاشبہ ان میں ہر ایسے شخص کے لئے نشانیاں ہیں جو خوب

**صَبَّارٍ شَكُورٍ ۝ وَإِذَا غَشِيَهمْ مَوَجٌ كَالظُّلُمِ دَعَا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّهمْ إِلَى**

مہر کرنے والا خوب شکر کرنے والا ہوا کہ جب انہیں موج ڈھانپ لیتی ہے جو سائبانوں کی طرح ہوتی ہے تو وہ خالص عقدا کر کے اللہ ہی کو پکارنے لگتے ہیں پھر جب وہ انہیں نجات دے کر

**الْبَرَفِينَهمْ مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ۝**

خشکی کی طرف لے آتا ہے تو ان میں سے بعض لوگ دھڑکتے ہیں کہ ہماری آیتوں کا یہودی شخص انکار کرتا ہے جو عہد کا بہت بھٹا بہت ناشکارا

## سمندر میں کشتیوں کا چلنا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، مشرکین کو جب موج گھیر لیتی ہے تو اخلاص کے ساتھ دعا کرتے ہیں

**تفسیر:** اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام بیان فرمایا ہے کہ سمندر میں جو کشتی چلتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و انعام ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ دیکھو آدھا تولہ لوہا سمندر میں ڈالو تو اسی وقت ڈوب جائے گا اور سونے کا لکڑ جو کشتی کی صورت میں ہے وہ نہیں ڈوبتا یہ کشتیاں ایک شہر سے دوسرے شہر اور ایک براعظم سے دوسرے براعظم تک لے جاتی ہیں سامان لاتی ہیں ضرورت کی چیزیں ان کے آنے جانے کی وجہ سے فراہم ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے انہیں ہواؤں کے پیہڑوں کے ذریعہ اس حال میں کر دیتا ہے کہ ان کا چلنا تیرنا مشکل ہو جاتا پھر اللہ تعالیٰ ہواؤں کا رخ بدل دیتا ہے تو آرام سے چلتی ہیں یہ سب عبرت کی چیزیں ہیں ان کے ذریعہ خالق کائنات جل مجدہ کی معرفت حاصل کرنی چاہئے جو لوگ صبر اور شکر کا مزاج رکھتے ہیں وہی اللہ تعالیٰ کی آیات سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔

بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ چلتی ہوئی کشتی کو پانی کا طوفان گھیر لیتا ہے بڑی بڑی موجیں جو سائبانوں اور بادلوں کی طرح ہوتی ہیں وہ ڈھانپ لیتی ہیں۔ اس صورت میں انسان کو اپنے بچاؤ کا کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آتا جو مومن بندے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف اخلاص کے ساتھ رجوع ہوتے ہی ہیں اور اس سے دُعا مانگتے ہیں لیکن جو لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اُس وقت وہ بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور پوری سچائی اور بھرپور اعتقاد کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں ان میں جو مومن بندے ہوتے ہیں وہ برابر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف متوجہ رہتے ہیں خشکی میں آ کر غیر اللہ کو نہیں پکارتے اور شرک میں مبتلا نہیں ہوتے ان کے بارے میں فرمایا **فَمَا تَدْعُوهُمْ مِّنْ شَيْءٍ** کہ کشتی سے اتر کر خشکی میں آنے والے بعض لوگ اعتدال والی راہ اختیار کرنے والے ہوتے ہیں یعنی توحید پر ہی برقرار رہتے ہیں جو سیدھا اور اعتدال والا راستہ ہے اور جو لوگ خشکی میں آ کر اُس مصیبت کو بھول جاتے ہیں جو کشتی میں پیش آئی تھی یعنی کشتی ڈوبنے کے قریب تھی یہ لوگ پھر شرک اختیار کر لیتے ہیں۔ سورہ عنکبوت میں اسی کو فرمایا **فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ** (سو جب وہ انہیں خشکی کی طرف نجات دے دیتا ہے تو وہ فوراً ہی شرک کرنے لگتے ہیں)

**وَمَا يَجِدُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلاَّ كُفْرًا كَذْبًا** (اور ہماری آیتوں کا ہر وہی شخص انکار کرتا ہے جو عہد کا بہت جھوٹا بہت ناشکرا ہو) ان جھوٹے عہد کرنے والوں میں وہ بھی ہوتے ہیں جو کشتی میں اخلاص کے ساتھ توحید کا عہد کرتے ہیں پھر کشتی سے باہر خشکی میں آ کر توڑ دیتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے بڑے دلائل اور آیات کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے اور توحید کی دعوت کو قبول نہیں کرتے اور نہ صرف یہ کہ حق کو قبول نہیں کرتے بلکہ جھوٹ بھی بولتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری بھی کرتے ہیں آیت کے آخر میں اسی کو بیان فرمایا۔

**يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَأَخْشَوْا يُومًا لَا يُجْزَى وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَارِعٌ**

اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو اور اُس دن سے ڈرو جس دن باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ دے گا اور نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کی طرف سے کچھ بھی

وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا تَوَلَّيْكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴿۱۵۵﴾

بدلہ دینے والا ہوگا بلاشبہ اللہ کا وعدہ حق ہے تمہیں دنیا والی زندگی ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے اور ہرگز تمہیں اللہ کا نام لے کر بڑا دھوکہ باز دھوکہ میں نہ ڈالے

## اللہ تعالیٰ سے ڈرو قیامت کے دن کی حاضری کا فکر کرو شیطان دھوکہ باز تمہیں دھوکہ نہ دیدے

**تفسیر:** اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم فرمایا ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ قیامت کے دن سے ڈرو یعنی اُس دن کی بے بسی اور بے کسی کا دھیان کرو اور اس کا انتظام کرو اور وہ انتظام یہ ہے کہ ایمان لاؤ اور اعمال صالحہ اختیار کرو اُس دن بے کسی کا یہ عالم ہوگا کہ آپس میں کوئی کسی کی طرف سے کوئی بدلہ دینے کو تیار نہ ہوگا سب سے بڑا قریب تر رشتہ باپ اور بیٹے کا ہے قیامت کا دن بڑا ہولناک ہوگا۔ سب کو اپنی اپنی فکر لگی ہوئی ہوگی جب محاسبہ ہونے لگے گا اور کفر پر اور اعمال بد پر سزا ملنے کا فیصلہ ہوگا تو نہ باپ بیٹے کی طرف سے کوئی بدلہ دے گا اور نہ بیٹا باپ کی طرف سے کسی کو بھی یہ گوارا نہ ہوگا کہ یہ عذاب سے بچ جائے اور اس کو جو عذاب ہونا ہے وہ مجھ پر آ جائے۔

قیامت کے بارے میں جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے کوئی شخص اُسے یوں ہی چلتی ہوئی بات نہ سمجھے اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے ضرور واقع ہوگا۔ اب ہر شخص کو اپنے واقعی اصلی مفاد کے لئے متفکر ہونا ضروری ہے کہ میرا آخرت میں کیا بنے گا؟ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں آخرت کے دن کا لیکن دنیاوی زندگی کی مشغولیت آخرت کی تیاری نہیں کرنے دیتی اسی کو فرمایا فَلَا تَغُرَّكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا (سو تمہیں ہرگز دنیا والی زندگی دھوکہ میں نہ ڈال دے) الفاظ کا عموم ان لوگوں کو بھی شامل ہے جو دنیا کا جاہ و مال چھوٹ جانے کے ڈر سے اسلام قبول نہیں کرتے اور ان کو بھی شامل ہے جو مسلمان ہونے کا تو دم بھرتے ہیں لیکن دنیا ہی کو انہوں نے مقصود حقیقی بنا رکھا ہے اور اسی کے لئے سوچتے ہیں اسی کے لئے جیتے ہیں اور اسی کے لئے مرتے ہیں انہیں ہری بھری دنیا پسند ہے، فرائض اور واجبات کو بھی چھوڑتے ہیں اور دنیا جمع کرنے کے لئے خیانت، چوری، غصب، ظلم، حرام کاروبار سب کچھ کر گزرتے ہیں۔

نفس اور شیطان دونوں کا دوستانہ ہے دونوں انسان کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں اور اللہ کا نام لے کر انسان کو دھوکہ دیتے ہیں اور ورغلا تے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ اس وقت نماز چھوڑ دو روزہ توڑ دو اگلے سال زکوٰۃ دے دینا اس سال حج کو نہ جاؤ ابھی تو جوانی ہے گناہ کر کے مزے اڑاؤ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے گناہ کر لیا تو کیا ہے بعد میں توبہ کر لینا اس طرح کی باتیں نفس اور شیطان اور گمراہی کے لیڈر سامنے لاتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمادیا ہے کہ دھوکہ دینے والا تمہیں دھوکہ میں نہ ڈال دے اپنی فکر خود کرو مومن بنو اللہ کی عبادت میں لگو اس کی فرمانبرداری کرو ہوشیار بندہ وہی ہے جو نفس و شیطان کے کہنے میں نہ آئے اور کسی کے بھی بہلانے پھسلانے سے اپنی آخرت تباہ نہ کرے۔

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ

بلاشبہ اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے اور وہ بارش کو نازل فرماتا ہے اور وہ جانتا ہے جو ماؤں کے ارحام میں ہے اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ

فَاذْكُرْ غَدًا وَمَا كَذَرْنِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۖ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿۱۵۶﴾

وہ کل کو کیا کرے گا اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ اسے کس زمین میں موت آئے گی بلاشبہ اللہ جاننے والا ہے باخبر ہے

## پانچ چیزوں کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے

**تفسیر:** قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ فرمایا ہے کہ اللہ غیب اور شہادہ کو جاننے والا ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب کو نہیں جانتا جس کسی کو اس نے غیب کا کچھ علم دیا ہے جس قدر عطا فرمایا ہے اُسے اُسی قدر علم ہے۔ یہاں پانچ امور غیبیہ کا تذکرہ فرمایا ہے صحیح مسلم میں ہے کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ قیامت کب آئے گی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ پوچھنے والا اور جس سے پوچھا گیا ہے اس بارے میں دونوں برابر ہیں اور ساتھ ہی آپ نے یہ بھی فرمایا فَمَنْ يَعْلَمُ مَنَ لَّيْلَةِ الْيَوْمِ فَأَعْلَمُ بِالَّذِي هُوَ لَا يُفْلِحُ (کہ یہ اُن پانچ چیزوں میں سے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا) اس کے بعد آپ ﷺ نے سورہ لقمان کی یہی آخری آیت تلاوت فرمائی۔ (صحیح مسلم)

جن پانچ چیزوں کا آیت بالا میں ذکر ہے ان میں ایک تو قیامت قائم ہونے کا علم ہے یہ غیب کا علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں دیا۔ دوسرے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بارش کو برساتا ہے تیسرے یہ فرمایا کہ ماؤں کے ارحام میں کیا ہے اس کا بھی اللہ ہی کو علم ہے اُسے سب پتہ ہے کہ رحم مادر میں کیا ہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے اور کچھ ہے یا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد مزید دو چیزوں کا تذکرہ فرمایا اور وہ یہ کہ کسی کو یہ معلوم نہیں کہ کل کو میں کیا کروں گا اور فرمایا کہ کسی کو یہ بھی پتہ نہیں کہ اس کی موت کہاں ہو گی اور اُسے کس زمین میں موت آئے گی۔ آیت کے ختم پر فرمایا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (بلاشبہ اللہ علم والا ہے باخبر ہے)

جب سے دُنیا میں آلات کا رواج ہو گیا ہے اُس وقت سے ایمانیات میں فرق آنے لگا ہے اور لوگ یوں کہتے ہیں کہ فضا میں جو آلات نصب کر دیتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ بارش کب ہوگی اور ایکس رے کے ذریعہ معلوم ہو جاتا ہے کہ حاملہ عورت کے پیٹ میں نہر ہے یا مادہ ان لوگوں کو یہ پتہ نہیں کہ آیت شریفہ میں آلات کے ذریعہ جو علم حاصل ہو اُن کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ ازل سے ہے ہمیشہ سے ہے جب دنیا میں انسان نہیں آیا تھا اُس وقت بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ انسانوں کی سلیس چلیں گی اور فلاں فلاں عورت حاملہ ہوگی اور اس کے پیٹ میں نہر ہوگا یا مادہ ہوگا ناقص پیدا ہوگا یا کامل! کہاں اللہ تعالیٰ کا علم ازل اور کہاں بنی آدم کا علم جو آلات اور اسباب اور تجربات پر موقوف ہے پھر اس بات کو بھی جاننے والے جانتے ہیں کہ اسباب و آلات سے پتہ چلانے والوں کی پیشین گوئیاں غلط بھی ہو جاتی ہیں لہذا یہ کہنا کہ بندے بھی علم قطعی کے طور پر بارش آنے کا وقت بتا دیتے ہیں اور حاملہ عورتوں کے پیٹوں میں جو ہے اس سے باخبر کر دیتے ہیں یہ اُن لوگوں کی جاہلانہ باتیں ہیں جو آیت کا مفہوم نہ جاننے کی وجہ سے صادر ہوتی ہیں۔ واضح رہے کہ آیت میں جو پانچ چیزوں کا ذکر ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان چیزوں کے علاوہ دوسری غیب کی چیزوں کو بندے جانتے ہیں غیب کی تمام چیزوں کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے غریب کا علم علم قطعی، علم ازل، علم ذاتی، علم محیط صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔

وهذا اخر تفسير سورة لقمن، والله المستعان وعليه التكلان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورۃ الحجہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ﴿شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے﴾ اس میں تیس آیات اور تین رکوع ہیں

الْمَ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَارِيبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ

الحق ۞ سینا دل کی ہوئی کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں رب العالمین کی طرف سے ہے کیا وہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ اس نے جھوٹ بتایا ہے بلکہ بات یہ ہے کہ وہ

رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِنْ تَذْوِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ۝ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ

آپ کے سب کی طرف سے حق ہے تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرامے جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرامے والا نہیں آیا تاکہ وہ لوگ ہدایت پر آ جائیں اللہ وہی ہے جس نے

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَبَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ

آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے چھ دن میں پیدا فرمایا پھر عرش پر مستوی ہوا۔ تمہارے لئے

دُونِهِ مِنْ وَلِيِّ وَلَا شَفِيعَ ۖ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ۝

اس کے سوا نہ کوئی دلی ہے نہ کوئی سفارشی کیا تم نہیں سمجھتے؟

قرآن مجید حق ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے  
آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے چھ دن میں پیدا فرمایا

**تفسیر:** یہاں سے سورۃ السجدہ شروع ہے اور چند آیات کا ترجمہ لکھا گیا ہے ان میں سے اللہ تو مشابہات میں سے ہے جس کا معنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں باقی آیات میں قرآن مجید کا حق ہونا اور اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت اور صفت خالقیت بیان فرمائی ہے۔

مشرکین کہہ جویوں کہتے تھے کہ یہ قرآن جناب محمد رسول اللہ ﷺ نے خود سے بنالیا ہے اس کی تردید فرماتے ہوئے فرمایا: بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ (بلکہ وہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے ہے) لَتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاكَمْ بَعْدَ هَٰذَا مِنْ يَوْمٍ قَبْلِكَ (تاکہ آپ ڈرائیں اُن لوگوں کو جن کے پاس آپ سے پہلے ڈرانے والا یعنی رسول اور نبی نہیں آیا) لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ (تاکہ وہ ہدایت پر آجائیں)

اول تو یہ فرمایا کہ یہ قرآن اللہ جل مجدہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے یہ کتاب آپ کی طرف اس لئے نازل کی گئی ہے کہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، ان لوگوں سے اہل مکہ مراد ہیں، ان کے پاس براہ راست کوئی رسول نہیں آیا تھا البتہ دوسرے انبیاء کرام کی بعثت کا انہیں علم تھا اور ان کی طرف سے دعوت توحید پہنچی تھی۔ یہ لوگ داعی توحید حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام کی اولاد ہی میں سے تھے، ان دونوں نے جو مکہ معظمہ میں کعبہ شریف بنایا تھا اس کا وجود ہی اشاعت توحید کے لئے تھا اور ان لوگوں کو اس کا

علم بھی تھا کہ یہ حضرات داعیِ توحید تھے۔ لہذا یہ اشکال نہیں رہتا کہ ان کے پاس نبی نہیں آیا تو شرک کی وجہ سے ان کا مواخذہ کیوں صحیح ہوا؟ سورۃ فاطر میں فرمایا ہے: **وَلَمَّا قُنِ الْأَخْلَافُ مِمَّا نَذِيرُهُمْ** اس کا عموم ہر قوم اور ہر جماعت کو شامل ہے ضروری نہیں کہ نذیر (ڈرانے والا) رسول ہی ہو ان حضرات کے نابین نے بھی تبلیغ کی ہے اور لوگوں کو توحید کی دعوت دی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفتِ خالقیت بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے چھ دن میں پیدا فرمایا پھر وہ عرش پر مستوی ہوا (اس کا بیان سورۃ اعراف رکوع نمبر ۷ اور سورۃ فرقان رکوع نمبر ۵ میں گذر چکا ہے) **مَا لَكُمْ قَرْنٌ دُونَهُ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ** اللہ کے سوا تمہارے لئے کوئی ولی نہیں ہے (جو نافرمانی پر مواخذہ کرنے سے بچا سکے) اور کوئی سفارش کرنے والا بھی نہیں (جو اس کی اجازت کے بغیر اس کی بارگاہ میں سفارش کرے) **أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ** (کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے)

**يَذَكِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرِضُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ**

وہ آسمان سے لیکر زمین تک ہر امر اس کے حضور میں ایک ایسے دن میں پہنچ جائے گا جس کی مقدار تمہاری گنتی کے مطابق

**وَمِمَّا تَعْدُونَ ۝**

ایک ہزار سال ہوگی

اللہ تعالیٰ آسمان سے زمین تک تدبیر فرماتا ہے ہر امر اس کے حضور میں ایسے دن میں پیش ہوگا جس کی مقدار ایک ہزار سال ہے

**تفسیر:** جو کچھ وجود میں آتا ہے کائنات میں جو انقلاب ہوتے ہیں اور جو مخلوق کے احوال اور اعمال وجود میں آتے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور تدبیر کے موافق ہے جو کچھ وجود میں آ رہا ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حضور میں قیامت کے دن پیش ہوگا اس دن کی مقدار اس شمار کے مطابق جو دنیا میں گنتے ہیں ایک ہزار سال کی ہوگی۔ الفاظ آیت سے متبادل تو یہی ہے کہ **يَعْرِضُ** میں جو ضمیر مرفوع ہے وہ الامر کی طرف راجع ہے لیکن مفسرین نے اس میں متعدد احتمالات بیان کئے ہیں اسی طرح لفظ **إِلَيْهِ** کے مرجع کے بارے میں بھی متعدد اقوال ہیں۔ (راجع تفسیر القرطبی جلد ۱۴ ص ۸۸۸) صاحب روح المعانی نے آیت کی تفسیر میں لمبی بحث کی ہے (جلد ۲۱ ص ۱۲۱) یہاں سورۃ السجدہ میں قیامت کے دن کو ایک ہزار سال بتایا اور سورۃ المعارج میں پچاس ہزار سال کا بتایا۔ جب اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا ہما یومان ذکر ہما اللہ تعالیٰ فی کتابہ اللہ تعالیٰ اعلم بہما واکرہ ان اقول فی کتاب اللہ مالا اعلم (یعنی ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ ہی کو ان کا علم ہے) بعض حضرات نے یہ توجیہ کی ہے کہ احوال و اشخاص کے اعتبار سے کسی کا یہ دن بہت جلدی گزر جائے گا اور کسی کا بہت دیر میں گزرے گا مؤمنین صالحین جلدی سے چھٹکارہ پا جائیں گے انہیں ایسا معلوم ہوگا جیسے ایک فرض نماز کا



وقت گذرا ہو۔ (کماورد فی الحدیث) اور فاسقین کے لئے بہت مصیبت کا دن ہوگا اور کافروں کے لئے تو بہت ہی زیادہ مصیبت درپیش ہوگی اور ان کے لئے یہ دن پچاس ہزار سال گذرنے کے برابر ہوگا۔

قال العبد الفقیر عفا اللہ تعالیٰ عنہ: ان المفسرین الکرام ذکرُوا اقوالاً کثیرة فی تفسیر قولہ تعالیٰ: يُذَبِّرُ الْأَمْرَ (الآیة) واحتاروا فی مرجع ضمیر الیہ ثم فی تطبیق قولہ تعالیٰ: أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. وقولہ تعالیٰ: فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ. حتی ان صاحب الروح جعل الایة الکریمہ من المتشابهات، والذی القی اللہ تعالیٰ فی روعی هو ان اللہ تعالیٰ یذبر الامور التي تجری فی السماء والارض وما بینهما حسب ما قدره ويرجع الامور کلها الیہ تعالیٰ فی يوم القيامة، والامور التکوینیة لیس لهاصلة بالعباد لا یسابون علیها ولا یعاقبون، فاما الامور التشريعیة التي امروا بامثالها بعد عروجها الیہ تعالیٰ فی يوم القيامة تعرض علی العباد لا یخفی علیهم خافیة فیعاسبون فمنهم مثابون واخرون یعاقبون، فاما التوفیق بین الف سنة وخمسين فعلم بذلك تخفیفه علی المؤمنین الذین یصلون، فاما العصاة من اهل الايمان احوالهم مختلفة فمن مقل من الذنوب ومکثر منها فیہون او یصقب حسب حالهم فیمتد لبعضهم الی مقدار الف سنة، واما الامتداد الاکبر فهو علی الکفرة الفجرة اعنی خمسين الف سنة، ثم انہ لم یقید اللہ تعالیٰ خمسين الف سنة بقولہ مما تعدون، وكذلك لم یقیدها بذلك النبی ﷺ فی ذکر تعذیب من لا یؤدی زکوٰۃ کما رواہ مسلم، فیمكن ان یکون الف سنة مما تعدو خمسين الف سنة باعتبار عد آخر، ومن الاکابر من قال ان هذا الاختلاف یمکن باعتبار اختلاف الآفاق کما هو موجود فی هذه الدنیا فان ما یقع علی خط الاستواء یتم فیہ اللیل والنهار فی أربع وعشرون ساعة واما ما یقع علی عرض التسعين فیمتد فیہ الیوم فی سنة واحدة وهذا یتم اذا کان فی ذلک الحین للسماء حركة دو لابیة اور حویة ولم یثبت ذلک. واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب والیہ المرجع المآب. (بندہ عاجز عاشق الہی عفا اللہ عنہ کہتا ہے کہ مفسرین کرام نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد يُذَبِّرُ الْأَمْرَ کی تفسیر میں بہت سارے اقوال ذکر کئے ہیں اور الیہ کی ضمیر کے مرجع میں بھی اپنی اپنی ترجیحات کا ذکر کیا ہے پھر اللہ تعالیٰ کے ارشاد أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ (تمہاری اپنی اپنی گنتی کے مطابق ہزار سال) اور فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ (ایسے دن میں جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہوگی) میں تطبیق کا ذکر بھی کیا ہے۔ یہاں تک کہ تفسیر روح المعانی کے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کو متشابهات میں شمار کیا ہے۔ وہ بات جو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تقدیر کے مطابق آسمان وزمین اور ان کے درمیان کے امور کی تدبیر کرتا ہے اور تمام امور قیامت کے دن اسی کی طرف لوٹیں گے۔ جو امور تکوینی ہیں ان کے ساتھ بندوں کا کوئی تعلق نہیں ہے نہ ان پر کسی کو ثواب ہوگا نہ

ان پر کسی کو ثواب ہو گا نہ عذاب لیکن شرعی امور جن پر عمل کرنے کا بندن کو حکم دیا گیا ہے وہ امور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے کے بعد بندوں پر پیش کئے جائیں گے ان میں کوئی ذرہ بھی پوشیدہ نہیں رہے گا۔ پھر ان کے حساب ہو گا بعض کو ثواب ملے گا بعض کو عذاب اور رہا مسئلہ ایک ہزار سال اور پچاس ہزار میں تطبیق کا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نیکو کار مومنوں پر قیامت کا دن ہلکا اور چھوٹا ہو گا مگر گناہ گار مومنوں کے احوال مختلف ہوں گے کئی تھوڑے گناہوں والے ہوں گے کئی زیادہ والے لہذا قیامت کا دن ان کے گناہوں اور نیکیوں کے مطابق ان کو ہلکا یا سخت معلوم ہو گا حتیٰ کہ بعض کے لئے وہ دن ہزار سال کا ہو جائے گا۔ اور اس دن کا سب سے زیادہ لمبا ہونا وہ کافروں کے لئے ہو گا زیادہ لمبے سے مراد پچاس ہزار سال کا پھر یہ بھی ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے پچاس ہزار سال کے ساتھ بندوں کے شمار کی قید نہیں لگائی اور اسی طرح حضور اکرم ﷺ نے بھی زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کو عذاب ہونے والی حدیث میں بندوں کے شمار کی قید نہیں بتائی جیسا کہ مسلم میں روایت ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ مطلب یہ ہو کہ ہزار سال جسے تم دوسری گنتی کے مطابق پچاس ہزار سال شمار کرتے ہو اور بعض اکابر نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ہزار سال اور پچاس ہزار سال کا فرق مطالع کے اختلاف کی وجہ سے ہو جو کہ اس دنیا میں موجود ہے جو مالک خط استواء پر واقع ہیں وہاں ایک دن رات چوبیس گھنٹے میں مکمل ہوتا ہے اور جو علاقے ۹۰ فیصد درجہ زادیہ پر واقع ہیں وہاں ایک دن ایک سال تک لمبا ہو جاتا ہے اور یہ اس وقت مکمل ہوتا ہے جب آسمان کی حرکت دولانی اور حویہ ہوتی ہے لیکن یہ توجیہ نصوص سے ثابت نہیں ہے۔

ذٰلِكَ عَلَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝ الَّذِي اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَبَدَا خَلْقَ

وہی پوشیدہ اور ظاہر چیزوں کا جاننے والا ہے زبردست ہے رحمت والا ہے اس نے جو چیز بنائی خوب بنائی اور

الْاِنْسَانَ مِنْ طِينٍ ۝ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ نَّارٍ مُّهِينٍ ۝ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيْهِ

انسان کی پیدائش کی ابتداء مٹی سے کی پھر اس کی نسل کو ذلیل پانی سے نکالی ہوئی چیز بنایا پھر اس کو ٹھیک طرح بنا دیا۔ اور اس میں

مِّنْ رُّوْحِهٖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ۝ وَقَالُوا اِذَا

اپنی روح پھونک دی اور تمہارے لئے کان اور آنکھیں اور دل بنا دیئے تم کم شکر ادا کرتے ہو۔ اور انہوں نے کہا کیا یہ

ضَلَلْنَا فِي الْاَرْضِ اِنَّا لَنَعْرِى خَلْقَ جَدِيْدٍ ۙ بَلْ هُمْ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ كٰفِرُوْنَ ۝ قُلْ

واقعی بات ہے کہ جب ہم مٹی میں زلزل جائیں گے تو نئے طور پر پیدا ہوں گے بلکہ بات یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ آپ فرمادیجئے

يَتَوَقَّعُ مَلٰٓئِكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ ۝

ملک الموت تمہاری جانوں کو قبض کرتا ہے جو تم پر مقرر ہے پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔

## انسان کی تخلیق اور تصویر کا تذکرہ اور منکرین بعث کی تردید

**تفسیر:** جس ذات پاک کی صفات اوپر بیان ہوئیں وہ غیب اور شہادہ کا جاننے والا ہے یعنی جو کچھ بندوں سے غائب ہے اور جو کچھ آئندہ ہوگا اُسے اس سب کا علم ہے اور جو کچھ موجود ہے اور بندوں کے سامنے ہے وہ اس سب کو جانتا ہے الْعَزِيزُ (وہ سب پر غالب ہے) الْجَبِيْ (وہ اپنی مخلوق پر رحم فرمانے والا ہے) الَّذِيْ أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ (اس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا اچھا بنایا) یعنی حکمت کے مطابق پیدا فرمایا اور حکمت کے مطابق اُسے کام میں لگایا ساری مخلوق خالق جل مجدہ کی حکمت کے مطابق وجود میں آئی ہے اور حکمت کے موافق اپنے اپنے اعمال میں مشغول ہے۔

حکمت کے مطابق پیدا فرمانا کام میں لگانا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت خاصہ ہے اگر کوئی چیز فی نفسہ فبیح ہو تو یہ احسان الخلق کے معنای نہیں ہے کیونکہ احسان الخلق کا تعلق حکمت سے ہے۔

وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ (اور اللہ نے انسان کی ابتدائی پیدائش مٹی سے فرمائی) اس کی تفسیر سورہ حجر کے رکوع نمبر ۳ میں گذر چکی ہے اور سورہ ص کے آخری رکوع میں بھی اس کا تذکرہ فرمایا ہے ثُمَّ جَعَلْنَا سُلَٰلَةً مِنْ نَّحْلٍ (پھر اس کی نسل کو ذلیل پانی سے نکالی ہوئی چیز بنادی) یعنی مٹی سے ابتدائی تخلیق کے بعد جو انسان کی نسل چلائی اس کا سلسلہ اس طرح جاری فرمایا کہ نطفہ منی جو ایک مَاءٍ مَّهِينٍ یعنی ذلیل پانی ہے باپ کی پشت سے نکل کر ماں کے رحم میں جاتا ہے (جسے سلسلہ سے تعبیر فرمایا ہے جَوْسَلٍ يَسْلُ سے فَعَالَةٍ کا وزن ہے) یہ نطفہ رحم مادر میں قرار پاتا ہے پھر اس سے لڑکا یا لڑکی کی تخلیق ہوتی جاتی ہے۔ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهِ وَجَعَلْنَا لَكَ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ (پھر اللہ نے اس کو ٹھیک طرح بنا دیا یعنی وہیں اندر اندر رحم مادر میں اس کی شکل و صورت بنا دی اعضاء بنا دیئے پھر اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دی اس روح کے پھونکنے جانے کے بعد جیتی جاگتی تصویر بن گئی اس تصویر میں کان بھی بنا دیئے اور آنکھیں بھی اور دل بھی) اب جو بچہ باہر آیا تو وہ ہاتھ پاؤں کے اعتبار سے صحیح جاندار بننے اور دیکھنے والا اور اپنے دل کو دراک اور فہم میں استعمال کرنے والا سامنے آ گیا گویہ قوئی اور ادراکات بتدریج نشوونما کے ساتھ ترقی پذیر ہوتے ہیں لیکن ابتداء ہی سے اس پیدا ہونے والے بچہ میں یہ چیزیں ودیعت رکھ دی جاتی ہیں۔ فَلْيُبْكِ مَا كَسَحَكَ رُؤُوسُ انسانوں پر لازم ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کریں جس نے نطفہ سے رحم مادر میں اس کی تخلیق کی ابتداء کی اس کے اعضاء بنائے اور اس میں اپنی روح پھونکی اور اس میں قوت سامعہ و باصرہ و دیعت رکھی اور اس کے اندرون جسم دل بھی مرکب فرمادیئے جس کے دو کام ہیں ایک تو رگوں میں خون کو برابر پھیلتے رہنا دوسرے سوچنا سمجھنا ان سب انعامات کا تقاضا یہ ہے کہ بنی آدم اپنے خالق کے شکر گزار ہوں لیکن شکر ادا کرنے والے کم ہیں اور جو شکر ادا کرنے والے ہیں وہ بھی بقدر استطاعت شکر ادا نہیں کرتے اور پورا شکر تو ادا ہو ہی نہیں سکتا۔

اس کے بعد منکرین قیامت کا ذکر فرمایا: وَقَالُوا إِنَّا كُنَّا فِي الْأَرْضِ نَافِلًا إِنَّا كُنَّا خَلْقًا جَدِيدًا بَلْ هُمْ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ (اور ان لوگوں نے کہا کہ جب ہم زمین میں رل مل جائیں گے تو کیا ہم نئے طور پر پیدا ہوں گے بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کے

منکر ہیں) وقوع قیامت کے منکرین جو باتیں کیا کرتے تھے اُن باتوں میں سے ایک بات نقل فرمائی ہے وہ یوں کہتے تھے کہ جب ہم مرجائیں گے زمین میں دفن ہو جائیں گے پھر ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی اور زمین میں ان کے ذرات رزل مل جائیں گے اُس وقت بھلا کیسے زندہ ہو سکتے ہیں؟ اُن کا یہ استبعاد دوسری آیات میں بھی ذکر فرمایا ہے ان لوگوں کا یہ کہنا قیامت آنے کے انکار پر مبنی تھا اسی لئے فرمایا **بَلْهُمْ يُلَاقُوا رَبَّهُمْ كَلِيفًا** (بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں)

**قُلْ يَوْمَ تَكُونُ مَلَائِكَةُ الْمَوْتِ الَّتِي وَكَّلَ بِكُمْ تَمُوتُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ تَنْجَعُونَ** (آپ فرمادیجئے ملک الموت تمہاری جانوں کو قبض کرتا ہے جو تم پر مقرر ہے پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے) اس میں یہ بتایا کہ تمہیں مرنا بھی ضروری ہے اور زندہ ہو کر اپنے رب کی طرف لوٹنا بھی ضروری ہے اور موت واقع کرنے کا یہ طریقہ مقرر کیا گیا ہے کہ تم پر ملک الموت کو مسلط فرمایا ہے وہ تمہیں مقررہ وقت پر موت دے گا جان کو رگ رگ سے نکالے گا کافر کا عذاب اسی وقت سے شروع ہو جائے گا۔

**وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُرْسَلُونَ نَاكِسُو أَعْيُنِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ**

اور لے جا لیا تو اس وقت کو دیکھے جبکہ مجرم لوگ اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوئے توجع نظر دیکھے گا۔ یہ لوگ کہہ رہے ہونگے کہ اے رب ہم نے دیکھا اور سن لیا سو ہم کو واپس بھیج

**صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ** ۱۰ **وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًىٰ وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي**

ہم نیک عمل کریں گے بلاشبہ میں یقین آ گیا اور اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے اور لیکن میری طرف سے یہ بات طے ہو چکی ہے کہ میں

**لَا مَلِكُ لَكُمْ مِنْ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ** ۱۱ **فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا**

ضرور ضرور جہنم کو جنات سے اور انسانوں سے بھر دوں گا جو اس میں اکٹھے ہوں گے سو تم آج کے دن کی ملاقات کو بھول جانے کی وجہ سے چکھ لو

**إِنَّا نَسِينَكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ** ۱۲

بلاشبہ ہم نے تمہیں بھلا دیا اور تم جو اعمال کیا کرتے تھے اُن کی وجہ سے بیگنی والا عذاب چکھ لو۔

**قیامت کے دن مجرمین کی بد حالی اور دنیا میں واپس ہونے کی درخواست کرنا**

**تفسیر:** یہ تین آیات کا ترجمہ کیا گیا ہے پہلی آیت میں مجرمین کی ایک حالت بتائی ہے کہ یہ لوگ دنیا میں وقوع قیامت کا انکار کرتے تھے اور یوں کہتے تھے: **إِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَفَأَبْهَتُنَا خَلْقٌ جَدِيدًا** جب یہ لوگ قیامت کے دن حاضر ہوں گے اور بارگاہ الہی میں پیشی ہوگی تو رسوائی اور ذلت کے مارے ہوئے سر جھکائے ہوں گے اور یوں کہیں گے کہ ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا جس بات کے منکر تھے وہ سمجھ میں آ گئی لہذا ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیجئے اب واپس ہو کر اچھے عمل کریں گے ہمیں پوری طرح ان باتوں کا یقین آ گیا جو حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور ان کے تابعین سنا تے اور سمجھاتے تھے۔

دوسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو ہدایت دے دیتے لیکن میری طرف سے یہ بات محقق ہو چکی ہے کہ دوزخ کو جنات سے اور انسانوں سے بھر دینا ہے دونوں گروہ کے افراد کثیر تعداد میں دوزخ میں جائیں گے جنہوں نے دنیا میں کفر اختیار کیا یہ لوگ وہاں اکٹھے ہوں گے یہ بات ازل سے طے شدہ ہے اور کافروں کے لئے مقدر

ہے۔ جب ابلیس نے لَا غَیْبَ لَہُمْ أَجْمَعِیْنَ کہا تھا اُس وقت اللہ جل شانہ نے فرمادیا تھا: لَا مُغْلِبَ لَہُمْ جَہَنَّمَ مِّنْکَ وَمِمَّنْ قَبِیْعَکَ مِنْہُمْ أَجْمَعِیْنَ (کہ اے ابلیس میں تجھ سے اور جو تیرا اتباع کرے گا ان سب سے دوزخ کو بھر دوں گا) ہدایت یعنی ارواءۃ الطريق تو سب ہی کے لئے ہے لیکن ہدایت بمعنی ایصال الی المطلوب سب کے لئے نہیں ہے دوزخ کو بھی بھرنا ہے اور جنت کو بھی اور جو شخص دوزخ میں جائے گا وہ اپنے اختیار کو غلط استعمال کرنے کی وجہ سے جائے گا۔ اُسے دنیا میں ایمان اور کفر کے دونوں راستے دکھا دیئے گئے اسی اختیار دے دینے کی وجہ سے کسی کو ایمان یا کفر پر مجبور نہیں کیا گیا، جیسا کہ سورہ کہف میں فرمایا: وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّکُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُکْفُرْ۔ (اور آپ فرمادیجئے کہ تمہاری طرف حق آچکا ہے سو تم میں سے جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر اختیار کرے) بہر حال اللہ تعالیٰ نے اختیار بھی دیا ہے اور قضاء اور قدر کا فیصلہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ کافر ہوں گے اور بہت سے لوگ مومن ہوں گے اور کافر دوزخ میں جائیں گے اور اہل ایمان جنت میں۔ جو امر اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ہے اس کا وجود میں آنا ضروری ہے۔ کفار جو وہاں کہیں گے کہ ہمیں واپس کر دیا جائے ہم نیک بنیں گے اُن کا یہ وعدہ غلط ہوگا سورہ انعام میں فرمایا: وَلَوْ رَدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نَهَوْا عَنْہُ وَانْتَهَمَ لَکَافٍ یُّؤْنُوْا۔ (اور اگر واپس کر دیئے جائیں تو پھر لازمی طور پر وہی کام کریں گے جن سے منع کیا گیا ہے اور بلاشبہ جھوٹے ہیں) اور سورہ فاطر میں ہے کہ ان کے واپس لوٹا دیئے جانے کی درخواست کے جواب میں یوں ارشاد ہوگا: اَوَلَمْ نَعْمَرْکُمْ بِآیٰتِنَا لَکَافٍ فَمِنْ تَذٰکُرٍ وَّجَاءَ لَکُمُ التَّٰنِیْذُ (کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر لیتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا)

تیسری آیت میں فرمایا کہ بحر میں ان سے کہا جائے کہ تم آج کے دن کی ملاقات کو جو بھول گئے تھے (اور اسی بھولنے کی وجہ سے نافرمانی پر تلے ہوئے تھے) اس بھولنے کی وجہ سے عذاب چکھ لو۔

اِنَّمَا یُؤْمِنُ بِآیٰتِنَا الَّذِیْنَ اِذَا ذُکِّرُوْا بِہَا خَرُّوْا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّہُمْ وَہُمْ لَا

تھاری آیات پر وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان کو آیات یاد دلانی جاتی ہیں تو وہ جہہ میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں جس کے ساتھ ہم بھی ہوتی ہے اور وہ

یَسْتَکْبِرُوْنَ ۝ تَتَجَافٰی جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضٰجِیْ یَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ وَمِمَّا رَزَقْنٰہُمْ

تکبر نہیں کرتے ان کے پہلو لٹنے کی جگہوں سے جدا ہوتے ہیں نہ وہ ڈرتے ہوئے اور نہ امید باندھتے ہوئے اپنے رب کو پکارتے ہیں اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے

یُنْفِقُوْنَ ۝ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ اَقْخَفٰی لَہُمْ مِّنْ قُرْۢرَۃٍ اَعِیْنَ جَزَآءٍ بِمَا کَانُوْا یَعْمَلُوْنَ ۝

خرچ کرتے ہیں۔ سو کسی شخص کو اس کا علم نہیں ہے جو ان کے لئے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان پوشیدہ رکھا گیا ہے یہ ان اعمال کا بدلہ ہوگا جو دنیا میں کیا کرتے تھے۔

اَفَمَنْ کَانَ مُؤْمِنًا کَمَنْ کَانَ فَاسِقًا ۚ لَا یَسْتَوٰۤی ۝ اَمَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

سو جو شخص مومن ہو گیا وہ فاسق کی طرح ہو سکتا ہے؟ برابر نہیں ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے

فَلَہُمْ جَنّٰتُ الْاٰوٰی نَزَّلَا بِمَا کَانُوْا یَعْمَلُوْنَ ۝ وَاَمَّا الَّذِیْنَ فَسَقُوْا فَمَا وٰہُمْ النَّارُ

اُن کے لئے باغ ہوئے نکلے ٹھہرنے کی جگہوں میں یہ بطور مہمانی ان اعمال کے بدلہ ہو گئے جو دنیا میں کیا کرتے تھے اور جن لوگوں نے نافرمانی کی اُن کا ٹھکانہ دوزخ ہے

كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ

جب بھی اس میں سے نکلنے کا ارادہ کریں گے اسی میں واپس لوٹا دیئے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ آگ کا عذاب چکھ لو جس کو

بہ تکرار ہوگا ۵ وَلَنَذِيقَنَّكَ مِنَ الْعَذَابِ الْأَذْيِ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّكُمْ يَرْجِعُونَ ۶

تم جھٹلاتے تھے۔ اور ضرور ضرور ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے قریب والا عذاب چکھا دیں گے تاکہ وہ باز آجائیں

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ۷

اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جسے اُس کے رب کی آیات یاد دلائی جائیں پھر وہ ان سے اعراض کرنے بلاشبہ ہم مجرمین سے بدلہ لینے والے ہیں۔

## اہل ایمان کی صفات، مومنین کا جنت میں داخلہ اہل کفر کا دوزخ میں براٹھ کا نہ

**تفسیر:** ان آیات میں مومنین صالحین کی بعض صفات اور ان کے انعامات بیان فرمائے ہیں اور کافرین فاسقین کا ٹھکانہ اور ان کی بد حالی بیان فرمائی ہے۔ اول تو یہ فرمایا کہ ہماری آیات پر وہی لوگ ایمان لاتے ہیں جو تذکیر اور نصیحت کا اثر لیتے ہیں جب انہیں ہماری آیات یاد دلانی جاتی ہیں تو انہیں سن کر سجدہ میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی تسبیح اور تحمید میں مشغول ہو جاتے ہیں اور تکبر بھی نہیں کرتے۔ مزید فرمایا کہ ان کے پہلو اپنے لینے کی جگہوں سے یعنی خوابگا ہوں سے دور ہو جاتے ہیں وہ ڈرتے ہوئے اور امید کرتے ہوئے اپنے رب کو پکارتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اس میں نماز تہجد پڑھنے والوں کی فضیلت بتائی ہے کہ یہ لوگ سوئے اور آرام کرنے کے لئے لیٹتے ہیں پھر تھوڑا سا آرام کر کے بستر کو چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور وضو کر کے نماز میں لگ جاتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دُعا بھی مانگتے ہیں اور اس کے انعامات کی امید بھی رکھتے ہیں اور گرفت اور مواخذہ ہونے سے بھی ڈرتے ہیں۔ درحقیقت خوف اور طمع (ڈرنا اور نعتوں اور مغفرتوں کی امید رکھنا) یہ دونوں مومن کی زندگی کے اہم جزو ہیں مومن کی زندگی میں یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہونی چاہئیں یعنی گناہوں سے بچتا رہے اعمال صالحہ کرتا رہے اور عدم قبولیت کا خوف بھی لگا رہے جیسا عمل چاہئے ویسا نہ ہونے کی وجہ سے مواخذہ سے بھی ڈرے اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے اچھی امید بھی لگائے رکھے جس کے دل سے خوف گیا وہ گناہ بھی کرے گا اعمال بھی ترک کرے گا اور فسق میں ترقی کرتا چلا جائے گا اور جس کے دل سے امید نکل گئی اللہ کی طرف سے مغفرتوں اور نعتوں کا امیدوار نہ رہا ایسا شخص دُعا بھی نہ کرے گا خوف اور طمع نہ ہو تو بندہ محرومی کے غار میں اُترتا چلا جاتا ہے۔

جو شخص تہجد کا اہتمام کرے گا ظاہر ہے کہ فرائض و سنن کی ادائیگی کا اس سے زیادہ فکر مند ہوگا لہذا اس میں نمازوں کا اہتمام کرنے والوں کی تعریف بیان فرمادی اور ساتھ ہی وَمَا تَزِدْهُمْ يَنْفِقُونَ بھی فرمادیا کہ یہ لوگ نمازوں کا اہتمام بھی کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ لفظوں کا عموم زکوٰۃ اور نفلی صدقہ اور صدقہ واجبہ



سب کو شامل ہے اور قلیل و کثیر سب کچھ اس میں آ گیا، یعنی یہ جو فرمایا کہ ہم نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس میں ایک پیسے سے لیکر لاکھوں خرچ کرنا سب داخل ہو گیا، اللہ کی رضا میں خرچ کرنے کے لئے مالدار ہونا ضروری نہیں جس کے پاس تھوڑا سا مال ہو وہ اسی میں سے خرچ کرے، خرچ کرنے کا ذوق ہو تو زیادہ مالیت اور کم مالیت سے کچھ فرق نہیں پڑتا اور تھوڑا مال ہونا بھی خرچ سے مانع نہیں ہوتا، بعض صحابہؓ نے تو یہاں تک کیا کہ اپنے پاس کچھ نہ ہوا تو مزدوری کر کے کچھ حاصل کیا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لئے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پیش کر دیا۔

**نماز تہجد کی فضیلت:** تَجَافَى جُنُوبُهُمْ سے نماز تہجد مراد ہے جیسا کہ ہم نے اوپر ذکر کیا، صاحب معالم المتزیل (جلد ۳) فرماتے ہیں کہ یہ اشہر الاقوال ہے اور اس کی تائید میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت بھی نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سفر میں ساتھ چلتے ہوئے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتائیے جس کے ذریعہ جنت میں داخل ہو جاؤں اور دوزخ سے دور رہ سکوں، سید دو عالم ﷺ نے فرمایا کہ تم نے بہت بڑی چیز کا سوال کیا اور حقیقت میں کچھ بڑی بھی نہیں، جس کے لئے اللہ تعالیٰ آسان فرمادیں اُس کے لئے بے شک ضرور آسان ہے، اس کے بعد فرمایا کہ (وہ عمل یہ ہے کہ) تو اللہ کی عبادت کر اور کسی کو اس کا شریک نہ بنا اور نماز قائم کر اور زکوٰۃ ادا کر اور رمضان کے روزے رکھ اور بیت اللہ کا حج کر، پھر فرمایا کیا تم کو خیر کے دروازے نہ بتا دوں؟ (سنو!) روزہ ڈھال ہے (جو نفس کی شہوتوں کو توڑ کر شیطان کے حملہ سے بچاتا ہے) اور صدقہ گناہ کو بھادیتا ہے (یعنی اس کی وجہ سے جو دوزخ کی آگ جلاتی اُس سے محفوظ کر دیتا ہے گویا کہ اس آگ کو بھادیتا ہے جیسا کہ آگ کو پانی بجھا دیتا ہے) اور انسان کا رات کے درمیان نماز پڑھنا (تہجد کے وقت) نیک بندوں کا امتیازی نشان ہے، اس کے بعد سرور کائنات ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی (جس میں تہجد پڑھنے والوں کی تعریف کی گئی ہے) تَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ

نَفْسُكَ أَتَأْخُذُكَ مِنْ فَرَقٍ أَغْنَىٰ عَنْكَ آثَارُكَ أَتَالَيْعُ الْعَالَمِينَ (ان کی کروٹیں (بسترے چھوڑ کر) لیٹنے کی جگہوں سے جدا ہوتی ہیں، وہ اپنے رب کو اُمید سے اور خوف سے پکارتے ہیں اور ہمارے دیئے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں سو کسی شخص کو خبر نہیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان اُن کے لئے چھپا دیا گیا ہے خزانہ یہ اُن کو اُن کے اعمال کا صلہ ملا ہے) پھر فرمایا کیا تم کو احکام الہیہ کی جزا اور اُن کا ستون اور اس کی چوٹی کا عمل نہ بتا دوں! میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ضرور بتائیے! آپ نے فرمایا احکام الہیہ کی جزا فرمانبرداری ہے اور اس کا ستون نماز ہے اور چوٹی کا عمل جہاد ہے۔ پھر فرمایا کیا تم کو اس سب کا جزا اصلی نہ بتا دوں (جس کو عمل میں لانے سے ان سب چیزوں پر عمل کر سکو گے) میں نے عرض کیا یا نبی اللہ! ضرور ارشاد فرمائیے! آپ نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر فرمایا اسے قابو میں رکھ کر اپنی نجات کا سامان کرو میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی! (ﷺ) جو باتیں ہم بولتے ہیں کیا اُن پر بھی پکڑ ہوگی؟ آپ ﷺ نے فرمایا اے معاذ! تم بھی عجیب آدمی ہو! دوزخ میں منہ کے بل اوندھے کر کے جو چیز لوگوں کو دوزخ میں گرائے گی وہ ان کی زبان کی باتیں ہی تو ہوں گی۔ پھر فرمایا تم جب تک خاموش رہتے ہو محفوظ رہتے ہو اور جب بولتے ہو تو تمہارا بول تمہارے لئے ثواب یا عذاب کا سبب بنا کر لکھ دیا جاتا ہے۔

صاحب معالم المتزیل نے یہ حدیث اپنی سند سے ذکر کی ہے اور صاحب مشکوٰۃ المصابیح نے ص ۱۴ پر مسند احمد اور سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ سے نقل کی ہے، خواہ گاہوں سے پہلو جدا ہوتے ہیں اس کا مصداق نماز تہجد بتا کر صاحب معالم



التریل نے دیگر اقوال بھی نقل کئے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت انصار کے بارے میں نازل ہوئی، یہ حضرات مغرب کی نماز پڑھ کر ٹھہر جاتے تھے اور جب تک رسول اللہ ﷺ کے ساتھ عشاء کی نماز نہ پڑھ لیتے تھے گھروں کو نہیں جاتے تھے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ یہ آیت اُن صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی جو مغرب کی نماز کے بعد عشاء تک برابر نماز پڑھتے رہتے تھے اور حضرت ابوالدرداء اور حضرت ابوذر اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ اس آیت میں ان حضرات کی تعریف فرمائی ہے جو عشاء اور فجر جماعت سے پڑھتے ہیں۔ (معالم التزیل جلد ۳ ص ۵۰۰)

درحقیقت ان اقوال میں کوئی تعارض نہیں ہے البتہ صلوٰۃ اللیل یعنی نماز تہجد مصداق ہونا متبادر ہے اور حدیث شریف سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے البتہ یوں کہا جاسکتا ہے کہ جب نماز تہجد کے لئے خواب گاہ چھوڑنے کی فضیلت ہے جو نفل نماز ہے تو نماز فجر کے لئے گرمی اور سردی میں بستر چھوڑ کر نماز فجر ادا کرنے کی فضیلت کیوں نہ ہوگی جو فرض نماز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں نماز فجر جماعت سے پڑھ لوں تو یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے جو پوری رات نماز میں کھڑا رہوں۔ (مشکوٰۃ المصابیح)

حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کو ایک ہی میدان میں جمع کیا جائے گا (اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے) ایک منادی پکار کر کہے گا کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو خواب گاہوں سے جدا ہو جاتے تھے یہ سکر کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے جن کی تعداد تھوڑی ہوگی یہ لوگ بغیر حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے اس کے بعد باقی لوگوں کا حساب شروع کرنے کا حکم ہوگا۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۸۷)

جن حضرات کی صفات اوپر بیان ہوئی ہیں اُن کا انعام بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے لئے جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان پوشیدہ کیا ہوا ہے اُسے کوئی شخص نہیں جانتا اس میں اجمالی طور پر جنت کی نعمتوں کا مرتبہ بتایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لئے وہ سامان تیار کیا ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کا گذر ہوا اس کے بعد راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو: فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ اَنْ اَخْفِيَ اَلَهُمْ مِنْ قَوْلِیْ اَعْلَمَ۔ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۷۰۴)

درحقیقت بات یہ ہے کہ جنت کی جن چیزوں کا قرآن وحدیث میں تذکرہ ہے اس میں کسی نعمت کی پوری کیفیت بیان نہیں کی گئی جو کچھ بیان فرمایا ہے وہاں کی نعمتیں اس سے بہت بلند ہیں اور بالا ہیں اس لئے فرمادیا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا جو سامان اہل جنت کے لئے تیار کیا گیا ہے کوئی آنکھ تو دنیا میں اُسے کیا دیکھ پاتی کسی کان نے اس کی کیفیت کو سنا تک نہیں اور کسی کے دل میں اس کا تصور تک نہیں آیا۔ جنت کے متعلق جو کچھ سن کر اور پڑھ کر سمجھ میں آتا ہے جب جنت میں جائیں گے تو اس سے بہت بلند و بالا پائیں گے پھر جنت کی جن نعمتوں کا تذکرہ قرآن وحدیث میں موجود ہے وہاں اُن کے علاوہ بہت زیادہ نعمتیں ہیں نیز کسی چیز کے دیکھنے اور استعمال کرنے سے جو پوری واقفیت حال ہوتی ہے وہ محض سننے سے حاصل نہیں ہوتی لہذا اس دنیا میں رہتے ہوئے نعمائے جنت کی واقعی حقیقت و کیفیت کا ادراک نہیں ہو سکتا ہے۔

حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اگر جنت کی نعمتوں میں سے اتنی تھوڑی سی کوئی چیز دنیا والوں پر ظاہر ہو جائے جسے ناخن پر اٹھا سکتے ہیں تو آسمان اور زمین کے کناروں میں جو کچھ ہے وہ سب مزین ہو جائے اور اہل جنت میں سے کوئی شخص دنیا کی طرف جھانک لے جس سے اس کے نگن ظاہر ہو جائیں تو اس کی روشنی سورج کی روشنی کو ختم کر دے جیسا کہ سورج ستاروں کی روشنی کو ختم کر دیتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ ساری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے بہتر ہے۔ (رواہ البخاری)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دنیا کی چیزوں میں سے کوئی چیز بھی جنت میں نہیں ہے صرف ناموں کی مشابہت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جنت کی نعمتوں کے تذکرہ میں جو سونا چاندی، موتی، ریشم، درخت، پھل میوے، تخت، گدے، کپڑے وغیرہ آئے ہیں یہ چیزیں وہاں کی چیزیں ہوں گی اور اسی عالم کے اعتبار سے ان کی خوبی اور بہتری ہوگی دنیا کی کوئی بھی چیز جنت کی کسی چیز کے پاسنگ بھی نہیں ہے۔

تنبیہ: نیک بندوں کی تعریف فرماتے ہوئے وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ بھی فرمایا ہے یہ سلبی صفت ہے دیگر صفات ایجابی ہیں۔ بات یہ ہے کہ تکبر بہت بری بلا ہے اپنی بڑائی بگھارنا، شہرت کا طالب ہونا، دوسروں کو حقیر جاننا دکھاوے کے لئے عبادت کرنا تاکہ لوگ معتقد ہوں یہ سب تکبر کے شعبے ہیں۔ تکبر عبادات کا ناس کھودیتا ہے کیا کرایا سب مٹی میں مل جاتا ہے ریا کاری کی وجہ سے اعمال باطل ہو جاتے ہیں اور وہ مستوجب سزا بھی ہے جیسا کہ احادیث شریفہ میں اس کا تذکرہ آیا ہے مومن بندوں پر لازم ہے کہ تکبر سے دور رہیں تو واضح اختیار کریں فرائض بھی ادا کریں واجبات بھی پورے کریں، نوافل بھی پڑھیں، زکوٰۃ بھی دیں، صدقہ بھی کریں سب سے اللہ کی رضا مقصود ہو دکھاوے نہ کریں اور نہ بندوں سے تعریف کی خواہشمند ہوں۔

مومن اور فاسق برابر نہیں: مؤمنین صالحین کا اجر و انعام بتانے کے بعد ارشاد فرمایا: اَلَّذِينَ كَانُوا مُؤْمِنًا كَانُوا قَائِمًا کیا جو شخص مومن ہو وہ فاسق کی طرح ہو سکتا ہے؟ پھر خود ہی جواب دے دیا لَا يَسْتَوُونَ (مؤمنین اور فاسقین برابر نہیں ہو سکتے) اس کے بعد دوبارہ اہل ایمان کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا اور ساتھ ہی کافروں کے عذاب کا بھی ارشاد فرمایا: اِنَّمَا الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوٰی (جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے اُن کے لئے باغ ہوں گے ٹھہرنے کی جگہوں میں) نَزَّلَا فِيْهَا مِنْ اَعْنَابٍ وَفِيْهَا زَاوِيٰ (یہ بطور مہمانی اُن اعمال کا بدلہ ہوں گے جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے) وَ اِنَّمَا الَّذِينَ فَتَقَوْا فِيْهَا وَلَهُمْ اَنْهٰرٌ (اور جن لوگوں نے نافرمانی کی اُن کا ٹھکانہ دوزخ ہے) كُلَّمَا اَرَادُوْا اَنْ يَخْرُجُوْا مِنْهَا اُعِيْدُوْا فِيْهَا (جب بھی اس میں سے نکلنے کا ارادہ کریں گے اس میں واپس لوٹا دیئے جائیں) وَقِيْلَ لَهُمْ دُوْا عَذَابَ النَّارِ اَلَا كُنْتُمْ فِيْهَا يٰۤاٰمَنُوْنَ۔ (اور اُن سے کہا جائے گا کہ آگ کا عذاب چکھو جس کو تم جھٹلاتے تھے) جب ایمان والوں اور نافرمانوں کے انجام میں فرق ہے کہ اہل ایمان ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں ہوں گے اور وہاں اُن کے ساتھ مہمانوں جیسا برتاؤ ہوگا اور نافرمان دوزخ میں جائیں گے تو دونوں فریق برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اہل کفر کی ذلت کا یہ عالم ہوگا کہ جب اس میں سے نکلنا چاہیں تو اسی میں دھکیل دیئے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ جو تم جھٹلانے والا عمل کیا کرتے تھے اس کی وجہ سے آگ کا عذاب چکھتے رہو۔

معالم انقریل میں لکھا ہے کہ آیت کریمہ اَلَّذِينَ كَانُوا مُؤْمِنًا كَانُوا قَائِمًا حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ولید بن عقبہ بن ابی

معیت کے بارے میں نازل ہوئی دونوں میں کچھ گفتگو ہو رہی تھی ولید نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہہ دیا کہ چپ ہو جا تو پچہ ہے اور میں بولنے میں بھی تجھ سے بہتر ہوں اور نیزہ بھی زیادہ تیز ہے اور دلاور بھی تجھ سے زیادہ ہوں اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ چپ ہو جا تو فاسق ہے اس پر آیت بالا نازل ہوئی (فی صحیحہ کلام طویل ذکرہ صاحب الروح فراجعہ ان شئت) قال صاحب الروح وفي رواية اخرى انها نزلت في علي اكرم الله وجهه ورجل من قريش ولم يسمه (اس بات کے صحیح ہونے میں طویل کلام ہے جسے روح المعانی والے نے ذکر کیا ہے اگر آپ چاہیں تو اسے دیکھ لیں۔ روح المعانی کے مصنف نے کہا ہے کہ ایک دوسری روایت میں ہے یہ آیت حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور ایک دوسرے آدمی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ دوسرے آدمی کا نام ذکر نہیں کیا)

اس کے بعد ارشاد فرمایا وَلَنذِيقَهُمْ قَيْنَ الْعَذَابِ الْاَوَّْلَىٰ ذُنُوبَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (اور ہم انہیں ضرور ضرور بڑے عذاب سے پہلے قریب والا عذاب چکھا دیں گے تاکہ وہ باز آ جائیں) بڑے عذاب سے مراد آخرت کا عذاب اور قریب والے عذاب سے دنیا کا عذاب مراد ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس کی تفسیر میں دو باتیں منقول ہیں اول یہ کہ اہل مکہ کو جو چند سال قحط میں مبتلا کیا اس سے وہ عذاب مراد ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مشرکین مکہ کا غزوہ بدر میں مقتول ہونا اور شکست کھانا مراد ہے۔ اگرو لَنذِيقَهُمْ کی ضمیر منصوب مشرکین مکہ کی طرف راجع ہو تو یہ دونوں تفسیر اس کے مناسب ہیں اور اگر عمومی طور پر سب ہی کافراں کی ضمیر کا مرجع قرار دیئے جائیں تو پھر دنیا کے مصائب اور امراض مراد ہوں گے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ تیسرا قول بھی مروی ہے۔ دنیا کا یہ عذاب ایمان کی طرف متوجہ کرنے کے لئے ہوتا ہے تاکہ متنبہ ہو جائے اور توبہ کی طرف رجوع کر لیں۔ (روح المعانی جلد ۲۱ ص ۱۳۴ ۱۳۵)

آخر میں فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا (اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جسے اُس کے رب کی آیات یاد دلوائی جائیں پھر وہ ان سے اعراض کرے) لَنَأْمُرَنَّ الْمُنَافِقِينَ مُنَافِقُونَ (اور بلاشبہ ہم مجرمین سے بدلہ لینے والے ہیں) اس میں مکذبین کے مستحق عذاب ہونے کی وجہ بتائی ہے کہ ہماری آیات کو جھٹلا کر بڑے ظالم بن گئے نیز امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ ﷺ کو بھی تسلی ہے کہ یہ لوگ جو تکذیب پر تلے ہوئے ہیں ہم ان سے بدلہ لے لیں گے۔

صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ پہلے اُن حضرات کی تعریف فرمائی جو اللہ تعالیٰ کی آیات سن کر سجدے میں گر پڑتے ہیں اور ان آیات میں اُن لوگوں کی مذمت بیان فرمائی جن کے سامنے اللہ کی آیات آئیں پھر وہ ان سے اعراض کریں۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَابِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي

اور بلاشبہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی سو آپ اس کے ملنے میں کچھ شک نہ کیجئے اور ہم نے ان کو بنی اسرائیل کے لئے موجب ہدایت

إِسْرَآئِيلَ ۖ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آيَةً يَّهْدُونَ يَا مَعْرُوفُ أَتَاصِرُ وَآتُ ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ۝۱۰

بنایا تھا۔ اور ہم نے ان میں سے پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے جبکہ انہوں نے میرا کیا اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝۱۱

بلاشبہ آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان ان چیزوں میں فیصلے فرمائے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔

## جن چیزوں میں اختلاف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا

**تفسیر:** یہ تین آیات کا ترجمہ ہے پہلی آیت میں فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی (انہوں نے اس کی اشاعت میں تکلیفیں برداشت کیں) اور اب آپ کو یہ کتاب دی ہے یعنی قرآن مجید عطا فرمایا ہے آپ اس کتاب کے ملنے میں کچھ شک نہ کیجئے یعنی آپ صاحب کتاب ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر وحی آتی ہے آپ کا بلند مرتبہ ہے اس بلند مرتبہ کے ہوتے ہوئے اگر کج فہم آپ کی دعوت پر دھیان نہ دیں تو آپ غم نہ کریں موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی وہ محنت کرتے رہے اور ایذا دینے والوں کی باتوں پر صبر کرتے رہے۔ صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ کا خطاب گو بظاہر حضور اکرم کو ہے لیکن مقصود خطاب آپ (ﷺ) کی امت ہے اور وہ لوگ ہیں جنہیں قرآن مجید کے بارے میں کتاب اللہ ہونے میں شک تھا۔

حضرت حسن نے فرمایا کہ لِقَائِهِ کی ضمیر مجرور شدت اور محنت کی طرف راجع ہے جو کلام سے مفہوم ہو رہی ہے فَكَانَ قِيلَ: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ هَذَا الْعَبَاءَ الَّذِي أَنْتَ بِسَبِيلِهِ فَلَا تَمْتَرَنَّ أَنْكَ تَلْقَاهُ مَا لَقَىٰ هُوَ مِنَ الشَّدَةِ وَالْمَحَنَةِ بِالنَّاسِ (ذکرہ صاحب روح) (گویا کہ کہا گیا ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہی مشقت دی ہے جس مشقت کے راستہ پر آپ چل رہے ہیں پس آپ گھبراہٹ میں نہ پڑیں لوگوں کی طرف سے جو تکالیف و پریشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہنچیں وہ یقیناً آپ کو بھی پہنچیں گی) صاحب بیان القرآن نے اپنی تفسیر میں ضمیر کا مرجع تو کتاب ہی کو بتایا ہے البتہ شدت و محنت والی بات لے لی ہے ہم نے بھی ان کا اتباع کیا ہے اگرچہ صاحب روح المعانی آخر میں فرماتے ہیں: وَلَا يَخْفَىٰ بَعْدَهُ۔ (اور اس تو جہی کا مجید ہونا ظاہر ہے)

وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ۔ اور ہم نے اس کتاب کو (جو موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی) بنی اسرائیل کے لئے سبب ہدایت بنایا تھا اسی طرح آپ (ﷺ) پر نازل ہونے والی کتاب بھی آپ کی امت کے لئے ہدایت کا سبب ہے۔

دوسری آیت میں فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل میں پیشوا بنادئے تھے جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے جبکہ انہوں نے صبر کیا (اس سے معلوم ہوا ہدایت اور محنت کی کوشش میں صبر کرنا ضروری ہے لہذا آپ بھی صبر کریں) اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے یہ یقین انہیں ہدایت اور دعوت کے کام پر ثابت قدم رکھتا تھا۔ ائمہ سے کون حضرات مراد ہیں؟ حضرات مفسرین نے فرمایا ہے کہ ان سے انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام مراد ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ ان کی امت کے افراد مراد ہیں جو ہدایت اور دعوت کے کام میں لگے رہتے تھے یہ دوسرا قول اقرب ہے کیونکہ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ حال کے مناسب ہے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام تو اصحاب یقین تھے ہی قال صاحب الروح ج ۲ ص ۱۳۸ وَالْمُرَادُ كَذَلِكَ لِنَجْعَلَ الْكِتَابَ الَّذِي آتَيْنَاكَ هُدًى لَا مَتَكَ وَلِنَجْعَلَ مِنْهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ مِثْلَ تِلْكَ الْهُدَايَةِ۔ (تفسیر روح المعانی کے مصنف نے کہا ہے اور مراد یہ ہے کہ اسی طرح ہم نے آپ کو جو کتاب دی اسے یا خود آپ کو آپ کی امت کے لئے ہدایت کا سامان بنائیں گے اور ہم ضروران میں راہنما بنائیں گے جو اس ہدایت کے مطابق راہنمائی کریں)

تیسری آیت میں یہ فرمایا کہ قیامت کے دن آپ کا رب ان کے درمیان ان امور کے بارے میں فیصلہ فرمادے گا جن میں یہ لوگ آپس میں اختلاف کرتے تھے یعنی اہل ایمان کو جنت میں اور اہل کفر کو دوزخ میں داخل فرمادے گا۔ اس میں رسول اللہ ﷺ کو تسلی ہے کہ جو لوگ آپ کے مخالف رہے ہیں اگر کفر ہی پر چرے رہے تو قیامت کے دن سزا مل ہی جائے گی۔

اَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْجِدِهِمْ اِنَّ

کیا ان لوگوں کو اس چیز نے ہدایت نہیں دی کہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی امتوں کو ہلاک کر چکے ہیں یہ لوگ ان کے رہنے کی جگہوں میں چلتے پھرتے ہیں بلاشبہ

فِي ذَلِكَ لَايْتِ اَفْلَاكٌ يَسْمَعُونَ ۝ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ اِلَى الْاَرْضِ فَتَخْرُجُ مِنْهَا

اس میں نشانیاں ہیں، کیا یہ لوگ نہیں سنتے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم سوچی زمین کی طرف پانی کو روانہ کرتے ہیں پھر اس کے ذریعہ

زَرْعَاتُهَا كُلُّ مِنْهُ اَنْعَامُهُمْ وَاَنْفُسُهُمْ اَفَلَا يُبْصِرُونَ ۝

کھیتی نکالتے ہیں جس میں سے ان کے مویشی اور خود یہ لوگ کھاتے ہیں۔ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے

ہلاک شدہ اقوام کے مساکن سے عبرت حاصل کرنے کی تاکید  
کھیتیاں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں جن سے بنی آدم اور موسیٰ کھاتے ہیں

**تفسیر:** جو لوگ رسول اللہ ﷺ کو جھٹلاتے تھے اور اس تکذیب پر عذاب آجانے کی وعید سنتے تھے وہ عذاب آنے کی بھی تکذیب کرتے تھے اور یوں سمجھتے تھے کہ عذاب آنے والا نہیں یہ یوں ہی باتیں ایسے لوگوں کی تنبیہ کے لئے فرمایا کہ ان لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی امتیں ہلاک کر دی ہیں یہ خبریں ان تک پہنچی ہوئی ہیں اور ان لوگوں کی ہلاکت کے واقعات انہوں نے سُن رکھے ہیں اور صرف سُنے ہی نہیں آنکھوں سے بھی ان کی تباہیوں کے آثار دیکھتے ہیں جب اپنی تجارت کے لئے سفر کرتے ہیں (خصوصاً اہل مکہ جو تجارت کے لئے شام جایا کرتے تھے) تو یہ لوگ برباد شدہ اقوام کے کھنڈرات پر گزرتے ہیں تو ان کے قلعے گرے ہوئے اور مکانات ٹوٹے ہوئے اور بیکار پڑے ہوئے کنویں نظروں سے دیکھتے ہیں، کیا یہ بات ان کی ہدایت کے لئے کافی نہیں ہے، اگر فکر کریں اور تھوڑا سا بھی سوچیں تو یہ نشانیاں ہدایت کا سبب بن سکتی ہیں جب یہ چیزیں نظر کے سامنے ہیں تو کیوں ہدایت نہیں کرتے، سورۃ الحج میں فرمایا: فَكَانَ يَوْمَئِذٍ اَهْلُكُمْ عَلَى ظُلُمٍ فِى فُجَاوَةٍ عَلَى عُرُوشِهِمْ لَمَّا سَأَلُوا مَعْظَكَ وَقَصَصْنَاهُ عَلَيْهِمْ (سو کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا اور حال یہ ہے کہ ان کے رہنے والے ظلم کرنے والے تھے، سو وہ اپنی ہی چھتوں پر گری پڑی ہیں اور کتنے ہی بے کار کنویں ہیں اور پختہ بنائے ہوئے محل ہیں جو ویران پڑے ہیں)

پھر ان لوگوں کو تنبیہ فرمائی جو قیامت کے منکر تھے اور یوں کہتے تھے کہ دوبارہ زندہ ہونا ہماری سمجھ میں نہیں آتا ان کے بارے میں فرمایا کیا یہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ زمین خشک پڑی رہتی ہے اس میں ذرا بھی ایک سبز پتہ کا نشان بھی نہیں ہوتا ہم اس زمین کی طرف پانی روانہ کرتے ہیں جو بادلوں سے بھی برستا ہے اور نہروں اور کنوؤں سے بھی حاصل کیا جاتا ہے جب یہ پانی زمین میں

اُترتا ہے تو ہم اس سے کھیتی نکال دیتے ہیں یہ کھیتی اُن کے کام آتی ہے اس سے ان کے جانوروں کا چارہ بھی بنتا ہے اور خود بھی یہ لوگ اس میں سے کھاتے ہیں یہ مردہ زمین کو زندہ کرنا انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی زندہ مثال ہے اگر سمجھنا چاہیں تو سمجھ سکتے ہیں یہ سب کچھ نظروں کے سامنے ہے کیوں نہیں دیکھتے؟ سورہ روم میں فرمایا: كَانَظَرُ إِلَىٰ آثَرِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَٰلِكَ لَمَعْنَى الْمَوْئِدِ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (سوائے مخاطب اللہ کی رحمت کے آثار کو دیکھ لے وہ زمین کو اس کی موت کے بعد کیسے زندہ فرماتا ہے بلاشبہ وہ ضرور مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے)

**وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ ۖ إِنَّا كُنَّا صَادِقِينَ ۖ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَيْمَانُهُمْ**

اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فتح کب ہوگی اگر تم سچے ہو آپ (ﷺ) فرمادیجئے کہ فتح کے دن کافروں کو ان کا ایمان نہ نفع دے گا

**وَلَا لَهُمْ يُنْتَظَرُونَ ۖ فَاعْرِضْ عَنْهُمْ ۖ وَانْتَظِرِ إِنَّا كُنَّا مُنْتَظَرُونَ ۖ**

اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ سو آپ ان سے اعراض کیجئے اور انتظار کیجئے بے شک وہ بھی منتظر ہیں۔

## فتح کے دن کافروں کا ایمان نفع نہ دے گا

**تفسیر:** جب منکرین اور معاندین کے سامنے قیامت کے واقع ہونے اور وہاں فیصلے کئے جانے کا ذکر ہوتا تھا تو کافر لوگ بطور مذاق ہنسی اڑاتے ہوئے یوں کہتے تھے کہ فیصلہ کا دن کب ہوگا؟ تم سچے ہو تو ہمیں اس کی تاریخ بتاؤ ان کے جواب میں فرمایا کہ انکار کرنے اور جلدی بچانے سے اس دن کے عذاب سے خلاصی نہ پاؤ گے آنے والی آہی جائے گی دیر میں آنے کا مطلب یہ نہیں کہ آتی ہی نہیں ہے وہ آئے گی ضرور آئے گی اور کافروں کو بہت بڑی مصیبت کا سامنا ہوگا اسے دیکھ کر ایمان لاؤ گے تو ایمان بھی معتبر نہ ہوگا اور اگر یوں کہیں کہ ہمیں مہلت دیدی جائے تو مہلت بھی نہیں دی جائے گی قال صاحب الروح فكانه قيل لهم: لا تستعجلوا به ولا تستهزؤا فكأنى باسم وقد حصلت في ذلك اليوم وامنتم فلم ينفعكم الايمان واستنظروا فلم تنظروا وهذا قريب من اسلوب الحكم. (تفسیر روح المعانی کے مصنف فرماتے ہیں گویا کہ ان سے کہا گیا ہے تم قیامت کی جلدی نہ بچاؤ اور نہ مذاق اڑاؤ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ تم قیامت کے دن میں داخل ہو چکے ہو اور تم اس دن کو دیکھ کر ایمان لائے ہو اور تمہیں اس وقت کے ایمان نے کوئی نفع نہیں دیا ہے۔ تم نے عذاب سے بچاؤ کیلئے مہلت مانگی ہے لیکن تمہیں مہلت نہیں ملی یہ مفہوم امر کے صیغہ سے حکم کے انداز میں بات کہنے کے قریب ہے)

**فَاعْرِضْ عَنْهُمْ** (سو آپ ان سے اعراض فرمائیے) ان کی تکذیب اور استہزاء کا وبال انہیں پر پڑے گا ان کو سمجھنے کا ارادہ نہیں ہے اور افہام و تفہیم بھی ان کے حق میں مفید نہیں۔ **وَانتَظِرِ إِنَّا كُنَّا مُنْتَظَرُونَ** (آپ انتظار کیجئے وہ بھی انتظار کر رہے ہیں) آپ ہماری مدد کے منتظر ہیں وہ غیر شعوری طور پر عذاب کے منتظر ہیں۔

ولقد تم تفسیر سورة السجدة بحمد الله تعالى وحسن توفيقه ليلة الثاني عشر

من شهر شعبان المعظم من شهور السنة السادسة عشرة بعد الف والرعمائة.

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿۱﴾ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ

سورة احزاب میں نازل ہوئی ﴿شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے﴾ اس میں حکایات اور نوکریاں ہیں

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۖ وَأَتَّبِعْ

اے نبی اللہ سے ڈرتے رہے اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانئے بلاشبہ اللہ عظیم ہے حکیم ہے اور آپ اس کا اتباع کیجئے

مَا يُؤْتِي إِلَيْكَ مِنْ ذِكْرٍ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۖ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ

جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر وحی کیا جاتا ہے بلاشبہ اللہ ان کاموں سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو اور اللہ پر بھروسہ کیجئے اور وہ کافی

يَا اللَّهُ وَكَيْلًا ۝

ہے اور کارساز ہے

## اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہئے اور اس پر توکل کیجئے کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانئے

**تفسیر:** یہاں سے سورة احزاب شروع ہو رہی ہے، احزاب حزب کی جمع ہے جو گروہ کے معنی میں آتا ہے ۵۷ میں قریش مکہ اور بہت سے قبائل اور جماعتیں سب مل کر مسلمانوں کو ختم کرنے کے لئے مدینہ طیبہ پر چڑھ آئے تھے۔ چونکہ ان کے بہت سے گروہ تھے اس لئے اس غزوہ کا نام غزوہ احزاب معروف ہوا۔ اور چونکہ اس موقع پر خندق بھی کھودی گئی تھی (اور ظاہری اسباب میں وہی تمام گروہ ہوں کے حملہ سے محفوظ ہونے کا ذریعہ بنے) اس لئے اس غزوہ کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ تفسیر روح المعانی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سورة الاحزاب کا سبب نزول نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اہل مکہ میں سے ولید بن مغیرہ اور شبیب بن ربیع نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ اگر آپ اپنی دعوت کو چھوڑ دیں؟ تو ہم آپ کو اپنا آدھا مال دے دیں گے اور ادھر مدینہ طیبہ کے یہودیوں اور منافقوں نے یہ دھمکی دی کہ آپ نے اگر اپنی بات نہ چھوڑی تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے اس پر سورة الاحزاب نازل ہوئی۔

اوپر تین آیات کا ترجمہ ذکر کیا گیا ہے ان میں رسول اللہ ﷺ کو خطاب ہے کہ آپ برابر تقویٰ پر قائم و دائم رہیئے کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیئے اور آپ کے رب کی طرف سے آپ پر جو وحی کی جاتی ہے اس کا اتباع کرتے رہیں۔ اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں اللہ کافی ہے اللہ کا رساز ہے نہ کہ رساز ہونے کے لئے کافی ہے اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے دشمنوں نے جو آپ کو مال کی پیش کش کی ہے اور جو قتل کی دھمکی دی ہے اُسے اس کا علم ہے اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے جو کچھ وجود میں آتا ہے اس میں حکمت ہے دشمنوں نے آپ کو جو پیش کش کی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے جس میں سے ایک یہ ہے کہ آپ مضبوطی کے ساتھ اللہ کے دین پر چرے رہیں اور وحی کا اتباع کرتے رہیں تاکہ آپ کے اندر مزید قوت اور توکل کی شان پیدا ہو جائے۔



مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِۦٓ وَمَا جَعَلَ اَزْوَاجَكُمْ اِلٰى تَظْهَرُوْنَ مِنْهُنَّ

اللہ نے کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں بنائے اور تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم ظہار کر لیتے ہو تمہاری ماں

اُمہتِکم و ما جعل اَدْعِيَاءَ کُمْ اَبْنَاءَ کُمْ ذٰلِکُمْ قَوْلُکُمْ بِاَفْوَاهِکُمْ وَاللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَهُوَ

نہیں بنایا اور جو تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں ان کو تمہارا بیٹا نہیں بنایا یہ تمہارے منہ سے کہنے کی بات ہے اور اللہ حق بات فرماتا ہے

يَهْدِي السَّبِيْلَ اُدْعُوْهُمْ لِاَبَائِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ اِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْا اَبَاءَهُمْ فَاٰخُوْا نَكُمْ

اور راستہ دکھاتا ہے تم انہیں ان کے باپوں کے نام سے پکارو یہ اللہ کے نزدیک انصاف کی بات ہے سوا اگر تم ان کے باپوں کو نہ جانتے ہو تو

فِي الدِّيْنِ وَمَوَالِيْکُمْ وَلَيْسَ عَلَيْکُمْ جُنَاحٌ فِیْمَا اَخْطَاْتُمْ بِهٖ وَلٰکِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ

وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں اور جو کچھ تم سے خطا ہو جائے اس کے بارے میں تم پر کوئی گناہ نہیں اور لیکن جس کا تمہارے

فُلُوْ بِکُمْ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

دل قصد ارادہ کر لیں اور اللہ غفور ہے رحیم ہے۔

منہ بولے بیٹے تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہیں ان کی نسبت ان کے باپوں کی طرف کرو

**تفسیر:** تفسیر قرطبی جلد نمبر ۱۳ ص ۱۱۶ میں لکھا ہے کہ جمیل بن عمر فہری ایک آدمی تھا اس کی ذکاوت اور قوت حافظہ

مشہور تھی، قریش اس کے بڑے معتقد تھے اور کہتے تھے کہ اس کے سینہ میں دو دل ہیں اور وہ خود بھی یوں کہتا تھا کہ میرے دو

دل ہیں ان دونوں کے ذریعہ جو کچھ سمجھتا ہوں وہ محمد (ﷺ) کی عقل سے زیادہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی باتوں کی

تردید فرمائی اور فرمایا: مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ (کہ اللہ نے کسی بندہ کے سینہ میں دو دل نہیں بنائے) جو

شخص یہ دعویٰ کرتا ہے اُسے اپنے دعوے کی سزا ضرور ملنا ہے اور اس کے دعوے کے خلاف ظاہر ہو جاتا ہے چنانچہ اس شخص

کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا جو یہ کہتا تھا کہ میرے اندر دو دل ہیں۔ قصہ یہ ہوا کہ یہ شخص بھی جنگ بدر میں شریک تھا جب

مشرکین کو شکست ہو گئی تو ابوسفیان نے اُس سے پوچھا کہ لوگوں کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا وہ تو شکست کھا گئے ابوسفیان

نے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ تیرا ایک چہل تیرے ایک ہاتھ میں ہے اور دوسرا تیرے پاؤں میں ہے کہنے لگا اچھا یہ بات ہے!

میں تو یہی سمجھ رہا ہوں کہ وہ دونوں میرے پاؤں میں ہیں اُس وقت لوگوں پر ظاہر ہو گیا کہ اگر اس کے دو دل ہوتے تو اپنے

چہل کو ہاتھ میں لٹکائے ہوئے یہ نہ سمجھتا کہ وہ میرے پاؤں میں ہے۔

ظہار کیا ہے: اہل عرب میں ظہار کا طریقہ جاری تھا یعنی مرد اپنی بیوی سے یوں کہہ دیتا تھا کہ: اَنْتِ ..... كَظْهَرِ

اُمِّي (تو میرے لئے ایسی ہے جیسی میری ماں کی کمر ہے) ایسا کہہ دینے سے اُس عورت کو اپنے اوپر ہمیشہ کے لئے حرام

سمجھ لیتے تھے۔ اسلام میں اگر کوئی شخص ایسا کہہ دے تو اس کے لئے کفارہ مقرر کر دیا گیا ہے جو سورۃ المجادلہ کے پہلے رکوع

میں مذکور ہے اہل عرب جو اپنے اوپر عورت کو ہمیشہ کے لئے حرام سمجھ لیتے تھے اُن کی تردید کرتے ہوئے فرمایا: وَمَا جَعَلَ

اِنَّكُمْ لَآ تَظْهَرُونَ مِنْهُمْ اَنْتُمْ كُمْ (اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیویوں کو جن سے تم ظہار کر لیتے ہو تمہاری حقیقی اور واقعی ماں نہیں بنادیا) لہذا اگر کوئی شخص ظہار کر لے تو اس کی بیوی اس پر ہمیشہ کے لئے حرام نہ ہو جائے گی مگر وہ کفارہ دے دے تو پھر میاں بیوی کی طرح رہیں۔

بیٹا بنالینا: اہل عرب کا یہ بھی طریقہ تھا کہ جب کسی لڑکے کو منہ بولا بیٹا بنا لیتے تھے (جو اپنا بیٹا نہیں دوسرے شخص کا بیٹا ہوتا تھا جسے ہمارے محاورہ میں لے پالک کہتے ہیں) تو اس لڑکے کو بیٹا بنانے والا شخص اپنی ہی طرف منسوب کرتا تھا یعنی حقیقی بیٹے کی طرح سے اُسے ماننا اور سمجھتا تھا اور اس سے بیٹے جیسا معاملہ کرتا تھا اس کو میراث بھی دیتا تھا اور اس کی موت یا طلاق کے بعد اس کی بیوی سے نکاح کرنے کو بھی حرام سمجھتا تھا اور عام طور سے دوسرے لوگ بھی اس لڑکے کو اُسی شخص کی طرف منسوب کرتے تھے جس نے بیٹا بنایا ہے اور ابن فلاں کہہ کر پکارتے تھے ان کی تردید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: وَمَا جَعَلَ اَدْعَاءُكُمْ اَبْنَاءَكُمْ (کہ اللہ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا اصلی اور واقعی بیٹا قرار نہیں دیا) تم جو انہیں بیٹا بنانے والے کا بیٹا سمجھتے ہو اور اس پر حقیقی بیٹے کا قانون جاری کرتے ہو یہ غلط ہے۔ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ (یہ تمہارے اپنی منہ بولی باتیں ہیں اللہ کی شریعت کے خلاف ہیں) وَاللّٰهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (اور اللہ حق بات فرماتا ہے اور حق راہ بتاتا ہے) اسی میں سے یہ بھی ہے کہ منہ بولے بیٹوں کو حقیقی بیٹا نہ سمجھا جائے۔ اَدْعَوْهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ اقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ (تم انہیں ان کے باپوں کی طرف نسبت کر کے پکارو یہ اللہ کے نزدیک انصاف کی چیز ہے) وَكَانَ لَكُمْ تَعْلَمُوْا اَبَاءَهُمْ كَالَّذِيْنَ كُنْتُمْ فِي الدِّيْنِ وَمَوَالِيَكُمْ (سوا اگر تمہیں ان کے باپوں کا علم نہ ہو مثلاً کسی لڑکے کو پال لیا جس کا باپ معلوم نہ تھا مثلاً کسی لقیط (پڑا ہوا بچہ) کو اٹھا لیا۔ اس کے باپ کا علم نہیں نہ بیٹا بنانے والے کو ہے نہ بستی والوں کو تو اُسے بِسَا اَحْسٰی میرا بھائی کہہ کر بلاؤ کیونکہ وہ تمہارا دینی بھائی ہے یا دوست کہہ کر بلاؤ مَوَالِیْ مَوَالِی کی جمع ہے جس کے متعدد معانی ہیں ان میں سے ایک ابن العم یعنی چچا کے بیٹے کے معنی میں بھی آتا ہے اس لئے صاحب جلالین نے مَوَالِيكُمْ کا ترجمہ بنو عمکم کیا ہے یعنی چچا زاد کہہ کر پکار لو۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ (اور جو کچھ تم سے خطا ہو جائے اس کے بارے میں تم پر کوئی گناہ نہیں) تم سے بھول چوک ہو جائے اور منہ سے بیٹا بنانے والے کی طرف نسبت کر بیٹھو تو اس پر گناہ نہیں ہے۔ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ (لیکن اس حکم کی خلاف ورزی قلبی ارادہ کے ساتھ قصداً ہو جائے تو یہ مواخذہ کی بات ہے) وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا (اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے مہربان ہے) گناہ ہو جائے تو مغفرت طلب کرو اور توبہ کرو۔

## ضروری مسائل

**مسئلہ:** اگر کسی لڑکے یا لڑکی کو کوئی شخص لے کر پال لے اور بیٹا بیٹی کی طرح اس کی پرورش کرے جیسا کہ بعض بے اولاد ایسا کر لیتے ہیں تو ایسا کرنا جائز ہے لیکن حقیقی ماں باپ بھائی بہن اور دیگر رشتہ داروں سے اس کا تعلق حسب سابق باقی رہنے دیں شرعی اصول کے مطابق آنا جانا ملنا جلنا جاری ہے قطع رحمی نہ کی جائے۔

**مسئلہ:** قرآن مجید میں بتادیا کہ مُتَبَنٰی یعنی منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہو جاتا لہذا اس کو پالنے والے مرد یا عورت کی میراث نہیں ملے گی، بعض مرتبہ کسی کو بیٹا بیٹی بنا لینے کے بعد اپنی اولاد پیدا ہو جاتی ہے اور اولاد کے علاوہ دیگر شرعی ورثاء

بھی ہوتے ہیں پس سمجھ لیا جائے کہ میراث اسی اصل ذاتی اولاد اور دیگر شرعی ورثاء کو ملے گی منہ بولے بیٹے بیٹی کا اس میں کوئی حصہ نہیں البتہ منہ بولے بیٹے کے لئے وصیت کی جاسکتی ہے جو تہائی مال سے زیادہ نہ ہو اور اس وصیت کرنے میں اصل وارثوں کو محروم کرنے یا ان کا حصہ کم کرنے کی نیت نہ ہو۔

**مسئلہ:** منہ بولا بیٹا بیٹی چونکہ اپنے حقیقی بیٹا بیٹی نہیں بن جاتے اس لئے اگر وہ محرم نہیں ہیں تو ان سے وہی غیر محرم والا معاملہ کیا جائے گا اور سمجھدار ہو جانے پر پردہ کرنے کے احکام نافذ ہوں گے ہاں اگر کسی مرد نے بھائی کی لڑکی لے کر پال لی تو اس سے پردہ نہ ہوگا یا اگر کسی عورت نے بہن کا لڑکا لے کر پال لیا تو اس سے بھی پردہ نہ ہوگا کیونکہ دونوں صورتوں میں محرم ہونے کا رشتہ سامنے آ گیا ہاں جس کا رشتہ محرمیت نہ ہوگا اس سے پردہ ہوگا مثلاً کسی عورت نے اپنے بھائی یا بہن کی لڑکی لے کر پال لی جس کا عورت کے شوہر سے کوئی رشتہ محرمیت نہیں ہے تو اس مرد کے حق میں وہ غیر ہوگی اس سے پردہ ہوگا۔

**مسئلہ:** کسی نے کسی کو منہ بولا بیٹا بنایا اور اس بیٹا بنانے والے کی لڑکی بھی ہے تو اس لڑکے اور لڑکی کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے بشرطیکہ حرمت نکاح کا کوئی دوسرا سبب نہ ہو۔

**مسئلہ:** اگر کسی نے کسی نامحرم کو اپنا بیٹا بنایا اور اس لڑکے کی کسی لڑکی سے شادی کر دی پھر یہ لڑکا مر گیا یا طلاق دے دی تو اس بیٹا بنانے والے شخص سے مرنے والے کی بیوی کا نکاح ہو سکتا ہے بشرطیکہ کوئی دوسری وجہ حرمت نہ ہو۔ رسول اللہ ﷺ نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو اپنا بیٹا بنالیا تھا پھر بڑا ہو جانے پر اپنی پھوپھی کی لڑکی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے ان کا نکاح کر دیا تھا جب انہوں نے طلاق دے دی تو آپ ﷺ نے حضرت زینب سے نکاح کر لیا اس پر عرب کے جاہلوں نے اعتراض کیا کہ دیکھو بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا (جس کا تذکرہ اس سورت کے پانچویں رکوع میں آ رہا ہے ان شاء اللہ) ان لوگوں کی تردید میں اللہ تعالیٰ نے وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَاءَكُمْ اَبْنَاءَكُمْ فرمادیا (کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنادیا تھا)۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم زید بن حارثہ کو زید بن محمد (ﷺ) کہا کرتے تھے۔ جب آیت وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَاءَكُمْ اَبْنَاءَكُمْ نازل ہوئی تو ہم نے ایسا کہنا چھوڑ دیا۔

**مسئلہ:** دوسروں کے بچوں کو شفقت اور پیار میں جو بیٹا کہہ کر بلا لیتے ہیں جبکہ ان کا باپ معروف و مشہور ہو تو یہ جائز تو ہے لیکن بہتر نہیں ہے۔

**مسئلہ:** جس طرح کسی کے منہ بولے بیٹے کو اپنا بیٹا بنانے والے کی طرف منسوب کرنا جائز نہیں ہے اسی طرح اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنے باپ کے علاوہ کسی کو اپنا باپ بنائے یا بتائے یا کاغذات میں لکھوائے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے باپ کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف نسبت کی حالانکہ وہ جانتا ہے کہ یہ میرا باپ نہیں ہے تو اس پر جنت حرام ہے۔ (رواہ البخاری عن سعد بن ابی وقاص) آجکل جو لوگوں میں اپنا نسب بدلنے جھوٹا سید بنے یا اپنی قوم و قبیلہ کے علاوہ کسی دوسرے قبیلہ کی طرف منسوب ہونے کا رواج ہو گیا ہے یہ حرام ہے ایسا کرنے والے حدیث مذکور کی وعید کے مستحق ہیں۔

**مسئلہ:** اگر کسی عورت نے زنا کیا اور اس سے حمل رہ گیا پھر جلدی سے کسی سے نکاح کر لیا اور اس طرح سے اس شوہر کا بچہ ظاہر کر دیا جس سے نکاح کیا ہے تو یہ بھی حرام ہے اور اگر کسی شخص کا واقعی بچہ ہے اور وہ اس کا انکار کرے تو یہ بھی حرام

ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی کوئی عورت کسی قوم میں کسی ایسے بچے کو شامل کر دے جو ان میں سے نہیں ہے تو اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور اللہ اسے ہرگز اپنی جنت میں داخل نہ فرمائے گا، اور جس کسی مرد نے اپنے بچے کا انکار کر دیا حالانکہ وہ اس کی طرف دیکھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنی رحمت سے دور فرما دے گا اور اسے (قیامت کے دن) اولین و آخرین کے سامنے رسوا کرے گا۔ (رواہ ابوداؤد)

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ

مُؤْمِنِينَ مِنْ نَبِيِّ كَاتِلِقِ اس سے زیادہ ہے جو ان کا اپنے نفسوں سے ہے اور آپ کی بیویاں ان کی مائیں ہیں

أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ

اور رشتہ دار اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے سے زیادہ تعلق رکھنے والے ہیں بہ نسبت دوسرے مؤمنین مہاجرین کے مگر یہ کہ تم اپنے

أُولَٰئِكُمْ مَعْرُوفًا لَكَ فِي ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا

دوستوں سے کچھ اچھا سلوک کرنا چاہو یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔

مؤمنین سے نبی کا تعلق اس سے زیادہ ہے جو ان کا  
اپنے نفسوں سے ہے اور آپ کی بیویاں ان کی مائیں ہیں

**تفسیر:** اس آیت میں بظاہر چار باتیں بتائی ہیں اول یہ کہ نبی اکرم ﷺ کو مؤمنین سے جو تعلق ہے وہ اس تعلق سے بھی زیادہ ہے جو مؤمنین کو اپنی جانوں سے ہے اس میں بہت سے مضامین آ جاتے ہیں اول یہ کہ رسول اللہ ﷺ کو ایمان والوں کے ساتھ جو رحمت اور شفقت کا تعلق ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ مؤمنین کو بھی اپنی جانوں سے رحمت اور شفقت کا اتنا تعلق نہیں ہے اس کا کچھ بیان سورہ توبہ کی آیت کریمہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ کے ذیل میں گذر چکا ہے وہاں آپ کی رحمت اور شفقت کے بارے میں بعض احادیث گذر چکی ہیں آپ ﷺ کو یہ گوارہ نہ تھا کہ کسی مؤمن کو کوئی بھی تکلیف پہنچ جائے آپ ﷺ نے کبھی کسی کو دینی ضرورت سے غصہ میں کچھ فرما دیا تو اس کو بھی رحمت بنا دیا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بارگاہ خداوندی میں یوں دعا کی: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَتَّخِذْتُ عَنْدَكَ عَهْدًا لَنْ تُخْلِفَنِیْهِ فَاِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ فَاِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ فَاِیُّ الْمُؤْمِنِیْنَ اَذِیْنَتْهُ شَعْمَتُهُ لَعْنَتُهُ جَلَدْتُهٖ فَاَجْعَلْهَا لَهٗ صَلَوةً وَزَكَاةً تُقَرِّبُهٗ بِهَا اِلَیْكَ یَوْمَ الْقِیَمَةِ (اے اللہ! میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں جو امید ہے کہ آپ ضرور ہی قبول فرمائیں گے وہ یہ کہ میں ایک انسان ہوں پس جس کسی مؤمن کو میں نے تکلیف دی برا بھلا کہا لعنت کی، کوڑا مارا تو میرے اس عمل کو آپ اس کے لئے رحمت اور پاکیزگی اور اپنی نزدیکی کا ذریعہ بنا دیں جس کے ذریعہ آپ قیامت کے دن اس کو اپنے قرب سے نوازیں)

رسول اللہ ﷺ کی شفقت عامہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی

عادت شریفہ تھی کہ جب کسی ایسے شخص کا جنازہ پڑھنے کے لئے لایا جاتا جس پر قرض ہوتا تو آپ ﷺ دریافت فرماتے تھے کہ اس نے ادائیگی کا انتظام چھوڑا ہے یا نہیں؟ اگر جواب میں عرض کیا جاتا کہ اس نے ادائیگی کا انتظام چھوڑا ہے تو آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیتے تھے اور اگر یہ بتایا جاتا کہ اس نے قرض کی ادائیگی کا انتظام نہیں چھوڑا تو فرماتے تھے کہ تم لوگ اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو (یہ طریقہ آپ ﷺ نے اس لئے اختیار فرمایا تھا کہ لوگوں پر قرضدار ہو کر مرنے کی شاعت و قباحت ظاہر ہو جائے کہ دیکھو حضور نے اس کی نماز جنازہ تک نہیں پڑھی) پھر جب اللہ نے آپ پر فتوحات کے دروازے کھول دیئے تو آپ ﷺ بطور خطیب کے کھڑے ہوئے اور فرمایا اَنَا اَوَّلُیْ بِالْمُؤْمِنِیْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ (مجھے مؤمنین سے اس سے زیادہ تعلق ہے جتنا انہیں ان کی جانوں سے ہے) لہذا مؤمنین میں سے جس کسی شخص کی وفات ہو جائے اور وہ اپنے اوپر قرضہ چھوڑ جائے تو اس کی ادائیگی میرے ذمہ ہے اور جو کوئی مال چھوڑ جائے وہ اس کے وارثوں کے لئے ہے۔

آپ ﷺ چاہتے تھے کہ کسی مسلمان کو کوئی بھی تکلیف نہ ہو نہ دنیا میں نہ آخرت میں آپ ﷺ نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے اور بتایا اور تعلیم دی اس میں مؤمنین کے لئے خیر ہی خیر ہے جبکہ خود مومن بندے کبھی اپنی رائے کی غلطی سے اور کبھی کسی خواہش سے متاثر ہو کر دنیا و آخرت میں اپنی جانوں کو تکلیف پہنچانے والے کام بھی کر گزرتے ہیں آپ ﷺ نے اپنی مثال دے کر سمجھایا اور فرمایا کہ میری مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی شخص نے آگ جلائی جب آگ نے اپنے آس پاس روشنی کر دی تو پروانے اور یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے جو آگ میں گرا کرتے ہیں اس میں گرنے لگے آگ جلانے والا انہیں روکتا ہے اور وہ اس پر غالب ہو جاتے ہیں اور اس میں داخل ہو جاتے ہیں میری اور تمہاری مثال ایسی ہے میں دوزخ سے بچانے کے لئے تمہاری کردوں کو پکڑتا ہوں کہ آجاؤ آگ سے بچو آجاؤ آگ سے بچو پھر تم مجھ پر غلبہ پا جاتے ہو (یعنی ایسے کام کرتے ہو جو دوزخ میں جانے کا سبب ہوتے ہیں) (رواہ مسلم جلد ۲ ص ۲۳۸)

رسول اللہ ﷺ کی کوشش تو یہی رہی کہ امت مسلمہ کا کوئی شخص دوزخ میں نہ جائے لیکن دنیا داری کی وجہ سے اور نفس کی خواہشوں کے دباؤ سے لوگ گناہ کر کے عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں یہاں تو آپ ﷺ نے اپنی امت کی خیر خواہی کے لئے محنت کی ہی تھی آخرت میں سفارش بھی کریں گے آپ ﷺ کی شفقت میں نہ یہاں کمی رہی نہ وہاں ہوگی البتہ امت کو بھی اپنی جانوں کو عذاب آخرت سے بچانے کے لئے فکر رکھنا چاہئے۔

آپ ﷺ نے تو یہاں تک کیا کہ اُمت کی خیر خواہی کے لئے یقیناً مقبول ہونے والی دعا کو آخرت میں فائدہ پہنچانے کے لئے محفوظ فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کے لئے ایک دعائے مستجاب ہے (یوں تو حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام بہت سی دعائیں کرتے تھے جو مقبول ہوا کرتی تھیں لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اختیار دیا گیا تا کہ کوئی سی ایک دعا کر لو جو ضرور ہی مقبول ہوگی) لہذا ہر نبی نے اپنی اس دعا کو دنیا ہی میں استعمال کر لیا اور میں نے یہ دعا اپنی اُمت کی شفاعت کے لئے قیامت کے دن تک چھپا کر رکھ لی ہے سو میری اُمت میں سے ہر اس شخص کو پہنچ جائے گی جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کیا ہو۔ (رواہ مسلم)

ازواج مطہرات کا اکرام و احترام: دوسری بات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَاَزْوَاجُہُمْ اَمَّہُتُہُمْ (کہ نبی اکرم ﷺ کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں) یعنی ان کا اکرام و احترام واجب اور لازم ہے۔ آپ ﷺ کی

وفات کے بعد اُمت کے کسی فرد کے لئے یہ حلال نہیں کہ آپ ﷺ کی ازواج مطہرات میں سے کسی سے نکاح کر سکے جیسا کہ اسی سورت کے رکوع نمبر ۷ میں وَلَا اَنْ تَنْكِحُوا اَزْوَاجَهُمْ مِنْ بَعْدِ اَلَّذِي فَرَمَا ہے لیکن پردہ کے اعتبار سے وہ حکم نہیں تھا جو اپنی ماؤں سے ہے جیسا کہ اسی سورت میں فرمایا ہے: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَلُّوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ (اور جب تم ان سے کوئی سامان طلب کرو تو پردہ کے پیچھے سے مانگو)

**رشتہ داری کے اصول مقررہ کے مطابق میراث تقسیم کی جائے:** تیسرا حکم بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ (اور رشتہ دار اللہ کی کتاب میں یہ نسبت دوسرے مؤمنین مہاجرین کے زیادہ قریب تر ہیں) جب حضرات صحابہؓ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو حضور اقدس ﷺ نے مہاجرین و انصار کے درمیان مواخات فرمادی تھی یعنی بعض کو بعض کا بھائی بنا دیا تھا بھائی بن جانے کی وجہ سے ایک دوسرے کی خصوصی رعایت اور خدمت کے جذبات پیدا ہو گئے تھے اور یہ تعلق یہاں تک تھا کہ دونوں میں سے کسی ایک کے فوت ہو جانے پر آپس میں میراث بھی جاری ہوتی تھی اس آیت میں اور سورۃ انفال کی آخری آیت میں اس اخوت والی میراث کو منسوخ فرمادیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ آپس میں رشتہ داریاں ہیں اب انہیں اُن کی بنیاد پر حسب قواعد شرعیہ میراث ملے گی۔

چوتھی بات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: إِلَّا اَنْ تَقْعُدُوا إِلَىٰ اَوْلِيَّائِكُمْ مِّنْهُنَّ (مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرو) یعنی غیر رشتہ داروں میں میراث تو جاری نہ ہوگی (بلکہ سب رشتہ داروں میں بھی جاری نہیں ہوتی) البتہ جس کو بھی شرعی اصول سے میراث نہ پہنچتی ہو اُس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے مالی امداد کر دی جائے اس کی حاجتیں پوری کرنے کی کوشش کی جائے (مثلاً بطور ہبہ یا صدقہ یا میراث شرعی اصول کے مطابق دے دیا جائے) تو یہ دوسری بات ہے یہ چیز نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ مستحب و مستحسن اور باعث اجر و ثواب ہے۔

كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا (یہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے) بعض حضرات نے یہاں کتاب سے لوح محفوظ مراد لی ہے اور مطلب یہ بتایا ہے کہ لوح محفوظ میں یہ لکھا ہے کہ ہجرت کی وجہ سے جو توارث شروع ہو گا وہ منسوخ ہو جائے گا۔ اور آخری حکم توارث بالا رحام یعنی رشتہ داریوں کے اصول پر میراث دینے کا حکم باقی رہے گا اور بعض حضرات نے کتاب سے آیت الموارث اور بعض حضرات نے یہی آیت مراد لی ہے۔ صاحب روح المعانی نے ایک اور احتمال نکالا ہے وہ فرماتے ہیں: او فیما کتبه سبحانه وتعالى وفرضه وقضاه یعنی اللہ تعالیٰ نے فرض فرمادیا اور فیصلہ فرمادیا کہ اب میراث رشتہ داری کے اصول ہی پر منحصر رہے گی یہ کتاب اللہ ہے۔

وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ

اور جب ہم نے نبیوں سے ان کا اقرار لیا اور آپ سے بھی اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ بن

مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا ۚ لِّيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ

مریم سے اور ہم نے ان سے پختہ عہد لے لیا تاکہ اللہ جوں سے اگی سچائی کے بارے میں سوال فرمائے اور اس نے کافروں کے لئے

## عَذَابُ الْيَمِينَةِ

دردناک عذاب تیار فرمایا ہے۔

## حضرات انبیاء کرام علیہم السلام سے عہد لینا

**تفسیر:** اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سے جو عہد لیا تھا اس آیت میں اس کا ذکر ہے، تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا عمومی اور حضرت خاتم الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ اور حضرت نوح اور حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہم السلام کا خصوصیت کے ساتھ نام لیا ہے، ان حضرات کی مخلصی اپنی اپنی امتوں کو تبلیغ کرنے سے متعلق بہت زیادہ تھیں، صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ ان حضرات کی فضیلت زائدہ ظاہر فرمانے اور یہ بتانے کے لئے کہ یہ حضرات گذشتہ اصحاب شرائع والے انبیاء علیہم السلام میں مشہور ہیں ان حضرات کا خصوصی تذکرہ فرمایا ہے۔

صاحب روح المعانی نے حضرت رسول اکرم ﷺ کا ذکر مقدم کرنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ چونکہ آپ ﷺ کی تخلیق مقدم تھی اس لئے ذکر میں آپ ﷺ کی تقدیم فرمائی، اور اس بارے میں ضیاء الدین مقدسی کی کتاب الخارے سے ایک مرفوع حدیث بھی نقل کی ہے: **بَدِئْتُ بِسَيِّدِ الْخَلْقِ وَكُنْتُ آخِرَهُمْ فِي الْبَعْثِ** (مخلوق کی پیدائش کی ابتداء مجھ سے کی گئی اور میں بعثت میں سب انبیاء سے آخری ہوں) اور ایک حدیث یوں نقل کی ہے: **كُنْتُ أَوَّلَ النَّبِيِّينَ فِي الْخَلْقِ وَآخِرَهُمْ فِي الْبَعْثِ** (میں پیدائش کے لحاظ سے تمام انبیاء سے اول ہوں اور بعثت کے لحاظ سے آخری ہوں) (یہ حدیث علامہ سیوطی نے خصائص کبریٰ (ص ۳) میں بھی نقل کی ہے) نیز یہ بھی لکھا ہے کہ چونکہ آپ سب سے پہلے نبوت سے سرفراز کئے گئے تھے اسلئے بھی آپ ﷺ کا ذکر مقدم کیا گیا۔ اس بارے میں بھی متعدد روایات ہیں جنہیں علامہ سیوطی نے خصائص کبریٰ میں مختلف کتابوں سے جمع کیا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح ص ۵۱۳ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بحوالہ سنن ترمذی نقل کیا ہے کہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی نبوت کب ثابت ہوگئی، آپ ﷺ نے فرمایا **وَإِذَا مِ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ** (یعنی میرے لئے اس وقت نبوت ثابت ہوگئی تھی جب آدم روح و جسم کے درمیان تھے) اور حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ ﷺ کا ارشاد نقل کیا ہے کہ میں اُس وقت اللہ کے نزدیک خاتم النبیین لکھا ہوا تھا۔ جب آدم اپنی مٹی ہی میں تھے۔

حضرت انبیاء کرام علیہم السلام سے کیا عہد لیا جس کا اس آیت شریفہ میں ذکر ہے، اس کے بارے میں صاحب روح المعانی (جلد ۲ ص ۱۵۴) لکھتے ہیں: **اِیْ وَادْکُرْ وَفَتْ اِخْذْنَا مِنْ النَّبِیِّیْنَ کَافَّةً عَهْدَهُمْ بِتَبْلِیغِ الرِّسَالَةِ وَالشَّرَائِعِ وَالدَّعَاءِ اِلَى الدِّیْنِ الْحَقِّ** ”یعنی اُس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے تمام نبیوں سے یہ عہد لیا کہ رسالت کی تبلیغ کریں گے، احکام شریعت پہنچائیں گے اور دین حق کی طرف بلائیں گے“ مشکوٰۃ المصابیح ص ۲۴ پر مسند احمد سے نقل کیا ہے جو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکال کر **اَلْاَسْثُ بِرَبِّکُمْ** (کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں) فرمایا تو سب نے بلی کہا یعنی اقرار کیا کہ ہاں واقعی آپ



ہمارے رب ہیں اسی موقع پر حضرات انبیاء کرام علیہم السلام سے ایک خصوصی عہد لیا گیا جو رسالت اور نبوت کے بارے میں تھا جو آیت (مذکورہ بالا) وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ میں مذکور ہے۔

سورہ آل عمران رکوع نمبر ۹ میں بھی حضرات انبیاء کرام علیہم السلام سے عہد لینے کا ذکر ہے اس کا بھی مطالعہ کر لیا جائے۔  
وَلَعَنَّا مَنَافِيَهُمْ قَبِيضًا فَإِذَا هُمْ خِلَاطًا (اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا) جس عہد کا شروع آیت میں ذکر ہے بطور تاکید اسی کو دوبارہ ذکر فرمایا، اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ پہلے مذکورہ بالا عہد لینے کے بعد پھر اللہ کی قسم دلا کر دوبارہ عہد لیا جیسے مِيثَاقًا غَلِيظًا سے تعبیر فرمایا۔ (ذکرہ فی الروح)

لِيُثَبِّلَ الْمُضِيقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ (تا کہ اللہ سچوں سے اُن کی سچائی کے بارے میں سوال فرمائے) اس میں میثاق لینے کی حکمت بیان فرمائی اور مطلب یہ ہے کہ یہ میثاق اس لئے لی گئی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نبیوں سے دریافت فرمائے جو عہد کرنے میں سچے تھے کہ تم نے اپنے عہد کے مطابق اپنی اُمتوں کو تبلیغ کی یا نہیں؟ صحیح بخاری جلد ۲ ص ۴۶۵ میں ہے کہ قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام کو لایا جائے گا اور ان سے سوال کیا جائے گا کہ کیا تم نے تبلیغ کی؟ تو وہ عرض کریں گے کہ اے رب میں نے واقعہ تبلیغ کی پھر اُن کی اُمت سے سوال ہوگا کہ کیا انہوں نے تمہیں میرے احکام پہنچائے؟ وہ کہیں گے نہیں! ہمارے پاس تو کوئی نذیر (ڈرانے والا) نہیں آیا اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے دعوے کی تصدیق کے لئے گواہی دینے والے کون ہیں؟ وہ جواب دیں گے کہ حضرت محمد ﷺ اور ان کے اُمتی ہیں۔ یہاں تک بیان فرمانے کے بعد آنحضرت سید دو عالم ﷺ نے اپنی اُمت کو خطاب کر کے فرمایا کہ اس کے بعد تم کو لایا جائے گا اور تم گواہی دو گے کہ بیشک حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی تھی۔

مسند احمد وغیرہ کی روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے علاوہ دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی اُمتیں بھی انکاری ہوں گی اور کہیں گی کہ ہم کو تبلیغ نہیں کی گئی ان کے نبیوں سے سوال ہوگا کہ تم نے تبلیغ کی؟ وہ اثبات میں جواب دیں گے کہ واقعی ہم نے تبلیغ کی تھی اس پر اُن سے گواہ طلب کئے جائیں گے تو وہ بھی حضرت محمد رسول ﷺ اور آپ کی اُمت کی گواہی پیش کریں گے۔ (دُر منثور جلد ۱ ص ۱۴۴)

حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سے یہ سوال اُن کی اُمتوں کے سامنے ہوگا تا کہ اُن پر حجت قائم ہو جائے۔  
حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سچے تھے اور ان کے ماننے والے اپنے ایمان میں سچے تھے ان کے بارے میں سورہ مائدہ کے آخری رکوع میں فرمایا: قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمَ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ (یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو اُن کی سچائی نفع دے گی) جن لوگوں نے سچ کو جھٹلایا اُن کے بارے میں فرمایا: وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا (اور کافروں کے لئے دردناک عذاب تیار فرمایا) سورہ زمر میں فرمایا: فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَبَ بِالْحَقِّ إِذْ جَاءَهُ الْبَيِّنَاتُ فِي حُجَّتِهِمْ مَعَهُ لِلْكَافِرِينَ (سو اُس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور سچ کو جھٹلایا جب اُس کے پاس آیا کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے)۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا

اے ایمان والو! اللہ کی نعمت جو تمہیں ملی ہے اُسے یاد کرو جبکہ تمہارے پاس لشکر آ گئے سو ہم نے ان پر ہوا بھیج دی اور لشکر بھیج دیئے جنہیں تم

وَجُنُودَ الَّذِينَ تَتَّبِعُونَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۝ اِذْ جَاءُوكُم مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ

نے نہیں دیکھا اور اللہ ان کاموں کو دیکھنے والا ہے جو تم کرتے ہو جبکہ وہ لوگ تمہارے اوپر آچے اور تمہارے نیچے کی طرف سے بھی

مِنْكُمْ ۚ وَاِذْ زَاغَتِ الْاَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللّٰهِ الظُّنُونَا ۝ هُنَالِكَ

اور جبکہ آنکھیں پھٹی رہ گئیں اور دل گلوں کو پہنچ گئے اور تم اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کر رہے تھے۔ اس موقع پر

اِبْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زُلْزَالًا شَدِيدًا ۝

مؤمنین کی جانچ کی گئی اور انہیں سختی کے ساتھ جھنجھوڑ دیا گیا

## غزوہ احزاب کے موقعہ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کی مدد اور کفار کی جماعت کی بد حالی اور بدحواسی

**تفسیر:** اس رکوع میں غزوہ احزاب کا ذکر ہے جسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے یہ ۵ھ ہجری کا واقعہ ہے تھوڑی سی تمہید کے بعد اس غزوہ کی تفصیل نقل کی جاتی ہے۔

مدینہ منورہ میں زمانہ قدیم سے یہودی رہتے تھے اور دو قبیلے یمن سے آکر آباد ہو گئے تھے جن میں سے ایک کا نام اوس اور دوسرے کا نام خزرج تھا انہیں خبر دی گئی تھی کہ نبی آخر الزمان خاتم النبیین ﷺ اس شہر میں تشریف لائیں گے یہ لوگ آپ ﷺ پر ایمان لانے اور آپ کی اتباع کرنے کے لئے یہاں آکر بس گئے تھے۔ جب حضور انور ﷺ نے حج کے موقع پر اوس اور خزرج کو مٹی میں ایمان لانے کی دعوت دی تو اوس اور خزرج کے جو افراد وہاں موجود تھے انہوں نے ایمان قبول کر لیا اور مدینہ منورہ آکر اپنے اپنے قبیلہ کو حق کی دعوت دی تو وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ یہودیوں کے سامنے حق ظاہر ہو گیا تب بھی ایمان نہ لائے (فَلَمَّا جَاءَهُمْ كَفَرُوا بِهِ) یہودیوں کے تین قبیلے مدینہ منورہ میں آباد تھے ان میں سے ایک بنی قینقاع اور دوسرا بنی نضیر اور تیسرا بنی قریظہ تھا۔ جب آپ ﷺ مدینہ منورہ تشریف لائے تو ان تینوں سے تعاون اور تناصر کا معاہدہ فرمایا تھا۔

بنی نضیر کا یہ واقعہ ہوا کہ رسول اللہ ﷺ دو متوکلین کی دیت کے سلسلہ میں ان کے پاس تشریف لے گئے یہودیوں نے کہا کہ آپ تشریف رکھئے ہم اس بارے میں مالی تعاون کریں گے ادھر تو آپ ﷺ سے یہ کہا اور ادھر یہ مشورہ کیا کہ کوئی شخص اوپر چڑھ کر ان کے اوپر بھاری پتھر گرا دے یہودیوں سے ایک شخص نے اس کا ارادہ اور وعدہ کر لیا اور پتھر گرانے کے لئے اوپر چڑھ گیا اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو ان کے مشورے سے مطلع فرمادیا اور آپ ﷺ جلدی سے واپس تشریف لے آئے اور آپ نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہود کے پاس پیغام دے کر بھیجا کہ تم لوگ مدینہ منورہ چھوڑ دو اور یہاں سے چلے جاؤ منافقین نے یہودیوں کو بھڑکایا اور کہا تم یہیں رہو اور ہرگز مت جاؤ ہم تمہاری مدد کریں گے اس سے ان کو تقویت پہنچ گئی اور رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں کہلا بھیجا کہ ہم مدینہ سے نہیں نکلیں گے اور ہمارے اور آپ کے

درمیان جو عہد ہے وہ بھی توڑتے ہیں جب اُن کی طرف سے یہ پیغام آیا تو آپ ﷺ نے ان سے جہاد کرنے کی تیاری کی اور حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو نائب بنا کر اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ساتھ لے کر بنو نضیر کے محلہ کی طرف روانہ ہو گئے (یہ محلہ شہر سے ذرا دور تھا) آپ ﷺ وہاں پہنچے تو وہ لوگ قلعہ بند ہو گئے رسول اللہ ﷺ نے ان کا محاصرہ فرمایا منافقین نے یہودیوں کو خبر بھیجی کہ تم ڈٹے رہنا ہم تمہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے اگر تم سے جنگ ہوئی تو ہم بھی ساتھ لڑیں گے اور اگر تمہیں نکلنا پڑا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے یہودی منافقین کی مدد کے انتظار میں رہے چند روز گزر گئے مگر انہوں نے کچھ بھی مدد نہ کی لہذا انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ پیغام بھیجا کہ آپ ﷺ ہمیں جلا وطن کر دیں مگر قتل نہ فرمائیں اور ہمیں ہتھیار بھی نہ لے جانے دیں اُس کے علاوہ جتنا سامان اونٹوں پر لے جا سکیں اُسے لے جانے کی اجازت دیں آپ نے انہیں جلا وطن کرنا منظور فرمایا اور حکم فرمایا کہ تین دن میں مدینہ منورہ سے نکل جاؤ وہ لوگ مدینہ منورہ سے نکل کر خیبر میں آباد ہو گئے اور بعض لوگ شام چلے گئے (بطور تمہید یہ واقعہ ہم نے المبدایہ والنہایہ جلد ۲ ص ۷۵ سے نقل کیا ہے مفصل قصہ ان شاء اللہ سورۃ الحشر کی تفسیر میں بیان کریں گے) یہود نے جو اموال چھوڑے وہ رسول اللہ ﷺ نے مسلمانوں میں تقسیم فرمادیئے یہ ۱۲ھ کا واقعہ ہے۔

**غزوہ احزاب کا مفصل واقعہ:** اب غزوہ احزاب کا واقعہ سنئے اُس کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ بنو نضیر کو جب حضور انور ﷺ نے مدینہ منورہ سے جلا وطن کر دیا تو وہ وہاں جا کر بھی شرارتوں سے اور اپنی یہودوالی بیہودگیوں سے باز نہ آئے اُن کے چودھری مکہ معظمہ میں پہنچے اور قریش مکہ سے کہا کہ آؤ ہم تم مل کر داعی اسلام ﷺ سے جنگ کریں اور اُن کو اُن کے کام کو اور ان کے ساتھیوں کو سب کو ختم کر دیں۔ قریش مکہ نے کہا (جو مشرک تھے) کہ تم تو اہل کتاب ہو بیچ بولو ہمارا دین بہتر ہے یا محمد (ﷺ) کا دین بہتر ہے؟ ان لوگوں نے پوری ڈھٹائی کے ساتھ دین شرک کو دین توحید سے بہتر بتایا اور قریش نے کہہ دیا کہ تمہارا دین محمد (ﷺ) کے دین سے بہتر ہے یہ بات سن کر قریش بہت خوش ہوئے اور رسول اللہ ﷺ سے جنگ کرنے کے لئے آمادہ ہو گئے اُس کے بعد یہودیوں کے سردار قبیلہ بنی غطفان کے پاس گئے اور انہیں بتایا کہ دیکھو محمد (ﷺ) سے جنگ کرنا ہے قریش مکہ نے ہمارا ساتھ دینے کا وعدہ کر لیا ہے تم لوگ بھی ہمارے ساتھ جنگ میں شریک ہو جاؤ تا کہ اسلام اور مسلمانوں کا قصہ ہی ختم ہو جائے ان کے علاوہ دیگر قبائل کی جماعتیں بھی جنگ کرنے کے لئے تیار ہو گئیں۔

**دشمنوں سے حفاظت کے لئے خندق کھودنا:** رسول اللہ ﷺ کو ان لوگوں کے ارادہ بد کی اطلاع ملی تو آپ ﷺ نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ مدینہ منورہ کے باہر خندق کھودی جائے انہوں نے بتایا کہ اہل فارس دشمن سے محفوظ رہنے کے لئے یہ تدبیر اختیار کرتے ہیں چنانچہ خندق کھودی گئی جو مدینہ منورہ کے اُس جانب تھی جدھر سے دشمنوں کے آنے کا اندیشہ تھا اُس خندق کی کھدائی میں سیدہ دو عالم (ﷺ) خود شریک ہوئے سردی کا موسم تھا اور ہر طرف سے خوف ہی خوف تھا سیدہ دو عالم (ﷺ) نے خود ہی خطا کھینچ کر خندق کی حدود مقرر فرمائیں اور ہر دس آدمیوں کو چالیس ہاتھ کا رقبہ کھودنے کے لئے دیا (بعض حضرات نے اس خندق کی لمبائی ساڑھے تین میل بتائی ہے) حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ بڑے قوی اور تندرست آدمی تھے اُن کے متعلق مہاجرین و انصار میں اختلاف ہوا انصار نے کہا کہ مسلمان ہم میں سے ہیں اور مہاجرین نے کہا کہ ہم میں سے ہیں ان کو ہمارے ساتھ قطعہ

کھودنے کے لئے دیا جائے یہ سن کر سید دو عالم ﷺ نے فرمایا سَلَمَانُ مِنَّا اَهْلُ الْاَيْبَتِ (یعنی مسلمان نہ مہاجرین میں سے ہیں نہ عام مہاجرین میں سے ہیں بلکہ وہ ہمارے اہل بیت میں سے ہیں) جب دشمنوں کی جماعتیں مدینہ طیبہ کے قریب پہنچیں جن کی تعداد دس بارہ ہزار تھی تو انہوں نے خندق کھدی ہوئی پانی اور کہنے لگے یہ تو عجیب دفاعی تدبیر ہے جسے اہل عرب نہیں جانتے تھے وہ لوگ خندق کے اُس طرف رہ گئے اور رسول اللہ ﷺ خندق کے اس طرف تین ہزار مسلمانوں کے ساتھ جبل سلع کی طرف پشت کر کے قیام پذیر ہو گئے اور عورتوں اور بچوں کو حفاظت کی جگہوں یعنی قلعوں میں محفوظ فرما دیا۔

دشمنوں کا خندق پار کرنے سے عاجز ہونا: خندق کو دیکھ کر مشرکین مسلمانوں تک پہنچ تو نہ سکے جس سے آمنے سامنے ہو کر دونوں لشکروں کی جنگ ہوتی لیکن اپنی جگہ سے جلدی واپس نہیں ہوئے اپنی جگہ پر جمے رہے اُن کا اپنی جگہ پر جمے رہنا تقریباً ایک مہینہ تک تھا، گو وہ خندق کے پار نہیں آ سکتے تھے لیکن انہیں چھوڑ کر چلے جانے کا بھی موقع نہیں تھا۔ رسول اللہ ﷺ اپنے صحابہ کے ساتھ اپنی جگہ پر مقیم رہے اس موقع پر مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیف پہنچی سردی بھی تھی کھانے پینے کا انتظام بھی نہ تھا اور خندق بھی اس حال میں کھودی کہ جھوک کی وجہ سے پیٹوں پر پتھر بندھے ہوئے تھے پھر دشمن کے مقابلہ میں اتنا لمبا اوڑاؤں لٹا کر نہ جانے ماندن نہ پائے رفتن اُس وقت جو سخت مصیبت کا سامنا تھا اُسے اللہ جل شانہ نے آیت بالا میں بیان فرمایا کہ دشمن تمہارے اوپر سے چڑھ آئے اور نیچے کی جانب سے بھی آ گئے اور آنکھیں پھٹی رہ گئیں اور دل حلقوم کو پہنچ گئے جسے اردو کے محاورہ میں کہتے ہیں کلیجہ منہ کو آ گیا، اُس وقت مسلمان آ زمائش میں ڈالے گئے اور سختی کے ساتھ بھجھوڑ دیئے گئے مفسرین نے فرمایا ہے کہ مِنْ فَوْقِكُمْ سے وادی کا اوپر کا حصہ مراد ہے جو مشرق کی جانب تھا اس جانب سے بنو غطفان اور ان کے ساتھی آئے تھے جن میں اہل نجد بھی تھے اور بنو قریظہ بھی تھے اور بنو نضیر بھی اور اَسْفَلَ مِنْكُمْ سے وادی کا نیچے والا حصہ مراد ہے جو مغرب کی جانب تھا اس جانب سے قریش مکہ بنی کنانہ اور اہل تہامہ آئے تھے۔

وَتَظُنُّونَ بِاللّٰهِ الظُّنُونَا جو فرمایا اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ صیغہ خطاب مجموعی طور پر مدعیان اسلام کو شامل ہے جس میں مخلص اہل ایمان بھی تھے اور منافقین بھی، مؤمنین بھی، مؤمنین تو یہی گمان کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ شانہ اپنا وعدہ پورا فرمائے گا اور نبی کریم ﷺ کی مدد فرمائے گا اور منافقین دوسری قسم کا خیال کر رہے تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ اب تو اسلام اور مسلمانوں کا نام و نشان ہی مٹ جائے گا اور یوں سمجھتے تھے کہ اتنے لوگوں سے جنگ کرنا ان تھوڑے سے مسلمانوں کے بس کی بات نہیں ہے وقال بعضهم انه خطاب للمؤمنين المخلصين وكانت ظنونهم من خواطر نفس وهو اجسها التي يوجبها الخوف الطبيعي وهذا لا مؤاخذه فيه قال صاحب الروح بعد هذا الذي ذكرنا او يقال: ظنونهم المختلفة هي ظن النصر بدون نيل العدو منهم شَيْئًا وظنه بعد النيل وظن الامتحان وعلى هذا لا يحتاج الى الاعتذار. (اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ تَظُنُّونَ بِاللّٰهِ الظُّنُونَا کا خطاب مؤمنین مخلصین سے ہے۔ مؤمنین مخلصین کے گمان دل کے خیالات تھے جن سے طبعی خوف پیدا ہوتا ہے اور ایسے گمانوں میں کوئی مؤاخذہ نہیں ہے۔ روح المعانی والے نے اس کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا یا بعض نے کہا کہ ان کے اس طرح کے مختلف گمان مراد ہیں کہ دشمن سے لڑائی کے بغیر ہی مدد ہو جائے اور دشمن سے لڑائی کے بعد اور آ زمائش کا گمان اور اس طرح کے گمانوں پر کسی معذرت کی ضرورت نہیں ہے)

**بعض کافروں کا مقتول ہونا:** دشمن نے خندق کو پار کرنے کی ہمت تو نہ کی البتہ کچھ تیر اندازی ہوتی رہی مشرکین میں سے چند آدمی اپنے گھوڑے لیکر خندق میں اتر گئے جنہیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ان میں سے ایک شخص عمرو بن عبدود بھی تھا جنگ بدر میں اس نے سخت چوٹ کھائی تھی اس لئے جنگ احد میں شریک نہ ہو سکا تھا غزوہ خندق کے موقع پر وہ خندق میں کودا اور اس نے اپنی بہادری دکھانے کے لئے پکار کر کہا کہ **هَلْ مِنْ يَبَادِرُ** یعنی مجھ سے کون مقابلہ کرتا ہے؟ (اس وقت وہ ہتھیاروں سے لیس تھا) اس کو اہل عرب ہزار سواروں کے برابر سمجھتے تھے حضرت علیؑ آپ ﷺ سے اجازت لے کر اس کے سامنے آئے عمرو بن عبدود نے کہا کہ تم کون ہو؟ آپ نے جواب میں فرمایا کہ میں علی بن ابی طالب ہوں! اُس نے کہا کہ تمہاری عمر کم ہے میں اچھا نہیں سمجھتا کہ تمہارا خون بہاؤں تمہارے چچاؤں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو عمر میں تجھ سے بڑے ہیں اُن میں سے کسی کو سامنے لاؤ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لیکن مجھے تو یہ پسند ہے کہ تیرا خون بہاؤں یہ بات سن کر وہ غصہ میں بھر گیا اور تلوار نکال کر حضرت علیؑ کی طرف بڑھا اور حضرت علیؑ نے اس سے مقابلہ کیا اور ڈھال آگے بڑھادی اُس نے ایسے زور سے تلوار ماری کہ ڈھال کٹ گئی پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے مونڈھے کے قریب تلوار ماری جس سے وہ گر گیا غبار بلند ہوا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے زور سے اللہ اکبر کہا تکبیر کی آواز میں مسلمانوں نے سمجھ لیا کہ حضرت علیؑ نے دشمن کو ختم کر دیا ہے مشرکین نے رسول اللہ ﷺ کے پاس پیغام بھیجا کہ ہمیں اس کی نعش دے دی جائے ہم اس کے عوض بطور دیت کے دس ہزار درہم دے دیں گے بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے بارہ ہزار درہم کی پیشکش کی آپ ﷺ نے جواب میں کہلوا دیا کہ تم اس کی نعش کو لے لو ہم مردوں کی قیمت نہیں کھاتے اور ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے یوں فرمایا کہ اس کی نعش دے دو اس کی نعش بھی خبیث ہے اس کی دیت بھی خبیث ہے عمرو بن عبدود کے علاوہ دشمن کے اور بھی تین چار آدمی مارے گئے جن میں سے ایک یہودی کو حضرت صفیہ بنت عبدالمطلب رضی اللہ عنہا نے قتل کیا جو مسلمان عورتوں کے قلعہ کے باہر چکر لگا رہا تھا مسلمانوں میں سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تیر آ کر لگا جس نے ان کی اکھل نامی رگ کاٹ دی انہوں نے دُعا کی کہ اے اللہ مجھے اتنی زندگی اور نصیب فرما کہ بنی قریظہ (قبیلہ یہود) کی ذلت اور ہلاکت دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لوں اللہ تعالیٰ نے ان کی دُعا قبول فرمائی جس کا تذکرہ غزوہ احزاب کے تذکرہ کے بعد آئے گا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ شہید ہونے والوں میں انس بن اوس اور عبد اللہ بن سہل اور طفیل بن نعمان ثعلبہ بن غنمہ اور کعب بن زید رضی اللہ عنہم کے اسمائے گرامی ذکر کئے گئے ہیں۔

**جہاد کی مشغولیت میں بعض نمازوں کا قضا ہو جانا:** غزوہ احزاب کے موقع پر اس قدر مشغولیت اور پریشانی رہی کہ ایک روز رسول اللہ ﷺ عصر کی نماز بھی نہ پڑھ سکے آپ نے بدو عادیاتے ہوئے فرمایا: **ملاء الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا** کما شغلونا عن الصلوة الوسطى حتی غابت الشمس (اللہ ان دشمنوں کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھرے جیسا کہ انہوں نے ہمیں صلوٰۃ وسطیٰ سے ایسا مشغول رکھا کہ سورج بھی غائب ہو گیا) اس کے بعد آپ نے وضو فرمایا پھر آپ نے عصر کی نماز پڑھی اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی بعض روایات میں ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر رسول اللہ ﷺ کی چار نمازیں قضا ہو گئی تھیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء آپ ﷺ نے رات کو ایک حصہ گذر جانے پر ان کو اسی ترتیب سے پڑھا جس ترتیب سے قضا ہوئی تھیں (عشاء تو وقت عشاء ہی میں پڑھی گئی کیونکہ رات باقی

تھی البتہ جس وقت پر بھی جاتی تھی اس سے مؤخر ہو گئی تھی۔

رسول اللہ ﷺ کی دُعا: رسول اللہ ﷺ کی عادت شریفہ تھی کہ جب کوئی مشکل پیش آتی تھی نماز میں مشغول ہو جاتے تھے غزوہ خندق کے موقع پر بھی آپ ﷺ دعائیں کرتے رہے دشمنوں کے شکست خوردہ ہو کر بھاگنے سے پہلے تین دن تک خوب زیادہ دعا کا اہتمام کیا، صحیح بخاری ص ۵۹۰ میں حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مقابلے میں آنے والی جماعتوں کی شکست کے بارے میں یوں دعا کی: اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعَ الْحِسَابِ اهْزِمِ الْأَحْزَابَ اللَّهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْهُمْ (اے اللہ کتاب کے نازل فرمانے والے جلدی حساب لینے والے ان جماعتوں کو شکست دے اور ان کو ذل لگا دے)

صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں بھی کوئی دُعا بتائیے آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھو اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِنَا وَامْنِ رُءُوسَنَا (اے اللہ ہماری آبرو کی حفاظت فرما اور ہمارے خوف کو ہٹا کر امن عطا فرما)

دُعا کی قبولیت اور دشمنوں کی ہزیمت: اللہ تعالیٰ نے دُعا قبول فرمائی اور سخت تیز ہوا بھیج دی جس سے دشمنوں کے خیمے اکھڑ گئے، چولہے بجھ گئے ہانڈیاں الٹ گئیں، ہوا تیز بھی تھی اور سخت سرد بھی، دشمنوں کی جماعتیں اس سے متاثر ہو کر بھاگ کھڑی ہوئیں ابوسفیان جو اُس وقت قریش مکہ کا قائد بن کر آیا تھا اُس نے کہا تھا اے قریشیو! اب یہاں ٹھہرنے کا موقع نہیں رہا، تھک رہے ہو چکے، جانور بھی ختم ہو چکے اور بنو قریظہ معاہدہ کی خلاف ورزی کر چکے ہیں، ہوا کے تھپڑوں کو تم دیکھ ہی رہے ہو اب یہاں سے چلے جاؤ میں تو جا رہا ہوں، اُس کے بعد ابوسفیان اپنے اونٹ پر بیٹھا اور چل دیا پھر قریش بھی چلے گئے، قبیلہ بنی غطفان کو قریش کی یہ حرکت معلوم ہوئی تو وہ بھی واپس ہو گئے۔

اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنا انعام یاد دلایا اور فرمایا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ كُنَّا بَعْدَكُمْ لِيُفْلِكَ جُنُودُكَ فَاسْلُتْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا۔ (اے ایمان والو! اللہ کی نعمت جو تمہیں ملی اُسے یاد کرو جبکہ تمہارے پاس لشکر آگئے سو ہم نے اُن پر ہوا بھیج دی اور لشکر بھیج دیئے جو تم نے نہیں دیکھے) ”جن لشکروں کو نہیں دیکھا“ ان سے فرشتے مراد ہیں، اس موقع پر فرشتے نازل تو ہوئے تھے لیکن انہوں نے قتال میں حصہ نہیں لیا البتہ دشمنوں کے دلوں میں رعب ڈالنے کا کام کیا، جب ہوا کے تھپڑوں سے عاجز آ کر مشرکین بھاگ رہے تھے تو فرشتے تکبیر بلند کر رہے تھے اور یوں کہتے جا رہے تھے کہ بھاگ چلو یہاں ٹھہرنے کا موقع نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ہوا کے ذریعہ دشمنان اسلام کو واپس کر دیا، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اب یہ لوگ ہم سے لڑنے کے لئے نہ آئیں گے اور ہم ہی ان سے لڑنے کے لئے جائیں گے، لچنانچہ غزوہ خندق کے بعد دشمن مدینہ منورہ پر چڑھائی کا ارادہ نہیں کر سکے، ۸ھ میں مکہ معظمہ فتح ہو گیا اور اس کے بعد عرب کے لوگ مسلمان ہو گئے، جوق در جوق مدینہ منورہ میں ان کے وفود آتے تھے اور اسلام قبول کرتے تھے۔

بعض اُن واقعات کا تذکرہ جو خندق کھودتے وقت پیش آئے

سخت بھوک اور سردی کا مقابلہ: جس وقت دشمن چڑھ کر آئے تھے اُس وقت سخت سردی کا زمانہ تھا، کھانے

پینے کا بھی معقول انتظام نہ تھا، بھوک کی مصیبت بھی درپیش تھی رسول اللہ ﷺ بنفس نفیس خندق کھودنے میں شریک تھے، حضرت صحابہ کرام بھی اس کام میں مشغول تھے، پیٹوں پر پتھر باندھ رکھے تھے، خندق کھودنی بھی پڑتی تھی اور اس کی مٹی بھی منتقل کرنی پڑتی تھی جسے اپنے کندھوں اور پشتوں پر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے تھے، کھانے کے لئے ایک مٹھی جو لائے ہوتے تھے جنہیں اُبال لیا جاتا تھا اور یہ اُبلے ہوئے جو ایسے تیل یا چربی کے ساتھ سامنے رکھ لئے جاتے تھے جس میں بو آ جاتی تھی اور اس کو کھنا بھی آسان نہ تھا مشکل سے گلے سے اُترتا تھا۔ رسول اللہ ﷺ اس موقع پر یہ پڑھتے جاتے تھے:

اللَّهُمَّ اِنَّ الْعَيْشَ عَيْشَ الْاٰخِرَةِ فَاغْفِرِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ (اے اللہ زندگی آخرت ہی کی زندگی ہے سو آپ انصار اور مہاجرین کو بخش دیجئے) آپ ﷺ کی یہ بات سن کر صحابہ کرام جواب میں یوں کہتے تھے۔

نَحْنُ الَّذِي بَايَعُوا مُحَمَّدًا ❖ عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِينَا اَبَدًا

(ہم وہ ہیں جنہوں نے جہاد پر محمد سے بیعت کی ہے ہم جب تک بھی زندہ رہیں ہماری بیعت باقی ہے)

رسول اللہ ﷺ خندق کھودنے میں شریک تھے اور مٹی منتقل کرنے کی وجہ سے آپ ﷺ کے شکم مبارک پر اتنی مٹی لگ گئی کہ کھال دیکھنے میں نہیں آتی تھی اس موقع پر آپ ﷺ یہ اشعار پڑھتے جاتے تھے جو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے شعر ہیں۔

(۱) اللَّهُمَّ لَوْ لَا اَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا ❖ وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلِّينَا

(۲) فَانْزِلْ سَكِينَةً عَلَيْنَا ❖ وَنَبْتَ الْاَقْدَامَ اِنْ لَا قِنَا

(۳) اِنْ اِلَّا لِي قَدْ بَغَوْنَا عَلَيْنَا ❖ وَاِنْ ارَادُوْا فِتْنَةً اَبْنَيْنَا

(۱) اے اللہ اگر آپ ہدایت نہ دیتے تو ہم ہدایت نہ پاتے اور نہ صدقہ دیتے اور نہ نماز پڑھتے۔

(۲) سو ہم پر اطمینان نازل فرمائیے اور ہمارے قدموں کو ثابت رکھئے اگر ہماری ٹڈ بھیر ہو جائے۔

(۳) بلاشبہ ان لوگوں نے ہم پر زیادتی کی ہے اور اگر یہ فتنے کا ارادہ کریں گے تو ہم ان سے انکار کر دیں گے۔

آخری کلمہ اَبْنَيْنَا کو رسول اللہ ﷺ بلند آواز سے پڑھتے تھے ۱ اور اس کلمہ کو دہراتے تھے ۲

رسول اللہ ﷺ کی پیشین گوئی کہ مسلمان فلاں فلاں علاقوں پر قابض ہوں گے: خندق کھودتے وقت ایک یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک ایسی سخت چٹان برآمد ہوئی جس کا توڑنا حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے بس سے باہر ہو گیا، صحابہ کرام نے آنحضرت ﷺ کو اس کی اطلاع دی تو آپ نے فرمایا کہ میں اس میں اُترتا ہوں آپ ﷺ نے پھاؤ لے کر اس میں مارا جس سے وہ ریت کا ڈھیر بن گیا۔ بعض روایات میں ہے کہ جب آنحضرت ﷺ نے اس چٹان میں پھاؤ مارا تو ضرب لگنے کی وجہ سے ایک ایسی تیز روشنی ظاہر ہو گئی جس سے مدینہ منورہ کی دونوں جانب روشنی ہو گئی، ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اندھیری رات میں چراغ جل گیا ہو اس پر آپ ﷺ نے فتح یابی ظاہر کرنے والی تکبیر کہی اور مسلمانوں نے بھی اللہ اکبر کہا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیا روشنی تھی جو بار بار ظاہر ہو رہی تھی؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ جب پہلی بار روشنی ہوئی تو اس میں مجھے حیرہ شہر کے محلات اور کسریٰ کے شہر ظاہر ہو گئے، مجھے جبریل نے بتایا کہ آپ کی اُمت ان پر غلبہ پائے گی اور دوسری بار جو چمک ظاہر ہوئی اُس سے روم کی سرزمین



کے سرخ محلات ظاہر ہو گئے مجھے جبریل نے بتایا کہ میری اُمت ان پر غلبہ پائے گی اور تیسری بار جو روشنی چمکی اس سے مجھے صنعاء کے محلات ظاہر ہوئے (جو یمن کا مشہور شہر ہے) جبریل نے مجھے بتایا کہ میری اُمت ان پر بھی غلبہ پائے گی لہذا تم خوش ہو جاؤ اس پر مسلمان بہت خوش ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور یقین کر لیا کہ یہ سچا وعدہ ہے اور پورا ہو کر رہے گا۔

رسول اللہ ﷺ نے جب مذکورہ بالا شہروں کو فتح ہونے کی خبر دی تو منافقین کہنے لگے کہ ان کو دیکھ لو یثرب سے ان کو حیرہ اور کسریٰ کے محل نظر آرہے اور یہ خبر دی جا رہی ہے کہ تم انہیں فتح کرو گے اور حال یہ ہے کہ تم لوگ خندق کھود رہے ہو یعنی مصیبت میں گرفتار ہو۔

اور بعض روایات میں یوں ہے کہ جب آپ نے بسم اللہ پڑھ کر پہلی بار ضرب ماری تو اس چٹان کا تہائی حصہ ٹوٹ گیا آپ نے فرمایا اللہ اکبر مجھے ملک شام کے خزانے دے دیئے گئے پھر دوبارہ ضرب ماری تو اس کا ایک تہائی حصہ اور ٹوٹ گیا اور فرمایا اللہ اکبر مجھے ملک فارس کی چابیاں دے دی گئیں پھر تیسری بار ضرب ماری تو باقی پتھر بھی ٹوٹ گیا آپ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ اکبر مجھے ملک یمن کی چابیاں دیدی گئیں ساتھ ہی آپ ﷺ نے یہ بھی اللہ کی قسم! میں شام کے سرخ محل اور مدائن کا سفید محل اور صنعاء کے دروازے ابھی یہیں اسی وقت دیکھ رہا ہوں۔

حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کے زمانے میں جب یہ شہر فتح ہوتے جاتے تھے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جس ذات کے قبضہ میں ابو ہریرہ کی جان ہے اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم نے جن شہروں کو فتح کر لیا اور قیامت تک جن شہروں کو فتح کرو گے ان سب کی چابیاں جناب محمد رسول اللہ ﷺ کو پہلے ہی سے دے دی گئی تھیں یعنی آپ ﷺ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری دے دی گئی تھی کہ آپ کی اُمت ان کو فتح کرے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ بھی فرماتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ تو اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں اب تم ان کو حاصل کر رہے ہو۔ (البدایۃ والنہایۃ ج ۴ ص ۹۹ تا ۱۰۲) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا کہ جب قیصر ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہ ہوگا اور جب کسریٰ ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی کسریٰ نہ ہوگا، قسم ہے اُس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے تم قیصر و کسریٰ کے خزانے اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے آپ ﷺ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے مشارق اور مغارب مجھے عطا فرمادیئے ہیں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے میری اُمت کا ملک وہاں تک پہنچ جائے گا۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے ہاں ضیافتِ عامۃ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ خندق کھودتے وقت جب ایک سخت چٹان پیش آگئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ایسی جگہ نکل آئی ہے جس کی مٹی بہت سخت ہے (جو ہمارے قابو میں نہیں آ رہی) آپ ﷺ نے فرمایا میں اُترتا ہوں اس کے بعد آپ ﷺ کھڑے ہوئے اور آپ ﷺ کی شکم مبارک پر پتھر بندھا ہوا تھا اور بھوک کا یہ عالم تھا کہ ہم نے تین دن سے کچھ بھی نہیں چکھا تھا آپ نے پھاؤ ڈالیا اور اس سخت زمین میں مارا جس کی وجہ سے وہ ایسا ہو گیا جیسے ریت کا ڈھیر ہو وہ خود ہی پھسلا جا رہا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے اجازت لی کہ ذرا گھر آؤں آپ نے اجازت دے دی میں اپنے گھر گیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ تمہارے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز ہے؟ میں نے محسوس کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ سخت بھوک کی حالت میں ہیں اسی پر میری بیوی نے چڑے کا ایک تھیلہ نکالا جس میں ایک

صاع یعنی تین کیلو کے لگ بھگ جو تھے اس کے علاوہ ہماری ایک چھوٹی سی پالتو بکری بھی تھی میں نے اُسے ذبح کیا اور میری اہلیہ نے جو پینا شروع کئے اتنے میں میں نے بکری کی بوٹیاں بنا کر ہانڈی میں ڈالیں وہ جو پینے سے فارغ ہو گئی میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں جانے لگا تو وہ کہنے لگی جا تو رہے ہو رسول اللہ ﷺ کے سامنے مجھے رسوا مت کرنا (ایسا نہ ہو کہ زیادہ افراد آجائیں) میں حضور انور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ ہم نے تھوڑا سا کھانا تیار کیا ہے آپ تشریف لے چلیں اور اپنے ہمراہ ایک دو آدمی اور لے لیں آپ ﷺ نے فرمایا کتنا کھانا ہے؟ میں نے پوری صورتحال عرض کر دی آپ ﷺ نے فرمایا یہ تو بہت ہے پھر آپ نے زور سے اعلان فرمایا کہ اے خندق والو! آ جاؤ جابر نے کھانا تیار کیا ہے آپ ﷺ مہاجرین و انصار کو ساتھ لے کر روانہ ہو گئے آپ آگے تشریف لا رہے تھے اور حضرات صحابہ آپ کے پیچھے چل رہے تھے میں جلدی سے اپنی بیوی کے پاس پہنچا اور پوری کیفیت بیان کر دی (کہ مجمع کثیر آ رہا ہے) اس پر وہ ناراض ہوئی اور کہا کہ وہی ہونا! جس کا مجھے اندیشہ تھا میں نے کہا تھا کہ مجھے رسوا مت کرنا! پھر کہنے لگی اچھا تم نے رسول اللہ ﷺ کو سب بات بتادی تھی؟ میں نے کہا کہ ہاں میں نے سب کچھ بتا دیا تھا آپ تشریف لائے تو جو گوندھا ہوا آٹا تھا اس میں اپنا لعاب مبارک ڈال دیا اور برکت کی دعا فرمائی پھر ہانڈی کی طرف توجہ فرمائی اور اس میں بھی لعاب مبارک ڈال دیا اور برکت کی دعا فرمائی پھر فرمایا کہ ایک روٹی پکانے والی اور بلا لوار اور ہانڈی کو چولہے سے مت اُتارو حضور اکرم ﷺ نے صحابہ سے فرمایا کہ تم گھر میں آ جاؤ کھانے میں مت بیٹھو چنانچہ صحابہ کرام بیٹھ گئے اور روٹی پکتی رہی جو آپ ﷺ کی خدمت میں پیش ہوتی رہی آپ روٹی توڑ توڑ کر اس پر گوشت کی بوٹیاں رکھ کر اور شوربا بھر بھر کر حاضرین کو دیتے رہے یہاں تک کہ سب نے پیٹ بھر کر کھالیا حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کھانے والے ہزار آدمی تھے میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ انہوں نے خوب کھایا اور سیر ہو کر واپس چلے گئے اور ہماری ہانڈی کا یہ حال تھا کہ جیسی تھی اُسی طرح اُبل رہی تھی اور ہمارا آٹا جیسا تھا ویسا ہی رہا (گویا اس میں سے کچھ بھی خرچ نہیں ہوا) آپ ﷺ نے میری بیوی سے فرمایا کہ یہ بچا ہوا کھانا خود کھا لوار (پڑوسیوں کو بھی) ہدیہ دو کیونکہ لوگ بھوک کی مصیبت میں مبتلا ہیں۔ (صحیح بخاری جلد ۲ ص ۵۸۸ ۵۸۹)

اسی طرح کا ایک واقعہ حافظ ابن کثیرؒ نے بحوالہ محمد بن اسحاق یوں بیان کیا ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی بہن نے بیان کیا کہ میری والدہ نے مجھے لپ بھر کر کھجوریں دیں جو میرے کپڑے میں ڈال دیں اور کہا کہ اے میرے بیٹا! جاؤ اسے اپنے والد اور اپنے ماموں عبد اللہ بن رواحہ کے پاس لے جاؤ تاکہ وہ صبح کے وقت ان کو کھالیں (یہ دونوں حضرات بھی خندق کھودنے میں مشغول تھے) میں یہ کھجوریں لے کر روانہ ہوئی اپنے والد اور ماموں کی تلاش میں تھی کہ اسی اثناء میں رسول اللہ ﷺ پر میرا گذر ہوا آپ ﷺ نے فرمایا کہ اے بیٹا! یہ تمہارے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ کچھ کھجوریں ہیں جو میری والدہ نے بھیجی ہیں تاکہ اپنے والد اور اپنے ماموں کو دے دوں! حضور ﷺ نے فرمایا کہ ان کو یہاں لاؤ میں نے وہ کھجوریں آپ ﷺ کی ہتھیلیوں میں ڈال دیں وہ اتنی کم تھیں کہ ان سے آپ کی دونوں ہتھیلیاں نہ بھر سکیں آپ ﷺ نے ایک کپڑا بچھانے کا حکم دیا پھر وہ کھجوریں اُس پر پھیلا دیں اور ایک شخص سے فرمایا کہ اونچی آواز سے خندق والوں کو پکارو کہ آ جاؤ صبح کا کھانا کھا لو خندق کے کام میں جو حضرات مشغول تھے حاضر ہوئے اور ان کھجوروں میں سے کھاتے رہے یہاں تک کہ سب فارغ ہو کر واپس ہو گئے۔ (قال ابن کثیر فی البدایة والنهاية ج ۲ ص ۱۹۹ ھکذا رواہ ابن اسحاق ر فیہ انقطاع)

وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ۝

اور جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے یوں کہہ رہے تھے کہ ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے شخص کو دھوکہ کا وعدہ کر رکھا ہے

وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ

اور جب کہ ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ اے یثرب والو تمہارے لیے شہر نے کا موقع نہیں ہے لہذا تم واپس ہو جاؤ اور ان میں سے ایک فریق

النَّبِيِّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ۝ وَلَوْ دُخِلَتْ

نبی سے اجازت طلب کر رہا تھا یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے یہ لوگ صرف بھاگنے کا

عَلَيْهِمْ مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سَبَّوْا الْفِتْنَةَ لَا تَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا فِيهَا إِلَّا سِيرًا ۝

ارادہ کر رہے تھے اگر مہینہ کے اطراف سے کوئی لشکر ان پر کھس جائے پھر ان سے فتنہ کا سوال کیا جائے تو یہ ضرور فتنے کو منظور کر لیں گے اور گھروں میں نہیں ٹھہریں

وَلَقَدْ كُنتُمْ أَتَوَاعِدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُؤْلَوْنَ الْأَذْبَارُ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا ۝

گے مگر نبی ذرا سی دیر اور اس سے پہلے انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ ہم پیٹھ نہیں پھیریں گے اور اللہ سے جو عہد کیا اس کی باز پرس ہوگی

قُلْ لَّنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُمْ مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذْ لَا تَمْتَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۝

آپ فرما دیجئے اگر تم موت سے یا قتل سے بھاگو گے تو یہ بھاگنا تمہیں نفع نہ دے گا اور اس وقت بس تھوڑے ہی دن جیو گے۔

قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِيكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ۖ وَ

آپ فرما دیجئے کہ وہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا دے گا اگر وہ تمہارے بارے میں کسی بری حالت کا ارادہ فرمائے یا تم پر فضل فرمائے اور

لَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ

اپنے لئے اللہ کے سوا کوئی حمایت کرنے والا یا مددگار نہ پائیں گے بلاشبہ اللہ تم میں سے اُن لوگوں کو جانتا ہے جو رکاوٹ ڈالتے ہیں

مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَاسَ إِلَّا قَلِيلًا ۝ أَشْجَاةٌ

اور جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ اور یہ لوگ لڑائی میں کم آتے ہیں۔ یہ لوگ تمہارے بارے میں بخیل بنے ہوئے ہیں پھر جب خوف

عَلَيْكُمْ ۖ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى

پیش آ جاتا ہے تو آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ آپ کی طرف تکر رہے ہیں اُن کی آنکھیں اس طرح چکرائی جاتی ہیں جیسے کسی پر موت کے وقت بے ہوشی

عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۖ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشْجَاةٌ عَلَى الْخِيَرِ أُولَٰئِكَ

طاری ہو رہی ہو پھر جب خوف چلا جاتا ہے تو تم کو تیز زبانوں سے طعنے دیتے ہیں مال کے حریص بنے ہوئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو

لَمْ يُؤْمِنُوا فَاحْضَبُوا اللَّهَ انْعَامًا لَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ۝ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ

ایمان نہیں لائے سو اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیئے اور یہ اللہ کے لئے آسان ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جماعتیں واپس نہیں گئیں

لَمْ يَذْهَبُوا ۚ وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوْا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ

اور اگر جماعتیں آ جائیں تو یہ لوگ اس بات کی آرزو کریں گے کہ کاش ہم دیہاتیوں میں ہوتے تمہاری خبریں

عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قُتِلُوا إِلَّا قَلِيلًا ۝

دریافت کر لیا کرتے اور اگر وہ تمہارے اندر موجود ہوں تو وہ لڑائی نہ لڑیں گے مگر ذرا سی۔

## منافقوں کی بد عہدی اور شرارتیں

**تفسیر:** یہ نو آیات کا ترجمہ ہے جس میں منافقین کی قوی اور عملی غداری کا تذکرہ فرمایا ہے اور ان کی مخالفت اور بزدلانہ حرکتوں کو بیان کیا ہے۔

پہلی آیت میں یہ بتایا ہے کہ منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا (جو ضعیف الاعتقاد تھے) انہوں نے یوں کہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا ہے وہ محض ایک دھوکہ ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے خندق کھودتے وقت بشارت دی کہ تم حیرہ کے محل اور کسریٰ کے شہر اور یمن کے شہر اور روم کے محل فتح کرو گے تو اس پر منافقین نے کہا لو دیکھ لو! یہاں کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے خندق کھودی جا رہی ہے ذرا بھی باہر نہیں جاسکتے اگر یہاں سے جائیں تو قتل ہو جائیں حال تو یہ ہے لیکن بشارتیں یوں دی جا رہی ہیں کہ یوں شہر فتح ہوں گے اور ایسے محلات پر قبضہ ہوگا کچھ نہیں یہ سب دھوکہ ہی دھوکہ ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ نازل فرمائی۔

یہاں جو یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو رسول اللہ ﷺ کو دل سے مانتے ہی نہیں تھے پھر انہوں نے مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ کیسے کہا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ منافق کا کوئی دین نہیں ہوتا وہ نہ دیکھی باتیں کرتا ہے کیونکہ وہ لوگ بظاہر اسلام کے مدعی تھے اور حضرات صحابہؓ کے سامنے یہ بات کہہ رہے تھے اس لئے اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہ تھا کہ آپ کو رسول ماننے کا دم بھر لیں لیکن انہوں نے یہ نہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف دھوکہ دہی کی نسبت کریں گے تو مسلمان ہمیں کیسے مسلمان مانیں گے۔

دوسری آیت میں منافقوں کی ایک جماعت کی یہ بات نقل فرمائی ہے کہ انہوں نے اس موقع پر یوں کہا کہ اے یثرب والو یعنی مدینے میں سکونت کرنے والے! یہاں ٹھہرنے کا موقع نہیں ہے لہذا اپنے اپنے گھروں کو واپس ہو جاؤ کیونکہ بظاہر قتل ہونے کی صورت بن رہی ہے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ گے تو قتل ہونے سے بچ جاؤ گے ورنہ تمہیں بھی یہیں موت کے منہ میں جانا پڑے گا۔

بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ بات رئیس المنافقین عبد اللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں نے کہی تھی۔ مفسرین نے

لَا مَقَامَ لَكُمْ فَانْجِبُوا کا ایک مطلب تو وہی لکھا ہے جو ہم نے اوپر بیان کیا اور بعض حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اب محمد ﷺ کے دین میں رہنے کا موقع نہیں رہا لہذا تم اپنے پرانے دین شرک پر واپس ہو جاؤ۔ اور ایک مطلب یہ لکھا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ ﷺ سے تم نے جو بیعت کی ہے اُس سے واپس ہو جاؤ اور انہیں دشمنوں کے حوالے کر دو۔

یثرب مدینہ منورہ کا سابق نام ہے، بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ عمالقہ میں سے ایک شخص کا نام یثرب تھا اُسی کے نام پر یہ نام رکھا گیا چونکہ قُرَبَ یَثْرِبَ ملامت کرنے کے معنی میں آتا ہے اس لئے اب اس کو اس نام سے یاد کرنا ممنوع ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: مَنْ سَمِيَ الْمَدِينَةَ يَثْرِبَ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ تَعَالَى هِيَ طَابَةُ هِيَ طَابَةُ (یعنی جو شخص مدینہ کو یثرب کے نام سے یاد کرے وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے یہ طابہ ہے یہ طابہ ہے یہ طابہ ہے) یعنی عمدہ ہے مبارک ہے اچھا شہر ہے۔ (رواہ احمد فی مسند عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ)

رسول اللہ ﷺ کے تشریف لانے کے بعد اس شہر کا نام مدینہ منورہ ہی مشہور ہو گیا اگرچہ اس کے علاوہ اس کے اور بھی نام ہیں۔

آیت بالا میں بعض منافقوں کے اجازت لینے کا ذکر ہے ان لوگوں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ ہمیں واپس ہونے کی اجازت دے دی جائے کیونکہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں، چوروں کا خوف ہے جب یہاں آگئے تو وہاں کوئی حفاظت کا انتظام بھی نہیں اور وہاں دشمنوں کے پہنچنے کا ڈر ہے کیونکہ خندق کی جگہ سے دور ہیں۔ مفسرین نے بتایا ہے کہ جب منافقوں نے یہ کہا کہ اے یثرب والو! یہاں سے چلے جاؤ پھر نے کا موقع نہیں ہے تو ان کی باتوں میں آ کر قبیلہ بنو حارثہ اور بنو سلمہ نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر واپس ہونے کی اجازت طلب کر لی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی اور فرمایا: وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ (یہ بات نہیں ہے کہ ان کے گھر غیر محفوظ ہیں) اِنْ يُؤَيِّدُوْنَ اِلَّا قِرَارًا (ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ بھاگ جائیں)۔

تیسری آیت میں ان لوگوں کے فتنہ پر درازی کا تذکرہ فرمایا: وَلَوْ دَخَلَتْ عَلَيْهِمْ قُرْنٌ اَقْطَارَهَا (الآیۃ) (اگر مدینہ کے اطراف سے کوئی لشکر ان پر گھس آئے پھر ان سے فتنے کا سوال کیا جائے تو یہ ضرور فتنے کو منظور کر لیں گے) مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جو گھروں کے غیر محفوظ ہونے کا بہانہ کر کے آپ ﷺ سے اجازت لے کر راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں ان کا مقصد مسلمانوں کے ساتھ شریک قتال ہونے سے منہ موڑنا ہے۔ اگر کافروں کا کوئی لشکر ان کے پاس پہنچ جائے اور وہ ان سے یہ کہے کہ چلو مسلمانوں سے لڑو تو یہ ضرور ان کی بات مان لیں گے اور اپنے گھروں میں بہت ہی کم ٹھہریں گے بس کافروں سے کہتے ہی چل پڑیں گے یا اتنی دیر لگائیں گے جتنی دیر میں ہتھیار لے لیں اُس وقت انہیں گھروں کی حفاظت کا بالکل نہیں رہے گا انہیں مسلمانوں سے دشمنی ہے اور کافروں سے محبت ہے۔ قال صاحب الروح ان طلبهم الاذن فی الرجوع لیس لا اختلال بیوتهم بل لنفاقهم وکراہتهم نصر تک۔ (تفسیر روح المعانی کے مصنف فرماتے ہیں ان کا واپسی کی اجازت مانگنا واقعہ کوئی گھروں کے نقصان کا اندیشہ کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ ان کے منافق ہونے اور تیری مدد کو ناپسند کرنے کی وجہ سے تھا)

آیت کریمہ کی دوسری طرح بھی تفسیر کی گئی ہے صاحب روح المعانی فرماتے ہیں والوجوه المحتملة

فی الآیات کثیرہ کما لا یخفی علی من لہ ادنی تأمل وما ذکرناہ اولاً هو الا ظہر فی ما أری۔ (آیات میں کئی سارے احتمالات موجود ہیں جیسا کہ ذرا بھی غور کرنے والے آدی پر مخفی نہیں ہے جو ہم نے سب سے پہلی توجیہ ذکر کی ہے میرے خیال میں وہی زیادہ رائج ہے)

چوتھی آیت میں بھی انہیں لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے گھروں کے خالی ہونے کا بہانہ کر کے راہ فرار اختیار کرنے کے لئے اجازت طلب کی تھی ارشاد فرمایا: وَلَقَدْ كُنتُمْ عَاهِدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ (الآیۃ) یعنی ان لوگوں نے اس سے پہلے عہد کیا تھا کہ پشت پھیر کرنے جائیں گے صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ اس آیت میں بنو حارثہ کا ذکر ہے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے قبیلہ بنو سلمہ مراد ہے یہ لوگ غزوہ احد کے موقع پر بزدلی دکھا چکے تھے پھر توبہ کر کے شریک ہو گئے تھے اور خندق کا واقعہ پیش آنے سے پہلے عہد کیا تھا کہ راہ فرار اختیار نہ کریں گے۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ آیت کریمہ میں اُن منافقوں کا ذکر ہے جو غزوہ بدر کی شرکت سے رہ گئے تھے پھر جب اللہ تعالیٰ نے وہاں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور کافروں کو بری طرح شکست دی تو یہ کہنے لگے افسوس ہم شریک نہ ہوئے اگر ہم شریک ہوتے تو یوں کرتب دکھاتے اور ایسا کرتے دیا کرتے آئندہ جب کوئی جہاد کا موقع ہوگا تو ہم اپنی بہادری کے جوہر دکھائیں گے جب غزوہ خندق کا موقع آیا تو اُن کے سارے دعوے اور معاہدے دھڑے دھڑے کے دھڑے رہ گئے اور فرار کی راہیں اختیار کرنے لگے وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مِنْهُمْ (اور اللہ سے جو عہد کیا جاتا ہے اس کی باز پرس ہوگی) عہد کی خلاف ورزی اور عہد شکنی کر کے سزا کے مستحق ہو چکے ہیں۔

پانچویں اور چھٹی آیت میں راہ فرار اختیار کرنے والوں کو تنبیہ فرمائی کہ اگر تم موت سے یا قتل کے ڈر سے بھاگ گئے تو تمہارا یہ بھاگنا تمہیں نفع نہ دے گا اگر بھاگ گئے تو کتنا جیو گے؟ اجل مقررہ کے مطابق موت تو آ ہی جائے گی اور عمر کا جو بقیہ حصہ ہے اُس سے بھی زیادہ نفع حاصل نہیں کر سکتے بھاگ کر عمر نہیں بڑھ سکتی کیونکہ اس کا وقت مقرر ہے۔ مزید فرمایا کہ ہر چیز کا فیصلہ اللہ کے اختیار میں ہے اگر تم بھاگ گئے اور جہاں پہنچے وہاں اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہلاک فرما دیا تو تمہیں اللہ سے کون بچا سکتا ہے؟ اور وہ تم پر اپنا فضل فرمائے مثلاً تمہیں زندہ رکھے جو کہ ایک دنیاوی رحمت ہے تو اُسے اس سے کون روک سکتا ہے؟

ساتویں اور آٹھویں آیت میں بھی اُن لوگوں کا تذکرہ ہے جو دوسروں کو شرکت جہاد سے روک رہے تھے اور مسلمانوں کے حق میں اپنے قول اور فعل سے برا کردار ادا کر رہے تھے ارشاد فرمایا اللہ ان لوگوں کو جانتا ہے جو دوسروں کو جنگ میں شریک ہونے سے روکتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ ایک مخلص مسلمان غزوہ خندق کے موقع پر اپنے سگے بھائی کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ وہ بھنا ہوا گوشت کھا رہا ہے اور اس کے پاس نبیذ (کھجوروں کا میٹھا پانی) پڑا ہے یہ شخص منافق تھا مخلص مسلمان (اس کا بھائی) جو اس کے پاس سے گذر رہا تھا نے اُس سے کہا تو یہاں ہے؟ اور رسول اللہ ﷺ نیزوں اور تلواروں کے درمیان ہیں اس پر بھنا ہوا گوشت کھانے والے شخص نے کہا کہ تو بھی میرے پاس آ جا کہ اب تو تم لوگ ایسے گھبرے میں آ گئے ہو کہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے مخلص مسلمان نے کہا کہ تو جھوٹا ہے اللہ کی قسم میں تیری بات کی اطلاع رسول اللہ ﷺ کو کر دوں گا یہ صاحب امام الانبیاء علیہ السلام

کی خدمت عالی میں پہنچے تو دیکھا کہ جبریل علیہ السلام آیت کریمہ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَذِّبِينَ وَمُكَذِّبِيهِمْ لے کر نازل ہو چکے ہیں۔ اور صاحب معالم التنزیل نے (جلد ۳ صفحہ ۵۱۸) لکھا ہے کہ یہودیوں نے منافقوں کو کہلا بھیجا کہ تم لوگ ابوسفیان اور اس کی جماعت اور دوستوں کے ہاتھوں کیوں اپنی جان کو تباہ کر رہے ہو، اگر اس مرتبہ انہوں نے تم پر قابو پالیا تو تم میں سے ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، ہمیں تم پر ترس آ رہا ہے تم ہمارے بھائی ہو اور پڑوسی ہو ہمارے پاس آ جاؤ (اس صورت میں اخوان سے برادر سمی نہیں بلکہ برادر وطنی مراد ہوں گے) یہودی کی باتوں سے متاثر ہو کر رئیس المنافقین عبد اللہ بن ابی اور اُس کے ساتھی مؤمنین و مخلصین کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں جنگ کرنے سے روکنے لگے اور خوف زدہ کرنے لگے کہ دیکھو اگر ابوسفیان اور اُس کے ساتھیوں نے تم پر قابو پالیا تو تم میں سے کسی کو نہ چھوڑیں گے، تمہیں محمد (ﷺ) سے کس خیر کی امید ہے اس کی جنگ کا تو یہ حاصل ہے کہ ہم سب یہیں مقتول ہو جائیں گے، چلو ہم اپنے یہودی بھائیوں کے پاس چلے چلیں، منافقوں کی یہ بات سن کر اہل ایمان کا ایمان اور مضبوط ہو گیا اور ان میں ثواب کی امید اور زیادہ پکی ہو گئی۔

وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا (اور یہ لوگ یعنی منافقین لڑائی کے موقع پر جو حاضر ہو جاتے ہیں اُن کا یہ حاضر ہونا بس ذرا سامان کرنے کو ہے) أَشْجَعُ عَلَيْكُمْ (یعنی ان کا ذرا سامان کرنے کے لئے آنا بھی تمہارے بارے میں بکل اختیار کرنے کے لئے ہے) جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مسلمان جیت گئے اور انہیں غنیمت کا مال مل گیا تو ہم بھی استحقاق غنیمت کا دعویٰ کر سکیں گے۔

فَإِذَا جَاءَ الْحُوفُ رَأَيْتَهُمْ يُنْظَرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْنِي عَنْكَ مِنَ الْمَوْتِ (سو جب کوئی خوف کا موقع پیش آ جاتا ہے تو آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھنے لگتے ہیں کہ ان کی آنکھیں چکرائی جاتی ہیں جیسے کسی پر موت کی بے ہوشی طاری ہو) وَإِذَا ذَهَبَ الْحُوفُ سَلَقْتُمْ بِالْأَسِنَّةِ جِذَادًا (پھر جب خوف دور ہو جاتا ہے تو تمہیں تیز زبانوں سے طعنے دیتے ہیں) أَشْجَعُ عَلَى الْحَيْدِ (ان طعنوں کا باعث یہ ہے کہ وہ مال کی حرص کے لئے آئے ہوتے ہیں) یعنی مال غنیمت لینے کیلئے دلخراش باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں مال غنیمت میں کیوں شریک نہیں کرتے ہم بھی تو جنگ میں شریک تھے ہماری وجہ ہی سے تو تمہیں یہ فتح میسر ہوئی ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ بزدل بھی ہیں اور حریص بھی ہیں ان میں دونوں چیزیں انتہاء کو پہنچی ہوئی ہیں۔ صاحب معالم التنزیل فرماتے ہیں: فَهُمْ عِنْدَ الْغَنِيمَةِ أَشْحُ قَوْمٌ وَعِنْدَ الْبُعْثِ أَجْبَنُ قَوْمٌ۔

أُولَئِكَ لَمْ يَوَدُّوا (یہ لوگ ایمان نہیں لائے) فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ (سواللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیئے) جن کا آخرت میں کچھ بھی ثواب نہ ملے گا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (اور یہ اللہ کے لئے بالکل آسان ہے) یعنی اس سے کوئی شخص مزاحمت کر کے اپنے اعمال کا بدلہ نہیں لے سکتا۔

نویں آیات میں منافقین کی بزدلی کو مزید آشکارا فرمایا کہ باوجودیکہ قریش مکہ اور بنی غطفان اور دیگر جماعتوں کے گروہ واپس چلے گئے لیکن یہ لوگ ڈر رہے ہیں اور یوں کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ ابھی نہیں گئے۔ مذکورہ گروہ جاتو چکے ہیں لیکن اگر واپس آ جائیں تو منافقین خوف اور بزدلی کی وجہ سے یوں آرزو کرنے لگیں گے کہ کیا یہی اچھا ہوتا اگر ہم دیہات میں چلے جاتے اور وہیں سے مسلمانوں کی خبریں معلوم کرتے رہتے کہ جنگ کا کیا انجام ہوا۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَتَاعًا قَتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا۔



اے مسلمانو! یہ منافق اگر تمہارے اندر رہ جائیں تب بھی تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ بس نام کیلئے ذرا سی جنگ کر لیں گے جس سے ریا کاری مقصود ہوگی ایک دو پتھر پھینک کر کہیں گے کہ ہم نے بھی تو جنگ میں شرکت کی تھی۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ

تمہارے لئے یعنی اس شخص کے لئے جو اللہ سے اور آخرت کے دن سے ڈرتا ہو اور اللہ کو کثرت سے

وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۖ وَلَتَنَآرَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ ۚ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ

یاد کرتا ہو رسول اللہ ﷺ کا ایک عمدہ نمونہ موجود تھا۔ اور جب ایمان والوں نے جماعتوں کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہے وہ جس کا ہم سے اللہ نے

وَصَدَّقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۖ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ۚ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ

اور اس کے رسول نے وعدہ فرمایا۔ اور اللہ نے اور اس کے رسول نے سچ فرمایا اور ان کے ایمان اور فرما پر داری میں ترقی ہی ہوگی۔ اہل ایمان میں بعض ایسے ہیں

صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ مَحَبَّةً ۖ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ ۚ وَمَا

جنہوں نے اپنا وہ عہد سچ کر دکھایا جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا سواں میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اپنی نذر پوری کر لی اور بعض وہ ہیں جو انتظار کر

بَدَلُوا تَبَدُّلًا ۚ لِّيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ

رہے ہیں اور انہوں نے کچھ بھی تبدیلی نہیں کی۔ تاکہ اللہ سچوں کو اُن کی سچائی کا بدلہ دے اور منافقین کو عذاب دے اگر چاہے

أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۚ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا

یا اُن کی توبہ قبول فرمائے بلاشبہ اللہ غفور ہے رحیم ہے۔ اور کافروں کو اللہ نے اُن کے غصہ کے ساتھ واپس لوٹا دیا انہوں نے کوئی

خَيْرٌ ۚ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ۚ

خیر نہ پائی اور قتال کی جانب سے مؤمنین کے لئے اللہ خود ہی کافی ہو گیا اور اللہ قوت والا ہے عزت والا ہے۔

مؤمنین کے لئے رسول اللہ ﷺ کی ذات گرامی اسوہ ہے  
اہل ایمان نے اللہ سے سچا وعدہ کیا اور اس پر پورے اترے

**تفسیر:** ان آیات میں اول تو اہل ایمان کو تلقین فرمائی کہ رسول اللہ ﷺ کا اتباع کرتے رہیں غزوہ احزاب میں بھی سب کو وہی کرنا لازم تھا جو رسول اللہ ﷺ نے کیا کسی کو اپنی جان بچا کر چلے جانا درست نہیں تھا۔ اس میں اہل ایمان کو تعلیم فرمادی کہ جیسے اب رسول اللہ ﷺ کا ساتھ دیا اور اتباع کیا اسی طرح آئندہ بھی آپ کا اتباع کریں اور آپ کی ذات گرامی کو اپنے لئے اسوہ حسنہ یعنی عملی زندگی کا نمونہ بنائیں جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اور یوم آخرت کی پیشی کا یقین رکھتے ہیں انہیں ایسا ہی ہونا چاہئے۔ مؤمنین کی تعلیم و تلقین کے ساتھ ہی منافقین پر تعریض بھی ہے جنہوں نے ایمان کا

دعویٰ کرنے کے باوجود راہ فرار کو پسند کیا اور لوگوں کو غزوہ کی شرکت سے روکا۔ بات یہ ہے کہ صرف دعویٰ کچھ کام نہیں دیتا جب کسی کام کا دعویٰ کرے تو اس کو سچا کر دکھائے، منافقین دنیاوی مصالح کی بناء پر ایمان کا دعویٰ تو کر بیٹھے جب آزمائش آئی تو وعدہ کو نبھا نہ سکے ان کا اعمال و اقوال سے جھوٹا ہونا صاف طریقے پر واضح ہو گیا۔

اس کے بعد مؤمنین صحابہؓ کی تعریف فرمائی کہ جب انہوں نے کافروں کے گروہوں کو دیکھ لیا کہ وہ باہمی مشورے کر کے آگئے ہیں تو انہوں نے یوں کہا: هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ (یہ وہ ہے جس کا اللہ نے اور اس کے رسول نے وعدہ فرمایا تھا) یعنی اہل ایمان کی جانچ اور امتحان کا جو قرآن کریم میں کئی جگہ ذکر ہے اسی میں کا ایک یہ بھی امتحان و ابتلا ہے دشمنوں کی آمد اہل ایمان کے لئے ایمان میں اضافہ کا اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو زیادہ بجا شت کے ساتھ تسلیم کرنے کا سبب بن گئی، سورہ بقرہ میں امتحان کا ذکر فرمایا ہے: وَلَتَبْلُوكُمْ بِغِيظٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقِصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ (الآیہ) اور سورہ آل عمران میں فرمایا ہے: أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَلُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الظَّالِمِينَ اور سورہ عنکبوت میں فرمایا ہے: الَّذِينَ أَحْسَبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا أَمْ نَأْمُرُهُمْ أَنْ يُفْتِنُوا اور فرمایا وَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وََيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ۔ ان آیات میں واضح طور پر بیان فرمادیا ہے کہ اہل ایمان کا امتحان ہو گا اور مؤمنین و منافقین الگ الگ پہچان لئے جائیں گے۔

اس کے بعد ان مؤمنین کا تذکرہ فرمایا جنہوں نے ایمان والے عام عہد اور اقرار کے علاوہ بھی کچھ عہد زائد کیا تھا ان کے لئے فرمایا کہ بعض نے تو اپنی نذر پوری کر دی یعنی معاہدہ کے مطابق جہاد میں شرکت کر کے شہید ہو گئے ان کے بارے میں فِيهِمْ مَن قَتَلُوا مَوْجِبَ فَعْلِ غَدَابَةٍ فرمایا۔ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو ابھی انتظار میں ہیں کہ جب موقع ہو گا اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔

یہاں مفسرین کرام نے ایک واقعہ نقل کیا ہے جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے بیان کیا کہ میرے چچا انس بن النضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کی شرکت سے رہ گئے تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا مشرکین سے جنگ کرنے کا یہ پہلا موقع تھا میں جس میں شریک نہ ہوا اب اگر اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے جنگ کرنے کا موقع دیا تو میں جان جو کھوں میں ڈال کر دکھا دوں گا۔ جب غزوہ اُحد کا موقع آیا تو یہ اس میں شریک ہو گئے اور مسلمانوں کو جب ظاہری شکست ہو گئی تو بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ ایمان والوں نے جو کچھ کیا میں اس کی معذرت پیش کرتا ہوں اور مشرکین نے جو کچھ کیا میں اس سے برأت ظاہر کرتا ہوں یہ کہہ کر آگے بڑھے مشرکین کی طرف جا رہے تھے کہ راستہ میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی اور ان سے کہا میرے رب کی قسم! مجھے اُحد کے درے جنت کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے اسکے بعد لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ان کی لاش ملی تو چونکہ مشرکین نے ان کے ناک کان کاٹ دیئے تھے جس سے چہرہ بدل گیا تھا اس لئے انگلیوں کے پوروں سے ان کی بہن نے انہیں پہچانا، شمار کیا تو دیکھا کہ ان کے جسم پر اسی سے کچھ اوپر تلوار تیزہ اور تیر کے زخم تھے ہم سمجھتے تھے کہ یہ آیت یعنی مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ حضرت انس بن نضر اور ان جیسے اصحاب کے بارے میں نازل

ہوئی۔ (ذکرہ البغوی فی معالم التنزیل ج ۳ ص ۵۲۰ و ذکرہ البخاری فی کتاب التفسیر من جامعہ ج ۲ ص ۷۰۵ قال انس بن مالک نری هذه الآية نزلت فی انس بن نصر)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا کہ یہ آیت انس بن نصر اور ان جیسے اصحاب کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان اصحاب کے اسمائے گرامی جو مفسرین نے لکھے ہیں ان میں سید الشہداء حضرت حمزہ بن عبدالمطلب اور حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہم ہیں، بعض روایات میں یوں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو یہ بات پسند کرے کہ کسی ایسے شخص کو زمین پر چلتا پھرتا دیکھے جس نے اپنی نذر پوری کر دی ہو تو وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھے (معالم التنزیل) حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہم غزوہ اُحد اور غزوہ احزاب میں شہید نہیں ہوئے تھے لیکن رسول اللہ ﷺ نے انہیں مَن قُضِيَ نَجْبَتُهُ کا مصداق بتایا کیوں کہ انہوں نے غزوہ اُحد کے موقع پر رسول اللہ ﷺ کو دشمنوں کے تیروں سے اپنے ہاتھ کے ذریعہ بچایا تھا یعنی ڈھال کی جگہ اپنے ہاتھوں سے کام لیا تھا جس کی وجہ سے ان کا ہاتھ شل ہو گیا تھا اور ان کے جسم میں ستر سے کچھ اوپر زخم آ گئے تھے اپنی طرف سے تو انہوں نے نذر پوری کر ہی دی اور شہید ہونے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی یہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگی دی اور جنگ جمل کے موقع پر ۳۰ھ میں شہید ہوئے۔ صحابہ کرام کے دشمن ذرا غور تو کریں کہ انہوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں؟

وَمِنْهُمْ مَّن يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَأُوا ابْتِدَاءً (اور بعض وہ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں اور انہوں نے کچھ بھی تبدیلی نہیں کی) یعنی جو حضرات ابھی زندہ ہیں اور شہادت کے منتظر ہیں اور اپنے عہد پر قائم ہیں اپنے عزم کو انہوں نے ذرا بھی نہیں بدلا۔ لِيُجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ وَاصِدُ قَوْلِهِمْ (تاکہ اللہ بچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے) یعنی غزوہ احزاب کا واقعہ اس لئے ہوا کہ اللہ تعالیٰ سچے اور مخلص مسلمانوں کو ان کے سچ کا بدلہ دے۔ وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ إِنَّ شَاءَ (اور چاہے تو منافقین کو سزا دے) اَوْ يُنَوِّبَ عَلَيْهِمْ يَا اَنَّا كَوْنُ تَوْبَةٍ كِي تَوْفِيقٍ دے اور وہ توبہ کر کے مسلمان ہو جائیں اور زمانہ کفر میں جو انہوں نے حرکت کی وہ معاف ہو جائے اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا (بلاشبہ اللہ غفور ہے رحیم ہے)

فائدہ: مَن قُضِيَ نَجْبَتُهُ ایک ترجمہ تو یہی ہے جو اوپر ذکر کیا کہ اپنی نذر پوری کر دی۔ اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ یہ لفظ بطور استعارہ موت کے معنی میں آتا ہے اور مطلب یہ ہے کہ اپنے وعدہ کے مطابق کام کر کے دنیا سے چلے گئے یہ دوسرا معنی مراد لینے میں بھی مطلب وہی نکلتا ہے کہ وہ اپنا کام کر گزرے اور دنیا سے چلے گئے۔

پھر فرمایا وَكَذَلِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ (کہ کافر لوگ جو غصے میں بھرے ہوئے مدینہ منورہ پر چڑھ کر آئے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں واپس لوٹا دیا) لَمْ يَكُلُوا خَيْرًا (انہیں کوئی بھی خیر نہ ملی) یعنی جس فتحیابی کی اُمید پر غصہ میں بھرے ہوئے آئے تھے اُس میں سے کچھ بھی نہ ملا اور ناکام و نامراد واپس ہوئے وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ (اور قتال کی جانب سے اللہ مؤمنین کے لئے کافی ہو گیا) یعنی مؤمنین کو جنگ نہ کرنی پڑی اللہ تعالیٰ نے سخت تیر تھنڈی ہوا بھیج دی جس کی وجہ سے دشمن بھاگ گئے اور مؤمنین صحیح سالم شہر مدینہ میں داخل ہو گئے وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا (اور اللہ قوت والا ہے غالب ہے) وہ جس طرح جس کی چاہے مدد فرمادے کوئی اُس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔

وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ

اور اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان کی مدد کی اللہ نے ان کو ان کے قلعوں سے نیچے اتار دیا اور ان کے دلوں میں

الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ۖ وَأَوْرَثَكُمُ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ

رعب ڈال دیا۔ تم ایک جماعت کو قتل کرنے لگے اور ایک جماعت کو قید کرنے لگے اور تمہیں ان کی زمین کا اور ان کے گھر وں کا اور ان کے مالوں کا

وَأَرْضًا لَّمْ تَطُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ۚ

اور ایسی زمین کا مالک بنا دیا جس پر تم نے قدم نہیں رکھا تھا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

## اہل کتاب کو غداری کی سزا مل گئی اور

## اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرما دیا

**تفسیر:** جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا کہ مدینہ منورہ میں پہلے سے یہودیوں کے تین قبیلے آباد تھے جب رسول اللہ ﷺ مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں کے تمام رہنے والوں کے درمیان ایک معاہدہ کروا دیا جس میں خود آپ ﷺ بھی مہاجرین و انصار کے ساتھ شریک تھے اور یہودیوں کے تینوں قبیلوں کو بھی شریک فرمایا تھا۔ اس معاہدے میں جو باتیں لکھی گئی تھیں ان میں یہ بھی تھا کہ آپس میں جنگ نہ کریں گے اور یہ کہ مدینہ منورہ پر کوئی دشمن حملہ آور ہوگا تو سب مل کر دفاع کریں گے ان میں سے بنی قریظہ نے تو غزوہ بدر کے بعد ہی اس عہد کو توڑ دیا تھا جس کی سزا انہیں مل گئی۔ ان کے بعد قبیلہ بنی نضیر نے عہد توڑا جنہیں ۳ھ میں مدینہ منورہ سے جلا وطن کر دیا گیا اور وہ خیبر میں جا کر آباد ہو گئے اور وہاں بس جانے کے بعد قریش مکہ اور بنی غطفان وغیرہم کو مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لئے آمادہ کیا جس کے نتیجے میں غزوہ احزاب پیش آیا اب صرف قبیلہ بنو قریظہ مدینہ منورہ میں باقی رہ گیا تھا جو اپنے عہد پر قائم تھا جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا بنی نضیر کو جب مدینہ منورہ سے جلا وطن کر دیا گیا تو انہوں نے مکہ مکرمہ پہنچ کر قریش مکہ اور بنی غطفان کو رسول اللہ ﷺ کے خلاف ابھارا اور مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کیلئے تیار کیا اور یہ عزم لے کر چلے کہ مسلمانوں کو بالکل ختم ہی کر دیتا ہے۔ جن یہودیوں نے قریش مکہ اور بنو غطفان وغیرہم کو اس کے لئے آمادہ کیا تھا ان میں حمی بن اخطب بھی تھا جو بنی نضیر کا سردار تھا جب یہ دشمنان اسلام کی جماعتوں کو لے کر مدینہ منورہ پہنچا اور خندق کے باہر پڑاؤ ڈالنا پڑا تو وہ موقع پا کر بنی قریظہ کے سردار کعب بن اسد کے پاس گیا اور اُسے عہد شکنی پر آمادہ کرنے کی کوشش کی کعب بن اسد نے اول تو اپنے قلعہ کا دروازہ بند کر لیا اور ابن اخطب کو اپنے پاس آنے کی اجازت نہ دی اور یہ کہہ کر عہد شکنی سے انکار کر دیا کہ محمد ﷺ سے میرا معاہدہ ہے میں نے اُن کی طرف سے وفائے عہد اور سچائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا لہذا میں عہد شکنی نہیں کروں گا، لیکن ابن اخطب برابر اصرار کرتا رہا اور باتیں بناتا رہا کعب بن اسد نے کہا کہ اچھا اگر قریش مکہ اور بنی غطفان نامراد ہو کر واپس ہو گئے اور

محمد ﷺ صبح سالم مدینہ منورہ میں رہ گئے تو تیرا اور ہمارا کیا معاملہ بنے گا؟ ابن اخطب نے کہا کہ میں تیرے ساتھ تیرے قلعہ میں داخل ہو جاؤں گا پھر جو تیرا حال بنے گا میں بھی اسی میں تیرا ساتھ رہوں گا یہ بات سن کر کعب بن اسد نے معاہدہ توڑ دیا اور رسول اللہ ﷺ سے جو معاہدہ کیا تھا اُس سے بری ہو گیا۔

جب رسول اللہ ﷺ کو اس کی خبر ملی تو آپ نے حضرت سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ اور عبد اللہ بن رواحہ اور خواتین بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھیجا کہ جاؤ تحقیق حال کرو یہ حضرات بنو قریظہ پہنچے تو دیکھا کہ وہ واقعہ عہد توڑ چکے ہیں ان حضرات نے واپس ہو کر رسول اللہ ﷺ کو اصل صورتحال سے مطلع کر دیا اس کے بعد جب قریش مکہ اور بنی غطفان وغیرہم ناکام واپس چلے گئے اور رسول اللہ ﷺ شہر مدینہ منورہ میں واپس تشریف لے آئے اور ہتھیار رکھ کر غسل فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ آپ ﷺ نے ہتھیار رکھ دیئے؟ آپ نے فرمایا ہاں! حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کی قسم ہم نے تو ہتھیار نہیں رکھے اللہ تعالیٰ آپ کو حکم فرماتا ہے کہ آپ بنی قریظہ کی طرف روانہ ہو جائیں میں بھی اُن کی طرف جا رہا ہوں میں اُن کے قلعوں میں زلزلہ لاؤں گا۔

اس کے بعد آنحضرت ﷺ بنی قریظہ کی طرف روانہ ہو گئے اور مسلمانوں کے پاس خبر بھیج دی کہ بنو قریظہ کی طرف روانہ ہو جائیں اور وہیں جا کر عصر کی نماز پڑھیں حضرات صحابہ کرامؓ روانہ ہوئے بعض نے یہ سمجھ کر راستہ میں عصر کی نماز پڑھ لی کہ وقت ختم ہو رہا ہے انہوں نے آپ کے ارشاد کا یہ مطلب سمجھا کہ نماز پڑھ لی جائے تاکہ نماز قضاء نہ ہو اور بعض حضرات نے نماز قضاء کر دی اور وہیں جا کر پڑھی ان حضرات نے ظاہر حکم کو دیکھا اور اپنی طرف سے اس کا کوئی مفہوم تجویز نہیں کیا رسول اللہ ﷺ نے دونوں جماعتوں میں سے کسی کو بھی ملامت نہیں کی۔

اس سے علماء نے یہ اخذ کیا ہے کہ مجتہدین کرام کا اختلاف (جو اجتہاد کی صلاحیت رکھتے ہوں) منکر نہیں ہے ہر مجتہد کو اپنے اپنے اجتہاد پر عمل کرنے میں ثواب ملتا ہے۔

بنی قریظہ کا قبیلہ مدینہ منورہ سے باہر تین چار میل کے فاصلے پر رہتا تھا رسول اللہ ﷺ اور حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اُن کے علاقوں میں پہنچ گئے اور وہ لوگ قلعہ بند ہو گئے آپ ﷺ نے پچیس دن تک ان کا محاصرہ فرمایا۔ یہ محاصرہ ان کے لئے مصیبت بن گیا اُن سے کعب بن اسد نے کہا کہ دیکھو میں تم پر تین باتیں پیش کرتا ہوں جس کو چاہو قبول کر لو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب مل کر محمد ﷺ پر ایمان لے آئیں اور آپ ﷺ کی تصدیق کر لیں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم پر یہ بات کھل چکی ہے کہ یہ واقعی نبی ہیں اور رسول ہیں اور ان کی شخصیت وہی ہے جن کا تم اپنی کتاب یعنی تورات شریف میں ذکر پاتے ہو اگر ایسا کر لو گے تو تمہاری جانیں اور تمہاری اولاد اور تمہاری عورتیں اور تمہارے اموال سب محفوظ ہو جائیں گے یہ نہ کروہ لوگ کہنے لگے کہ ہم اپنا دین نہیں چھوڑ سکتے۔ کعب بن اسد نے کہا کہ اگر تم اس رائے کو قبول نہیں کرتے تو دوسری رائے یہ ہے کہ ہم سب اپنے بیوی بچوں کو قتل کر دیں اور محمد ﷺ اور اُن کے اصحاب کی طرف ننگی تلواریں لے کر نکل جائیں پھر اللہ کا جو فیصلہ ہو وہ ہو جائے گا اگر ہم سب ہلاک ہو گئے تو بال بچوں کی طرف سے کوئی فکر نہ رہے گی اور اگر ہم نے غلبہ پالیا اور عورتیں مل جائیں گی اور اولاد بھی پیدا ہو جائے گی یہ بات سن کر اُس کی قوم کے لوگ بولے کہ ان مسکینوں کو اگر ہم قتل کر دیں تو ان کے بعد زندگی کا کیا مزہ ہے؟ کعب بن اسد نے کہا کہ تیری صورت یہ ہے کہ آج لیلۃ

السبت ہے یعنی سنیچر کی رات ہے، قلعوں سے اتر کر ہم محمد ﷺ اور ان کے اصحاب پر چپکے سے حملہ کر دیں، ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سمجھ کر ہمارے حملہ سے غافل ہوں کہ آج جلیلہ السبت ہے، ہم ان پر حملہ نہ کریں گے، کعب بن اسد کی یہ رائے بھی ان کی قوم نے قبول نہیں کی اور کہنے لگے کہ ہم سنیچر کے دن کو کیوں خراب کریں۔

اس کے بعد بنو قریظہ نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ ہمارے پاس ابولبابہؓ کو بھیج دیجئے، یہ انصاری صحابی تھے، ان کا قبیلہ زمانہ جاہلیت میں بنو قریظہ کا حلیف تھا، یہود بنو قریظہ نے انہیں مشورہ لینے کے لئے طلب کیا، رسول اللہ ﷺ نے انہیں بھیج دیا، جب یہودی اُن پر نظر پڑی تو انکی عورتیں اور بچے ابولبابہ کے سامنے رونے لگے، یہودیوں نے ان سے مشورہ لیا کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا ہم محمد ﷺ کے فیصلہ پر قلعے سے نیچے اتر آئیں؟ حضرت ابولبابہ رضی اللہ عنہ نے رائے تو دے دی کہ ہاں اتر آؤ اور ساتھ ہی اپنے حلق کی طرف اشارہ کر دیا یعنی یہ بتا دیا کہ تم ذبح کر دیئے جاؤ گے، اشارہ تو کر دیا لیکن اُسی وقت دل میں یہ بات آگئی کہ میں نے اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول (ﷺ) کی خیانت کی ہے، یہ سوچا اور سیدھے مسجد نبوی میں حاضر ہوئے اور مسجد کے ایک ستون سے اپنے آپ کو باندھ لیا اور کہنے لگے کہ میں اس جگہ سے نہ ٹلوں گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول نہ فرمائے۔

مفسرین نے فرمایا ہے کہ سورة الانفال کی آیت: يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْنُوتُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَحْضُوْا اٰمِنَةً كُنُوْا وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ کا سبب نزول حضرت ابولبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا واقعہ ہے۔

جب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پہنچے میں دیر ہوئی اور آپ ﷺ کو معلوم ہوا کہ ایسا واقعہ پیش آیا ہے تو آپ نے فرمایا اگر وہ میرے پاس آ جاتا تو میں اس کے لئے اللہ سے استغفار کر دیتا، اب اُس نے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا ہے تو اب میں نہیں کھولوں گا جب تک اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہ فرمائے۔ چھ دن تک وہ ستون سے بندھے رہے، ہر نماز کے وقت اُن کی بیوی آتی تھی اور نماز کے لئے کھول دیتی تھی نماز سے فارغ ہو کر وہ پھر اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیتے تھے اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کی توبہ کے بارے میں سورة توبہ کی آیت وَالَّذِيْنَ اٰتٰى تَوْبَتَهٗ خَلَطُوْا عَمَلًا صٰلِحًا وَّاٰخَرَ سَيِّئًا عَسٰى اللّٰهُ اَنْ يَّتَوَّبَ عَلَيْهِمْ ذٰلِكَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ الخ جب ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان ہو گیا (جو سحر کے وقت ہوا تھا) تو لوگ انہیں کھولنے کے لئے دوڑے، انہوں نے کہا کہ میں تمہارے ہاتھوں سے نہیں کھولوں گا رسول اللہ ﷺ ہی کھولیں گے تو میں کھانا منظور کروں گا پھر جب رسول ﷺ نماز فجر کے لئے باہر تشریف لائے تو اُن کو کھول دیا۔

بنو قریظہ طویل محاصرہ سے لبلبلا اُٹھے اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اب مقابلہ کا کوئی راستہ نہیں تو رسول اللہ ﷺ کے فیصلے پر راضی ہو گئے یعنی یہ کہلو ابھیجا کہ آپ جو بھی فیصلہ فرمائیں ہمیں منظور ہے۔ جب وہ لوگ آپ کے فیصلہ پر راضی ہو گئے تو قبیلہ اوس کے اشخاص آگے بڑھے (جو انصار میں سے تھے) انہوں نے عرض کیا کہ یہ ہمارے حلیف تھے ان کا معاملہ ہمارے سپرد فرما دیجئے، آپ ﷺ نے فرمایا کیا ان کا فیصلہ تم میں سے ایک شخص کے سپرد نہ کر دوں؟ کہنے لگے کہ جی ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا میں ان کا فیصلہ سعد بن معاذ کے سپرد کرتا ہوں۔ (حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنی اوس کے سردار تھے)

پہلے گذر چکا ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ دشمنوں کے مقابل اپنے صحابہ کے ساتھ جبل سلع کے قریب قیام پذیر تھے



اور مقابلہ تقریباً ایک ماہ تک تھا اُس وقت حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی ایک رگ میں (جسے عربی میں اکھل کہتے ہیں) ایک تیر آ کر لگا جس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہو گئی انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ یہ زخم جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے لہذا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دُعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک بنی قریظہ کا انجام نہ دیکھ کر میری آنکھیں ٹھنڈی نہ ہو جائیں رسول اللہ ﷺ نے انہیں رفیدہ نامی ایک عورت کے خیمہ میں ٹھہرا دیا تھا جب آپ نے ان کو بنی قریظہ کا فیصلہ سپرد فرمایا تو انہیں بلایا۔ جب وہ حاضر ہوئے تو آپ ﷺ مسجد میں تشریف فرما تھے اُن کو اُن کا دیکھ کر فرمایا کہ اپنے سید کے لئے کھڑے ہو جاؤ (چونکہ وہ مریض تھے اور انہیں سواری سے اتارنے کی ضرورت تھی اس لئے آپ ﷺ نے کھڑے ہونے کا اور ان کی مدد کرنے کا حکم فرمایا) رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا کہ یہود بنی قریظہ تمہارے فیصلہ پر راضی ہو گئے ہیں (راضی تو ہوئے تھے رسول اللہ ﷺ کے فیصلہ پر پھر جب انصار کے قبیلہ بنی اوس نے کہا کہ ان کا معاملہ ہمارے سپرد کر دیجئے تو آپ ﷺ نے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے سپرد فرمایا اس سے یہود بھی خوش ہوئے کیونکہ یہ اُن کے خلفاء میں سے تھے اور خود اُن کے اپنے قبیلہ کے لوگ بھی خوش ہوئے اور ان سے کہتے رہے کہ اپنے خلفاء کے بارے میں اچھا فیصلہ کرنا) حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے اپنا فیصلہ سنایا کہ جو لوگ جنگ کرنے کے لائق ہیں اُن سب کو قتل کر دیا جائے اور مال تقسیم کر دیا جائے اور ان کے بچوں اور عورتوں کو قیدی بنا لیا جائے جب انہوں نے اپنا یہ فیصلہ دے دیا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم نے وہ فیصلہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔

اس کے بعد مدینہ منورہ کے بازار میں خندقیں کھودی گئیں بنو قریظہ کی جماعتیں وہاں پہنچائی جاتی رہیں اور اُن کی گردنیں ماری جاتی رہیں اُن مقتولین میں جی بن اخطب بھی تھا اور کعب بن اسد بھی جو بنو قریظہ کا سردار تھا جس نے بنو قریظہ پر تین باتیں پیش کی تھیں اُن کی پیش کش پر قوم مسلمان نہ ہوئی تو اس نے بھی اسلام قبول نہ کیا۔ یاد رہے کہ جی بن اخطب وہی شخص ہے جو اپنے ساتھیوں کو لے کر مکہ معظمہ پہنچا تھا اور قریش مکہ اور بنو غطفان کو مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے پر آمادہ کیا تھا اور اسی نے کعب بن اسد کو تقض عہد پر آمادہ کیا تھا اور آخر میں یوں کہا تھا کہ اگر ان جماعتوں کو شکست ہوئی جو باہر سے آئی ہیں تو میں بھی تیرے ساتھ قلعہ میں داخل ہو جاؤں گا اور جو مصیبت تم لوگوں کو پہنچے گی میں بھی اس میں شریک رہوں گا اسی عہد کی وجہ سے وہ واپس خیبر نہیں گیا جہاں بنی نضیر کو جلاوطن کر دیا گیا تھا اور بنی فریضہ کے ساتھ یہ بھی مقتول ہوا۔ یہ شخص رسول اللہ ﷺ کی اہلیہ طاہرہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا والد بھی تھا جنہیں ۷۷ھ میں غزوہ خیبر کے موقع پر قید کر کے لایا گیا تھا۔

بنی قریظہ میں سے صرف ایک عورت کو قتل کیا گیا اور باقی جو مقتولین تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے فیصلہ کے مطابق سب مرد تھے جس عورت کو قتل کیا گیا اُس نے حضرت خلد بن سید رضی اللہ عنہ پر ہتھی کا پاٹ گرا دیا تھا جس کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے تھے بنی قریظہ میں سے حضرت عطیہ قرظی کو بھی قتل نہیں کیا گیا کیونکہ وہ اُس وقت تک بلوغ کی حد کو نہیں پہنچے تھے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ جس کے زیر ناف بال نکل آئے ہوں اُسے بالغ سمجھا جائے اور قتل کر دیا جائے اور جس کے بال نہ نکلے ہوں اُسے قتل نہ کیا جائے۔ حضرت عطیہ قرظی نے بتایا کہ میرے بال اُگنے کی جگہ پر نظر ڈالی گئی تو دیکھا کہ میرے بال نہیں نکلے ہیں لہذا مجھے چھوڑ دیا گیا اور قیدیوں میں شامل کر دیا گیا یہ بات انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد بتائی تھی۔



بنی قریظہ کے کتنے افراد قتل کئے گئے؟ اس میں تین قول ہیں (۱) چھ سو (۲) سات سو (۳) آٹھ سو اور سو کے درمیان۔

یہود میں سے چند ایسے لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا جو بنی قریظہ میں سے تھے اور نہ بنی نضیر میں سے تھے، جس رات بنی قریظہ نے رسول اللہ ﷺ کے فیصلہ پر راضی ہونے کا اعلان کیا اُسی وقت یہ لوگ مسلمان ہوئے، ان کے نام یہ ہیں: ثعلبہ بن سعید، اسد بن سعید، اسد بن عبیدہ، یوگ بن عدل میں سے تھے۔

بنی قریظہ کے مردوں کو رسول اللہ ﷺ نے قتل فرمادیا اور ان کے مال اور ان کی عورتوں اور بچوں کو مال غنیمت بنا کر مجاہدین میں تقسیم فرمادیا اور ان کے اموال سے خمس یعنی ۱/۵ نکال دیا جیسا کہ مال غنیمت تقسیم کرنے کا طریقہ ہے۔ بنی قریظہ میں سے جن بچوں اور عورتوں کو قیدی بنایا تھا اُن میں سے بعض کو نجد کی طرف بھیج دیا، حضرت سعد بن زید انصاریؓ آپ ﷺ کے حکم سے انہیں لے گئے اور انہیں بیچ کر گھوڑے اور ہتھیار خرید لئے تاکہ جہاد میں مسلمانوں کے کام آئیں۔

جب بنی قریظہ کا معاملہ ختم ہوا یعنی انہیں قتل کر دیا گیا تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زخم جاری ہو گیا اور خون بہتا رہا جو ان کی موت کا ظاہری سبب بن گیا، چونکہ یہ زخم انہیں جہاد کے موقع پر تیر لگنے کی وجہ سے آگیا تھا اس لئے اُن کی یہ موت شہادت کی موت ہوئی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا بدن بھاری تھا جب اُن کا جنازہ اٹھا کر لے جانے لگے تو ہلکا محسوس ہوا، بعض لوگوں نے کہا کہ اس شخص کا بدن تو بھاری تھا جنازہ اتنا ہلکا کیوں ہے؟ یہ بات رسول اللہ ﷺ کو پہنچی تو آپ ﷺ نے فرمایا جنازہ کو اٹھانے والی تمہارے علاوہ دوسری مخلوق بھی تھی، قسم ہے اُس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے فرشتوں کو سعدؓ کی روح پہنچنے پر خوشی ہوئی اور ان کے لئے عرش بھی متحرک ہو گیا۔

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہم سعد بن معاذؓ کی وفات کے موقع رسول اللہ ﷺ کے ساتھ روانہ ہوئے، رسول اللہ ﷺ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی پھر جب انہیں دفن کر دیا گیا تو آپ ﷺ نے دیر تک تسبیح پڑھی پھر تکبیر پڑھی، اس پر ہم نے بھی تکبیر پڑھی اور عرض کیا کہ آپ نے پہلے تسبیح پڑھی پھر تکبیر پڑھی اس کی کیا وجہ تھی؟ آپ نے فرمایا اس نیک بندہ پر اس کی قبر تنگ ہو گئی تھی (میں برابر تسبیح پڑھتا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مشکل دور فرمادی) اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ یہ شخص ہے جس کے لئے عرض متحرک ہوا اور آسمان کے دروازے کھولے گئے اور ستر ہزار فرشتے حاضر ہوئے، قبر میں اس کو کچھ دبایا گیا پھر تکلیف دور کر دی گئی۔ (جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو زمین نے دبایا جو شہید ہو گئے تھے تو دوسرے لوگ اپنے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے اور گناہوں میں لت پت ہیں)

غزوہ بنی قریظہ کا مفصل قصہ بیان کر دیا گیا ہے جو سیرت ابن ہشام سے ماخوذ ہے، ان میں سے بعض چیزیں کتب حدیث میں بھی ملتی ہیں۔ تفصیل کے ساتھ پورا واقعہ پڑھنے کے بعد آیت بالا کے ترجمہ پر دوبارہ نظر ڈال لیں۔

ممکن ہے بعض قارئین کو یہ اشکال ہو کہ بنو قریظہ نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جو معاہدہ کر رکھا تھا اسے انہوں نے توڑ دیا تھا جس کی سزا پائی لیکن ابوسفیان نے راہ فرار اختیار کرتے ہوئے یہ کیوں کہا کہ قریش وغیرہ کے ساتھ جو عہد کیا تھا بنو قریظہ اس عہد کو توڑ چکے ہیں حالانکہ مِنْ فَوْقِكُمْ کی تفسیر میں یہ بتایا گیا ہے کہ اوپر کی جانب سے بنی قریظہ آ گئے تھے اور ان لوگوں کو بنی بنی اخطاب نے اپنے ساتھ ملانے اور مسلمانوں سے جنگ کرنے پر آمادہ کر لیا تھا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بنو

قریظہ قریش کے ساتھ تھے اس کا جواب یہ ہے کہ بنی قریظہ نے قریش مکہ کے ساتھ جنگ میں شریک ہونے کا وعدہ تو کر لیا تھا لیکن نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تدبیر سے بنو قریظہ مشرکین مکہ اور ان کے ساتھیوں کی امداد سے بھی پھر گئے تھے، ہوا یہ کہ نعیم بن مسعود نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے لیکن میری قوم کو اس کا پتہ نہیں ہے آپ مجھے جو کچھ حکم فرمائیں میں حاضر ہوں آپ ﷺ نے فرمایا کوئی ایسی صورت نکالو جس سے یہ جماعتیں ایک دوسرے کی مدد سے منحرف ہو جائیں۔ حضرت نعیم بن مسعود بنی قریظہ کے پاس گئے جاہلیت میں تو ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا تھا ان سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے میری تمہاری کیسی دوستی ہے اور کیسے خصوصی تعلقات ہیں؟ بنو قریظہ نے جواب میں کہا کہ واقعی تم ہمارے دوست ہو، ہم اس بات کو مانتے ہیں اس پر ان سے فرمایا کہ دیکھو قریش اور بنی غطفان تمہاری طرح سے نہیں ہیں تم شہر مدینہ میں رہتے ہو اس میں تمہارے اموال ہیں بچے ہیں عورتیں ہیں اس شہر کو چھوڑ کر تم کہیں نہیں جاسکتے رہے قریش اور بنی غطفان سو وہ محمد رسول اللہ ﷺ سے جنگ کرنے آئے ہیں اور تم ان کی مدد کر رہے ہو اب دیکھو بات یہ ہے کہ انہیں اگر موقع مل گیا تو غلبہ پالیں گے اور اگر شکست ہوگئی تو اپنے شہروں کو چلے جائیں گے اس کے بعد تم بے یار و مددگار رہ جاؤ گے اور محمد رسول اللہ ﷺ سے مقابلہ کرنے کی تم میں طاقت نہیں ہے لہذا میری رائے یہ ہے کہ تم قریش مکہ سے یوں کہو کہ تم لوگ اپنے سرداروں کو بطور رہن ہمارے پاس چھوڑ دو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ وہ لوگ تمہیں چھوڑ کر بھاگ نہ سکیں گے انہیں اپنے آدمیوں کی فکر لاحق ہوگی یہ بات سنکر بنو قریظہ نے کہا واقعی تمہاری رائے تو ٹھیک ہے۔

اس کے بعد نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ قریش کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ یہودی اس بات پر پچھتا رہے ہیں کہ انہوں نے تمہارا ساتھ دینے کا وعدہ کیوں کر لیا اور محمد رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جو معاہدہ تھا وہ توڑ دیا اب انہوں نے محمد رسول اللہ ﷺ کے پاس خبر بھیجی ہے کہ آپ ہم سے اس بات پر راضی ہو جائیں کہ ہم قریش اور بنی غطفان کے سرداروں پر قبضہ کر کے آپ کے پاس بھیج دیں اور آپ ان کی گردنیں مار دیں اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ مل کر ان لوگوں کو بالکل ہی ختم کر دیں گے اور ساتھ ہی قریش اور بنی غطفان سے یہ بھی کہا کہ دیکھو اگر یہودی تم سے یہ مطالبہ کریں کہ بطور رہن ہمیں اپنے آدمی دے دو تو تم بات مت ماننا اور انہیں اپنا ایک آدمی بھی نہ دینا پھر حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ بنی غطفان کے پاس آئے اور ان سے بھی یہی کہا کہ دیکھو تمہارے سرداروں میں سے یہودی بطور رہن کچھ افراد طلب کریں گے تم اپنا ایک شخص بھی ان کے حوالے نہ کرنا۔

اس کے بعد ابوسفیان نے اور بنی غطفان کے چودھریوں نے بنی قریظہ کے پاس عکرمہ بن ابی جہل کو قریش و غطفان کے چند افراد کے ساتھ پیغام دے کر بھیجا انہوں نے یہود سے کہا کہ دیکھو ہمارے ٹھہرنے کا موقع نہیں رہا ہمارے پاس جوائنٹ اور گھوڑے تھے وہ ہلاک ہو چکے ہیں آؤ صبح صبح سب مل کر یکبارگی محمد ﷺ پر حملہ کر دیں اور معاملہ کو نمٹا دیں یہودیوں نے جواب میں کہا کہ ہم اس وقت تک تمہارا ساتھ نہیں دیں گے جب تک تم اپنے چند آدمی بطور رہن ہمیں نہ دے دو جب تمہارے آدمی ہمارے ساتھ ہوں گے تو ہمیں بھروسہ رہے گا ہمیں ڈر ہے کہ تم لوگ لڑائی میں شکست کھا گئے تو ہمیں چھوڑ کر اپنے شہروں کو بھاگ جاؤ گے جب یہ لوگ بنی قریظہ کا جواب لے کر قریش اور بنی غطفان کے پاس واپس پہنچے تو کہنے لگے کہ واقعی نعیم بن مسعود نے سچ کہا تھا کہ بنو قریظہ تم سے بطور رہن آدمی طلب کریں گے اس پر قریش اور بنی غطفان نے بنی قریظہ کو نکا سا جواب بھجوا دیا کہ ہم اپنا ایک شخص بھی تمہیں نہیں دیں گے لہذا بنو قریظہ نے جواب دے دیا کہ ہم اس کے بغیر محمد ﷺ سے

جنگ نہیں کر سکتے لہذا اب صورتحال یہ پیدا ہو گئی کہ بنو قریظ نے وہ معاہدہ بھی توڑ دیا جو رسول اللہ ﷺ سے کر رکھا تھا اور قریش و بنی غطفان کی مدد سے بھی دستبردار ہو گئے اور اس کے بعد رسول اللہ ﷺ کی تلوار کی زد سے بھی نہ بچ سکے۔ نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ تدبیر ابن ہشام نے لکھی ہے اور حافظ ابن کثیرؒ نے بھی ”البدایہ والنہایہ“ میں سے اس کو ذکر کیا ہے۔ قوله تعالى: (مِنْ صَيَاصِيهِمْ) ای من حصونہم جمع صیصیۃ وہی کل ما یمتنع بہ ویقال لقرن الثور والظباء ولشوكه الديك التي فی رجله كالقرن الصغير، وتطلق الصیاصی علی الشوك الذي للنساجين ویستخذ من حدید۔ (روح المعانی) (اللہ تعالیٰ کا قول) (مِنْ صَيَاصِيهِمْ) یعنی ان کے قلعوں سے یہ صیصیۃ کی جمع ہے اور یہ مہر اس چیز کو کہتے ہیں جو رکاوٹ بنے اور تیل کے سینک مرغ کے ناخن کو بھی کہا جاتا ہے گویا کہ وہ چھوٹا سینک ہے اور صیاصی کا لفظ لوہے کے اس کانٹے پر بھی بولا جاتا ہے جو کپڑا بننے والوں کے پاس ہوتا ہے)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ

اے نبی! آپ اپنی بیویوں سے فرمادیجئے کہ اگر تم دنیا والی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں فائدہ پہنچا دوں

وَأَسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ۚ وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ

اور تمہیں خوبی کے ساتھ چھوڑ دوں۔ اور اگر تم اللہ کو اور اس کے رسول کو چاہتی ہو اور دیر آخرت کو تو بلاشبہ اللہ نے

لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ۚ يٰنِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ

ان عورتوں کے لئے جو تم میں اچھے کام کرنے والی ہوں بڑا اجر تیار فرمایا ہے۔ اے نبی کی بیویو! تم میں سے جو بیوی بے ہودگی کرے گی

يُضَعِفْ لَهَا الْعَذَابَ ضِعْفَيْنِ ۚ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ۚ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ

اس کو دوہرا عذاب دیا جائے گا اور یہ اللہ کے لئے آسان ہے۔ اور تم میں سے جو عورت

لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ۚ يٰنِسَاءَ

اللہ اور رسول کی فرمانبرداری کرے گی اور نیک عمل کرے گی ہم اس کا ثواب دوہرا دیں گے اور ہم نے اس کے لئے رزق کریم تیار کیا ہے۔ اے

النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ۚ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَحْضَنْ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ

نبی کی بیویو! تم دوسری عورتوں میں سے کسی عورت کی طرح نہیں ہو اگر تم تقویٰ اختیار کرو ایسا شخص لالچ نہ کرنے لگے جس کے دل میں

مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۚ وَقرْنِ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ

مرض ہو اور مناسب طریقہ پر بات کرو۔ اور تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور قدیم جہالت کے

الْأُولَىٰ ۚ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ

دستور کے موافق نہ پھر و اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو اللہ یہی چاہتا ہے

لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ۝ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ

کہ اپنے نبی کے گھر والوں سے گندگی کو دور فرما دے اور تم کو اچھی طرح پاک کر دے۔ اور گھروں میں تلاوت کی جاتی ہیں

فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ۝

ان آیات کو اور حکمت کو یاد کرو بلاشبہ اللہ مہربان ہے با خبر ہے۔

## رسول اللہ ﷺ کی ازواجِ مطہرات کو نصابِ ضروریہ

**تفسیر:** آیت کریمہ **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ** سے **أَجْزَأَ عَظِيمًا** تک کا سبب نزول حضرات مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ کی ازواجِ مطہرات نے آپ ﷺ سے کچھ زیادہ خرچہ ملنے کی درخواست کی اُس وقت آپ ﷺ کی بیویاں تھیں۔ (۱) عائشہ بنت ابوبکر صدیق (۲) حفصہ بنت عمر (۳) ام حبیبہ بنت ابی سفیان (۴) ام سلمہ بنت ابی امیہ (۵) سودہ بنت زمعہ (۶) زینب بنت جحش (۷) میمونہ بنت حارث (۸) صفیہ بنت تی بن ابی اخطب (۹) جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین۔ رسول اللہ ﷺ کو ان کا یہ مطالبہ اچھا نہ لگا (بڑوں کی بڑی باتیں ہیں وہ سید الاولین والآخرین ﷺ کی بیویاں تھیں انہیں آپ کے ساتھ صبر و شکر کے ساتھ رہنا چاہئے تھا اور بعض مرتبہ جوفاقد کی نوبت آ جاتی تھی اس کو درجات کی بلندی کے لئے برداشت کرنا چاہئے تھا اور خرچہ کا سوال زبان پر نہیں لانا چاہئے تھا۔ جب رسول اللہ ﷺ سے انہوں نے خرچہ کا سوال کیا تو آپ نے قسم کھالی کہ ایک مہینہ تک ان کے پاس نہیں جاؤں گا۔ حضرات صحابہ میں یہ مشہور ہو گیا کہ آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس کی خبر لاتا ہوں انہوں نے خدمتِ عالی میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں مسجد میں گیا تو دیکھا کہ وہاں مسلمان موجود ہیں اور یوں کہہ رہے ہیں کہ آپ ﷺ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے آپ نے فرمایا میں نے طلاق نہیں دی عرض کیا تو کیا میں مسلمانوں کو یہ بات بتا دوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا چاہو تو بتا دو! حضرت عمرؓ نے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر پکار کر اعلان کر دیا کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی ازواج کو طلاق نہیں دی۔

جب اُنٹیس دن گزر گئے تو آیتِ تنخیر یعنی **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ** (آخر تک) نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنی بیویوں سے فرمادیجئے کہ اگر تم دنیا چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں دنیا کا سامان دے دیتا ہوں اور ساتھ ہی تمہیں خوبصورتی کے ساتھ چھوڑ دوں گا یعنی اپنے نکاح میں نہیں رکھوں گا اور اگر تم اللہ کو اور اس کے رسول کو چاہتی ہو اور آخرت کی طلبگار ہو تو تم سمجھ لو کہ اللہ نے نیک کام کرنے والی عورتوں کے لئے اجرِ عظیم تیار فرمایا ہے یعنی نبی اکرم ﷺ کے ساتھ زندگی گزارتی رہو اچھے اعمال کرتی رہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ اجرِ عظیم عطا فرمائے گا (اس صورت میں رسول اللہ ﷺ کی جدائی کا کوئی مسئلہ نہیں) جب آیتِ تنخیر نازل ہوئی تو آپ ﷺ نے آیتِ شریفہ کے مضمون کے مطابق اپنی بیویوں کو اختیار دے دیا کہ اگر چاہو تو دنیا کا سامان لے لو اور ساتھ ہی یہ سمجھ لو میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور

اگر چاہو تو میرے ہی پاس رہو لیکن اس صورت میں مطلوبہ اخراجات کا کوئی وعدہ نہیں ہاں یہ وعدہ ہے کہ نیک کام کرتی رہو گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر عظیم دیا جائے گا۔

رسول اللہ ﷺ نے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ میں تمہارے سامنے ایک بات پیش کرتا ہوں جب تک اپنے ماں باپ سے مشورہ نہ کر لو جواب دینے میں جلدی نہ کرنا (آپ کو معلوم تھا کہ ان کے والدین انہیں رسول اللہ ﷺ سے جدا ہونے کا مشورہ نہیں دے سکتے تھے) یہ فرما کر آپ ﷺ نے حضرت عائشہ کو دونوں آیتیں سنائیں جن میں اختیار دینے کا مضمون ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت سمجھدار اور مزاج شناس نبوت تھیں فوراً عرض کیا کیا میں آپ ﷺ کے بارے میں اپنے ماں باپ سے مشورہ لوں گی؟ میں اللہ اور اس کے رسول کو اور دارِ آخرت کو اختیار کرتی ہوں اور ساتھ ہی یوں بھی عرض کیا کہ آپ ﷺ دوسری بیویوں میں کسی کو میرے جواب سے مطلع نہ فرمائیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا بلاشبہ اللہ نے مجھے تکلیف میں ڈالنے والا اور تکلیف میں پڑنے والا بنا کر نہیں بھیجا مجھے تو سکھانے والا اور سہولت کا طریقہ بتانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے بعد آپ نے باقی آٹھ ازواجِ مطہرات کے سامنے بھی آیت بالا کا مضمون پیش فرمایا ان سب نے بھی یہی جواب دیا کہ ہم اللہ کو اور اس کے رسول کو اور دارِ آخرت کو اختیار کرتی ہیں۔ جب انتیس دن گزر گئے تو آپ عائشہ کے پاس تشریف لے گئے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے تو یہ قسم کھائی تھی کہ پورے ایک ماہ ہمارے ہاں تشریف نہیں لائیں گے آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ مہینہ انتیس دن کا تھا انتیس دن گزر گئے نیا مہینہ شروع ہو گیا۔ جب آپ کی تمام بیویوں نے اللہ اور اس کے رسول کو اور دارِ آخرت کو اختیار کر لیا تو آپ کے چہرہ انور پر خوشی کے انوار ظاہر ہو گئے اور آپ ﷺ نے ان کی قدر دانی فرمائی۔ (معالم التنزیل ج ۳ ص ۵۲۶۵۲۵، صحیح بخاری ج ۲ ص ۷۰۵، صحیح مسلم ص ۳۸۰ تا ۳۸۲)

فائدہ: بیوی کو اگر طلاق کا اختیار دیا جائے تو اس کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ طلاق کا اختیار عورت کے سپرد کر دیا جائے اگر وہ چاہے تو اپنے اوپر طلاق واقع کر کے آزاد ہو جائے اور دوسری صورت یہ ہے کہ مرد طلاق کو اپنے ہی ہاتھ میں رکھے اور عورت سے یوں کہے کہ اگر تو چاہے تو میں تجھے طلاق دیدوں۔

رسول اللہ ﷺ نے جو اپنی بیویوں کو اختیار دیا تھا وہ یہی دوسری صورت تھی یعنی بطور مشورہ ایک بات پیش فرمائی تھی اگرچہ بعض اکابر نے فرمایا ہے کہ آیت کے سیاق میں دونوں باتوں کا احتمال ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں اختیار دیا تھا ہم نے آپ ﷺ کے ساتھ رہنا منظور کر لیا اور آپ کی زوجیت اختیار کر لی اور آپ ﷺ کا اختیار دے دینا کسی بھی طلاق میں شمار نہیں کیا گیا۔ ائمہ اربعہ کا یہی مذہب ہے کہ کھس اختیار دیدینے سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم میں تخیر کو طلاق میں شمار نہیں کیا گیا اس کے ذیل میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

فی هذه الاحادیث دلالة لمذهب مالک والشافعی وابی حنيفة واحمد و جماهير العلماء  
زوجته فاخترته لم یکن ذلك طلاقاً ولا یقع به فرقة وروی عن علی وزید بن ثابت و الحسن  
واللیث بن سعد ان نفس التخییر یقع به طلاقاً بائنة سواء اختارت زوجها ام لا و حکاه الخطابی  
والنقاش عن مالک قال القاضی لا یصح هذا عن مالک ثم هو مذهب ضعیف مردود بهذ  
والاحادیث الصریحة وعل القائلین به لم تبلغهم هذه الاحادیث. والله اعلم

(ان احادیث میں حضرت امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام احمد اور جمہور علماء رحمۃ اللہ علیہم کے مذہب کی دلیل ہے اگر کسی نے اپنی بیوی کو اختیار دیا تو محض یہ اختیار دینا طلاق نہیں ہوگا اور نہ اس سے فرقت ہوتی ہے۔ حضرت علی، حضرت زید، حضرت حسن اور حضرت لیث بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہے کہ نفس تخمیر سے طلاق بائنہ واقع ہو جاتی ہے خواہ عورت نے اپنے آپ کو اختیار کیا ہو یا نہ کیا ہو اور اس بات کو خطابی اور نقاش نے امام مالک سے نقل کیا ہے۔ قاضی فرماتے ہیں حضرت امام مالک سے یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ پھر یہ کہ یہ مذہب ضعیف ہے اور ان مذکورہ صریح احادیث کی وجہ سے مردود ہے۔ شاید اس مذہب کے قائلین کو یہ احادیث نہیں پہنچیں)

حنفیہ میں سے صاحب ہدایہ نے لکھا ہے کہ کوئی شخص طلاق کی نیت سے اپنی بیوی سے اِختَارِی (تو اختیار کر لے) کہہ دے یا یوں کہہ دے کہ تو اپنے نفس کو طلاق دے دے تو جب تک وہ اپنی مجلس میں رہے گی اُسے طلاق دینے کا اختیار رہے گا، اگر مجلس سے اٹھ گئی یا وہیں بیٹھے بیٹھے کسی کام میں لگ گئی (جس سے اعراض سمجھا جاتا ہو) تو اس کے ہاتھ سے اختیار جاتا رہا، اگر اِختَارِی کے جواب میں (جبکہ شوہر نے طلاق کی نیت سے کہا ہو) عورت نے یوں کہہ دیا کہ اختوت نفسی (میں اپنی جان کو اختیار کرتی ہوں) تو ایک بائن طلاق واقع ہو جائے گی۔ (باب تفویض الطلاق)

دوہرے عذاب و ثواب کا استحقاق: تخمیر کا مضمون بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا: يُنْسَاءُ النَّبِيُّ مَنْ يَأْتِيهِ مِنْكُمُ الْفَاحِشَةُ مُبَيِّنَةً (الآیہ) اے نبی کی بیوی! تم میں سے جو عورت واضح طور پر کسی معصیت کا ارتکاب کرے گی تو اُسے دوہرا عذاب دیا جائے گا اور یہ اللہ کے لئے آسان ہے) ”واضح طور پر معصیت“ یہ لفظ فَاحِشَةُ مُبَيِّنَةً کا ترجمہ ہے۔ صاحب بیان القرآن نے اس کا ترجمہ کھلی ہوئی بیہودگی کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اس سے وہ معاملہ مراد ہے جس سے رسول اللہ ﷺ تنگ اور پریشان ہوں۔ صاحب معالم التنزیل نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس کا یہی مطلب نقل کیا ہے، فقال المراد بالفاحشة النشور وسوء الخلق - صاحب روح المعانی نے بھی بعض حضرات سے یہی تفسیر نقل کی ہے، فقال وقيل: ذلک طلبهن ما يشق عليه عليه الصلوة والسلام او ما يضيق به ذرعه ويغتم صلى الله عليه وسلم لا جله۔ یعنی فاحشہ سے یہ مراد ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے ایسی چیزیں طلب کی جائیں جس سے آپ تنگ دل ہوں اور آپ کو گھٹن محسوس ہو۔ اور بعض حضرات نے فَاحِشَةُ مُبَيِّنَةً کا ترجمہ مَعْصِيَةٍ ظَاهِرَةٍ کیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ علی السبیل القرض ہے کما فی قوله تعالى: لَئِنْ أَتَاكَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔

یہ دُھرا عذاب دیئے جانے کی وعید اس لئے ہے کہ جن کے مرتبہ بلند ہوتے ہیں ان کا مواخذہ زیادہ ہوتا ہے اسی طرح حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام پر بعض ان چیزوں پر عتاب ہوا جن پر دوسرے مؤمنین پر عتاب نہیں ہوتا۔ ایک جاہل شخص ایک عمل کرے اور کوئی عالم شخص اس عمل کو کر لے تو اُس عالم کا مواخذہ جاہل کے مواخذہ سے زیادہ ہوتا ہے۔

صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے کہہ دیا کہ آپ تو اہل بیت کے فرد ہیں جو بخشے بخشائے ہیں اُس پر وہ غصہ ہونے لگا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم ﷺ کی ازواج کے بارے میں جو کچھ فرمایا ہے ہم اپنے کو اُسی کا مستحق سمجھتے ہیں ہم میں سے جو حسن ہیں اُن کے لئے دوہرے اجر کی امید رکھتے ہیں اور ہم میں سے جو شخص کوئی گناہ کرے اس کے لئے دوہرے عذاب کا اندیشہ رکھتے ہیں اس کے بعد انہوں نے آیت کریمہ



يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ مَنْ يَاتُ مِنْكَ مِنَ الرِّسَالِ فَقَبْلِهَا وَاَمْرًا مِنْ رَبِّكَ (روح المعانی جلد ۲۱ ص ۱۸۴)  
 اس کے بعد فرمایا: وَمَنْ يَقْعُدْ مِنْكَ يَلْعَنُ وَيُكْفَرُ بِرَسُولِهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا تَوْبَتُهَا اَجْرُهَا مِثْرَيْنِ وَاعْتَدْنَا لَكُمُ الْاَكْرَبُ (اور)  
 تم میں سے جو عورت اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے گی اور نیک عمل کرے گی ہم اسے اس کا دو ہر اثواب دیں  
 گے اور ہم نے اس کے لئے رزق کریم تیار کیا ہے)

صاحب بیان القرآن لکھتے ہیں علت اس تضعیف اجر اور اسی طرح تضعیف وزر کی جو اسکے قبل ارشاد ہے شرفِ زوجیت نبی ہے جس پر یسّاء النبی دال ہے کیونکہ اہل خصوصیت کا عصیان بھی اوروں کے عصیان سے اشد ہوتا ہے اسی طرح ان کی اطاعت بھی اوروں کی طاعت سے زیادہ مقبول ہوتی ہے پس وعدہ دو عید دونوں میں وہ دوسروں سے ممتاز ہوتے ہیں اور خصوصاً مقام کلام میں یہ کہنا ممکن ہے کہ حضرات اُم المؤمنین سے خدمت و اطاعت کا صدور حضور ﷺ کے قلب کو راحت افزا زیادہ ہوگا پس آپ کی راحت رسانی موجب اجر تھی زیادہ راحت رسانی موجب زیادتی اجر ہوگی علیٰ ہذا اس کی ضد میں سمجھنا چاہئے۔

ایک ہی مرتبہ حضرات ازواج مطہرات کی طرف سے خرچہ میں اضافہ اور خوشحالی کی بات اٹھائی گئی اس پر آیات بالا نازل ہو گئیں اس کے بعد کوئی واقعہ اس قسم کا پیش نہیں آیا جس میں خرچہ کی تنگی کا سوال اٹھایا گیا ہو ازواج مطہرات برابر زندگی بھر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی فرمانبرداری میں اور عبادت الہی میں لگی رہیں اور آپ ﷺ کی وفات کے بعد آپ ﷺ کی احادیث کو اور آپ کی تعلیمات کو آگے بڑھاتی رہیں۔ رضی اللہ عنہن وارضاهن۔

ازواج مطہرات کی فضیلت: اس کے بعد فرمایا يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ لَنْ يَكُنَّ كَاحِدٍ مِنَ النِّسَاءِ (اے نبی کی بیویو! تم دوسری عورتوں کی طرح سے نہیں ہو) اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں فضیلت دی ہے وہ بہت بڑی ہے جو اور کسی بھی عورت کو حاصل نہیں ہے اپنے شرف اور بلند مقام کو سمجھو اور اللہ تعالیٰ شہد کی خوشنودی کے اعمال میں لگی رہو۔ اَتَقِيْنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ (اگر تم تقویٰ اختیار کرتی ہو) یعنی تقویٰ ہی پر آئندہ زندگی گزارنی ہے تو اس بات کا بھی دھیان رکھو کہ جب کسی نا محرم مرد سے کسی ضرورت سے بات کرنی پڑ جائے تو لب و لہجہ میں نزاکت کا انداز مت اختیار کرو اگر ایسا انداز ہوگا تو بعض ایسے لوگ جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے لالچ کر لیں گے یعنی تم سے بار بار اور بلا ضرورت بات کریں گے اور تمہارے لب و لہجہ سے اپنے کانوں کو لذت پہنچائیں گے۔ وَكُنَّ قَوْلًا مَعْرُوفًا (اور مناسب طریقہ پر بات کرو) نا محرموں سے بات کرنے کا مناسب طریقہ یہ ہے کہ درشتی کے طور پر روکھا پن اختیار کر کے جواب دیا جائے جب یہ صورت اختیار کی جائے گی تو جن کے دلوں میں مرض یعنی نفاق ہے وہ خود بات کرنے سے بچیں گے اور بلا ضرورت تو بالکل ہی پرہیز کریں گے۔ اور بعض حضرات نے قَوْلًا مَعْرُوفًا کا مطلب یہ بتایا ہے کہ اللہ کے ذکر میں لگی رہو اور جو کوئی بات کرنی ہو تو بوقت ضرورت بات کر لو۔

نا محرموں سے بات کرنے کا طریقہ: معلوم ہوا عند الضرورت نا محرم سے بات کرنے کی اجازت تو ہے کیونکہ کبھی اس کی ضرورت پیش آتی ہے لیکن ایسے موقع پر زیادہ آواز بلند نہ کرے نہ آواز کو دُرار کرے نہ نرم کرے نہ آواز کے اتار چڑھاؤ کی صورت اختیار کرے کیونکہ اس سے نا محرموں کے دل مائل ہوں گے اور نفسانی خواہشوں کو تحریک ہوگی اسی لئے عورت کو اذان دینا اور حج کے موقع پر زور سے تلبیہ پڑھنا ممنوع ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ علامہ ابو



العباس قرطبی سے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں: فانما نجيز الكلام مع النساء للاجانب و محاورتهن عند الحاجة الى ذلك ولا نجيز لهن رفع اصواتهن ولا تمطيطها ولا تليينها ولا تقطيعها لما في ذلك من استمالة الرجال اليهن وتحريك الشهوات منهم ومن هذا الم يجوز ان تؤذن المرأة. اه (شامی جلد ۱ ص ۷۷۷)

(لہذا ہم غیر محرم سے عورتوں کے بات کرنے اور جواب دینے کو جائز سمجھتے ہیں جبکہ اس کی ضرورت ہو البتہ آواز کو بلند کرنا لبا کرنا اور نرم کرنا اور بات میں اتانچہ حاؤ کرنا جائز نہیں سمجھتے کیونکہ اس سے مردوں کے دل ان کی طرف مائل ہوں گے اور ان کے جذبات کو تحریک ملے گی اسی لئے عورت کے لئے اذان دینا جائز نہیں ہے)

**گھروں میں ٹھہرے رہنے کا حکم:** اس کے بعد فرمایا: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ (اور تم اپنے گھر میں ٹھہری رہو) وَلَا تَبْجُنَّ بُيُوتَهُنَّ بِهَاطِلَةٍ أَوْ نَوِيٍّ (اور قدیم جہالت کے دستور کے موافق بن ٹھن کر نہ پھرو) اس میں اول تو یہ حکم فرمایا کہ گھروں میں قرار پکڑے رہو اور دوسرے یہ فرمایا کہ جاہلیت اولیٰ کے طریقہ پر باہر نہ نکلو جس سے کہ سرسینہ چہرہ گردن کان کانوں کی بالیاں وغیرہ ظاہر ہوں۔ جاہلیت اولیٰ سے عرب کا اسلام سے پہلے والا زمانہ مراد ہے اس زمانہ میں عورتیں بلا پردہ بے محابا باہر نکلتی تھیں سر اور سینے کھلے ہوئے ہوتے تھے اور بلا کھٹک مردوں کے درمیان سے گزر جاتی تھیں۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ جاہلیہ اولیٰ جاہلیہ آخری کے مقابلہ میں ہے مطلب یہ ہے کہ اسلام سے پہلے لوگ جاہلیت میں مبتلا تھے زمانہ اسلام میں فسوق اور فحور اختیار کریں گے تو یہ دوسری جاہلیت ہوگی جو جاہلیت اولیٰ کی نقل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کی ازواج مطہرات کو حکم دیا کہ گھروں میں ٹھہری رہیں اور اگر کسی ضرورت سے باہر جانا ہی ہو تو پردہ کا خاص اہتمام کیا کریں اپنے اعضاء کو اور زیور اور زینت کو ظاہر نہ ہونے دیں۔

مذکورہ بالا خطاب گوازواج مطہرات کو ہے لیکن تمام مسلمان عورتوں کے لئے یہی حکم ہے کہ جہاں تک ہو سکے گھروں میں رہیں اور اگر باہر نکلنا ضروری ہو تو پردہ شرعی کا خوب زیادہ اہتمام کریں۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: الْمَرْءُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ (کہ عورت چھپا کر رکھنے کی چیز ہے جب باہر نکلتی ہے تو اسے شیطان تیکنے لگتا ہے) (رواہ الترمذی کما فی مشکوٰۃ المصابیح ص ۲۶۹)

ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ مسجد سے باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ عورت مرد راستہ میں اکٹھے چل رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ اے عورتو! پیچھے ہٹو تمہارے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ راستوں کے درمیان میں چلو تم راستہ کے کناروں پر چلو آپ ﷺ کے اس ارشاد کے بعد عورتوں کا یہ حال تھا کہ بالکل دیوار کے ساتھ مل کر چلتی تھیں یہاں تک کہ ان کا کپڑا دیوار سے انک جاتا تھا۔ (رواہ ابوداؤد)

اگر کسی عورت کو کسی مجبوری سے باہر نکلنا ہو تو بن ٹھن کر خوشبو لگا کر نہ نکلے اور مردوں سے دور ہو کر گزر جائے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ہر آنکھ زنا کار ہے (یعنی بے جگہ نظر ڈالنا مرد کی نظر ہو یا عورت کی زنا میں شمار ہے) اور بلاشبہ جب کوئی عورت عطر لگائے اور مجلس پر گزرے تو ایسی ہے ویسی ہے یعنی زنا کار ہے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۹۶)

قوله تعالى: وَقُرْنُ فِيْ بُيُوتِكُنَّ قَالَ صاحب الروح من قريقر من باب علم اصله اقرن فحذفت الراء الاولى والقيت فتحها على ما قبلها وحذفت الهمزة لاستغناء عنها بتحريك القاف، وذكر ابو الفتح الهمداني في كتاب البيان وجه اخر قال: قاريقار اذا اجتمع ومنه القارة لا اجتماعها، الا ترى الى قول عضل والديش اجتمعوا فكونوا قارة فالمعنى واجمعهم انفسكن في البيوت. وقرا الاكثر (وقرن) بكسرا لقاف من وقريقر وقارا اذا سكن وثبت واصله او قرن ففعل به ما فعل بعدن من وعدا ومن قريقر المضاعف من باب ضرب واصله اقرن حذفت الراء الاولى والقيت كسرتها الى القاف وحذفت الهمزة للاستغناء عنها. اهـ (اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَقُرْنُ فِيْ بُيُوتِكُنَّ تفسیر روح المعانی کے مصنف فرماتے ہیں قُرْنُ قَرِ يَقْرُ باب عِلْم سے بنا ہے یہ اصل میں اَقْرَضَ تھا۔ پہلی راء حذف کی گئی اور اس کا فتح ماقبل کو دیدیا اور قاف کے متحرک ہو جانے کی وجہ سے ہمزہ وصلی کی ضرورت نہیں رہی اس لئے ہمزہ کو حذف کر دیا۔ اور ابوالفتح الہمدانی نے کتاب النبیان میں ایک اور صورت ذکر کی ہے اس نے کہا ہے قَارَ يَقَارُ کا معنی ہے جمع ہونا، مجتمع ہونا اکفازۃ اسی سے ہے کیونکہ وہ بھی مجتمع ہوتا ہے کیا آپ نہیں دیکھتے پس وہ ہو گئے۔ پس اس طرح قُرْن کا معنی ہوا کہ تم اپنے آپ کو گھروں میں ہی مجتمع رکھو۔ اور اکثر نے وَقُرْن پڑھا ہے قاف کے کسرہ کے ساتھ وَقَرَّ يَقَرُّ وَقَارًا سے جس کا معنی ہے ساکن ہونا قائم ہونا اور یہ اصل میں اَوْقُرْن تھا پھر اس میں وعدا لے باب کے صیغہ عَزَّن والی تقلیل ہوئی یا یہ قَرَّ يَقَرُّ سے ہے جو کہ مضاعف ہے اور باب ضَرْب ہے اور اصل میں تھا اَفْرَضَ پہلی حذف کر دی گئی اور اس کا کسرہ قاف کو دیدیا گیا اور ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے ہمزہ بھی حذف کر دیا گیا)

پھر فرمایا: وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ (اور نمازیں قائم کرتی رہو اور زکوٰۃ کو تیس ادا کرتی رہو اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی) نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی اور اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی فرمانبرداری کا حکم تو ہر مسلمان مرد و عورت کو ہے لیکن خصوصیت کے ساتھ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو خطاب فرمانے میں یہ حکمت ہے کہ کہیں وہ اپنے رشتہ زوجیت پر فخر کر کے نہ بیٹھ جائیں اور اعمال دیدیہ میں کوتاہی نہ کرنے لگیں۔

پھر فرمایا إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (اللہ کو یہی منظور ہے کہ اے اہل بیت تم سے گندگی کو دور رکھے اور تم کو اچھی طرح پاک کر دے)

آیت تطہیر یعنی إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ (الآیۃ) میں اللہ تعالیٰ شانہ نے حضرات ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن سے خطاب کر کے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے گندگی کو دور کرنے کا اور پاک کرنے کا ارادہ فرمایا ہے۔ گندگی سے فسق اور گناہ کے کام مراد ہیں اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے اخلاق رذیلہ، بخل، طمع، حسد وغیرہ مراد ہیں اور درحقیقت قول اول ہی میں یہ سب چیزیں داخل ہو جاتی ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ سے تخلیہ عن الرذائل اور وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا سے تخلیہ بالفصائل والنواضل مراد ہے جب اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کو اہل البیت یعنی اہل بیت النبی ﷺ کا لقب دے دیا اور انہیں معصیتوں سے اور گندگیوں سے پاک کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس کے بعد کوئی گمراہ اور منکر قرآن ہی ازواج مطہرات کے خلاف کوئی بات لکھ سکتا ہے اور جہالت کی زبان سے کوئی نازیبا کلمہ نکال سکتا ہے۔

روافض جن کو (اپنے ایمان کی فکر نہیں اور) حضرات صحابہؓ سے اور ازواجِ مطہرات رضی اللہ عنہن اجمعین سے دشمنی ہے انہیں ان حضرات کی دشمنی میں قرآن کو جھٹلانے اور قرآنی تصریحات کو رد کرنے سے کوئی چیز مانع نہیں ہوتی، یہ لوگ کہتے ہیں کہ تین چار کے علاوہ سب صحابہ کافر تھے اور (حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ) رسول اللہ ﷺ کی سب بیویاں کافرہ تھیں (العیاذ باللہ نقل کفر کفر نہ باشد) یہ قرآنی آیات کے منکر ہیں، پھر بھی ان لوگوں سے ناراض ہوئے جو انہیں خارج عن الاسلام سمجھتے اور جانتے ہیں اور امت مسلمہ کو ان کے عقائد کفریہ سے باخبر کرتے ہیں۔

روافض کہتے ہیں کہ اَهْلُ الْبَيْت سے رسول اللہ ﷺ کے اہل قربت یعنی حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرات حسین رضی اللہ عنہم مراد ہیں۔ ہمیں تو ان حضرات سے بھی محبت ہے اور ہمارے نزدیک یہ حضرات بھی رسول اللہ ﷺ کے اہل بیت ہیں البتہ قرآن مجید کے سیاق اور سباق سے یہ بالکل واضح ہے کہ یہاں اہل بیت سے حضرات ازواجِ مطہرات ہی مراد ہیں اور اس کا انکار کرنا زبردستی آنکھیں بند کرنے اور اندھا بننے کے مترادف ہے۔

روافض کو اپنی بات آگے بڑھانے کے لئے کچھ نہ ملتا تو جالوں کو سمجھانے کے لئے یہ نکتہ نکالا کہ آیت شریفہ میں ضمیر جمع مذکر غنکم اور وَيُطَهِّرْكُمْ لائی گئی ہے اگر ازواجِ مطہرات مراد ہوتیں تو غنکن اور وَيُطَهِّرْكُمْ ہوتا۔ ڈوبنے والے کو جب کچھ نہیں ملتا تو تنکے ہی کا سہارے لیتا ہے ان لوگوں کو چونکہ ازواجِ مطہرات سے بغض ہے اور قرآن کے خلاف سوچنے ہی کو ہنر سمجھتے ہیں اس لئے انہوں نے قرآن مجید کی دوسری آیات کی طرف ذہن لے جانا مناسب نہ جانا حالانکہ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مدین سے واپس ہونے کا قصہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ قَالَ لَا هِلَالٌ اَمْكُنُوا اِنِّي اَسْتَشْتِ نَارًا اس میں اَمْكُنُوا صیغہ میں جمع مذکر حاضر ہے اور خطاب بیوی کو ہے۔ اور سورہ ہود میں ہے کہ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سے خطاب کرتے ہوئے کہا: اَتَعْجَبِينَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ اَهْلُ الْبَيْتِ اس میں صرف ایک عورت کو لفظ غنکم کے ساتھ خطاب فرمایا ہے جو جمع مذکر کی ضمیر ہے اور اسی عورت کو اہل بیت کے معزز لقب سے بھی نوازا ہے۔ معلوم ہوا کہ عورت کو کبھی کبھی مذکر کے صیغہ سے بھی خطاب کیا جاتا ہے اور یہ بھی بالتصریح معلوم ہوا کہ بیوی اہل بیت میں بھی شامل ہے، پھر ازواجِ مطہرات کے پاکیزہ ہونے کا ذکر سورہ نور میں بھی ہے وہاں ارشاد فرمایا ہے: وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ حسب تصریح سورہ نور رسول اللہ ﷺ کی ازواجِ مطہرات تھیں اور آپ ﷺ خود طیب تھے آپ ﷺ کی ازواج بھی طیبات تھیں۔ روافض نے صرف غنکم اور وَيُطَهِّرْكُمْ کی ضمیر جمع مذکر دیکھا اور انہیں یہ نظر نہ آیا کہ اس کے بعد پھر جمع مؤنث کا صیغہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰی آ رہا ہے اور یہ جملہ ماقبل پر معطوف ہے اور جو حضرات اس کے مخاطب ہیں وہی اس سے پہلے آیت میں بھی مخاطب ہیں۔ قال الحافظ ابن کثیر ج ۳

ص ۳۸۶ ثم الذی لا شک فیہ من تدبیر القرآن ان نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم داخلات فی قوله: اِنَّمَا يُرِیدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلُ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرْكُمْ تَطْهِيرًا فان سیاق الکلام معہن ولہذا قال تعالیٰ بعد ہذا کلمہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰی فی یُؤْتِکُنَّ مِنَ الْاٰیَاتِ وَالْحِکْمَةِ۔ (حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں قرآن میں غورو فکر رکھنے والے کو اس بات سے کوئی شک نہیں ہو سکتا کہ حضور ﷺ کی ازواجِ مطہرات اِنَّمَا يُرِیدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ میں داخل ہیں۔ چنانچہ سیاق کلام کا تعلق ازواجِ مطہرات کے متعلق ہے اسی وجہ سے اس سب کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا

کہ تمہارے گھروں اللہ تعالیٰ کی آیات اور حکمت کی جو تلاوت ہوتی ہے اسے تم یاد رکھو)

سورة احزاب والی آیت تطہیر کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے تھے نزلت فی نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاصۃ۔ اور حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا من شاء باہلته انہا نزلت فی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص چاہے میں اس سے مبالغہ کر سکتا ہوں کہ یہ آیت نبی کریم ﷺ کی ازواج کے بارے میں نازل ہوئی، حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ بازار میں پکار پکار کر یہ فرماتے تھے آیت کریمہ اَنَسَا يُرْسِلُ اللہُ رَسُوْلَ اللہِ ﷺ کی ازواج کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ بھی یہی فرماتے تھے کہ آیت شریفہ میں ازواج مطہرات ہی مراد ہے۔ (روح المعانی ج ۲۱ ص ۱۴۰)

البتہ یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ سنن ترمذی میں حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت نقل ہے کہ جب آیت کریمہ اَنَسَا يُرْسِلُ اللہُ رَسُوْلَ اللہِ ﷺ عَنکُمْ الرُّجُسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرُکُمْ تَطْهِیْرًا نازل ہوئی اس وقت آپ اُمّ المؤمنین حضرت ام سلمہ کے گھر میں تشریف فرما تھے آپ نے فاطمہ اور حضرات حسنین رضی اللہ عنہم کو بلایا اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے آپ ﷺ نے ان سب کو اپنی چادر اوڑھادی اور بارگاہ الہی میں عرض کیا اَللّٰهُمَّ هِنَا وَلَآءُ اَهْلِ بَيْتِیْ فَادْهَبِ الرُّجُسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِیْرًا۔ (اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں ان سے رجس کو یعنی گندگی کو دور فرما دے) حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا نبی اللہ میں بھی ان میں سے ہوں آپ نے فرمایا انت علی مکانک وانت علی خیر کہ تم اپنی جگہ پر ہو اور خیر پر ہو۔

اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو (جو ازواج مطہرات میں سے تھیں) آپ ﷺ نے اہل بیت میں شامل نہیں فرمایا، لیکن ہر مسلمان کے لئے یہ ضروری ہے کہ تمام آیات اور احادیث کو سامنے رکھ کر چلے اور کسی حدیث کا ایسا مفہوم مراد نہ لے جو کسی بھی آیت سے معارض ہو یا اس سے کسی بھی آیت کا انکار لازم آتا ہو۔ روافض تو قرآن کریم میں تحریف کے قائل ہیں انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ کسی آیت کے خلاف کیا کہہ دیا اور کیا عقیدہ بنالیا، مسلمان تو ایسا نہیں کر سکتے کہ کسی آیت کے مضمون کو رد کر دیں اس لئے اکابر علماء اور محققین مفسرین نے یہی فرمایا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں شامل ہیں جس کی تصریح آیت بالا میں مذکور ہے اور جن حضرات کو آپ ﷺ نے چادر اوڑھا کر فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں وہ بھی آپ ﷺ کے اہل بیت ہیں۔ بعض روایات میں یوں بھی ہے کہ جب حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ مجھے بھی چادر میں داخل فرما لیجئے تو آپ ﷺ نے فرمایا اَنْتِ مِنْ اَهْلِیْ (تم بھی میرے اہل میں سے ہو) اور ایک روایت میں ہے فقلت وانا یا رسول اللہ؟ فقال صلی اللہ علیہ وسلم وانت۔ (ابن کثیر ج ۳ ص ۳۸۴، ۳۸۵) (تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں؟ تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا اور تم بھی اہل بیت میں ہو) اس سے معلوم ہو کہ چادر اوڑھانے کا واقعہ ایک سے زیادہ مرتبہ پیش آیا، بعض مرتبہ انک علی خیر فرمایا اور بعض مرتبہ انت من اہلی فرمایا اور بعض مرتبہ صرف وانت فرمایا۔

رسول اللہ ﷺ نے بعض ایسے افراد کو بھی اہل بیت میں شمار فرمایا جن سے کوئی نسب یا ازدواجی رشتہ نہ تھا چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ سلمان منا اهل البيت۔ اور حضرت واثلہ بن اشعث کے بارے میں

ا ذکرہ صاحب الروح عن ابن عباس وعن قتادہ قل فمسررت بصاحبه صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ (ج ۲ ص ۲۴۰) (یہ روایت روح المعانی کے مصنف نے حضرت عبداللہ بن عباس سے اور حضرت قتادہ سے نقل کی ہے حضرت قتادہ نے فرمایا میں نے اہل البیت کی یہ تفسیر حضور ﷺ کے ارشادات کی روشنی میں کی ہے)

بھی ایسا فرمایا ہے بس جب یہ حضرات اہل بیت میں شمار ہو سکتے ہیں تو آپ ﷺ کے ہمراہ گھروں میں ساتھ رہنے والی بیویاں کیونکر اہل بیت میں شامل نہ ہوں گی؟

صاحب بیان القرآن لکھتے ہیں: اس میں محقق بات یہ بھی ہے کہ آیت اور حدیث میں اہل بیت کا مفہوم متحد نہیں بلکہ حدیث میں عمرت مراد ہے اور آیت میں یا تو عام مراد ہے جس کی ایک نوع تو آیت ہی کی مدلول ہے اور دوسری نوع کا مدلول ہونا آپ ﷺ نے اپنے فعل سے ظاہر فرمادیا اور حضرت ام سلمہؓ کا (چادر میں) داخل نہ کرنا اس لئے ہوگا کہ تمہارا تو مدلول آیت ہونا ظاہر ہی ہے جن کا خفیٰ ہے ان کو ظاہر کرتا ہوں پھر تم کو اس کا اہتمام کیا ضرور اور خیر سے بھی مدلولیت مراد ہو گی۔ قال صاحب الروح (ج ۲۲ ص ۱۵) وما اجاب به ام سلمة وعدم ادخالها في بعض المرات تحت الكساء ليس لانها ليست من اهل البيت اصلاً بل لظهور انها منهم حيث كانت من الازواج اللاتي يقتضى سياق الآية وسباقها دخولهن فيهم بخلاف من ادخلوا تحته رضى الله تعالى عنهم فانه عليه الصلوة والسلام لولم يدخلهم ويقل ما قال لروهم عدم دخولهم في الآية لعدم اقتضاء سياقها وسباقها ذلك. (تفسير روح المعاني) والے فرماتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو جواب دیا گیا اور بعض دفعہ چادر کے تحت ان کو داخل نہ کرنا اس لئے نہیں تھا کہ وہ اہل بیت میں ہیں ہی نہیں بلکہ یہ تو اس بات کو ظاہر کرنے کے لئے تھا کہ حضرت ام سلمہ تو ازواج میں سے ہیں جن کا اہل بیت میں داخل ہونا آیت کے سیاق سے ثابت ہے بخلاف ان حضرات کے جنہیں چادر کے تحت داخل کیا گیا کہ اگر حضور ﷺ چادر کے تحت ان کو لا کر اور ان کے بارے میں اہل بیت کا لفظ نہ فرماتے تو اہل بیت میں سے ان کے نہ ہونے کا خیال ہوتا کیونکہ آیات کا سیاق سباق ان کے اہل بیت میں سے ہونے کا تقاضا نہیں کرتا

آخر میں فرمایا: وَاذْكُرْ لَنَا تِلْكَ الْيَوْمَ الَّذِي كُنَّا فِيهِ نُبْكِي مِنْ اَيْتِ الْاَنْبِيَاءِ آیات اللہ سے قرآن حکیم اور حکمت سے رسول اللہ ﷺ کی تعلیمات اور سنتیں مراد ہیں جیسا کہ بعض مفسرین نے تفسیر کی ہے اور واذکرون کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ ان چیزوں کو خود یاد رکھنا جن پر عمل کرنا ہے دوسرے یہ کہ جو کچھ قرآن ان کے گھروں میں ان کے سامنے نازل ہوا جو تعلیمات رسول اللہ ﷺ نے ان کو دیں اس کا ذکر امت کے دوسرے لوگوں سے کریں اور ان کو پہنچائیں۔

جس طرح قرآن حکیم کی تعلیم اور تدريس لازم ہے اسی طرح رسول اللہ ﷺ کے اقوال اور اعمال کی تحدیث اور تبلیغ بھی ضروری ہے کیونکہ قرآن مجید کے مجمل احکام کی رسول اللہ ﷺ کی احادیث سے تشریح اور توضیح ہوتی ہے۔ اگر احادیث شریفہ کو سامنے نہ رکھا جائے تو پانچوں نمازوں کے اوقات اور زکوٰۃ کی مقدار اور نصاب معلوم نہیں ہو سکتے اور حدیث نبوی پر عمل کئے بغیر قرآن کریم پر عمل پیرا نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ ﷺ کی ازواج کی کثرت میں جہاں دوسری حکمتیں ہیں وہاں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ حضرات ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن وارضاهن کے ذریعہ ان احکام شریعہ کی تبلیغ ہوئی جو گھر میں رہتے ہوئے صادر ہوتے تھے اور خاص کر وہ احکام جن کا تعلق ازواجی امور سے تھا۔

إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا یعنی اللہ تعالیٰ مہربان ہے تمہیں یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ اپنے بنی کریم ﷺ کی زوجیت کا شرف بخشا اور ان گھروں میں تمہیں نصیب فرمایا جن میں اللہ کی کتاب پڑھی جاتی ہے اور وہ ہر چیز سے باخبر بھی ہے تم جو خیر کے کام کرو گی اللہ تعالیٰ کو ان سب کا علم ہے اور وہ اجر و ثواب سے نوازے گا۔

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالْقَنَاتِ

بلاشبہ مسلم مرد اور مسلم عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور فرمانبرداری کرنے والے مرد اور فرمانبرداری کرنے والی عورتیں

وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ

اور استباز مرد اور استباز عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں اور صدقہ دینے والے مرد

وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّابِقِينَ وَالصَّابِقَاتِ وَالْحَفَظِينَ وَالْحَفَظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ

اور صدقہ دینے والی عورتیں اور روز سے کھنے والے مرد اور روز سے کھنے والی عورتیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ کو

كثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢١٣﴾

بکثرت یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں ان کے لئے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے

## مومن مردوں اور عورتوں کی صفات اور ان کے لئے اجر عظیم کا وعدہ

**تفسیر:** مفسر ابن کثیر نے (جلد ۳ ص ۴۸۷) کتب حدیث سے متعدد روایات نقل کی ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ آیت بالا حضرت ام سلمیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سوال پر نازل ہوئی انہوں نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ! قرآن مجید میں مردوں کا ذکر تو آتا ہے عورتوں کا ذکر نہیں آتا (یعنی جو احکام ہیں وہ مردوں کے خطاب کے ذیل میں بیان کئے جاتے ہیں عورتوں سے علیحدہ خطاب یا مؤنث کے صیغے نہیں لائے جاتے) اس پر اللہ تعالیٰ شانہ نے آیت کریمہ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ آخر تک نازل فرمائی۔ اور تائید کے صیغے لا کر ان کی بھی دلدادگی فرمادی۔

مذکورہ آیت میں مسلمان مرد اور عورتوں کی صفات بتائی ہیں جن میں یہ بتایا کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ان صفات سے متصف ہونا چاہئے اور آیت کے ختم پر مؤمنین و مؤمنات کے لئے اجر عظیم کا وعدہ فرمایا۔

مسلمین اور مسلمات سے احکام پر اعضاء و جوارح سے عمل پیرا ہونا مراد ہے اور مؤمنین و مؤمنات سے دل سے صاحب ایمان ہونا اور اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے جو کچھ بتایا اور فرمایا دل سے اس کی تصدیق کرنا اور ماننا مراد ہے اور گو فرمانبرداری میں وہ صفات بھی داخل ہیں جو آئندہ بیان فرمائیں تاہم ان کو مستقل بھی مہتمم بالشان ہونے کی وجہ سے ذکر فرمادیا۔ اسلام اور ایمان بیان کرنے کے بعد جو دوسری صفات بیان فرمائیں ان میں سے اَوَّلًا وَالْقَنَاتِ وَالْقَنَاتِ فرمایا یہ لفظ قَنَات سے لیا گیا ہے۔ صاحب روح المعانی نے ان دونوں لفظوں کا مطلب بتاتے ہوئے لکھا ہے کہ المداومین علی الطاعات والقائمین بہا کہ یہ لوگ پابندی کے ساتھ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل میں لگے رہتے ہیں۔ اس کے بعد وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ فرمایا یعنی یہ حضرات قول و عمل میں سچائی اختیار کرنے والے ہیں۔ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ اور طاعات کی ادائیگی میں مصائب کے آنے پر صبر اختیار کرنے والے ہیں۔ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ اور یہ حضرات خشوع اختیار کرنے والے ہیں، خشوع قلب کی جھکاؤ کو کہا جاتا ہے اگر مطلق خشوع مراد لیا جائے تو خشوع فی العبادات

خشوع فی الاعمال اور خشوع فی المعاملات سب کو شامل ہوگا اور مطلب یہ ہوگا کہ یہ لوگ تکبر نہیں کرتے، قلب و جوارح کو عناد سے اور ہر ایسی چیز سے پاک اور صاف رکھتے ہیں جس میں کبر اور نخوت والی چیز ہو۔ خشوع فی الصلوة کی فضیلت کے لئے آیت کریمہ وَاللّٰهُ الْكَبِيْرُ لَا اَعْلٰی الْخَشِيعِيْنَ (سورة بقرہ) اور آیت قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ (شروع پارہ ۱۸) کی مراجعت کر لی جائے۔

وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُصَدِّقَاتِ اور یہ حضرات صدقہ کرنے والے ہیں اس میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے، ضعیف اور مسکینوں کی حاجات پوری کرنے، فرض زکوٰۃ اور واجب اور نفل صدقات کے اموال مستحقین کو دینے کی فضیلت آ جاتی ہے۔ وَالصَّائِمِيْنَ وَالصَّائِمَاتِ یعنی یہ حضرات روزہ رکھنے والے ہیں۔ اس میں روزے رکھنے کا اہتمام کرنے کی فضیلت بتائی ہے۔ الفاظ کے عموم میں فرض اور نفل روزے سب ہی داخل ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے جن پانچ چیزوں پر اسلام کی بنیاد بتائی ہیں اس میں رمضان شریف کے روزے رکھنا بھی ہے۔ سورة بقرہ میں رمضان کے روزوں کی فرضیت بتا کر فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا اَفْهُوَ خَيْرٌ فرمادیا ہے جس میں نفل روزوں کی ترغیب بھی دے دی ہے روزے رکھنے سے نفس کے تقاضوں پر زبرد پڑتی ہے اور صفت تقویٰ پیدا ہوتی ہے، نفس کا ابھار کم ہو جاتا ہے اور شہوات اور لذات کی اُمگ کم ہو جاتی ہے۔ وَالْحَافِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ (اور اپنی شرمگاہوں کی جگہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں) اس میں شرم کی جگہوں کو حرام جگہ استعمال کرنے سے منع فرمایا، انسان سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں ان میں سب سے زیادہ گناہ کا باعث دو چیزیں ہوتی ایک منہ دوسرے شرمگاہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے صحابہؓ سے دریافت فرمایا کہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ دوزخ میں لے جانے کا ذریعہ ہے، پھر خود ہی جواب میں فرمایا اَلْفَمُ وَالْفَرْجُ یعنی منہ اور شرم کی جگہ۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۱۲) اور حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو مجھے اس کی ضمانت دے کہ وہ مجھے اپنے جبرؤں کے درمیان کی چیز اور اپنی دونوں رانوں کے درمیان کی چیز کی حفاظت کرے گا میں اس کے لئے جنت کا ضامن بننا ہوں۔ (رواہ البخاری)

سورة المعارج میں نیک لوگوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ اِلَّا عَلٰی

اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِذَا هُمْ بِغَيْرِ مٰلُوْمِيْنَ (اور جو لوگ اپنے شرم کی جگہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور باندیوں کے، کیونکہ بیویوں اور باندیوں کے بارے میں ان پر ملامت نہیں ہے)

وَالَّذِيْنَ اَللّٰهُ كَثِيْرًا اَلَّذِيْنَ (اور جو اللہ کا ذکر زیادہ کرنے والے مرد ہیں اور جو زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں ہیں) اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے نماز جو اسلام کا سب سے بڑا عمل ہے وہ خود ذکر ہے۔ سورة طہٰ میں فرمایا کہ اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ (نماز کو میری یاد کے لئے قائم کرو) اور سورة عنکبوت میں فرمایا ہے وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ (اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے)۔ قرآن مجید میں کثرت ذکر کا حکم دیا ہے جیسا کہ چند صفحات کے بعد انشاء اللہ تعالیٰ آیت کریمہ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا میں فرمایا ہے اور سورہ جمعہ میں ارشاد ہے وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ۔ (اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تا کہ تم کامیاب ہو جاؤ)

حدیث شریف میں بھی ذکر اللہ میں کثرت کے ساتھ مشغول ہونے کی ترغیب دی گئی ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی



اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا گیا کہ بندوں میں سب سے زیادہ کون افضل ہیں اور قیامت کے دن اللہ کے نزدیک کون سب سے زیادہ بلند درجہ والا ہوگا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: الَّذِیْکَرِیْنِ اللّٰهُ کَثِیْرًا وَالدُّنْیَا کَثِیْرًا کہ یہ فضیلت اور مرتبہ ان لوگوں کو حاصل ہے جو (مرد و عورت) اللہ کو زیادہ یاد کرنے والے ہیں، کسی نے عرض کیا کیا یہ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں سے بھی افضل ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ جہاد کرنے والا اگر کافروں اور مشرکوں میں اتنی کثرت کے ساتھ اپنی تلوار مارے کہ تلوار ٹوٹ جائے اور خود یہ شخص خون میں رنگ جائے تب بھی اللہ کا ذکر کرنے والا ہی درجہ کے اعتبار سے افضل رہے گا (مشکوٰۃ المصابیح ص ۱۹۸)

حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! اسلام کے کام تو بہت ہیں مجھے کوئی ایسی چیز بتادیجئے میں جس میں لگا رہوں آپ نے فرمایا لَا یَزَالُ لِسَانُکَ رَطْبًا مِّنْ ذِکْرِ اللّٰهِ (تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے)۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۱۹۸)

مومن بندوں کو چاہئے کہ ہر وقت اللہ کی یاد میں لگے رہیں، فضول باتوں اور فضول کاموں سے بچیں ذکر و تلاوت کی کثرت کو اپنے درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ بنائیں، تلاوت قرآن مجید، تسبیح و تہلیل، تکبیر و تہمید اور درود شریف میں لگے رہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں یوں کہوں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو یہ مجھے ان سب چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر آفتاب طلوع ہوا۔ (صحیح مسلم جلد ۲ ص ۳۲۵)

ذکر کے فضائل ہم آیت کریمہ فَاذْكُرُونِیْ اَذْکُرْکُمْ اور دوسری آیت کریمہ لَیْسَ الصَّلَاةُ تَنْفَعُ عَنِ النَّفْسِ وَالْمَنَکَرِ وَلَیْکُمْ اللّٰهُ الْکَبِیْرُ کے ذیل میں ذکر کر آئے ہیں۔ (انوار البیان ج ۱ ص ۷۷۲)

زندگی کے مختلف احوال و اعمال کے وقت کی جو دعائیں مشروع کی گئی ہیں حسب مواقع انہیں پڑھتے رہا کریں تو کثرت ذکر کی نعمت بآسانی سے حاصل ہو سکتی ہے اللہ کا ذکر تمام عبادات میں سب سے زیادہ سہل ہے لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے وضو بے وضو تلاوت کر، تسبیح پڑھو، درود شریف پڑھو سب درست ہے البتہ قرآن مجید کو بے وضو چھو نہیں سکتے اور حالیہ جنابت میں پڑھ بھی نہیں سکتے ایسا سستا اور آسان شغل تو کبھی کسی حالت میں نہیں چھوڑنا چاہئے جو لوگ کاروبار سے فارغ ہو چکے ہیں ملازمتوں سے ریٹائر ہو چکے ہیں وہ اپنی زندگیوں کو فضول باتوں میں لگا کر برباد نہ کریں ہر لمحہ کی قدر کریں اور ہر وقت اللہ کے ذکر میں لگے رہیں۔

اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَّاٰخِرَ اَعْظِمَیْمًا۔ ان مردوں اور عورتوں کے لئے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے پس مومنین اور مومنات کا یہی شغل ہونا چاہئے کہ مذکورہ بالا کاموں میں لگے رہیں۔

**وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضٰی اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَمْرًا اَنْ یَّکُوْنَ لَهُمُ الْخِیْرَةُ**

اور کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لئے اس کی گنجائش نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا حکم دے دیں تو انہیں اپنے

مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ۖ وَإِذْ تَقُولُ

کام میں اختیار باقی رہے اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے سو وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا۔ اور جب آپ اس شخص سے فرما رہے تھے

لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي

جس پر اللہ نے انعام کیا اور آپ نے انعام کیا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس روکے رکھو اور اللہ سے ڈرو اور آپ اپنے دل میں

فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ۖ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا

اس چیز کو چھپا رہے تھے جسے اللہ تعالیٰ ظاہر فرمانے والا تھا اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے اور آپ کو یہ سزاوار ہے کہ اللہ سے ڈریں

وَطَرًا زَوْجِنَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا

پھر جب زید اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا تو ہم نے اس عورت کا آپ سے نکاح کر دیا تاکہ مسلمانوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں

مِنْهُمْ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ۗ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ

کوئی تنگی نہ رہے جب وہ ان سے حاجت پوری کر چکیں اور اللہ کا حکم پورا ہونے ہی والا تھا۔ نبی پر اس بارے میں کوئی تنگی نہیں ہے جو اللہ

لَهُ سُنَّةٌ اللَّهُ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا ۖ وَالَّذِينَ

نے ان کے لئے مقرر فرمادیا جو لوگ اس سے پہلے گزرے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے یہی معمول رکھا ہے اور اللہ کا حکم مقرر کیا ہوا ہے۔

يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ ۖ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ۝

جو اللہ کے پیغاموں کو پہنچاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے اور اللہ کافی ہے حساب لینے والا۔

اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول ﷺ کا حکم ہو جائے

تو اُس پر عمل کرنا لازم ہے خلاف ورزی کرنا جائز نہیں

**تفسیر:** عرب میں یہ دستور تھا کہ دوسروں کی اولاد کو بیٹا بنالیا کرتے تھے اور جو شخص بیٹا بناتا تھا اسی کی طرف نسبت کر کے اُنسنِ فلان کہتے تھے اور ایک رواج یہ بھی تھا کہ لوگ چلتے پھرتے کسی بچہ کو لے کر کسی ایسے شہر میں لے جاتے جہاں کوئی بیچا منانہ ہوتا وہاں اسے اپنا غلام بنا کر بیچ دیتے تھے۔

زید بن حارثہ کا تعارف زید بن حارثہ اپنی والدہ کے ساتھ ننھیال جا رہے تھے کہ کچھ لوگوں نے ان پر قبضہ کر لیا جبکہ ان کی عمر آٹھ سال تھی، پھر انہیں مکہ معظمہ لے آئے اور سوق بنی عکاظ میں (جو مکہ معظمہ کے قریب ایک بازار لگتا تھا) میں اپنا غلام بنا کر فروخت کر دیا، حکیم بن حزام بن غویلد نے اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لئے چار

سورہم میں خرید لیا جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ ﷺ سے نکاح کر لیا تو زید بن حارثہ کو آپ ﷺ کی خدمت میں پیش کر دیا اور آپ کو بہہ کر دیا رسول اللہ ﷺ انہیں اپنا بیٹا بنا لیا اور انہیں زید بن محمد ﷺ کے نام سے بلایا جانے لگا۔ حضرت زید بن حارثہ کے والد کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے کو فلاں قوم کے لوگوں نے مکہ معظمہ میں لے جا کر بیچ دیا ہے اور وہ وہاں موجود ہے تو وہ حضرت زید کو چھڑانے کے لئے مکہ معظمہ آئے اور رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ آپ اس کے عوض اتنا اتنا مال لے لیں اور اسے چھوڑ دیں تاکہ ہم اسے اپنے ساتھ لے جائیں آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگر وہ تمہارے ساتھ جانا گوارہ کرے تو مفت میں ہی لے جاؤ ہمیں کوئی پیسہ دینے کی ضرورت نہیں زید کے والد نے کہا: لقد زدنا علی النصف، یہ بات تو آپ نے انصاف سے بھی آگے بڑھ کر فرمادی آپ ﷺ کو رواج کے مطابق نہ چھوڑنے کا بھی حق تھا اور پیسے لے کر چھوڑ دینا آپ کا کرم تھا لیکن جب آپ ﷺ نے یہ فرما دیا کہ مفت میں ہی لے جاؤ تو یہ تو کرم بالائے کرم اور احسان پر احسان ہے رسول اللہ ﷺ نے حضرت زید سے فرمایا کہ جانتے ہو یہ کون ہیں؟ عرض کیا کہ یہ میرے والد ہیں اور یہ میرے چچا ہیں آپ نے فرمایا تم مجھے بھی جانتے ہو اور انہیں بھی پہچانتے ہو میری صحبت بھی اٹھا چکے ہو اب تمہیں اختیار ہے کہ چاہو تو میرے پاس رہو چاہو تو اپنے گھر چلے جاؤ اس پر انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے پاس رہنے کو ترجیح دی اور اپنے باپ کے ساتھ جانا گوارہ نہ کیا رسول اللہ ﷺ کے اخلاقی عالیہ حسن سلوک اور شفقت و محبت کے سامنے انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ جانا اور کنبہ و قبیلہ میں رہنا منظور نہ کیا اور عرض کیا کہ آپ میرے لئے باپ اور چچا کی جگہ ہیں باپ اور چچا نے کہا کہ اے زید افسوس کی بات ہے کہ تم نے آزادی کے مقابلہ میں غلامی کو پسند کیا اور اپنے باپ اور چچا اور سب گھر والوں پر کسی دوسرے شخص کو ترجیح دیتے ہو حضرت زید نے کہا کہ ہاں میں نے ان میں ایسی صفات دیکھی ہیں کہ ان کو جانتے ہوئے کسی دوسرے کو ترجیح نہیں دے سکتا۔

یہ پورا واقعہ رسول اللہ ﷺ کے نبوت سے سرفراز کئے جانے سے پہلے کا ہے جب رسول اللہ ﷺ کو نبوت عطا کی گئی تو جن حضرات نے قبول اسلام کی طرف سہقت کی ان میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بھی تھے ایک اور قول کے مطابق مردوں میں سے وہ سب سے پہلے فرد تھے جنہوں نے قبول اسلام کی طرف سہقت کی۔

رسول اللہ ﷺ نے اپنی باندی بڑہ کہ حبشیہ سے ان کا نکاح کر دیا تھا جن کی کنیت ام ایمن تھی یہ آپ ﷺ کو اپنے والد ماجد کی میراث میں (اور ایک قول کے مطابق والدہ کی میراث میں) ملی تھیں اور یہی وہ خاتون ہیں جو آپ کی والدہ ماجدہ کی وفات کے بعد مقام ابوہ سے آپ کو چھوٹی سی عمر میں مکہ معظمہ لے کر آئی تھیں حضرت ام ایمنؓ سے حضرت اسامہ بن زید پیدا ہوتے جنہیں حب رسول اللہ (رسول اللہ ﷺ کا پیارا) کہا جاتا تھا۔

ایک عرصہ تک حضرت زیدؓ کو زید بن محمد ﷺ ہی کہا جاتا رہا پھر جب قرآن مجید کی آیت اذْغَوْهُمْ لَذَنُوبِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ نَازِل ہوئی (جو کہ اسی سورت کے پہلے رکوع کی آیات میں سے ہے) تو زید بن حارثہ کہا جانے لگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو منہ بولے بیٹے ہیں ان کی نسبت ان کے باپوں کی طرف کرو۔

زید بن حارثہ سے زینب بنت جحش کا نکاح اور طلاق: پھر آپ ﷺ نے زید بن حارثہ کا نکاح اپنے چھوٹی سی بیٹی زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے ساتھ کر دیا تھا حضرت زینبؓ نے آپ ﷺ کے فرمانے پر اس نکاح کو

قبول تو کر لیا تھا لیکن باہمی مزاج میں موافقت نہ ہوئی، حضرت زیدؓ چاہتے تھے کہ ان کو طلاق دے دیں لیکن رسول اللہ ﷺ انہیں اس سے باز رکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں روکے رکھو لیکن انہوں نے طلاق دے ہی دی جب انہوں نے طلاق دے دی تو اللہ تعالیٰ نے زینب بنت جحشؓ کا نکاح رسول اللہ ﷺ کے ساتھ کر دیا۔ یہاں اسی کو فرمایا: فَلَمَّا أَقْضَىٰ زَيْنُّبُهَا وَهَرَاكَ زَوْجُكَ لَهَا (جب زید نے ان سے اپنے حاجت پوری کر لی تو ہم نے اس سے آپ کا نکاح کر دیا) جب یہ آیت نازل ہو گئی تو آپ بلا اذن و اجازت حضرت زینبؓ کے پاس تشریف لے گئے اس سے پہلے بھی (زید کی طلاق کی عدت گزرنے کے بعد) آپ نے حضرت زیدؓ کی کو اپنا پیغام دے کر بھیجا تھا لیکن حضرت زینبؓ نے جواب میں یوں کہہ دیا تھا کہ میں استخارہ کر کے جواب دوں گی۔ اللہ نے آپ ﷺ سے حضرت زینبؓ کا نکاح کر دیا اس پر وہ بھی فخر کیا کرتی تھیں اور دوسری ازواج مطہرات سے کہا کرتی تھیں کہ تمہارے نکاح تمہارے اولیاء نے کئے اور میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔

اس ساری تفصیل کو سامنے رکھ کر آیات بالا کی تفسیر سمجھئے پہلے آیت کریمہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ کا ترجمہ دیکھ لیجئے جو اوپر مذکور ہوا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ زید بن حارثہ کے نکاح کا پیغام لے کر حضرت زینب بنت جحشؓ کے پاس تشریف لے گئے انہوں نے عرض کیا کہ میں ان سے نکاح نہیں کروں گی آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم انکار نہ کرو ان سے نکاح کر لو کہنے لگیں کہ اچھا میں پھر اپنے نفس سے مشورہ کر لوں یعنی مجھے سوچ بچار کا موقع دیا جائے ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے آیت کریمہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ (آخر تک) نازل فرمادی اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے عرض کر دیا کہ میں اللہ کے رسول ﷺ کی نافرمانی نہ کروں گی میں نے زید سے اپنا نکاح کر دیا۔ مفسر ابن کثیرؒ نے اپنی تفسیر میں یہ سبب نزول لکھا ہے (جلد ۳ ص ۲۸۹) اور تفسیر روح المعانی میں ہے کہ جب آپ ﷺ نے زینب بنت جحشؓ کو زید بن حارثہ کے لئے پیغام دیا تو انہوں نے کہا کہ زید میرے میل کے نہیں میں مرتبہ کے اعتبار سے ان سے بہتر ہوں اور ان کے بھائی عبداللہ بن جحشؓ بھی یہی بات کہنے لگے (یہ انہوں نے اس لئے کہا کہ حضرت زیدؓ پر غلامی کا دھبہ لگ گیا تھا اور قریشی بھی نہ تھے) پھر جب آیت کریمہ نازل ہو گئی تو دونوں بہن بھائی راضی ہو گئے۔ (جلد ۲ ص ۲۳)

آیت شریفہ کا سبب نزول کو خاص ہے لیکن اس کا مفہوم عام ہے جیسا کہ دیگر آیات کے اسباب نزول کے بارے میں مفسرین یہی فرماتے ہیں۔ آیت کریمہ سے واضح طور پر معلوم ہو گیا کہ کسی بھی مومن مرد اور عورت کیلئے یہ گنجائش نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی حکم آ جائے تو اس کے کرنے نہ کرنے کا اختیار باقی رہے جو حکم مل جائے اس پر عمل کرنا ہی کرنا ہے اسلام سرپا فرما کر داری کا نام ہے یہ جو آجکل لوگوں کا طریقہ ہے کہ مسلمان کی دعویٰ اور بھی ہیں لیکن احکام شرعیہ پر عمل کرنے کو تیار نہیں یہ اہل ایمان کا طریقہ نہیں جب قرآن و حدیث کی کوئی بات سامنے آتی ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ آجکل اس پر عمل نہیں ہو سکتا (العیاذ باللہ) معاشرت اور معاملات اور زندگی کے دوسرے شعبوں میں قصد اور اوردہ قرآن و حدیث کے خلاف چلتے ہیں یہ سراسر بے دینی ہے جیسا کہ آیت کریمہ کے ختم پر فرمایا: وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَكَانَ عَلَىٰ صَلَاحٍ مُّبِينًا۔ (اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے سو وہ کھلی ہوئی گمراہی میں جا پڑا)

فرائض اور واجبات کو چھوڑنے کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے اور سنن و نوافل کی ادائیگی کی بھی حرص کرنا چاہئے جس کا فرمانبرداری کا مزاج نہیں ہوتا وہ پہلے سنتوں سے بچتا ہے پھر واجبات چھوٹنے لگتا ہے پھر فرائض کی ادائیگی کا اہتمام ختم ہو جاتا ہے حتیٰ کہ شیطان وسوسے ڈال کر ایمان سے بھی ہٹانے کی کوشش کرتا ہے خیریت اسی میں ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف سے حکم ملا ہے دل و جان سے قبول کرے نیم دروں نیم بروں مسلمان بھی ہیں اور نہیں بھی یہ گمراہی کا طریقہ ہے۔

زینب بنت جحش کا رسول اللہ ﷺ کے نکاح میں آنا: وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَانْتَعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ (اور اس وقت کو یاد کرو جب آپ اس شخص سے (بطور فہمائش اور مشورہ) فرما رہے تھے جس پر اللہ نے انعام کیا اور آپ نے بھی انعام کیا کہ تم اپنی بیوی کو روکے رکھو اور اللہ سے ڈرو) حضرت زید بن حارثہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ انعام فرمایا کہ انہیں اپنے رسول ﷺ کی خدمت میں پہنچایا غلامی سے چھڑایا اور اسلام کی توفیق دی اور آپ ﷺ نے ان پر یہ انعام فرمایا کہ محبتوں اور شفقتوں کے ساتھ اپنے پاس رکھا دین سکھایا اور اپنی پھوپھی زاد بہن سے نکاح کرایا

وَمُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ (اور آپ اپنے جی میں اس چیز کو چھپا رہے تھے جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا) وَمُخْشَى النَّاسِ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُخْشَى (اور آپ لوگوں سے اندیشہ کر رہے تھے اور اللہ سے ڈرنا ہی آپ کو زیادہ سزاوار ہے) وہ کیا چیز تھی جسے آپ اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے؟ بعض لوگوں نے تو اس کا یہ مطلب لیا ہے کہ آپ ﷺ ظاہر میں تو یہ فرما رہے تھے اور اندر سے دل میں یہ بات تھی کہ زید طلاق دے دے تو میں ان سے نکاح کر لوں گا۔ تفسیر جلالین میں بھی یہی بات لکھی ہے لیکن یہ بات شانِ نبوت کے خلاف ہے۔ قال القشیری هذا اقدام عظیم من قائلہ وتفريط بحق النبی صلی اللہ علیہ وسلم وبفصلہ (ذکرہ فی حاشیة الجلالین) (امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بات کہنے والے کی بہت بڑی جرأت ہے اور حضور ﷺ کے حق میں اور شان میں کوتاہی ہے)

مفسرین نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا تھا کہ زید طلاق دے دیں گے تو ہم زینب سے آپ کا نکاح کر دیں گے یہ بات آپ ﷺ کے ذہن میں تھی آپ اسے ظاہر کرنا نہیں چاہتے تھے اور زید سے فرما رہے تھے کہ تم اپنی بیوی کو اپنی زوجیت میں رکھو یہ معلوم ہوتے ہوئے کہ زید ضرور طلاق دے دیں گے اور زینب میرے نکاح میں آتی ہی ہے پھر بھی یہ مشورہ دینا کہ روکے رکھو اس پر اللہ تعالیٰ نے ہلکا سا عتاب فرمایا آپ نے تو اپنے نکاح میں آنے والی بات کو چھپایا لیکن اللہ تعالیٰ نے زَوَّجْنٰکَہَا نازل فرما کر زینب کو آپ کے نکاح میں دے ہی دیا۔ قال صاحب الروح (ج ۲۲ ص ۳۳) والمراد بالموصول علی ما اخرج الحکیم الترمذی وغیرہ عن علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ما اوحی اللہ تعالیٰ بہ الیہ ان زینب سیطلقہا زید ویتزوجہا بعدہ علیہ الصلوٰۃ والسلام الی هذا ذهب اهل التحقيق من المفسرين كالزهري وبكر بن العلاء والقشيري والقاضي ابی بكر بن العربي وغيرهم. (تفسیر روح المعانی والے لکھتے ہیں کہ یہاں حکیم ترمذی وغیرہ نے جو حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہما سے جو روایت کی ہے کہ یہاں اسم موصول سے مراد وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کی طرف وحی فرمائی تھی کہ عنقریب حضرت زید حضرت زینب کو طلاق دیدیں گے اور اس کے بعد ان سے آپ ﷺ کا نکاح ہوگا۔ محقق مفسرین اسی کی طرف گئے ہیں جیسا کہ زہری، بکر

بنی العلاء قشیری اور قاضی ابوبکر بن العربی وغیرہ)

متنبی کی سابقہ بیوی سے نکاح کرنے کا جواز: مفسرین نے ایک یہ بات بھی لکھی ہے کہ اہل عرب جسے بیٹا بنا لیتے تھے اُس کی بیوی سے نکاح کرنے کو (جبکہ وہ مر جائے یا طلاق دے دے) ایسے ہی حرام سمجھتے تھے جیسے اپنے حقیقی بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنے کو حرام جانتے تھے۔ آنحضرت ﷺ کو یہ خیال ہو رہا تھا کہ اگر میں نے زید کی مطلقہ بیوی سے نکاح کر لیا تو عرب کے جاہل اعتراض کریں گے اور یوں کہیں گے کہ دیکھو اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ فرمایا کہ اللہ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا اصلی بیٹا قرار نہیں دیا تو اب زید کی مطلقہ بیوی زینب سے نکاح کرنے میں کوئی باک نہیں ہونا چاہئے جب اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دے دیا تو جاہلوں کے اعتراض کا خیال کرنا اور ان کے طعن و تشنیع سے ڈرنا آپ ﷺ کے مقام رفیع کے خلاف تھا اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حلال قرار دیا ہے اُسے خوب واضح طریقہ پر حلال بتانا چاہئے عملاً بھی اور قولاً بھی تاکہ حکم شرعی پوری طرح واضح ہو جائے اور اہل ایمان کے دلوں میں اس کے حلال ہونے کے بارے میں کوئی شک و شبہ اور کوئی کسک باقی نہ رہے آپ کے دل میں جو لوگوں کے اعتراض کا خیال آیا اللہ تعالیٰ نے اس پر عتاب فرمایا اور ارشاد فرمایا: وَيَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يَخْشَاهُ (اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے اور آپ کو یہ سزاوار ہے کہ اللہ سے ڈریں)

فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا (پھر جب زید اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا تو ہم نے اُس عورت کا نکاح آپ سے کر دیا) حاجت پوری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ زینب کی طرف سے بالکل ہی دل بھر گیا اور انہیں نکاح میں رکھنے کی ذرا سی بھی خواہش نہیں رہی اور بالآخر علیحدگی کے تقاضے پر عمل کر ہی لیا اور طلاق دے دی۔ قال صاحب الزّوج فكَانَ قِيلَ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ حَاجَتَهُ مِنْ نِكَاحِهَا فَطَلَّقَهَا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلَمْ يَكُنْ فِي قَلْبِهِ مِيلٌ إِلَيْهَا وَلَا وَحْشَةٌ مِنْ فِرَاقِهَا۔

لَيْكُلَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَنْزَاكِهَا (تاکہ مسلمانوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیوی کے بارے میں کوئی تنگی نہ رہے جب وہ ان سے حاجت پوری کر چکیں) یعنی طلاق دے دیں اور عدت گزر جائے۔ اس میں یہ بتایا ہے کہ منہ بولے بیٹوں کے مطلقہ بیویوں سے نکاح جائز ہو جانا آپ ﷺ کے عمل سے بھی ظاہر ہو جائے اور آپ کی اُمت کے افراد اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے کے بارے میں ذرا بھی دل میں تنگی محسوس نہ کریں اگر مذکورہ مطلقہ یا بیوہ عورتوں سے نکاح کرنے کی رغبت ہو اور کوئی دوسرا مانع شرعی نہ ہو تو بلا تکلف ان سے نکاح کر لیا کریں۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا (اور اللہ کا حکم پورا ہونے والا ہی تھا) یعنی اللہ تعالیٰ نے تکوینی طور پر یہ طے فرمادیا تھا کہ زینب کو آپ ﷺ کے نکاح میں ضروری آنا ہے چنانچہ تکوینی طور پر جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا وہ پورا ہو کر ہی رہا اور اس میں جو شرعی حکم تھا اپنے نبی ﷺ کے عمل سے اس کے جواز کا فیصلہ کر دیا۔

سنن ترمذی میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ اگر رسول اللہ ﷺ وحی کا کچھ بھی حصہ چھپا سکتے تو آیت کریمہ وَاذْكُرُوا لِلَّهِ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ (آخر تک) کو ضروری چھپا لیتے (جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو مخاطب فرما کر وَيَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يَخْشَاهُ فرمایا ہے)

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فَمَا أَقْضَى اللَّهُ لَهُ (نبی پر اس بارے میں کوئی تنگی نہیں ہے جو اللہ نے ان کے لئے مقرر فرما دیا) یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لئے جو مقدور مقرر فرما دیا اور حلال قرار دے دیا اسکے بارے میں نبی پر کوئی الزام و مواخذہ نہیں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی الزام نہیں تو مخلوق کو اعتراض کرنے کا اور طعن و تشنیع کا کوئی حق نہیں۔

سُنَّةَ النَّبِيِّ الَّذِينَ خَلَقُوا مِنْ قَبْلُ (جو لوگ ان سے پہلے گذرے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا یہی طریقہ رکھا ہے) یعنی سابقین انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہی معاملہ رہا ہے کہ ان کے لئے بہت سی چیزوں کو حلال قرار دیا ان پر انہوں نے بے تکلف عمل کیا اور مخلوق کے طعن و تشنیع کا بالکل خیال نہ کیا، حضور خاتم النبیین ﷺ نے بھی اسی پر عمل کر لیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عورت آپ ﷺ کے لئے حلال تھی اُسے اپنے نکاح میں لے لیا۔ قال صاحب الروح: سنة الله اى سن الله تعالى ذلك سنة فهو مصدر منصوب بفعل مقدر من لفظه والجملة مؤكدة لما قبلها من نفسى الحرج فى الدين من قبل اى من قبلك من الانبياء عليهم الصلوة والسلام من حيث لم يحرج جل شانہ عليهم فى الاقدام على ما حللهم ووسع لهم فى باب النكاح وغيره۔ (جلد ۲۲ ص ۲۷)

وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا (اور اللہ کا حکم مقرر کیا ہوا ہے) یہ مضمون سابق کی تاکید ہے اور مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کوئی بات طے کر دی ہے کہ ایسا ہونا ہی ہوتا ہے اور فلاں حکم دینا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے تو اس کا جو بھی ضروری ہے اور شرعی اصول کے مطابق اس کی حلت اور جواز کو بھی ظاہر کرنا ہے پس ایسی صورت میں کسی کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ الَّذِينَ يُبْكَوْنَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يَمْشُونَ (جو اللہ کے پیغاموں کو پہنچاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں) وَلَا يَمْشُونَ لَحْوَ اللَّهِ (اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے) یہ الَّذِينَ خَلَقُوا مِنْ قَبْلُ کی صفت ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حکم مقدر اور مقرر فرما دیا ہے اس پر بغیر کسی جھجک کے عمل کر لیا یہ حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کا طریقہ رہا ہے ان حضرات کی شان یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے پیغاموں کی تبلیغ کرتے تھے اور صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے مخلوق کی کسی قسم کی کوئی ملامت انہیں تبلیغ حق سے نہیں روکتی تھی وہ قول سے بھی عمل کرتے تھے اور عمل کر کے بھی دکھاتے تھے۔ وَكُنْ لِلَّهِ حَنِينًا (اور اللہ کافی ہے حساب لینے والا) جو لوگ آپ پر طعن کر رہے ہیں آپ اُن کے طعن و تشنیع سے مغموں نہ ہوں اللہ تعالیٰ کو سب کے اعمال و اقوال کا علم ہے اور وہ حساب لینے کے لئے کافی ہے وہ جب حساب لے گا تو انہیں ان کے اعمال بد کی سزا دے گا۔

## فوائد ضروریہ

(۱) شریعت اسلامیہ میں کفایت کی بھی رعایت رکھی گئی ہے جس کا معنی برابر کی کا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اے علی تین چیزیں ایسی ہیں جب ان کا وقت آجائے تو ان میں تاخیر نہ کی جائے (۱) جب نماز کا وقت ہو جائے (۲) جب جنازہ حاضر ہو جائے (۳) جب تم بے نکاح عورت کے لئے اس کے برابر کا آدمی پالو۔ (رواہ الترمذی ص ۵۲) مطلب یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو اس کی ادائیگی میں تاخیر نہ کرو اور جب جنازہ حاضر ہو جائے تو نماز جنازہ ادا کر کے اُسے فوراً دفن کر دو اور جب کوئی عورت بے شوہر کی ہو (خواہ کنواری ہو خواہ مطلقہ ہو خواہ اس کا شوہر مر گیا ہو) جب اس کے میل کا آدمی مل جائے تو اُس مرد سے اس کا نکاح کر دو۔



اس سے معلوم ہوا کہ مرد عورت کی برابری اور باہمی میل کا دیکھنا بھی دینی اور شرعی بات ہے۔ یہ میل اور برابری نبیوں میں اور آزاد ہونے میں اور مسلمان ہونے میں اور دیندار ہونے میں اور پیشوں میں اور مال میں دیکھی جائے گی۔ کفویت کا لحاظ اس لئے رکھا گیا ہے کہ عورت اور اس کے اولیاء کے لوگ عارضہ دلائل کہ گھٹیا آدمی سے اس کا نکاح ہو گیا، تفصیلات فقہ کی کتابوں میں لکھی ہے۔ یہاں اس سوال کا جواب دینا مقصود ہے کہ جب حضرت زینبؓ اور ان کے بھائی نے حضرت زیدؓ سے نکاح کرنے کے بارے میں یہ عذر پیش کر دیا کہ زیدؓ زینبؓ کے میل کے نہیں ہیں کیونکہ وہ قریشی بھی نہیں اور ان میں غلامی کا بیہ بھی لگا ہوا ہے تو رسول اللہ ﷺ نے ان کا عذر کیوں قبول نہیں فرمایا؟ بات یہ ہے کہ شرعاً کفویت کا اعتبار تو ہے لیکن بعض مرتبہ دوسری مصالح ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے کفویت کا خیال چھوڑ دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ چونکہ یہاں ایک مصلحت مضمر تھی جو اللہ تعالیٰ کے علم میں تھی کہ زیدؓ سے زینبؓ کا نکاح ہو جانے کے بعد طلاق ہو پھر رسول اللہ ﷺ کا زینبؓ سے نکاح ہو جس سے قیامت تک آنے والے مسلمانوں پر نہ صرف رسول اللہ ﷺ کے قول سے بلکہ عمل سے یہ واضح ہو جائے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے اس کی طلاق اور عدت کے بعد نکاح کیا جاسکتا ہے۔ عملی تعلیم و تبلیغ کے پیش نظر کفویت کی مصلحت کو چھوڑ دیا گیا اور آپ ﷺ نے زینبؓ اور ان کے بھائی کو حکم دیا کہ زیدؓ کا زینبؓ سے نکاح ہو جانے میں کوئی حجت نہ کریں اور آپ نے جو پیغام دیا ہے اسے قبول کر لیں۔ چونکہ آپ کا یہ حکم تھا بطور مشورہ ایک رائے نہیں تھی اس لئے آیت کریمہ میں اس سے انحراف کرنے کو عصیان سے تعبیر فرمایا اور فرمایا وَمَنْ يُعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ صُلْبًا مُمَيَّنًا پھر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا مرتبہ اولیاء سے بلکہ ہر مومن کے اپنے نفس سے بھی زیادہ ہے جسے النَّبِيُّ أَكْبَرُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ میں بتا دیا ہے اس صورت میں آپ ﷺ کے حکم کا ماننا ہی لازم تھا، اگر امیر المؤمنین یا کوئی بھی بادشاہ یا حاکم یا بابا رسول اللہ ﷺ کے فرمان کے خلاف حکم دے یا خود کسی عورت و مرد کا نفس آپ ﷺ کے حکم کے خلاف کرنا چاہے تو آپ کے حکم کی خلاف ورزی جائز نہیں، آپ ﷺ نے جو حکم دے دیا جو درجہ و جوب میں ہو اس پر عمل کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر آپ کا کوئی حکم عام مسلمانوں کے لئے درجہ استحباب میں ہو اور آپ کسی مسلمان کو اس کے بارے میں بطور وجوب حکم دے دیں تو اس مسلمان کو اس پر عمل کرنا فرض ہے۔

(۲) اللہ تعالیٰ شانہ نے جو رسول اللہ ﷺ کو خطاب فرمایا وَتَخَشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ اس سے معلوم ہوا کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر نظر رکھنا لازم ہے۔ لوگ کیا کہیں گے اس کو نہ دیکھیں قرآن و حدیث میں جو حکم ہو اس پر نظر رکھیں۔ جو لوگ علماء اور مبلغ اور داعی ہوں خصوصیت کے ساتھ اس کا خیال رکھیں۔ آج کل لوگوں کا یہ مزاج بنا ہوا ہے کہ شرعی احکام کو اس ڈر سے چھوڑ دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، وضع قطع میں اور لباس میں اور بیاہ شادی اور مرنے جینے کی رسموں میں عوام ہی کو خوش کرنے کے کام کرتے ہیں اور صریحاً شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اچھے اچھے نام نہاد نیک اور نمازی بیاہ شادی میں خلاف شرع امور کا ارتکاب کر لیتے ہیں جب توجہ دلائی جاتی ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ کیا کریں جی! اور وہی ایسا ہے مخلوق کو بھی راضی رکھنا پڑتا ہے۔ لوگوں کی باتوں کا خیال کرنا اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرنا دعوائے ایمان کے سراسر منافی ہے، رسول اللہ ﷺ نے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کی تھی لیکن لوگوں کے طعن و تشنیع کا خیال آگیا تھا اس پر اللہ تعالیٰ شانہ نے عتاب فرمادیا کیونکہ ایسا خیال کرنا بھی آپ کی شان اقدس کے خلاف تھا۔

ہاں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی عمل کے کرنے سے لوگوں کے غلط فہمی میں مبتلا ہونے کا اور اس کی وجہ سے ان کے دین و ایمان میں نقصان کا خطرہ ہوتا ہے۔ سو اگر وہ عمل فی نفع محمود ہو لیکن شرعاً مامور نہ ہو تو اسے ترک کرنا درست ہے جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اگر تمہاری قوم (قریش) نئی نبی مسلمان نہ ہوتی تو میں کعبہ شریف کو پھر سے تعمیر کر دیتا اور حطیم کو تعمیر کے اندر چھت والے حصہ میں شامل کر دیتا اور کعبہ شریف کے دو دروازے بنا دیتا۔ لیکن آپ نے اس کو اچھا عمل جانتے ہوئے بھی انجام نہیں دیا تا کہ کہنے والے یہ نہ کہیں کہ دیکھو یہ کیسا نبی ہے کہ کعبہ شریف کو گرادیا۔ چونکہ آپ کو تعمیر جدید کا حکم نہیں دیا گیا تھا اس لئے آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ اور اس میں تکیونی طور پر یہ حکمت تھی کہ جن لوگوں کو کعبہ شریف کے اندر داخلہ میسر نہ ہو وہ حطیم میں داخل ہو جائیں اس میں داخل ہونا بھی دخول کعبہ ہی کے حکم میں ہے کیونکہ حطیم بھی کعبہ شریف کا حصہ ہے۔

(۳) حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کا اسم گرامی قرآن مجید میں وارد ہوا ہے آپ کے علاوہ کسی صحابی کا نام قرآن مجید میں مذکور نہیں۔ حکم قرآنی اذْعُوهُمْ لَآبَائِهِمْ کی وجہ سے مسلمانوں نے انہیں زید بن محمد کہنا چھوڑ دیا۔ اور اس طرح سے وہ ایک بہت بڑے اعزاز سے محروم ہو گئے لیکن اللہ تعالیٰ شانہ نے انہیں دوسری طرح نواز دیا کہ ان کا نام قرآن مجید میں نازل فرما دیا۔ جب آیت قرآنیہ کی تلاوت کی جائے گی جس میں لفظ زَيْدٌ واقع ہوا ہے تو قرآن حکیم کے ہر حرف پر دس نیکیاں ملنے کے وعدہ کے مطابق اس لفظ کے پڑھنے پر تیس نیکیاں مل جائیں گی۔ رسول اللہ ﷺ نے اُن کی اس طرح بھی دلداری فرمائی کہ انہیں جس کسی لشکر میں بھیجتے تھے تو انہیں اس لشکر کا امیر بنا دیتے تھے۔ ۸ھ میں چچین سال کی عمر میں غزوہ موتہ میں انہوں نے شہادت پائی۔ اُس وقت بھی وہ لشکر کے امیر تھے۔ حضور ﷺ نے بعض مرتبہ انہیں اپنے پیچھے مدینہ منورہ کا امیر بھی بنایا اور اپنی آخری عمر میں اُن کے بیٹے حضرت اُسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک لشکر کا امیر بنایا تھا پھر اس لشکر کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روانہ فرمایا۔

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ

تمہارے مردوں میں سے محمد کسی کے باپ نہیں ہیں اور لیکن اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کی مہر ہیں اور اللہ ہر

شَیْءٍ عَلِيمًا ۝۶

چیز کا جاننے والا ہے۔

## محمد رسول اللہ ﷺ خاتم النبیین ہیں

**تفسیر:** اس آیت کریمہ میں اول تو یہ فرمایا کہ تم میں جو مرد ہیں یعنی بالغ افراد ہیں محمد رسول اللہ ﷺ اُن میں سے کسی کے نسب والہ نہیں ہیں اس میں اس بات کی نفی ہے کہ آنحضرت ﷺ کسی ایسے شخص کے والد ہوں جو جویت کے حدود میں داخل ہو گیا ہو اس کے عموم میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہونے کی بھی نفی ہو گئی۔ آیت میں یہ بتا دیا

کہ نسبی والد ہونے سے جو باپ بیٹے کے درمیان احکام شرعیہ مرتب ہوتے ہیں مثلاً میراث جاری ہونا اور حرمت مصاہرت ثابت ہونا، آپ ﷺ کے اور زید بن جاریہ یا کسی بھی صحابی کے درمیان ان میں سے کوئی حکم بھی جاری نہیں ہے اور رَجَالُکُمْ اس لئے فرمایا کہ آپ ﷺ چار صاحبزادیوں کے باپ تھے جو آپ ﷺ کے سامنے بالغ بھی ہوئیں اور ان کی شادیاں بھی ہوئیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے علاوہ باقی صاحبزادیوں کی آپ کے سامنے وفات بھی ہوگئی۔ آپ ﷺ کی وفات کے چھ ماہ بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھی وفات ہوگئی، حضرات حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے واسطے سے آنحضرت ﷺ کی نسل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی سے چلی، آپ ﷺ کی اولاد میں صاحبزادے بھی تھے لیکن چونکہ وہ سب بچپن ہی میں وفات پا گئے اس لئے اس بات میں کوئی اشکال نہیں کہ آپ مردوں یعنی بالغ افراد میں سے کسی کے والد نہیں ہیں۔

دوسری بات یہ بتانی کہ گو وہ کسی بالغ مرد کے نسبی باپ نہیں ہیں لیکن روحانی باپ ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں بحیثیت رسول ہونے کے ساری امت پر فرض ہے کہ آپ پر ایمان لائیں اور آپ کے اکرام اور توقیر کا ہمیشہ لحاظ رکھیں اور ساتھ ہی آپ ﷺ کو خاتم النبیین بھی بتایا اور یہ اعلان فرمادیا کہ آپ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی بھی نبی قیامت تک آنے والا نہیں ہے۔ اس تصریح سے یہ واضح ہو گیا کہ آپ کی روحانی نبوت نسبی نبوت سے کہیں زیادہ اعلیٰ اور افضل ہے اور آپ ﷺ کی موجودگی میں جو صحابہ تھے صرف انہی کے لئے نہیں ہے بلکہ آپ خاتم النبیین ہیں قیامت تک آپ کے بعد نبی آنے والا نہیں ہے لہذا موجودہ افراد اور ان کی آنے والی نسلیں اور ان کے علاوہ جو بھی اقوام اور قبل اور افراد ذکور اور ناث (مرد و عورت) آپ پر ایمان لائیں گے، آپ سب کے روحانی باپ ہیں آپ کی یہ فضیلت ومنقبت اس سے کہیں زیادہ ہے کہ اپنی دنیا والی زندگی میں چند افراد کے نسبی باپ ہوتے۔ قال صاحب الروح فکانہ قیل: (مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ) بحیث ثبت بینہ و بینہ حرمة المصاہرة ولكن کان ابا کل واحد منکم و ابا ابناء کم و ابناء ابناء کم و هكذا الى يوم القيامة بحیث یجب له علیکم و علی من تناسل منکم احترامہ و توقیرہ و یجب علیہ لکم و لن تناسل منکم الشفقة و النصح الکامل۔ (تفسیر روح المعانی والے فرماتے ہیں گویا یہاں مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ میں یہ فرمایا گیا ہے کہ حضرت محمد ﷺ اس طرح تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں کہ اس کے اور حضور ﷺ کے درمیان مصاہرت کی حرمت ثابت ہو ورنہ تو حضور ﷺ تم میں سے ہر ایک کے باپ ہیں اور تمہاری اگلی نسلوں کے بھی باپ ہیں اسی طرح قیامت تک سب کے باپ ہیں کہ تم پر اور تمہاری نسلوں پر حضور ﷺ کا اعزاز و احترام واجب ہے اور حضور ﷺ پر تمہارے لئے شفقت اور کامل ہمدردی ہے)

آپ ﷺ سے پہلے جو انبیاء اور رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام تشریف لاتے تھے وہ خاص قوم کیلئے اور محدود وقت کے لئے تشریف لایا کرتے تھے خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ ﷺ قیامت تک تمام جنات اور تمام انسانوں اور تمام قوموں اور قبیلوں اور تمام زمانوں اور تمام مکانوں کے بسنے والوں کے لئے رسول ہیں اور نبی ہیں کیونکہ نبی عام ہیں اور رسول خاص ہیں (جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا کہ رسول کا اطلاق صاحب شریعت جدیدہ کے لئے ہے اور نبی ہر پیغمبر پر صادق آتا ہے صاحب شریعت جدیدہ ہو یا نہ ہو) لہذا خاتم النبیین فرمانے سے آپ کے خاتم الرسل ہونے کا بھی اعلان ہو گیا، سورہ سباء

میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَيِّنَاتٍ مِّنْ لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام انسانوں کے لئے بشیر اور نذیر بنا کر لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے)

خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی ذات گرامی پر وقف نبوت سے متصف ہونا یعنی نبوتِ جدیدہ سے سرفراز کیا جانا ختم ہو گیا ہے اور سلسلہ نبوت آپ کی ذات گرامی پر منقطع ہو گیا اب نبوتِ جدیدہ سے کوئی بھی شخص متصف نہیں ہوگا۔

ختم نبوت کے منکر قرآن کے منکر ہیں اسلام سے خارج ہیں: آپ ﷺ کے بعد جو بھی کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے گمراہ ہے کافر ہے اور اس کی تصدیق کرنے والے بھی گمراہ اور کافر ہیں اور آیت قرآنیہ کے منکر ہیں جس میں صاف اس بات کا اعلان فرما دیا ہے کہ حضرت محمد ﷺ خاتم النبیین ہیں احادیث شریفہ صحیح اسانید کے ساتھ بہت زیادہ کثیر تعداد میں کتب حدیث میں مروی ہیں جن میں واضح طور پر بتایا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ ﷺ پر نبوت اور رسالت ختم ہے۔ ان احادیث کو بعض اکابر نے اپنے رسائل میں جمع بھی فرمایا ہے قرآن و حدیث کی تصریحات کے باوجود بعض لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا خود بھی کافر ہوئے اور اپنے ماننے والوں کو بھی کفر پر ڈالا۔ مفسر ابن کثیر (جلد ۳ ص ۴۹۴) بہت سی احادیث نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں: فمن رحمة الله تعالى بالعباد ارسال محمد ﷺ

اليهم ثم من تشریفه لهم ختم الانبياء والمرسلين به واكمال الدين الحنيف له وقد اخبر الله تبارك وتعالى في كتابه ورسوله ﷺ في السنة المتواترة عنه انه لا نبى بعده ليعلموا ان كل من ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب افاك دجال ضال مضل ولو تحرق وشعبذ واتى بانواع السحر والطلاسم والنير نجيات فكلها محال وضلال عند اولى الالباب۔ (یہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے حضرت محمد ﷺ کو ان کی طرف بھیجا پھر حضور ﷺ کی شان ختم نبوت بھی اور آپ پر دین حنیف کی تکمیل بھی بندوں پر رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور حضور ﷺ نے اپنی احادیث میں جو کہ متواتر ہیں خبر دیدی ہے کہ حضور ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے تاکہ سب پر واضح ہو جائے کہ حضور ﷺ کے بعد جو اس مقام کا دعویٰ کرے گا وہ مکار دجال جھوٹا ہے خود بھی گمراہ ہے دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والا ہے اگر وہ جادوگریوں کے کرشمے دکھائے جو بھی طلسم و زنگیاں دکھائے سب عقل مندوں کے نزدیک بے کار و گمراہی ہیں)

خاتم النبیین بھی قراءت متواترہ ہے: یاد رہے کہ خاتم النبیین حضرت امام عاصم کوئی کی قرأت میں بفتح التاء ہے اور ان کے علاوہ دیگر قراء کے قراءت بکسر التاء یعنی خاتم النبیین ہے۔ خاتم (ت کے زیر کے ساتھ) مہر کے معنی میں آتا ہے اور خاتم (ت کے زیر کے ساتھ) صیغہ اسم فاعل ہے جس کا معنی ہے ختم کرنے والا دونوں قراءتوں کا مآل ایک ہی ہے یعنی آخر الانبیاء پس سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ خاتم النبیین بھی ہیں یعنی آپ کی تشریف آوری سے سلسلہ نبوت ختم ہو گیا اور خاتم النبیین بھی ہیں یعنی آپ کی ذات گرامی کو نبیوں کے لئے مہر بنا دیا گیا جیسے مہر آخر میں لگائی جاتی ہے اسی طرح آپ ﷺ پر سلسلہ نبوت ختم ہو گیا اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔

یہ دوسری قراءت جو تا کے زیر کے ساتھ ہے قراءت متواترہ ہے اس کا انکار بھی کفر ہے ہم نے خصوصیت کے ساتھ یہ

قرأت اس لئے ذکر کی ہے کہ بعض لمحدوں نے خاتم النبیین (بفتح التاء) کا ترجمہ الفضل النبیین کر کے آنحضرت ﷺ کے خاتم الانبیاء ہونے کا انکار کیا۔

گزشتہ صدی میں نصاریٰ کے کہنے سے پنجاب کے ایک آدمی (مرزا قادیانی) نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا نصاریٰ کو اس سے اپنا مقصد نکالنا مقصود تھا، انہوں نے اس جھوٹے نبی سے جہاد شرعی منسوخ کرنے کا اعلان کر لیا اور اسے اور اس کے ماننے والوں کو دنیاوی لالچ دے کر اپنا ہمنوا بنالیا، دنیا کے طالب اس شخص کی جھوٹی نبوت کا اقرار کرتے چلے گئے اور جب ان کے سامنے آیت قرآنیہ وَلٰكِنْ تَسْأَلُوهُ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ پیش کی گئی تو طرح طرح کی تاویلیں کر کے اس کو رد کر دیا اور آیت کے معانی اور مغایم اپنی طرف سے تجویز کر دیئے اور نبوت کی قسمیں بنا لیں، حقیقی اور ظلی و بروزہی کی تقسیم جاری کر دی تاوقت تحریر ان لوگوں کی جماعت موجود ہے جو یہود و نصاریٰ کی سرپرستی میں پرورش پاتی ہے اور اسلام اور قرآن اور مسلمانوں کی دشمنی میں برابر لگی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ان کے شر سے بچائے۔ یہ ایک موٹی سی بات ہے کہ جو شخص قرآن کریم کی کسی آیت کا منکر ہو وہ نبی تو کیا ہو گا ادنیٰ درجہ کا مسلمان بھی نہیں، وہ تو ملحد اور زندیق اور کافر ہے تمام مسلمانوں کو چاہئے کہ ان لمحدوں اور زندیقوں سے جو کنار ہیں یہ لوگ ایمان کے ڈاکو ہوتے ہیں۔

وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے) اس میں قرآنی اعلان کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لئے تنبیہ ہے اور وعید ہے جو لوگ حضور خاتم النبیین ﷺ کی نبوت کے بعد کسی دوسرے شخص کی نبوت کے قائل ہیں یا اسلام کے خلاف کوئی بھی عقیدہ رکھتے ہیں ایسے لوگ یوں نہ سمجھیں کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے اللہ تعالیٰ کو سب کا حال ظاہر و باطن، عقیدہ و عمل معلوم ہیں وہ اس کے مطابق سزا دے گا۔ حقیر دنیا کے لئے کفریہ عقائد اختیار کرنے والے اور کفریہ اعمال اختیار کرنے والے اللہ تعالیٰ کی وعید سے غافل نہ ہوں۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ختم نبوت کے منافی نہیں: احادیث صحیحہ کثیرہ متواترہ سے صراحتاً اور آیت قرآنیہ وَلَا تَنْتَظِرُوهُمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (علیٰ احد القولین) اور آیت وَاللَّهُ لَعَلُّهُمُ لَشَاعِرَةٌ فَلَا تَمْنَنُ رُوَاهَا وَاَتَّبِعُوا سے (علیٰ احد التفسیرین) یہ بات ظاہر ہوتی ہے حضرت عیسیٰ قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے اور دجال کو قتل کریں گے، تمام اہل السنۃ والجماعۃ کا اس پر اجماع ہے۔ چونکہ وہ رسول اللہ ﷺ کی شریعت کے تابع ہوں گے اور آپ ﷺ ہی کی شریعت پر عمل کریں گے اور امت محمدیہ سے بھی اسی شریعت پر عمل کرائیں گے اور وہ آپ ﷺ کے تشریف لانے سے پہلے ہی نبوت سے سرفراز تھے ایسا نہیں کہ وہ نئی نبوت لے کر آئیں گے بلکہ وہ پہلے ہی سے نبی ہیں جنہیں زندہ آسمان پر اٹھالیا گیا تھا، دنیا میں آکر دجال کو قتل کریں گے اور شادی کر کے مسلمانوں کے ساتھ رہ کر وفات پا جائیں گے اس سے جناب محمد رسول اللہ ﷺ کے خاتم النبیین ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، شریعت محمدیہ میں جزیہ لینا شروع ہے وہ اسے منسوخ کر دیں گے اس منسوخ کرنے کی خبر رسول اللہ ﷺ نے پیشگی دے دی ہے لہذا یہ بھی آپ ﷺ ہی کا منسوخ کرنا ہوا۔

حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ”نزول عیسیٰ بن مریم آخر الزمان“ کے نام سے ایک رسالہ لکھا ہے اس میں ”معجم الکبیر للطبرانی“ اور ”کتاب البعث والنشور للبیہقی“ سے حدیث نقل کی ہے اور اس کی سند جید بتائی ہے جس میں اس

بات کی تصریح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ ﷺ کی ملت پر ہو گئے، حدیث کے الفاظ یہ ہیں: عن عبد اللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ يلبث الدجال ما شاء الله ثم ينزل عيسى بن مريم مصدقا بمحمد وعلى ملته اماما مهديا وحكما عدلا فيقتل الدجال۔ (حضرت عبد اللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا جتنا عرصہ اللہ تعالیٰ چاہے گا دجال رہے گا پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے اس حال میں کہ وہ حضرت محمد ﷺ کی تصدیق کریں گے اور آپ ﷺ کی ملت پر ہوں گے ہدایت کے امام ہوں گے حاکم عادل ہوں گے اور پھر آپ دجال کو قتل کر دیں گے)

صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكُنَ أَنْ يَنْزَلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا۔ (الحديث) (باب نزول عيسى عليه السلام ص ۹۰) (قسم اس ذات کی جسکی قبضہ قدرت میں میری جان ہے عنقریب تم میں ابن مریم حاکم عادل بن کرنازل ہوں گے)

لفظ حکم کی تشریح کرتے ہوئے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ”فتح الباری جلد ۶ ص ۳۹۱“ میں لکھتے ہیں: والمعنى انه ينزل حاكما بهذه الشريعة فان هذه الشريعة باقية لا تنسخ بل يكون عيسى عليه السلام حاكما وفيه رواية الليث عن ابن شهاب عند مسلم حكما مقسطا والمدطبراني من حديث عبد الله بن مغفل ينزل عيسى ابن مريم مصدقا بمحمد على ملته۔ اهـ (معنی یہ ہے کہ آپ شریعت محمدیہ کے مطابق فیصلے کرنے والے بن کرنازل ہوں گے کیونکہ یہ شریعت باقی ہے منسوخ نہیں ہو سکتی بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی کے مطابق حکومت کریں گے۔ اور اسی بارے میں امام مسلم نے لیث عن ابن شہاب کی روایت لی ہے کہ حاکم سے مراد ہے عادل حکمران اور طبرانی نے حضرت عبد اللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کی حدیث نقل کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور ﷺ کی تصدیق کرنے والے ہو کر اور آپ کی ملت کے تابع ہو کرنازل ہوں گے)

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح مسلم میں لکھتے ہیں: ای ينزل حاكما بهذه الشريعة لا ينزل نبيا برسالة مستقلة وشريعة ناسخة بل هو حاكم من حكام هذه الامة۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۸۷) (یعنی آپ شریعت محمدیہ کے مطابق فیصلے کرنے والے بن کرنازل ہوں گے مستقل نبوت و رسالت اور شریعت محمدیہ کو منسوخ کرنے والی شریعت لیکر نازل نہیں ہوں گے۔ بلکہ وہ اسی امت محمدیہ کے حاکموں میں سے ایک حاکم ہوں گے)

مطلب یہ ہے کہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور شریعت اسلامیہ محمدیہ کے مطابق ہی فیصلہ دیں گے مستقل نبی نہ ہوں گے اور نہ مستقل شریعت لے کر آئیں گے جو جناب محمد رسول اللہ ﷺ کی شریعت کو منسوخ کر دے، وہ اسی امت کے حکام میں سے ایک حاکم ہوں گے۔ قادیانی جماعت آیت کریمہ کی تصریح کا انکار کرنے کی وجہ سے کافر ہے اور اس وجہ سے بھی کافر ہے کہ انہوں نے خاتم النبیین کے معنی میں تحریف کی ہے اور اس کا معنی افضل النبیین بتایا ہے۔ ان جاہلوں کو معلوم نہیں کہ قراءت میں ایک قراءت تاء کے زیر کے ساتھ بھی ہے اس کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔

قادیانی زندیقوں کا جھوٹ: قادیانیوں نے ختم نبوت کا انکار کرنے کے لئے ایک یہ بات نکالی تھی کہ چونکہ

حضرت مسیح علیہ السلام کے تشریف لانے کی خبر ہے اس لئے نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوا اور ہم جسے نبی مانتے ہیں وہی مسیح ہے۔ ان لوگوں کی تردید کے لئے یہی کافی ہے کہ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جبکہ جبکہ مسیح ابن مریم فرمایا ہے دنیا جانتی ہے اور قادیانیوں کو بھی اس کا علم ہے کہ مرزا قادیانی کی ماں کا نام مریم نہیں تھا بلکہ وہ اور زندگیوں کو قرآن وحدیث ماننا نہیں ہوتا اپنی تاویلات و تحریفات کے پیچھے چل کر ملعون ہوتے ہیں۔

یہ لوگ یوں بھی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے کا عقیدہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ پر نبوت ختم نہیں ہوئی۔ ان لوگوں کی اس بات کی تردید حضرات مفسرین کرام اور علماء عظام پہلے ہی کر گئے اور انہوں نے بتا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مستقل رسالت و نبوت کے ساتھ نہیں آئیں گے وہ اسی شریعت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والاحیاء کے مطابق عمل کریں گے اور امت محمدیہ سے متعلق اسی سے عمل کرنا میں گے جبکہ قادیانی جماعت سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ کے دین و شریعت پر نہیں ہے اگر آنحضرت ﷺ کے دین و شریعت پر ہوتے تو جہاد کو کیوں منسوخ کرتے جہاد کو منسوخ کرنا ہی تو مرزا قادیانی کا اصل کارنامہ ہے جو اس نے نبوت کا دعویٰ کرانے والی حکومت برطانیہ کو خوش کرنے کے لئے انجام دیا تھا۔ ارے قادیانیو! شرم کرو اللہ کے سچے نبی خاتم النبیین ﷺ کے سچے امتی بنو اور جھوٹے نبی کی نبوت کے اقرار سے توبہ کر کے اپنی جانوں کو دوزخ سے محفوظ کر لو یہ تمہاری خیر خواہی کے طور پر کہا جا رہا ہے۔ واللہ علی ما نقول وکیل۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۖ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۚ هُوَ الَّذِي

اے ایمان والو! اللہ کا ذکر کرو خوب کثرت کے ساتھ۔ اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ وہی ہے

يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوْرِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ۝۱۰

جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے آئے۔ اور وہ ایمان والوں پر رحم فرمانے والا ہے۔

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ ۚ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ۝۱۱

جس دن یہ لوگ اس سے ملاقات کریں گے ان کا تحیہ سلام ہوگا اور اس نے ان کے لئے اجر کریم تیار فرمایا ہے۔

ایمان والوں کو ذکر اللہ کی کثرت کرنے کا حکم اور اس بات کی بشارت کہ اللہ اور اس کے فرشتے مؤمنین پر رحمت بھیجتے ہیں

**تفسیر:** یہ چار آیات کا ترجمہ ہے پہلی اور دوسری آیت میں اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوب زیادہ ذکر کریں اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کریں۔ مفسرین نے فرمایا ہے کہ صبح و شام تسبیح بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام اوقات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور بعض حضرات نے فرمایا کہ صبح سے دن کو اور شام سے رات کی ابتداء ہوتی ہے اس لئے خصوصیت کے لئے لیل و نہار کے ابتدائی اوقات میں ذکر کرنے کا خصوصی حکم دیا تاکہ لیل و نہار کے باقی اوقات میں بھی



ذکر کے لئے ذہن حاضر رہے اور قلب و لسان ذکر اللہ میں مشغول رہیں۔

**ذکر اللہ کے فضائل:** درحقیقت ذکر اللہ بہت بڑی عبادت ہے اور ہر وقت اس میں مشغول رہنے کی ضرورت ہے سورۃ نساء میں فرمایا: فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ فَمَا تَوْفِيقُوا۔ سو جب تم نماز ادا کر چکو تو اللہ کو یاد کرو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر یعنی لیٹے ہوئے انسان کی یہی تین حالتیں ہیں اور ان تینوں حالتوں میں اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ درحقیقت ذکر ہی اس عالم کی جان ہے اور اس کے بقاء کا ذریعہ ہے۔ صحیح مسلم جلد نمبر ۱ ص ۲۴ میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک زمین میں اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا۔ دوسری عبادتوں کی روح بھی اللہ کا ذکر ہی ہے سورۃ طہ میں فرمایا ہے: وَاكْمِلُوا الصَّلَاةَ لِلَّهِ كُنِيَ نماز کو میری یاد کے لئے قائم کرو۔ ذکر زبان سے بھی ہوتا ہے اور قلب سے بھی اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان اور چین و سکون ملتا ہے جیسا کہ سورۃ رعد میں فرمایا: أَلَا يَهْدِي اللَّهُ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر کمثل الحی والمیت مثال اُس شخص کی جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو یاد نہیں کرتا زندہ اور مردہ کی سی مثال ہے۔ (رواہ البخاری) معلوم ہوا کہ کھاتے پیتے رہنا اور دنیاوی مشاغل میں زندگی گزار لینا یہ کوئی زندگی نہیں ہے زندہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگے رہتے ہیں جہاں تک ممکن ہو لیٹے بیٹھے اور کھڑے ہوئے اللہ کو یاد کرتے رہیں اور زبان کو ذکر اللہ میں لگائے رہیں۔

ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ جنت والوں کو کسی بھی چیز کی حسرت نہ ہوگی سوائے اس ایک گھڑی کے جو دنیا میں اللہ کی یاد کئے بغیر گزر گئی تھی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا نبی اکرم ﷺ نے کہ چند لوگ کسی جگہ بیٹھے انہوں نے اپنی مجلس میں اللہ کا ذکر نہ کیا اور اپنے نبی پر درود نہ بھیجا تو یہ مجلس ان کے لئے نقصان کا سبب ہوگی پھر اگر اللہ چاہے تو ان کو عذاب دے اور اگر چاہے تو ان کی مغفرت فرمادے اور اگر کوئی شخص کسی جگہ لیٹا اور اس نے لیٹنے میں اللہ کو یاد نہ کیا تو یہ لیٹنا اس کے لئے نقصان کا سبب ہوگا اور جو شخص کسی جگہ چلا اور اس چلنے میں اُس نے اللہ کو یاد نہ کیا تو اللہ کی طرف سے اُس کا یہ چلنا نقصان کا باعث ہوگا۔ آنحضرت ﷺ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو لوگ کسی جگہ بیٹھے جس میں انہوں نے اللہ کو یاد نہ کیا اور اپنے نبی پر درود نہ بھیجا تو قیامت کے دن ان کا یہ بیٹھنا حسرت اور افسوس کا باعث ہوگا اگرچہ ثواب کے لئے جنت میں داخل ہو جائیں۔ (الترغیب والترہیب جلد ۲ ص ۳۱۰ ۳۰۹)

ہوشیار بندے وہی ہیں جو اپنی عمر کی ایک گھڑی بھی ضائع نہیں جانے دیتے دنیا میں جینے کیلئے جو تھوڑے بہت مشغل کی ضرورت ہے اُس میں تھوڑا بہت وقت لگایا اور اس میں بھی اللہ کا ذکر کرتے رہے اس کے بعد سارے وقت کو اللہ ہی کی یاد میں تلاوت میں تسبیح میں تہلیل میں تحمید میں تکبیر میں درود شریف میں لگاتے رہتے ہیں لایعنی باتوں میں مشغول ہو کر اپنا وقت ضائع نہیں کرتے اور اپنے دل کا ناس نہیں کھوتے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ نہ بولا

کرو کیونکہ اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ بولنا قساوتِ قلب یعنی دل کی سختی کا سبب ہے اور بلاشبہ لوگوں میں اللہ سے سب سے زیادہ دور وہی شخص ہے جس کا دل سخت ہو۔ (رواہ الترمذی)

اُم المؤمنین حضرت اُم حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کا ہر بول اس کے لئے وبال ہے سوائے اس بات کے کہ بھلائی کا حکم کسی برائی سے روکے یا اللہ کا ذکر کرے۔ (رواہ الترمذی)

حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اعرابی یعنی دیہات کا رہنے والا رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے سوال کیا کہ لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور اعمال اچھے ہوں اس نے عرض کیا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا یہ کہ تو دنیا سے اس حال میں رخصت ہو کہ تیری زبان اللہ کی یاد میں تر ہو۔ (رواہ الترمذی)

سورہ طہ میں فرمایا: اِقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (نماز قائم کر میرے ذکر کے لئے) نماز سے پہلے اذان بھی ذکر ہے اور اقامت بھی اذان کا جواب بھی وضو کی دعا بھی فرضوں سے پہلے سنتیں بھی پھر تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک نمازی برابر ذکر میں مشغول رہتا ہے، کبھی اللہ کی حمد و ثناء میں مشغول رہتا ہے، کبھی تکبیر کہتا ہے کبھی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، کبھی اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، کبھی تنزیہ کلمات ادا کرتا ہے اور اپنے رب کو ہر طرح کے عیب و نقص سے پاک بتاتا ہے اور اس کے بارے میں اپنا عقیدہ ظاہر کرتا ہے اور کبھی دعا مانگتا ہے نمازی کی زبان بھی اللہ کی یاد میں لگی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دل بھی اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، قلب حاضر ہے، اعضاء متواضع ہیں۔ کبھی قیام میں قنوت پڑھ رہا ہے، کبھی رکوع میں تسبیح ہے، کبھی قومہ میں تحمید ہے، کبھی سجدہ میں گیا، جبین نیاز زمین پر رکھ دی اور رب تعالیٰ شانہ کی تسبیح میں مشغول ہو گیا، بندہ کے پاس اپنا عجز و نیاز اور تذلل اور عبودیت کا عملی اقرار ظاہر کرنے کے لئے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ اشرف الاعضاء یعنی اپنے سر کو ازل العناصر یعنی مٹی پر رکھ دیا اور اپنے رب کریم کے حضور اپنی ذات کو بالکل ذلیل کر کے پیش کر دیا۔ پھر نماز کے بعد سنن و نوافل بھی ذکر ہیں اور نماز کے بعد تسبیحات بھی درحقیقت پانچوں نمازیں اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف پھینکتی ہیں، مومن کی زندگی سراپا ذکر ہے۔

نماز جمعہ سے فارغ ہو کر بازار میں جانے کی اجازت دی اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا حکم فرمایا، سورہ جمعہ میں ارشاد فرمایا: وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (پھر جب نماز پوری کر چکو تو زمین پر چلو پھرو اور اللہ کے فضل سے تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔)

اللہ تعالیٰ ذا کریں کو یاد فرماتا ہے: سورہ بقرہ میں فرمایا كَذَٰلِكَ نُوْثِقُ الْقُلُوبَ (سو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا) دیکھو کتنی بڑی سعادت ہے کہ فرشِ خاکی کا رہنے والا جس کے اندر خون وغیرہ بھرا ہوا ہے اسے صاحبِ عرش اپنے دربار میں یاد فرمائیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں اپنے بندہ کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے اور میری یاد میں اس کے ہونٹ ہلکتے ہیں۔ (رواہ البخاری)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں اپنے بندہ کے گمان کے ساتھ ہوں کہ وہ جب چاہے مجھے یاد کرے سو اگر وہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں اسے تنہا یاد کرتا ہوں

اور اگر وہ مجھے کسی جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس جماعت میں یاد کرتا ہوں جو اس جماعت سے بہتر ہوتی ہے۔ جس میں اس نے مجھے یاد کیا۔ (رواہ البخاری)

حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس سے کیسی عمدہ بات نقل فرمائی ہے انہوں نے فرمایا: ان اللہ تعالیٰ لم یفرض علی عبادہ فريضة الا جعل لها حدا معلوما ثم وعذر اهلها في حال العذر غير الذكر فان اللہ تعالیٰ لم يجعل له حدا ينتهي اليه ولم يعذر احدا في تركه الا مغلو باعلیٰ تركه فقال (فَاذْكُرُوا اللہ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ) بالليل والنهار في البر والبحر في السفر والحضر والغنى والفقر والسقم والصحة، والسر والعلانية وعلى كل حال. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو عبادات فرض فرمائی ہیں ان کی حد مقرر ہے اور اصحاب عذر کو (معافی یا تخفیف کی صورت میں) معذور قرار دیا ہے مگر ذکر اللہ ایسی عبادت ہے کہ اس کی نہ کوئی حد اور تعداد متعین ہے اور نہ کوئی خاص وقت اور زمانہ مقرر ہے نہ اس کے لئے کوئی خاص ہیئت قیام یا نشست کی مقرر فرمائی ہے نہ اس کے لئے ظاہر اور باضو ہونا شرط ہے ہر وقت اور ہر حال میں بکثرت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا حکم ہے سفر ہو یا حضر، تندرستی ہو یا بیماری، خشکی میں ہو یا دریا میں، رات ہو یا دن ہر حال میں ذکر اللہ کرتے رہیں اسی لئے اس کے ترک میں انسان کا کوئی عذر مسموع نہیں۔ جو اس کے کہ عقل و حواس ہی نہ رہیں اور بے ہوش ہو جائے۔

تیسری آیت میں یہ فرمایا: هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَيُكَلِّمُكُمُ کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے (تمہارے لئے استغفار کرتے ہیں) اس میں جو لفظ يُصَلِّيْ وارد ہوا ہے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف بھی ہے اور فرشتوں کی طرف بھی حضرات اکابر علماء نے فرمایا ہے کہ صلوة کی نسبت جو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس سے رحمت مراد ہے یعنی اے مومنو! اللہ تم پر رحمت بھیجتا ہے۔ اور فرشتوں کی طرف جو صلوة کی نسبت ہے اس سے استغفار مراد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے فرشتے تمہارے لئے رحمت کی دعا کرتے ہیں (کما فی سورة المومن) وَيَسْتَغْفِرُونَ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ اٰمَنُوْا مزید فرمایا يُخْرِجُكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ کہ تم پر اللہ کی رحمت ہونا اور تمہارے لئے فرشتوں کا استغفار کرنا اس لئے ہے کہ اللہ تمہیں اندھیروں سے روشنیوں کی طرف نکالے یعنی جہالت اور گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت اور یقین کے نور سے منور فرمائے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا۔ (اور اللہ مومنین پر رحم فرمانے والا ہے) یعنی وہ اہل ایمان پر دنیا میں بھی رحم فرماتا ہے اور آخرت میں بھی رحم فرمائے گا دنیا میں ایمان کی دولت سے نوازا، کفر سے اور شرک سے اور بدعت سے بچایا، کھانے پینے اور پہننے اور برتنے کے لئے پاکیزہ چیزیں عطا فرمائیں اور آخرت میں انہیں امن و چین، اطمینان اور نجات عطا فرمائے گا اور جنت میں داخل فرمائے گا اور فرشتے

۱۔ قال الطيبي: المراد ملائكة المقرّبين و ارواح المرسلين فلاذ لالة على كون الملائكة الفضل والاحسن ان يقال الخيرية من جهة النزاهة والتقّوس والعلو وهي لا تنافي الفضلية البشر من جهة كثرة الثواب. (كذا في حاشية المشكوة عن اللمعاف) (علامہ طیبی فرماتے ہیں اس سے مراد مقرب فرشتوں اور بھیجی ہوئی روحوں کی جماعت ہے۔ یہ بات فرشتوں کے افضل و احسن ہونے کی دلیل نہیں ہے کہ کہا جائے فرشتے اپنی بے خواہشی اور معصومیت و بلندی کی وجہ سے انسان سے افضل و بہتر ہیں کیونکہ انسان کے کثرت ثواب کی وجہ سے یہ چیزیں بشریت کو کم قیمت کرنے والی نہیں ہیں)

بشارت دیتے ہوئے ان سے ملاقات کریں گے۔

چوتھی آیت میں فرمایا **يَحْيَاكُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ** (جس دن اللہ سے ملاقات کریں گے ان کا تحیہ سلام ہوگا) یعنی اللہ تعالیٰ کے طرف سے ان پر سلام بھیجا جائے گا۔ کما قال فی سورة یس **سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ كَرِيمٍ**۔ اور فرشتے بھی ان پر داخل ہوں گے اور ان پر سلام پیش کریں گے۔ کما فی سورة الزمر **وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ**۔ **يَا صَبِّحُكُمْ فَقَبْلُ عَقَبَى الدَّارِ** اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے روح قبض ہونے کے وقت کا تحیہ مراد ہے کیونکہ جب فرشتہ مومن بندہ کی روح قبض کرنے کے لئے آتا ہے تو **سَلَامٌ عَلَيْكُمْ** کہہ کر خطاب کرتا ہے۔ (ذکر فی الزمر عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

**وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا** (اور اللہ نے ان کے لئے اجر کریم تیار فرمایا ہے) یعنی ان کے لئے عزت والا ثواب تیار فرمایا ہے۔ مفسر ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اجر کریم سے جنت اور وہاں کی نعمتیں اور ہر طرح کی لذتیں مراد ہیں۔ اول تو جنت کا داخلہ ہی بڑا اعزاز و اکرام ہے پھر اس میں جو کچھ پیش کیا جائے گا وہ بھی اعزاز کے ساتھ پیش ہوگا وہاں ہمیشہ کرم اور معزز ہی رہیں گے۔

**يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ**

اے نبی بے شک ہم نے آپ کو گواہ اور بشارت دینے والا اور اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا

**وَسِرَاجًا مُنِيرًا ۝ وَبَشِيرًا لِلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا ۝ وَلَا تَطْعِمِ الْكَافِرِينَ**

اور روشن کرنے والا چراغ بنا کر بھیجا ہے اور آپ مؤمنین کو خوشخبری سنا دیجئے کہ بلاشبہ اللہ کی طرف سے ان پر بڑا فضل ہے اور آپ کافروں

**وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعَا لَهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ۝**

اور منافقوں کی بات نہ مانے اور ان کی ایذا کو چھوڑ دیجئے اور اللہ پر بھروسہ کیجئے اور اللہ کافی کارساز ہے۔

## رسول اللہ ﷺ کی صفات جمیلہ

**تفسیر:** یہ چار آیات کا ترجمہ ہے پہلی دو آیتوں میں رسول اللہ ﷺ کی صفات بیان فرمائی ہیں اور تیسری آیت میں آپ کو بشارت دینے کا حکم دیا ہے اور چوتھی آیت میں کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ ماننے کا اور ان سے جو تکلیفیں پہنچیں ان کی طرف دھیان نہ دینے کا اور اللہ پر بھروسہ کرنے کا حکم فرمایا ہے۔

اول تو یوں فرمایا ہے **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا** کہ اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے شاہد گواہ کو کہتے ہیں سورہ بقرہ میں فرمایا ہے: **وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا** (اور اسی طرح ہم نے تم کو ایک ایسی جماعت بنا دیا جو اعتدال والی ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائے) اور سورہ نساء میں فرمایا **فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا**۔ (سو کیا حال ہوگا

جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ ﷺ کو ان پر گواہ بنائیں گے) اور سورۃ حج میں فرمایا لَیْکُنَ الرَّسُولُ شَهِیدًا عَلَیْکُمْ وَتَکُونُوا شَہِدًا عَلَیْهِ (تا کہ رسول تم پر گواہ ہو جائے اور تم لوگوں کے مقابلہ میں گواہ بن جاؤ)۔ ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ آپ قیامت کے دن اپنے سے پہلے امتوں کے بارے میں گواہی دیں گے سورۃ بقرہ اور سورۃ نساء کی آیات کے ذیل میں جو کچھ ہم نے لکھا ہے اس کی مراجعت فرمائیں۔ (انوار البیان ص ۲۲۶ جلد ۲)

پھر فرمایا وَمُبَشِّرًا کَمَا کَانَ مَوْضِعُهُ مِثْلَ شَامِلٍ۔ وَنَذِيرًا اور آپ کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا اہل ایمان کو ایمان کے منافع اور اعمال صالحہ کے اجر و ثواب کی خوشخبری دینا آپ کے کارِ مفعولہ میں شامل ہے۔ وَنَذِيرًا اور آپ کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ جیسا کہ اہل ایمان کو بشارت دینا آپ کے فرائضِ منصبی میں سے ہے اسی طرح اہل کفر اور اہل معصیت کو ڈرانا اور وعیدیں سنانا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے ذمہ کیا گیا ہے۔

عرب و عجم کے لئے تمام ادیان والوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا سورۃ سباء میں ارشاد فرمایا: وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا کَافَّةً لِّلْعَالَمِیْنَ بَشِیْرًا وَنَذِیْرًا۔ (اور ہم نے تو آپ کو تمام لوگوں کے واسطے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے) رسول اللہ ﷺ نے تمام انسانوں کو اور تمام اہل ادیان کو ایمان قبول کرنے پر آخرت کی بھلائی کی بشارت دی اور ایمان سے منحرف اور منکر ہونے پر آخرت کے عذاب سے باخبر فرمایا، یہود و نصاریٰ بھی اسی میں شامل ہیں جو اپنے پاس دینِ سماوی ہونے کے مدعی ہیں سورۃ مائدہ میں فرمایا: یَا اَهْلَ الْکِتَابِ قَدْ جَاءَکُمْ رَسُوْلُنَا بِکَیْنٍ لَّکُمْ عَلٰی فِتْنٍ مِّنَ الرَّسُوْلِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِیْرٍ وَّلَا نَذِیْرٍ فَقَدْ جَاءَکُمْ بَشِیْرٌ وَّنَذِیْرٌ وَاللّٰهُ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ (اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارے یہ رسول آپہنچے جو کہ تم کو صاف صاف بتلاتے ہیں ایسے وقت میں کہ رسولوں کا سلسلہ موقوف تھا تا کہ تم یوں نہ کہنے لگو کہ ہمارے پاس کوئی بشیر اور نذیر نہیں آیا سو تمہارے پاس بشیر اور نذیر آچکے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں)۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم ﷺ کو بشیر اور نذیر کی صفاتِ عظیمہ سے متصف فرمایا ہے اور آپ ﷺ کو شاہد بھی بتایا ہے تو ریت شریف میں بھی آپ ﷺ کی یہ صفات بیان فرمائی گئی ہیں۔

صحیح بخاری جلد ۱ ص ۲۸۵ میں حضرت عطاء بن یسار سے مروی ہے کہ انہوں نے بیان کیا میں نے عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اور عرض کیا کہ توریت میں جو رسول اللہ ﷺ کی صفت بیان کی گئی ہے اس سے مجھے باخبر فرمائیے انہوں نے فرمایا جو آپ کی صفات قرآن شریف میں بیان کی گئی ہیں ان میں سے بعض صفات توریت میں مذکور ہیں۔ یَا اَیُّهَا النَّبِیُّ اِنَّا اَرْسَلْنَاکَ شَہِیْدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِیْرًا۔ اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ (یہ الفاظ قرآنیہ کا ترجمہ ہے) اور توریت میں مزید یہ باتیں بھی ہیں کہ آپ ﷺ کو امتین یعنی عرب کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا تو میرا بندہ ہے میں نے تیرا نام متوکل رکھا جو درشت خوار سخت حراز نہیں ہے اور بازاروں میں شور مچانے والا نہیں اور جو برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتا لیکن معاف کرتا ہے اور بخش دیتا ہے اور اللہ اسے نہیں اٹھائے گا جب تک کہ اس کے ذریعہ کجی والی ملت کو سیدھی نہ کر دے اس طرح سے کہ وہ لوگ لا الہ الا اللہ کہیں گے اور اس کے ذریعے ان کی اندھی آنکھوں کو کھول دے گا اور بہرے کانوں کو اور غلاف چڑھے ہوئے قلوب کو کھول دے گا۔

وَدَاعِبًا إِلَى اللَّهِ بِأَذْنِهِ (اور ہم نے آپ کو اللہ کی طرف بلانے والا بھیجا اللہ کے حکم سے) آپ سارے انسانوں اور سارے جنات کو تو حید کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلانے والے ہیں آپ نے بڑی محنت سے اللہ کی طرف بلایا اور اللہ کا بول بالا کیا اور اس بارے میں بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائیں۔ اس میں جو لفظ بِأَذْنِهِ وارد ہوا ہے اس کے بارے میں صاحب روح المعانی لکھتے ہیں: ای بتسهيله وتيسره تعالى، یعنی اللہ تعالیٰ نے دعوت کا کام آپ کے لئے آسان کر دیا، تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے آپ آگے بڑھتے رہے اور آپ ﷺ کے سامنے ہی امت مسلمہ کی بھاری تعداد وجود میں آگئی، دعوت کا کام ہمیشہ جاری رکھا جائے آپ کی امت بھی اس کی مخاطب ہے۔ سورہ آل عمران میں فرمایا:

وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (اور تم میں سے ایسی جماعت ہو جو خیر کی طرف بلاتے ہوں اور بھلائی کا حکم دیتے اور برائیوں سے روکتے ہیں)

آپ ﷺ کی صفات بیان فرماتے ہوئے آیت کے ختم پر وَيُرِى الْجَاهِلِينَ بھی فرمایا یعنی ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کر بھیجا اس چراغ کی وجہ سے لوگ جہالت و گمراہی کی تاریکیوں سے نکلتے ہیں اور انوار ہدایت حاصل کرتے ہیں حضرات اکابر نے فرمایا ہے کہ آپ کو سِرَاجًا مُنِيرًا سے تشبیہ دینے میں اس طرف اشارہ ہے کہ آپ ﷺ کی ذات گرامی سے صرف آپ کے زمانے کے انسانوں اور جنات ہی نے روشنی حاصل نہیں کی بلکہ آپ کے بعد بھی یہ روشنی رہے گی اور آپ کے علوم اور اعمال کو پہنچانے والے برابر ہیں گے۔ جس طرح ایک چراغ سے بہت سے چراغ روشن ہو جاتے ہیں پھر ان چراغوں سے دوسرے بہت سے چراغوں کو روشنی ملتی چلے جاتی ہے اسی طرح آپ کا نور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ملا پھر انہوں نے اسے آگے بڑھایا اور آج تک ہر استاد سے شاگرد تک پہنچ رہا ہے اور آپ ﷺ کے جلائے ہوئے چراغوں سے برابر چراغ روشن ہیں گوا آپ کی روشنی آفتاب کی روشنی سے کہیں زیادہ ہے لیکن چونکہ ہمیشہ سے آفتاب ایک ہی آفتاب ہے پھر اس کی روشنی بھی داکئی نہیں رات کو اندھیرا ہو جاتا ہے اور اس سے روشنی حاصل کرنا بندوں کے اختیار میں بھی نہیں اس لئے آپ کی ذات گرامی کو سراج منیر سے تشبیہ دینا مناسب ہوا ایک چراغ سے بہت سے چراغ جل سکتے ہیں اور جس وقت چاہیں اس سے روشنی حاصل کر سکتا ہے۔

پھر فرمایا آپ اہل ایمان کو خوشخبری سنا دیں ان کے لئے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے وہ فضل دنیا میں ایمان کی دولت سے اور آخرت میں دخول جنت اور وہاں کی نعمتوں سے نوازش فرماتا ہے۔

پھر فرمایا وَلَا تُطِيعُوا الْفَاقِقِينَ وَالْمُنَافِقِينَ (اور آپ کافروں اور منافقوں کا کہا نہ مانئے) انہیں گوارا نہیں ہے کہ آپ دعوت الی اللہ کا کام کریں اور جو کام آپ کے سپرد کیا گیا ہے یعنی تبشیر اور انداز آپ اسے چھوڑ دیں اس سلسلے میں آپ ان کی کوئی بات نہ مانیں اور کسی طرح کی مسامحت اور مدارات اختیار نہ فرمائیں۔ قال صاحب الروح: نہی عن مداراتهم فی امر الدعوة ولین الجانب فی التبلیغ والمسامحة فی الانذار۔ (صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ کے معاملہ میں کافروں کی مدارات اور ان کی رعایت اور چشم پوشی سے منع کیا گیا ہے)

وَدَعَا أَذْهَبَهُمْ (اور ان کی اید کو چھوڑ دیئے) یعنی ان کی طرف سے جو تکلیفیں آپ کو پہنچی ہیں ان کی پرواہ نہ کیجئے اور ان پر صبر کیجئے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ (اور اللہ پر بھروسہ کیجئے) وہی مدد فرمائے گا۔ وَكُلٌّ بِاللَّهُ وَكِيلٌ (اور اللہ کافی کار ساز ہے) سب

کچھ اسی کے سپرد کیجئے وہی نفع کا مالک ہے دشمنوں کی ایذاؤں سے بھی بچائے گا اور آپ کو خیریت اور عافیت سے بھی رکھے گا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ

اے ایمان والو! جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر تم انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہاری

فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَيَعْبَهُنَّ لَسِرْحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ۝۱۹

ان پر کوئی عِدت نہیں جسے شمار کرو تم ان کو کچھ متاع دے دو اور انہیں خوبی کے ساتھ چھوڑ دو۔

## عِدت کے بعض مسائل

**تفسیر:** شریعت اسلامیہ میں نکاح اور طلاق ادائے مہر نان نفقہ اور طلاق کے بعد عِدت گزارنے کے بہت سے احکام ہیں جو قرآن مجید میں کئی جگہ مذکور ہیں اور فقہاء کرام نے ان کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ نکاح تو بہت مبارک اور مستحسن اقدام ہے اور بعض صورتوں میں واجب بھی ہوتا ہے اور طلاق بھی شریعت اسلامیہ میں مشروع ہے لیکن اسے انقبض البہات قرار دیا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کر لے جس سے نکاح حلال ہو تو نکاح منعقد ہو جاتا ہے اب وہ اس کے نکاح سے اُسی وقت نکلے گی جب یہ شخص مر جائے یا طلاق بائن یا مغلطہ دے دے یا طلاق رجعی دے کر عِدت گذرنے تک رجوع نہ کرے۔

لفظ عِدت عِدَّةٌ کا مصدر ہے جس کا معنی ہے شمار کرنا چونکہ مطلقہ اور متوفی عنہا زوجہ کو مہینے اور حیض شمار کرنے ہوتے ہیں تاکہ ان کے بعد کسی دوسرے مرد سے نکاح کر سکے اس لئے دوسرے نکاح کے انتظار کے زمانہ کو عِدت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جس کسی مرد نے نکاح کر کے جماع کر لیا پھر کسی وجہ سے طلاق دے دی اور عورت ایسی ہے جسے حیض آتا ہے اور حاملہ بھی نہیں ہے تو اس کی عِدت تین حیض ہے اور اگر حیض والی نہیں ہے تو اس کی عِدت کی مدت تین مہینے ہے اور جس عورت کو حالت حمل میں طلاق ہو جائے اُس کی عِدت وضع حمل پر ختم ہو جائے گی۔ اور جس منکوحہ عورت کا شوہر مر جائے جو حمل والی نہ ہو تو اس کی عِدت چار ماہ اور دس دن ہے شوہر نے اس سے جماع کیا ہو یا نہ کیا ہو اور اگر حمل والی ہے تو اس کی عِدت وضع حمل ہے۔

اگر کسی عورت سے نکاح کیا اور اس سے جماع کرنے سے پہلے ہی طلاق دے دی تو کوئی عِدت واجب نہیں یعنی ایسی عورت طلاق ہونے کے ساتھ ہی کسی دوسرے مرد سے نکاح کر سکتی ہے۔

طلاق دینے والے شوہر کو کوئی حق نہیں کہ اس کو عِدت گزارنے کو کہے اور دوسری جگہ نکاح کرنے سے روکے اور اسے کچھ متاع بھی دے دیں۔ لفظ متاع مال کو کہتے ہیں صورت مذکورہ میں کتنا مال دینا ہے؟ سورہ بقرہ میں اس کو بیان فرمایا:

وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَيُضَفْ مَا فَرَضْتُمْ ۚ

یعنی اگر تم انہیں اس سے پہلے طلاق دے دو کہ انہیں ہاتھ لگاؤ اور حال یہ ہے کہ ان کے لئے مہر مقرر کر چکے ہو تو جو کچھ مقرر کیا ہے اس کا ادا دے دو اور اگر ہاتھ لگائے بغیر طلاق دے دی اور مہر مقرر نہیں کیا تھا تو ایک جوڑا کپڑے دینا واجب ہے۔ سورہ بقرہ کی مذکورہ آیت



سے پہلے جو وَمَتَّعُوْهُنَّ فرمایا ہے اس سے یہی مراد ہے فقہاء اصطلاح میں اس جوڑے کو متاع کہتے ہیں۔ یہ جوڑا تین کپڑوں پر مشتمل ہوگا، ایک خوب بڑی چادر جس میں سر سے پاؤں تک لپٹ سکے، دوسرے دو پٹہ تیسرے کرتے اور یہ متاع مرد کی حیثیت کے مطابق دیا جائے گا۔ اور اگر کسی عورت سے نکاح کے بعد جماع بھی کر لیا لیکن مہر مقرر نہیں کیا گیا تو اس صورت میں مہر مثل واجب ہوتا ہے۔ اگر کسی عورت سے نکاح کیا بھی ہو اور اس کے ساتھ جماع بھی کیا اور پھر طلاق دے دی اور حالی یہ ہے کہ مہر بھی مقرر کیا تھا تو اس صورت میں پورا مہر دینا واجب ہوگا۔

حنفیہ اور حنابلہ کے نزدیک جماع اور خلوت صحیحہ کا ایک ہی حکم ہے یعنی نکاح شدہ عورت سے خلوت صحیحہ ہوگئی تو اس میں بھی عدت واجب ہوگئی اور مقررہ مہر بھی پورا دینا ہوگا۔

قال ابن قدامہ فی المغنی ج ۹ ص ۸۰: ولا خلاف بین اهل العلم فی وجوبها علی المطلقة بعد الدخول فاما ان خلایها ولم یعہا ثم طلقها فان مذهب احمد وجوب العدة علیها وروی ذلك عن الخلفاء الراشدين وزید و ابن عمرو و به قال عروة و علی بن حسین و عطاء و الزهري و الثوري و الا و زاعی و الاسحق و اصحاب الرايو الشافعی فی قديم قولیه و قال الشافعی فی السجید لا عدة علیها لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَكَثَّرَ الْمُؤْمِنَاتُ فَطَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَوُفَّيَنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا) وهذا نص، ولا نهى مطلقة لم تمس فأنهت من یخل بها، ولنا إجماع الصحابة روى الامام احمد والثرم باسنادهما عن زرارة بن اوفی قال قضی الخلفاء الراشدون ان من اوخى سترا أو اغلقت باباً فقد وجب المهر ووجبت العدة ورواه الاثرم ایضاً عن الاحنف عن عمرو علی وعن سعید بن المسیب عن عمرو زید بن ثابت، وهذه قضایا اشهرت فلم تنكر فصارت اجماعاً وضعف احمد ما روى فی خلاف ذاك. اهـ (علامہ ابن قدامہ نے ”المغنی“ میں لکھا ہے کہ دخول کے بعد جس عورت کو طلاق دیدی جائے تو اس کے لئے حق مہر واجب ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے لیکن اگر خاوند نے خلوت تو کی مگر وطی نہیں کی پھر طلاق دیدی تو اس کے بارے میں امام احمد کا مذہب یہ ہے کہ اس پر عدت واجب ہے اور یہی بات حضرات خلفائے راشدین، حضرت زید اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم سے مروی ہے اور عروہ، علی بن حسین، عطاء، زہری، ثوری اور زاعی، اسحاق، رائے والے اور امام شافعی اپنے اپنے قول کے مطابق یہ سب بھی اسی کے قائل ہیں کہ اس پر عدت واجب ہے، امام شافعی کا جدید قول یہ ہے اس پر عدت نہیں ہے اس آیت کی وجہ سے (آیت دیکھ کر لکھ لیں) اور یہ آیت اس بارے میں نص ہے کہ دخول سے پہلے طلاق میں عدت نہیں ہے اور اس وجہ سے بھی کہ وہ ایسی مطلقہ ہے جس کے ساتھ وطی نہیں ہوئی لہذا اس کی خلوت مشتبہ ہوگئی ہے۔ اور ہماری دلیل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اجماع ہے۔ امام احمد اور اثرم نے اپنی اپنی سند کے ساتھ حضرت زرارة بن اونی سے نقل کیا ہے کہ خلفائے راشدین کا فیصلہ یہ تھا کہ جس نے پردہ لٹکا لیا دروازہ بند کر دیا تو مہر بھی واجب ہے اور عدت بھی اور اثرم نے احنف سے انہوں نے عمرو علی سے اور سعید بن المسیب سے انہوں نے عمرو زید بن ثابت سے بھی یہی روایت کی ہے اور یہ مشہور فیصلے ہیں ان پر کسی صحابی نے تکیہ نہیں کی لہذا اجماع ہو گیا اور اس کے خلاف جو مروی ہے امام احمد نے اسے ضعیف قرار دیا ہے)

قال العبد الفقير: مذهب الجمهور مخالف في الظاهر الآية وهو التصريح بعدم وجوب العدة اذا طلقها ولم يمسه، وكيف ساغ للصحابه والتابعين وجمهور الفقهاء ان يختاروا خلاف ما صرح به الآية الكريمة، هذا ما كان يختلج في قلبي، ثم ان الله تعالى القي في روعي ان الله تعالى انما خاطب الزوج الاول الذي طلقها انه ليس لك ان تامرها بالعدة كان لان صلته انقطعت عنها، فاما عدم الاعتداد في حق الزوج الثاني الذي يريد نكاحها بعد طلاق الزوج الاول وجواز النكاح بعد طلاق مباشرة فالآية الكريمة ساكتة عن ذلك، وانما جعل الجمهور الخلوة الصحيحة مثل المسيس في ايجاب العدة قطعاً للاحتمال فقد يحتمل ان يكون هاوعد سراً مع رجل يرغب في نكاحها وتستعجل في ذلك وتكذب في انه لم يمسه الزوج الاول مع وجود المسيس وقد يمكن انه جامعها الزوج الاول وعلقت منه وانكرت المسيس وامر المسيس لا يعلمه الا هي والزوج الاول، فلو اخذ بقولها واجيز لها ان تنكح زوجاً اخر بغير اعتداد عدة وجامعها الزوج الثاني بعد نكاحه يختلط النسب لانه اذا وَلَدَ وَلَدَ يَظُنُّ الزَّوْجَ الثَّانِي انه ولده ولد على فراشه فيكون ذلك ادخالاً لي قوم من ليس منهم وهو محترم، فقد روى ابو داود عن ابى هريرة رضى الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما نزلت آية الملاءنة ايما امرأة ادخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله الجنة فان قيل انها كيف تتيقن بالعلوق من الزوج الاول؟ قلنا يحتاط في الانساب مالا يحتاط في غيرها فنزل الجماع منزلة العلوق، بقي انه لم خطب الزوج الاول بانه ليس لك عليها عدة تعتدها؟ فوجهه -والله تعالى اعلم- (بنده عاجز كهتا ہے کہ جمہور کا مذہب آیت کے ظاہر کا مخالف نظر آتا ہے آیت میں تو وطی کے بغیر عدت نہ ہونے کی تصریح ہے تو صحابہ تابعین اور جمہور فقہاء نے آیت کی تصریح کے خلاف کیسے کیا ہے؟ یہ بات میرے دل میں کھٹک رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا کہ اللہ تعالیٰ نے طلاق دینے والے پہلے خاوند سے خطاب کر کے فرمایا ہے کہ تو ایسی صورت میں اسے عدت کا حکم نہیں کر سکتا کیونکہ اس خاوند کا تعلق ختم ہو چکا ہے۔ مگر دوسرا خاوند جواب پہلے کی طلاق کے بعد نکاح کرنا چاہتا ہے اور اس طلاق کے فوراً بعد نکاح کے بارے میں آیت کریمہ خاموش ہے۔ لہذا جمہور نے خلوة صحیحہ کو عدت کے واجب ہونے کے بارے میں واقعہ وطی کے قائم مقام قرار دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پہلے خاوند نے وطی کی ہو مگر یہ عورت دوسرے خاوند کی طرف رغبت کی وجہ سے کہتی ہو کہ وطی نہیں ہوئی جلدی نکاح ہو جائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ پہلے خاوند کے جماع سے حمل ہو گیا ہو اور جماع کے معاملہ کو یہ عورت جانتی ہے یا پہلا خاوند جس نے طلاق دیدی ہے اور عورت اب اس کو چھپاتی ہے تاکہ جلدی دوسرا نکاح ہو جائے۔ اب اگر عورت کی بات کا اعتبار کیا جائے اور عدت گزارے بغیر دوسرے خاوند سے نکاح کی اجازت دیدی جائے اور نکاح کے بعد دوسرے خاوند نے جماع کر لیا تو نسب خلط ہو جائے گا تو یہ اس عورت کی طرف سے ایک قوم کے نطفہ کو دوسری قوم میں شامل کرنا ہوا ہو جو کہ حرام ہے۔ ابو داؤد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے حضور ﷺ سے سنا ہے جب لعان والی آیت اتری تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جس عورت نے کسی اور کا بچہ دوسری

قوم میں داخل کر دیا تو اس عورت کا اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا اگر کوئی کہے کہ پہلے خاوند سے حمل کا یقین کیسے ہوا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں نسب کے معاملہ میں دوسرے معاملات سے زیادہ احتیاط کی جاتی ہے لہذا یہاں جماع ہی کو طلاق کے قاسمقام سمجھا گیا۔ باقی رہی یہ بات کہ جب دوسرے خاوند سے نکاح کیلئے احتیاط اسی میں تھی کہ وہ عورت تگزارے تو پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے خاوند کو عدت گزارنے کا حکم کیوں نہیں فرمایا؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے)

انہ ما مور بالسراج الجمیل فلا یعرض بشیء لا صلة له به بعد قطع صلة المرأة عن نفسه. والعلم عند الله الکریم. (ہو سکتا ہے یہ وجہ ہو کہ پہلا خاوند تو طلاق کے بعد حسن سلوک کا مامور ہے لہذا آپ اسے ایسے معاملہ میں رکاوٹ نہیں بننا چاہئے کہ جس کے بارے میں اس کا تعلق عورت سے نہیں رہا کیونکہ وہ خود عورت سے اپنا تعلق کاٹ چکا ہے)

آخر میں فرمایا: وَلَسَوْحُوْهُنَّ مِّمَّا لَاحِقَ بِهِنَّ (اور انہیں خوبی کے ساتھ چھوڑ دو) یعنی انہیں تنگ نہ کرو ان کا حق نصف مہر یا متاع خوش دلی کے ساتھ اور کوئی سخت بات نہ کہو اور اس کا حق دے چکے ہو وہ واپس نہ لو۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ

اے نبی ہم نے آپ کے لئے یہ بیویاں حلال کر دیں جن کو آپ ان کے مہر دے چکے ہیں اور وہ عورتیں بھی حلال کیں جو آپ کی ملوکہ ہیں ان اموال میں سے

اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلِيلِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ

جو اللہ نے آپ کو مال غنیمت میں سے دلوائے اور آپ کے چچا کی بیٹیاں اور آپ کی چھوٹی بیٹیوں کی بیٹیاں اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور خالائوں کی بیٹیاں جنہوں

مَعَكَ وَأَمْرًا مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً

نے آپ کے ساتھ ہجرت کی اور وہ عورتیں حلال کیں جو بغیر عوض کے اپنی جان نبی کو بخش دیں اگر بغیر ان سے نکاح کرنا چاہیں یہ آپ کے لئے مخصوص

لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ

ہے نہ کہ مؤمنین کے لئے ہم نے جان لیا جو کچھ ہم نے ان پر ان کی بیویوں اور باندیوں

لَيْكِنَّا لَيَكُونَنَّ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

کے بارے میں احکام مقرر رکھے تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو اور اللہ غفور ہے رحیم ہے۔

نکاح کے بعض احکام ۵ رسول اللہ ﷺ کی بعض خصوصیات

تفسیر: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد رسول اللہ ﷺ نے متعدد عورتوں سے نکاح فرمایا جن کے اسمائے گرامی آیت کریمہ یَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُنَّ تُدْرُونَ الْحَبِیوةَ الدُّنْیَا کے ذیل میں بیان کئے جا چکے ہیں ان بیویوں

میں اکثر بیویاں مہاجرات تھیں، البتہ صفیہؓ بنت حنی بن اخطب یہود خیبر کے قیدیوں میں سے اور حضرت جویریہؓ مغزوہؓ بنی المصطلق کے قیدیوں میں سے تھیں ان بیویوں کو آیت بالا میں الَّتِي اَنْتَ اُجُوْرُهُنَّ میں بیان فرمایا اور آپ کی بعض سراری یعنی باندیاں بھی تھیں جنہیں وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ معاً آفکاء اللہ علیک میں بیان فرمایا، ان باندیوں میں سے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھیں جن سے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے اور زمانہ رضاعت ہی میں وفات پا گئے۔

آیت بالا میں فرمایا کہ اے نبی! ہم نے آپ کے لئے آپ کی بیویاں حلال کر دیں، یہ وہ بیویاں ہیں جنہیں آپ ان کے مہر ادا کر چکے ہیں، مہر ادا کر دینا ازدواجی تعلقات حلال ہونے کی شرط نہیں لیکن جتنا جلدی ادا کر سکے وہ بہتر ہے خاص کر مہر مغل تو ازدواجی تعلق قائم کرنے سے پہلے ہی دے دیں۔ قال صاحب الروح، وتقيد الا حلال له باطائها معجلة ليس لتوقف الحل عليه بل لا يثار الا فضل له صلى الله عليه وسلم فان في التعجيل براءة الذمة وطيب النفس ولذا كان سنة السلف لا يعرف منهم غيره۔ (تفسیر روح المعانی والے فرماتے ہیں کہ عورتوں کے حلال کرنے کو مہر جلدی ادا کرنے کے ساتھ مقید کرنا اس لئے نہیں ہے کہ عورت کا حلال ہونا ادائیگی، مہر پر موقوف ہے نہیں بلکہ یہ اس لئے کہا کہ حضور ﷺ کے لئے افضل صورت کو پسند کیا گیا ہے کیونکہ جلدی مہر ادا کرنے میں ذمہ داری سے براءت ہے اور دل کی پاکیزگی ہے اسی لئے اسلاف کا طریقہ ایسا تھا کہ دوسرے اس سے قاصر ہیں)

ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ ہم نے آپ کے لئے آپ کے چچا کی لڑکیاں اور آپ کی پھوپھیوں کی لڑکیاں اور آپ کے ماموں کی لڑکیاں اور آپ کی خالاؤں کی لڑکیاں حلال کر دیں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، اس مضمون کو وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ اَخِيكَ و بَنَاتِ خَالِكَ و بَنَاتِ خَالَتِكَ الیٰی مَا جَزُوْنَ مَعَكَ بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے ان رشتہ داروں کی بیٹیوں کو حلال تو فرمادیا لیکن ان میں سے آپ کے نکاح میں صرف حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا آئیں جو آپ کی پھوپھی کی بیٹی تھیں چچا کی بیٹیوں میں سے آپ ﷺ کے نکاح میں کوئی بی بی نہیں آئیں، ان میں سے حضرت ام ہانی بھی تھیں جو آپ کے چچا ابو طالب کی بیٹی اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی بہن تھیں، آپ نے مکہ معظمہ میں ان کو نکاح کا پیغام دیا تھا اُس وقت انہوں نے عذر پیش کر دیا، وہ فرماتی ہیں کہ جب آیت بالا نازل ہوئی تو میں آپ کے لئے حلال نہ تھی کیونکہ میں ہجرت کرنے والی عورتوں میں سے نہ تھی۔ (رواہ الترمذی)

حضرت ام ہانی فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئی تھیں اور ان عورتوں میں سے نہ تھیں جنہوں نے پہلے سے اسلام قبول کر کے مدینہ منورہ کو ہجرت کی تھی۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ کسی عورت کا مہاجرہ ہونا حلت کی شرط نہیں تھی، حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا نے جو فرمایا کہ میں آیت بالا نازل ہونے کے بعد آپ ﷺ کیلئے حلال نہ تھی کیونکہ میں مہاجرات میں سے نہ تھی، یہ انہوں نے اپنے اجتہاد سے فرمایا لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ہجرت کو شرط حلت قرار دیا۔ (کما رواہ الترمذی فی تفسیر الآية الکریمة)

اور الَّتِي هَجَرُوْنَ اِلَيْكَ بطور تعلیل ہے کیونکہ آنحضرت ﷺ کی والدہ ماجدہ مدینہ منورہ ہی کی تھیں لہذا ان کے بھائیوں اور بہنوں کے ہجرت کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پھر سیرت کی کتابوں سے آپ ﷺ کے ماموں اور

خالاؤں کی بیٹیوں اور ان کی اولاد کا واضح پتہ نہیں چلتا۔ گو صاحب روح المعانی نے رجال اور سیر کی کتابوں سے تلاش کر کے بعض ماموؤں اور خالاؤں کا ذکر کیا ہے لیکن ان میں سے کسی کی بیٹی سے آنحضرت ﷺ کا نکاح نہیں ہوا اور ہر حال میں آیت کے مضمون پر کوئی اشکال نہیں ہے کیونکہ آیت میں تو چچا اور پھوپھی اور ماموں اور خالہ کی بیٹیوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی ہے کوئی امر وجوبی نہیں ہے اور یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ آپ ﷺ کو خطاب فرما کر آپ کی اُمت کو بتایا گیا ہے کہ تمہارے لئے چچا، پھوپھی، خالہ اور ماموں کی لڑکیوں سے نکاح کرنا درست ہے جیسا کہ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ هُنَّ میں مسلمانوں کو بھی طلاق دینے کا سنت طریقہ بتایا ہے بظاہر خطاب آپ ﷺ کو ہے۔

پھر فرمایا: وَأَمْرًا فَهُوَ مِنْهُ اِنْ رَأَيْتُمْ أَنَّ كِتَابَكُمْ فَالْحَرْمَةُ لَكُمْ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ (اور وہ عورت حلال کی جو بغیر عوض کے اپنی جان نبی کو بخش دے اگر بغیر اس سے نکاح کرنا چاہے نہ کہ مؤمنین کے لئے) اس آیت میں رسول اللہ ﷺ کو یہ اختیار دیا گیا کہ اگر کوئی مسلمان عورت رسول اللہ ﷺ کو اپنا نفس ہبہ کر دے یعنی بغیر مہر کے آپ سے نکاح کرنا چاہیں اور آپ اس سے نکاح کا ارادہ کریں تو آپ کے لئے یہ نکاح حلال ہے اور یہ خاص آپ ﷺ کے لئے ہے دوسرے مؤمنین کے لئے نہیں اگر کوئی دوسرا مسلمان کسی عورت سے نکاح کرنا چاہے اور عورت یوں کہہ دے کہ میں مہر نہیں لوں گی تب بھی مہر دینا ہوگا اور مہر مثل کے بقدر ہوگا۔

آیت کریمہ میں جواز نکاح کا ذکر ہے یعنی یہ فرمایا ہے کہ نبی کے لئے ایسی عورت سے نکاح کرنا حلال ہے جو بغیر مہر کے نکاح کرنے پر راضی ہو جائے، لیکن علماء کرام کا اس میں اختلاف ہے کہ کیا ایسا کوئی واقعہ پیش آیا بھی تھا یا نہیں یعنی کیا آپ نے کسی ایسی عورت سے نکاح کیا جس نے اپنے نفس کو بطور ہبہ پیش کیا ہو اور آپ نے نکاح فرمایا ہو ایسی صورت پیش آئی تھی یا نہیں؟ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لئے جائز ہونے کا اعلان ہے لیکن ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، دوسرا فریق کہتا ہے کہ ایسے واقعات پیش آئے تھے بعض عورتوں کو آپ نے اپنے نکاح میں قبول فرمایا اور بعض کو قبول فرمانے سے انکار فرمادیا۔ بعض حضرات نے میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام بھی اس سلسلہ میں ذکر کیا ہے اور بعض حضرات نے زینب بنت خزیمہ کا نام بھی لیا ہے۔ صاحب روح المعانی نے ان کے علاوہ دوسرے نام بھی لکھے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس کوئی ایسی عورت نہیں تھی جس نے اپنے نفس کو ہبہ کیا ہو۔

لفظ وَأَمْرًا فَهُوَ مِنْهُ کے ساتھ جو لفظ مُؤْمِنَةٍ کا اضافہ فرمایا ہے اس سے حضرات مفسرین کرام نے یہ استنباط کیا ہے کہ کتابی عورتوں سے نبی اکرم ﷺ کو نکاح کرنا جائز نہیں تھا گو دیگر مسلمانوں کے لئے یہودیہ اور نصرانیہ سے نکاح کرنا جائز ہے (گو بہتر نہیں ہے) اور اگر ان کے میل جول سے اپنے ایمان اور اعمال اسلام میں رخنہ پڑنے کا اندیشہ ہو تو بقدر خطر کراہت میں شدت آجائے گی۔ پھر فرمایا: قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا نَكَحَتْ أَبْنَاؤُهُمْ (ہم نے جان لیا جو کچھ ہم نے ان پر ان کی بیویوں اور باندیوں کے بارے میں احکام مقرر کیے) یعنی آپ کے علاوہ باقی مؤمنین کے لئے جو احکام ہم نے مقرر کئے ہیں وہ ہم جانتے ہیں آپ کے ساتھ جو خصوصی احکام ہیں وہ ان میں شریک نہیں ہیں مثلاً عام مسلمانوں کا نکاح بطور ہبہ

یعنی بغیر مہر کے نہیں ہو سکتا اور کتابی عورتوں سے انہیں نکاح کرنا جائز ہے اسی طرح سے جو مملوکہ باندیاں ہیں ان سے عام مؤمنین کا نکاح درست ہے۔

لَیْسَ لَکُمْ عَلَیْکُمْ حَرَجٌ (یعنی اوپر جو آپ کے لئے خصوصی احکام بیان کئے گئے یہ اس لئے ہیں کہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو) بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس کا تعلق ان وہبت نفسہا سے ہے مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو بلا مہر بہتہ کرنے والی عورت سے نکاح کرنا آپ کے لئے جائز قرار دیا یہ اس لئے ہے کہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو۔ اور بعض حضرات نے جملہ احکام مذکورہ سے متعلق کیا ہے اور مطلب یہ ہے کہ اوپر جو احکام بیان ہوئے یہ اس لئے مشروع کئے گئے کہ آپ تنگی میں نہ پڑیں۔

وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (اور اللہ غفور ہے رحیم ہے) اس کی مغفرت اور رحمت بہت بڑی ہے۔

تُرْجَىٰ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتُؤَىٰ إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمِنْ ابْتِغَايَتِ مِمَّنْ عَزَلْتَ

آپ ان میں سے جسے چاہیں اپنے سے دور رکھیں اور جسے چاہیں اپنے نزدیک ٹھکانہ دیں اور جسے آپ دور کر دیں اُسے طلب کریں

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكْ اِذْنًا اَنْ تَقْرَءَ عَلَيْهِمْ وَلَا يَحْزَنَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا اتَيْتَهُنَّ

تو اس بارے میں آپ پر کوئی گناہ نہیں یہ اس بات سے قریب تر ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ رنجیدہ نہ ہوں اور جو کچھ آپ

كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ۝

ان کو دیں وہ سب اس پر راضی رہیں اور اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے اور اللہ جاننے والا ہے حلیم والا ہے۔

ازواج مطہرات ﷺ کے بارے میں آپ کو اختیار ہے کہ جسے چاہیں اپنے پاس رکھیں اور جسے چاہیں دور کر دیں

**تفسیر:** آیت بالا میں رسول اللہ ﷺ کو خطاب ہے اور یہ فرمایا ہے کہ آپ کے نکاح میں جو عورتیں ہیں اُن میں باری مقرر کرنے یا نہ کرنے کا آپ کو اختیار ہے کہ جس کو چاہیں باری دینے میں شامل فرمادیں اور جس کو چاہیں شامل نہ فرمائیں یعنی ازواج کے درمیان باری تقسیم کرنا آپ پر واجب نہیں ہے جیسا کہ امت کے افراد پر واجب ہے اگر آپ نے کسی کو باری میں شمار نہیں فرمایا اور اس کے بعد پھر اس کے لئے باری مقرر کرنا چاہیں تو پھر سے باری میں شامل فرما سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو مذکورہ بالا اختیار دے دیا اور آپ کی ازواج کو یہ معلوم ہو گیا کہ آپ کے ذمہ باری مقرر کرنا واجب نہیں ہے اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آپ جو کچھ انہیں مال عطا فرمائیں گے وہ بھی محض تبرع ہوگا۔ تو یہ سب باتیں جانتے ہوئے اگر ان میں سے کسی کو مال نہ ملایا باری میں شمار نہیں کی گئیں تو اس سے رنجیدہ نہ ہوں گی اور جو کچھ ملے گا اس سے راضی رہیں گی اور اس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی۔ اور بعض حضرات نے اتیتھن سے مال مراد نہیں

لیا بلکہ ان کے درمیان باری مقرر کرنا اور باری کا چھوڑ دینا مراد لیا ہے۔ قال صاحب الروح (ج ۲۲ ص ۶۳) ای تفویض الامر الی مشیتک اقرب الی قرۃ عیونہن و سرورہن و رضاهن جمیعاً لانہ حکم کلہن فیہ سواء ثم ان سویت بینہن وجدن ذلک تفضلاً منک وان رجحت بعضہن علمن انہ بحکم اللہ تعالیٰ فطمئن بہ نفوسہن و روی هذا عن قتادة والمراد بما اتیتھن علیہ ما صنعت معہن فیتناول ترک المضاجعة والقسم۔ (تفسیر روح المعانی کے مصنف فرماتے ہیں یعنی معاملہ کا آپ کے سپرد ہونا ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور ان کی خوشی و رضا کے زیادہ قریب ہے کیونکہ اس میں سب کا حکم برابر ہے۔ پھر اگر آپ ان میں برابری کریں گے تو وہ آپ کی طرف سے احسان سمجھیں گی۔ اور اگر آپ ان میں سے کسی کو ترجیح دیں گے تو وہ یہی سمجھیں گی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے اور ان کے دل مطمئن رہیں گے۔ اور یہ قتادہ سے مروی ہے۔ اور بما اتیتھن سے مراد ہے وہ معاملہ و سلوک جو آپ ان سے کریں گے پس یہ ساتھ لینے کے ترک اور باری کی تقسیم کو شامل ہے)

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ یہ رسول اللہ ﷺ کو اور آپ کے ازواجِ مطہرات کو خطاب ہے (جو علی سبیل التغلیب ہے) اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے قلب مبارک میں بعض ازواج کی طرف میلان ڈالا اور ازواجِ مطہرات کے بارے میں جو حکم نازل ہوا جسے انہوں نے خوشی کے ساتھ قبول کیا اللہ تعالیٰ کو اس سب کا علم ہے باوجودیکہ رسول اللہ ﷺ کو یہ اجازت تھی کہ جسے دور رکھیں اور جسے چاہیں قریب رکھیں پھر بھی آپ تقسیم میں برابری فرماتے تھے اور غیر اختیاری رجحان جو کسی کی طرف تھا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرض کیا: اللَّهُمَّ هَذَا قَسَمِيْ فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلْمِزْنِيْ فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ اے اللہ! یہ میری تقسیم ہے جو میرے اختیار میں ہے لہذا آپ اس پر ملامت نہ فرمائیے جو کہ آپ کے اختیار میں ہے (یعنی قلبی میلان) اور جو میرے اختیار میں نہیں ہے۔ (رواہ الترمذی)

رسول اللہ ﷺ تمام بیویوں کے لئے باری مقرر کرتے تھے اور برابری فرماتے تھے البتہ حضرت سودہ رضی اللہ عنہا نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دے دی لہذا آپ ﷺ ان کی باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دے دیتے تھے اور سفر میں میں تشریف لے جاتے تھے تو قرعہ ڈالتے تھے اس طرح آپ سب کی دلداری فرماتے تھے۔  
وَكَانَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ حَافِظًا۔ اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اُسے سب کچھ معلوم ہے اور حلیم بھی ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے فیصلہ پر راضی نہ ہو اُسے سزا دینے میں جلدی نہیں فرماتا۔

لَا يَحِلُّ لَكَ الذِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ

اس کے بعد آپ کے لئے عورتیں حلال نہیں ہیں اور نہ یہ بات حلال ہے کہ آپ ان بیویوں کے بدلہ دوسری بیویوں سے نکاح کریں

حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا

اگرچہ آپ کو ان کا حسن بھلا معلوم ہو مگر جو آپ کی مملوکہ ہو اور اللہ ہر چیز کا نگران ہے



## اس کے بعد آپ کے لئے عورتیں حلال نہیں ہیں اور نہ آپ ان بیویوں کے بدلے دوسری عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں

**تفسیر:** اس آیت کا مطلب ظاہری الفاظ اور سابق کے اعتبار سے یہ ہے کہ اس وقت (اس آیت کے نزول کے وقت) جو آپ کے نکاح میں عورتیں ہیں آپ انہیں کو اپنے نکاح میں رکھیں ان کے علاوہ کسی عورت سے آپ کو نکاح کرنا حلال نہیں ہے اور اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ ان میں سے کسی عورت کو طلاق دے کر اس کی جگہ کسی اور عورت سے نکاح کر لیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اور دیگر ائمہ تفسیر سے آیت بالا کی یہ تفسیر منقول ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی ازواج مطہرات کو اختیار دے دیا کہ چاہو تو دنیا لے لو اور چاہو تو میرے پاس رہو (جس کا ذکر آیت کریمہ **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ**) میں گزر چکا ہے اور آپ ﷺ کی ازواج مطہرات نے نفقہ کا مطالبہ چھوڑ کر آپ ہی کی زوجیت میں رہنا پسند کر لیا تو اللہ جل شانہ نے ان پر یہ انعام فرمایا کہ اپنے نبی ﷺ کی ذات گرامی کو بھی انہیں بیویوں کے لئے مخصوص فرمادیا جو اس وقت آپ ﷺ کے نکاح میں تھیں جن کی تعداد نو تھی ان کے سوا کسی سے آپ کے لئے نکاح جائز نہیں رکھا گیا۔ صاحب روح المعانی نے سنن بیہقی سے حضرت انس رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے پھر حضرت ابن عباس سے بھی یہی بات نقل کی ہے (جسہ اللہ تعالیٰ علیہن کما جسہن علیہ علیہ الصلوٰۃ والسلام) جب انہوں نے آپ ﷺ کی زوجیت میں رہنے کو اختیار کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جذبہ کی قدر دانی فرمائی اور رسول اللہ ﷺ کو حکم دے دیا کہ ان کے نکاح میں ہوتے ہوئے یا ان میں سے کسی کو چھوڑ کر ان کے بدلہ میں کسی دوسری عورت سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے ساتھ ہی **وَلَوْ أَجَبَكَ حَسَنُهُنَّ** بھی فرما دیا یعنی ان کے علاوہ کسی عورت سے نکاح کرنا آپ کے لئے اب حلال نہیں ہے اگرچہ کسی عورت کا حسن آپ کو پسند آجائے۔

بعض حضرات نے آیت بالا کی دوسری تفسیر کی ہے وہ بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے اور وہ یہ ہے کہ شروع آیت میں آپ کے لئے عورتوں کی جتنی اقسام حلال کی ہیں ان کے بعد یعنی ان کے علاوہ کسی اور قسم کی عورتوں سے آپ کو نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے اپنے خاندان کی عورتوں میں سے آپ ﷺ کے لئے صرف وہ عورتیں حلال کی گئیں جو مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئی تھیں غیر مہاجرات سے آپ کا نکاح حلال نہیں رکھا گیا۔ اسی طرح غیر مومنہ یعنی اہل کتاب کی عورتوں سے آپ ﷺ کا نکاح جائز نہیں رکھا گیا۔ اور **وَمِنْ بَعْدُ** کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی قسمیں آپ کے لئے حلال کر دی گئیں آپ انہیں میں سے کسی عورت سے نکاح کر سکتے ہیں اگر یہ مطلب لیا جائے تو یہ کسی نئے حکم کا عائدہ نہیں ہے بلکہ پہلے حکم ہی کی تاکید اور توضیح ہے۔ اس صورت میں آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے نکاح میں جو موجودہ نو عورتیں ہیں ان کے علاوہ کسی اور سے نکاح درست نہیں اگر پہلی تفسیر مراد لی جائے تب بھی اس حکم کو منسوخ مانا گیا ہے۔ اُم المؤمنین سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ آپ کا وصال ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے دیگر خواتین سے نکاح کی اجازت دے دی تھی۔ (رواہ الترمذی فی تفسیر سورة الاحزاب)

## سرور دو عالم ﷺ کے لئے کثرتِ ازواج کی حکمت اور مصلحت

یہود اور نصاریٰ اور دیگر مشرک اقوام جنہیں اسلام اور داعی اسلام جناب محمد رسول اللہ ﷺ سے دشمنی ہے اسلام کا مقابلہ کرنے میں دلائل سے عاجز ہیں۔ عقائد اسلامیہ اور اعمال اسلامیہ کی خوبی پر اور رسول اللہ ﷺ کی بعثت کے خلاف کوئی معقول اعتراض نہ کر سکے لیکن ان کے اکابر نے اپنے عوام کو اسلام سے دور رکھنے اور خود بھی دور رہنے کے لئے دو چار ایسے نامعقول قسم کے اعتراضات تراش لئے جو ان کے خیال میں بہت وزنی ہیں۔ اُن اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ ﷺ نے بہت سی شادیاں کی تھیں اور آپ کے نکاح میں بہت سی بیویاں تھیں۔ درحقیقت سب سے پہلے بنیادی بات یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی نبوت کے دلائل اور آپ کے معجزات کو دیکھنا چاہئے جن میں سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم نے چیلنج کیا ہے کہ قرآن جیسی کوئی سورت بنا کر لاؤ اگر تم سچے ہو! آج جبکہ قرآن کے اس چیلنج کو ڈیڑھ ہزار سال کے قریب ہو رہے ہیں کوئی فرد یا جماعت اس کی مثل بنا کر نہیں لاسکی اور لا بھی نہیں سکتے کیونکہ قرآن نے ساتھ ہی وَلَنْ تَفْعَلُوا بھی فرمادیا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ ﷺ نے کامل اور جامع دین پیش کیا۔ انسانی زندگی کے تمام انفرادی اور اجتماعی حالات کے قوانین بتائے آداب بھی بتلائے اور اخلاق بھی سکھائے جبکہ آپ ﷺ نے کسی سے کچھ بھی نہیں پڑھا تھا کیا یہ سب چیزیں اس بات کی دلیل نہیں ہیں کہ واقعی آپ ﷺ اللہ کے رسول اور نبی ہیں۔ لکن الناس یعاندون الحق۔

جب دلیل سے ثابت ہو گیا کہ جناب محمد رسول اللہ ﷺ واقعی اور بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور نبی ہیں تو آپ کی ہر بات اور ہر عمل صحیح ہے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے موافق ہے بندوں کے لئے قانون وضع فرمانے والا اور احکام بھیجنے والا اور بعض کو بعض احکام سے مستثنیٰ فرمانے والا وہی ہے۔ چونکہ وہ خالق اور مالک ہے اور سارے بندے اُسی کی مخلوق ہیں اس لئے اُسے اختیار ہے کہ جو احکام نافذ فرمائے اور جسے جس عمل کی اجازت دے دے جو دوسروں کے لئے نہ ہو۔ انہی امور میں سے رسول اللہ ﷺ کے لئے کثرتِ ازواج کا حلال ہونا بھی ہے عام مؤمنین کو بشرطِ عدل چار بیویوں کی اجازت ہے اور آپ ﷺ کے لئے اس سے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت دیدی ہے۔

پھر یوں فرمادیا لَا یَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَا تَعْجَبْكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ (اس کے بعد آپ ﷺ کے لئے عورتیں حلال نہیں ہیں اور نہ یہ حلال ہے کہ آپ ان کے بدلہ دوسری بیویاں حاصل کر لیں اگرچہ آپ کو ان کا صن بھانا ہو الا یہ کہ کوئی آپ کی باندی ہو)

یہاں یہ امر قابلِ ذکر ہے کہ اگر آپ بالفرض اللہ کے نبی نہیں تھے اور زیادہ بیویاں رکھنا محض نفسانی خواہشات کیلئے تھا تو آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ مجھ پر آیت کریمہ لَا یَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ نازل ہوئی ہے اور مجھے اب آئندہ نکاح کرنے سے منع فرمادیا ہے یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو شخص نفس ہی کا پابند ہو گا وہ اپنے اوپر ایسی پابندی کیوں لگائے گا۔

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ کے چچا حمزہؓ کی فلاں لڑکی بہت خوبصورت ہے اُس سے نکاح فرما لیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا حمزہؓ میرے رضاعی بھائی ہیں اُن کی لڑکی سے میرا نکاح حلال نہیں ہے اسی طرح بعض ازواج

نے اپنی بہن سے نکاح کرنے کی گزارش کی جسے آپ ﷺ نے نامنظور فرمادیا۔ ظاہر ہے کہ جس کوشہوت رانی سے مطلب ہو وہ قاعدہ قانون اور حرام و حلال کی پرواہ نہیں کرتا خصوصاً جبکہ جو کچھ اس کی زبان سے نکل جاتا ہو اس کے معتقدین کے نزدیک وہی قانون بن جاتا ہو۔ پھر یہ بھی سمجھنا چاہئے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سب آپ کے فرمانبردار ہی نہیں بلکہ جان نثار بھی تھے اگر آپ ﷺ چاہتے تو بہت سی کنواری لڑکیوں سے نکاح ہو سکتا تھا لیکن آپ کے نکاح میں صرف ایک بیوی ایسی تھی جس سے کنوارے پرین میں نکاح ہوا یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان سے نکاح کرنے سے امت کے لئے بہت احکام شروع ہو گئے جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بڑی عمر والے شخص کا کم عمر لڑکی سے نکاح جائز ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر مستقل باب قائم کیا ہے پھر یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ سسرال ہی میں میاں بیوی کا میل ہو سکتا ہے اور دن میں بھی ہو سکتا ہے۔ روایات حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں تشریف لائے اور وہیں تنہائی اور یکجائی کا موقع دے دیا گیا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے احکام ثابت ہوئے آپ ﷺ قول سے بھی تعلیم دیتے تھے اور عمل سے بھی آپ ﷺ امت کی رہبری نہ فرماتے تو کون بتانے والا تھا جبکہ سب کو آپ ہی کے اتباع کا حکم دیا گیا ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نو سال آپ کے ساتھ رہیں اس نو سال کے عرصہ میں انہوں نے بڑی بھاری تعداد میں روایات قولیہ اور فعلیہ کو محفوظ کیا اور پھر آپ ﷺ کی وفات کے بعد اڑتالیس سال تک ان کی تبلیغ فرمائی بڑی بھاری تعداد میں حضرات تابعین نے آپ سے علم حاصل کیا آپ سے جو روایات مروی ہیں ان کی تعداد ۳۲۴۰ سے زیادہ ہے ہر سال حج کے لئے تشریف لے جاتی تھیں معنی میں جو آپ کا خیمہ ہوتا تھا وہ ایک بہت بڑا مرکز دارالعلوم بن جاتا تھا ہمیشہ سے پوری امت مسلمہ آپ کی روایت کردہ قولی اور فعلی احادیث سے مستفید ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی۔ تعداد ازواج کی وجہ سے تعلیمی اور تبلیغی فوائد جو امت کو حاصل ہوئے اور جو احکام امت تک پہنچے اس کی جزئیات اس قدر کثیر تعداد میں ہیں کہ ان کا احصاء دشوار ہے کتب احادیث اس پر شاہد ہیں البتہ بعض دیگر فوائد کی طرف یہاں ہم اشارہ کرتے ہیں۔

انسانی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں نبی اکرم ﷺ کی رہبری کی ضرورت نہ ہو نماز باجماعت سے لے کر بیویوں کے تعلقات آل و اولاد کی پرورش اور پاخانہ و پیشاب اور طہارت تک کے بارے میں آپ ﷺ کی قولی اور فعلی ہدایات سے کتب حدیث بھر پور ہیں اندرون خانہ کیا کیا کام کیا بیویوں سے کیسے میل جول رکھا اور گھر میں آ کر مسائل پوچھنے والی خواتین کو کیا کیا جواب دیا۔ اس طرح کے سینکڑوں مسائل ہیں جن سے ازواج مطہرات کے ذریعہ ہی امت کو راہنمائی ملی ہے، تعلیم و تبلیغ کی دینی ضرورت کے پیش نظر حضور اقدس ﷺ کے لئے کثرت ازواج ایک ضروری امر تھا۔

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر حضرت ابوسلمہ کی وفات کے بعد آپ ﷺ نے ان سے نکاح کر لیا تھا وہ اپنے سابق شوہر کے بچوں کے ساتھ آپ ﷺ کے گھر تشریف لائیں ان کے بچوں کی آپ ﷺ نے پرورش کی اور اپنے عمل سے بتا دیا کہ کس پیار و محبت سے سوتیلی اولاد کی پرورش کرنی چاہئے۔ آپ ﷺ کی بیویوں میں صرف یہی ایک بیوی ہیں جو بچوں کے ساتھ آئیں اگر کوئی بھی بیوی اس طرح کی نہ ہوتی تو عملی طور پر سوتیلی اولاد کی پرورش کی تعلیم کا خانہ خالی رہ جاتا اور امت کو اس سلسلے میں کوئی ہدایت نہ ملتی۔ ان کے بیٹے حضرت عمر بن ابی سلمہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کی گود

میں پرورش پاتا تھا۔ ایک بار آپ ﷺ کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے پیالہ میں ہر جگہ ہاتھ ڈال رہا تھا آپ ﷺ نے فرمایا  
 سَمِ اللّٰهُ وَكُلُّ بِيَمِينِكَ وَكُلُّ بِمِائِيكَ۔ (اللہ کا نام لے کر کھا دینے ہاتھ سے کھا اور سامنے سے کھا) بخاری و مسلم  
 حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مرویات کی تعداد تین سو اٹھتر تک پہنچی ہوئی ہے۔

حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا ایک جہاد میں قید ہو کر آئی تھی دوسرے قیدیوں کی طرح یہ بھی تقسیم میں آگئیں اور ثابت  
 بن قیس یا ان کے چچا زاد بھائی کے حصہ میں ان کو لگا دیا گیا، لیکن انہوں نے اپنے آقا سے اس طرح معاملہ کر لیا کہ اتنا اتنا  
 مال تم کو دوں گی مجھے آزاد کر دو یہ معاملہ کر کے حضور ﷺ کے پاس آئیں اور مالی امداد کی درخواست کی، آپ ﷺ نے  
 فرمایا اس سے بہتر تمہیں بات نہ بتا دوں؟ وہ یہ کہ میں تمہاری طرف سے مال ادا کروں اور تم سے نکاح کر لوں، انہوں نے  
 بخوشی منظور کر لیا، آپ ﷺ نے ان کی طرف سے مال ادا کر کے نکاح فرمایا، ان کی قوم کے سینکڑوں افراد حضرات صحابہ کی  
 ملکیت میں آچکے تھے کیونکہ وہ سب لوگ قیدی ہو کر آئے تھے جب صحابہ گو پتہ چلا کہ جویریہ آپ ﷺ کے نکاح میں آگئی  
 ہیں تو آنحضرت ﷺ کے احترام کے پیش نظر سب نے اپنے اپنے غلام باندی آزاد کر دیئے۔ سبحان اللہ! حضرات صحابہ کرامؓ  
 کے ادب کی کیا شان تھی اس جذبہ کے پیش نظر کہ یہ لوگ اب سرکارِ دو عالم ﷺ کے سرال والے ہو گئے ہیں ان کو غلام بنا  
 کر کیسے رکھیں، سب کو آزاد کر دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس واقعہ کے متعلق فرماتی ہیں: فليقد اعتق  
 بتزوجه اياها مائة اهل بيت من بنى المصطلق فما اعلم امرأة اعظم بركة على قومها منها  
 الاستيعاب والاصابه (آنحضرت ﷺ کے جویریہ سے نکاح کر لینے سے بنوالمصطلق کے سو گھرانے آزاد ہوئے)  
 میں نے کوئی عورت ایسی نہیں دیکھی جو جویریہ سے بڑھ کر اپنی قوم کے لئے بڑی برکت والی ثابت ہوئی ہو)

حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر کے ساتھ ابتداء اسلام ہی میں مکہ میں اسلام قبول کیا تھا اور پھر دونوں  
 میاں بیوی ہجرت کر کے قافلے کے دوسرے افراد کے ساتھ حبشہ چلے گئے وہاں ان کا شوہر نصرانی ہو گیا اور چند دن کے بعد  
 مر گیا، آنحضرت ﷺ نے شاہ حبشہ نجاشی کے واسطے سے ان کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا جسے انہوں نے قبول کر لیا اور  
 وہیں حبشہ میں نجاشی ہی نے آنحضرت ﷺ کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا، دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت ام حبیبہ حضرت  
 ابوسفیان رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھیں اور حضرت ابوسفیانؓ اس وقت اُس گروہ کے سرخیل تھے جس نے اسلام دشمنی کو اپنا  
 سب سے بڑا مقصد قرار دیا تھا اور وہ مسلمانوں کو اور پیغمبر خدا ﷺ کو اذیت دینے سے باز نہیں آتے تھے اور انہیں فنا کے  
 گھاٹ اتار دینے کی فکر میں رہتے تھے جب اُن کو اس نکاح کی اطلاع ہوئی تو بلا اختیار اُن کی زبان سے یہ الفاظ نکلے:  
 هُوَ الْفَحْلُ لَا يَجْدُعُ اَنْفُهُ (یعنی محمد ﷺ جو ان مرد ہیں ان کی ناک نہیں کاٹی جاسکتی) مطلب یہ کہ وہ بلند ناک والے  
 معزز ہیں ان کو ذلیل کرنا آسان نہیں، ادھر تو ہم ان کو ذلیل کرنے کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں اور ادھر ہماری لڑکی ان  
 کے نکاح میں چلی گئی۔

غرض اس نکاح سے کفر کے ایک قائد کے حوصلے پست ہو گئے اور اس نکاح کی وجہ سے جو سیاسی فائدہ اسلام اور  
 مسلمانوں کو پہنچا اُس کی اہمیت اور ضرورت سے انکار نہیں کیا جاسکتا اور یقین سے کہا جاسکتا ہے کہ خدا کے مدد اور حکیم  
 رسول (ﷺ) نے اس فائدہ کو ضرور پیش نظر رکھا ہوگا۔

اور اس کثرت ازواج کی حقیقت بھی سن لیجئے کہ کس طرح وجود میں آئی پچیس سال کی عمر سے لے کر پچاس سال کی عمر شریف ہونے تک تنہا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ ﷺ کی زوجہ رہیں انکی وفات کے بعد حضرت سودہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا لیکن صغریٰ کی وجہ سے حضرت عائشہ اپنے والد کے گھر ہی رہیں پھر چند سال کے بعد ۲ھ میں مدینہ منورہ میں حضرت عائشہ کی رخصتی عمل میں آئی اُس وقت آپ ﷺ کی عمر چون سال ہو چکی ہے اور دو بیویاں اس عمر میں جمع ہوئی ہیں یہاں سے تعدد ازواج کا معاملہ شروع ہوا اسکے ایک سال بعد حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا پھر کچھ ماہ بعد حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا انہوں نے صرف اٹھارہ ماہ آپ کے نکاح میں رہ کر وفات پائی ایک قول کے مطابق تین ماہ آپ ﷺ کے نکاح میں زندہ رہیں پھر ۴ھ میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا۔ پھر ۵ھ میں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا۔ اُس وقت آپ کی عمر شریف اٹھاون سال ہو چکی تھی اور اتنی بڑی عمر میں آ کر چار بیویاں جمع ہوئیں ان کے بعد ۶ھ میں حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا سے اور ۷ھ میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح ہوا۔

خلاصہ یہ کہ چون برس کی عمر تک آپ ﷺ نے صرف ایک بیوی کے ساتھ گزارہ کیا یعنی پچیس سال حضرت خدیجہ کے ساتھ اور چار پانچ سال حضرت سودہ کے ساتھ گزارے پھر اٹھاون سال کی عمر میں چار بیویاں جمع ہوئیں اور باقی ازواج مطہرات دو تین سال کے اندر حرم نبوت میں آئیں اور ۱۰ھ میں آپ ﷺ نے وفات پائی۔

اور یہ بات خاص طور سے قابل ذکر ہے کہ ان سب بیویوں میں صرف ایک ہی عورت ایسی تھیں جن سے کنوارے پن میں نکاح ہوا یعنی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ان کے علاوہ باقی سب ازواج مطہرات بیوہ تھیں جن میں بعض کے دوشوہر پہلے گزر چکے تھے اور یہ تعدد بھی آخر عمر میں آ کر جمع ہوئی۔

اسلام کے بلند مقاصد اور پورے عالم کی انفرادی و اجتماعی خانگی اور ملکی اصلاحات کی فکر کو دنیا کے شہوت پرست انسان کیا جانیں وہ تو سب کو اپنے اوپر قیاس کر سکتے ہیں اسی کے نتیجے میں کئی صدی سے یورپ کے ملحدین اور مستشرقین نے اپنی ہٹ دھرمی سے فخر عالم ﷺ کے تعدد ازواج کو ایک خالص جنسی اور نفسانی خواہش کی پیداوار قرار دے رکھا ہے۔ اگر حضور اقدس ﷺ کی سیرت پر ایک سرسری نظر ڈالی جائے تو ایک ہوشمند منصف مزاج کبھی بھی آپ ﷺ کی کثرت ازواج کو اس پر محمول نہیں کر سکتا۔

آپ ﷺ کی معصوم زندگی قریش مکہ کے سامنے اس طرح گزری کہ سب سے پہلے پچیس سال کی عمر میں ایک سن رسیدہ صاحب اولاد بیوہ (جس کے دوشوہر فوت ہو چکے تھے) سے عقد کیا اور پچیس سال تک ان ہی کے ساتھ گزارہ کیا وہ بھی اس طرح کہ مہینہ مہینہ گھر چھوڑ کر غار میں مشغول عبادت رہتے تھے اس کے بعد جو دوسرے نکاح ہوئے پچاس سالہ عمر شریف گزر جانے کے بعد ہوئے یہ پچاس سالہ زندگی اور غفوان شباب کا سارا وقت اہل مکہ کی نظروں کے سامنے تھا کبھی کسی دشمن کو بھی آنحضرت ﷺ کی طرف کوئی ایسی چیز منسوب کرنے کا موقع نہیں ملا جو تقویٰ و طہارت کو مشکوک کر سکے آپ ﷺ کے دشمنوں نے آپ ﷺ پر ساحر شاعر مجنون کذاب مفتری جیسے الزامات تراشنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی لیکن آپ ﷺ کی معصوم زندگی کے بارے میں کوئی ایک حرف کہنے کی بھی جرأت نہیں ہوئی جس کا تعلق جنسی اور

نفسانی جذباب کی بے راہ روی سے ہو۔

ان حالات میں کیا یہ بات غور طلب نہیں ہے کہ چڑھتی جوانی سے لیکر پچاس سال کی عمر ہو جانے تک اس زہد و تقویٰ اور لذائذ دنیا سے یکسوئی میں گزارنے کے بعد وہ کیا داعیہ تھا جس نے آخر عمر میں آپ ﷺ کو متعدد نکاحوں پر آمادہ کیا؟ اگر دل میں ذرا سا بھی انصاف ہو تو ان متعدد نکاحوں کی وجہ اس کے علاوہ کچھ نہیں بتلائی جاسکتی جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے۔

وَمَا يَتَّبِعُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ -

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرِ

اے ایمان والو! نبی کے گھروں میں مت جایا کرو مگر جس وقت تم کو کھانے کے لئے اجازت دی جائے ایسے طور پر کہ اس کی تیاری کے

نَظَرِينَ إِنَّهُمْ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ

منتظر نہ ہو لیکن جب تم کو بلایا جائے تو داخل ہو جایا کرو پھر جب کھانا کھا چکو تو اٹھ کر چلے جایا کرو اور باتوں میں جی لگا کر مت بیٹھے رہا کرو

إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَعِیْ مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَعِیْ مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا

اس بات سے نبی کو ناگواری ہوتی ہے سو وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ صاف صاف بات کہنے میں لحاظ نہیں فرماتا اور جب تم

سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

ان سے کوئی چیز مانگو تو پردہ کے باہر سے مانگا کرو یہ بات تمہارے دلوں کے پاک رہنے کا عمدہ ذریعہ ہے اور تم کو یہ جائز نہیں ہے کہ رسول کو کلفت پہنچاؤ

وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنْكِحُوا زَوَاجَهُ مِنْ بَعْدِ مَا بَدَأَ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ

اور نہ یہ جائز ہے کہ تم ان کے بعد ان کی بیویوں سے کبھی بھی نکاح کرو بیشک تمہاری یہ بات خدا کے نزدیک بڑی بھاری ہوگی

عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ۚ إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تَخْفَوْهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝۱۱

اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو گے یا اسے پوشیدہ رکھو گے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔

## نزول آیت حجاب کا واقعہ

**تفسیر:** حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب رسول خدا ﷺ نے حضرت زینبؓ (بنت جحش) سے نکاح کیا (اور ولیمہ کھانے کیلئے آپ ﷺ کے دولت کدہ پر) لوگ حاضر ہوئے تو طعام ولیمہ کھا کر وہیں باتیں کرتے ہوئے بیٹھے رہ گئے، حضور اقدس ﷺ نے (چاہا کہ وہ لوگ اٹھ جائیں لہذا آپ نے) ایسا طرز اختیار فرمایا جیسے کہ آپ اٹھ رہے ہیں (اور وجہ اس کی یہ تھی کہ آپ ﷺ کے مزاج میں وسعت اخلاق کے باعث لحاظ بہت تھا اس وجہ سے آپ ﷺ نے صاف طور سے یہ نہ فرمایا کہ چلے جاؤ) وہ آپ ﷺ کو اٹھتے دیکھ کر بھی نہ اٹھے جب آپ ﷺ نے یہ حال دیکھا تو اٹھ کر چلے گئے آپ ﷺ کے اٹھ جانے پر کچھ آدمی تو چلے گئے اور کچھ رہ گئے، حضور اقدس ﷺ (حضرت عائشہؓ

کے دروازے تک جا کر یہ سمجھتے ہوئے) واپس ہوئے کہ وہ لوگ نکل گئے ہوں گے۔ جب تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں (لہذا آپ ﷺ پھر واپس ہو گئے) اس کے بعد وہ لوگ کھڑے ہوئے اور چلے گئے، میں نے اُن کے چلے جانے کی خبر آپ ﷺ کو دی آپ ﷺ تشریف لائے یہاں تک کہ گھر میں داخل ہو گئے، میں بھی آپ ﷺ کے ساتھ داخل ہونے لگا تو آپ ﷺ نے (مجھ کو روک دیا اور) میرے اور اپنے درمیان پردہ ڈال دیا اور اللہ تعالیٰ نے آیت **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ (آخر تک)** نازل فرمائی۔

یہ قصہ بخاری شریف میں کہیں اجمالاً کہیں تفصیلاً کئی جگہ مروی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ جب آنحضرت ﷺ ہجرت فرما کہ مدینہ منورہ تشریف لائے اُس وقت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر دس سال تھی اور آپ ﷺ نے حضرت زینبؓ سے ۵۵ھ میں نکاح فرمایا لہذا اس حساب سے اس واقعہ کے وقت حضرت انسؓ کی عمر پندرہ سال ہوئی۔ چونکہ وہ پہلے سے آنحضرت ﷺ کے گھروں میں آیا جایا کرتے تھے اسی وجہ سے جب آنحضرت ﷺ لوگوں کے چلے جانے کے بعد گھر میں داخل ہونے لگے تو حضرت انسؓ نے بھی آپ ﷺ کے ہمراہ اندر جانے کا ارادہ کیا مگر چونکہ اس اثناء میں پردہ کا حکم آچکا تھا اسلئے آنحضرت ﷺ نے اُن کو گھر کے اندر جانے سے روک دیا۔ حضرت انسؓ چونکہ شروع واقعہ سے آخر تک موجود تھے اس لئے فرمایا کرتے تھے انا اعلم الناس بهذا (یعنی میں پردہ کی آیت کے متعلق سب لوگوں سے زیادہ علم رکھتا ہوں)۔

اس آیت میں متعدد احکام بیان فرمائے ہیں پہلا حکم یہ ہے کہ نبی کے گھروں میں داخل مت ہوا کروہاں اگر تمہیں کھانے کیلئے بلایا جائے تو داخل ہو جاؤ لیکن اس صورت میں بھی ایسا نہ کرو کہ جلدی پہنچ جاؤ اور کھانے کے انتظار میں بیٹھے رہو۔ دوسرا حکم یہ فرمایا کہ جب کھانا کھا چکو تو وہاں سے منتشر ہو جاؤ وہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ۔ ایسا نہ کرو کہ کھانا کھا کر وہاں بیٹھے ہوئے باتیں کرتے رہو اور باتوں میں جی لگائے رہو کیونکہ اس سے نبی اکرم ﷺ کو ناگواری ہوتی ہے وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں اور زبان سے نہیں فرماتے کہ اٹھ کر چلے جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں صاف بتاتا ہے اور صاف حکم دیتا ہے کہ تم کھانا کھا کر چلے جاؤ نبی کریم ﷺ کو تکلیف نہ دو۔

تیسرا حکم یہ دیا کہ جب نبی کریم ﷺ کی ازواج مطہراتؓ سے کوئی چیز مانگو تو پردہ کے پیچھے سے طلب کرو اس میں پردہ کا اہتمام کرنے کا حکم فرمادیا کہ مردوں کو کوئی چیز طلب کرنا ہو تو وہ بھی پردہ کے پیچھے سے طلب کریں اور عورتیں بھی سامنے نہ آئیں کوئی چیز دینا ہو تو وہ بھی پردہ کے پیچھے سے دیں۔ پردہ کے اس اہتمام پر مزید زور دیتے ہوئے فرمایا **ذَلِكُمْ أَظْهَرُ لِقَوْلِكُمْ فَذَلِكُمْ يَوْمَئِذٍ** یہ بات تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے پاک رہنے کا عمدہ ذریعہ ہے۔

چوتھا حکم یہ دیا کہ نبی کریم ﷺ کو ایذا امت پہنچاؤ جو لوگ گھر میں بیٹھے رہ گئے تھے ان سے آپ ﷺ کو ایذا پہنچتی تھی وہ ایک وقتی اور خاص قسم کی ایذا تھی اس کے بعد عمومی حکم فرمادیا کہ رسول اللہ ﷺ کو کبھی بھی کسی بھی قسم کی ایذا امت پہنچاؤ۔

پانچواں حکم فرمایا کہ نبی کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح مت کرنا اس سورت کے پہلے رکوع میں فرمایا کہ **وَأَزْوَاجُهُ أَمْهَاتُكُمْ** کہ آپ ﷺ کی بیویاں امت کی مائیں ہیں اور یہاں فرمایا ہے کہ آپ ﷺ کے بعد آپ کی بیویوں سے کسی کو نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے یہ حکم ان پاک بیبیوں کے اکرام و احترام کی وجہ سے ہے مزید فرمایا: **إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ**



عَظِيمًا (بلاشبہ یہ اللہ کے نزدیک بڑی بھاری بات ہے) یعنی بہت بڑی معصیت ہے نہ گناہ کا ارادہ کرو نہ کر گناہ کرو۔ اسی کو فرمایا اِنْ تُبْدُوا شَيْئًا اَوْ تُخْفُوْهُ اَكْرَمَ ظَاهِرًا کوئی گناہ کرو گے یا اسے پوشیدہ رکھو گے تو دونوں گناہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہو گئے وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور پوشیدہ کو بھی اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا (وہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے) واضح رہے کہ جو احکام اوپر مذکور ہوئے ہیں ان میں صرف ایک حکم ایسا ہے جو آنحضرت سرور عالم ﷺ کی ذات گرامی کے ساتھ مخصوص ہے یعنی یہ کہ آپ ﷺ کے بعد آپ ﷺ کی کسی بیوی سے کسی کا بھی نکاح جائز نہیں باقی احکام سب کے لئے برابر ہیں نہ تو کسی کے یہاں بغیر بلائے دعوت میں جائے اور نہ بلائے جانے کی صورت میں کھانا پکینے کے انتظار میں اس کے گھر میں جا کر بیٹھا رہے اور نہ کھانا کھا کر وہاں بیٹھ کر باتوں میں مشغول رہے بلکہ کھانا کھا کر وہاں سے چلا جائے اگر کسی نامحرم عورت سے کوئی چیز طلب کرنی ہو تو پردہ کے پیچھے سے طلب کریں نہ عورت سامنے آئے نہ مرد عورت کو دیکھیں۔ آجکل کے بعض جاہل جو پردہ کے دشمن ہیں انہوں نے یہ جاہلانہ نکتہ نکالا ہے کہ چہرہ کا پردہ کرنے کا حکم صرف آنحضرت ﷺ کی ازواج مطہرات کے لئے ہے غور کرنے کی بات ہے کہ جب نبی اکرم ﷺ کی ازواج مطہرات کے بارے میں امت کے افراد کو یہ حکم ہے کہ پردہ کے پیچھے سے سوال کریں حالانکہ ان کو مسلمانوں کی مائیں بتایا گیا ہے تو دوسری عورتوں سے بغیر پردہ کے سامنے ہو کر بات چیت یا کوئی چیز طلب کرنے کی کیونکر اجازت ہو سکتی ہے خصوصاً اس زمانے میں جو فساد اور فتنوں کا دور ہے۔

پردہ کے بارے میں ہم نے ضروری مضمون سورہ مؤمنوں کی آیت وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ اور اس سورت کی آیت وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِهِنَّ کے ذیل میں لکھ دیا ہے اور آئندہ رکوع کی پہلی آیت کے ذیل میں بھی اس بارے میں کچھ لکھیں گے۔ اِنْ شَاءَ اللہ تعالیٰ

لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِيْ اَبْنَائِهِنَّ وَلَا ابْنَاتِهِنَّ وَلَا اِخْوَانِهِنَّ وَلَا اَبْنَاءَ اِخْوَانِهِنَّ وَلَا اَبْنَاءَ

ان بیویوں پر کوئی گناہ نہیں ہے اپنے باپوں کے بارے میں اور اپنے بیٹوں کے بارے میں اور اپنے بھائیوں کے بارے میں اور اپنے بھتیجیوں کے

اَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَاءِهِنَّ وَلَا مَمْلٰكَتٍ اِيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِيْنَ اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَى كُلِّ

بارے میں اور اپنے بھائیوں کے بارے میں اور اپنی عورتوں کے بارے میں اور اپنی لونڈیوں کے بارے میں اور اللہ سے ڈرتی رہو بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہر

شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝۵۰

چیز پر حاضر ہے۔

عورتوں کو اپنے محرموں کے سامنے آنے کی اجازت ہے

تفسیر: روح المعانی میں لکھا ہے کہ جب آیت حجاب نازل ہوئی تو ازواج مطہرات کے آباؤ ابناء اور اقارب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہم بھی ان سے پردہ کے پیچھے سے بات کیا کریں اس پر آیت بالا نازل ہوئی اور ازواج مطہرات کو

اجازت دے دی گئی کہ اپنے باپوں اور بیٹوں اور اپنے بھائیوں کے بیٹوں اور بہنوں کے بیٹوں کے سامنے آ سکتی ہیں۔  
صاحب روح المعانی لکھتے ہیں: وفی حکمہم کل ذی رحم محرم من نسب اور وضع علی ماروی  
ابن سعد عن الزہری (ج ۲ ص ۷۲) یعنی آیت کریمہ میں چار رشتوں کا ذکر ہے دوسرے جو محرم ہیں نسب سے  
ہوں یا رضاع سے اُن کا بھی یہی حکم ہے۔ پھر لکھا ہے کہ آیت کریمہ میں چچا اور ماموں کا ذکر نہیں ہے کیونکہ یہ دونوں  
والدین کی طرح سے ہیں۔

محرموں سے پردہ نہ کرنے کی اجازت کے ساتھ ہی وَلَآئِسَاءِہُمْ فرمایا ہے یعنی مسلمان عورتوں سے بھی ان کا کوئی  
پردہ نہیں ہے البتہ کافر عورتوں کے سامنے نہ آئیں اگرچہ کتابیہ یعنی یہودیہ یا نصرانیہ ہوں۔

مزید فرمایا وَلَآ مَا مَلَکَتْ اَیْمَانُہُمْ اور جن کے مالک ہیں اُن کے سامنے آنے میں بھی پردہ نہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ  
رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سے باندیاں مراد ہیں اپنے غلاموں کے سامنے بھی آنا جائز نہیں ہے۔ سورہ نور کی آیت  
وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِہُمْ میں بھی ان رشتہ داروں کا ذکر ہے جن سے پردہ کرنا واجب نہیں ہے وہاں چند مزید رشتے  
ذکر فرمائے سورہ نور کی آیت کی تفسیر ملاحظہ کر لی جائے۔ سورہ نور میں جو اَوْنِسَاءِہُمْ اور یہاں سورہ احزاب میں وَلَآئِسَاءِہُمْ  
فرمایا ہے اس میں جو ضمیر مضاف الیہ ہے اس سے واضح ہو رہا ہے کہ مسلمان عورت کو کافر عورت کے سامنے آنا جائز نہیں۔

سورہ نور میں مومن عورتوں کو جو پردہ کا حکم دیا ہے اور محارم کے سامنے آنے کی اجازت دی ہے اس کے عموم میں  
ازواج مطہرات بھی آ جاتی ہیں اس کے باوجود یہاں خصوصیت کے ساتھ ازواج مطہرات کا محارم کے سامنے آنا علیحدہ  
سے بھی ذکر فرمایا جس سے یہ احتمال رفع ہو گیا کہ شاید انہیں محارم کے سامنے بھی آنا جائز نہ ہو۔

وَالْقَبِیْنِ اللّٰہُ (اور اللہ سے ڈرتی رہو) اس میں التفات ہے جو غیبت سے خطاب کی طرف ہے اللہ تعالیٰ نے خطاب  
کے صیغے کے ساتھ ازواج مطہرات کو خطاب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتی رہو کیونکہ تقویٰ ہی ہر نیکی کی بنیاد ہے۔

اِنَّ اللّٰہَ كَانَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ مُّحِیْداً (بلاشبہ اللہ ہر چیز پر حاضر ہے یعنی وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے) اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں  
درحقیقت یہ یقین اور استحضار کہ اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہے دلوں میں تقویٰ پیدا ہونے اور اس کے احتضار کے لئے بڑا اکسیر ہے۔

اِنَّ اللّٰہَ وَمَلَآئِکَتُہُ یُصَلُّوْنَ عَلَی النَّبِیِّ یَا اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا صَلُّوا عَلَیْہِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیْمًا ۝

بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھیجے ہیں ان پیغمبر پر اے ایمان والو تم بھی آپ پر رحمت بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔

اللہ تعالیٰ اور اُس کے فرشتے رسول اللہ ﷺ پر صلوٰۃ  
بھیجتے ہیں اے مسلمانو! تم بھی نبی پر صلوٰۃ و سلام بھیجا کرو

**تفسیر:** اصل مقصود آیت کا مسلمانوں کو یہ حکم دینا تھا کہ رسول اللہ ﷺ پر صلوٰۃ و سلام بھیجا کریں مگر اس کی تعبیر و بیان  
میں یہ طریقہ اختیار فرمایا کہ پہلے حق تعالیٰ نے خود اپنا اور اپنے فرشتوں کا رسول اللہ ﷺ پر صلوٰۃ بھیجے کا ذکر فرمایا اس کے  
بعد عام مؤمنین کو اس کا حکم دیا جس میں آپ کے شرف اور عظمت کو مزید بلند فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ پر درود بھیجنے کا جو حکم

مسلمانوں کو دیا جاتا ہے وہ کام ایسا ہے کہ خود حق تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی وہ کام کرتے ہیں عام مؤمنین جن پر رسول اللہ ﷺ کے بے شمار احسانات ہیں ان کو تو اس عمل کا بڑا اہتمام کرنا چاہئے۔ اور ایک فائدہ اس تعبیر میں یہ بھی ہے کہ اس سے درود و سلام بھیجے والے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کو اُس کام میں شریک فرمایا جو کام حق تعالیٰ خود بھی کرتے ہیں اور اس کے فرشتے بھی۔

آیت شریفہ میں لفظ یُصَلُّونَ وارد ہوا ہے جس کا ترجمہ یوں کیا گیا ہے کہ بلاشبہ اللہ اور اُس کے فرشتے پیغمبر پر رحمت بھیجتے ہیں۔ لفظ یُصَلُّونَ صلوٰۃ سے ماخوذ ہے، مفسرین و محدثین نے فرمایا ہے کہ لفظ صلوٰۃ عربی زبان میں چند معانی کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ رحمت، دُعا، مدح و ثناء پھر جس کی طرف صلوٰۃ منسوب ہوگی اس کی شان اور مرتبہ کے مناسب ثناء، تعظیم اور رحمت و شفقت مراد لیں گے، جیسے کہا جاتا ہے کہ باپ بیٹے سے اور بیٹا باپ سے اور بھائی بھائی سے محبت کرتے ہیں مگر ظاہر ہے کہ جو محبت باپ کو بیٹے سے ہے بیٹے کو باپ سے اس طرح کی محبت نہیں ہے۔ نیز بھائی بھائی کی محبت اور باپ بیٹے کی محبت جدا ہوتی ہے لیکن محبت سب کو ہی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح صلوٰۃ کو سمجھ لو کہ اللہ جل شانہ نبی پر صلوٰۃ بھیجتے ہیں اور فرشتے بھی اور عام مؤمنین بھی، مگر سب کے صلوٰۃ کے معنی ایک ہی نہیں ہیں بلکہ ہر ایک کی شان کے مناسب صلوٰۃ کے معنی مراد ہوتے ہیں۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ جل شانہ کی صلوٰۃ رحمت بھیجتا ہے اور فرشتوں کی صلوٰۃ استغفار ہے اور مومنوں کی صلوٰۃ دُعا ہے رحمت ہے اور ایک میں مدح و ثناء اور تعظیم و توقیر کے معنی ملحوظ ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی عظمت اور توقیر یہ ہے کہ آپ کا ذکر بلند فرمایا اور آپ کے دین کو غالب کیا اور قیامت تک اس کو باقی رکھا اور آخرت میں آپ ﷺ کی عظمت اور توقیر یہ ہے کہ آپ کو شفاعتِ کبریٰ نصیب فرمائی اور مقامِ محمود و عطا فرمایا اور تمام مقربین اور اولیٰین و آخرین پر آپ کی فضیلت ظاہر فرمائی۔

اور لفظ سلام مصدر بمعنی السلامة ہے اور مراد اس سے نقائص و عیوب اور آفتوں سے سالم رہنا ہے سلام معنی ثناء کو مضمّن ہے اس لئے حرفِ علی کے ساتھ عَلَیْکَ یا عَلَیْکُمْ کہا جاتا ہے۔

اور بعض حضرات نے یہاں لفظ سلام سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذاتِ لی ہے کیونکہ سلام اللہ تعالیٰ کے اسماءِ حسنیٰ میں سے ہے تو مراد اَلْسَلَامُ عَلَیْکَ سے یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت و رعایت کا متولی اور کفیل رہے۔ (از روح المعانی)

اس آیت میں اللہ جل شانہ نے مومنوں کو حکم دیا ہے کہ سرورِ عالم ﷺ پر درود بھیجا کریں علمائے اُمت کا ارشاد ہے کہ اس صیغہ امر (صَلُّوْا) کی وجہ سے عمر بھر میں ایک مرتباً آنحضرت ﷺ پر درود بھیجنا فرض ہے، اور اگر ایک مجلس میں کئی بار آنحضرت ﷺ کا ذکر مبارک کرے یا سنے تو ذکر کرنے اور سننے والے پر حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر بار درود شریف پڑھنا واجب ہے مگر فتویٰ اس پر ہے کہ ایک بار واجب ہے پھر مستحب ہے احتیاط اسی میں ہے کہ ہر بار درود شریف پڑھے اور آقائے دو جہاں ﷺ کی محبت کا ثبوت دے۔

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا عَلٰی حَبِيْبِكَ مَنْ زَانَتْ بِهٖ الْغُصْرُ

اس آیت میں لفظ صلوٰۃ وارد ہوا ہے جس کی تشریح یہ ہے کہ صلوٰۃ علی النبی کے معنی یہ ہیں کہ شفقت و رحمت کے ساتھ نبی ﷺ کی ثناء کی جائے پھر جس کی طرف صلوٰۃ منسوب ہوگی اس کی شان اور مرتبہ کے مناسب ثناء، تعظیم اور رحمت و

شفقت مراد لیں گے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ باپ۔

**درود شریف کے فضائل:** سیدنا حضرت محمد رسول اللہ ﷺ پر درود بھیجنا بہت بڑی فضیلت والا عمل ہے قرآن مجید میں حکم فرمایا ہے (جیسا کہ آیت بالا میں نظروں کے سامنے) اور رسول اللہ ﷺ نے بھی اس کی بہت سی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ صحیح مسلم جلد ۱ ص ۱۶۶ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ جل شانہ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ سنن نسائی میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دس درجات بلند فرماتے ہیں اور اس کے لئے دس نیکیاں لکھ دیتے ہیں اور اس کے دس گناہ (نامہ اعمال سے) مٹا دیتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجا کرتے تھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بہت سے فرشتے زمین میں گشت لگاتے پھرتے ہیں اور مجھ کو میری امت کا سلام پہنچا دیتے ہیں۔ نیز ارشاد فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ اپنے گھروں کو قبریں مت بناؤ اور میری قبر کو عید مت بناؤ اور مجھ پر درود بھیجو کیونکہ تمہارا درود میرے پاس پہنچ جاتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ (یہ سب روایت مشکوٰۃ المصابیح ص ۸۲ "باب الصلوٰۃ علی النبی وعلیہا" سے لی گئی ہیں)

"گھروں کو قبریں مت بناؤ" (اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح قبریں عبادت سے خالی ہوتی ہیں اس طرح گھروں کو عبادت سے خالی مت رکھو بلکہ نفل نمازیں ادا کرتے رہو) "میری قبر کو عید مت بناؤ" اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح عید کے روز زیب و زینت کے ساتھ خصوصی اجتماع ہوتا ہے میری قبر کی اس طرح زیارت نہ کرو بلکہ تو قیرواحترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے حاضری دو آپ ﷺ کا دربار کوئی معمولی دربار نہیں ہے کہ وہاں ہشتے ہوئے جاؤ بلکہ وہ تو شاہ دو جہاں سید الانبیاء ﷺ کا دراطہر ہے اس کی توقیر و عظمت دل میں لے کر حاضر ہونا چاہئے۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جو کوئی ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ پر درود بھیجتا ہے اللہ اور اس کے فرشتے اس شخص پر ستر رحمتیں بھیجتے ہیں۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۸۷)

ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقاۃ شرح مشکوٰۃ میں لکھتے ہیں کہ یہ (یعنی ایک درود کے بدلے میں ستر رحمتیں نازل فرمانا) غالباً جمعہ کے روز کے ساتھ مخصوص ہے کیونکہ بعض اوقات اعمال کا ثواب وقت کی فضیلت و عظمت کی وجہ سے بڑھا دیا جاتا ہے لہذا جمعہ کے روز دس رحمتوں کی بجائے ستر رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔

فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ تمہارے دنوں میں سب دنوں سے بہتر جمعہ کا دن ہے اسی روز آدم پیدا کئے گئے اور اسی روز انہوں نے وفات پائی جمعہ کے روز ہی صور پھونکا جائے گا۔ اور جمعہ ہی کے روز صور کی آواز سکر مخلوق بے ہوش ہوگی چونکہ جمعہ کا دن سب سے افضل ہے اس لئے اس روز مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ (ابوداؤد جلد ۱ ص ۱۵۰)

ارشاد فرمایا رسول خدا ﷺ نے کہ جو بھی مسلمان مجھ پر درود بھیجتا ہے فرشتے اس پر رحمت بھیجتے ہیں اب اختیار ہے کہ

کوئی بندہ مجھ پر زیادہ درود بھیجے یا کم۔ (ابن ماجہ) مطلب یہ ہے کہ کثرت سے درود بھیجا کرو جیسا کہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ فلاں عمل اچھا ہے آگے اختیار ہے کوئی کم کرے یا زیادہ۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور رسول خدا ﷺ موجود تھے آپ کے ساتھ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی تھے۔ جب میں نماز پڑھ کر بیٹھا تو اللہ کی تعریف بیان کی پھر رسول اللہ ﷺ پر درود بھیجا بعد میں اپنے لئے دعا کی یہ ماجرا دیکھ کر رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مانگ جو مانگے گا ملے گا۔ (ترمذی)

حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ تشریف فرما تھے کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور نماز پڑھ کر اس نے دعا شروع کر دی اور کہا ”اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما“۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اے نماز پڑھنے والے تو نے دعا کرنے میں جلدی کی آئندہ کے لئے یاد رکھ کہ جب تو نماز پڑھ چکے تو بیٹھ کر اللہ کی حمد بیان کر جیسی اس کی ذات کے لائق ہے پھر مجھ پر درود بھیج پھر اللہ سے دعا کر۔

فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر ایک اور شخص نے نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور نبی کریم ﷺ پر درود بھیجا نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ اے نماز پڑھنے والے دعا کرتیری دعا قبول ہوگی۔ (ترمذی)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دعاء کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے پھر رسول اللہ ﷺ پر درود بھیجے پھر اللہ سے دعا کرے دعا کے قبول ہونے میں درود شریف کو بڑا دخل ہے حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جب تک آنحضرت ﷺ پر درود نہ پڑھا جائے دعا آسمان و زمین کے درمیان لٹکی رہتی ہے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۸۷)

اہل معرفت نے فرمایا ہے کہ درود شریف کے علاوہ جو دوسرے اذکار و عبادات ہیں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کا ثواب نہ دیا جائے لیکن درود شریف ہمیشہ مقبول ہی ہوتا ہے جب دعا کرے تو دعا سے پہلے بھی درود شریف پڑھے اور دعا کے اخیر میں بھی۔ اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے جب دونوں درودوں کو قبول فرمائے گا تو درمیان میں جو دعا واقع ہوگی اُسے بھی قبول فرمائے گا۔ (ذکرہ فی الحصن)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھے اور اس میں اللہ کا ذکر نہ کیا اور اپنے نبی پر درود نہ بھیجا تو یہ مجلس ان کے لئے نقصان کا باعث ہوگی۔ اب اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے اور چاہے تو ان کی مغفرت فرمادے۔ (رواہ الترمذی)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کوئی مجلس اللہ کے ذکر سے اور درود شریف سے خالی نہ رہ جائے۔ جب کسی مجلس میں رسول اللہ ﷺ کا ذکر مبارک آئے خواہ خود ذکر کرے یا دوسرے شخص سے سنے تو درود شریف ضرور پڑھے۔ گو کسی مجلس میں آپ کا اسم گرامی سن کر ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہے لیکن اکمل اور افضل یہی ہے کہ جب بھی آپ کا اسم گرامی سنے ہر بار درود شریف پڑھے احتیاط اسی میں ہے کہ ہر مرتبہ درود شریف پڑھے کیونکہ درود شریف نہ پڑھنے پر وعیدیں آئی ہیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اصلی بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا

ذکر ہوا اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ (ترمذی)

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کیا میں تم کو سب سے بڑا بخیل نہ بتا دوں؟ صحابہؓ نے عرض کیا حضور ضرور ارشاد فرمائیں، فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے وہ سب سے بڑا بخیل ہے۔ (ترغیب)

حضرت کعب بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ منبر کے قریب ہو جاؤ چنانچہ ہم حاضر ہو گئے (اور آپ منبر پر چڑھنے لگے) جب آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا ”آمین“ پھر جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر فرمایا ”آمین“ جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر فرمایا ”آمین“ جب آپ منبر سے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ سے منبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے نہ سنتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ سب اس کا یہ ہوا کہ جبریل میرے سامنے آئے اور جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی میں نے کہا ”آمین“ پھر جب میں دوسری سیڑھی پر چڑھا تو جبرائیل نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا اسم گرامی لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے میں نے کہا ”آمین“ پھر جب میں تیسری سیڑھی پر چڑھا تو جبرائیل نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے دونوں والدین یا ان میں سے ایک بوڑھا ہو جائے اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کریں۔ (الترغیب والترہیب)

**ضروری مسئلہ:** جب رسول اللہ ﷺ کا ذکر خود کرے یا کسی سے سنے تو درود شریف پڑھے اسی طرح جب کوئی مضمون یا تحریر لکھنے لگے تو اس وقت بھی درود شریف کے الفاظ لکھنا واجب ہے، کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم تو ضرور لکھ دے بعض لوگ اختصار کے طور پر ”صلعم“ یا ”ص“ لکھ دیتے ہیں یہ صحیح نہیں پورا صلی اللہ علیہ وسلم لکھیں یا علیہ الصلوٰۃ والسلام لکھ دیں، صلوٰۃ کے ساتھ سلام بھی بھیجنا چاہئے دونوں کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔

حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ تشریف لائے آپ کے چہرہ انور پر بشارت ظاہر ہو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے تھے انہوں نے کہا کہ بیشک آپ کے رب نے فرمایا ہے کہ اے محمد! کیا یہ بات آپ کو خوش کرنے والی نہیں ہے کہ آپ کی امت میں سے جو شخص آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر دس مرتبہ رحمت بھیجوں گا اور آپ کی امت میں سے جو شخص آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر دس سلام بھیجوں گا۔ (رواہ النسائی)

**مسئلہ:** صلوٰۃ و سلام دونوں ہی ایک ساتھ پڑھنا چاہئے۔ اگر ایک پر اکتفا کرے تو بعض حضرات نے اس کو خلاف اولیٰ یعنی مکروہ تنزیہی بتایا ہے درود شریف کے بہت سے صیغے احادیث شریف میں وارد ہوئے ہیں اور بہت سے صیغے اکابر سے منقول ہیں جو صیغے سنت سے ثابت ہیں ان کے مطابق عمل کرنا افضل ہے اور دوسرے صیغوں کے ذریعہ صلوٰۃ و سلام پڑھنا بھی جائز ہے۔

حضرت کعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ ہم آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر کس طرح درود بھیجیں؟ آپ پر سلام بھیجنا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دیا (یعنی نماز میں جو تشهد پڑھتے ہیں اس میں اَلسَّلَامُ عَلَیْكَ اَیُّهَا النَّبِیُّ بتا دیا) آپ نے فرمایا درود اس طرح پڑھو اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ

مُحَمَّدٌ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اے اللہ درود بھیج محمد پر اور محمد کی آل پر جیسا کہ آپ نے درود بھیجا ابراہیم پر اور ابراہیم کی آل پر بیشک آپ مستحق حمد ہیں اور صاحبِ مجد ہیں اے اللہ برکت نازل فرمائیے محمد پر اور آل محمد پر جیسا کہ آپ نے برکت نازل فرمائی ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر بیشک آپ مستحق حمد ہیں اور صاحبِ مجد ہیں۔ (رواہ البخاری ج ۱ ص ۴۷۷) یہ درود شریف وہی ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔

حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہؓ نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ ہم آپ پر کیسے درود بھیجیں آپ نے فرمایا کہ یوں کہو: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ (اے اللہ درود بھیجے محمد پر اور آپ کی بیویوں پر اور ان کی آل و اولاد پر جیسا کہ آپ نے درود بھیجا آل ابراہیم پر اور اے اللہ برکت دیجئے محمد پر اور آپ کی بیویوں پر اور ان کی آل و اولاد پر جیسا کہ برکت بھیجی آپ نے آل ابراہیم پر بلاشبہ آپ مستحق حمد ہیں صاحبِ مجد ہیں) (رواہ البخاری)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جسے یہ خوش ہو کہ ہم پر اور ہمارے اہل بیت پر درود بھیج کر ہر پور طریقے پر ناپ تول کر ثواب لے تو وہ یوں کہے: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَأَهْلِيهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِي بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ (اے اللہ درود بھیج محمد پر جو نبی امی ہیں اور آپ کے ازواج پر جو امہات المؤمنین ہیں اور آپ کی اولاد پر اور آپ کے اہل بیت پر جیسا کہ آپ نے درود بھیجا ابراہیم پر بلاشبہ آپ مستحق حمد ہیں صاحبِ مجد ہیں) (رواہ ابوداؤد ص ۱۴۱)

حضرت روہف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے محمد ﷺ پر درود بھیجا اور پھر یوں دعا کی اللَّهُمَّ أَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ (اے اللہ ان کو (یعنی حضور اقدس ﷺ کو) قیامت کے روز اپنے قریب مقام میں نازل کیجئے) تو اس کے لئے میری شفاعت واجب ہوگئی۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۸۷) فائدہ: بعض بزرگوں نے کثرت سے درود شریف پڑھنے کے لئے یہ مختصر درود شریف تجویز کیا ہے: صَلِّی اللہُ تَعَالٰی عَلٰی النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ وَعَلٰی اٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ وَبَارِکْ وَسَلِّمْ عَدَدَ مَا فِیْ عِلْمِہٖ۔

درود شریف پڑھنے کی حکمتیں: حضرت حکیم الامت مولانا محمد اشرف علی تھانوی قدس سرہ نے ”نشر الطیب“ میں درود شریف کی مشروعیت کی حکمتیں درج فرمائی ہیں جن میں بعض حضرت ممدوح نے مواہب سے نقل فرمائی ہیں اور بعض ان مواہب خداوندیہ سے ہیں جو حضرت ممدوح کو عطا کی گئیں تھیں۔

(۱) اُمت مرحومہ پر آنحضرت ﷺ کے احسانات بی شمار ہیں کہ آپ نے صرف حکم خداوندی پورا کر دینے کے طور پر تبلیغ پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اصلاحِ امت کے لئے تدبیریں سوچیں اور بڑے اہتمام کے ساتھ ان کے لئے دُعائیں کیں اور ان کے احتمالِ مضرت سے رنجیدہ ہوئے لہذا آپ محسن بھی ہیں اور احساناتِ خداوندی کا واسطہ بھی ہیں اور فطرتِ سلیمہ کا تقاضا ہوتا ہے کہ اس محسن اور واسطہٴ احسان کے لئے رحمتِ کاملہ کی دعا کرے بالخصوص جبکہ احسانات کے بدلہ سے قاصر اور عاجز بھی ہے لہذا شریعتِ مطہرہ نے اسی فطرتِ سلیمہ کے مطابق کہیں وجوہاً اور کہیں استجاباً درود شریف کا حکم دیا۔



(۲) آنحضرت ﷺ خدا کے محبوب ہیں اور محبوب کے لئے محبت سے کسی چیز کی درخواست کرنا اس درخواست کرنے والے کو اس محبت کا محبوب بنادیتا ہے اگرچہ خداوند قدوس خود اپنے محبوب پر صلوٰۃ بھیجتا ہے اور خدا کی رحمت ملنے کے لئے آنحضرت ﷺ کو ہماری دعائے رحمت کی حاجت نہیں ہے مگر خدا کی جناب میں آپ کے لئے رحمت کی دعا کر کے خود ہم کو خدا کا قرب اور اس کی رضا میسر ہوتی ہے۔

(۳) آپ کے لئے دعائے رحمت کرنے میں آپ کے کمال عبدیت کے شرف خاص کا اظہار ہے کہ آپ کو بھی رحمت خداوندی کی حاجت ہے نیز اس سے اُن لوگوں کے ظن فاسد کی تردید بھی ہو جاتی ہے جو آنحضرت ﷺ کے معجزات دیکھ کر امور و نکوین میں آپ کا دخل سمجھتے ہیں یا احکام شرعیہ کو آپ کے اختیار میں جانتے ہیں۔

(۴) آنحضرت ﷺ بھی انسان ہیں اور بشریت میں اُمت کے ساتھ شریک ہیں کہ اُمت کی طرح کھانے پینے اور دیگر حوائج زندگی کی آپ کو بھی ضرورت ہوتی تھی بلکہ بعض امور میں اُمت کے افراد آذیناب ﷺ سے بڑھے ہوئے ہیں مثلاً کثرت المال وغیرہ تو اس وجہ سے ممکن تھا کہ بعض افراد اُمت آپ کو اپنے جیسا بشر سمجھ کر بلکہ بعض امور میں کم دیکھ کر آپ کے اتباع سے گریز کرتے لہذا شریعت مطہرہ نے اس کا علاج کیا اور آپ پر درود شریف بھیجے کا حکم دیا تاکہ بشری اشتراک اور اپنا مالی امتیاز دیکھ کر کوئی دھوکہ نہ کھائے بلکہ آنحضرت ﷺ پر جو خدا کی رحمت خاص ہے اس کا اختصار کرے اور یہ سمجھے کہ یہ مال و دولت رحمت خداوندی کے سامنے کچھ بھی نہیں بالخصوص جبکہ آپ کے اسم گرامی سے قبل لفظ سیدنا و مولینا بڑھائے اور تبلیغ دین کی جدوجہد کے بعض احوال آپ کی صفات میں ذکر کرے تو خود کو آپ کا احسان مند ہی پائے گا اور بجائے اپنے نفس کو بڑا سمجھنے کے اپنی ذات کو آنحضرت ﷺ کا محتاج سمجھے گا اور آپ کے واسطے سے قرب خداوندی حاصل کرے گا۔

(۵) بعض طبائع میں مذاق توحید کا غلبہ ہوتا ہے اور اس غلبہ کی وجہ سے واسطوں سے زیادہ متعلق نہیں ہوتیں جن میں انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام بھی ہیں گو اس اعتقاد و انقیاد کے بعد جو شرعاً واجب ہے یہ عدم زیادت ممضی الایمان نہیں ہے لیکن کمال یہی ہے کہ جس واسطہ کی طرف التفات کو واحد حقیقی نے اپنی رضا کا ذریعہ بنایا ہے اس کی طرف التفات کرنے کو ذوقاً اور طبعاً بھی شافل عن التوحید نہ سمجھے بلکہ مکمل توحید جانے جیسا کہ محبوب کے قاصد کا اکرام اور اس کی خدمت و مدارت جس قدر عاشق کی جانب سے زیادہ تر ہوگی اُسی قدر محبوب عاشق سے خوش ہوگا اور عاشق بیش از بیش قاصد کی مدارت کرے گا اور اس خدمت کو یہ نہ سمجھے گا کہ محبوب کے لئے میری محنت نہیں ہو رہی ہے بلکہ جس قدر محبوب کی خوشی دیکھے گا اُسی قدر قاصد کی زیادہ خدمت کرے گا۔

پس شریعت مطہرہ نے ذوقی نقص کے دفع کرنے کے درود شریف شروع فرمایا اور صَلُّوْا عَلَیْہِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِیْمًا کا حکم دے کر یہ بتایا کہ خدا تک پہنچانے والے واسطہ کی طرف جس قدر بھی احترام کے ساتھ توجہ کرو گے اللہ جل شانہ کی رضا نصیب ہوگی لہذا واسطہ کی جانب توجہ کرنے کو خلاف مقصود نہ سمجھو۔

اِنَّ الَّذِیْنَ یُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِی الدُّنْیَا وَالْاٰخِرَةِ وَاَعَدَّ لَهُمْ

بلاشبہ جو لوگ اللہ کو اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں اللہ نے دُنیا میں ان پر لعنت کی اور ان کے لئے ذلیل کرنے والا

۱۔ یہاں ہم نے مختصر لکھ دیا ہے ”فضائل صلوٰۃ و سلام“ کے نام سے ہمارا ایک رسالہ بھی ہے اسے بھی ملاحظہ کر لیا جائے

عَذَابًا مُّهِينًا ۝ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ

عذاب تیار فرمایا ہے۔ اور جو لوگ مؤمن مردوں اور مؤمن عورتوں کو بغیر گناہ کئے ایذا پہنچاتے ہیں

احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ۝

وہ لوگ بہتان اور صریح گناہ کا بار اٹھاتے ہیں۔

## ایذا دینے والے اور تہمت لگانے والوں کا برا انجام

**تفسیر:** رسول اللہ ﷺ کے اکرام و احترام کا حکم دینے اور آپ پر صلوة و سلام بھیجنے کا حکم فرمانے کے بعد آپ کو تکلیف دینے والوں کی مذمت بیان فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کو اور اس کے رسول (ﷺ) کو تکلیف دیتے ہیں اللہ نے اُن پر دنیا اور آخرت میں لعنت کر دی۔ لعنت پھٹکار ڈالنے اور اللہ کی رحمت سے دور ہونے کو کہا جاتا ہے اور سب سے بڑی لعنت کافروں ہی پر ہے۔ گو بعض معصیوں پر بھی لعنت وارد ہوئی ہے۔ (کن کن افراد پر لعنت وارد ہوئی ہے انہیں ہم نے چہل حدیث میں جمع کر دیا ہے اس کا مطالعہ کیا جائے) اللہ تعالیٰ تاثر اور انفعال سے پاک ہے اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی۔ ایسے افعال کے ارتکاب کو اللہ تعالیٰ کو ایذا پہنچانے سے تعبیر فرمایا ہے جن سے مخلوق کو تکلیف ہوتی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم مجھے ایذا دیتا ہے وہ زمانے کو برا کہتا ہے حالانکہ میں زمانہ ہوں (یعنی میں نے زمانے کو پیدا کیا ہے) سب امور میرے قبضہ قدرت میں ہیں میں رات اور دن کو اُلٹا پلٹتا ہوں۔ (رواہ البخاری)

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تکلیف کی بات سن کر صبر کرنے والا اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں لوگ اللہ کے لئے اولاد تجویز کرتے ہیں (حالانکہ وہ اس سے پاک ہے) پھر بھی وہ انہیں عافیت دیتا ہے اور رزق دیتا ہے۔

حضرت سائب بن خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص کچھ لوگوں کا امام بنا اُس نے قبلہ کی جانب تھوک دیا رسول اللہ ﷺ اس کی طرف دیکھ رہے تھے جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو آپ نے اُس کی قوم سے فرمایا کہ آئندہ یہ تمہیں نماز نہ پڑھائے اُس کے بعد اُس نے نماز پڑھانا چاہی تو ان لوگوں نے اسے منع کر دیا اور رسول اللہ ﷺ کے ارشاد سے باخبر کر دیا۔ اُس شخص نے رسول اللہ ﷺ سے اس بات کا تذکرہ کیا (یعنی یہ دریافت کیا کہ کیا آپ نے ایسا فرمایا ہے) آپ نے فرمایا ہاں! حضرت سائب بن خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے خیال ہے کہ آپ نے یوں بھی فرمایا کہ بلاشبہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی۔ (رواہ ابو داؤد)

بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اللہ کو ایذا دینے سے رسول اللہ ﷺ کو ایذا دینا مراد ہے اور اس میں اور زیادہ آپ کا اکرام ہے کہ آپ کی ایذا دینے کو اللہ تعالیٰ کو ایذا دینے سے تعبیر فرمایا۔ روایات حدیث سے اس معنی کی بھی تائید ہوئی ہے۔ حضرت عبد اللہ بن مغفلؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میرے صحابہؓ کے بارے میں اللہ سے ڈرو اللہ سے

ڈرو ان کو میرے بعد اپنے اعتراضات و تنقیدات کا نشانہ نہ بناؤ کیونکہ ان سے جس نے محبت کی میری محبت کی وجہ سے کی اور جس نے اُن سے بغض رکھا میرے بغض کی وجہ سے رکھا اور جس نے ان کو ایذا پہنچائی اُس نے مجھے ایذا دی اور جس نے مجھے ایذا دی اُس نے اللہ کو ایذا دی اور جس نے اللہ تعالیٰ کو ایذا دی تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی گرفت فرمائے گا۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۵۵۴ عن الترمذی)

آیت شریفہ میں رسول اللہ ﷺ کو ہر قسم کی ایذا پہنچانے پر ملعون ہونے کا ذکر ہے بعض حضرات نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل فرمایا ہے کہ جس زمانہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بہتان باندھا گیا (جس کا ذکر سورۃ مومنون کے دوسرے رکوع میں گزر چکا ہے) تو رئیس المنافقین عبد اللہ بن ابی کے گھر میں کچھ لوگ جمع ہوئے جو اس بہتان کو پھیلانے اور چلتا کرنے کی باتیں کرتے تھے اُس وقت رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کرامؓ سے اس کی شکایت فرمائی کہ یہ شخص مجھے ایذا پہنچاتا ہے۔

سنن ترمذی کی جو حدیث ہم نے اوپر نقل کی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا جس نے میرے صحابہ کو ایذا دی اس نے ہمیں بھی ایذا دی۔ اسی سے سمجھ لیا جائے کہ جو لوگ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برا کہتے ہیں اور اُن پر تبرا کرتے ہیں یہ لوگ رسول اللہ ﷺ کو ایذا پہنچانے کا عمل کرتے ہیں لہذا قرآن کریم کی رو سے یہ لوگ ملعون ہیں اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول کو ایذا پہنچانے والے مستحق لعنت ہیں پھر اس بات کی تصریح فرمائی ہے کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو جو لوگ تکلیف پہنچاتے ہیں اور وہ کام اُنکے ذمہ لگاتے ہیں جو انہوں نے نہیں کئے یعنی ان پر تہمت باندھتے ہیں ان لوگوں نے بہتان کا اور صریح گناہ کا جو جہاں اپنے ذمہ اٹھایا۔ (جس کا وبال آخرت میں بہت زیادہ ہے)

بد زبانی اور بد گوئی پر وعید: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ منبر پر تشریف لے گئے اور بلند آواز سے فرمایا کہ اے وہ لوگو! جنہوں نے زبان سے اسلام قبول کیا ہے اور ان کے دلوں تک ایمان نہیں پہنچا مسلمانوں کو تکلیف نہ دو اور اُن پر عیب نہ لگاؤ اور ان کے پوشیدہ حالات کے پیچھے نہ پڑو کیونکہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی کسی چھپی ہوئی عیب کی بات کے پیچھے پڑے گا اللہ اُس کے پوشیدہ عیب کے پیچھے لگے گا اور اللہ جس کے عیب کے پیچھے لگے اُسے رسوا کر دے گا اگرچہ اپنے گھر کے اندر ہی کرے۔ (رواہ الترمذی)

حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا سودیہ ہے کہ ناحق کسی مسلمان کی آبرو میں زبان درازی کی جائے۔ (ابوداؤد)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی میں ایسے لوگوں پر گذر جن کے تانے کے ناخن تھے وہ اُن سے اپنے چروں اور سینوں کو چھیل رہے تھے میں نے کہا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھاتے ہیں (یعنی ان کی غیبت کرتے ہیں) اور ان کی بے آبروئی کرنے میں پڑے رہتے ہیں۔ (رواہ ابوداؤد و کتابی المشکوٰۃ ص ۴۲۹)

لوگوں میں غیبت بد گوئی، چغل خوری اور ایذا رسانی کی جو مجلس منعقد ہوتی ہیں سب اس آیت کریمہ اور حدیث شریف کے مضمون پر غور کریں اور اپنی اصلاح کریں اور زبان پر پابندی لگائیں کہ زبان کا یہ بھیڑیا صاحب زبان ہی کو پھاڑ کھا

جائے گا۔ اگر کبھی کسی چغل خور بزرگوں کی طرف سے کسی مسلمان کی بے آبروئی ہوتی دیکھیں تو اس کا دفاع کریں اور پارٹ لیں۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی شخص نے منافق کی باتیں سن کر کسی مومن کی حمایت کی اللہ اُس کے لئے ایک فرشتہ بھیج دے گا جو قیامت کے دن اس کے گوشت کو دوزخ کی آگ سے بچائے گا اور جس شخص نے کسی مسلمان کو عیب لگانے کے لئے کوئی بات کہی تو اللہ تعالیٰ اُسے دوزخ کے پل (یعنی پل صراط) پر روک دے گا یہاں تک کہ اپنی کہی ہوئی بات سے نکل جائے (یا اُسے راضی کرے جس کی بے آبروئی کی تھی یا عذاب بھگتے) (مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۲۴)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ

اے نبی اپنی بیبیوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے اور دوسرے مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دیجئے کہ

جَلَابِئِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذِينَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۚ لَئِنْ

اپنی چادریں نیچی کر لیا کریں اس سے جلدی پہچان ہو جایا کرے گی تو آزار نہ دی جایا کریں گی اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے

لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَالنَّجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ

اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جو مدینہ میں انواہیں اڑایا کرتے ہیں اگر یہ لوگ باز نہ آئے تو ضرور ہم آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے

ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ۖ مَلْعُونِينَ ۖ إِنَّمَا تُقَفُّوهُمُ أَخَذُوا وَقْتَهُمُ

پھر یہ لوگ آپ کے پاس مدینہ میں بہت ہی کم رہنے پائیں گے جو بھنکارے ہوئے ہو گئے جہاں ملیں گے پکڑ دھکڑ ہوگی اور قتل کئے

تَقْتِيلًا ۚ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَكِنْ تَجِدُ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۚ

جائیں گے۔ جو لوگ پہلے گذرے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان میں اپنا یہی دستور رکھا ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کے دستور میں رد و بدل نہ پائیں گے۔

ازواج مطہرات اور بنات طاہرات اور عام مؤمنات  
کو پردہ کا اہتمام کرنے کا حکم اور منافقین کے لئے وعید

**تفسیر:** مفسرین نے لکھا ہے کہ رات کے وقت (جب گھروں میں بیت الخلا نہیں بنائے گئے تھے) عورتیں قضاے حاجت کے لئے کھجور کے باغوں میں نشی علاقوں میں جایا کرتی تھیں ان میں حرائر (آزاد) عورتیں اور اماء (باندیاں) دونوں ہوتی تھیں۔ منافقین اور بد نفس لوگ راستوں میں کھڑے ہو جاتے تھے اور عورتوں کو چھیڑتے تھے یعنی اشارے بازی کرتے تھے ان کا دھیان باندیوں کی طرف ہوتا تھا اگر کبھی کسی آزاد عورت کو چھیڑتے اور اس پر گرفت کی جاتی تو کہہ دیتے تھے کہ ہم نے یہ خیال کیا تھا کہ شاید یہ باندی ہے۔ نیز دشمنان اسلام (جن میں مدینے کے رہنے والے یہودی بھی تھے اور منافق بھی) یہ حرکت بھی کرتے تھے کہ مسلمانوں کے لشکر میں جب کہیں جاتے تو لوگوں میں رعب پیدا کرنے والی باتیں پھیلاتے اور شکست کی خبریں اُڑاتے اور خواہ مخواہ بیٹھے بٹھائے یوں کہتے تھے کہ دشمن آگیا دشمن آگیا۔



وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكُفَرِیِّیْنَ لِقَاءَ رَبِّهِمْ یَوْمَ یَنصُرُ الَّذِیْنَ هُمُ الْمُتَّقِیْنَ كَیْ لَا یُغْنِیَ عَنْهُمْ كَثْرَتُهُمْ وَلَا مَنَافِعُ لَهُمْ ۚ

اور آپ اللہ کے طریقہ یعنی عادت مسترہ میں تبدیلی نہ پائیں گے۔ چونکہ مذکورہ بالا طریقہ کے مطابق تکوینی فیصلے ہونا امور فرغیہ میں سے نہیں ہیں اسلئے اس میں نسل کا احتمال نہیں۔

صاحب روح المعانی نے جو اقوال لکھے ہیں اُن میں سے ایک تو یہ ہے کہ منافقین ایذا کے کاموں سے رُک گئے تھے اور جو وعید نازل ہوئی تھی اُس کے ڈر سے اپنے کاموں سے باز آ گئے تھے لہذا اغراء اور اخراج اور قتل کا وقوع نہیں ہوا اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ جن لوگوں کو تنبیہ کی گئی تھی وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے اور مسجد سے نکال کر انہیں ذلیل کیا گیا اور ان پر نماز جنازہ پڑھنے سے بھی آنحضرت ﷺ کو منع فرمادیا اور اس طرح وہ سب کی نظروں میں ملعون ہو گئے۔ یہ تو منافقین کے ساتھ ہوا البتہ یہودیوں کو مدینہ منورہ سے جلاوطن کیا گیا یہ قبیلہ بنی نضیر تھا، اور یہود کے قبیلہ بنی قریظہ کے بالغ مردوں کو قتل کر دیا گیا۔ (خوف و ہراس کی خبریں اڑانے میں یہود کا زیادہ حصہ تھا)

يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ

وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں اور آپ کو اس کی کیا خبر عجب نہیں کہ قیامت قریب ہی زمانہ میں

تَكُونُ قَرِيبًا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكُفْرِیْنَ ۚ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ۚ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ

واقع ہو جائے۔ بے شک اللہ نے لعنت کر دی ہے کافروں پر اور ان کے لئے دہکنے والی آگ تیار کی ہے۔ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے

لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۚ يَوْمَ ثَقُلَتْ الْوُجُوهُهُمْ ۚ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْتُنَا

وہ کوئی یار و مددگار نہ پائیں گے۔ جس دن اُن کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کئے جائیں گے یوں کہیں گے اے کاش کہ ہم نے اللہ کی

أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ ۚ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا

اطاعت کی ہوئی اور رسول کی اطاعت کی ہوئی۔ اور وہ یوں کہیں گے کہ اے ہمارے سب بلاشبہ ہم نے اپنے سرداروں کی اور اپنے بڑوں کی فرمانبرداری کی مگر انہوں نے

السَّبِيلَ ۚ رَبَّنَا إِنهُمْ ضَعُفٌ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنُومُ لَعَنَّا كَذِبًا ۚ

ہمیں راستہ سے گمراہ کر دیا۔ اے ہمارے رب انہیں عذاب کا دوہرا حصہ دیجئے اور ان پر لعنت کر دیجئے بڑی لعنت

کافروں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے وہ بھی دوزخ میں اپنے سرداروں پر لعنت کریں گے اور ان کے لئے دوہرے عذاب کی درخواست کریں گے

**تفسیر:** کافروں اور منافقوں کے سامنے جب قیامت کا ذکر آتا تھا تو اس کے واقع ہونے کا انکار کرتے ہوئے یوں کہتے تھے یہ تو بتاؤ کہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ کہ اس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے اس کے واقعہ ہونے کا وقت متعین کر کے اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتایا نہ کسی فرشتہ کو نہ کسی نبی کو لیکن اس کا یہ

مطلب نہیں کہ وہ واقع ہی نہ ہوگی اس کا وقوع مقرر اور مقدر ہے اس کے آنے میں دیر لگنا اور تمہارے سامنے واقع نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ یہ واقع نہ ہوگی۔ پھر رسول اللہ ﷺ سے خطاب فرمایا: وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا (اور آپ کو اس کی کیا خبر عجب نہیں کہ قیامت قریب ہی زمانہ میں واقع ہو جائے) جب آپ کو اس کا وقت مقررہ معلوم نہیں اور قرب وقوع کا ہر وقت احتمال ہے تو ان جھٹلانے والوں کو تو بطریق اولیٰ اس کا وقت مقررہ معلوم نہیں جب ہمیشہ قریب الوقوع ہونے کا احتمال ہے تو ان پر لازم ہے کہ اس سے ڈرتے رہیں اور تیاری کرتے رہیں نہ یہ کہ جلدی چائیں مذاق اڑائیں اس میں خطاب رسول اللہ ﷺ کو ہے اور تنبیہ ہے مکرین کو۔

اس کے بعد کافروں کی بد حالی بتائی اور ارشاد فرمایا إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ (الآیہ) بلاشبہ اللہ نے کافروں پر لعنت کر دی وہ دنیا میں بھی ملعون ہیں اور آخرت میں بھی اگر دنیا میں کچھ مزے اڑاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت اور پھٹکار میں ہوتے ہوئے جیتے ہیں اور ملعونیت کی زندگی کوئی زندگی نہیں اور آخرت میں ان کے لئے دکھتی ہوئی آگ کا عذاب ہے وہ بھی تھوڑے دن کا یا بہت ذرا دیر کا نہیں بلکہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے وہاں کوئی یار اور مددگار نہ ملے گا جس روز ان کے چہرے آگ میں اُلٹ پلٹ کیے جائیں گے چہروں کے بل دوزخ کی آگ میں گھسیٹے جائیں گے تو حسرت کے ساتھ یوں کہیں گے کہ ہائے کاش ہم نے اللہ کی فرمانبرداری کی ہوتی اور رسول کی بات مانی ہوتی اگر ہم اطاعت کرتے تو آج عذاب میں مبتلا نہ ہوتے۔

اس کے بعد یوں کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کی فرمانبرداری کی انہوں نے ہمیں ایمان قبول نہ کرنے دیا اور کفر پر مجھے رہنے کی تاکید کرتے رہے اس طرح سے انہوں نے ہمیں صحیح راستہ سے اور دین حق سے ہٹا کر گمراہ کر دیا۔

سَادَتُنَا وَكُتُبَانَا کے عوم میں چھوٹے بڑے چودھری کفر کے سرغنے گمراہی کے لیڈر سب ہی داخل ہیں۔ دنیا میں جہاں کہیں ایمان کی فضا بنتی ہے قوموں کے لیڈر اور چودھری ایمان سے روکتے ہیں جو شخص اسلام قبول کر لے اُسے واپس کفر میں لے جانے کی کوشش کرتے ہیں کفر کی دعوت دینے کیلئے اور اپنی قوموں کو کفر پر جمانے کے لئے ان کے ملوک اور رؤسا اور امراء اور وزراء و اغنیاء بڑی بڑی تختیں کرتے ہیں اور اربوں کی تعداد میں روپیہ خرچ کرتے ہیں اور دنیا میں اپنی بڑائی اور چودھراہٹ باقی رکھنے کے لئے کروڑوں انسانوں کو دوزخ کا ایندھن بنانے اور بنائے رکھنے کی کوششیں جاری رکھتے ہیں دنیا میں یہ حال ہے لیکن وہاں جب عذاب میں مبتلا ہوں گے تو اپنے ماننے والوں سے بیزاری ظاہر کریں گے اور چھوٹوں بڑوں میں ہر قسم کے تعلقات ختم ہو جائیں گے اور چھوٹے بڑوں پر اور بڑے چھوٹوں پر لعنت کریں گے کوئی کسی کا مددگار نہ ہوگا یہی عوام اور پبلک کے افراد جو دنیا میں اپنے بڑوں اور چودھریوں کی بات مانتے ہیں دوزخ میں پہنچ کر اپنے بڑوں لیڈروں اور چودھریوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ اے ہمارے رب ان کو دو ہر عذاب دے خود جو گمراہ تھے عذاب تو انہیں ہونا ہی ہے ہمیں جو انہوں نے گمراہ کیا اس کے عوض بھی ان کو عذاب دے۔

دو ذخی لوگ اپنے بڑوں کے لئے یوں بھی دعا کریں گے کہ اے ہمارے رب ان پر بڑی لعنت کیجئے۔ (جو شخص کفر پر مر گیا اس پر لعنت ہے چاہے چھوٹا ہو یا بڑا لیکن عوام الناس اپنے بڑوں اور چودھریوں کے لئے خوب بڑی لعنت کا سوال کریں)



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّاهُ اللَّهُ مُتَقَالُوا وَكَانَ عِنْدَ

اے ایمان والو! لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی سو اللہ نے انہیں اس بات سے بری کر دیا جو ان لوگوں

اللَّهُ وَجِبْهًا ۖ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۖ يُصْلِحْ لَكُمْ

نے کبھی تھی اور موسیٰ اللہ کے نزدیک باوجہت تھے۔ اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کہو۔ اللہ تمہارے اعمال کو سچ بنا دے گا

أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۖ

اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور جو شخص اللہ کی اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے سو وہ کامیاب ہو گیا بڑی کامیابی کے ساتھ۔

## ایمان والوں کو خطاب کہ اُن لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایذا دی

**تفسیر:** صحیح بخاری ص ۳۲ ص ۳۸۳ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ موسیٰ علیہ السلام شرمیلے آدمی تھے اور پردہ کرنے کا خوب زیادہ اہتمام کرتے تھے حتیٰ کہ اگر ان کے جسم کی کھال بھی نظر آ جائے تو اس سے بھی شرماتے تھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ بنی اسرائیل نگے نہاتے تھے اور آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے جاتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام تنہا غسل کرتے تھے بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے انہیں تکلیف پہنچائی اور یوں کہا کہ یہ شخص اس قدر پردہ کرتا ہے ہونہ ہو اس کی کھال میں کوئی عیب ہے یا جسم میں برص کے داغ ہیں یا اس کے فوطے پھولے ہوئے ہیں یا کوئی اور تکلیف کی بات ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ان کو بنی اسرائیل کی بات سے بری کرنے کا ارادہ فرمایا اور قصہ یہ پیش آیا کہ ایک دن انہوں نے تنہائی میں پتھر پر اپنے کپڑے رکھ دیئے پھر غسل فرمانے لگے، غسل کر کے فارغ ہوئے تو کپڑے لینے کا ارادہ کیا ابھی کپڑے لینے نہ پائے تھے کہ جس پتھر پر کپڑے تھے وہ کپڑوں کو لیکر تیزی سے چلا گیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاشعریٰ لی اور پتھر کے پیچھے چل دیئے اور فرمانے لگے کہ اے پتھر میرے کپڑے دے میرے کپڑے دیدئے اسی طرح بنی اسرائیل کی ایک جماعت تک پہنچ گئے کیونکہ کپڑے پہنے ہوئے نہیں تھے اس لئے آپ کو انہوں نے برہنہ دیکھ لیا اور انہیں پتہ چل گیا کہ ان کے جسم پر کوئی بھی عیب نہیں ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی اچھی حالت میں پیدا فرمایا ہے جب ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیا اور مان لیا کہ ان کے جسم میں کوئی عیب نہیں ہے تو پتھر کھڑا ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کپڑے لے کر پہن لئے اور پتھر کو اپنے عصا سے مارنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ اللہ کی قسم ان کے مارنے سے پتھر میں تین یا چار یا پانچ یا چھ یا سات نشانات پڑ گئے تھے۔

قرآن مجید میں جو **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ** فرمایا ہے اس میں اسی قصہ کو بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو! اُن لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی سو اللہ نے انہیں اُن کی باتوں سے بری کر

دیا اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک باوجاہت تھے۔

یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کا ذکر ہے لیکن امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ ﷺ کو لوگوں نے کیا تکلیفیں دی تھیں؟ اس کے بارے میں بھی صحیح بخاری جلد نمبر ۱۴۳۶ اور ص ۲۸۳ میں ایک قصہ لکھا ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے غزوہ حنین کے موقع پر عرب کے بعض سرداروں میں مال تقسیم فرمایا تھا اور ان میں سے کسی کو دوسرے کے مقابلہ میں زیادہ دے دیا۔ وہیں حاضرین میں سے کسی نے یوں کہہ دیا کہ یہ ایسی تقسیم ہے جس میں انصاف نہیں کیا گیا یا یوں کہہ دیا کہ اس تقسیم سے اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان لوگوں کی یہ بات نقل کر دی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ جب اللہ اور اس کا رسول انصاف نہیں کرے گا تو پھر کون انصاف کرے گا؟ اللہ موسیٰ پر رحم فرمائے انہیں اس سے زیادہ تکلیف دی گئی پھر بھی انہوں نے صبر کیا۔

بات یہ ہے کہ جو مال آنحضرت ﷺ نے تقسیم فرمایا وہ کسی کی ملکیت نہیں تھا وہ اموال فتنہ تھا اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ اختیار دیا گیا کہ اپنی صوابدید سے تقسیم فرمائیں، کسی کا حق روک کر مال تقسیم نہیں فرمایا تھا اور یہ بات نہ تھی کہ ایک کا حق دوسرے کو دے دیا، پھر اس کو انصاف کے خلاف کہنا ہی ظلم ہے۔ حدیث کی شرح لکھنے والے حضرات نے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ پر اعتراض کرنا کفر ہے جس کی سزا قتل ہے لیکن آپ نے مذکورہ بالا بات کہنے والے شخص کو مصلحتاً قتل نہیں کیا کیونکہ تالیف قلب کی ضرورت تھی۔ اہل عرب میں یہ شہرت ہو جاتی کہ جناب محمد رسول اللہ ﷺ اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں اس شہرت کی وجہ سے اندیشہ تھا کہ اسلام جو پھیل رہا تھا اس میں رکاوٹ ہو جاتی۔

بہر حال رسول اللہ ﷺ نے اتنی بڑی تکلیف دینے والی بات کو برداشت کر لیا اور فرما دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس سے زیادہ تکلیف دی گئی اور انہوں نے صبر کیا، یہ تو ایک تکلیف تھی اس کے علاوہ منافقین سے تکلیفیں پہنچتی رہتی تھیں آپ درگزر فرماتے تھے جب کبھی کوئی شخص دعوت کے لئے کھڑا ہوتا ہے اسے تکلیفیں پہنچتی ہیں رسول اللہ ﷺ نے اپنے عمل سے برداشت کر کے بتا دیا اور قول سے سمجھا دیا کہ پہلے بھی ایسا ہوا ہے۔

یہ جواز شاد فرمایا کہ ”ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی“ مسلمانوں کو مزید خطاب فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کہو، ٹھیک بات میں سب کچھ آگیا سچی بات بھی اور صحیح بات بھی اور عدل و انصاف کی بات بھی اور ہر دینی بات بھی۔ اسی لئے حضرت عکرمہؓ نے فرمایا (کمانی معالم التنزیل) کہ قَوْلًا مَسْدِيْدًا سے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہنا مراد ہے۔ ترتیب میں اولاً تقویٰ کا ذکر کیا پھر قول سدید کہنے کا حکم فرمایا اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ تقویٰ ہوگا تو بندہ اعمال صالحہ اختیار کرے گا اگر تقویٰ نہ ہو تو اعمال صالحہ اختیار کرنے اور گناہ سے بچنے کی بندہ کو ہمت نہیں ہوتی، اللہ سے ڈرے اور آخرت کی فکر کرے تب قول اور فعل ٹھیک ہوتا ہے۔

پھر تقویٰ اختیار کرنے اور ٹھیک بات کہنے کا انعام بتایا يُضِلُّكُمْ لَكُمْ اَعْمَالُكُمْ وَيُفْقِرُكُمْ ذُنُوبُكُمْ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو قبول فرمائے گا اور تمہارے گناہوں کی مغفرت فرمادے گا۔

اللہ اور رسول ﷺ کی اطاعت میں کامیابی ہے: اس کے بعد یہ فرمایا وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

(اور جو شخص اللہ کی اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے تو وہ بڑی کامیابی کے ساتھ کامیاب ہوگا)  
لوگوں میں کامیابی کے بہت سے معیار معروف ہیں کوئی شخص مال زیادہ ہونے کو کامیابی سمجھتا ہے اور کوئی شخص بادشاہ بن جانے کو کوئی شخص وزارت مل جانے کو اور کوئی شخص جائیداد بنالینے کو اور کوئی شخص زیادہ پیسوں والی ملازمت مل جانے کو کامیابی سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا معیار بتا دیا کہ کامیاب وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور یہی بڑی کامیابی ہے۔  
خطبہ نکاح میں رسول اللہ ﷺ شہادتین کے بعد آیت کریمہ **يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُمْ** (الآیہ) اور آیت کریمہ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَفُؤُوا** (الآیہ) سنہیندا پڑھا کرتے تھے (پورا خطبہ حصن حصین میں مذکور ہے) آپ ﷺ نے خطبہ نکاح میں جو تین آیات اختیار فرمائیں ان میں چار جگہ تقویٰ کا حکم ہے اس سے تقویٰ کی اہمیت اور ضرورت معلوم ہوگئی۔

**إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ**

بلاشبہ ہم نے آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں کے سامنے امانت پیش کی سوائیوں نے اس کی ذمہ داری سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے اور

**مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ۖ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ**

انسان نے اس کو اپنے ذمہ لے لیا بے شک وہ ظلم ہے جہول ہے تاکہ اللہ منافقوں کو

**وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ**

اور منافقات کو اور مشرکوں کو اور مشرکات کو سزا دے اور مؤمنین اور مؤمنات پر توجہ فرمائے اور

**اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝**

اللہ غفور ہے رحیم ہے۔

**آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں نے بار امانت اٹھانے سے انکار کر دیا اور انسان نے اُسے اٹھالیا**

**تفسیر:** یہ دو آیات کا ترجمہ ہے پہلی آیت میں امانت سپرد کرنے کا اور دوسری آیت میں نافرمانوں کے لئے عذاب دینے کا اور اہل ایمان پر مہربانی فرمانے کا ذکر ہے۔

یہ جو فرمایا کہ ہم نے آسمانوں پر اور زمینوں پر اور پہاڑوں پر امانت پیش کی اور انہوں نے اس کی ذمہ داری اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے اور انسان نے اس کو اٹھالیا۔ اس میں امانت سے کیا مراد ہے؟ اس بارے میں متعدد اقوال نقل کئے گئے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ اس سے حکم کی فرمانبرداری کرنا یعنی فرائض کا انجام دینا مراد ہے آسمانوں سے اور زمین سے اور پہاڑوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم امانت کو قبول کر دینی احکام کی فرمانبرداری کی ذمہ داری کا اقرار کرو اور ان کی ادائیگی کا بوجھ اٹھاؤ تو ان چیزوں نے کہا کہ اگر ہم ذمہ داری کو برداشت کر

لیں اور احکام پر عمل پیرا ہونے کا وعدہ کر لیں تو اس کا انجام کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اچھے عمل کرو گے تو اس کا اچھا اجر ملے گا اور اگر نافرمانی کرو گے تو عذاب دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں نہ ہمیں ثواب چاہئے نہ عذاب میں مبتلا ہونے کو تیار ہیں (تشریحی طور پر اوامر اور احکام کا بوجھ اٹھانا ہمارے بس کا روگ نہیں ہاں ہم تکوینی طور پر مسخر ہیں آپ کے حکم کے مطابق رہیں گے اس میں نہ مخالفت کا اندیشہ ہے اور ثواب بھی نہیں عذاب بھی نہیں ہمیں بے ثواب رہنا منظور ہے عذاب کی برداشت نہیں) ان پر خوف اور خشیت کا ایسا غلبہ ہوا کہ عذاب کے ڈر سے ثواب چھوڑنے پر بھی آمادہ ہو گئے۔ ان چیزوں پر جو اللہ تعالیٰ نے امانت پیش فرمائی تھی وہ بطور تخیر کے تھی یعنی اختیار دیا گیا تھا کہ چاہو تو اس کو اپنے ذمہ لے لو چاہو تو نہ لو لہذا انہوں نے تخیر سے فائدہ اٹھایا اور تحمل امانت سے انکار کر دیا۔ اگر کوئی شخص یہ سوال اٹھائے کہ آسمان وزمین اور پہاڑ تو جمادات ہیں ان سے سوال جواب کیسے ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ہمارے نزدیک بے فہم ہیں خالق اور مالک سے جو ان کا تعلق ہے وہ ادراک اور سمجھ کے ساتھ ہے جیسا کہ سورۃ النحل میں فرمایا: الْكَفَرَانِ اللَّهُ يَسْخَرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالذَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَذَلِكَ يُعَذِّبُ حَقٌّ عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ وَمَنْ يُؤْمِنِ بِاللَّهِ فَبِأَلَيْسَ لَهُ مِن مَّكْرَمَةٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُشَاءُ (اے مخاطب! کیا تجھ کو یہ بات معلوم نہیں کہ اللہ کے سامنے سب عاجزی کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت سے آدمی بھی اور بہت سے ایسے ہیں جن پر عذاب ثابت ہو گیا اور جس کو اللہ ذلیل کرے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے)

سورۃ حم السجده میں فرمایا: ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعَتَيْنِ (پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی اور وہ دھواں تھا سو اس سے فرمایا کہ تم دونوں خوشی سے آؤ یا زبردستی سے دونوں نے عرض کیا کہ ہم خوشی سے حاضر ہیں)

سورۃ البقرہ میں پتھروں کے بارے میں فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ (اور ان میں بعض وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں)

اصل بات یہ ہے کہ پتھروں میں اور دوسری جمادات میں ہمارے خیال میں ادراک اور شعور نہیں ہے کیونکہ وہ ہم سے بات نہیں کرتے اور ہمیں وہ احوال معلوم نہیں جو ان پر گذرتے ہیں اور ان کا اپنے خالق سے مخلوق اور مملوک اور عبادت گزار ہونے کا جو تعلق ہے انسان اس سے واقف نہیں ہے۔

صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اُحد ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ (جلد ۲ ص ۵۸۵)

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ مکہ مکرمہ میں ایک پتھر ہے میں اسے پہچانتا ہوں جن دنوں میں میری بعثت ہوئی وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ (صحیح مسلم جلد ۲ ص ۲۳۵)

امانت کی تشریح اور توضیح و تفصیل: جب انسان پر امانت پیش کی گئی اور احکام الہیہ پر عمل پیرا ہونے کی ذمہ داری سونپی گئی تو انسان نے اسے قبول کر لیا اور برداشت کر لیا اور یہ مان لیا کہ میں احکام الہیہ پر عمل کروں گا۔ فرائض کی

پابندی کروں گا و اجبات ادا کروں گا۔

وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ میں الْإِنْسَانُ سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین کے بیان کے مطابق یہ امانت کی پیشی حضرت آدم علیہ السلام پر ہوئی تھی جذبہ ثواب میں آ کر انہوں نے قبول کر لیا معصیت کے عقاب کی طرف گویا خاص ذہیان نہیں دیا اور تگ و پی طور پر بھی انہیں قبول کرنا تھا کیونکہ انہیں خلافت کے لئے پیدا کیا گیا۔ یہ امانت کی پیشی کب ہوئی؟ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ یہ بھی یوم الميثاق میں ہوا جس کا ذکر آیت کریمہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ میں مذکور ہے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ یہ واقعہ یوم الميثاق سے پہلے کا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں پہلے شرمگاہ پیدا فرمائی اور فرمایا کہ یہ امانت ہے اور تیرے پاس ودیعت رکھی جا رہی ہے اسے ضائع مت کرنا صرف حلال جگہ میں استعمال کرنا اگر تو نے اس کی حفاظت کی تو میں تیری حفاظت کروں گا (اس کے بعد فرمایا) لہذا شرمگاہ امانت ہے کان امانت ہیں آنکھیں امانت ہیں زبان امانت ہے پیٹ امانت ہے ہاتھ امانت ہیں پاؤں امانت ہیں یعنی ان چیزوں سے متعلق جو احکام دیئے گئے ہیں ان کی خلاف ورزی خیانت ہے اور انہیں احکام الہیہ کے مطابق استعمال کرنا ادا امانت ہے۔ (روح المعانی جلد ۳ ص ۹۶ تا ۹۸)

آیت کریمہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا لا تخونوا اللہ بتروک فرائضہ والرسول بتروک سنۃ یعنی فرائض کو چھوڑ کر اللہ کی خیانت نہ کرو اور سنتوں کو چھوڑ کر رسول اللہ ﷺ کی خیانت نہ کرو۔ (در منثور جلد ۳ ص ۱۷۸)

اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی خیانت کرنے کی ممانعت کرنے کے بعد فرمایا وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ اور آپس میں اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو چونکہ امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے اور ہر طرح کی امانت میں خیانت کرنے کی ممانعت ہے اس لئے ہر خیانت سے نہایت اہتمام کے ساتھ پرہیز کرنا لازم ہے۔ مالی خیانت کو تو سبھی جانتے ہیں مثلاً کوئی شخص کسی کے پاس امانت رکھے اور وہ اس کو کھاجائے یا استعمال کرے یا کم کر دے یا دوسریک آپس میں خیانت کر لیں جو شخص قرض دے کر یا کسی بھی طرح اپنا مال دے کر بھول جائے اس کا حق رکھ لیں وغیرہ وغیرہ یہ سب خیانتیں ہیں اور ہر شخص کو معلوم ہوتا ہے کہ میں نے کس کا حق مارا ہے اور کس کی خیانت کی ہے فکر آخرت اور اللہ کا ڈر ہو تو انسان خیانت سے بچ سکتا ہے ورنہ دنیاوی نفع کو دیکھ کر بڑے بڑے دینداری کے دعویدار اس مسئلہ میں کچے پڑ جاتے ہیں ہر شخص اپنے اپنے متعلقہ احکام میں دیانتدار ہے چھوٹے بڑے حکام اور ملوک اور رؤساء اور وزراء امانتدار ہیں انہوں نے جو عہدے اپنے ذمہ لئے ہیں وہ ان کی ذمہ داری شریعت اسلامیہ کے مطابق پوری کریں کسی بھی معاملے میں عوام کی خیانت نہ کریں۔ اسی طرح بائع اور مشتری اور سفر کے ساتھی پڑوسی میاں بیوی ماں باپ اور اولاد سب ایک دوسرے کے مال کے اور دیگر متعلقہ امور کے امانتدار ہیں جو بھی کوئی کسی کی خیانت کرے گا گنہگار ہوگا اور میدان آخرت میں پکڑا جائے گا مالیات کے علاوہ دیگر امور میں بھی خیانت ہوتی ہے جن کا ذکر احادیث شریفہ میں وارد ہوا ہے۔

سورۃ نساء میں فرمایا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا (بے شک اللہ تمہیں حکم فرماتا ہے کہ امانت والوں کو انکی امانتیں دے دیا کرو) اور سورۃ بقرہ میں فرمایا ہے فَإِنْ أَمْسَنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي أُوْتِيَ الْأَمَانَاتُ (سواگر

تم میں سے ایک شخص دوسرے شخص پر اعتماد کرے تو جس پر اعتماد کیا گیا ہے وہ دوسرے کی امانت ادا کرے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے) سورہ معارج میں نیک بندوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (اور وہ لوگ جو اپنی امانتیں اور اپنے عہد کی رعایت کرنے والے ہیں)

حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ بہت کم ایسا ہوا کہ رسول اللہ ﷺ نے خطبہ دیا ہو اور یوں نہ فرمایا ہو لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا ذِينَ لِمَنْ لَا عَهْدُ لَهُ (رواہ البیہقی فی شعب الایمان) (اُس کا کوئی ایمان نہیں جو امانت دار نہیں اور اس کا کوئی دین نہیں جو عہد کا پورا نہیں)

مؤمن کا کام یہ ہے کہ پوری طرح امانت دار رہے اللہ تعالیٰ کے فرائض اور واجبات کو بھی ادا کرے سنتوں کا بھی اہتمام رکھے بندوں کے حقوق بھی ادا کرے اور عہد کی بھی پابندی کرے۔

امانتوں کی کچھ تفصیل ہم نے سورہ نساء کی آیت إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا کے ذیل میں بیان کر دی ہے۔ (انوار البیان ج ۲) اور مستقل ایک رسالہ بھی ”امانت و خیانت“ کے عنوان سے لکھ دیا ہے اُس کو ملاحظہ کر لیا جائے۔ إِنَّمَا كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا (بیشک انسان ظلم ہے جہول ہے) ظلم کا معنی ہے ظلم کرنے والا ہے اور جہول کا معنی ہے نادان۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ظلم کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے۔ اور جہول کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جو امانت کی ادائیگی کا بوجھ اٹھایا وہ اسکے انجام کو نہیں جانتا تھا۔ یہ افراد کے اعتبار سے فرمایا کیونکہ انسانوں میں صالح بھی ہیں علماء بھی ہیں عارفین بھی ہیں۔ اسی لئے مجموعہ افراد کا انجام بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا يُعَذِّبُ اللَّهُ

الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ (تاکہ اللہ عذاب دے منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو) وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ (اور تاکہ رحمت کے ساتھ اللہ متوجہ ہو مومن مردوں اور مومن عورتوں پر) یعنی انسان نے امانت کے بوجھ کو اٹھالیا پھر اس ذمہ داری کو نبھانے والے بھی ہوئے اور خلاف ورزی کر نیوالے بھی ہوئے جس کا انجام یہ ہوا کہ منافقوں اور مشرکوں کو عذاب ہو (اس میں الکافرین وَالْكَافِرَاتِ کا ذکر نہیں ہے کیونکہ جب ان کافروں کا انجام عذاب ہے جو منافق ہیں یعنی زبان سے اسلام کا اقرار کرتے ہیں اور دل سے انکاری ہیں تو جو لوگ کھلے کافر ہوں گے وہ بطریق اولیٰ مستحق عذاب ہوں گے) اور ایمان والے مردوں اور عورتوں پر اللہ رحمت کے ساتھ توجہ فرمائے گا۔ اس میں ویسرحم اللہ کی بجائے ویسرحم اللہ کی جگہ پر فرمایا جس میں اس طرف اشارہ ہے کہ جو شخص نافرمانی کے بعد توبہ کر لے گا وہ بھی رحمت اور مغفرت کا مستحق ہوگا۔

آخر میں جو وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا فرمایا اس میں یہ بات بتادی کہ مغفرت فرمانا اور رحم فرمانا اللہ تعالیٰ کی صفات جلیلہ ہیں کافر اور مشرک کی تو مغفرت نہیں جیسا کہ دوسری آیت میں بیان فرمایا ہے دنیا میں تو سب ہی پر رحمت ہے اور آخرت میں صرف اہل ایمان پر رحمت ہوگی۔

تم تفسیر سورة الاحزاب، والحمد لله الملك الوهاب، والصلوة والسلام

علی رسولہ سیدنا من اوتی الكتاب، وعلی الہ خیر ال واصحاب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّا وَهَبْنَا لَكَ الْفَيْفُفَ وَنَبَا

سورہ سبا مکہ معظمہ میں نازل ہوئی ﴿شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے﴾ اس میں چون آیات اور چھ رکوع ہیں

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ

سب تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہے جس کی ملکیت میں وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے اور اسی کے لئے حمد ہے دنیا میں اور آخرت میں

وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ۝ يَعْلَمُ مَا يَلْجِ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ

دنیا میں اور آخرت میں اور وہ حکیم ہے باخبر ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ اس میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس میں سے نکلتا ہے اور جو کچھ

السَّمَاءِ وَمَا يَخْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ ۝ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا

آسمان سے نازل ہوتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے۔ اور وہ رحیم ہے غفور ہے۔ اور کافروں نے کہا کہ ہمارے پاس قیامت نہیں

السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَكُمُ الْعِلْمُ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي

آئے گی۔ آپ فرمادیتے ہیں۔ ہاں میرے رب کی قسم وہ تم پر ضرور آئے گی میرا رب عالم الغیب ہے اس سے ذرہ کے برابر بھی کوئی چیز

السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ۝

آسمانوں میں اور زمین میں غائب نہیں ہے اور نہ کوئی اس سے چھوٹی چیز ہے نہ بڑی چیز مگر کتاب مبین میں موجود ہے۔

لَيَجْزِيَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝ وَالَّذِينَ

تاکر وہ ان لوگوں کو بدل دے جو ایمان لائے اور نیک عمل کئے یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے اور جن لوگوں نے

سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزٍ أَلِيمٌ ۝ وَيَذَرِي الَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ

ہماری آیات کے بارے میں عاجز کرنے کی کوشش کی ان لوگوں کے لئے سختی والا دردناک عذاب ہے۔ اور جن کو علم دیا گیا

الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنَ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۝

وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے جو کچھ نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے اور عزیز حمید کے راستہ کی طرف ہدایت دیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ مستحق حمد ہے اُسے ہر چیز کا علم ہے  
اہل ایمان کیلئے مغفرت اور رزق کریم ہے

تفسیر: یہاں سے سورہ سبا شروع ہو رہی ہے۔ سبا ایک قوم تھی جو یمن میں رہتی تھی اس سورت کے دوسرے رکوع میں ان لوگوں کی بود و باش اور باغوں سے متعلق ہونے کا پھر ناشکری کی وجہ سے ان کی بربادی کا تذکرہ فرمایا ہے اس لئے



سورۃ کا نام سورۃ سبأ معروف ہوا۔

شروع سورۃ میں ارشاد فرمایا کہ آسمانوں اور زمین میں اللہ تعالیٰ ہی مستحق حمد ہے اس دنیا میں بھی اسی کے لئے حمد ہے اور آخرت میں بھی۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفات عالیہ بیان فرمائی، اولاً تو یہ فرمایا کہ وہ حکیم ہے، حکمت والا ہے اس کا کوئی فعل اور کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں، پھر فرمایا کہ وہ خبیر بھی ہے اسے اپنی مخلوق کی اور مخلوق کی مصالح اور منافع اور مضار کی پوری طرح خبر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے علم کی کچھ تفصیل بیان فرمائی کہ زمین میں جو کچھ داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے نازل ہوتا ہے اور جو آسمان میں چڑھتا ہے وہ ان سب کو جانتا ہے وہ رحمت والا بھی ہے اور مغفرت کرنے والا بھی ہے۔

یہاں تک اللہ تعالیٰ کی حمد بیان ہوئی جس میں اس کی صفت علم اور صفت رحمت اور صفت حکمت اور صفت مغفرت کا ذکر آیا ہے اور اس سے توحید بھی ثابت ہوگئی۔ اس کے بعد منکرین قیامت کا قول نقل فرمایا اور ان کی تردید فرمائی۔ ارشاد فرمایا: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ (اور کافروں نے کہا کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی) قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّيَ (آپ فرما دیجئے کہ ہاں میرے رب کی قسم قیامت ضرور آئے گی) عَلَيْهِمُ الْغَيْبُ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي السُّمُوتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْفَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (میرا رب عالم الغیب ہے اس سے ذرہ کے برابر کچھ کوئی چیز آسمانوں میں اور زمین میں غائب نہیں ہے اور نہ کوئی اس سے چھوٹی چیز ہے نہ بڑی چیز مگر کتاب مبین میں موجود ہے) اس میں منکرین قیامت کی اس بات کا جواب دے دیا کہ جب اموات کی ہڈیاں گل مر جائیں گی ان کے ذرات کہاں کے کہاں پہنچے ہوں گے بعض دریا میں سرگردیائی جانوروں کی غذا بنے ہوں گے اور بعض کو خشکی کے جانوروں نے کھایا ہوگا تو ان کے اجزاء کس طرح جمع ہوں گے؟ ان کے جواب میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے کوئی چیز ذرہ بھر بھی اس کے علم سے باہر نہیں ہے آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو کوئی بھی چیز خواہ چھوٹی ہو یا بڑی کتاب مبین میں محفوظ ہے۔

پھر قیامت قائم فرمانے کی غایت بتائی يَعْبُدُوا الَّذِينَ أَمَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ (تاکہ اللہ ان لوگوں کو صلہ دے جو ایمان لائے اور نیک کام کئے) أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ۖ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (یہ وہ لوگ ہیں جنکے لئے مغفرت ہے اور عزت والا رزق ہے) وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُنْفِرِينَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ وَجْهِ الْكَرِيمِ (اور جن لوگوں نے ہماری آیات کے بارے میں عاجز کرنے کی کوشش کی ان لوگوں کے لئے سختی والا دردناک عذاب ہے) اس میں ان لوگوں کی سزا کا تذکرہ فرمایا ہے جو اہل ایمان کے مخالف ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا کر باطل کر دیں یعنی قیامت کے وقوع کو نہ مانیں اور قیامت کی خبر دینے والے (یعنی رسول اللہ ﷺ) کو ہر ادیں۔ قیامت قائم ہو کر جس طرح اہل ایمان اور اعمال صالحہ والوں کو مغفرت اور رزق کریم کا انعام ملے گا اسی طرح منکرین کو دردناک عذاب ہوگا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کی غایت جزا اور سزا دینے کے لئے ہے۔

اس کے بعد اہل علم کی تعریف فرمائی: وَيُزَيِّدُ الَّذِينَ آمَنُوا الْوِلْدَانِ (الآیہ) کہ جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ اس قرآن کو جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف بھیجا گیا ہے حق سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کا راستہ بتاتا ہے جو غالب ہے اور مستحق حمد ہے۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنْبِئُكُمْ إِذَا مُزِقْتُمْ كُلٌّ مِّنْكُمْ ۚ

اور کافروں نے کہا کیا ہم تمہیں ایسا شخص نہ بتا دیں جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم پوری طرح ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے

إِنِّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ۚ أَفَتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَيْدًا أَمْ يُرِيدُ بَلِّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

تو تم ضرور ایک نئی پیدائش میں آ جاؤ گے۔ کیا اس شخص نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے یا اس کو کسی طرح کا جنون ہے بلکہ بات یہ ہے کہ جو لوگ

يَا الْآخِرَةَ فِي الْعَذَابِ وَالصَّلٰىلِ الْبُعِيدِ ۚ أَفَلَمْ يَدْعُوا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ عذاب میں اور دور کی گمراہی میں ہیں۔ کیا انہوں نے اُسے نہیں دیکھا جو ان کے سامنے ہے

مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ تَشَاءُ نَحْشِفْهُمْ إِلَىٰ الْأَرْضِ أَوْ نُسْقِطُ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِّنَ

اور جو اُن کے پیچھے ہے یعنی آسمان اور زمین اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھنسا دیں یا ہم اُن پر

السَّمَاءِ إِن فِي ذٰلِكَ لَآيَةٌ لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ۝

آسمان کے ٹکڑے گرادیں بلاشبہ اس میں متوجہ ہونے والے ہر بندہ کیلئے نشانی ضرور ہے۔

## کافروں کی طرف سے وقوعِ قیامت کا انکار اور اُن کیلئے عذاب کی وعید

**تفسیر:** جو لوگ قیامت کے منکر تھے وہ رسول اللہ ﷺ کے بارے میں آپس میں کہتے تھے کہ کیا ہم تمہیں ایسا آدمی

نہ بتا دیں جو تمہیں یہ بتاتا ہے کہ جب تم بالکل ہی چورہ چورہ ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو پھر نئے طریقے سے پیدا ہو گے انہیں

نئے طور پر پیدا ہونے سے جو تعجب ہوتا تھا اپنے اس تعجب کو اس طرح ظاہر کیا اور اس میں کچھ استہزاء اور تمسخر کا بھی پہلو

ہے۔ چونکہ یہ لوگ رسالت پر ایمان نہیں رکھتے تھے اس لئے انہوں نے وقوعِ قیامت کی خبر کو دو باتوں میں منحصر کر دیا اور

کہنے لگے کہ یہ شخص اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے یعنی وہ بات کہتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں بتائی گئی اور اگر یہ بات نہیں

ہے تو پھر یہ شخص دیوانگی میں مبتلا ہے خبر کے سچا ہونے کا اُنکے نزدیک احتمال ہی نہیں تھا اس لئے انہوں نے تیسری بات کا

تذکرہ ہی نہیں کیا یعنی یوں نہیں کہا کہ ممکن ہے اس کی بات سچی ہو بلکہ دو ہی باتوں میں منحصر کر دیا حالانکہ ان کی دونوں باتیں

غلط ہیں نہ آپ ﷺ نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور نہ آپ کو دیوانگی ہے۔ اُن کے جواب میں فرمایا: بَلِّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

يَا الْآخِرَةَ فِي الْعَذَابِ وَالصَّلٰىلِ الْبُعِيدِ مطلب یہ ہے کہ ہمارا نبی نہ افتراء کرنے والا ہے نہ دیوانہ ہے بلکہ بات یہ ہے کہ جو

لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ عذاب اور دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں گمراہی میں اتنے زیادہ آگے بڑھ چکے

ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ کی خبر انہیں جھوٹی معلوم ہوتی ہے اور انہیں دیوانگی کی طرف منسوب کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔

پھر ان لوگوں کا تعجب دور کرنے کے لئے فرمایا: أَفَلَمْ يَدْعُوا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

اس میں یہ بتایا کہ دیکھو تمہارے سامنے آسمان ہیں اور زمین ہے تمہیں معلوم ہے کہ ان کا کتنا وجود ہے، کتنی وسعت ہے یہ بھی مانتے ہو کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا جس نے انہیں پیدا فرمادیا اس کے بارے میں یہ غلط خیال کیسے کرنے لگے کہ وہ چھوٹی سی مخلوق کو یعنی تمہارے وجود کو دوبارہ پیدا نہ کر سکے گا۔ اسی کو سورۃ المؤمن میں یوں فرمایا۔ لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْاَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ (البتہ آسمانوں کا اور زمین کا پیدا فرمانا لوگوں کے پیدا فرمانے کی بہ نسبت بڑا کام ہے اور لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے) اور سورۃ یس میں فرمایا۔ اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِقَدِرٍ عَلٰی اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ (کیا وہ ذات جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا اس پر قادر نہیں ہے کہ انکے جیسے پیدا فرمادے) اور سورۃ احقاف میں فرمایا اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَمْ يَتَّخِذْ لِنَفْسِهٖۤ اَوْفًا عَلٰی اَنْ يُخَيِّقَ الْمَوْتَٰیۤ بَلٰی اِنَّہٗٓ اِنَّمَا عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ (کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ جس خدا نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا اور ان کے پیدا کرنے میں ذرا بھی نہیں تھکا وہ اس پر قادر ہے کہ مردوں کو زندہ فرمائے کیوں نہیں بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے)۔ پھر فرمایا: اِنَّ لَنَا لِمَن نَّخْصِفُ بِہُمْ الْاَرْضَ اَوْ نَنْقُطُ عَلَیْہُمْ کَسَفًاۙ اَوْ نَسْمُوْہُ (اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھنسا دیں یا اگر چاہیں تو ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں) یعنی آسمان اور زمین کو دیکھ کر یہ لوگ عبرت و بصیرت حاصل نہیں کرتے ان کے اس انکار و تکذیب کی سزا میں ہم اسی زمین کو اور اسی آسمان کو ان کے لئے عذاب کا ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ حکمت کے متقضا کے باعث گرفت میں جو دیر لگ رہی ہے اس سے دھوکہ نہ کھائیں۔

اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ لَاٰیۃٍ لِّکُلِّ عٰبِدٍ مُّحْسِنٍ (بلاشبہ اس میں اُس بندے کے لئے بڑی نشانی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو)

اور حق کا طالب ہو۔

وَلَقَدْ اَتَيْنَا دَاوُدَ مِثًا فَضْلًاۙ اِیْجَالًاۙ اَوْفٰی مَعَهٗ وَالظَّیْرُۙ وَالتَّالٰہُ الْحَدِیْدُ ۝۱۰ اِنْ

اور یہ واقعی بات ہے کہ ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے بڑی نعمت دی تھی اُسے پہاڑ واداد کے ساتھ بار بار تسبیح کرو اور پرندوں کو بھی یہی حکم دیا اور ہم نے

اَعْمَلُ سَیِّغَتْ وَقَدَّرُ فِی السَّرْدِ وَاَعْمَلُوا صَالِحًا اِنِّیْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِیْرٌ ۝۱۱

ان کے لئے لوہے کو زم کر دیا کہ تم پوری زر ہیں بناؤ اور جوڑنے میں اندازہ رکھو اور تم سب نیک کام کیا کرو بلاشبہ میں ان کاموں کو دیکھ رہا ہوں جنہیں تم کرتے ہو۔

وَلِسُلَیْمٰنَ الرِّیْحَ غَدُوًّاۙ وَهَاشَہْرُۙ وَرَوَاحُہَا شَہْرٌ ۝۱۲ وَاَسْلٰنَا لَہٗ عِیْنَ الْقَطْرِ ۙ وَمِنْ

اور ہم نے سلیمان کے لئے ہوا کو سحر کیا اس کا صبح کا چلنا ایک ماہ کی مسافت تھا اور اس کا شام کا چلنا ایک ماہ کی مسافت تھا اور ہم نے ان کے لئے تانبے کا چشمہ بہا دیا اور

اَلْحٰجِّیْنَ مِّنْ یَّعْمَلُ بَیْنَ یَدَیْہِۚ بِاِذْنِ رَبِّہٖ ۙ وَمَنْ یَّزِغْ مِنْہُمْ عَنْ اَمْرِیۡنَا نَذِقْہُ مِنْ عَذَابِ

جنات میں بعض وہ تھے جو ان کے سامنے اُن کے رب کے حکم سے کام کرتے تھے اور ان میں سے جو شخص ہمارے حکم سے سرتابی کرے ہم اسے دوزخ کا عذاب

السَّعِیْرِ ۝۱۳ یَعْمَلُوْنَ لَہٗ مَا یَشَآءُوْنَ مِنْ مَّحَارِبَۙ وَتَمٰثِیْلٍ وَجَفّٰنٍ کَالْجَوَابِ وَقُدُوْرٍ

چکھائیں گے جنات ان کے لئے ان کی فرمائش کے مطابق بڑی عمارتیں اور محسوس کے برابر بڑے بڑے گن گن ایسی دیگیں بناتے تھے جو ایک ہی جگہ

## رُسِيتْ اَعْمَلُوْا اِلَ دَاوُدْ شُكْرًا وَّقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُوْرُ

جی رہیں اے داؤد کے خاندان والو تم شکر کا کام کرو اور میرے بندوں میں شکر گزار کم ہوتے ہیں

### حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام والے انعامات کا تذکرہ

**تفسیر:** یہاں حضرت داؤد اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہما السلام کا تذکرہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں جس اقتدار اور اختیار اور جن نعمتوں سے نوازا تھا ان میں سے بعض کا تذکرہ ہے۔ سورۃ انبیاء (رکوع نمبر ۵) میں دونوں حضرات کا تذکرہ گزر چکا ہے اور سورۃ صٰی میں بھی (رکوع نمبر ۱۲ اور رکوع نمبر ۳ میں) آ رہا ہے۔

پہاڑوں اور پرندوں کا تسبیح میں مشغول ہونا: اولاً تو یہ فرمایا کہ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو حکم دیا کہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہماری طرف بار بار رجوع ہوں اور ان کے ساتھ ہماری ذکر و تسبیح میں مشغول رہیں۔ لفظ اَوْيٰی باب تفعلیل سے ہے اور چونکہ مجرد سے بھی اس کا معنی رجوع کرنے کا ہے اس لئے اس کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ رَجَعْنٰی مَعَهُ التَّسْبِيْحَ وَرَدَدْنٰی بِهٖ کہ داؤد کے ساتھ بار بار تسبیح کرو۔ اور پرندوں کو بھی حکم دیا کہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی تسبیح میں مشغول رہیں۔ سورۃ صٰی میں فرمایا ہے: اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَمِيْنِ وَالْاَشْرَاقُ وَالظُّلُمُ مَحْشُوْرَةٌ كُلٌّ لِّهٖ اٰوَاكٍ (ہم نے پہاڑوں کو حکم کر رکھا تھا کہ ان کے ساتھ شام اور صبح تسبیح کیا کریں اور پرندوں کو بھی حکم دیا تھا جو جمع ہو جاتے تھے سب اس کی وجہ سے ذکر میں مشغول رہتے تھے)۔

یوں تو ہر چیز اللہ کی تسبیح میں مشغول رہتی ہے جیسا کہ متعدد آیات میں بیان فرمایا ہے لیکن پہاڑوں اور پرندوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی حکم تھا کہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے میں مشغول رہیں یہ تسبیح حروف اور کلمات کے ساتھ تھیں جیسا کہ اس طرح کے معجزات نبویہ بھی کتب احادیث میں مذکور ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم کھانے کی تسبیح سنتے تھے جس وقت وہ کھایا جاتا تھا۔ (رواہ البخاری کما فی مشکوٰۃ المصابیح ص ۵۳۸) جب داؤد علیہ السلام تسبیح پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی تسبیح پڑھتے تھے اور پرندے بھی آپ کے پاس جمع ہوتے اور مشغول تسبیح ہو جاتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام نہایت خوش آواز تھے رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی خوش آوازی کو تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا لقد اوتیٰ مزماراً من مزامیر آل داود۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۵۷۷ عن البخاری و مسلم) (کہ ان کو داؤد علیہ السلام کی خوش آوازی کا حصہ دیا گیا)

لوہے کو نرم فرمانا: ثانیاً یہ فرمایا: وَالْاَكَاكِلَةُ الْحَمِيْدُ کہ ہم نے لوہے کو داؤد علیہ السلام کے لئے نرم کر دیا اِنْ اَعْمَلْنَا سَبِغًا اور انہیں حکم دیا کہ تم پوری زرہیں بناؤ۔ وَقَدْ رَفِیَ الشُّرُوْدُ اور ان کے جوڑنے میں اندازہ رکھو۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے جو تلواروں کا حملہ روکنے کے لئے زرہیں بنائی جاتی تھیں وہ لوہے کے تختے ہوتے تھے جو جنگ کرنے والا اپنے آگے پیچھے باندھ لیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زرہیں بنانے کا یہ طریقہ سکھایا کہ پہلے وہ لوہے کے زنجیر نما حلقے بنائیں پھر انہیں آپس میں ایک اچھے اور مناسب انداز میں جوڑ دیا کریں۔ اسی کو سورۃ الانبیاء میں فرمایا:

وَعَلَيْهِمْ صَنْعَةُ الْبُيُوتِ لِكُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْ آلِ سُلَيْمَانَ (اور ہم نے انہیں زرہ بنانے کی کاریگری سکھائی تاکہ وہ تمہیں تمہاری جنگوں میں محفوظ رکھیں)۔

معالم التنزیل جلد ۳ ص ۵۰۵ میں لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو جب حکومت ملی تو آپ بیت بدل کر گھوما پھرا کرتے تھے اور اکاؤڈ کا جو کوئی شخص مل جاتا اُس سے دریافت فرماتے تھے کہ بھائی داؤد کیسے ہیں؟ عام طور سے اس کے جواب میں لوگ ان کی تعریف ہی کر دیتے تھے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے انسانی صورت میں ایک فرشتہ بھیجا، داؤد علیہ السلام نے اس سے بھی وہی سوال کیا جو دوسرے لوگوں سے کیا کرتے تھے، فرشتے نے کہا کہ ہاں آدمی تو وہ اچھے ہیں اگر ان میں ایک خصلت نہ ہوتی یہ سکر حضرت داؤد علیہ السلام متفکر ہوئے اور دریافت کیا کہ وہ کون سی خصلت ہے؟ فرشتے نے جواب دیا وہ یہ ہے کہ وہ خود بھی بیت المال سے کھاتے ہیں اور اپنے بال بچوں کو بھی اسی میں سے کھلاتے ہیں یہ بات سکر آپ کو متنبہ ہوا اور اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ میرے لئے کوئی ایسا سبب بنا دیجئے جس سے میرا اور میرے اہل و عیال کا گزارہ ہوتا رہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو زرہ بنانی سکھائی اور آپ کے لئے لوہے کو نرم کر دیا۔ زرہ بنانے کے لئے انہیں لوہے کو آگ میں ڈال کر نرم کرنے اور ہتھوروں سے کوٹنے پیٹنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی ان کے ہاتھوں میں لوہا موم کی طرح پگھل جاتا تھا اور گوندھے ہوئے آٹے کی طرح نرم ہو جاتا تھا، روزانہ ایک زرہ بنا لیتے تھے جو چار ہزار درہم (اور ایک قول کے مطابق چھ ہزار درہم) میں فروخت کر دیتے تھے، ان میں سے اپنی جان پر اپنے اہل و عیال پر خرچ فرماتے تھے اور فقراء بنی اسرائیل پر بھی صدقہ فرماتے تھے۔

حضرت مقداد بن معدیکرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص نے اس سے بہتر کھانا نہیں کھایا کہ اپنے ہاتھ سے کام کرے اور اس سے جو حاصل ہو اُس میں سے کھائے اور فرمایا کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں کی محنت سے کھاتے تھے (رواہ البخاری ص ۲۷۸)

اس کے بعد فرمایا: وَاعْمَلُوا صَالِحًا اور اے داؤد کے گھر والو نیک عمل کرو إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (بلاشبہ میں تمہارے کاموں کو دیکھنے والا ہوں)

ہوا کی تسخیر: اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام پر جو انعامات تھے ان کا تذکرہ فرمایا، انہیں میں سے ایک انعام یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ہوا کو مسخر فرما دیا تھا، جہاں جانا ہوتا تھا ہوا کو حکم دے دیتے تھے وہ ان کو اور ان کے لشکر کو لے کر چل دیتی تھی، اور اس کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ صبح کو چلتی تھی تو اُس زمانہ کے مسافروں کی عام رفتار کے مطابق ایک مہینے کی مسافت تک پہنچا دیتی تھی اور شام کو چلتی تو مزید ایک ماہ کی مسافت کو پہنچا دیتی تھی۔

معالم التنزیل میں حضرت حسنؑ سے نقل کیا ہے کہ صبح کو دمشق سے چل کر شام تک اصطر پھنچا دیتی تھی پھر شام کو اصطر سے چل کر صبح تک کا بل پہنچا دیتی تھی۔ تیز رفتار سوار کے لئے دونوں مسافتیں ایک ایک ماہ کی مسافت کے برابر ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام صبح کا کھانا مقام رے میں کھاتے تھے اور شام کا کھانا سمرقند میں کھاتے تھے۔

تانے کا چشمہ بہا دینا: دوسرا انعام ذکر کرتے ہوئے فرمایا: وَاسْلُكْهُ عَيْنَ الْفُطَيْرِ اور ہم نے سلیمان (علیہ السلام) کے لئے تانے کا چشمہ بہا دیا۔ تانہا مشہور معدنی چیز ہے اور جامد ہے، اُسے برتن وغیرہ بنانے کے لئے پگھلانا پڑتا ہے

اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آپ کو کھچلے ہوئے تانبے کی نعمت دی اور تصور بہت نہیں بلکہ اس کا چشمہ جاری فرمادیا۔ صاحب روح المعانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ تانبے کا یہ چشمہ یمن کی سرزمین میں تھا۔

جنات کی تسخیر: تیسری نعمت بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِأَمْرٍ كَذِبٍ (اور جنات میں سے بعض وہ تھے جو اُن کے سامنے اُن کے رب کے حکم سے کام کرتے تھے) اللہ تعالیٰ نے جنات کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں لگا دیا تھا یہ شیاطین ان کے حکم کے مطابق کام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم جنات کے لئے یہ تھا کہ سلیمان (علیہ السلام) کی اطاعت کرو۔ وَمَنْ يَزِغْ يَزِغْ مِنْهُ عَن مَّأْمَرَاتِنَا إِنَّ جَهَنَّمَ لَمِنْ أَعْدَابِ النَّارِ (ہمارے اس حکم سے جو سرتابی کرے گا یعنی سلیمان کی حکم عدولی کرے گا ہم اُسے دوزخ کا عذاب چکھا دیں گے) شیاطین تو تھے ہی ان کو تشریحی طور پر بھی حضرت سلیمان کی اطاعت کا حکم تھا اسکی خلاف ورزی پر عذاب آخرت کی وعید ذکر فرمائی۔

محاریب اور تماثیل کا تذکرہ: يَعْمَلُونَ لَكَ مَائِدَاتٍ مِّن تَحْتِ الْكُرْسِيِّ وَمَائِدَاتٍ لِّكَ یہ جنات سلیمان علیہ السلام کے لئے ان کی فرمائش کے مطابق بڑی بڑی عمارتیں اور محسے یعنی مورتیاں بناتے تھے۔

لفظ مَائِدَاتٍ محارر کا جمع ہے جس کا ترجمہ عمارتیں کیا گیا ہے، بعض حضرات نے اس کا ترجمہ قصور یعنی محلات کیا ہے اور بعض حضرات نے مساکن یعنی رہنے کی جگہیں اور بعض نے اونچی جگہ یعنی بالا خانہ کا ترجمہ کیا ہے۔ اور تَمَائِيلٍ تماثیل کی جمع ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنات تصویریں بناتے تھے جو تانبہ پیتل شیشہ اور سفید پتھروں کی ہوتی تھیں۔

جِفَانٍ اور قُدُورٍ رَّاسِيَةٍ: وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ اور بڑے بڑے لگن بناتے تھے جو حوضوں کی طرح ہوتے تھے۔ وَقُدُورٍ رَّاسِيَةٍ اور ایسی دیکیں جو ایک ہی جگہ جمی رہنے والی تھیں۔ جِفَانٍ جفنة کی جمع ہے جو پیالہ کے معنی میں آتا ہے اور الْجَوَابُ جمع ہے جبابۃ کی۔ جیسے نَوَاصِي ناصیۃ کی جمع ہے اس کے آخر سے یا حذف ہوگئی۔ جابیہ بڑے پیالہ کے معنی میں آتا ہے کیونکہ وہ پیالے بڑے بڑے ہوتے تھے اس لئے اوپر لگن کا ترجمہ کیا گیا۔

جنات جو دیکیں بناتے تھے وہ بھی بہت بڑی بڑی ہوتی تھیں جو اپنی جگہوں پر جام رہتی تھیں معالمتنزیل جلد ۳ ص ۵۵۲ میں لکھا ہے کہ ایک پیالہ سے ہزار آدمی کھاتے تھے اور یہ پیالے پایوں والے تھے اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتے تھے اور سیرھیوں کے ذریعہ ان تک پہنچتے تھے۔ ظاہر ہے کہ پیالے اتنے بڑے تھے تو دیکیں کتنی بڑی ہوں گی جو اپنی جگہ جمی رہتی تھیں۔ حضرت سلیمان کا یہ سلسلہ یمن میں تھا۔

ادائیگی شکر کا حکم: إِعْمَلُوا لِي ذَاؤُاْ شُكْرًا اے داؤد کے گھر والو شکر کا کام کرو (یعنی تمہیں جو نعمتیں ملی ہیں تو لاؤ فعلان کا شکر ادا کرو اعمال صالحہ میں لگے رہو) وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ (اور میرے بندوں میں شکر گزار کم ہیں)

صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن بے روزہ رہتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب نماز داؤد علیہ السلام کی نماز تھی (یعنی نماز تہجد) وہ آدھی رات سوتے تھے اور تہائی رات نماز میں کھڑے رہتے تھے اور رات کے چوتھے حصہ میں پھر سو جاتے تھے۔ (راجع صحیح البخاری کتاب الانبیاء)

اور معالمتنزیل میں حضرت ثابت بنائی رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے رات اور دن کے حصوں کو

اپنے اہل و عیال پر تقسیم کر رکھا تھا رات اور دن میں جو بھی کوئی وقت ہوتا تھا ان کے گھر کا کوئی نہ کوئی شخص نماز میں مشغول رہتا تھا۔ شریعت محمدیہ میں تماثیل اور تصاویر کا حرام ہونا: حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جنات اُن کے تابع کر دیئے گئے تھے ان کے بعض اعمال سورۃ سباء میں اور بعض اعمال سورۃ ص میں مذکور ہیں۔ یہاں جنات کے جن اعمال کا ذکر ہے ان میں تماثیل یعنی مورتیاں بنانے کا بھی تذکرہ فرمایا۔ بعض وہ لوگ جنہیں تصاویر سے اور مورتوں سے محبت ہے وہ تصاویر اور تماثیل کے جواز پر اس آیت کو پیش کرتے ہیں یہ ان لوگوں کی غلطی ہے جب رسول اللہ ﷺ نے منع فرمادیا جو قرآن کو اور احکام الہیہ کو سب سے زیادہ جانتے تھے تو کسی دوسرے کو کیا اختیار ہے کہ آپ کے حکم سے سرتابی کرے اور جس چیز کو آپ ﷺ حرام قرار دیں اُسے حلال کہے بات یہ ہے کہ سابقہ امتوں کے لئے بعض چیزیں حلال کر دی گئیں تھیں اور بعض چیزیں ان پر حرام تھیں شریعت محمدیہ علی صا جہا الصلوٰۃ و الخیۃ نے ان حلال چیزوں میں سے بہت سی چیزیں حرام قرار دے دیں یہ منسوخ ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے خود اس اُمت کیلئے ابتدائے اسلام میں بہت سی چیزیں جائز تھیں پھر ان کو حرام کر دیا گیا اس میں سے شراب کی ابتداء حلال ہونا پھر حرام ہونا تو تقریباً سب ہی جانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے سخت عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا۔ (رواہ البخاری ص ۸۸۰ ج ۲)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہر تصویر بنانے والا دوزخ میں ہوگا جو بھی صورت اس نے بنائی تھی وہ ایک جان بنادی جائے گی جو اُسے دوزخ میں عذاب دیتی رہے گی۔ (رواہ البخاری و مسلم کما فی مشکوٰۃ ص ۳۸۵)

اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ان تصویر والوں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا۔ ان سے کہا جائے گا کہ تم نے جو کچھ بنایا تھا اس میں جان ڈالو اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جس گھر میں تصویر ہو اُس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ (رواہ البخاری ص ۸۸۱)

حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بلاشبہ رسول اللہ ﷺ نے خون کی قیمت اور کتے کی قیمت اور زنا کے ذریعہ مال کمانے سے منع فرمایا اور سود کھانے والے اور سود کھلانے والے پر اور گودنے والی اور گدوانے والی پر اور تصویر بنانے والے پر لعنت بھیجی ہے۔ (رواہ البخاری ص ۲۸۰)

یہ چند حدیثیں ہم نے صحیح بخاری سے نقل کر دی ہیں اور ان کے علاوہ بھی بہت سی حدیثیں ہیں جن میں تصویر بنانے اور تصویر رکھنے کی ممانعت ہے مجموعی حیثیت سے ان کی تعداد دو اتر معنوی کو پہنچی ہوئی ہے۔ جو لوگ تصاویر و تماثیل کو جائز کہہ رہے ہیں وہ رسول اللہ ﷺ کے ارشادات اور وجہ ممانعت کو نہیں دیکھتے اور اپنی طرف سے علتیں نکالتے ہیں پھر یوں کہتے ہیں کہ علت نہ رہی تو حکم بھی باقی نہیں رہا اور خود سے یہ علت نہ نکالی کہ اہل عرب مشرک تھے اُن کے دلوں میں تصاویر کی اہمیت تھی لہذا ان کے دلوں سے تصاویر کی محبت نکالنے کے لئے تصاویر و تماثیل کو حرام قرار دے دیا تھا اب جب علت نہ رہی تو حکم بھی نہ رہا۔ العیاذ باللہ

آنحضرت ﷺ نے تو یہ علت نہیں بتائی۔ آپ نے تو یہ بتایا ہے کہ قیامت کے دن ان لوگوں کو عذاب ہوگا جو اللہ



تعالیٰ کی صفت خالقیت کے مشابہ بنتے ہیں۔

اور ایک روایت میں یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو میری صفت خالقیت سے ساجھا کرے۔ اگر ایسے ہی پیدا کرنے والے ہیں تو ایک ذرہ پیدا کر دیں یا ایک حبہ یا ایک جو پیدا کر دیں۔ (رواہ البخاری ص ۸۸۰ ج ۲) آخر میں ایک اور حدیث سنتے چلیں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن دوزخ سے ایک گردن نکلے گی اُس کی آنکھیں ہوں گی ان سے دیکھتی ہوگی اور دوکان ہوں گے جن سے سنتی ہوگی اور ایک زبان ہوگی جس سے بات کرتی ہوگی اور یوں کہے گی کہ میں تین شخصوں پر مسلط کی گئی ہوں (۱) ہر وہ شخص جو ظالم ہو عناد کرنے والا ہو (۲) وہ شخص جس نے اللہ کے ساتھ معبود بنا کر کسی کو پکارا ہو (۳) جو تصویر بنانے والا ہو۔ (رواہ الترمذی)

ایک شخص داڑھی منڈی ہوئی، پتلون پہنے ہوئے نصرانی صورت میں احقر سے بھڑکنا کہنے لگا کیمرہ تو بہت سے بہت ڈیڑھ سو سال پہلے کی ایجاد ہے میں نے کہا گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے کرو تو توبہ کی توفیق بھی ہو جائے گی اور اگر گناہ کو حلال کرنے کی کوشش کی جائے گی تو گناہ ذیل ہو جائے گا اور گناہ حلال نہیں ہوگا اور حلال سمجھنے کی وجہ سے توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوگی۔ رسول اللہ ﷺ نے کسی آلہ کی تخصیص تو نہیں فرمائی کہ تصویر ہاتھ سے بناؤ گے تو فرشتے گھر میں داخل نہ ہوں گے اور کسی آلہ کے ذریعہ سے تصویر کھینچو گے تو فرشتوں کو ناگواری نہ ہوگی اور یہ نہیں فرمایا کہ یہ عمل یضاهون خلق اللہ میں شامل نہیں۔

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ

پھر جب ہم نے سلیمان پر موت کا حکم جاری کر دیا تو ان کو سلیمان کی موت کا پتہ نہ دیا مگر کھن کے کپڑے نے جو ان کے عصا کو کھا رہا تھا

فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّو كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ۝۱۱

سو جب وہ گر پڑے تو جنات کو پتہ چلا کہ اگر جن غیب کو جانتے ہوتے تو ذلیل کرنے والے عذاب میں نہ ٹھہرے رہتے۔

جنات غیب کو نہیں جانتے، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام

کی وفات سے بے خبر رہے

**تفسیر:** جیسا کہ پہلے معلوم ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام جنات سے بڑے بڑے کام لیتے تھے ان میں سخت کام

بھی ہوتے تھے اور ان میں سے بعض شیاطین کو بیڑیوں میں جکڑ کر بھی ڈالتے تھے، کما ذکر اللہ فی سورۃ ص (وَالشَّيَاطِينِ

كُلٌّ يَلْمُزُ عُجَاعٍ وَآخَرِينَ مَقْرُونِينَ فِي الْأَصْفَادِ) جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب ہوا تو وہ ایک لاٹھی

لے کر اپنی ٹھوڑی سے لگا کر تخت پر بیٹھ گئے اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی موت آنے کا فیصلہ فرما دیا لہذا ان کو موت آ

گئی جنات یہ سمجھ کر کہ آپ بیٹھے ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں برابر کاموں میں لگے رہے اور تکلیفیں اٹھاتے رہے ان میں

سے چھوٹے درجے کے جنات کو ایسا خیال تھا کہ جو ہمارے بڑے ہیں وہ غیب کو جانتے ہیں۔

صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں جو بڑے جنات تھے وہ خود بھی اپنے بارے میں غیب

دانی کا دعویٰ کرتے ہوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کو موت بھی آگئی اور بدستور لاشی سے فیک لگائے بیٹھے رہے اور لاشی کو گھن کا کیڑا کھاتا رہا۔ جب ایک سال گذر تو گھن کھانے کی وجہ سے لاشی ٹوٹ گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی لاش گر پڑی، اب جو لاش گری تو جنات کو پتہ چل گیا کہ ارے یہ تو مرے ہوئے تھے، ان کا بیٹھا رہنا اور نکار ہٹنا لاشی کی فیک کی وجہ سے تھا، پھر حساب لگایا کہ گھن کے کیڑے نے کتنے دن تک لاشی کو کھایا ہوگا تو اندازہ ہوا کہ ایک سال تک کیڑے نے لکڑی کو کھایا ہے جس کا ہمیں اب پتہ چلا ہے، اگر ہم پہلے ہی سے اس بات کو جان لیتے کہ ان کو موت آچکی ہے تو مشقت کے کاموں میں کیوں لگے رہتے جو ہمارے لئے باعث عذاب بنے ہوئے تھے اور ہماری ذلت کا باعث تھے، ان کا غیب دانی کا جو دعویٰ تھا وہ غلط نکلا اور پوری طرح یہ واضح ہو گیا کہ جنات غیب کو نہیں جانتے، یہ غلط فہمی اس امت کے بعض لوگوں کو بھی ہے، حالانکہ علم الغیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے لئے مخصوص ہے، کسی رسول یا فرشتے کو جو کچھ علم حاصل ہوا وہ اللہ تعالیٰ ہی کے عطا فرمانے سے ملا، سورۃ آل عمران میں فرمایا: وَمَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يُظْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَسِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے واقعہ سے پوری طرح عیاں ہو گیا کہ جنات غیب دان نہیں ہیں۔ قوله تعالى منسأته قال صاحب الروح والمنسأة من نسات البعير اذ اطر دته لانها يطر دبها او من نساته اذا اخرته ومنه النسى، ويظهر من هذا انها العصا الكبيرة التي تكون مع الراعي واضرابه.

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جِئَتْ مِنْ رَبِّهِمْ مِنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ

واقعی بات ہے کہ قوم سبا کے لئے ان کے ٹھہرنے کی جگہ میں بڑی نشانی تھی، دائیں بائیں دونوں طرف باغوں کی قطاریں تھیں

رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ ۝ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ

کھاؤ اپنے رب کے رزق سے اور اس کا شکر ادا کرو عمدہ شہر ہے اور رب بخشنے والا ہے۔ سوانہوں نے روگردانی کی لہذا ہم نے ان پر بند کا سیلاب

وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْنِ ذَوَاتِ أَكْلٍ خَمْطٍ وَأَثَلٍ وَشَيْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ ۝ ذَٰلِكَ

بھیج دیا اور ہم نے ان کے باغوں کے بدلے میں دو ایسے باغ دیئے جن میں بد مزہ پھل اور جھاؤ کدخت تھے اور کچھ ٹھوڑے سے پیری کدخت تھے۔ ہم نے

جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجْزِي إِلَّا الْكَفُورَ ۝ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي

انہیں یہ سزا ان کے کفر کی وجہ سے دی اور ہم ناشکروں ہی کو سزا دیا کرتے ہیں۔ اور ہم نے ان کے درمیان اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے

بَرَكْنَا فِيهَا قَرْيَ ظَاهِرَةً وَقَدَرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لِيَالِي وَأَيَّامًا آمِنِينَ ۝

برکت دی تھی بہت سے گاؤں آباد کر رکھے تھے جو نظر آتے تھے اور ہم نے ان کے درمیان ان کے چلنے کا ایک خاص انداز رکھا تھا ان میں راتوں کو چلو اور دن میں چلو اس ولمان کے ساتھ۔

فَقَالُوا رَبَّنَا بَعْدَ بَيْنِ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَرَّقَهُمْ

سوانہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب دوسری کردیتے ہمارے سفروں کے درمیان اور انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا سو ہم نے انہیں افسانہ بنادیا اور انہیں

كُلُّ مُمَرِّقٍ اِنْ فِيْ ذٰلِكَ لَا يَتْلٰى صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ۝۱۵ وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ اٰیٰتُ

پوری طرح تتر کر دیا بیشک اس میں ہر صابر و شاکر کے لئے بڑی عبرتیں ہیں اور یہ بات واقعی ہے کہ ان کے بارے میں ابلیس نے

ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوْهُ اِلَّا فَرِیْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝۱۶ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّا

اپنا گمان سمجھ پایا سب اس کے اتباع میں لگ گئے سوائے مومنین کی تھوڑی سی جماعت کے اور ابلیس کا ان لوگوں پر کوئی زور نہ تھا جس کے اور کسی وجہ سے انہیں کہ ہم

لِنَعْلَمَ مَن يُّؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ ۚ مَن هُوَ مِنْهَا فِیْ شَكٍّ ۚ وَرَبُّكَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ حَفِیْظٌ ۝۱۷

یہ جان لیں کہ آخرت پر ایمان لانے والا کون ہے جو ان لوگوں سے علیحدہ ہے جو اس کی طرف سے شک میں ہیں اور آپ کا رب ہر چیز پر مگرمان ہے۔

## قوم سبا پر اللہ تعالیٰ کے انعامات پھر ناشکری کی وجہ سے نعمتوں کا مسلوب ہونا

**تفسیر:** سبا ایک قوم تھی جو اپنے جد اعلیٰ سبا بن شعب کی طرف منسوب تھی یہ لوگ عرب بن قحطان کی اولاد سے تھے اور یمن میں رہتے تھے اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کو بہت نوازا تھا دائیں بائیں باغوں کی قطاریں چلی گئی تھیں انہیں میں رہتے سہتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کرتے تھے ان کے علاقہ کا نام مارب تھا جو شہر صنعاء سے (جواب بھی موجود ہے) تین دن کی مسافت پر تھا ان کو حکم دیا تھا کہ اپنے رب کے رزق میں سے کھاؤ اور اس کا شکر بھی کیا کرو۔ روح المعانی میں مجمع البیان سے نقل کیا ہے کہ ان لوگوں کی تیرہ بستیاں تھیں اور ہر بستی میں اللہ تعالیٰ کا ایک ایک نبی مبعوث ہوا تھا جو انہیں اس بات کی ترغیب دیتا تھا کہ اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس شکر ادا کرو۔ ساتھ ہی یہ بھی فرمایا بَلِّدٌ طَيِّبَةٌ (کہ یہ جگہ جہاں تم بیتے ہو عمدہ جگہ ہے) جس کی آب و ہوا بھی اچھی ہے اور سرزمین بھی کاشت وغیرہ کے اعتبار سے بہترین ہے نہ اس میں جوئیں ہیں نہ کھٹل نہ دوسرے کٹرے کوڑے۔ (من روح المعانی)

وَرَبُّكَ غَفُوْرٌ ۚ اور تمہارے رب بخشنے والا ہے۔ اس کی عبادت اور شکر گزاری میں لگے رہو کوئی قصور اور گناہ ہو جائے تو معافی مانگ لو وہ بخش دے گا۔

یہ لوگ ان نعمتوں میں مست تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہوں اُسے خود اپنے ہوش گوش کے ساتھ اللہ کا شکر گداز ہونا چاہئے لیکن ان لوگوں نے توجہ دلانے پر بھی شکر ادا نہ کیا جسے فَاَعْرِضُوْا سے تعبیر فرمایا۔

اللہ تعالیٰ نے انہیں ناشکری کی سزا دے دی اور ان پر عذاب بھیج دیا یہ عذاب کیا تھا ایک سیلاب تھا اور یہ سیلاب بھی سخت تھا جو بند بنا ہوا تھا وہ ٹوٹ گیا اور سیلاب نے ان کے گھروں کو مکانوں کو باغوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ وہ جو باغوں کی قطاریں تھیں سب برباد ہو گئیں اور ان کی جگہ ایسے باغ نکل آئے جن کے پھل کڑوے تھے اور کچھ بھجواؤ کے درخت تھے اور کچھ بیری کے اب تو افسوس کے ساتھ ساتھ ملتے ہوئے رہ گئے لیکن اب پچھتائے کیا ہوت جب سب کچھ بہا کر لے گیا سیلاب۔ سیلاب کا تذکرہ فرما کر ارشاد فرمایا: وَهَلْ يُجِزِيْكَ اِلَّا الْكُفُوْرُ (اور ہم سزا انہیں دیتے مگر ناشکرے ہی کو)

لفظ الْكَفُّورِ میں سب سے بڑی ناشکری یعنی کفر بھی داخل ہے اور مدعیان اسلام کی قوی و عملی ناشکری بھی، ناشکرا آدمی یہ نہیں سمجھتا کہ میری نعمتیں جھیننی بھی جاسکتی ہیں اپنی نعمتوں میں مست رہتا ہے انہیں گناہوں میں خرچ کر کے ناشکری میں ترقی کرتا چلا جاتا ہے پھر سزا میں پکڑ لیا جاتا ہے۔

سورۃ النحل میں فرمایا ہے: وَصَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قُرَيْبَةً كَانَتْ آيَةً لِّلْعَالَمِينَ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ لَعْنًا بَيْنَ يَدَيْهِمْ أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (اور اللہ تعالیٰ ایک بستی والوں کی حالت عجیبہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ امن و اطمینان میں تھے ان کے کھانے پینے کی چیزیں بڑی فراغت سے چار طرف سے ان کے پاس پہنچا کرتی تھیں سو انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی بے قدری کی اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی حرکات کے سبب انہیں ایک محیط خط اور خوف کا مزہ چکھایا)

اس کے بعد ان لوگوں کے انعامات کا اور ان کی ناشکریوں کا کچھ مزید تذکرہ فرمایا ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً (اور ہم نے ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت رکھی تھی بہت سے گاؤں آباد کر رکھے تھے جو ظاہر تھے) یہ گاؤں بربل سرک تھے جب ایک بستی سے دوسری بستی تک گذرنا ہوتا تھا تو یہ گاؤں نظر آتے تھے اگر کوئی ٹھہرنا چاہتا تو ان میں ٹھہر سکتا تھا اور یوں بھی بار بار آبادی نظر آنے سے سفر کی وحشت اور دہشت کم ہو جاتی ہے آبادیوں کا برابر مسلسل اور متصل ہونا یہ بھی اہل سباء پر اللہ تعالیٰ کا انعام تھا۔

صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ الْقُرَى الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا سے ملک شام کی بستیاں مراد ہیں جب یہ لوگ اپنے علاقہ سے ملک شام جاتے تھے تو راستہ میں قریب قریب بہت سی بستیاں آتی تھیں جن کے قریب سے گذرتے تھے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ برکت والی بستیوں سے خود اہل سباء کی بستیاں مراد ہیں جو بڑی بڑی بستیاں تھیں اور قُرًى ظَاهِرَةً سے چھوٹی بستیاں مراد ہیں جو بڑی بستیوں سے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر واقع تھیں اور سفر کرنے والے کو عموماً نظر آتی تھیں۔ وَقَدْ زَانَا فِيهَا الشَّيْذُ (اور ہم نے ان کے درمیان ان کے چلنے کا ایک خاص انداز رکھا تھا) یعنی ان بستیوں کے درمیان جو مسافت تھی اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقدار معین کے ساتھ رکھی تھی مثلاً کوئی شخص صبح کو روانہ ہوتا تو دوپہر ہونے تک دوسری بستی میں پہنچ جاتا اور ظہر کے بعد چلتا تو غروب آفتاب تک دوسری بستی میں پہنچ جاتا تھا۔ کھانا دانہ ساتھ لینے کی ضرورت نہ ہوتی تھی اور دشمن کا بھی کوئی خوف نہ تھا۔ بعض مفسرین نے بطور مثال مناسب اندازہ کے رفتار کا مطلب بتاتے ہوئے یہ بات کہی ہے اور ایک قول یہ بھی ہے کہ ایک بستی سے لے کر دوسری بستی تک ایک میل کی مسافت تھی۔

سَيَذَرُوهَا كَالْيَاسِيَةِ وَابْنُ مَرْثَدٍ (اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان کر دیا گیا کہ تم ان بستیوں کے درمیان راتوں کو اور دن کو یعنی جب چاہو امن و امان کے ساتھ سفر کرو) تمہارے راتوں کے سفر بھی پر امن ہیں جبکہ ان میں چوروں اور ڈاکوؤں کا خطرہ رہتا ہے اور دن کے اسفار بھی پر امن ہیں بغیر کسی خوف کے جب تک اور جہاں تک چاہو سفر کرو۔

فَعَالُوا رَبَّنَا بَعْدَ بَيْنِ أَسْفَارِنَا (سوان لوگوں نے کہا کہ اے ہمارے رب دوری کر دیجئے ہمارے سفروں کے درمیان) جب انسانوں کو مال مل جاتا میں اور نعمتیں بہت ہو جاتی ہیں تو اترا نے لگتے ہیں بغاوت پر اتر آتے ہیں اور نعمتوں کی ناقدری کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ یہی حال اہل سباء کا ہوا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا جو حکم ہوا تھا اُس پر تو عمل نہ کیا اور

ایسی سمجھ لائی اور عقل کے پیچھے لٹھ لے کر پڑے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے یوں بددعا کی کہ یہ جو ہمارے علاقہ میں آسانیاں ہیں، قریب قریب آبادیاں ہیں اور طرح طرح کی نعمتیں موجود ہیں اور سب کا حال برابر ہے ہمیں یہ منظور نہیں ہماری تجارت گاہیں دور ہو جائیں تو اچھا ہے تاکہ دور دراز شہروں بازاروں اور منڈیوں سے اپنی ضرورت کی چیزیں لایا کریں۔

مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں فخر و کبر کا دخل تھا، مطلب یہ تھا کہ جب بھی برابر ہیں تو کسی کو کسی پر بڑائی جتانے اور مالدار کی کاغذ و ظاہر کرنے کا موقع بالکل نہیں ہے اب جب دور کے سفر کرنے پڑیں گے تو سب لوگ تو نہیں جاسکیں گے بڑے بڑے مالدار جو ساریوں کے مالک ہوں گے وہی جاسکیں گے اور مال لاسکیں گے، فقراء اور کم پیسے والے ان کے محتاج ہوں گے تو ذرا تمکنت اور غرور اور بڑائی ظاہر کرنے کا موقع ملے گا یہ بددعا اپنے حق میں کر بیٹھے وَلَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِهِمْ اور اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کر لیا۔ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ (سو ہم نے انہیں افسانہ بنادیا) یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کی بیسیوں کو برباد کر دیا دنیا والوں میں جو ان کی نعمتوں کی اور باغوں اور شہروں کی شہرت تھی بس دوسروں کے لئے وہ ایک افسانہ بن کر رہ گئی۔

صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ أَحَادِيثَ جمع ہے أَحْذَوْثَہٗ کی اور مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے احوال کے تذکرے زبانوں پر رہ گئے جیسے وقت گزاری کے طور پر لوگ قصے کہانیاں بیان کیا کرتے ہیں۔

وَمَزَقْنَاهُمْ كُلَّ مَجْزَعٍ (اور انہیں پوری طرح تتر بتر کر دیا) ان کا ملک بھی برباد ہو گیا اور قبیلے بھی منتشر ہو گئے۔

إِن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (بلاشبہ اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں ہر اُس شخص کے لئے جو خوب صبر کرنے والا ہو اور خوب شکر کرنے والا ہو) قوم سبا کا حال سن کر جو کوئی شخص سرکشی سے بچار ہے اطاعت پر جمار ہے، شکر کی شان رکھتا ہو وہ ان لوگوں کے قصہ سے بڑی عبرت حاصل کر سکتا ہے۔

وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ أَنبِيُّهُمْ طهٰ (الایمین) (اور یہ بات واقعی ہے ان کے بارے میں ابلیس نے اپنا گمان صحیح پایا، سو اسی کے اتباع میں لگ گئے سوائے اہل ایمان کی تھوڑی سی جماعت کے، اور ابلیس کا ان لوگوں پر جو کچھ زور تھا صرف اس لئے تھا کہ ہم یہ جان لیں کہ آخرت پر ایمان لانے والا کون ہے جو ان لوگوں سے علیحدہ ہے جو اس کی طرف سے شک میں ہے اور آپ کا رب ہر چیز پر نگران ہے) ابلیس نے ملعون قرار دیئے جانے کے بعد جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں یوں عرض کیا تھا کہ میں بنی آدم کو بہکاؤں گا اور غلاؤں گا اور ان میں سے اکثر کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ لَا تُغْوِيَهُمْ أَجْمَعِينَ اور ان میں سے اکثر ناشکرے ہونگے (وَلَا تَحْزَنْهُمْ شُكْرُهُمْ) اُس نے اپنے اس گمان کو کچ کر دکھایا یعنی اُس نے جو کچھ کہا تھا صحیح پایا اکثر بنی آدم اس کے اتباع میں لگ گئے مگر تھوڑے سے افراد جو مومن بندے ہیں انہوں نے اس کا اتباع نہیں کیا۔

شیطان نے جو ان لوگوں پر غلبہ پایا اُس کا سبب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو دوسوہ ڈالنے کی قوت دی اور انسان کو امتحان میں ڈالا اُس میں خیر اور شر کو قبول کرنے کی استعداد رکھی تاکہ ثواب یا عتاب کا مستحق ہو سکے، موت اور حیات امتحان کے لئے رکھی ہے انسان پر جبر اور اکراہ نہیں رکھا تاکہ وہ جو کچھ کرے اپنے اختیار سے کرے اور ابلیس کا تسلط بھی اسی سلسلہ امتحان کی ایک کڑی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ایک ممنوع درخت کے کھانے پر نکالے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمادیا تھا: فَلَمَّا يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنِّي فَلَكَؤُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ

هُمُ فِيهَا خَالِدُونَ (پس اگر تمہارے پاس میری ہدایت آئے تو جو لوگ اس کا اتباع کریں گے اُن پر کوئی خوف نہیں اور وہ رنجیدہ نہ ہوں گے اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا تو وہ آگ میں جانے والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے) جب بنی آدم دنیا میں آئے تو اختیار بھی ساتھ لائے، ہوش و گوش بھی ملا اور امتحان کے لئے شیطان کو بھی دوسو ڈالنے کا موقع دے دیا گیا اور ساتھ ہی حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت بھی سامنے آتی رہی اور لوگ ان کے معجزات بھی دیکھتے رہے، لہذا انسانوں کے لئے اپنے خالق اور مالک کی الوہیت اور اس کے رسولوں کی دعوت کی حقانیت میں کسی طرح کا کوئی شک کرنے کا موقع نہ تھا لیکن بہت سے لوگوں نے شک کیا، حق میں شک کرنا کفر ہے جس کی وجہ سے مستحق عقاب و عذاب ہوئے۔

اس آیت میں بتا دیا کہ شیطان کو جو تسلط دیا گیا کہ وہ دوسو ڈال سکے اس کی حکمت یہ تھی کہ ہمیں علم ظہوری کے طور پر یہ معلوم ہو جائے کہ کون لوگ آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں اور کون لوگ شک میں پڑنے والے ہیں، لیکن یہ تسلط ایسا نہیں ہے کہ جبر اور اکراہ کے درجہ میں ہو جس سے انسان مجبور محض بن جائے اور ہوش و گوش اور اختیار باقی نہ رہے۔ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِظٌ۔ (اور آپ کا رب ہر چیز کا مگران ہے) اُسے سب کے حال کی خبر ہے وہ ہر ایک کو ایمان اور عدم ایمان کی صفت کے اعتبار سے جزا اور سزا دے گا۔ قَوْلُهُ تَعَالَى: سَيَلَّ الْعُرْمُ اَي الصَّعْبُ مِنْ عَرَمِ الرَّجُلِ الْمَثَلُ الرَّاءُ فَهُوَ عَارِمٌ وَعَرَمٌ اِذَا شَرَسَ خَلْقُهُ وَصَعْبٌ وَفِي مَعْنَاهُ مَا جَاءَ فِي رَوَايَةٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ تَفْسِيرِهِ بِالْشَّدِيدِ وَقِيلَ: الْعَرَمُ الْمَطَرُ الشَّدِيدُ وَقَالَ ابْنُ جَبْرِ الْعَرَمُ الْمَسْنَاةُ بِلِسَانِ الْجَنَّةِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: خَمَطٌ اَي حَامِضٌ اَوْ مَرٌّ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ الْخَمَطُ الْاُرَاكُ وَيُقَالُ لَشْمَرِهِ مَطْلَقًا اَوْ اِذَا اسْوَدَّ وَبَلَغَ الْبُرْبُرَ وَقِيلَ شَجَرَةُ الْغَضَا وَلَا اَعْلَمُ هَلْ لَهُ ثَمَرٌ لَا، وَقَالَ ابُو عُبَيْدَةَ كُلُّ شَجَرَةٍ مَرَّةً ذَاتُ شَوْكٍ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: وَاتَّخِذْ مِنْ الطَّرَفَيْنِ اَعْلَىٰ مَقَالَهُ ابُو حَنِيفَةَ اللَّغْوَىٰ فِي كِتَابِ النَّبَاتِ لَهُ وَنَقَلَ الطَّبْرَسِيُّ قَوْلًا اِنَّهُ سَمَرٌ۔ (من روح المعانی ج ۲۳ ص ۱۲۶، ۱۲۷) (اللہ تعالیٰ قول سَيَلَّ الْعُرْمُ یعنی سخت و شدید سیلاب کہتے ہیں عرم الرجل راء کے زیر و زبر اور پیش کے ساتھ عارم جبکہ کوئی آدمی تند خوار بد اخلاق ہو۔ اور اس کا وہ معنی بھی ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں آیا ہے کہ آپ نے اس کی تفسیر شدید سے کی ہے اور بعض نے کہا الْعُرْمُ شدید بارش کو کہتے ہیں ابن جبیر کہتے ہیں چشمیوں کی زبان میں کوہان کو کہتے ہیں اور ”خبط“ یعنی کھٹایا کڑوا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ خط کا معنی ہے ”پیلو“ اور پیلو کے پھل کو بھی کہتے ہیں خواہ کچا ہو یا پکا یا اس وقت کہتے ہیں جب وہ سیاہ ہو جائے اور بعض نے کہا جھاؤ کے درخت کو کہتے ہیں اور یہ معلوم نہیں کہ اس کا پھل بھی ہوتا ہے یا نہیں۔ ابو عبیدہ کہتے ہیں خبط ہر اس درخت کو کہتے ہیں جو کڑوا ہو اور کانٹے دار ہو اور اُٹھل یہ بھی جھاؤ کی طرح کے ایک درخت کو کہتے ہیں یہ معنی ابو منینۃ بغوی نے اپنی کتاب النبیات میں لکھا ہے اور طبرسی نے ایک قول یہ نقل کیا ہے کہ اُٹھل کا معنی ہے کیکر)

قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي

آپ فرمادیجئے کہ اللہ کے سوا تم نے جنہیں معبود سمجھ رکھا ہے انہیں پکارو وہ ایک ذرہ کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے نہ آسمانوں میں نہ

الْأَرْضِ وَمَالُهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَالَهُ مِنْهُم مَّنْ ظَهِيرٌ ۖ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ

زمینوں میں اور ان دونوں میں ان کا کچھ سا جہا نہیں اور ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار نہیں۔ اور اس کے پاس سفارش کام نہیں دے سکتی

عِنْدَكَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ

سوائے اس کے جس کے لئے اجازت دی ہو یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا جواب میں کہتے ہیں کہ حق ہی فرمایا اور وہ

الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ۖ

برتر ہے بڑا ہے۔

## مشرکین نے جن کو شریک قرار دیا ہے نہ انہیں کچھ اختیار ہے نہ آسمان وزمین میں ان کا کوئی سا جہا

**تفسیر:** ان دونوں آیتوں میں مشرکین کی تردید فرمائی ہے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے سوا تم نے جنہیں معبود بنا رکھا ہے اور یہ سمجھ رہے ہو کہ وہ خدائی میں دخل ہیں ذرا انہیں اپنی کسی حاجت کے لئے پکارو تو سہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ ذرہ برابر بھی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں اور یہ بھی سمجھ لو کہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں تمہارے تجویز کئے ہوئے معبودوں کی کوئی شرکت نہیں ہے اور ان میں سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ کا مددگار نہیں ہے نہ ایجادِ عالم میں ان کا کوئی دخل ہے نہ اس کے باقی رکھنے میں نہ تصرفات میں۔

اور یہ بھی سمجھ لو کہ اللہ جل شانہ کی بارگاہِ عالی میں کسی کے لئے کوئی شفاعت کام نہیں دے سکتی، تم لوگ جو یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے تجویز کردہ معبود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کر دیں گے تو تمہارا یہ خیال غلط ہے۔ (کیونکہ ان میں بہت سے تو بے جان ہیں وہ شفاعت کو کیا جانیں ان میں اس کی قابلیت ہی نہیں) اور ملائکہ اور حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر علیہم السلام کی سفارش کی بھی کوئی امید نہ رکھو جن کو تم نے معبود بنایا ہے اور سفارش کرنے والا سمجھا ہوا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس شخص کے بارے میں اجازت دی جائے گی مقبولانِ بارگاہِ الہی اسی کے لئے سفارش کر سکیں گے اور مشرکین اور کافروں کے لئے اجازت نہ ہوگی لہذا تم جو ان کی شفاعت کے امیدوار ہو تمہاری یہ امید بھی غلط ہے۔ سورۃ الانبیاء میں فرشتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ (اور وہ اسی کیلئے سفارش کریں گے جس کے لئے اللہ کی مرضی ہوگی اور وہ اس کی ہیبت سے ڈرتے ہیں)

حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ اس میں فرشتوں کی گھبراہٹ خوف اور خشیت کا تذکرہ فرمایا، مطلب یہ ہے کہ یہ فرشتے جنہیں معبود تجویز کر کے ان کی شفاعت کی امید لئے بیٹھے ہوں ان کا اپنا خود یہ حال ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کام کا حکم ہوتا ہے تو ہیبت کے مارے گھبرا اٹھتے ہیں شدتِ ہیبت کی وجہ سے ان کی حالت دگرگوں ہو جاتی ہے جب فرمانِ عالی پورا ہو جاتا ہے اور ہیبت کی کیفیت دور ہو جاتی ہے تو آپس میں دریافت کرتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا حکم فرمایا۔



پھر بعض بعض سے کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے حق ہی فرمایا۔

جہاں بہت کا یہ عالم ہے وہاں شفاعت کی کیا مجال ہو سکتی ہے ملائکہ مقربین گھبراتے ہیں اور خوف زدہ ہوتے ہیں تو اصنام اور شیاطین کس شمار میں ہیں اسی سے سمجھ لیا جائے۔

وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (وہ بلند ہے بڑا ہے) اس کی بارگاہ میں وہی شفاعت کر سکتا ہے جسے شفاعت کی اجازت ہو اور اسی کے لئے شفاعت کر سکتا ہے جس کے لئے شفاعت کی اجازت ہو، مشرکوں کی حماقت دیکھو کہ خود ہی اللہ تعالیٰ کے لئے شریک تجویز کئے اور خود ہی یہ تجویز کر لیا کہ وہ ہماری سفارش کریں گے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب آسمان میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو فرشتے اس کے فرمان کی وجہ سے بطور تواضع و انقیاد اپنے پروں کو مارتے ہیں جس سے ایسی آواز پیدا ہوتی ہے کہ گویا پکنے پھر پرزنجیر کھینچی جا رہی ہے پھر جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ پھر آپس میں جواب دیتے ہیں کہ وہ برتر ہے بڑا ہے۔ (رواہ البخاری ص ۶۰۶ ج ۲)

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ قُلِ اللّٰهُ وَاِنَّا لَکُمْ لَعَلٰی هٰدِیْٓ اَوْ فِیْ

آپ فرمادیجئے کہ کون تمہیں رزق دیتا ہے آسمانوں سے اور زمین سے آپ فرمادیجئے کہ اللہ! اور بے شک ہم یا تم ضرور راہِ راست پر ہیں یا

ضَلٰی مُبِیْنٌ ۝۱۰ قُلْ لَا اَسْئَلُوْنَ عَمَّا اَجْرُنَا وَلَا اَسْئَلُ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ۝۱۱ قُلْ یٰجَمْعُوْ

صرت گمراہی میں ہیں۔ آپ فرمادیجئے ہم نے جو جرم کئے تم سے اس کی باز پرس نہ ہوگی اور ہم سے ان کاموں کے بارے میں سوال نہ ہوگا جو تم کرتے ہو۔ آپ فرمادیجئے کہ

بَیْنَنَا وَبَیْنَكُمْ یَقِیْنٌۭۤ اَوْ بَیْنَنَا یٰحَقُّ ۝۱۲ وَهُوَ الْفَتّٰرُ الْعَلِیْمُ ۝۱۳ قُلْ اَرُوْنِی الْذِیْنَ اَلْحَقْتُمْ

ہمارے سب کا جمع کرے گا پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ فرمائے گا اور وہ بڑا فیصلہ فرمانے والا ہے خوب جاننے والا ہے آپ فرمادیجئے مجھے کھلاؤ وہ لوگ جنہیں تم نے شریک بنا کر

یٰہُ شُرَکَآءُ کُلَّ اَدْبَلْ ۝۱۴ هُوَ اللّٰهُ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ ۝۱۵

اللہ کے ساتھ ملارکھا ہے ہرگز نہیں بلکہ وہ اللہ ہے زبردست ہے حکمت والا ہے

## قیامت کے دن صحیح فیصلے ہونگے اللہ تعالیٰ عزیز و حکیم ہے

**تفسیر:** ان آیات میں بھی تو حید کا اثبات ہے ازل تو یہ فرمایا کہ تم یہ بتاؤ کہ آسمانوں سے اور زمین سے تمہیں کون روزی دیتا ہے آسمان سے پانی برستا ہے اور زمین سے درخت نکلتے ہیں اور کھیتیاں پیدا ہوتی ہیں بتاؤ یہ کس کی قدرت کا مظاہرہ ہے اور ان چیزوں کو کسی نے پیدا کیا جواب ان کے نزدیک بھی متعین ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مشیت و ارادہ سے ہوتا ہے اگر وہ جواب نہ دیں یا دیر سے جواب دیں تو آپ ہی فرمادیجئے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی مشیت اور قدرت سے ہے۔

وَاِنَّا لَکُمْ لَعَلٰی هٰدِیْٓ اَوْ فِیْ ضَلٰی مُبِیْنٍ (اور بیشک ہم یا تم ضرور راہِ راست پر ہیں یا صریح گمراہی میں ہیں) یہ بطور تلطف کے فرمایا اور فکر کی دعوت دی اور مطلب یہ ہے کہ ہم تو توحید کی دعوت دیتے ہیں اور تم توحید کے منکر ہو اور ظاہر

ہے کہ دونوں باتیں درست نہیں ہو سکتیں اور یہ سمجھ لو کہ جو ہدایت پر ہے موت کے بعد اسی کی خیر ہوگی اور اسی کو انعامات ملیں گے اور جو گمراہ ہوگا وہ عذاب میں مبتلا ہوگا۔ اب تمہیں فکر مند ہونا چاہئے اور غور کرنا چاہئے کہ ہم ہدایت پر ہیں یا تم ہو اور ہم گمراہی پر ہیں یا تم ہو ہم نے تو غور کر لیا ہے دلائل سے دین تو حید کو سمجھ لیا ہے اور تم کو بھی اس کی دعوت دی ہے اب تم اپنی خیر خواہی کے لئے غور و فکر کر لو، ہم نے جو دلائل دیئے ہیں ان میں غور کر لو، ہمیں بھی مرنا ہے تمہیں بھی مرنا ہے اگر موت کے بعد یہ ظاہر ہوا کہ تم برائی پر تھے تو وہاں دوزخ کے عذاب میں مبتلا ہو گے (جہاں سے واپس ہونے اور نکلنے کا امکان ہی نہیں) عذاب دائمی میں رہنا پڑے گا۔ اس وقت کا بچھتاؤ اور غور کرنا کام نہ دے گا لہذا اسی دنیا میں سمجھ لو غور و فکر کر لو اور مان لو آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تو حید والے ممکن ہے گمراہی پر ہوں بلکہ مخاطب کو قریب کرنے کے لئے یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔

قُلْ لَّئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ عَنَّا اَجْرُ مَنَا وَلَا نَشْأَلْ عَنَّا ثَمَمًا فَسَوْفَ نَبْتَلُوهُمْ (آپ فرمادیجئے ہم نے جو جرم کئے تم سے ان کا سوال نہ ہوگا اور جو تم کام کرتے ہو ہم سے ان کی پرستش نہ ہوگی) ہر فریق کا الگ الگ معاملہ ہے اہل تو حید بخشنے جائیں گے اور کفر و شرک والے عذاب میں داخل ہوں گے گو تمہارے اعمال کے بارے میں ہم سے سوال نہ ہوگا لیکن کسی عوض کا مطالبہ کیے بغیر تمہاری خیر خواہی کے لئے تمہیں حق کی دعوت دے رہے ہیں اب تم خود اپنی فکر کر لو۔

قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ (آپ فرمادیجئے کہ ہمارا رب ہم سب کو جمع کرے گا پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ فرمائے گا) جب قیامت کے دن تو حید والوں کے لئے انعام و اکرام کا اور مشرکین و کافرین کے لئے عذاب کا فیصلہ ہوگا اُس وقت تمہیں اپنی گمراہی کا پتہ چل جائے گا۔

وَهُوَ الْفَتَّارُ الْعَلِيمُ (اور وہ بڑا فیصلہ فرمانے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے) چونکہ ہر شخص کا ہر عمل اُسے معلوم ہے اور ہر ایک کے عقیدوں کا بھی اُسے پتہ ہے اس لئے اس کے سارے فیصلے حق ہوں گے اور حقیقت کے مطابق ہوں گے۔

قُلْ اَنُوْنِي الَّذِيْنَ اَلْحَقْتُمُ بِهِ شُرَكَاءَ (آپ فرمادیجئے مجھے دکھا دو وہ لوگ جنہیں تم نے شریک بنا کر اللہ کے ساتھ ملا رکھا ہے) یعنی تم نے جو باطل معبود بنا رکھے ہیں اور انہیں مستحق عبادت سمجھ کر خدائی کا درجہ دے رکھا ہے ذرا مجھے دکھا دو وہ کون ہیں یعنی وہ تو خود مخلوق ہیں اس لائق کہاں ہیں کہ الوہیت میں شریک ہوں کوئی دلیل اور حجت ہے تو سامنے لاؤ۔

قال صاحب الروح والمراد اعلموني بالحجة والدليل كيف وجدت الشركة۔

گلا (ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہو) تمہاری بیوقوفی ہے جو تم نے اس کے لئے شریک تجویز کر رکھے ہیں۔ بَلْ هُوَ اللَّهُ الْغَنِيُّ الْكَرِيمُ (بلکہ وہی اللہ ہے یعنی معبود برحق ہے زبردست ہے حکمت والا ہے)

وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے انسانوں کے لئے بشیر و نذیر بنا کر لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے

رسول اللہ ﷺ کی بعثت عامہ کا اعلان

تفسیر: اس آیت کریمہ میں نبی امی سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ کی بعثت عامہ کا ذکر ہے چونکہ آپ کی بعثت عامہ ہے

اس لئے ہر فرد بشر کے لئے آپ اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں آپ کا دامن پکڑے بغیر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کر سکتا خواہ کتنی ہی عبادت کرتا ہو جو ہدایت اللہ کے یہاں معتبر ہے وہ خاتم النبیین رسول الانس والجان کے اتباع میں مرکوز ہے اور منحصر ہے۔

سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ کی بعثت عامہ کا دیگر مواضع میں بھی قرآن مجید میں تذکرہ فرمایا ہے سورۃ اعراف میں فرمایا:

قُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَیْکُمْ جَمِیْعًا الَّذِیْ لَہٗ مُلْکُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلَّا ہُوَ یُعِیْ وَیُبِیْتُ کَآمِیْنًا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلُوہِ النَّبِیِّ الْاَوَّلِیْنَ الَّذِیْ یُوْمِنُ بِاللّٰهِ وَکَلِمَاتِہٖ وَآیٰتِہٖ لَعَلَّکُمْ تَهْتَدُوْنَ (آپ فرمادیجئے کہ اے لوگو! بلاشبہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں جس کے لئے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی اُس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے سو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر جو نبی امی ہے جو ایمان لاتا ہے اللہ پر اور اس کے کلمات پر اور اس کا اتباع کرو تا کہ تم ہدایت پا جاؤ)

سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ کو جو اللہ تعالیٰ شانہ نے خصوصی امتیازات اور فضائل عطا فرمائے اُن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کی بعثت عام ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے پانچ وہ چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئیں۔

۱- رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی ایک ماہ کی مسافت تک دشمن مجھ سے ڈرتے ہیں۔  
۲- پوری زمین میرے لئے سجدہ گاہ اور پاک کرنے والی بنادی گئی (کہ مسجد کے علاوہ بھی ہر پاک جگہ نماز ہو جاتی ہے پانی نہ ہونے کی صورت میں تیمم سے حدیث اصغر اور حدیث اکبر دور ہو جاتے ہیں) سو میری امت کے جس شخص کو جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھ لے۔

۳- میرے لئے غنیمت کے مال حلال کر دیئے گئے اور مجھ سے پہلے کسی کے لئے حلال نہیں کئے گئے۔  
۴- اور مجھے شفاعت عطا کی گئی (یعنی شفاعت کبریٰ) جو قیامت کے دن ساری مخلوق کے لئے ہوگی۔

۵- اور مجھ سے پہلے نبی خاص کو اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا اور میں عامۃ تمام انسانوں کی طرف مبعوث ہوا ہوں۔ (رواہ البخاری جلد ۱ ص ۲۸)

آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا: وَالَّذِیْ نَفْسِیْ مَحْمُوْدٌ بِہٖ لَا یَسْمَعُ بِیْ اَحَدٍ مِّنْ ہٰذِہِ الْاُمَمَۃِ یَہُوْدِیْ وَلَا نَصْرَانِیْ ثُمَّ یَمُوْتُ وَلَمْ یُؤْمَرْ بِالذِّیْ اُرْسِلْتُ بِہٖ اِلَّا کَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّارِ۔ (رواہ مسلم ج ۱ ص ۸۶) (قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے اس امت میں جس کسی کو بھی میری بعثت کا علم ہو خواہ یہودی ہو خواہ نصرانی ہو پھر وہ اس حالت میں مر جائے کہ میں جو دین لے کر بھیجا گیا ہوں اُس کو نہ مانا تو وہ ضرور دوزخ والوں میں سے ہوگا)

سورۃ آل عمران میں فرمایا: اِنَّ الدِّیْنِ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ (بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے) اور فرمایا وَمَنْ یَّبْتَغِ غَیْرَ الْاِسْلَامِ دِیْنًا فَلَنْ یُّقْبَلَ مِنْہٗ وَہُوَ فِی الْاٰخِرَۃِ مِنَ الْخٰسِرِیْنَ (اور جو شخص اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو چاہے گا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں تباہ کار لوگوں میں سے ہوگا)  
جب سے آپ کی بعثت ہوئی ہے یہودی نصرانی فرقہ صابین اور ہر قوم اور ہر اہل مذہب کے لئے معیار نجات

صرف سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ کی ذات گرامی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اور کسی قسم کا کوئی ایمان معتبر نہیں صرف یہی ایمان معتبر ہے کہ آنحضرت ﷺ پر ایمان لائے اور آپ نے جو کچھ بتایا ہے اس کو دل سے مانے اور تسلیم کرے۔

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿۱۰﴾ قُلْ لَّكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَخِرُونَ

اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو آپ فرما دیجئے کہ تمہارے لئے ایک خاص دن کا وعدہ ہے اس سے

عَنْهُ سَاعَةٌ وَلَا تَسْتَقْدِرُونَ ﴿۱۱﴾

نہ ایک ساعت پیچھے ہٹ سکتے ہو اور نہ آگے بڑھ سکتے ہو۔

**قیامت کا وقت مقرر ہے اس میں تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی ہے**

**تفسیر:** قیامت کے منکرین وقوع قیامت کا انکار کرتے ہوئے یوں بھی کہتے تھے کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اور قیامت کس دن آئے گی؟ مقصود اُن کا یہ تھا قیامت آنے والی ہوتی تو آ جاتی اور اگر آنے میں دیر ہے تو اس کی تاریخ بتا دو مقصد یہ تھا کہ نہ تو اب تک قیامت آئی ہے نہ آنے کی تاریخ بتاتے ہو معلوم ہوا کہ یہ محض باتیں ہی باتیں ہیں اُن کے جواب میں فرمایا کہ تمہارے لئے ایک خاص دن مقرر ہے وہ اسی دن آئے گی نہ اس سے پیچھے ہٹ سکتے ہو نہ آگے بڑھ سکتے ہو اپنے مقررہ وقت پر آ ہی جائے گی، تمہیں تاریخ نہ بتائی جائے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کا وقوع ہی نہیں ہوگا۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَىٰ

اور کافروں نے کہا کہ ہم ہرگز اس قرآن پر اور اس سے پہلے جو کتابیں تھیں ان پر ایمان نہ لائیں گے اور اگر آپ اس وقت کی حالت دیکھ لیں

إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْجَعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ ۖ الْقَوْلُ يَقُولُ

جبکہ یہ ظالم لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے کئے جائیں گے ہر ایک دوسرے پر بات کو ڈال رہا ہوگا۔ نیچے درجہ والے لوگ بڑے

الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا ۖ وَالَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا ﴿۱۲﴾ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا

لوگوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لائے ہوتے بڑے لوگ چھوٹے درجے کے

لِلَّذِينَ اسْتَضَعُّوا ۖ أَنَحْنُ صَدَدُكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ ۖ بَلْ كُنتُمْ مُجْرِمِينَ ﴿۱۳﴾

لوگوں سے کہیں گے کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روک دیا تھا اس کے بعد کہ تمہارے پاس ہدایت آئی بلکہ بات یہ ہے کہ تم مجرم تھے

وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكَرُ اللَّيْلِ ۖ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا ۖ أَنْ

اور نیچے درجہ والے اُن لوگوں سے کہیں گے جو بڑے تھے بلکہ رات دن تمہاری مکاری نے روکا تھا جبکہ تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ

تَكْفُرُ بِاللّٰهِ وَنَجْعَلُ لَهُ اَنْدَادًا وَاَسْرِوْا النَّدَامَةَ لَمَّا رَاَ الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْاَغْلَلَ

شرک کریں اور اس کے لئے شریک قرار دیں اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو ندامت کو چھپالیں گے اور ہم کافروں کی گردنوں

فِيْ اَعْنَاقِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝۱۰ وَمَا اَرْسَلْنَا فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ

میں طوق ڈال دیں گے انہیں صرف انہیں کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے اور کسی ہستی میں ہم نے کوئی ڈرانے والا نہیں

نَذِيْرٍ اِلَّا قَالُ مُتْرَفُوْهَا اِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهِ كٰفِرُوْنَ ۝۱۱ وَقَالُوْا نَحْنُ اَكْثَرُ اَمْوَالًا

بھجنا مگر ہوا یہ کہ ان کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ بلاشبہ تم جو کچھ لے کر بھیجے گئے ہو ہم اُسے نہیں مانتے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے اموال

وَاَوْلَادُ الْاَوْمَانِ نَحْنُ بَعْدَ بَيْنٍ ۝۱۲ قُلْ اِنْ رَّبِّيْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ

اولاد تم سے زیادہ ہیں اور میں عذاب ہونے والا نہیں ہے آپ فرمادیجئے کہ بلاشبہ میرا رب جس کے لئے چاہے روزی کفر فرما کر دیتا ہے اور جس کے لئے چاہے تنگ کر دیتا ہے

وَلٰكِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝۱۳ وَمَا اَمْوَالُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ بِالَّتِيْ تُقَرَّبُكُمْ عِنْدَنَا

اور لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ اور تمہارے اموال اور اولاد ایسے نہیں ہیں جو تمہیں ہمارا مقرب بنادیں مگر ہاں جو ایمان لائے

زُلْفٰى اِلَّا مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صٰلِحًا قَالُوْا لِيْكَ لَهُمْ جَزَاءُ الصَّغْفِ بِمَا عَمِلُوْا وَهُمْ فِي

اور نیک عمل کرنے والوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے ایسا صلہ ہے جو بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا اور وہ بالا خانوں میں

الْعُرْفِ اٰمِنُوْنَ ۝۱۴ وَالَّذِيْنَ يَسْعَوْنَ فِيْ اٰيٰتِنَا مُعْجِزِيْنَ اُولٰٓئِكَ فِي الْعَذَابِ مُخَضَّرُوْنَ ۝۱۵

امن و چین سے ہوں گے۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کے بارے میں ہرانے کی کوشش کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو عذاب میں حاضر کئے جائیں گے

قُلْ اِنْ رَّبِّيْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهُ ۝۱۶ وَمَا اَنْفَقْتُمْ مِّنْ

آپ فرمادیجئے کہ میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے لئے چاہے روزی کفر فرما کر دیتا ہے اور جس کے لئے چاہے تنگ کر دیتا ہے اور جو بھی کوئی

شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهٗ وَهُوَ خَيْرُ الرَّٰزِقِيْنَ ۝۱۷

چیز تم خرچ کر کے سو وہ اس کے بعد اس کا عوض دے گا اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے

عذاب کی وجہ سے کافروں کی بد حالی اور ایک دوسرے پر جرم کوٹالنے کی گفتگو

**تفسیر:** ان آیات میں قیامت کے دن کا ایک منظر بیان فرمایا ہے جو کافروں کے آپس کے سوال و جواب سے متعلق ہے وہاں سبھی چھوٹے بڑے موجود ہوں گے کفر کی سزا سامنے ہوگی دوزخ کا داخلہ یقینی ہو چکا ہوگا ان میں سے جو لوگ دنیا میں چھوٹے یعنی کم درجہ کے لوگ تھے وہ اپنے بڑوں سے (جن کی دنیا میں بات مانتے تھے) کہیں گے کہ تم نے ہی ہمیں

برباد کیا اگر تم نہ ہوتے تو ہم اللہ کے نبیوں پر اور اس کی کتابوں پر ایمان لے آتے اور آج کے دن پر بھی ایمان لاتے اُن کے بڑے کہیں گے کہ اپنا قصور ہمارے سر کیوں منڈھ رہے ہو اپنی کرنی ہمارے ذمہ کیوں لگاتے ہو؟ کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا؟ جب تمہارے پاس ہدایت آگئی تو ہم نے کوئی زبردستی نہیں کی تھی اور کسی جبر واکراہ سے کام لے کر تمہیں ایمان سے نہیں روکا تھا ایسا تو نہیں ہوا کہ تم نے ایمان قبول کرنے کا ارادہ کیا ہو اور ہم نے تمہیں جبر واکراہ کے ساتھ روک دیا ہو اپنی آئی ہم پر کیوں لگاتے ہو؟ بات یہ ہے کہ تم خود ہی مجرم ہو۔

یہ جواب سن کر چھوٹے بڑوں سے کہیں گے کہ تم نے تو اریک جبر واکراہ کے ساتھ تو ہمیں ایمان سے نہیں روکا لیکن رات دن تم مکاری کرتے تھے اور ایسی تدبیریں کرتے تھے کہ ہم ایمان نہ لائیں اور کفر پر جبر رہیں تاکہ تمہاری جماعت سے نہ نکلیں تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں اور اللہ کے لئے شریک تجویز کریں۔ تمہاری یہ مخنثیں اور تدبیریں اپنا کام کر گئیں اور ہم کفر پر جبر رہے اور موت آنے تک کفر ہی پر رہے تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے آج ہم اس مصیبت میں پھنسے ہیں دونوں فریق چھوٹے اور بڑے جب عذاب دیکھیں گے تو نادم و پشیمان ہوں گے لیکن ندامت کا اظہار نہ کریں گے اپنے دلوں ہی میں پشیمان ہوتے رہیں گے۔ (لیکن پشیمانی کچھ فائدہ نہ دے گی)

اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیئے جائیں گے اور اسی حالت میں دوزخ میں داخل کر دیئے جائیں گے اور ہر ایک کو اپنے کئے کا بدلہ ملے گا ایسا نہ ہوگا کہ بغیر کسی جرم کے سزا مل جائے یا جرم سے زیادہ سزا دی جائے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ (الآیۃ) اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جس کسی بھی بستی میں کوئی ڈرانے والا یعنی اپنا کوئی رسول بھیجا تو وہاں کے خوشحال لوگوں نے (جنہیں مال اور دولت پر گھمنڈ تھا اور رزق کی وسعت اور نعمت کثیرہ کی وجہ سے مست تھے) یوں کہا کہ تم لوگ جو دین لیکر آئے ہو ہم اُسے نہیں ماننے والے مال کے غرور نے انہیں نبیوں پر ایمان لانے سے روکا اور کہنے لگے کہ ہم ہی اللہ کے مقبول بندے ہیں اگر ہم سے اللہ ناراض ہوتا تو ہمیں زیادہ مال اور زیادہ اولاد سے کیوں نوازتا؟ مال اور اولاد میں ہم تم سے بڑھ کر ہیں جب دنیا میں ہمارا یہ حال ہے تو آخرت میں بھی ہمارا حال اچھا ہی رہے گا نہ یہاں تکلیف ہے نہ وہاں عذاب ہوگا۔ (اول تو وہ قیامت کے قائل ہی نہ تھے لیکن بطور فرض و تقدیر انہوں نے کہا کہ اگر قیامت آئی گی تو ہم وہاں بھی عذاب سے محفوظ رہیں گے)

ان کی تردید میں فرمایا: قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ (الآیۃ) آپ فرما دیجئے کہ میرا رب جس کے لئے چاہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لئے چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ دنیا میں رزق کا زیادہ ہونا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہونے کی دلیل نہیں ہے جیسا کہ رزق کا تنگ ہونا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نامقبول ہونے کی دلیل نہیں ہے وہ اپنی حکمت کے مطابق کبھی نافرمان کی روزی وسیع فرما دیتا ہے اور فرمانبردار کی روزی تنگ فرما دیتا ہے اور اس کا عکس بھی ہوتا رہتا ہے بات یہ ہے کہ اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو نہیں جانتے اور یہ بھی نہیں جانتے کہ رزق کی فراخی اللہ تعالیٰ کے ہاں معزز ہونے کی اور رزق کی تنگی اللہ تعالیٰ کے ہاں ذلیل ہونے کی دلیل نہیں ہے۔

اس کے بعد ایک قاعدہ کلیہ بیان فرمایا: وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ (الآیۃ) ارشاد فرمایا کہ تمہارے اموال اور اولاد تمہیں ہمارا مقرب بنانے والے نہیں ہیں جو کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ میرے پاس مال و اولاد زیادہ ہے اس لئے اللہ کا

مقرب ہوں اور اپنے اعمال کو نہیں دیکھتا وہ شخص احمق ہے اور گمراہ ہے، لَا مَنْ أَمِنَ وَتَحِيلَ صَالِحًا اللہ تعالیٰ کے ہاں تو وہ مقرب ہے جو ایمان لایا اور اعمال صالحہ میں لگا۔

جو مؤمن بندے ہوں گے اور ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ میں بھی لگے ہوں گے ان کے ایمان اور اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں بڑھ چڑھ کر بدلہ دیا جائے گا جس میں نیکی کا ثواب کم از کم دس گنا ہوگا اور یہ حضرات جنت کے بالا خانوں میں امن و چین کے ساتھ رہیں گے۔ آگے مخالفین کی سزا کا تذکرہ ہے وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آلَتِنَا (الآیۃ) اور جو لوگ ہماری آیتوں کے بارے میں ہر آنے کی کوشش کرتے ہیں یعنی ہماری آیتوں میں طعن کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ انکار کر کے کہیں دور نکل جائیں گے اور (العیاذ باللہ) اللہ کو ہر ادیس گے اور اسکی قدرت اور گرفت سے باہر ہو جائیں گے یہ لوگ عذاب میں حاضر کر دیئے جائیں گے یہ ان لوگوں کے لئے وعید ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات سن کر تکذیب بھی کرتے تھے ان کا مذاق بھی اڑاتے تھے۔ اور طعن و تشنیع بھی کرتے تھے اور یوں سمجھتے تھے کہ ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا انہیں واضح طور پر بتا دیا کہ تم پکڑے جاؤ گے اور عذاب میں حاضر کئے جاؤ گے بھاگ کر کہیں نہیں جاسکتے۔

قُلْ إِنْ رَزَقْنِي رَبِّي لَبَسْتُ الْبُزْقَ (الآیۃ) اس میں اہل ایمان کو فی سبیل اللہ خرچ کرنے کی ترغیب بھی ہے اور جو کچھ اللہ فی اللہ خرچ کریں گے اس کا بدلہ دینے جانے کا وعدہ بھی ہے جو شخص اللہ کی رضا کے لئے خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اُسے بہت کچھ ملتا ہے دنیا میں بھی صلہ دیا جاتا ہے اور آخرت میں تو بہت زیادہ دیا جائے گا۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ (اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے) حقیقی رزاق تو وہی ہے عربی کے محاورات میں خیر اللہ کے لئے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے کہتے ہیں کہ رزق الامیر الجندی اس لئے مفسرین نے خیر الرازقین کا یہ ترجمہ کیا ہے کہ رزق پہنچانے والوں میں وہ سب سے بہتر ہے۔ قال صاحب الروح: ومعنى الرازقین الموصولین للرزق والموهبین له فیطلق الرزاق حقيقة على الله عز وجل وعلى غيره ويشعر بذلك۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی صبح ہوتی ہے دو فرشتے نازل ہوتے ہیں ایک کہتا ہے: اللَّهُمَّ اغْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا (اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کے بعد اور مال دے) اور دوسرا کہتا ہے: اللَّهُمَّ اغْطِ مُمْسِكًا تَلْفًا (اے اللہ روک کر رکھنے والے کا مال تلف فرما دے) (رواہ البخاری و مسلم کما فی مشکوٰۃ ص ۱۶۴) نیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ کرنے سے کبھی مال میں کمی نہیں ہوتی اور جس کی بندے نے کسی کو معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی عزت بڑھا دے گا اور جو شخص اللہ کے لئے تواضع اختیار کرے گا تو اللہ اس کو بلند فرمائے گا۔ (رواہ مسلم ص ۳۲۱)

وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَكَةِ اَهْلَاكِ اَيَاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ <sup>۱</sup> قَالُوا سُبْحَانَكَ

اور جس دن اللہ ان سب کو جمع فرمائے گا پھر فرشتوں سے فرمائے گا کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ فرشتے عرض کریں گے آپ پاک ہیں

اَنْتَ وَلَيْتَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ <sup>۲</sup> قَالِیَوْمَ

آپ ہمارے بولی ہیں ان سے ہمارا کچھ تعلق نہیں بلکہ بات یہ ہے کہ یہ لوگ جنات کی عبادت کرتے تھے ان میں سے اکثر ان پر ایمان لائے ہوئے تھے۔ سوانح تم



لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ

میں سے بعض بعض کے لئے کسی نفع یا ضرر کا مالک نہیں اور ہم ظالموں سے کہیں گے کہ دوزخ کا عذاب چکھ لو

الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿۲۹۱﴾ وَإِذْ اتَّشَلْنَا عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ

جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اور جب ان پر ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ شخص تو یہی چاہتا ہے کہ تم لوگوں کو ان چیزوں

أَنْ يَصُدَّكُمْ عَنْ مَا كَانُوا يَعْبُدُ آبَاءَكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا افْكٌ مُمْتَرٍ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا

سے روک دے جن کی تمہارے باپ دادے عبادت کیا کرتے تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو محض ایک تراشا ہوا جھوٹ ہے اور کافروں نے

لِلْحَقِّ لَبَّاءُ لَهُمْ ۚ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ قَبِيلٍ ﴿۲۹۲﴾ وَمَا اتَيْنَهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا

حق کے بارے میں کہا جب ان کے پاس آ گیا کہ یہ محض ایک جادو ہے کھلا ہوا اور ہم نے انہیں کتابیں نہیں دی تھیں جن کو وہ پڑھتے پڑھاتے ہوں

أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ قَبْلُكَ مِنْ نَذِيرٍ ﴿۲۹۳﴾ وَكَذَّبَ الَّذِينَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَاغُهُمْ إِعْشَارُ مَا

اور ہم نے آپ سے پہلے ان کی طرف کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے تکذیب کی اور جو کچھ ہم نے ان کو یاد تھا یہ لوگ اس کے دسویں حصہ کو

آتَيْنَهُمْ فَكَذَّبُوا أُرْسِلِي فَنُفِثَ كَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ ﴿۲۹۴﴾

بھی نہیں پہنچے سو انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا سو کیا ہوا میرا عذاب؟

## کافروں کا عناد اور انکار اور عذاب و انجام کار

**تفسیر:** قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو جمع فرمائے گا ان میں غیر اللہ کی عبادت کرنے والے بھی ہوں گے ان میں

وہ لوگ بھی موجود ہوں گے جو دنیا میں فرشتوں کی عبادت کرتے تھے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے سوال فرمائیں گے کہ کیا یہ لوگ

تمہاری عبادت کرتے تھے؟ یہ سوال مشرکین کی سرزنش کرنے اور ان کی گمراہی ظاہر کرنے کے لئے ہوگا فرشتے عرض کریں

گے کہ سُبْحَانَكَ اے آپ پاک ہیں (آپ کا کوئی شریک نہیں) اِنَّكَ وَلِئَیْنَا اے آپ ہمارے ولی ہیں مِنْ دُونِهِمْ اِن سے ہمارا کوئی

تعلق نہیں (نہ ہم نے انہیں شرک پر ڈالا نہ ہم ان کے اس عمل سے راضی ہیں) بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْیَهُودَ (بلکہ بات یہ ہے کہ

یہ لوگ جنات کی یعنی شیاطین کی پرستش کرتے تھے) شیاطین جو ذراؤنی صورتیں بناتا کر ان کے سامنے آتے تھے اُن کی

شکلوں کی صورتیاں بنا کر پوجا کرتے تھے اور دوسروں کی عبادت بھی اسی لئے کرتے تھے کہ شیاطین انہیں اس کا حکم دیتے

تھے فرمانبرداری کے اعتبار سے یہ بھی شیاطین کی عبادت ہوئی شیاطین ہی کی بات مانتے ہوئے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے

علاوہ دوسرے معبود تجویز کیے اور ان کی عبادت کی اَلَّذِیْ لَهُمْ یُوحَیُّ فَوْفَ نُحُوتٍ (ان میں اکثر شیاطین پر ہی ایمان لائے) یعنی ان

ہی کے معتقد تھے ان ہی کی بات مانتے تھے۔

چونکہ مشرکین غیر اللہ کی عبادت اس عقیدہ سے بھی کرتے تھے کہ وہ آخرت میں سفارش کریں گے اور عذاب سے بچا

لیں گے اس لئے اُن کی تردید کرتے ہوئے فرمایا: فَالْيَوْمَ لَا يَخَافُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نُّعْمًا وَلَا ذُرًّا (سو آج تم میں سے بعض بعض کیلئے کسی نفع یا ضرر کا مالک نہیں) لہذا غیر اللہ کی عبادت کر کے جو امیدیں باندھ رکھی تھیں وہ سب جھوٹی نکلیں اور اپنے بنائے ہوئے خیال سب باطل نکلے۔ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَنُّوا أَنَّهُمُ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِّنْ دُونِ اللَّهِ كَمَا اتَّخَذَ آدَمُ ابْنًا لَهُ (اور ہم ظالموں سے کہیں گے کہ دوزخ کے عذاب کو کچھ لو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے)

اس کے بعد مشرکین کی تکذیب والی باتیں نقل فرمائیں: وَإِذَا نُفِثَ عَلَيْهِمُ الْيَتِيمَ الْيَتِيمَ (الایہ) اور جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ شخص (جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے) یہ تو بس ایک ایسا ہی آدمی ہے جو تمہیں ان چیزوں سے روکتا ہے جن کو تمہارے باپ دادا پوجتے تھے اور دوسری بات یہ کہتے تھے کہ یہ تو ایک تراشا ہوا جھوٹ ہے اور تیسری بات یہ کہتے تھے کہ محمد (رسول اللہ ﷺ) جو کچھ سناتے ہیں یہ تو کھلا ہوا جادو ہے ان کے بارے میں فرمایا: وَمَا آتَيْنَاهُم مِّنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَّذِيرٍ (اور ہم نے انہیں کتابیں نہیں دی تھیں جن کو وہ پڑھتے پڑھاتے ہوں اور ہم نے پہلے ان کی طرف کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا تھا) لہذا انہیں اللہ کی اس نعمت کی قدر کرنا لازم تھا کیونکہ اُس نے اُن کی طرف نبی کو مبعوث فرمایا اور نبی بھی وہ ہے جو انہیں میں سے ہے اُس سے پہلے تو قسم کھا کھا کر کہتے تھے کہ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ يَّكُونُ لَهُمْ نَذِيرٌ (اگر ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آجائے تو ہم دوسری امتوں کے مقابلے میں ہر امت سے زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہوں گے) ان لوگوں نے وعدہ پورا نہ کیا اور اُسے تکذیب پر اتر آئے اور نبی اکرم ﷺ کے بارے میں نازیبا کلمات کہنے لگے۔

اس کے بعد مشرکین مکہ کے لئے وعید ذکر فرمائی: وَلَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا تَبُكُّوا مِنْهُم مَّا آتَيْنَاهُمْ (اور ان لوگوں نے جھٹلایا جو اُن سے پہلے تھے اور حال یہ ہے کہ اُن لوگوں کو جو کچھ ہم نے دیا تھا یہ لوگ اس کے دسویں حصے کو بھی نہیں پہنچے) فَلَا يُؤْمِنُونَ بِهِمْ وَلَا يَرْجُوا لِقَاءَهُمْ (سو ان لوگوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا سو کیسا تھا میرا عذاب) مطلب یہ ہے کہ سابقہ امتیں تکذیب کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں اُن کے پاس تو حکومتیں بھی تھیں، اموال بھی بہت تھے، طرح طرح کے سامان بھی ان کے پاس تھے، قلعے تھے، بڑے بڑے مکانات تھے اور اُن کی عمریں بھی بڑی تھیں اُن پر گھمنڈ بھی تھا یہ لوگ جو تکذیب پر اڑے ہوئے ہیں اور عناد پر جسے ہوئے ہیں ان کے پاس تو اُن نعمتوں کا دسواں حصہ بھی نہیں ہے جو ہم نے گزشتہ امتوں کو دی تھیں اُن لوگوں کے احوال انہیں معلوم ہیں اسفار میں جاتے ہیں تو ان کے نشانات دیکھتے ہیں، تکذیب رسل کی وجہ سے وہ ہلاک کر دیئے گئے انہیں بھی اپنا انجام سوچ لینا چاہئے جبکہ اُن کے سامنے ان کی اہمیت کچھ بھی نہیں۔

قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَشْئِيًّ وَفِرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ

آپ فرمادیجئے کہ میں تمہیں ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں وہ یہ کہ تم اللہ کے لئے کھڑے ہو جاؤ دو دو اور ایک ایک پھر تم سوچو تمہارے ساتھی کو کوئی

مِنْ جَنَّةٍ إِنَّ هُوَ لَا نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيَّ عَذَابٍ شَدِيدٍ ۖ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ

دیوانگی نہیں ہے۔ وہ تو ایک سخت عذاب کے آنے سے پہلے تمہیں ڈرانے والا ہے۔ آپ فرمادیجئے کہ میں نے جو کچھ تم سے

اَجْرُ فَهَؤُلَاءِ اِنْ اَجْرِي اِلَّا عَلَى اللّٰهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝ قُلْ اِنْ رَئَيْتُمْ

معاوضہ کا سوال کیا ہو سو وہ تمہارے لئے ہی ہے میرا جزو صرف اللہ پر ہے اور وہ ہر چیز پر اطلاع رکھنے والا ہے۔ آپ فرمادیجئے کہ بے شک میرا رب

يَقْضِي بِالْحَقِّ عَلَٰمُ الْغُيُوْبِ ۝ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِيُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ۝

حق کو غالب کر دیتا ہے وہ پوری طرح غیبیوں کا جاننے والا ہے۔ آپ فرمادیجئے کہ حق آگیا اور باطل نہ کرنے کا رہا نہ دھرنے کا۔

قُلْ اِنْ ضَلَكْتُ فَاَتَمَّ اَخْلُ عَلَى نَفْسِيْ ۚ وَاِنْ اِهْتَدَيْتُ فَمَا يُوجِيْ اِلَيَّ رَبِّيْ ۚ اِنَّهٗ

آپ فرمادیجئے کہ اگر میں گمراہ ہو جاؤں تو میری گمراہی مجھ ہی پر پڑے گی اور اگر میں ہدایت پر رہوں تو اسی وحی کی بدولت جو اللہ میرے پاس بھیج رہا ہے بے شک

سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ ۝ وَلَوْ تَرَى اِذْ فَرَعُوْا فَلَافُوْتَ ۚ وَاُخْذُوْا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ ۝ وَقَالُوْا

وہ سننے والا ہے قریب ہے اور اگر اس وقت کا آپ دیکھیں جب یہ لوگ گمراہ گئے تھے پھر چھوٹنے کی کوئی صورت نہ ہوگی اور قریب ہی جگہ سے پکڑ لئے جائیں گے اور کہیں گے

اٰمَنَّا بِهٖ ۚ وَاِنَّا لَهُمُ السَّائُوْسُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ ۝ وَقَدْ كَفَرُوْا بِهٖ مِنْ قَبْلُ ۚ

کہ ہم اس پر ایمان لائے اور اتنی دور جگہ سے ان کے ہاتھ آنا کہاں ممکن ہے حالانکہ وہ اس سے پہلے اس کا انکار کر چکے ہیں

وَيَقْضِ فُوْنٌ بِالْغَيْبِ ۚ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ ۝ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُوْنَ ۚ كَمَا فُعِلَ

اور دوہری دور سے تحقیق باتیں پھینکا کرتے ہیں۔ اور اُن کے اور اُن کی آرزوؤں کے درمیان آڑ کر دی جائے گی جیسا کہ اُن سے پہلے

يَاٰشِيَاعِهِمْ مِّنْ قَبْلِ اَتَّهُمْ كَانُوْا فِيْ شَكٍّ مَُّرِيْبٍ ۝

اُن کے ہم مشربوں کے ساتھ کیا گیا بلاشبہ وہ تردد میں ڈالنے والے شک میں تھے

## انفرادی اور اجتماعی طور پر غور و فکر کرنے کی دعوت

**تفسیر:** رسول اللہ ﷺ کے اولین مخاطبین جو آپ کی تکذیب کرتے تھے وہ آپ کو دیوانگی کی طرف منسوب کرتے تھے اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ آپ ان سے فرمادیجئے کہ میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں یہ نصیحت محض تمہاری ہمدردی کے لئے ہے تم دو دو آدمی مل کر یا علیحدہ علیحدہ تنہائیوں میں سوچو اور غور و فکر کرو تمہارا یہ سوچنا صرف اللہ کی رضا کیلئے ہو اس میں نفسانیت اور تعصب کا دخل نہ ہو تم لوگ یہ سوچ لو کہ جو شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نبی ہوں اور تمہیں تو حید کی دعوت دے رہا ہے وہ دیوانہ نہیں ہے اُس کے احوال دیکھ لو اُس کی بات سن لو وہ جو قرآن سناتا ہے اُسے سنو اور یہ بھی سمجھ لو کہ باوجود چیلنج کے تم اس جیسا بنا کر نہیں لا سکتے اگر تم غور و فکر کرو گے تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ دعوت دینے والا شخص دیوانہ نہیں ہے وہ تو تم کو ایک سخت عذاب کے آنے سے پہلے ڈراتا ہے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے چند باتوں کا حکم دیا کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیں: **اَوَّلُ** یہ کہ تم یہ بتاؤ کہ میں نے تم سے کوئی

معاوضہ تو طلب نہیں کیا؟ اگر میں نے تم سے معاوضہ کا کوئی سوال کیا ہو تو وہ مجھے نہیں چاہئے وہ تم ہی رکھو میرا اجر و ثواب تو صرف اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے اُس نے مجھ سے ثواب دینے کا وعدہ فرمایا ہے وہ مجھے ضرور عطا فرمائے گا اور یہ بھی سمجھ لو کہ وہ ہر چیز پر اطلاع رکھنے والا ہے جو میری محنتیں ہیں اس کا بھی اُسے علم ہے اور جو تمہاری حرکتیں ہیں وہ ان سے بھی باخبر ہے۔

**دوسری بات** کہہ دیں کہ میرا رب حق کو غالب فرمادیتا ہے میں جو حق لے کر آیا ہوں وہ غالب ہو کر رہے گا ان شاء اللہ تعالیٰ تم اپنی مغلوبیت کو سوچ لو وہ علام الغیوب ہے اُسے پہلے سے سب کچھ معلوم ہے۔ **تیسری بات** یہ فرمائی کہ آپ فرمادیتے کہ حق آ گیا اور باطل کسی کام کا نہ رہا یعنی اس کا ذکر ختم ہو گیا فتح مکہ کے دن رسول اللہ ﷺ نے آیت کریمہ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا اور یہ آیت قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَكَانَ الْبَاطِلُ تلاوت فرمائی تھی۔ (کما روی البخاری فی تفسیر سورۃ الاسراء ج ۲ ص ۲۸۶) کیونکہ اس وقت بالکل اس کا مظاہرہ ہو گیا تھا کہ حق ظاہر ہوا اور باطل چلتا ہوا۔

چوتھی بات یہ ہے کہ آپ ان لوگوں سے فرمادیتے کہ اگر میں گمراہ ہو جاؤں تو اس کا وبال مجھ ہی پر ہوگا (میں جو دین لایا ہوں وہ حق ہے جو اس کا منکر ہوگا گمراہ ہوگا) بالفرض اگر میں بھی اس دین کو چھوڑوں تو میں بھی گمراہ ہو جاؤں گا اور مجھ پر اس کا وبال پڑے گا اس میں نام اپنا ہے اور سنا اُن کو ہے جو علیٰ اسلوب الحکیم ہے یعنی میں تو اسی راہ پر ہوں تم اس کے منکر ہو لہذا تم گمراہ ہو اور اس کا وبال تم پر پڑے گا اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس قرآن کی بدولت ہوں جس کی وحی میرا رب میری طرف بھیج رہا ہے یہ بھی علیٰ اسلوب الحکیم ہے مطلب یہ ہے کہ تم ہدایت چاہو تو تمہیں بھی اسی راہ پر آنا پڑے گا۔ إِنَّكَ سَمِيعٌ قَرِيبٌ (بے شک میرا رب سننے والا ہے بہت نزدیک ہے) میری باتیں بھی سنتا ہے اور تمہاری باتیں بھی۔

آخری آیتوں میں منکرین کے لئے وعید ہے فرمایا: وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فُتِحُوا (السی احسر السودة) (اور اگر آپ اُس وقت کو دیکھیں جب یہ لوگ گھبرا جائیں گے تو پھر چھوٹنے کی کوئی صورت نہ ہوگی اور قریبی جگہ سے پکڑ لئے جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لائے اور اتنی دور سے اُن کے ہاتھ آنا کہاں ممکن ہے حالانکہ وہ اس سے پہلے اس کا انکار کر چکے ہیں اور دور ہی دور سے بے تحقیق باتیں پھینکا کرتے ہیں اور اُن کے اور اُن کی آرزو کے درمیان آڑ کر دی جائے گی۔ بلاشبہ وہ تزد میں ڈالنے والے شک میں تھے۔

بتوفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ سبأ کی تفسیر تمام ہوئی۔

والحمد لله اولاً و آخراً و باطناً و ظاهراً  
والسلام علی من ارسل طیباً و طاهراً



سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَوْمَ يُصْعَقُونَ ۝۱۰

سورۃ فاطر میں نازل ہوئی اس میں ﴿شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے﴾ بیسیس آیات اور پانچ رکوع ہیں

الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلِكِ رُسُلًا أُولَىٰ أَجْنَعَةٍ مِّثْنَىٰ

سب تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا فرمانے والا ہے وہ فرشتوں کو پیغام رساں بنانے والا ہے جن کے دود اور تین تین

وثلث ورُبْعٌ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝۱۱ مَا يَفْتَحُ

اور چار چار بازو ہیں وہ پیدائش میں جو چاہے زیادہ کر دیتا ہے بلاشبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو بھی کوئی

اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۖ وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ۚ وَ

رحمت اللہ انسانوں کے لئے کھول دے تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں اور جس کو وہ بند کر دے سو اس کے بعد اس کا کوئی جاری کرنے والا نہیں اور

هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝۱۲ يَأْتِيهَا النَّاسُ أَذْكَرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ

وہ غالب ہے حکیم ہے۔ اے لوگوں اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہے کیا اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا ہے

اللَّهُ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ فَاَن تَوَفُّكُونَ ۝۱۳ وَإِنْ يَكْذِبُوكَ

جو تمہیں آسمان و زمین سے رزق عطا فرماتا ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں سو تم کہاں اُلٹے جا رہے ہو۔ اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں

فَقَدْ كَذَّبْتَ رَسُولٌ مِّنْ قَبْلِكَ ۚ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۝۱۴ يَأْتِيهَا النَّاسُ إِن وَعْدَ اللَّهِ

تو آپ سے پہلے بہت سے پیغمبر جھٹلائے جا چکے ہیں اور اللہ ہی کی طرف سب امور لوٹنے جائیں گے اے لوگو! بلاشبہ اللہ کا وعدہ

حَقٌّ فَلَا تَغُرَّكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۚ وَلَا يَغُرَّتْكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ ۝۱۵ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ

حق ہے سو تمہیں ہرگز دنیاوی زندگی دھوکہ میں نہ ڈالے اور تمہیں اللہ کا نام لے کر دھوکہ باز ہرگز دھوکہ میں نہ ڈالے بلاشبہ شیطان تمہارا دشمن ہے

فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ۝۱۶ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ

سو تم اُسے اپنا دشمن سمجھتے رہو وہ اپنے گروہ کو اسی لئے بلاتا ہے تاکہ وہ دوزخیوں میں سے ہو جائیں۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لئے سخت

عَذَابٌ شَدِيدٌ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۝۱۷

عذاب ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے اُن کے لئے مغفرت ہے اور اجر کبیر ہے۔

## اللہ تعالیٰ خالق ارض و سما ہے ہر چیز پر قادر ہے اسکے سوا کوئی پیدا کر نیوالا نہیں اور اسکے سوا کوئی معبود نہیں

**تفسیر:** یہاں سے سورۃ فاطر شروع ہو رہی ہے جس کا دوسرا نام سورۃ الملائکہ بھی ہے۔ سورۃ الفاتحہ سورۃ الکہف اور سورۃ سہاء کی طرح یہ سورت بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف سے شروع ہے فرمایا کہ سب تعریف اللہ ہی کے لئے ہے جو آسمانوں کا اور زمین کا پیدا فرمانے والا ہے اس کی مخلوق میں فرشتے بھی ہیں ان فرشتوں کو بھی اس نے پیدا فرمایا اور کاموں پر مقرر فرمایا ان کاموں میں سے ایک یہ کام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اور اس کے نبیوں کے درمیان پیغام رسانی کا کام کرتے رہے ہیں ان کی تخلیق بھی دوسری مخلوق سے علیحدہ ہے ان کے جو بازو ہیں وہ دودو بھی ہیں تین تین بھی ہیں اور چار چار بھی فرشتے ان بازوؤں کے ساتھ جاتے اور آتے ہیں چڑھتے اور اترتے ہیں۔ اور صرف چار بازوؤں پر ہی منحصر نہیں ہے اس اس سے زیادہ بازوؤں کا بھی صحیح بخاری میں ذکر ہے رسول اللہ ﷺ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دو بار اصلی صورت میں دیکھا جن کے چھ سبازو تھے۔

يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ (اللہ تعالیٰ پیدائش میں جو چاہے زیادہ فرما دیتا ہے) اور یہ زیادتی کیت اور کیفیت دونوں میں ہوتی ہے مخلوق میں جو کی بیشی نظر آتی ہے اجسام میں بھی ہے اور اوصاف میں بھی یہ سب محض اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے ہے۔  
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (بلاشبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے)

اس کے بعد اللہ تعالیٰ شانہ کی شانِ رحمت کو بیان فرمایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کوئی رحمت کھول دے یعنی لوگوں پر رحم فرمائے اس رحمت کو کوئی روکنے والا نہیں جس شخص پر بھی جس طرح کی نعمت اللہ تعالیٰ بھیجنا چاہے اُسے اس پر پوری پوری قدرت ہے کسی بھی مخلوق کی مجال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو روک دے، بعض چھوٹے درجہ کے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے وہ بڑھتے اور ترقی کرتے چلے جاتے ہیں جتنے والے ان سے جلتے ہیں حسد کرنے والے ان سے حسد کرتے ہیں لیکن کچھ کر نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کی رحمت برابر جاری رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو جس سے روک لے کسی میں طاقت نہیں کہ اس کو جاری کر دے وہ غالب ہے جس کو چاہے دے جس سے جو چاہے چھین لے وہ غالب بھی ہے اور حکیم بھی ہے جس کو جو کچھ وہ دیتا ہے اور جس سے واپس لیتا ہے یہ سب کچھ حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔

پھر فرمایا کہ اے لوگو! اللہ تعالیٰ نے تم پر جو انعام فرمایا ہے اور جو نعمتیں دی ہیں ان کو یاد کرو نعمتوں کو یاد کرنے میں ان کا شکر ادا کرنا بھی شامل ہے جب نعمتوں کو یاد کریں گے اور غور کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فلاں فلاں نعمتیں دی ہیں جان بھی دی اولاد بھی عنایت فرمائی مال بھی دیا اور حسن و جمال بھی، علمی و عملی کمال بھی اور جاہ و اقتدار بھی تو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کی طرف طبیعت چلے گی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف ذہن دل اور دماغ متوجہ ہوگا۔

یہ بھی فرمایا کہ تم غور کرو لو کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور پیدا کرنے والا ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے رزق دیتا ہو غور کرو گے تو سمجھ میں آ جائے گا اور یقینی طور پر یہ بات دل میں بیٹھ جائے گی اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی پیدا کرنے والا نہیں

ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو اللہ تعالیٰ ہی آسمان سے بارش برساتا ہے۔ اور زمین میں اُس نے غلے میوے اور کھانے پینے کی بہت سی چیزیں پیدا فرمائی ہیں یہ سب چیزیں اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جب اُس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو کہاں الٹے پھرے جا رہے ہو کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنا رکھا ہے۔

اثباتِ توحید کے بعد رسول اللہ ﷺ کو تسلی دی کہ آپ کے مخالفین آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ رنجیدہ نہ ہوں آپ نے اپنا کام پورا کر لیا حجت تمام کر دی آپ سے پہلے بھی انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو جھٹلایا گیا انہوں نے صبر کیا آپ بھی صبر کیجئے سب امور اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہوں گے اور کافرین و منکرین کو عذاب دے گا۔

اس کے بعد توحید اور رسالت کے منکرین سے خطاب فرمایا کہ اے لوگو! اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے کہ قیامت قائم ہوگی اور ایمان اور کفر کا بدلہ دیا جائے گا یہ وعدہ حق ہے اور پورا ہو کر رہے گا تمہیں دنیا والی زندگی دھوکہ میں نہ ڈالے (جس کا ہر ابھرا ہونا تمہیں اپنی طرف کھینچتا ہے اور آخرت کے ماننے سے اور آخرت میں نفع دینے والے کاموں سے روکتا ہے) ایک طرف تو دنیا کی سرسبزی ہے دوسری طرف شیطان تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے اُس سے چوکنے اور ہوشیار رہو وہ تمہارا دشمن ہے اُسے دشمن ہی سمجھو وہ تمہیں دھوکہ نہ دے اُس کے دھوکہ دینے کے جتنے طریقے ہیں اُن میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لیکر دھوکہ دیتا ہے اور یہ سمجھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے ابھی تو بہت بڑی زندگی پڑی ہے رنگ رلیوں میں رہو اور بد مستیاں کرو آخر میں توبہ کر لینا حالانکہ بندہ کو یہ معلوم نہیں کہ کتنی زندگی باقی ہے موت اچانک آ جاتی ہے اور بغیر ایمان کے اور بغیر توبہ کے مر جاتے ہیں شیطان دشمن ہے اگر ہم نے اُس کی بات مانی تو وہ ہلک دے گا دشمن کو دشمن ہی سمجھتے رہیں وہ ہر وقت دشمنی میں لگا ہوا ہے اپنی جماعت کو دوزخ ہی کی طرف بلاتا ہے اور اپنا بناتا ہے لہذا انسانوں کو بہت ہی بیدار مغزی کے ساتھ زندگی گزارنا لازم ہے۔

اس کے بعد اہل کفر کا عذاب اور اہل ایمان کا ثواب بیان فرمایا ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا اُن کے لئے سخت عذاب ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور اعمالِ صالحہ میں مشغول ہوئے اُن کیلئے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔

أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَاهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ

سو کیا جس شخص کے لئے اس کا عمل بد چھایا کر کے دکھایا گیا ہو سو اس نے اس کو اچھا سمجھا ہو سو بے شک اللہ گمراہ فرماتا ہے جس کو چاہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے

فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۝ وَاللَّهُ الَّذِي

سو اُن پر حسرتیں کرنے کی وجہ سے آپ کی جان نہ جاتی رہے بلاشبہ جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اللہ خوب جانتا ہے اور اللہ وہ ہے

أَرْسَلَ الرِّيحَ فَثُبَّتْ سَنَابِلَ الْفُسْقٰنِ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ ۚ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ

جس نے ہواؤں کو بھیجا جو اٹھاتی ہیں بادل کو پھر ہم نے اُسے ایسے قطعہ زمین کی طرف ہانک دیا جو خشک تھا پھر ہم نے اس کے ذریعہ زمین کو

مَوْتَهَا ۚ كَذٰلِكَ الشُّوْرُ ۝

زندہ کر دیا اسی طرح جی اٹھنا ہو گا۔



## برے عمل کو اچھا سمجھنے والا اچھے عمل والے کے برابر نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ سب کے اعمال کو جانتا ہے

**تفسیر:** یہ دو آیتوں کا ترجمہ ہے پہلی آیت میں یہ بتایا کہ بہت سے لوگ برے عمل کرتے ہیں کفر اختیار کئے ہوئے ہیں اور شیطان نے اور ان کے ماحول نے اور ان کے نفوس نے کفر ہی کو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہی کو ان کے سامنے اچھا کر کے پیش کیا ہے جس کی وجہ سے کفر کو اور برے اعمال کو اچھا سمجھتے ہیں اور ایمان سے اور اعمال صالحہ سے بچتے ہیں اور ان کو قبیح جانتے ہیں ارشاد فرمایا ایسا شخص جس کے لئے برے اعمال کو مزین بنادیا گیا ہو اور اُس نے برے اعمال ہی کو اچھا سمجھ لیا ہو کیا یہ شخص اور وہ آدمی دونوں برابر ہو سکتے ہیں جو برے اعمال کو برا جانتا ہو اور اچھے اعمال کو اچھا سمجھ کر اپنی زندگی میں اختیار کئے ہوئے ہو۔ یہ استفہام انکاری ہے مطلب یہ ہے کہ جس کیلئے برے اعمال کو اچھا بنا کر پیش کر دیا گیا اور اس نے برے عمل کو اچھا سمجھ لیا یہ شخص اور اس کا مقابل وہ شخص جو برے اعمال کو برا اور اچھے اعمال کو اچھا سمجھتا ہو دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔

وَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ (پس اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے)

فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ (سوان پر حسرتیں کرنے کی وجہ سے آپ کی جان نہ جاتی رہے) رسول اللہ ﷺ کو اس بات کی بڑی حرص تھی کہ ساری امت دعوت مسلمان ہو جائے لیکن مخاطبین کی طرف سے تکذیب بھی اور عناد تھا اور اس سے آپ کو رنج ہوتا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں پر افسوس کر کے آپ کی جان نہ جاتی رہے جیسا کہ سورۃ الشعراء میں فرمایا: لَعَلَّكَ بَآخِزٍ نَفْسِكَ لَا بُدَّ لَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (کیا ایسا ہونے کو ہے کہ آپ اپنی جان کو اس وجہ سے ہلاک کر دیں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے)۔

پھر فرمایا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (بلاشبہ اللہ کو ان کے کاموں کا خوب علم ہے) وہ اپنے علم و حکمت کی مطابق بدلہ دے گا۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کی شان رزاقیت بیان فرمائی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہواؤں کو بھیجتا ہے یہ ہوائیں بادلوں کو ان کی جگہوں سے ہٹاتی ہیں پھر ان بادلوں کو اللہ تعالیٰ مردہ یعنی خشک زمین کی طرف بھیج دیتا ہے وہ وہاں جا کر پانی برساتے ہیں جس سے خشک زمین زندہ ہو جاتی ہے گھاس پھوس پیدا ہوتا ہے جو مویشیوں کے کام آتا ہے انسان اپنی ضرورت کی پیداوار کے لئے زمین میں بیج ڈالے ہوئے ہوتے ہیں بارش ہونے سے کھیتاں نکلتی ہیں اور بقدر ضرورت بلند ہوتی ہیں چھوٹی بڑی بالیں نکلتی ہیں جن میں دانے ہوتے ہیں یہ دانے پکتے ہیں پھر کھیتی کاٹی جاتی ہے بھوسہ اور دانہ الگ الگ کیا جاتا ہے پھر دانوں کو پیس کر پکاتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ آیت کے ختم پر جو كَذٰلِكَ الشُّوْرُ ہے اس میں ایک مزید فائدہ کی طرف اشارہ فرمادیا اور وہ یہ کہ جس طرح اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ فرماتا ہے اسی طرح تم لوگ دوبارہ زندہ ہو کر قبروں سے نکلو گے۔

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا ۖ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ

جو شخص عزت حاصل کرنا چاہے تو ساری عزت اللہ ہی کے لئے ہے اچھے کلمات اُس کی طرف پہنچتے ہیں اور نیک عمل

يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَكَرُّوا لَيْكَ هُوَ يُبَوِّرُ ۝

انہیں بلند کر دیتا ہے اور جو لوگ بری تدبیریں کرتے ہیں اُن کے لئے سخت عذاب ہے اور ان کی تدبیر برباد ہوگی۔

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا

اور اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا فرمایا پھر نطفہ سے پھر اُس نے تمہیں جوڑے جوڑے بنایا اور جس کی عورت کو حمل رہ جاتا ہے اور جو کوئی عورت جنتی ہے تو یہ سب

تَضَعُ إِلَّا بَعْلُهَا وَمَا يَكْمُرُ مِنْ مُمْعِنٍ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ عُمُرٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ

اُس کے علم میں ہوتا ہے اور جس کی عمر والے کی عمر زیادہ کی جاتی ہے اور جس کی عمر کم کر دی جاتی ہے وہ سب کتاب میں ہے بلاشبہ

عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ ۝

یہ اللہ پر آسان ہے۔

ساری عزت اللہ تعالیٰ ہی کیلئے ہے، کلماتِ طیبات اسکی طرف جاتے ہیں اُسے بندوں کی عمروں میں کمی بیشی کا علم ہے

**تفسیر:** لوگ دنیا میں عزت چاہتے ہیں اُن کا خیال ہے کہ بڑے بن کر رہیں اور اس کے ذریعہ دنیاوی مصائب اور مشکلات سے بھی بچنا چاہتے ہیں اُس بارے میں غیر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، بتوں کی پرستش کرتے ہیں اور مخلوق کو راضی کرنے کے لئے ایسا اعمال کرتے ہیں جن سے خالق کائنات جل شانہ راضی نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا ہے: فَلْيَكُونِ الْوَعْدَةُ جَمِيعًا، یعنی جسے عزت چاہئے تو وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے وہ عزیز ہے اور ساری عزت اسی کے لئے ہے اپنی مخلوق میں جس کو چاہے عزت دے سکتا ہے اور جس کی عزت چاہے کم کر سکتا ہے اور ختم کر سکتا ہے لہذا اللہ ہی کی فرمانبرداری کرے اور اُسی سے سب کچھ مانگے۔

بعض حضرات نے لفظ وَعْدَةُ کا ترجمہ غلبہ سے کیا ہے یہ بھی درست ہے اور حقیقت میں اللہ ہی سب پر غالب ہے اور جسے چاہے غلبہ دے سکتا ہے۔ ایک مرتبہ منافقین رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جہاد میں چلے گئے وہاں آپس میں کہنے لگے: لَئِنْ كُنَّا إِلَى الْمَدِينَةِ لَا نُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ (اگر ہم مدینہ واپس ہو گئے تو جو عزت والا ہے وہ ذلت والے کو نکال دے گا) مطلب یہ تھا کہ ہم پر ایسی مہاجرین کو مدینہ سے نکال دیں گے (اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَلْيَكُونِ الْوَعْدَةُ وَرَسُولُهُ وَلَا يُؤْمِنُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ كَيْفَ يُنْفِقُونَ) اور اللہ ہی کے لئے عزت ہے اور اس کے رسول کے لئے اور مؤمنین کے لئے اور لیکن منافقین نہیں جانتے) سورۃ النساء میں فرمایا ہے۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا الَّذِينَ يَكْفُرُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الدُّفُورُ الْمُؤْمِنِينَ أَتَيْتُكُمْ عَنْهُمْ الْوَعْدَةَ فَلَمَّا وَفَّىٰ بَعْضُ مَا عَصَوْا أَخَذْتُهُمْ أَفْكَارًا (منافقین کو خوشخبری سنا دیجئے اس امر کی کہ ان کے واسطے بڑی دردناک سزا ہے جن کی حالت یہ ہے کہ کافروں کو دوست بناتے ہیں مسلمانوں کو چھوڑ کر کیا ان کے پاس معزز رہنا چاہتے ہیں سوا عزت تو سارا اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے)

ان آیات میں اُن سب لوگوں کو تنبیہ ہے جو اللہ کے دشمنوں کو راضی کرنے کے لئے حکومت اور سیاست اور معیشت، خوراک، پوشاک، وضع قطع اور شکل و صورت میں کافروں کی مشابہت اور ان کے طور طریق اختیار کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے ہم باعزت سمجھے جائیں گے حالانکہ عزت ایمان اور اعمال صالحہ میں ہے اور ساری عزت اللہ ہی کے لئے ہے اللہ جسے چاہے گاعزت دے گا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں کوئی عزت نہیں ہے دنیا میں اگر کسی کافر فاسق کو کوئی عزت حاصل ہے تو بے حقیقت ہے اور ذرا سی سے ہے اور ذرا سی دیر کے لئے ہے۔

پھر فرمایا الَّذِينَ يَصْعَدُ الْكَلِمَ الطَّيِّبَةَ (اور اچھے کلمات اس کی طرف پہنچتے ہیں) یعنی اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرماتا ہے اچھے کلمات کلمہ توحید اور تمام اذکار الہیہ کو شامل ہیں۔ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ (اور نیک عمل انہیں بلند کر دیتا ہے) نیک عمل سے اعمال صالحہ ظاہرہ باطنہ مراد ہیں تصدیق قلبی یعنی ایمان تو ہر عمل کے مقبول ہونے کی شرط ہی ہے دوسرے اعمال صالحہ کو بھی کلمات طیبات کی مقبولیت میں دخل ہے اور جن لوگوں کے اعمال واذا کار عند اللہ مقبول ہوتے ہیں حقیقی عزت انہیں کو ملتی ہے۔

وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ (اور جو لوگ بری تدبیریں کرتے ہیں ان کے لئے سخت عذاب ہے) اس میں اُن لوگوں کے لئے وعید ہے جو رسول اللہ ﷺ کی مخالفت کرتے تھے اور آپ کی دعوت کو روکنے کے لئے مشورے کرتے تھے ایک مرتبہ وہ لوگ جمع ہو کر یہ مشورہ کرنے لگے کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ آپ کو قید کر دیا جائے یا قتل کر دیا جائے یا مکہ معظمہ سے نکال دیا جائے جسے سورۃ انفال کی آیت کریمہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ میں بیان فرمایا ہے۔

وَمَكَرُوا لَكَ وَلَكِ هُوَ يَجُوزُ (اور اُن لوگوں کی تدبیر برباد ہوگی) چنانچہ ایسا ہی ہوا آپ کے خلاف تدبیریں کرنے والے غزوہ بدر میں مقتول ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے مستقل یہ نگوینی قانون بنادیا وَلَا يَحْصِي الْقَوْمُ السَّيِّئَةَ إِلَّا بِأَهْلِهِ (اور بری تدبیروں کا وبال انہیں لوگوں پر پڑتا ہے جو ایسی تدبیریں کرتے ہیں) ہر صاحب عقل و فہم کو یہ نکتہ سمجھ لینا چاہئے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی شانِ خالقیت بیان فرمائی وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ (اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا) یعنی ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا مٹی سے بنایا پھر اس میں روح پھونکی چونکہ ان کی تخلیق میں ان کی ساری اولاد کی تخلیق مضمر تھی اس لئے ان کی ساری اولاد کے بارے میں فرمایا کہ مٹی سے تمہاری پیدائش فرمائی پھر چونکہ سلسلہ تولد و تناسل نطفہ کے ذریعہ ہوتا رہا اور ہوتا ہے اس لئے فَمِنْ نطفَةٍ بھی فرمایا یعنی مٹی سے تمہاری تخلیق فرمائی اس کے بعد تمہاری پیدائش کا سلسلہ اس طرح جاری فرمایا کہ مرد کا نطفہ عورت کے رحم میں جاتا ہے پھر اس سے انسان پیدا ہوتا ہے۔

ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا (پھر تمہیں جوڑے بنادیا) یعنی مرد بھی پیدا فرمائے اور عورتیں بھی جو ایک دوسرے کی زوجیت میں آتے ہیں اور ان سے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی صفت علم بیان فرمائی کہ وَمَا تَحْصِيهِمُ أَنْثَى وَلَا نَضَعُ لِكُلِّ أَجَلٍ جس کی بھی عورت کو حمل قرار پا جاتا ہے اور جو بھی کوئی عورت بچہ جنتی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے۔ وَمَا نَحْصُرُ مِنْ مُعْتَمَرٍ وَلَا نَنْقُصُ مِنْ عُمُرٍ إِلَّا بِكِتَابٍ (اور جس کی عمر والے کی عمر زیادہ کی جاتی ہے اور جس کی عمر کم کر دی جاتی ہے وہ سب کتاب میں ہے) یعنی جس کسی کی عمر زیادہ مقرر کی گئی اور جس کی عمر دوسروں کے مقابلہ میں کم مقرر کی گئی یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (بلاشبہ یہ اللہ پر آسان ہے) یعنی لوح

محفوظ میں انسانوں کی تخلیق سے پہلے ہی ان کی عمروں کی کمی بیشی لکھ دینا یہ اللہ تعالیٰ کے لئے بالکل آسان ہے کیونکہ اُسے ازل سے ابد تک ہر چیز کا علم ہے۔

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلِّ تَاكُلُونَ

اور دو سمندر برابر نہیں یہ میٹھا ہے پیاس بجھانے والا آسان ہے اس کا پینا اور یہ شور ہے کڑوا اور ہر ایک میں سے تم تازہ

لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حَبِيَّةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَازِرَ لَتَبْتَغُوا مِنْ

گوشت کھاتے ہو اور نکالتے ہو زور جسے تم پہنتے ہو۔ اور اے مخاطب تو کشتیوں کو دیکھتا ہے کہ وہ پانی کو بھاڑتی ہوئی چلی جاتی ہیں تاکہ تم

فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ يُولِجُ الْاَيْلَ فِي النَّهْرِ وَيُؤْتِيهِ النَّهَارُ فِي الْاَيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ

اس کے فضل سے تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں اور اُس نے سورج کو

وَالْقَمَرَ كُلَّ يَجْرِي لِاجَلِّ مُسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ

اور چاند کو سحر فرمایا۔ ہر ایک مقررہ وقت کے لئے چلتا ہے۔ یہ اللہ رب ہے تمہارا اسی کے لئے ملک ہے اور اس کے سوا تم جن لوگوں کو پکارتے ہو

دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ۝ اِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دَعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا

وہ بھوک کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے۔ اگر تم ان کو پکارو تو تمہاری پکار نہیں سنیں گے اور اگر وہ سن لیں تو تمہاری بات نہ مانیں گے

لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُونَ بَشْرِكُكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ۝

اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک سے منکر ہو جائیں گے اور خبر رکھنے والے کے برابر تجھے کوئی نہیں بتا سکتا۔

سمندر کے سفر کے فوائد اور چاند سورج کی تسخیر کا بیان، مشرکین کو تنبیہ  
کہ تمہارے معبود گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں

**تفسیر:** سمندر بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے بعض سمندر میٹھے پانی کے ہیں ان کا پانی پیو تو خوب میٹھا اور شیریں ہوتا ہے جو پیاس کو بجھاتا ہے اور اس کا پانی بھی آسانی کے ساتھ گلے میں اتر جاتا ہے اور بعض سمندر اسیے ہیں کہ ان کا پانی بہت زیادہ نمکین اور شور ہے وہ پیا ہی نہیں جاسکتا نہ گلے سے اترتا ہے نہ اُس سے پیاس بجھتی ہے۔ بعض دریاؤں میں شیرینی اور مٹھاس اور بعض میں یہ نمکینی اور کڑوا پن سب اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے ہے دونوں سمندر برابر نہیں اور میٹھے سمندر کا میٹھا پن اور کڑوے سمندر کا کڑوا پن محض اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے ہے ان سمندروں سے انسانوں کو بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ ان سے تازہ تازہ گوشت کھاتے ہیں یعنی مچھلیوں کا شکار کرتے ہیں پھر انہیں پکا کر اور تل کر کھاتے ہیں۔ بعض حضرات نے مچھلی کے ساتھ پرندوں کا بھی ذکر فرمایا ہے۔

دریاؤں کا ایک نفع یہ بتایا کہ تم ان میں سے زیور نکالتے ہو اور ان کو پہنتے ہو اس سے موتی اور سہی وغیرہ مراد ہے ان کے پہننے اور استعمال کے طریقے مختلف علاقوں میں مختلف پائے جاتے ہیں۔

اس کے بعد کشتیوں کا تذکرہ فرمایا کہ اے مخاطب تو دیکھتا ہے سمندر میں کشتیاں چلتی ہیں جو پانی کو پھاڑتی ہوئی جاتی ہیں ان کشتیوں کا چلنا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے ان کے ذریعہ دور دراز ملکوں کے سفر ہوتے ہیں ایک براعظم سے دوسرے براعظم تک مال پہنچایا جاتا ہے اور طرح طرح کے منافع حاصل ہوتے ہیں جو اموال اور اطفال باہر سے کشتیوں سے لائے جاتے ہیں اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کھانے پینے اور دیگر ضروریات میں استعمال ہوتی ہیں اسی کو فرمایا کہ لَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ تاکہ تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ اور جب اس کی نعمتیں استعمال کرو تو اس کا شکر بھی ادا کرو آخر میں اسی کی یاد دہانی فرمائی: وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔

پھر فرمایا اللہ دن میں رات کو اور رات میں دن کو داخل فرماتا ہے کبھی یہ کم ہو کر وہ بڑھ جاتا ہے اور کبھی وہ کم ہوتا ہے تو یہ بڑھ جاتا ہے اور چاند اور سورج کو بھی اُس نے مسخر فرمایا ہے یعنی ہر ایک کو اس سے متعلقہ کام میں لگا دیا ہے ان کی روزانہ کی جو حرکات مقرر فرمائی ہیں اور ان کے لئے جو مدار معین فرمایا ہے وہ اس کے خلاف نہیں چل سکتے۔

ان کی یہ رفتار اجلی مُسَمَّیٰ یعنی مقررہ مدت تک اسی طرح جاری رہے گی جس طرح اللہ نے مقرر فرمادی اور مقررہ مدت سے یوم قیامت مراد ہے۔

ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ یہ ذات پاک جس کی مخلوقات اور مصنوعات کا اوپر تذکرہ ہوا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ تمہارا رب ہے اُسی کے لئے ملک ہے۔ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ فِطْرِهِ اور جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ کجھور کی کھٹلی کے چھلکے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دَعْوَاكُمْ (جن لوگوں کی اللہ تعالیٰ کے علاوہ تم عبادت کرتے ہو ان کی بے بسی اور عاجزی کا یہ حال ہے کہ اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار سن بھی نہ سکیں گے) وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ (اور اگر بالفرض تمہاری بات سن بھی لے تو تمہاری بات نہ مانیں) یعنی تمہاری پکار تمہارے کچھ بھی کام نہ آئیں نہ جواب میں ہاں کہیں نہ اُسی وقت کوئی مدد کر سکیں نہ بعد میں (یہ تو رہی دنیا کی حالت اور) رہا آخرت کا معاملہ سو سمجھ لو کہ تم نے جو ان کی مدد کا خیال جمار کھا ہے یہ خیال غلط ہے وہ تو وہاں تم سے بیزار ہو جائیں گے اور تم جو انہیں اللہ کا شریک بناتے ہو اس کے وہ منکر ہو جائیں گے۔ اسی کو یہاں فرمایا: وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِذِكْرِكُمْ (اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک سے منکر ہو جائیں گے)۔ سورۃ النحل میں فرمایا ہے: وَإِذَا رَأَوْا تِلْكَ آيَاتِنَا تَبْتَلُوهُمْ فَلَا وَابِعًا وَبَاءُوا لَكُمُ الْكَيْدَ (اور جب مشرک لوگ اپنے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار! یہ ہمارے شریک ہیں آپ کو چھوڑ کر ہم ان کی پوجا کرتے تھے سو وہ ان کی طرف کلام کو متوجہ کریں گے کہ تم جھوٹے ہو)۔

وَلَا يَنْفَعُكَ مِنْهُ خَبِيرٌ (اور اے مخاطب تجھے خبر رکھنے والے کے برابر کوئی نہیں بتائے گا) علیم خبری جل مجدہ نے تجھے بتایا ہے جسے سب کچھ علم ہے اُس نے جو کچھ بتایا ہے اس کو مان لے اسی میں تیرا بھلا ہے۔

**يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۚ إِنْ يَشَاءْ يُدْهِبْكُمْ وَيَأْتِ**

اے لوگو! تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ غنی ہے تعریف کا مستحق ہے۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں ختم کر دے اور نئی مخلوق پیدا فرما دے۔ اور یہ



کرے کہ مجھے اُسے راضی کرنے کی حاجت ہے، وہ غنی ہے، بے نیاز ہے اور ہر تعریف کا مستحق ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے اور صفاتِ جلیلہ سے متصف ہے۔

**ثانیاً** یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو پورا پورا اختیار ہے کہ وہ تمہیں باقی رکھے زندہ رہنے دے اور اگر چاہے تو تمہیں بالکل نیست و نابود کر دے، تمہیں پیدا فرمانے کے بعد اُس کی قدرت اور صفتِ خالقیت اسی طرح باقی ہے جیسے پہلے تھی، وہ تمہیں ختم فرما کر دوسری مخلوق پیدا فرمانے پر اور اس دنیا میں بسانے پر پوری پوری قدرت رکھتا ہے، تمہیں ختم کرنا اور دوسری مخلوق پیدا کرنا اس کیلئے ذرا بھی مشکل نہیں۔

**ثالثاً** یہ فرمایا کہ ہر ایک کو اپنا اپنا بوجھ اٹھانا ہے قیامت کے دن کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہ اٹھائے گی، وہاں بڑے بڑے بوجھل انسان حاضر ہوں گے، گناہوں سے لدے ہوئے ہوں گے، اگر کوئی شخص کسی سے یوں کہے کہ آمیرا کچھ بوجھ اٹھالے تو اس کا ذرا سا بوجھ بھی کوئی نہ اٹھائے گا، اگر کوئی شخص اپنے کسی قریبی رشتہ دار سے کہے گا کہ تم میرے بوجھ میں شریک ہو جاؤ تو وہ بھی صاف انکار کر دے گا۔ سورہ عبس میں فرمایا: يَوْمَ يَقُولُ الْمُرءُونَ اٰخِيْهِ وَاٰخِيْهِ وَاَصْحَابِيْهِ وَاٰخِيْهِ لَئِنْ اُمِرْتُ فَنُصِرْكَ يَوْمَئِذٍ اَنْ تُغْنِيَنِي (جس دن بھاگے گا اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے، ان میں سے ہر شخص کا حال جدا ہوگا جو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا)

**رابعاً** یہ فرمایا کہ آپ انہی لوگوں کو ڈراتے رہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، یعنی جو اہل ایمان ہیں اور ایمان کی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں وہی آپ کے ڈرانے سے متشع ہوتے ہیں، ڈراتے تو آپ سب ہی کو ہیں لیکن ڈرانے کا فائدہ انہی لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے اور جو نماز میں لگے رہتے ہیں، ساری ہی عبادت اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے ادا کی جاتی ہے لیکن چونکہ نماز میں بہت سی خصوصیات ہیں جو صرف خوف و خشیت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں اس لئے نماز کا خصوصی تذکرہ فرمایا۔

**خامساً** یہ فرمایا کہ پاکیزہ ہونا، گناہوں سے بچکر رہنا، ظاہری باطنی عیوب سے محفوظ رہنا، اس میں کوئی شخص کسی پر احسان نہ دھرے، جو شخص پاکیزہ ہو گا وہ اپنی ہی جان کے لئے پاکیزگی اختیار کرے گا، یعنی اس کا صلہ پائے گا، اور سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنا ہے اور ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ ملنا ہے۔

**سادساً** یہ فرمایا کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں۔ (یہاں اندھے سے مراد کافر اور دیکھنے والے سے مومن مراد ہے) اور اندھیریاں اور روشنی برابر نہیں یعنی حق اور باطل برابر نہیں ہو سکتے اور سایہ اور گرمی برابر نہیں یعنی ثواب و عقاب برابر نہیں ہو سکتے۔ (اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے جنت اور دوزخ مراد ہیں) نیز یہ بھی فرمایا کہ زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے (زندوں سے اہل ایمان اور مردوں سے کافر مراد ہیں) اہل ایمان جنت میں اور اہل کفر دوزخ میں ہوں گے۔

اس کے بعد فرمایا کہ بلاشبہ اللہ جس کو چاہے سنا دے، یعنی ہدایت کی بات سنا کر سننے والے کے لئے سبب ہدایت بنا دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو لوگ قبروں میں ہیں آپ انہیں نہیں سنا سکتے یعنی جنہیں کفر پر اصرار ہے انہوں نے اپنا حال ایسا بنا لیا ہے جیسے قبروں میں ہیں، قبروں میں جو لوگ چلے گئے آپ انہیں نہیں سنا سکتے اور یہ لوگ بھی آپ کی باتیں سن کر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ سامع موتی کے بارے میں ضروری تحقیق سورہ نمل (رکوع نمبر ۶) میں گذر چکی ہے، حقیقی سنانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے





انجام ہمارا بھی ہو سکتا ہے۔

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَخْرَجْنَا مِنْهُ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ

اے مخاطب کیا تجھے علم نہیں کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا پھر ہم نے اس کے ذریعہ پھل نکالے جن کے رنگ مختلف ہیں اور پہاڑوں کے مختلف حصے ہیں

جُدْدٍ بَيْضٍ وَحُمْرٍ مُّخْتَلِفٍ اَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٍ ۝۵ وَمِنَ النَّارِ وَالدَّوَابِّ وَالْاَنْعَامِ

سفید ہیں اور سرخ ہیں ان کے رنگ مختلف ہیں اور ان میں گہرے سیاہ رنگ والے بھی ہیں اور انسانوں میں اور چوپایوں میں اور جانوروں میں ایسے ہیں

مُخْتَلِفٍ اَلْوَانُ كَذٰلِكَ اِنَّمَا يُخَشِى اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ غَفُوْرٌ ۝۶

جن کے رنگ مختلف ہیں اسی طرح اللہ سے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ غلبہ والا ہے بخشنے والا ہے۔

اِنَّ الَّذِیْنَ یَتْلُوْنَ کِتٰبَ اللّٰهِ وَاقَامُوا الصَّلٰوةَ وَانْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَعَلٰنِیَةً

بلاشبہ جو لوگ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں اور انہوں نے نماز کو قائم کیا اور ہم نے جو کچھ انہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کیا چپکے سے اور ظاہری طور پر

یَرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ ۝۷ لَیُوقِفَهُمْ اُجُوْرُهُمْ وِیَزِیْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ اِنَّہٗ غَفُوْرٌ شَکُوْرٌ ۝۸

یہ لوگ کسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو کسی ہلاک نہ ہوگی تاکہ ان کا رب انہیں پورا سا اجر عطا فرما دے اور اپنے فضل سے اور زیادہ بلاشبہ وہ خوب بخشنے والا ہے بہت قدر دان ہے۔

وَالَّذِیْ اَوْحِیْنَا اِلَیْكَ مِنَ الْکِتٰبِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ یَدَیْہِ اِنَّ اللّٰهَ یَعْبَادُہٗ

اور یہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی ہے بالکل حق ہے جو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے تھیں۔ بلاشبہ اللہ اپنے بندوں کی پوری

لِخَیْرٍ بَصِیْرٌ ۝۹ ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْکِتٰبَ الَّذِیْنَ اصْطَفِیْنَا مِنْ عِبَادِنَا فِیْمَا ظَلَمْنَا لِنَفْسِہٖۤ

خبر رکھنے والا ہے خوب دیکھنے والا ہے پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا سو ان میں سے بعض وہ ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں

وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ۝۱۰ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَیْرِتِ بِاِذْنِ اللّٰهِ ذٰلِکَ هُوَ الْفَضْلُ الْکَبِیْرُ ۝۱۱ جَعَلَتْ

اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو درمیانہ جہت والے ہیں اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو باذن اللہ بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھنے والے ہیں یا اللہ کا بڑا فضل ہے وہ ہمیشہ رہنے کے باعث ہیں

عَدٰیۙنَ یَدْخُلُوْنَہَا یُحْلَوْنَ فِیْہَا مِنْ اَسَاوِرٍ مِّنْ ذَہَبٍ وَّلَوْاْءٍ وَّلِبَاسٌ مِّنْہَا حَرِیْرٌ ۝۱۲

جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے اس میں انہیں سونے کے کنگن اور موتی زیور کے طور پر پہنائے جائیں گے اور اس میں ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ شَکُوْرٌ ۝۱۳ الَّذِیْ اَحْكَمَ اٰدَارَ الْمَقٰمٰتِ

اور وہ کہیں گے کہ سب تعریف اللہ ہی کے لئے ہے جس نے ہم سے غم کو دور فرما دیا۔ بلاشبہ ہمارا رب بڑا بخشنے والا ہے خوب قدر دان ہے جس نے ہمیں

مِّنْ فَضْلِہٖ لَا یَسْتَأْذِنُ فِیْہَا نَصَبٌ وَّلَا یَسْتَأْذِنُ فِیْہَا الْغُیُوْبُ ۝۱۴

اپنے فضل سے رہنے کی جگہ میں نازل فرمادیا ہمیں اس میں نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہمیں اس میں کوئی دشمن پہنچے گی۔

## بارش کے منافع، نیک بندوں کی صفات اور ان کا اجر و ثواب

**تفسیر:** یہ متعدد آیات ہیں، پہلی دو آیتوں میں بعض علوی اور بعض سفلی انعامات کا تذکرہ فرمایا جو اللہ تعالیٰ شانہ کی قدرتِ قاہرہ پر دلالت کرتے ہیں۔

اول تو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، اس پانی کے جہاں بہت سے فائدے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے درخت نکال دیئے، پھر ان درختوں پر پھل لگا دیئے، ان پھلوں کے اقسام بھی بہت ہیں اور ان کو اپنی یعنی رنگ بھی، مزے بھی مختلف ہیں اور ہر قسم میں مختلف قسمیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ بتائی کہ پہاڑوں کے مختلف حصے ہیں، ان کے رنگ بھی مختلف ہیں، بعض سفید ہیں اور بعض بالکل سیاہ ہیں پہاڑوں سے بنی آدم کو مختلف قسم کے منافع حاصل ہوتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے جُسد کی تفسیر معلوم کی گئی تو فرمایا کہ اس سے پہاڑوں کے راستے مراد ہیں، بنی آدم پہاڑوں پر چڑھتے ہیں ان کے راستوں میں سفر کرتے ہیں، منافع حاصل کرتے ہیں۔ غرائب جمع ہے غریب کی، جو بہت زیادہ سیاہ ہو عربی میں اسے غریب کہا جاتا ہے اور سُودُ اسود کی جمع ہے جو سیاہ کے معنی میں آتا ہے، دونوں لفظوں کو ملا کر مبالغہ کا معنی پیدا ہو جاتا ہے اسی لئے اوپر گہرے سیاہ رنگ والے کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ قال صاحب الروح و کثر فی کلامهم اتباع للاسود علی انه صفة له او تاکید لفظی فقالوا اسود غریب کما قالوا بیض یفق واصفر فاقع واحمر قان۔ (تفسیر روح المعانی کے مصنف فرماتے ہیں عرب کے کلام میں الاسود کے ساتھ غریب کا استعمال کثرت سے ہوتا ہے اس طرح کہ غریب اسود کی صفت بنتا ہے یا تاکید لفظی چنانچہ کہتے ہیں اسود غریب جیسا کہ کہا جاتا ہے ”بیض یفق“ بہت ہی سفید اور ”اصفر فاقع“ زرد خالص اور ”احمر قان“ بہت ہی سرخ)

بارش اور پھلوں اور پہاڑوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا کہ انسانوں میں اور چوپایوں میں اور جانوروں میں بھی مختلف اقسام کی چیزیں ہیں ان کی اقسام بھی مختلف ہیں اور انواع بھی اور رنگیں بھی، اس سب میں اللہ تعالیٰ کی صفتِ تخلیق کا مظاہرہ بھی ہے اور انسانوں پر انعامات بھی ہیں انسان جانوروں سے اور جانور انسانوں سے مستفید اور متمتع ہوتے ہیں۔

اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ (اللہ سے علم والے ہی ڈرتے ہیں) جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے خواہ علم لافاق ہو خواہ علم الانفس، خواہ علم المصنوعات ہو خواہ علم الکتاب، یہی لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں کیونکہ علم ذریعہ معرفت ہے جسے جتنی معرفت حاصل ہوگی اسی قدر اپنے خالق و مالک سے ڈرے گا اور معاصی سے باز رہے گا ہاں اگر کوئی شخص علم ہوتے ہوئے بھی اپنے نفس کا اتباع کرے تو وہ گمراہ ہی رہے گا، کما قال اللہ تعالیٰ: اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ الْاِلٰهَةَ هَوٰیۃً وَاَصْلَہُ اللّٰہُ عَلٰی عِلْمِہِ۔

رسول اللہ ﷺ سب سے بڑے عالم بھی تھے اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بھی تھے آپ نے فرمایا: اما واللہ انی لاخشاکم للہ و اتقاکم للہ۔ (رواہ البخاری ج ۲ ص ۷۰۷ و مسلم ج ۱ ص ۴۳۹) (خبردار! اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں)

آیت کے آخر میں فرمایا: إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ (بلاشبہ اللہ عزت والا ہے خوب بخشنے والا ہے)

اس کے بعد نیک بندوں کی تعریف فرمائی اور ان کے اجر و ثواب کا تذکرہ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور پوشیدہ اور ظاہری طور پر ہمارے دیئے ہوئے مال سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ لوگ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی بھی ہلاک نہ ہوگی اُن کی عبادتوں کے اُجور اللہ تعالیٰ انہیں پورے پورے عطا فرمائے گا (جانی عبادتیں ہوں یا مالی) اور انہیں اپنے فضل سے مزید عطا فرمائے گا وہ بہت بخشنے والا بھی ہے کئی کوتاہی کو معاف فرما دے گا اور وہ بڑا قدر دان بھی ہے ہر نیکی کا اجر کم از کم دس گنا کر کے عطا فرمائے گا اسی تجارت میں لگنے میں نفع عظیم ہے جس کے تباہ ہونے کا خطرہ نہیں اور نقصان کا اندیشہ نہیں۔

اس کے بعد قرآن مجید کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے جو کچھ آپ کو وحی بھیجی ہے وہ حق ہے اُن کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی تھیں بلاشبہ اللہ اپنے بندوں کی پوری طرح خبر رکھنے والا ہے پوری طرح دیکھنے والا ہے۔

اس کے بعد اُن بندوں کا تذکرہ فرمایا جنہیں اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی اُن کے بارے میں لفظ اصطفینا ائمن عبادنا فرمایا جس میں یہ بتا دیا کہ جسے اللہ تعالیٰ کی کتاب مل گئی وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے (خواہ عمل کے اعتبار سے اس نے اپنی حیثیت گرا رکھی ہو)

حدیث شریف میں ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے حفظ قرآن کی نعمت عطا فرمادی پھر اُس نے کسی شخص کے بارے میں یہ خیال کیا کہ اُسے مجھ سے افضل چیز عطا کی گئی ہے تو اُس نے سب سے بڑی نعمت کو حقیر جانا (فیض القندیر شرح الجامع الصغیر ج ۶ ص ۷۵)

پھر ان کی تین قسمیں بتائیں کہ ان میں بعض وہ ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں یعنی گناہوں میں مشغول رہتے ہیں اور بعض وہ ہیں جو متوسط درجہ کے لوگ ہیں اور بعض وہ ہیں جو باذن اللہ نیکیوں میں آگے بڑھے ہوئے ہیں یہ وہ حضرات ہیں جو گناہوں سے بھی بچتے ہیں اور فرائض و واجبات کے علاوہ دوسرے نیک کاموں کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔  
ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ (یہ اللہ کا بڑا فضل ہے) معلوم ہوا کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عطا فرمائی ہے اُن میں جو لوگ گنہگار ہیں ان کا بھی اکرام کرنا چاہئے ان کے گناہوں پر نظر نہ کریں بلکہ اللہ کے فضل کو دیکھیں اُس نے انہیں اپنی کتاب دے کر فضل کبیر سے نوازا ہے۔

سنن ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ یہ تینوں قسم کے لوگ ایک ہی مرتبہ میں ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے نوازے ہوئے ہیں اور یہ سب جنت میں ہوں گے۔ (راجع تفسیر سورة فاطر من سنن الترمذی)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آیت بالانمبر پر پڑھی اور رسول اللہ ﷺ کا ارشاد نقل کیا سابقنا سابق مقتصدنا ناج وظالمنا مغفور لہ یعنی ہم میں جو آگے بڑھنے والے ہیں وہ (اجر و ثواب اور نفع و درجات میں) آگے بڑھنے والے ہیں اور جو متوسط طبقہ کے ہیں وہ نجات پانے والے ہیں اور جو ظالم ہیں اُن کی مغفرت ہو جائے گی۔

اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور یوں فرمایا کہ جو سابق بالخیرات ہو گا وہ بلا حساب جنت میں داخل ہو گا اور جو متوسط درجہ کے ہوں گے اُن سے ہلکا سا حساب لیا جائے گا اور

جو اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہوں گے انہیں حساب کے مقام پر روک لیا جائے گا یہاں تک کہ انہیں رنج لاحق ہو جائے گا پھر جنت میں داخل کر دیئے جائیں گے اس کے بعد یہ آیت تلاوت فرمائی وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي اَكْثَبَ عَنَّا الْعَزْنَ (راجع للحدیثین معالم التنزیل ج ۳ ص ۵۷۱)

ظالم اور مقصد اور سابق بالخیرات کی تعیین اور تشریح میں متعدد اقوال ہیں جو روح المعانی و معالم التنزیل میں مذکور ہیں۔ اس کے بعد جنتیوں کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا کہ یہ لوگ ہمیشہ رہنے کے باغچوں میں ہوں گے جن میں انہیں سونے اور موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ یہ مضمون سورۃ النج (رکوع نمبر ۳) میں بھی گزر چکا ہے یہاں یہ اشکال نہ کیا جائے کہ زیور تو عورتوں پر اچھا لگتا ہے مردوں کو کیا زیب دے گا؟ بات یہ ہے کہ ہر جگہ کا ایک ایک مزاج اور رواج ہوتا ہے اہل جنت کا یہ مزاج ہوگا کہ مرد بھی رغبت سے زیور پہنیں گے جیسا کہ دنیا میں بھی راجہ اور بادشاہ پہنتے رہے ہیں شریعت اسلامیہ میں مردوں کو زیور پہننا منع ہے لیکن وہاں ان کے لئے حلال بھی ہوگا اور ان کو مرغوب بھی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کا انعام ہوگا اسی طرح ریشم کو سمجھ لیا جائے کہ مردوں کے لئے اس کا لباس پہننا اس دنیا میں جائز نہیں ہے لیکن جنتی مردوں کو وہاں ریشم کا لباس عطا کیا جائے گا۔

متحدہ صحابہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دنیا میں ریشم کا لباس پہنے گا آخرت میں ریشم کا لباس نہیں پہنے گا۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۳۷۳ از بخاری و مسلم)

اس کے بعد اہل جنت کے شکر گزاری کے کلمات نقل فرمائے: وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي اَكْثَبَ عَنَّا الْعَزْنَ (اور وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ کے لئے سب تعریف ہے جس نے ہم سے غم کو دور فرما دیا) اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ (بلاشبہ ہمارا رب بہت بخشنے والا ہے) اس نے ہمارے گناہوں کو اور لغزشوں کو بخش دیا۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا رَاٰ مِنْكُمْ مَّا لَكُمْ مِنْ فَضْلٍ (جس نے ہمیں اپنے فضل سے رہنے کی جگہ میں اُتار دیا) اس میں یہ بتایا کہ جنت رہنے کی جگہ ہے جس کے بارے میں فرمایا ہے لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا جَوْلًا کہ جنتی وہاں سے کہیں اور منتقل ہونا نہ چاہیں گے۔ اور تعریفاً یہ بھی بتا دیا کہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ جو جنت میں پہنچا۔ اس نے صحیح ٹھکانہ پکڑا جہاں سے کہیں اور جانا ہی نہیں اور نہ اس سے کوئی اچھی جگہ ہے جہاں جانے کا خیال آئے۔

لَا يَسْتَأْذِنُ فِيْهَا النَّصَبُ وَلَا يَسْتَأْذِنُ فِيْهَا الْقُوْبُ (ہمیں یہاں کوئی دُکھ نہیں پہنچے گی اور نہ ہمیں یہاں کوئی تھکن محسوس ہو گی) وہاں آرام ہی آرام ہے کسی طرح کی کمائی کی کوئی حاجت نہیں اس لئے نہ محنت ہوگی نہ مشقت نہ دُکھ ہوگی نہ تھکن سے واسطہ پڑے گا۔ سورۃ الحجر میں فرمایا لَا يَسْتَأْذِنُ فِيْهَا النَّصَبُ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِيْنَ (نہ انہیں وہاں تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے)

**وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوْا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ**

اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لئے دوزخ کی آگ ہے نہ تو ان کی قضا آئے گی کہ وہ مری جائیں اور نہ ان سے اس کا

عَذَابُهَا كَذَلِكَ يُجْزَىٰ كُلُّ كَفُورٍ ۖ وَهُمْ يُصْطَرَّخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا

عذاب ہلکا کیا جائے گا ہر کافر کو ہم ایسی سزا دیا کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ دوزخ میں چلائیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں دوزخ سے نکالنے ہم اُن اعمال کے

غَيْرِ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۖ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا

علاوہ دوسرے عمل کریں گے جو کیا کرتے تھے کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں وہ شخص سمجھ سکتا تھا جو سمجھنا چاہتا اور تمہارے پاس ڈرانے والا آیا تھا

فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن تَصْدِيرٍ ۖ

سو تم کچھ لو سوغالوں کے لئے کوئی بھی مددگار نہیں۔

دوزخیوں کو نہ موت آئے گی نہ اُن کا عذاب  
ہلکا کیا جائے گا نہ اس میں سے کبھی نکلیں گے

**تفسیر:** اہل ایمان کا انعام و اکرام بیان فرمانے کے بعد اہل کفر کی سزایمان فرمائی اور ان کے لئے دوزخ کی آگ میں داخل ہونے اور اس میں ہمیشہ رہنے کا تذکرہ فرمایا نہ تو ان کے بارے میں یہ فیصلہ ہوگا کہ مر جائیں اور نہ اُن کا عذاب ہلکا کیا جائے گا۔ کَذَلِكَ يُجْزَىٰ كُلُّ كَفُورٍ اسی طرح ہم ہر کافر کو جزا دیتے ہیں۔ مزید فرمایا کہ جب اہل کفر دوزخ میں مبتلائے عذاب ہوں گے تو وہاں چھینیں گے اور چلائیں گے اور بارگاہِ خداوندی میں درخواست پیش کریں گے کہ ہمیں اس سے نکال دیجئے ہم پہلے جو عمل کیا کرتے تھے اب ان کے علاوہ عمل کریں گے یعنی آپ کے حکم کے مطابق چلیں گے اللہ جل شلئے کا ارشاد ہوگا کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں فصاحت حاصل کرنے والا فصاحت حاصل کر لیتا اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا نہ تو تم نے اپنی عمر کو نیکیوں میں لگایا اور نہ ہماری طرف سے بھیجے ہوئے رسول اور نبی کی بات مانی جس نے تمہیں سمجھایا اور اُس مصیبت سے ڈرایا جس میں تم آج مبتلا ہو۔ لہذا اب عذاب چکھو اور ظالموں کے لئے کوئی مددگار نہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اُس شخص کے لئے کوئی عذاب باقی نہیں رکھا جس کی عمر میں اتنی ڈھیل دے دی کہ ساٹھ سال تک پہنچا دیا۔ (رواہ البخاری کما فی مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۵۰) اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک پکارنے والا یوں پکارے گا کہ ساٹھ سال کی عمر والے کہاں ہیں؟ (پھر فرمایا) یہی وہ عمر ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۵۱)

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۖ هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ

بلاشبہ اللہ آسمانوں کے اور زمین کے غیب کا جاننے والا ہے بلاشبہ وہ دلوں کی باتوں کا جاننے والا ہے۔ وہی ہے جس نے

خَلِيفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۖ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا عُنْدَ رَبِّهِمْ

تمہیں زمین میں پہلے لوگوں کے بعد آبا فرمایا سو جو شخص کفر اختیار کرے اس کا کفر اسی پر ہے اور کافروں کے لئے ان کا کفر ان کے رب

إِلَّا مَقْتًا ۖ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ۖ قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَ كُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ

کے نزدیک ناراضگی ہی کو بڑھاتا ہے اور کافروں کے لئے ان کا کفر صرف خسارہ ہی میں اضافہ کرتا ہے۔ آپ فرمادیجئے کہ تم جنہیں

مَنْ دُونِ اللَّهِ أُرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَمْ أُرَاتِيَهُمْ

اللہ کے سوا پکارتے ہوں ان کا حال بتاؤ مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین کا کون سا حصہ پیدا کیا کیا آسمانوں میں ان کا کوئی سا جہاں کیا ہم نے

كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْهُ ۚ بَلْ إِنَّ يَعْدُو الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ الْأَعْرُورَ ۖ إِنَّ اللَّهَ

انہیں کوئی کتاب دی ہے کہ یہ اسکی دلیل پر قائم ہوں بلکہ بات یہ ہے کہ ظالم لوگ ایک دوسرے کو صرف دھوکہ کی باتوں کا وعدہ کرتے ہیں۔ بلاشبہ اللہ

يُسِّسُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْ تَرْتَوْكَا ۖ وَلَكِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِ إِذْ

آسمانوں کو اور زمین کو روکے ہوئے ہے کہ وہ ٹل نہ جائے اور اگر وہ ٹل جائیں تو اُس کے سوا ان دونوں کو کوئی بھی تھامنے والا نہیں بلاشبہ

كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ۝

وہ حلیم ہے غفور ہے۔

کفر کا وبال اہل کفر ہی پر پڑے گا کافر آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں آسمانوں اور زمین کو اللہ تعالیٰ ہی روکے ہوئے ہے

**تفسیر:** ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی صفت علم و قدرت کو بیان فرمایا ہے اور مشرکوں اور کافروں کی گمراہی اور بد حالی بیان

فرمائی ہے۔ **اول** تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو آسمانوں کی اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کا علم ہے یعنی جو چیزیں مخلوق کے علم سے غائب

ہیں وہ ان سب کو پوری طرح جانتا ہے **دوم** یہ فرمایا کہ وہ دلوں کی باتوں کو جانتا ہے **سوم** یہ فرمایا کہ تم لوگوں کو اس نے زمین

میں خلیفہ بنایا ہے یعنی تم سے پہلے جو لوگ زمین میں رہتے اور بستے تھے ان کے بعد تمہیں بسادیا سارے انسانوں پر لازم ہے کہ

اس کا شکر ادا کریں اس کی ذات و صفات پر اس کے نبیوں اور کتابوں پر ایمان لائیں لیکن لوگ اکثر کفر اختیار کئے ہوئے ہیں۔

فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ (سو جو شخص کفر اختیار کرے گا اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے) وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا عُنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا

اور کافروں کا کفر انہی کے حق میں مضر ہے جس کا سب سے بڑا ضرر یہ ہے کہ ان کا رب ان سے ناراض ہے اور جیسے جیسے یہ

لوگ کفر میں آگے بڑھتے ہیں برابر پروردگار عالم جل مجدہ کی ناراضگی بڑھتی چلی جاتی ہے کافر خواہ یہ سمجھتے ہوں کہ ہم بڑے

نفع میں ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کا کفر ان کے لئے خسارہ میں اضافہ کا باعث بنتا چلا جا رہا ہے۔



پھر فرمایا کہ یہ جو لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے شریک بنا رکھے ہیں جن کی پوجا کرتے ہیں اور جن کو پکارتے ہیں ان کے بارے میں ان سے دریافت کیجئے کہ ان کا کیا حال ہے انہیں جو تم نے معبود بنایا ہے ان میں کون سی صفت دیکھ رکھی ہے جس کی وجہ سے وہ مستحق عبادت سمجھے گئے؟ انہوں نے زمین کا کون سا حصہ پیدا کیا ہے؟ کیا آسمانوں میں ان کا کچھ سا جھا ہے؟ اس میں سے کوئی بات نہیں ہے! زمین اللہ کی ہے جس پر رہتے سہتے ہو آسمان اللہ کے ہیں جن کے نیچے زندگی گزارتے ہو! یہ سب کچھ جانتے ہوئے غیروں کی عبادت کرنا کون سی سمجھداری ہے۔

اَمْ اَتَيْنَاكُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَاتٍ مِنْهُ (کیا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے جس کی دلیل پر یہ لوگ قائم ہیں) یہ استفہام انکاری ہے مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے جس کی رو سے شرک اختیار کرنے کو درست سمجھتے ہیں۔ بَلْ لَّانْ يَعِدُّ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ الْاَعْدُوًّا (بلکہ ان کی باتوں کا وعدہ کرتے ہیں یعنی ایک دوسرے کو شرک پر جھاتے ہیں اور توحید پر نہیں آنے دیتے اور شرک میں فائدہ بتاتا کر ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ یہ باطل معبود ہماری سفارش کریں گے۔

اس کے بعد اللہ جل شانہ کی قوت قاہرہ ایک اور طریقہ پر بیان فرمائی اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کو اور زمینوں کو تھامے ہوئے ہے ان کی جو جگہ مقرر ہے وہاں سے نہیں ٹل سکتے (اپنے محور ہی میں رہتے ہیں) اور اگر بالفرض اپنی مقررہ جگہ کو چھوڑ دیں تو اُس کے علاوہ کوئی ان کو تھام نہیں سکتا آسمان وزمین اسی کی مخلوق ہیں اُسی نے اُن کی جگہ مقرر فرمائی ہے کسی کو ان میں ذرا سے تصرف کا بھی اختیار نہیں ہے وہی اُن کی حفاظت فرماتا ہے وہی ان کا مالک ہے ان میں جو چیزیں ہیں وہ ان کا بھی خالق و مالک ہے پھر اس کے علاوہ دوسرا کوئی مستحق عبادت کیسے ہو سکتا ہے۔ اِنَّكَ كَانْتَ عَلِيمًا غَفُورًا (بے شک وہ حلیم ہے عذاب دینے میں جلدی نہیں فرماتا غفور بھی ہے) سب کچھ معاف کرنے والا ہے۔

آسمان وزمین کے تھامنے کی تشریح میں یہ جو عرض کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اُن کی جگہ مقرر فرمادی ہے اُس کے علاوہ دوسری جگہ منتقل نہیں ہو سکتے اس معنی کو لینے سے آسمان اور زمین کی حرکت کے بارے میں کوئی اشکال نہیں رہتا وہ اسی جگہ میں رہتے ہوئے حرکت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے مقرر فرمائی ہے دونوں حرکت کرتے ہوں یا ایک متحرک ہو حسب ما یقول اصحاب الفللسفۃ القدیمۃ والجدیدۃ بہر حال اللہ تعالیٰ کی مقرر فرمودہ حد میں رہتے ہیں۔

وَاقْسُمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَیْنِ جَاءَهُمْ نَذِیْرٌ لَّیْکُوْنُنَّ اَهْدٰی مِنْ اِحْدٰی الْاُمَمِ

اور ان لوگوں نے مضبوطی کے ساتھ اللہ کی قسم کھائی کہ اگر ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آجائے تو دوسری امتوں کے مقابلہ میں ہر ایک سے زیادہ ہدایت پانے والے ہوں گے

فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِیْرٌ کَاٰذَمُھُمُ الْاِنْفُوْرُ اِیُّسْتَبْکَارًا فِی الْاَرْضِ وَمَكْرُ السَّیِّئِ وَلَا یَحِیْقُ الْمَلٰٓئِکُ

پھر جب اُن کے پاس ڈرانے والا آ گیا تو اُن کی نفرت زیادہ ہو گئی زمین میں تکبر کرنے اور بُری تدبیریں اختیار کرنے کی وجہ سے اور بُری تدبیر

السَّيِّئِ إِلَّا يَأْهُلُهَا فَمَا يُنْظَرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۖ

کا وبال اسی پر ہے جو یہ کام کرنے سو کیا وہ پرانے لوگوں کے دستور کا انتظار کر رہے ہیں سو آپ ہرگز اللہ کے دستور میں تبدیلی نہ پائیں گے

وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ۝

اور آپ ہرگز اللہ کے دستور میں منتقل ہونا نہ پائیں گے۔

قریش مکہ نے قسم کھا کر کہا کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا  
آ گیا تو ہم دوسروں سے بڑھ کر ہدایت والے ہونگے، پھر  
جب ڈرانے والا آ گیا تو متکبر بن گئے اور حق سے منحرف ہو گئے

**تفسیر:** قریش مکہ مشرک تھے تجارت کے لئے شام جایا کرتے تھے وہاں نصاریٰ کی حکومت تھی اور یہودیوں کا بھی  
انہیں کچھ علم تھا جب انہیں یہ پتہ چلا کہ ان دونوں قوموں نے اللہ کے پیغمبروں کی تکذیب کی ہے تو کہنے لگے کہ یہود و نصاریٰ  
پر اللہ کی لعنت ہو ان کے پاس اللہ کے رسول آئے تو انہیں جھٹلایا ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی رسول  
آ گیا تو ان لوگوں سے بڑھ کر ہدایت پر ہوں گے یہ بات انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی بعثت سے پہلے ہی تھی پھر جب  
آپ کی بعثت ہوئی تو نہ صرف یہ کہ آپ کی تکذیب کی بلکہ آپ کی تکذیب کی اور تفرہ ہی کو اختیار کر لیا اور نفرت اختیار کرنے  
کا باعث یہ تھا کہ ایمان قبول کرنے کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے جو سراسر تکبر تھا یہ لوگ رسول اللہ ﷺ کے خلاف بری  
بری تدبیریں کرتے تھے پھر جو تدبیریں کیں وہ خود اُلٹی انہیں کے گلے پڑیں جن حضرات کو اسلام سے روکتے تھے ان کے  
روکنے میں بھی کامیاب نہ ہوئے اور یہ روکنے والے غزوہ بدر میں مقتول ہوئے اور سارا تکبر دھرا رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بطور  
قاعدہ کلیہ اس کو یوں بیان فرمایا: وَلَا يَحْقِيقُ الْكُفْرُ الْبَاقِيَ إِلَّا يَأْهُلُهَا (اور بری تدبیروں کا وبال ان تدبیر والوں ہی پر پڑتا ہے) یہ  
تکوینی قانون ہے کہ جو شخص کسی کو دکھ دینے کی تدبیریں کرے گا وہ خود اسی پر پڑیں گی عموماً ایسا دیکھا جاتا رہا ہے اور اس  
کے بارے میں یہ جملہ مشہور ہو گیا ہے: مَنْ حَفَرَ بَنِيْرَ لَاحِيْهِ فَقَدْ وَقَعَ فِيْهِ۔ (جو شخص اپنے بھائی کے لئے کنواں  
کھودے وہ خود اسی میں گرے گا)

فَمَا يُنْظَرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ (سو کیا وہ پرانے لوگوں کے دستور کا انتظار کر رہے ہیں) فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۖ

(سو آپ ہرگز اللہ کے دستور میں تبدیلی نہ پائیں گے) وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا (اور آپ ہرگز اللہ کے دستور میں منتقل  
ہونا نہ پائیں گے) یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ کافروں پر عذاب ہو گا خواہ دنیا و آخرت دونوں میں ہو خواہ صرف  
آخرت میں ہو اور یہ بھی دستور ہے کہ جو عذاب کا مستحق ہو اسی کو عذاب ہوتا ہے ایسا نہیں کہ انہیں چھوڑ کر کسی دوسری قوم کو  
عذاب ہو جائے جو مستحق عذاب نہ ہو ان کا ڈھنگ اور طریقہ کار ایسا ہے جیسے عذاب کے منتظر ہوں اور وجہ اس کی عناد اور  
باطل پر اصرار ہے چونکہ عذاب میں مبتلا ہونے کا یقین نہیں اس لئے عذاب کے انتظار میں بیٹھے ہیں انتظار کرنے سے

عذاب سے حفاظت نہ ہو جائے گی آنے والا عذاب آ کر رہے گا۔

اَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكُنْتُمْ اَشَدَّ مِنْهُمْ

کیا وہ لوگ زمین میں نہیں چلے پھرے تاکہ دیکھ لیتے کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جو ان سے پہلے تھے اور وہ ان سے

قُوَّةٌ وَاَمَّا كَانَ اللّٰهُ لِيُجْزِيَهُمْ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ اِنَّهٗ كَانَ عَلِيْمًا قَدِيْرًا ۝۱۰

قوت میں بڑھے ہوئے تھے اور آسمانوں میں اور زمین میں اللہ کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی بلاشبہ وہ جاننے والا ہے قدرت والا ہے۔

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوْا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ اِلٰى اَجَلٍ

اور اگر اللہ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے ان کا مواخذہ فرمائے تو زمین کی پشت پر کسی ایک چلنے پھرنے والے کو بھی نہ چھوڑے اور لیکن وہ ایک میعاد مقررہ تک

مُتَسِّئِيْنَ وَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِعِبَادِهِۦ بَصِيْرًا ۝۱۱

مہلت دے رہا ہے سو جب ان کی مقررہ میعاد آجائے گی تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔

زمین میں چل پھر کر دیکھتے ہیں پھر بھی سابقہ امتوں کے انجام سے عبرت حاصل نہیں کرتے، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مواخذہ فرماتا تو زمین کی پشت پر کسی کو بھی نہ چھوڑتا

**تفسیر:** مکہ والے تجارت کیلئے شام کے اسفار میں جایا کرتے تھے راستہ میں قوم ثمود کی برباد شدہ بستیاں پڑتی تھیں اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہستی (سدوم) کے پاس سے بھی گزر ہوتا تھا اس لئے انہیں یاد دہانی فرمائی، اور فرمایا کہ کیا یہ لوگ زمین میں نہیں چلے پھرے تاکہ ان لوگوں کا انجام دیکھ لیتے جو ان سے پہلے تھے، یعنی جن قوموں پر عذاب آیا اور ہلاک کئے گئے ان کا حال انہیں معلوم ہے؟ ان کی آبادیوں کے نشان دیکھتے ہوئے گزرتے ہیں پھر بھی عبرت حاصل نہیں کرتے، اور عبرت کے لئے مزید بات یہ ہے کہ وہ لوگ ان سے قوت میں بڑھے ہوئے تھے جب وہ ہلاک کر دیئے گئے تو ان کی تو ہستی ہی کیا ہے۔

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُجْزِيَهُمْ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ اور اللہ تعالیٰ کو پوری پوری قدرت ہے جو چاہے کرے اور جسے چاہے عذاب دے آسمانوں اور زمین میں اسے کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی۔

اِنَّهٗ كَانَ عَلِيْمًا قَدِيْرًا (بلاشبہ وہ بڑے علم والا ہے بڑی قدرت والا ہے) کوئی شخص یا کوئی جماعت یہ نہ سمجھے کہ اسے ہمارے کرتوتوں کا علم نہیں ہے اور یہ بھی نہ سمجھے کہ وہ عذاب دینے پر قدرت نہیں رکھتا، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے اُس کی گرفت سے بچ کر کوئی کہیں نہیں جاسکتا۔

سورت کے ختم پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں جلدی نہیں فرماتا، دنیا میں لوگوں کا حال یہ ہے کہ اپنے کفر کی وجہ سے بربادی کے مستحق ہیں اگر اللہ تعالیٰ ان کا مواخذہ فرمائے تو زمین پر کسی چلنے پھرنے والے کو نہ چھوڑے، لیکن اس کے یہاں تاخیر ہے اور ڈھیل ہے اُس نے جو اجل اور میعاد مقرر فرما رکھی ہے جب وہ آئے گی تو عذاب آ جائے گا۔ اور کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ کتنے کافر گزر گئے اور کتنوں نے بد عملی کر لی اُن سب کی فہرست کہاں ہے اور ہر ایک کا مواخذہ کیسے ہوگا جو شخص ایسا خیال کرتا ہے یہ اس کی جہالت کی بات ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ شانہ اپنے ہر بندہ کو دیکھتا ہے اور سب کچھ اس کے علم میں ہے جب مقررہ میعاد آ جائے گی اپنے علم کے مطابق سزا دے گا۔ اسی کو فرمایا: **وَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا** (سو جب اُن کی اجل آ جائے گی تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے)۔

یہاں جو یہ اشکال ہوتا ہے کہ زمین کے باشندوں میں سب کی ہلاکت ہوگی تو اہل ایمان کو بھی شامل ہوگی، وہ ہلاکت میں کیوں شریک کئے جائیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تنگوبنی قانون کے مطابق ہلاک تو سبھی ہوں گے لیکن قیامت کے دن اپنے اپنے اعمال کے مطابق اٹھائے جائیں گے، اہل کفر و دوزخ میں اور اہل ایمان جنت میں جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب نازل فرماتا ہے تو جو بھی لوگ وہاں موجود ہوں ان سب کو عذاب پہنچ جاتا ہے پھر اپنے اپنے اعمال کے مطابق قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ (رواہ البخاری ص ۱۰۵۳)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ایک لشکر کعبہ شریف پر حملہ کرنے کے لئے آئے گا جب وہ میدان میں ہوں گے تو اوّل سے آخر تک سب کوزمین میں دھنسا دیا جائے گا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اوّل سے آخر تک سب کو کیسے دھنسا دیا جائے گا حالانکہ ان میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو خرید و فروخت کے لئے نکلے ہوں گے اور وہ لوگ بھی ہوں گے جو اُن میں شامل نہ ہوں گے آپ نے فرمایا کہ دھنسائے تو جائیں گے سب ہی پھر اپنی اپنی نیت پر اٹھائے جائیں گے۔ (رواہ البخاری ج ۱ ص ۲۸۴)

کہیں لکھا تو نہیں دیکھا لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کے پیش نظر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل ایمان کے لئے یہ ہلاکت باعث اجر و ثواب ہوگی اور محض ایمان و اعمال صالحہ پر جو اجر ملتا ہے اس مجموعی عذاب میں شامل کئے جانے کی وجہ سے مزید اجر ملے گا اور اس تکلیف کو مستقل ثواب کا سبب بنا دیا جائے گا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

وهذا اخر التفسير من سورة فاطر

فی السّابع من ایام ربیع الاول

١٤١٧ھ من الهجرة النبوية علی صاحبها الصلوة والتحية

سُورَةُ يٰسُورَةِ مَكِّيَّةٌ مِنْ ثَلَاثِينَ آيَةً وَمِنْ خَمْسِينَ كُتُوبًا

سورۃ یٰس مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اس میں تراسی آیات اور پانچ رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم والا ہے﴾

یٰسَ ۝ وَالْقُرْآنِ الْحَکِیْمِ ۝ اِنَّكَ لَیْسَ الْمُرْسَلِیْنَ ۝ عَلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ ۝

یٰس قسم ہے قرآن حکیم کی بلاشبہ آپ پیغمبروں میں سے ہیں سیدھے راستے پر ہیں یہ قرآن ایسی ذات کی طرف سے

تَنْزِیْلِ الْعَزِیْزِ الرَّحِیْمِ ۝ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا اُنْذِرَ اَبَاؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ ۝ لَقَدْ

نازل کیا گیا ہے جو بزدل و ہمدست ہے رحم والا ہے تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادوں کو نہیں ڈرایا گیا سودہ غافل ہیں۔ البتہ

حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰی اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا یُؤْمِنُوْنَ ۝ اِنَّا جَعَلْنَا فِیْ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلَٰلًا

یہ بات واقعی ہے کہ ان میں سے اکثر لوگوں پر بات ثابت ہو چکی ہے سودہ ایمان نہ لائیں گے۔ بلاشبہ ہم نے اُن کی گردنوں میں

فَهِیَ اِلٰی الْاَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ ۝ وَجَعَلْنَا مِنْ بَیْنِ اَیْدِیْهِمْ سَدًّا وَّ مِنْ

طوق ڈال دیئے ہیں سودہ اوپر ہی کو رہ گئے ہیں۔ اور ہم نے اُن کے آگے آڑ بنا دی اور اُن کے پیچھے

خَلْفَهُمْ سَدًّا فَاَعْمٰیْنٰهُمْ فَهُمْ لَا یُبْصِرُوْنَ ۝ وَسَوَآءٌ عَلَیْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ

آڑ بنا دی سو ہم نے اُن کو گھیر دیا لہذا وہ نہیں دیکھ سکتے اور ان کے حق میں بات برابر ہے آپ انہیں ڈرائیں

اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا یُؤْمِنُوْنَ ۝ اِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّکْرُ وَخَشِيَ الرَّحْمٰنَ الْغَیْبَ ۝

یا نہ ڈرائیں ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ اُسی شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت کا اتباع کرے اور بن دیکھے جن سے ڈرنے

فَبَشِّرْهُ بِغُفْرٰتٍ وَّاَجْرٍ کَرِیْمٍ ۝ اِنَّا نَحْنُ نُحْیِ الْمَوْتٰی وَنَکْتُبُ مَا قَدُمُوْا وَاَنَّا لَهُمْ

سو آپ اُسے مغفرت کی اور اجرِ کریم کی خوشخبری سنا دیجئے بیشک ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور اُن لوگوں نے جو آگے بھیجا اُسے اور اُن کے نشانوں کو لکھ لیتے ہیں

وَکُلَّ شَیْءٍ اَخْصٰیْنٰهُ فِیْ اِمَامٍ مُّبِیْنٍ ۝

اور ہر چیز کو ہم نے ایک واضح کتاب میں پوری طرح لکھ دیا۔

آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے  
نازل کیا گیا ہے تاکہ آپ اُن لوگوں کو تبلیغ کریں جن  
کے باپ دادوں کے پاس ڈرانے والے نہیں آئے

**تفسیر:** لفظ یونس متشابہات میں سے ہے جس کا معنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، منکرین جو آنحضرت ﷺ کی رسالت کا انکار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی قسم کھا کر اُن کی تردید فرمائی اور فرمایا إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (بلاشبہ آپ پیغمبروں میں سے ہیں) اور مزید فرمایا عَلٰی صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (کہ آپ سیدھے راستہ پر ہیں) آپ کے دشمن جو آپ کے بارے میں غلط باتیں کہتے ہیں اور آپ جس راہ پر ہیں یعنی توحید اور عبودیت اللہ اس سے جو غلط ہیں بدکتے ہیں اُن کا خیال نہ کیجئے اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے کہ آپ صراطِ مستقیم پر ہیں۔

جو لوگ آپ کی رسالت کے منکر تھے اور قرآن کریم کو بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں مانتے تھے اُن لوگوں کی تردید کرتے ہوئے فرمایا: تَنْزِيلَ الْغَزِيرِ الرَّجِيمِ اس میں مصدر مفعول مطلق ہے جو نزل کا حذف کی وجہ سے منصوب ہے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن ایسی ذات پاک کی طرف سے اتارا گیا ہے جو زبردست ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ الْغَزِيرُ فرما کر یہ بتا دیا کہ منکرین چین سے نہ بیٹھیں نڈر نہ ہوں جس نے یہ قرآن نازل فرمایا ہے وہ باعزت ہے غلبہ والا ہے اور انکار پر سزا دینے پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے اور السَّوْجِیمُ فرما کر یہ بتا دیا کہ گرفت میں جو دیر لگ رہی ہے وہ اُس کی شانِ رحمت کا مظاہرہ ہے اس دیر لگنے سے یہ نہ سمجھیں کہ عذاب میں مبتلا ہونا ہی نہیں ہے۔

لَتَنْزِيلُ قَوْمًا مَّا أَتَيْنَا بِهٖمْ آفَافًا وَهُمْ لَا شَاقَّ لَهُمْ فِرَارًا وَلَا بَلَاءًا (آپ کو جو نبوت سے نوازا گیا ہے اور آپ پر جو قرآن مجید نازل کیا گیا ہے یہ اس لئے ہے کہ آپ اُن لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادوں کو نہیں ڈرایا گیا یعنی آپ کے اولین مخاطب اہل مکہ ہیں ماضی قریب میں اُن کے پاس کوئی نئی نہیں آیا جو انہیں ڈراتا ہو تو یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما الصلوٰۃ کی اولاد ہیں انہوں نے انہیں دین حق کی تبلیغ کی تھی توحید سمجھائی تھی شرک سے بچنے کی تاکید کی تھی لیکن بعد میں یہ لوگ کفر اور شرک پر لگ گئے۔ ہذا اذا كانت ما نافية كما هو المتبادر وقال ابن عطية يحتمل ان تكون ما مصدرية تكون نعتاً لمصدر مؤكداً لتلذذ قوماً انداراً مثل اندار الرسل ابائهم الا بعدين۔ (یہ اس وقت ہے جب ما نافیہ ہو جیسا کہ ظاہر ہے اور ابن عطیہ نے کہا ہو سکتا ہے کہ ما مصدریہ ہو کر مصدر مؤکد کی صفت ہو یعنی تاکہ آپ قوم کو ڈرائیں جیسا کہ ان کے دور کے آباء کو رسولوں نے ڈرایا)

فَهُمْ غَافِلُونَ (سو یہ لوگ غافل ہیں) ان کے باپ دادوں کو ڈرانے کے لئے کوئی نئی نہیں بھیجا گیا لہذا وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اب آپ ان کو ڈرائیے اور سمجھائیے۔

پھر فرمایا الْقَوْلُ حَقٌّ (الایہ) جب رسول اللہ ﷺ اہل مکہ کو تبلیغ کرتے تھے تو وہ آپ کی تکذیب کرتے تھے

اور آپ کی بات نہیں مانتے تھے اس سے آپ کو رنج ہوتا تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی کہ ان میں سے اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے یعنی ان کے بارے میں یہ طے ہو چکا ہے کہ عذاب میں جائیں گے۔ مگر یہی طور پر یہ بات طے شدہ ہے کہ اکثر ایمان نہیں لائیں گے لہذا آپ کا رسالت انجام دیں اور ان کے انکار اور عناد سے دلگیر نہ ہوں۔

اس کے بعد مکرین کے ایک عذاب کا تذکرہ فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا فِيْ اَعْيُنِهِمْ اَغْشٰی (الایہ) کہ ہم اُن کی گردنوں میں طوق ڈال دیں گے یہ طوق ٹھوڑیوں تک ہیں (اور ہاتھ بھی اوپر ہی ان طوقوں میں بندھے ہوئے ہوں گے) لہذا ان لوگوں کی کیفیت ایسی ہو جائے گی کہ اُن کے سر اوپر ہی کواٹھے ہوئے رہ جائیں گے بچے کو نہ جھکا سکیں گے۔

علامہ قرطبی (جلد ۱۵ ص ۹) نے بعض حضرات سے آیت کا یہ مفہوم نقل کیا ہے اور بتایا ہے کہ اہل کفر کے ساتھ یہ معاملہ دوزخ میں ہوگا اور سورۃ المؤمن کی آیت کریمہ اِذَا زُلْزِلَتْ اَرْضُنَا فَاَنْفَقْنَاهُمْ وَاَلْسِنَتُهُمْ لَهَا رِجَالٌ لِّیُخْبِرُوْا بِمَا كَانُوْا یَعْمَلُوْنَ سے استدلال کیا ہے بظاہر یہ رائے ٹھیک ہے اس میں مجاز اور تمثیل کا ارتکاب نہیں کرنا پڑتا۔

آیات بالا کا شان نزول: اور صاحب روح المعانی نے بحوالہ دلائل النبوة حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک دن (مسجد میں) بلند آواز سے قرآن مجید پڑھ رہے تھے قریش مکہ کو اس سے تکلیف ہوئی وہ لوگ جمع ہو کر آپ کے قریب آئے تاکہ آپ کو پکڑ لیں لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود اُن کی پکڑ ہو گئی اُن لوگوں کے ہاتھ گردنوں تک پہنچ کر جام ہو گئے اور نظر آنا بھی بند ہو گیا۔ جب یہ حال ہوا تو نبی اکرم ﷺ سے عرض کیا کہ ہم آپ کو اللہ تعالیٰ اور رشتہ داری کے واسطہ دیتے ہیں دعا کیجئے کہ ہماری مصیبت دور ہو جائے آپ نے اُن کے لئے دعا کر دی جس سے اُن کی وہ حالت ختم ہو گئی اور یٰسَ وَالْقُرْآنُ الْحَکِیْمُ سے لے کر اَمْرُکُمْ تَنْذِرُہُمْ لَا یُؤْمِنُوْنَ تک آیات نازل ہوئیں لیکن اُن میں سے ایک شخص بھی ایمان نہ لایا۔

اس قصہ میں یہ تصریح ہے کہ جب اُن لوگوں نے آپ کو پکڑنے کا ارادہ کیا تو اُن کی یہ حالت ہوئی کہ اُن کے ہاتھ گردنوں سے چپک کر رہ گئے۔ اگر دنیا میں بھی ایسا واقعہ ہوا ہو جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے اور آخرت میں اس سے بڑھ کر ہو جائے تو اس میں کوئی منافاة نہیں ہے۔

صاحب روح المعانی نے ایک یہ قصہ بھی لکھا ہے کہ ایک دن ابو جہل نے پتھر اٹھایا تاکہ آپ پر حملہ کرے آپ نماز پڑھ رہے تھے ابو جہل کا ہاتھ گردن تک اٹھا اور وہیں جا کر چپک گیا وہ اپنے ساتھیوں کے پاس آیا کیا دیکھتے ہیں کہ پتھر اُس کے ہاتھ میں اور اس کا ہاتھ گردن سے چپکا ہوا ہے اُن لوگوں نے بڑی محنت اور مشقت سے اس کا ہاتھ گردن سے چھڑایا پھر اُس پتھر کو بنی مخزوم کے آدمی نے لے لیا جب وہ رسول اللہ ﷺ کے قریب پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ کی روشنی ختم کر دی وہ واپس لوٹا تو اس کے ساتھی اُسے نظر نہ آ رہے تھے انہوں نے آواز دے کر اُسے اپنے پاس بلا لیا اب تیسرا شخص اٹھا اُس نے پتھر لیا اور یوں کہتا ہوا چلا کہ میں اُن کا سر پھوڑ دوں گا تھوڑا سا چلا تھا کہ فوراً ایزدھیوں کے بل پیچھے لوٹا یہاں تک کہ کدی کے بل گر پڑا کسی نے کہا ارے تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ بہت بڑا حادثہ ہو گیا وہ یہ کہ میں جب اُن کے قریب گیا تو دیکھتا ہوں کہ وہاں ایک بہت بڑا اونٹ ہے ایسا اونٹ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا یہ اونٹ میرے اور اُن کے درمیان حائل ہو گیا پھر بتوں کی قسم کھا کر کہا اگر میں اُن کے قریب چلا جاتا تو یہ اونٹ مجھے کھائے بغیر نہ چھوڑتا۔



یہ قصہ لکھ کر صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ (اگر اس قصے کو سبب نزول مانا جائے تو) طوق ڈالنا اور آگے پیچھے آڑ بن جانا یہ سب استعارہ ہوگا یعنی وہ تینوں حملہ کرنے والے پیچھے ہٹ گئے اور حملہ نہ کر سکے، ایسے بے بس ہو گئے جیسے کسی کا ہاتھ گردن سے بندھ جائے اور آنکھوں کی روشنی چلی جائے۔

اس کے بعد فرمایا کہ ان لوگوں کے لئے ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہے ان کو ایمان لانا نہیں ہے یعنی یہ لوگ آپ کے انذار کا اثر نہ لیں گے، جو لوگ انذار کا اثر لیتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کا فصاحت قبول کرنے کا مزاج ہے جو حق بات سننے میں اور فکر کرتے ہیں اور وضوح حق کے بعد حق کو مان لیتے ہیں: هَذَا عَلَىٰ أَحَدِ الْقَوْلِينَ۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ مَنْ أَتَبَعَ الذِّكْرَ سے مؤمنین مراد ہیں اور وَيُؤَيِّدُ مَا بَعْدَهُ۔ جو وہ بن دیکھے رحمان سے ڈرتے ہیں وہ رحمان کو رحمن بھی مانتے ہیں لیکن ساتھ ہی نافرمانی اور نفی اور کوتاہی کے سبب سے اس کی گرفت سے بھی ڈرتے ہیں۔

فَبَشِّرْهُ بِغُفْرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ (سو اس شخص کو مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دے دو) وَإِنَّا لَنُحْيِي الْمَوْتَىٰ (الآیۃ) بلاشبہ ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم اُن کے آثار کو یعنی اچھے اور برے اعمال کو لکھ رہے ہیں جو وہ آگے بھیج رہے ہیں اور ہم نے ہر چیز کو واضح کتاب یعنی لوح محفوظ میں پوری طرح محفوظ کر دیا ہے۔

لَفْظًا وَإِنَّا لَهُم اچھے برے تمام اعمال کو شامل ہے اور اعمال کی بجائے آثار کا لفظ لانے میں یہ نکتہ ہے کہ جس کسی نے کوئی ایسا عمل کیا (اچھا ہو یا برا) جس کا اتباع بعد کے آنے والے لوگ کرتے ہیں اور جس سے نفع حاصل کرتے رہے ہیں وہ بھی اس کے عموم میں داخل ہو جائے، جو اپنی نماز خود پڑھی یا قرآن مجید کی تلاوت کی اس کا ثواب تو ملتا ہی ہے لیکن اگر کسی کو نماز سکھا دی، قرآن مجید پڑھا دیا، نماز پڑھنے والوں کے لئے مسجد بنا دی، کوئی دینی کتاب لکھ دی، تو یہ سب آثار میں شامل ہے جب تک فیض جاری رہے گا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ یہی حال معصیتوں، بدعتوں اور بری رسوم کے جاری کرنے کا ہے جس کسی نے یہ چیزیں جاری کر دیں بعد میں عمل کرنے والے کے گناہوں میں ان کا جاری کرنے والا بھی شریک رہے گا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا بیشک اُن چیزوں میں جو مومن کو موت کے بعد پہنچتی ہیں یعنی اُس کا عمل اور اس کی نیکیاں اُن میں ایک تو علم ہے جسے اُس نے حاصل کیا اور پھیلا یا اور اولادِ صالح ہے جسے چھوڑ گیا یا قرآن ورثہ میں چھوڑ گیا یا مسافر خانہ تعمیر کر گیا یا نہر جاری کر گیا یا اپنے مال سے زندگی میں اور تندرستی کے زمانے میں ایسا صدقہ نکال گیا جو مرنے کے بعد اس کو پہنچتا ہے۔ (رواہ ابن ماجہ ص ۲۲)

رسول اللہ ﷺ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جس کسی نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا تو اُسے اُس کا ثواب ملے گا اور اس کے بعد جو لوگ اس پر عمل کریں گے اُسے اُن کے عمل کا بھی ثواب ملے گا اور اُن کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور جس شخص نے اسلام میں کوئی برا طریقہ جاری کیا اُسے اُس کا گناہ ملے گا اور اس کے بعد جو لوگ اس طریقہ پر عمل کریں گے اُن کے عمل کا گناہ بھی اُسے ملے گا اور ان لوگوں کے گناہوں میں سے کچھ کمی نہ کی جائے گی۔ (رواہ مسلم)

بعض حضرات نے وَإِنَّا لَنُحْيِي کے عموم میں مساجد کو جانے آنے کے نشان ہائے قدم کو بھی شمار کیا ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی کے آس پاس جگہ میں خالی ہو گئی تو قبیلہ بنو سلمہ نے ارادہ کیا کہ اپنے دور

والے گھروں کو چھوڑ کر مسجد نبوی کے قریب آباد ہو جائیں رسول اللہ ﷺ کو ان کے اس ارادہ کی خبر ملی تو ارشاد فرمایا کہ اے بنی سلمہ تم اپنے گھروں ہی میں ٹھہرے رہو تمہارے قدموں کے نشان لکھے جاتے ہیں۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۶۸ از مسلم)

وَاصْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿۱۰۸﴾ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ

اور آپ ان کے سامنے بستی والوں کا قصہ بیان کیجئے جبکہ ان کے پاس رسول آئے جبکہ ہم نے ان کے پاس

اثنین فكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَهُكُم مُّرْسَلُونَ ﴿۱۰۹﴾ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا

دو پیامبروں کو بھیجا سنا انہوں نے انہیں جھٹلایا پھر ہم نے تیسرے رسول کے ذریعہ ان لائقیت دے دی ان تینوں نے کہا کہ تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ

بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا كَذِبُونَ ﴿۱۱۰﴾ قَالُوا رَبَّنَا عَلِّمْنَا

تم تو ہماری ہی طرح کے آدمی ہو اور تم نے کچھ بھی نازل نہیں کیا تم تو جھوٹ ہی بول رہے ہو۔ انہوں نے کہا بلاشبہ یہ بات واقعی ہے کہ تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں

إِنَّا إِلَهُكُم مُّرْسَلُونَ ﴿۱۱۱﴾ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿۱۱۲﴾ قَالُوا إِنَّا نَطِّيرُكَ أَنْ يَكُونَ لِمَنْ

اور ہماری ذمہ داری صرف یہی ہے کہ کھل کر بات پہنچادیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ بے شک ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں پتھر مار کر ہلاک کر دیں گے

تَتَهُوْا الزَّجْجِمَ كُمْ وَ لِيَمْسَسَنَّكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿۱۱۳﴾ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ إِنَّ

اور ہماری طرف سے تمہیں ضرور دردناک تکلیف پہنچے گی۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری غصت تمہارے ساتھ ہے کیا اس بات کو تم نے غصت سمجھ لیا کہ تم کو

ذَكَرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿۱۱۴﴾

بھیت کی گئی بلکہ بات یہ ہے کہ تم حد سے بڑھ جانے والے لوگ ہو۔

**ایک بستی میں پیامبروں کا پہنچنا اور بستی والوں کا معاندانہ طریقہ پر گفتگو کرنا**

**تفسیر:** ان آیات میں ایک واقعہ کا تذکرہ فرمایا ہے اور وہ یہ کہ ایک بستی (جس کا نام مفسرین نے انطاکیہ بتایا ہے)

میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو فرستادہ گئے مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ دونوں نبی نہیں تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت

عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے آدمی تھے جو انہوں نے اپنے حواریں میں سے بھیجے تھے چونکہ اللہ تعالیٰ کے ایک رسول نے

انہیں بھیجا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت فرمائی اور إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ فرمایا اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ

حضرات مستقل نبی تھے پہلے دو حضرات تشریف لے گئے اور انہوں نے بستی والوں سے کہا کہ ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے

ہیں ہماری بات سنو دین اسلام قبول کرو اور توحید پر آؤ یہ بات سکر بستی والوں نے انہیں جھٹلایا اور کہا کہ نہیں تم لوگ اللہ

کے رسول نہیں ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے آدمی کو بھیجا جس کے ذریعہ پہلے دو آدمیوں کی تائید کرنا مقصود تھا

اب ان تینوں نے مل کر وہی بات کہی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں تم ایمان لاؤ توحید کو قبول کرو

بستی والوں نے کہا کہ تم کو کیسے اللہ کا فرستادہ مانیں تم تو ہمارے ہی جیسے ہو تم میں ایسی کوئی فضیلت کی بات ہے جس کی وجہ

سے تم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر بنائے گئے۔ تمہارا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی ہے ہم اسے نہیں مانتے ہمارے نزدیک تو رحمن نے تم پر کچھ بھی نازل نہیں فرمایا تم جو یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں یہ جھوٹ ہے۔

اُن تینوں حضرات نے کہا کہ تم مانو یا نہ مانو ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم ضرور ضرورت تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں تمہارے ماننے نہ ماننے سے ہمارے کام پر کچھ اثر نہیں پڑتا ہم نتیجہ کے مظہر نہیں ہیں ہماری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ خوب اچھی طرح واضح طور پر بیان کریں ماننا نہ ماننا یہ تمہارا کام ہے ہستی والے کہنے لگے کہ تمہارا آنا تو ہمارے لئے منحوس ہو گیا ایک تو تمہارے آنے سے ہمارے اندر دو فرقتے ہو گئے کوئی تمہارا مخالف اور منکر ہے اور کوئی تمہارا موافق ہے (اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اُن لوگوں کے انکار کی وجہ سے بطور عذاب بعض چیزوں کا وقوع ہو گیا تھا اس کو انہوں نے نحوست بتایا) گاؤں والوں نے مزید کہا کہ تم اپنی باتیں بس کرو اگر باز نہ آئے تو تمہاری خیر نہیں اگر تم نے اپنی باتیں نہ چھوڑیں تو ہم پتھروں سے مار مار کر ختم کر دیں گے اور اس کے علاوہ بھی ہم تمہیں سخت تکلیف پہنچائیں گے۔

اُن تینوں حضرات نے کہا کہ تم نحوست کو ہماری طرف منسوب کر رہے ہو تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے نہ تم کفر پر جسے نہ پھوٹ پڑتی نہ کوئی اور تکلیف آتی کر تو تمہارے ہیں اور ان کا نتیجہ ہمارے ذمہ لگا رہے ہو ہم نے تو اتنا ہی کیا ہے کہ تمہیں توحید کی دعوت دی ہے اور ایمان قبول کرنے کو کہا ہے اس میں کون سی ایسی بات ہے جسے نحوست کا سبب بنالیا جائے۔ قال صاحب الروح اِنَّ ذِكْرَكُمْ وَوَعظَكُمْ مَا فِيهِ سَعَادَتُكُمْ تَطْيِرُونَ اَوْ تَتَوَعَّدُونَ اَوْ نَحْوَ ذَلِكَ وَيَقْدِرُ مَضَارِعُ اَنْ شِئْتَ قُدْرَتُ مَا ضَيَّا كَتَطْيِرْتُمْ۔ (صاحب تفسیر روح المعانی فرماتے ہیں کیا اس لئے کہ تمہیں اس چیز کی وعظ و نصیحت کی گئی ہے جس میں تمہاری کامیابی ہے تم نحوست کی فال لیتے ہو یا یہ کہ تم ہمیں دھمکیاں دیتے ہو یا اسی جیسی کوئی اور عبارت محذوف ہو سکتی۔ اور فعل محذوف مضارع بھی مانا جاسکتا ہے اور اگر چاہو تو ماضی مان لو جیسے تَطْيِرُونَ کی جگہ تَطْيِرْتُمْ)

اُن تینوں حضرات نے آخر میں فرمایا بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّشْرِكُونَ بلکہ بات یہ ہے کہ تم حد سے آگے بڑھ جانے والے ہو تمہارا حد سے آگے بڑھنا یعنی کفر پر جسے رہنا ان چیزوں کا سبب ہے جنہیں ہماری آمد کی نحوست بتا رہے ہیں۔

یاد رہے کہ اسلام میں نحوست کوئی چیز نہیں ہے تینوں حضرات نے جو یہ فرمایا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے یہ ان کے جواب میں علی سبیل المشاکلہ فرمایا کفر کی وجہ سے جو اُن لوگوں کی کچھ گرفت ہوئی تھی اُسے انہوں نے نحوست بتا دیا تینوں حضرات نے ان کے الفاظ ان پر لوٹا دیئے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے الطیورۃ شرک یعنی بدشگونوں شرک ہے (مشکوٰۃ المصابیح ص ۳۹۲)

وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَاقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ۖ اتَّبِعُوا مَنْ

اور ایک شخص اُن شہر کے دور والے مقام سے دوڑتا ہوا آیا اُس نے کہا کہ اے میری قوم ان فرستادہ آدمیوں کا اتباع کرو

لَا يَسْئَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُّهْتَدُونَ ۖ وَمَالِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۖ

ایسے لوگوں کی راہ پر چلو جو تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتے اور وہ خود راہ ہدایت پر ہیں۔ اور میرے پاس کون سا عذر ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں

ءَاتِخِذْ مِنْ دُونِهِ ٱللَّهَ إِنْ يُرِدْنَ الرِّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا

جس نے مجھے پیدا فرمایا اور تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کیا میں اُس کے سوا ایسے معبود مان لوں کہ اگر رحمن مجھے کوئی ضرر پہنچانا چاہے

يُقَدِّدُونِ ۚ إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلٰلٍ مُّبِينٍ ۚ إِنِّي أَمِنْتُ بِرَبِّكُمْ فَٱسْمِعُونِ ۗ قِيلَ ادْخُلِ

تو ان کی سفارش مجھے ذرا بھی کام نہ دے اور نہ وہ مجھے بچائیں اگر میں ایسا کروں تو صرف گمراہی میں جاؤں گا بیشک میں تمہارے سب پر ایمان لا چکا سو تم میری بات سنو اس سے کہا گیا کہ

ٱلْجَنَّةَ ۚ قَالَ يٰلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ۚ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ۚ

جنت میں داخل ہو جاؤ کہنے لگا کاش میری قوم کو یہ بات معلوم ہو جاتی کہ میرے پروردگار نے مجھے بخش دیا اور مجھے باعزت بندوں میں شامل فرمادیا۔

وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَآءِ ۚ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ ۚ إِن كَانَتْ

اور ہم نے اس کے بعد اُس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نازل نہیں کیا اور نہ ہم اتارنے والے تھے۔ نہیں تھی

ٱلْأَصْحَٰةُ وَٱحِدَةٌ ۖ فَاذْهَبْهُمْ خَالِدُونَ ۚ ۚ مُحْسَرَةٌ عَلَى ٱلْعِبَادَةِ مَا يَأْتِيهِمْ مِّن رُّسُولٍ

مگر ایک چیخ سو وہ بچھ کر رہ گئے۔ افسوس ہے بندوں کے حال پر جب اُن کے پاس کوئی رسول

إِلَّا كَانُوا بِهٖ يَسْتَهْزِءُونَ ۚ ۚ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ

آیا تو انہوں نے ضرور اس کا مذاق بنایا۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم اُن سے پہلے بہت سی امتیں ہلاک کر چکے ہیں بے شک وہ اُن کی طرف واپس

لَا يَرْجِعُونَ ۚ ۚ وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ۚ

نہیں ہوں گے۔ اور یہ سب مجتمع طور پر ہمارے پاس ضرور حاضر ہوں گے

## مذکورہ بستی کے باشندوں میں سے ایک شخص کا پیامبروں کی تصدیق کرنا اور بستی والوں کو توحید کی تلقین کرنا

**تفسیر:** تینوں حضرات بستی والوں کو ہدایت دے رہے تھے اور وہ لوگ ان حضرات سے الجھ رہے تھے اور یوں کہہ رہے تھے کہ تمہارا آنا ہمارے لئے نحوست کا سبب ہے یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ ایک شخص اُس بستی کی ایک جانب سے جو بہت دور تھی دوڑتا ہوا وہاں پہنچ گیا اُس نے تینوں حضرات کی تائید کی اور بستی والوں سے کہا کہ اے میری قوم یہ حضرات ٹھیک فرما رہے ہیں یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں تم ان کی بات مان لو اور ان کا اتباع کرو یہ حضرات ایک تو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں دوسرے تم سے کسی معاوضہ کا سوال نہیں کرتے تیسرے یہ خود ہدایت پر ہیں ان کا عمل ان کے قول کے مطابق ہے۔ (لہذا ان کا اتباع تم پر لازم ہے)

یہ باتیں کہہ کر اُس شخص نے اُن لوگوں کو عبادت خداوندی کی دعوت دی اور اپنے اوپر بات رکھ کر کہا کہ کیا وجہ ہے کہ

میں اُس ذات پاک کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا۔ اس میں یہ بتا دیا کہ جس نے پیدا کیا وہی عبادت کا مستحق ہے جب پیدا فرمانا استحقاقِ عبودیت کی دلیل ہوا تو ضروری ہے کہ تم بھی اللہ ہی کی عبادت کرو میں بھی اُسی کی عبادت کروں اسی لئے آخر میں والیہ ارجع (اور میں اُسی کی طرف لوٹا یا جاؤں گا) نہیں کہا بلکہ وَالَّذِي تَدْعُونَ (اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے) کہا۔ جب اُسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے جس نے پیدا کیا تو اس کی عبادت چھوڑنا یا دوسروں کو اس کی عبادت میں شریک کرنا یہ تو بالکل ہی حماقت اور بیوقوفی کی بات ہے۔

چونکہ اس بستی کے لوگ مشرک تھے اس لئے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے اُس شخص نے مزید کہا: يَا كَذِبِينَ (الذین) (کیا میں اپنے پیدا کرنے والے کے علاوہ دوسرے معبود تجویز کر لوں) یہ جو تم نے اُس کے سوا معبود بنا رکھے ہیں وہ تو بالکل ہی بے حقیقت ہیں اگر رحمن تبارک و تعالیٰ مجھے کوئی ضرر پہنچانا چاہے تو یہ اُس کی بارگاہ میں سفارش کر کے میری کوئی مدد نہیں کر سکتے اور نہ خود مجھے اس ضرر سے چھڑا سکتے ہیں یعنی نہ تو یہ شفاعت کے اہل ہیں اور نہ خود ان میں کوئی قوت اور طاقت ہے اگر رحمان جل مجدہ کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنالوں تو میں کھلی گمراہی میں پڑ جاؤں گا۔ (یہ سب باتیں اُس دور سے آنے والے آدمی نے اپنے اوپر رکھ کر کہیں اور انہیں بتا دیا کہ تم لوگ مشرک ہو کھلی گمراہی میں ہو اور خالق جل مجدہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہیں کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکتے)۔

اس کے بعد اس شخص نے اپنے دین تو حید کا کھل کر اعلان کر دیا کہ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمِعُونِ (بلا شک و شبہ میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا تم میرے اس اعلان کو سن لو) اس اعلان میں بِرَبِّیْ نہیں کہا بلکہ بِرَبِّكُمْ کہا جس میں انہیں تنبیہ کر دی اور یہ بتا دیا کہ جو تمہارا رب ہے وہی مستحق عبادت ہے دوسرے یہ بتایا کہ تم اُسی کی طرف واپس جاؤ گے تیسرے یہ بتایا کہ تم نے جو اس کے علاوہ معبود بنا رکھے ہیں بے حقیقت ہیں چوتھے یہ بتایا کہ تم کھلی ہوئی گمراہی میں ہو اور پانچویں یہ بتا دیا کہ میں نے یہی دین اختیار کیا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کروں تم بھی یہ دین اختیار کر لو۔

معالم التنزیل میں لکھا ہے کہ جب اُس شخص نے یہ باتیں کہیں تو وہ لوگ یکبارہی اُس پر بل پڑے اور اُسے قتل کر دیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اُسے پاؤں سے اتارو نہ کہ اسکی آنتیں نکل پڑیں۔

قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ اللہ تعالیٰ نے اُس کو ایمان اور دعوتِ توحید اور شہادت کا انعام دیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوا کہ جنت میں داخل ہو جا۔

قَالَ يَلَيْكَتِ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ جنت میں داخل ہو کر اس شخص نے کہا کیا اچھا ہوتا کہ میری قوم کو اس کا پتہ چل جاتا جو میرے رب نے میری مغفرت فرمائی اور جو مجھے معزز بندوں میں شامل فرمایا (یہ بات اُس نے آبرو کے طور پر کہی کہ میری قوم کو اللہ کے انعام و اکرام کا پتہ چل جاتا تو وہ بھی مسلمان ہو جاتے)

معالم التنزیل میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب بستی والوں نے اُس آدمی کو قتل کر دیا جو بستی کے آخر والے حصہ سے آیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اُن پر عذاب بھیج دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو اُن کے ہلاک کرنے کا حکم دیا انہوں نے وہاں زور سے ایک چیخ ماری جس کی وجہ سے وہ سب لقمہ اجل بن گئے ان لوگوں کی ہلاکت کے بارے میں فرمایا: وَمَا أَتَيْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ قَرْنِ السَّمَاءِ وَمَا لَنَا أَنْ نَنْزِلَ لَهُنَّ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَالِدُونَ (اور ہم نے اس شخص

کی قوم پر اس کے بعد آسمان سے کوئی لشکر نازل نہیں کیا اور ہم لشکر کے نازل کرنے والے نہ تھے وہ تو صرف ایک چیخ تھی سو اچانک وہ بجھ کر رہ گئے) یعنی مذکورہ ہستی والے جو ہلاک کئے گئے ان کی ہلاکت کے لئے ہمیں کوئی لشکر اور جماعت کبرہ بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی بس ایک چیخ ہی کے ذریعے ہلاک کر دیئے گئے۔ اس میں عبرت ہے دوسرے منکرین و مکذبین کے لئے، کوئی فرد یا جماعت یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے انتقام نہیں لے سکتا اگر وہ انتقام لینا چاہے گا تو العیاذ باللہ اسے دشواری نہ ہوگی نہ اسے کوئی لشکر بھیجنا پڑے گا۔ وہ تو قادر مطلق ہے اس کے صرف کُن کے خطاب سے سب کچھ ہو جاتا ہے جو چیخ بھیجی اس کی بھی ضرورت نہ تھی لیکن حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ انہیں ایک چیخ کے ذریعے ہلاک کر دیا جائے، ایک چیخ آئی اور یہ لوگ بجھے ہوئے رہ گئے بڑے غرور اور طمطراق میں بھرے ہوئے تھے نہ خود رہے نہ جماعت رہی نہ غرور رہا بالکل ایسے ہو گئے جیسے آگ کسی لکڑی کو بجھا کر راکھ بنا دے۔

قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ جو فرمایا ہے اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ بلا حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے اُس شخص کو انہیں میں شامل فرمادیا اور اُسے مزید یہ فضیلت دی کہ وقوع قیامت کا انتظار نہیں کیا گیا ابھی سے جنت میں داخل کر دیا گیا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ کوئی بعید نہیں ہے۔ کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقد رایت رَجُلًا یَتَقَلَّبُ فِی الْجَنَّةِ فِی شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيقِ کَانَتْ تُؤْذِی النَّاسَ۔ (رواہ مسلم ص ۳۲۸) (جیسا کہ حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے جنت میں ایک آدمی کو آزادی سے پھرتے دیکھا جس نے راستہ سے لوگوں کو تکلیف دینے والا درخت کاٹا)

اور بعض حضرات نے قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ کا مطلب یہ لیا ہے کہ اس سے محض بشارت دینا مقصود ہے اور جنت کا داخلہ قیامت کے دن اپنے وقت پر ہوگا اگر یہ قول مراد لیا جائے تو قَالَ یَلْبِثُ قَوْلًا یَعْلَمُونَ کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ موت کے بعد ہی برزخ میں جو حسن سلوک ہوا اُسی سے متاثر ہو کر اُس نے یہ بات کہی۔ وَاللّٰهُ تَعَالٰی اَعْلَمُ اور وَمَا لَنَا نُنْزِلُ کا مطلب یہ ہے کہ مذکورہ ہستی کے ہلاک کرنے کے لئے ہم فرشتوں کو اتارنے والے نہیں تھے کیونکہ ہمیشہ تعذیب اور ہلاکت کے لئے فرشتے نہیں آتے اللہ تعالیٰ کبھی فرشتوں کو اتار دیتے ہیں جیسا کہ غزوہ بدر میں فرشتے نازل کئے گئے اور کبھی نہیں اتارتے، مختلف طریقوں سے ہلاک کیا گیا۔

قال صاحب الروح (ج ۲ ص ۲۳) وَالظَّاهِرَانِ المراد بهذا الجند جند الملائكة ای ما انزلنا لاهلاكهم مَلَائِكَةً مِنَ السَّمَاءِ وَمَا لَنَا نُنْزِلُ وَمَا صَحَّ فِی حُكْمِنَا ان نَنْزِلَ الْجَنْدَ لَا هَلَاكَهُمْ لَمَّا اَنَا قَدَرْنَا لِكُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا حَيْثُ اَهْلَكْنَا بَعْضُ مِنْ اَهْلَكْنَا مِنَ الْاُمَمِ بِالْحَاصِبِ وَبَعْضُهُمْ بِالصِّحَّةِ وَبَعْضُهُمْ بِالْخُسْفِ وَبَعْضُهُمْ بِالْاَغْرَاقِ وَجَعَلْنَا اَنْزَالَ الْجَنْدِ مِنْ خِصَائِصِكَ فِی الْاِتِّصَارِ لَكَ مِنْ قَوْمِكَ وَكَفَيْنَا اَمْرَهُوْلًا بِصِیْحَةِ مَلِكٍ صَاحٍ بِهِمْ فَهَلَكُوا۔ یعنی ان ذلک الرجل فوطب بذلک۔ (صاحب تفسیر روح المعانی فرماتے ہیں ظاہر یہ ہے کہ اس لشکر سے مراد فرشتوں کا لشکر ہے یعنی ہم نے ان کے ہلاک کرنے کے لئے آسمان سے فرشتے نہیں اتارے اور نہ ہی ہم فرشتے اتارنے والے تھے کہ ہماری حکمت میں ان کی ہلاکت کے لئے فرشتوں کا اتارنا صحیح نہیں ہے اس لئے کہ ہم نے ہر چیز کے لئے سبب مقرر کیا ہے جیسا کہ بعض قوموں کو ہم نے پتھر برسا کر

ہلاک کیا بعض کو چیخ سے بعض کو زمین میں دھنسا کر بعض کو پانی میں غرق کر کے ہلاک کیا فرشتے نہیں اتارے، لیکن اب یہ تیری قوم میں تیری مدد کیلئے فرشتوں کا اتارنا تیری خصوصیات میں سے ہے۔ اور ہم نے ان کے لئے ایک فرشتہ کی چیخ کو کافی کر دیا فرشتے نے چیخ ماری اور یہ سب ہلاک ہو گئے۔ یعنی اس آدمی سے خطاب کر کے یہ کہا گیا)

يَحْسِرُ عَلَى الْعِبَادِ (افسوس ہے بندوں کے حال پر) بیان القرآن میں لفظ ”حسرت“ کا ترجمہ افسوس سے کیا ہے لفظ حسرت وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں کوئی نفع مند چیز فوت ہو جائے اور اس پر ندامت اور شرمندگی ہونے لگے۔ چونکہ ذات باری تعالیٰ کے لئے اصلی معنی میں حسرت ہونا محال ہے اسلئے افسوس سے ترجمہ کیا گیا ہے، لیکن احقر کو اس میں بھی اشکال ہے کیونکہ افسوس سے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک بلند و برتر ہے صاحب روح المعانی نے اس موقع پر متعدد اقوال نقل کئے ہیں کہ حسرت کرنے والے کون ہیں اور العباد کون ہیں جن پر حسرت کی گئی، پھر ایک قول یہ لکھا گیا ہے: وجوز ان يكون التحسر منه سبحانه وتعالى مجازاً على استعظام ما جنوه على انفسهم۔ (اور ہو سکتا ہے کہ یہ حسرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجازاً انہوں ان کے جرم کی بڑائی کو ظاہر کرنے کے لئے) پھر چند سطر کے بعد لکھا ہے: وقيل (يا) للنداء والمنادى محذوف و (حسرة) مفعول مطلق لفعل مضمر و (على العباد) متعلق بذلك الفعل اي تاء هؤلاء تحسروا حسرة على العباد۔ (بعض نے کہا ہے یا نداء کیلئے ہے اور منادی محذوف ہے اور حسرة فعل محذوف کا مفعول مطلق ہے اور على العباد اسی فعل محذوف کا متعلق ہے یعنی اے لوگو! ان بندوں پر خوب حسرة کرو) یعنی منادی محذوف ہے اور مطلب یہ ہے کہ اے لوگو! بندوں کے حال پر حسرت کرو ان کے پاس جب کبھی کوئی رسول آیا انہوں نے اس کا مذاق اڑایا اور اپنی آخرت برباد کی۔

صاحب روح المعانی نے اخیر میں لکھا ہے: ولنعل الاوفق للمقام المتبادر الى الافهام ان المراد نداء حسرة كل من يتسائل منه التحسر ففيه من المبالغة مافيه۔ (اور مقام کے زیادہ موافق ذہن کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس سے مراد حسرت کی دعوت ہے ہر اس آدمی کو جو حسرت کر سکتا ہے ایسی صورت میں اس میں مبالغہ ہے) یعنی مقام کے مناسب یہ مطلب زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہر وہ شخص جو حسرت کرنے کا اہل ہے ان لوگوں کے حال پر حسرت کرے جنہوں نے نبیوں کو جھٹلایا اور ان کا مذاق بنایا۔

الَّذِينَ كَفَرُوا أَكْثَرُكُمْ أَهْلًا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ کیا ان لوگوں (یعنی اہل مکہ) نے اس کو نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتیں ہلاک کر دیں (جس کا انہیں علم ہے اور اقرار ہے) اسفار میں جاتے ہیں تو ہلاک شدہ قوموں کے کھنڈر دیکھتے ہیں اگر غور کرتے تو جھٹلانے اور نبیوں کا مذاق بنانے سے بچتے انہیں لا یرجعون یہ ہلاک شدگان ان کی طرف لوٹنے والے نہیں ہیں یعنی جنہیں ہلاک کیا گیا وہ ختم ہو گئے دنیا سے چلے گئے اب انہیں واپس آنا نہیں ہے، جو کچھ محل تعمیر کئے عمارتیں بنائیں بال جمع کیا سب کچھ دھرا رہ گیا نہ پہلی زندگی میں ان چیزوں نے ان کی جان بچائی نہ واپس آ کر ان سے منتفع اور مستفید ہو سکتے ہیں۔

وَأَن كُنَّا جَمِيعًا لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ (اور یہ سب لوگ مجتمع طور پر ہمارے روبرو حاضر کئے جائیں گے) یعنی جو لوگ کفر کی وجہ سے ہلاک کئے گئے ان کا جو دنیا میں ہلاک کیا جانا اور عذاب دیا جانا ہے اسی پر بس نہیں ہے مزید عذاب آخرت میں



دیا جائے گا جو دائمی ہوگا جو لوگ بھی ہلاک کئے جائیں گے وہ سب مجتمع طور پر ہمارے روبرو حاضر ہوں گے، تجتیں قائم ہوں گی پھر دائمی عذاب کی جگہ یعنی دوزخ میں جائیں گے۔

فوائد مستنبطہ از قصہ مذکورہ: تین حضرات مذکورہ ہستی میں دعوت اور تبلیغ کے کام کے لئے گئے اُن کے بارے میں بیان فرمایا کہ پہلے دو حضرات کو بھیجا تھا پھر تیسرا شخص بھی اُن کی تقویت کے لئے بھیجا یا اس سے جماعتی طور پر دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کا ایک طریقہ معلوم ہوا، یوں تو ایک شخص تنہا بھی اپنی بساط کے موافق جتنا چاہے کر سکتا ہے اور بعض مرتبہ مخاطبین کی بدسلوکی کی وجہ سے اُسے بہت زیادہ ثواب بھی مل سکتا ہے لیکن جماعت بن کر لوگوں کے پاس جانے اور انہیں حق کی تبلیغ کرنے اور ایمان اور ایمانیات کی دعوت دینے کے لئے نکل کر لوگوں کے پاس پہنچنے سے بعض مرتبہ نفع زیادہ ہوتا ہے اور فی نفسہ یہ طریقہ بہت مفید ہے۔

قصہ بالا سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو حضرات دینی دعوت کے لئے کہیں جائیں تو مقامی لوگوں کو بھی اُن کی تائید میں کھڑا ہونا چاہئے جیسا کہ مذکورہ ہستی کے دور دراز حصہ سے آ کر ایک شخص نے اصحاب ثلاثہ کی تائید کی اس سے دعوت دینے والے حضرات کو تقویت ہوتی ہے۔

ان حضرات کے قصہ سے دو باتیں اور مزید معلوم ہوئیں، اول یہ کہ دور دراز سے جو شخص آیا اُس نے خطاب کی ابتداء کرتے ہوئے یا تو تم کہا پھر یوں کہا اَنْتُمْ مِّنْ اٰیٰتِنَا اَنْتُمْ اَجِدُوْا (کہ اے میری قوم تم اُن لوگوں کا اتباع کرو جو کسی معاوضہ یا اجرت کا سوال نہیں کرتے) وَهُمْ مُّهْتَمُّوْنَ (اور وہ لوگ خود بھی ہدایت پر ہیں) معلوم ہوا کہ جو لوگ دعوت کا کام کہیں لے کر جائیں وہ بغیر کسی دنیاوی غرض کے دعوت کے کام کے لئے نکلیں اور جن لوگوں کے پاس پہنچیں اُن سے کسی قسم کا ذرا سا بھی کوئی لالچ نہ رکھیں نہ دعوت و ضیافت کا نہ روٹی پانی کا نہ بوریا اور بستر کا اپنا خرچہ خود ہی کریں۔ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کا یہ خاص وصف تھا کہ وہ اپنے دعوت کے کام کا ثواب صرف اللہ تعالیٰ سے چاہتے تھے مخاطبین سے ذرا سی بھی نہ امید رکھتے تھے نہ اُن سے کچھ طلب کرتے تھے ان حضرات کا فرمانا یہ تھا

وَمَا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِيْ رَّبِّ الْعٰلَمِیْنَ (اور میں تم سے توحید کی دعوت پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا میرا اجر صرف اللہ کے ذمہ ہے) سورہ سبا میں ہے: قُلْ مَا اَسْأَلُكُمْ مِنْ اَجْرٍ فَمَا اَنْتُمْ اَعْمٰی (اے علی اللہ) آپ فرما دیجئے کہ میں نے جو کچھ کوئی عوض تم سے طلب کیا ہو تو وہ تمہارے ہی لئے ہے میرا اجر صرف اللہ پر ہے۔ سورہ ص کے آخر میں فرمایا: قُلْ مَا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ وَّ اَنَا مِنَ الْمُسْكِلِیْنَ (آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے اپنے دعوت کے کام پر کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا اور میں بناوٹ کرنے والوں میں سے نہیں ہوں)

دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جو لوگ ہدایت کی دعوت دیں وہ خود بھی ہدایت یافتہ ہوں اگر خود بھی ہدایت پر ہوں گے تو مخاطبین اُن کی بات کا اثر جلدی لیں گے اور ان میں سے کوئی شخص یوں نہ کہہ سکے گا کہ نکلے ہو دوسروں کو بتانے اور دینی اعتبار سے تمہارا اپنا حال پلپلا ہے۔

داعی حق کو مخاطبین سے بات کرنے کا اسلوب بھی ایسا اختیار کرنا چاہئے جسے اُن کے کان خوشی سے سن لیں اور قلوب گوارا کر لیں۔ مذکورہ بالا ہستی کا جو شخص دور سے دور آہوا آیا تھا ایک تو ہستی والوں کا یسا قوم کہہ کر اپنا یا اور یہ بتایا کہ تم اور

میں ایک ہی قوم کے افراد ہیں اُنکے ذہنوں کو قریب کرنے کیلئے یہ بتایا کہ میں تمہیں میں سے ہوں۔

پھر یہ صاحب جب اصحاب ثلاثہ (تینوں فرستادوں) کی تائید سے فارغ ہوئے تو اپنے اوپر رکھ کر یوں کہا: وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي (اور کیا ہوا کہ میں اُس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا فرمایا) وہ شخص خود توحیدیت پر تھا، موصوف تھا اور جو مخاطب تھے وہ مشرک تھے، لیکن بات کرنے میں منتظم کا صیغہ استعمال کیا کہ مجھے کیا ہوا جو میں اپنے خالق کی عبادت نہ کروں حالانکہ بظاہر یوں کہنا چاہئے تھا وَمَا لَكُمْ لَا تَعْبُدُونَ الَّذِي فَطَرَكُمْ کہ تمہیں کیا ہوا کہ اُس ذات کی عبادت نہیں کرتے جس نے تمہیں پیدا کیا، خطاب اُن سے کیا بات اپنے اوپر رکھی اور توحید کی دلیل بھی بتادی اور شرک کی تردید بھی کردی کہ جس نے پیدا کیا ہے صرف وہی مستحق عبادت ہے اور اُس کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا کسی بھی طرح درست نہیں ہے کیونکہ اُس کی صفت خالقیت میں کوئی بھی شریک نہیں اور چونکہ اصل تبلیغ مخاطبین ہی کو کرنی تھی اس لئے آخر میں وَالْيَه ارْجِعْ نہیں کہا (کہ میں اُس کی طرف لوٹایا جاؤں گا) بلکہ وَالْيَه ارْجِعُونَ کہا کہ تم اُس کی طرف لوٹائے جاؤ گے اب تم سمجھ لو کہ تمہارا کیا حال بنے گا، شرک کی پاداش میں سزا بھگتنا ہے تو تم جانو۔

سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے صاحب موصوف نے کہا اِنِّيْ اِذَا لَقِيتُ صَلَّيْتُ مُبِينًا (اگر میں اپنے خالق کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے لگوں تو کھلی ہوئی گمراہی میں پڑ جاؤں گا) یہ بات بھی اپنے اوپر رکھ کر کہی اور مخاطبین کو بتادیا کہ دیکھو تم مشرک ہو اور کھلی ہوئی گمراہی میں ہو۔

آخر میں کہا اِنِّيْ اَمْسُتُ بِرَبِّكُمْ فَلَا تُمْنُونَ (بلاشبہ میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا سو تم میری بات سنو) اس میں اپنے ایمان کا واضح طور پر اعلان کر دیا اور اس میں بھی ان کو ایمان کی دعوت دیدی اَمْسُتُ بِرَبِّيْ کے بجائے اَمْسُتُ بِرَبِّكُمْ کہا اور یہ بتادیا کہ جو تمہارا پروردگار ہے اسی پر ایمان لانا اور اسی کی عبادت کرنا لازم ہے پرورش تو کرے خالق اور مالک جس میں اس کا کوئی شریک نہیں اور عبادت دوسروں کی کی جائے یہ تو ہلاکت اور ضلالت کی بات ہے۔

بات یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی رضا کے لئے دعوت و ارشاد کا کام کرتے ہیں ناصح اور امین ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اُن کے قلوب میں اس کا طریقہ ڈال دیتے ہیں اور اُن کی زبانیں حسن اسلوب، حسن اداء اور عمدہ سلیقہ سے متصف ہو جاتی ہیں۔

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَن يَّشَآءُ -

وَاٰیَةُ الْاَرْضِ الْمِيْتَةُۙ اَحْيَيْنٰهَا وَاَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّاۙ مِّنْهُۥ يَاْكُلُوْنَ ۝۱۰ وَجَعَلْنَا فِيْهَا

اور ان لوگوں کے لئے ایک نشانی مردہ زمین ہے ہم نے اُسے زندہ کیا اور ہم نے اُس سے غلے نکالے سو وہ اس میں سے کھاتے ہیں اور ہم نے اس میں

جَعَلْنَا مِنْ تَحْتِهَاۙ نَخِيْلًاۙ وَّاَعْنَابًاۙ وَفَجَّرْنَا فِيْهَا مِنَ الْعُيُوْنِ ۝۱۱ لِّیَاْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهَاۙ وَمَا

مجموروں کے اور انگوروں کے باغ پیدا کئے اور ہم نے اُس میں چشمے جاری کر دیئے تاکہ وہ اس کے پھلوں سے کھائیں اور اسے اُن کے ہاتھوں

عَمِلَتْهُۥ اَیْدِیْهِمْۙ اَفَلَا یَشْكُرُوْنَ ۝۱۲ سُبْحٰنَ الَّذِیْۤ اَخْلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَاۙ مَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُۙ

نے نہیں بنایا سو کیا وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے زمین سے پیدا ہونے والی چیزوں سے ہر قسم کی چیزیں پیدا فرمائیں

## وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۲۹﴾

اور ان لوگوں کی جانوں میں سے اور ان چیزوں میں سے جنہیں یہ لوگ نہیں جانتے۔

مردہ زمین کو زندہ فرمانا اور اس میں سے کھیتیاں اور پھل پیدا فرمانا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بعض مظاہرے ہیں،

**تفسیر:** اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہرے تو بہت ہیں اور کثیر تعداد میں ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے کمال قدرت پر دلالت کرتی ہیں اللہ کی نشانیوں میں سے زمین بھی ہے زمین کا وجود اور پھیلاؤ اور اس پر جو کائنات آباد ہے ان سب کا وجود اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں انہیں نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ زمین مردہ ہو جاتی ہے اس میں کوئی سبزی اور گھاس پھوس باقی نہیں رہتا، پھر اللہ جل شانہ پانی برسا دیتے ہیں اور اس پانی کے ذریعے زمین کو زندہ فرما دیتے ہیں پانی برسا زمین زندہ ہو گئی کسانوں نے بیج ڈالا تو کھیتی ظاہر ہو گئی آگے بڑھی بالیں نکلیں ان میں دانے پیدا ہوئے پھر وہ پک گئے کائی گئیں غلے نکلے پھر لوگوں نے ان کو غذا بنایا یہ تو سلسلہ کھیتی کا ہے اور کھیتی کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں بہت سارے باغ بھی پیدا فرمائے ہیں ان میں مختلف قسم کے درختوں کے باغ ہیں۔ آیت بالا میں انگوروں اور کھجوروں کے باغوں کا تذکرہ فرمایا، کھجور اور انگور یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں ان میں بڑی غذائیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چشمے بھی پیدا فرمادیئے ہیں جن کا پانی میٹھا ہوتا ہے بارش نہ ہو تو ان چشموں سے کھیتوں کو اور باغوں کو سیراب کر دیا جاتا ہے جس طرح کھیتوں سے پیدا ہونے والے غلوں سے خوراک حاصل کرتے ہیں اسی طرح درختوں کے پھل بھی غذائیت کا کام دیتے ہیں اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ان کے میوہ جات بھی بنائے جاتے ہیں۔

کھیتوں اور باغوں کا تذکرہ فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا: وَمَا يَكْفُرُهُمْ إِلَّا نَجْمُهُمْ کہ یہ جو چیزیں ہم نے پیدا کی ہیں انہیں ان کے ہاتھوں نے پیدا نہیں کیا یہ سب چیزیں ہماری ہی بنائی ہوئی ہیں ان نعمتوں کا شکر کرنا لازم ہے اَلَا كَيْفَ يَكْفُرُونَ کیا پھر بھی شکر ادا نہیں کرتے۔

سُبْحٰنَ الَّذِیْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا (الایۃ) یعنی زمین سے جو بھی چیزیں پیدا ہوتی ہیں سب اُس ذات نے پیدا فرمائی ہیں جو بالکل بے عیب ہے ہر نقص اور ہر کمی کوتاہی سے پاک ہے یہ چیزیں جو زمین کی پیداوار ہیں ان میں طرح طرح کے انواع و اقسام ہیں اور خود انسانوں کی جانوں میں بھی ازواج ہیں یعنی کچھ مذکر ہیں اور کچھ مؤنث ہیں اپنی جانوں کو اور زمین کی پیداوار کو تو لوگ جانتے ہیں ان کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جو بروجر میں پھیلی ہوئی ہیں درندے ہیں چرندے ہیں دریائی جانور ہیں ان میں بھی مختلف قسم کے انواع و اقسام ہیں وَذٰلِكَ مِّنْ صَّنْعِ اللّٰهِ تَعَالٰی لَا دَخَلَ فِیْهِ لَغْوٌ ۙ سُبْحٰنَہٗ وَتَعَالٰی۔

انسان مل جوتے اور بیج ڈالنے اور ٹریکٹر چلانے کی کچھ کوشش تو کر لیتے ہیں لیکن پیدا فرمانا زمین سے نکالنا، بڑھانا، پھل پھول کے لائق بنانا دانہ نکالنا پھر شمرات ظاہر ہونا یہ سب اللہ تعالیٰ شانہ کی قدرت اور تخلیق اور ایجاد سے ہے۔

وَإِلَهُمُّ اللَّيْلُ نَسَخْنَاهُ مِنَ النَّهَارِ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ ۝ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ

اور ان کے لئے ایک نشانی رات ہے ہم اس سے دن کو کھینچ لیتے ہیں سو وہ اچانک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا ہے یہ اس کا

تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝ وَالْقَمَرُ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ۝ لَا

مقررہ کیا ہوا ہے جو زبردست ہے علم والا ہے۔ اور اس نے چاند کے لئے منزلیں مقرر کر دیں یہاں تک کہ وہ گھوڑی ٹہنی کی طرح رہ جاتا ہے نہ

الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ۝

تو سورج کی مجال ہے کہ چاند کو پکڑ لے اور نہ رات دن سے آگے بڑھ کر پہلے آ سکتی ہے اور سب ایک ایک دائرہ میں تیر رہے ہیں۔

## رات دن اور شمس و قمر اللہ تعالیٰ کے مظاہر قدرت میں سے ہیں

**تفسیر:** آیات سفلیہ بیان فرمانے کے بعد آیات علویہ کا بیان شروع ہو رہا ہے رات اور دن کا تعلق چونکہ سورج کے طلوع اور غروب سے ہے اس لئے ان دونوں کو بھی آیات علویہ میں ذکر فرمایا ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے لئے رات بھی ایک نشانی ہے رات کے آنے جانے سے بھی اپنے خالق کو پہچان سکتے ہیں سب کو معلوم ہے کہ رات کے آنے جانے میں صرف اللہ تعالیٰ کے حکم تکوینی کو دخل ہے فرمایا: نَسَخْنَاهُ مِنَ النَّهَارِ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ (ہم اس سے دن کو کھینچ لیتے ہیں سو وہ اچانک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں) یعنی جس جگہ روشنی ہوتی ہے اور دن ہوتا ہے اُس جگہ سے ہم روشنی کو کھینچ لیتے ہیں جب روشنی ختم ہو جاتی ہے تو دن ختم ہو جاتا ہے اور رات آ جاتی ہے دن گیارہ رات آئی اور لوگوں پر اندھیرا چھا گیا اب ان میں سے کسی میں بھی یہ طاقت نہیں ہے کہ رات کو ختم کر کے دن کی روشنی لے آئے جس نے رات کو پیدا فرمایا وہی دن کو پیدا فرماتا ہے۔

سورج کی رفتار میں مظاہر قدرت ہے: وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا (اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا ہے) سورج بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اس کا وجود مستقل نشانی ہے اور اس کی روشنی مستقل نشانی ہے پھر اس کا اپنے ٹھکانہ کے لئے چلنا یہ بھی مستقل نشانی ہے اس کی رفتار اور اس کے محور پر چلنا ادھر ادھر نہ ہونا یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت قاہرہ کی نشانی ہے۔ فَلِذَا تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (یہ اس کا مقرر کیا ہوا ہے جو زبردست ہے علم والا ہے) سورج پابند ہے کہ اپنے محور پر چلے اور اسی رفتار پر چلے جو اس کی رفتار مقرر ہے گریوں کے زمانہ میں سورج خط استواء پر چلتا ہے اور سردیوں میں ہٹ جاتا ہے اور دوسرا محور اختیار کر لیتا ہے اس کا جو راستہ خالق جل مجدہ کی طرف سے طے کر دیا گیا ہے اُس کے خلاف نہیں چل سکتا۔

سورج کے مستقر یعنی ٹھکانہ کا کیا مطلب ہے۔ بعض لوگوں نے بلاوجہ اسکو جاز پر محمول کیا ہے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک سال سے دوسرے سال کے ختم تک اس کا جو دور ہے اسی حد معین کا نام مستقر ہے اور بعض حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ لام تعلیلیہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ چونکہ اُسے اپنے مستقر کے مشارق اور مغارب پر

۱۔ قال صاحب الروح ای نکشف ونزیل الضومن مکان اللیل وموضع القاء ظلّه وظلمته وهو الهراء فالنهار عبارة عن الضوء اما على التحجوز او على حذف المضاف وقوله تعالى (منه) على حذف مضاف وذلك لأن النهار واللیل عبارتان عن زمان کون الشمس فوق الافاق وتحتہ ولا معنى لكشف احدهما عن الآخر (الی اخر ما ذکر)

پہنچتا ہے اسلئے چلتا رہتا ہے اس کی ایک حد مقرر ہے وہاں تک پہنچنے اور پھر آگے بڑھنے کو مستقر فرمایا۔ اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ بارہ برجوں میں مخصوص طریقہ پر ٹھہرنا اور پھر آگے بڑھنا یہ مستقر میں پہنچنا ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ مستقر اسم زمان ہے اور مطلب یہ ہے کہ اس کے مسلسل چلتے رہنے کا جو ایک وقت مقرر ہے اس وقت تک چلتا رہے گا اور جب قیامت قائم ہوگی تو اس کی رفتار ختم ہو جائے گی۔

سورج کا سجدہ کرنا: ان سب باتوں کی بنیاد محض احتمالات ہیں صحیح بات وہ ہے جو حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے (ایک دن مجھ سے) سورج چھپ جانے کے بعد فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ کہاں جاتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں اس پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک یہ چلتے چلتے عرش کے نیچے پہنچ کر سجدہ کرتا ہے اور حسب عادت مشرق سے طلوع ہونے کی اجازت چاہتا ہے اور اسے اجازت دے دی جاتی ہے اور ایسا بھی ہونے والا ہے کہ ایک روز یہ سجدہ کرے گا اور اس کا سجدہ قبول نہ ہوگا اور (مشرق سے طلوع ہونے کی) اجازت چاہے گا تو اجازت نہ دی جائے گی اور کہا جائے گا کہ جہاں سے آیا ہے وہیں واپس لوٹ جا چنانچہ سورج (واپس ہو کر) مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا۔ پھر فرمایا کہ وَاللّٰهُمَّ تَجَرَّبْنِيْ مِّنْهُنَّ لَعَلَّآ (سورج اپنے ٹھکانے کو جاتا ہے) کا یہی مطلب ہے کہ (اپنے مقررہ ٹھکانے تک جا کر مشرق سے نکلتا ہے) اور فرمایا کہ اس کا ٹھکانا عرش کے نیچے ہے۔ (بخاری و مسلم)

حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ سورج چلتا ہے اپنے مستقر پر جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے آگے بڑھنے اور طلوع ہونے کی اجازت مانگتا ہے جب اجازت ملتی ہے تو وہ آگے بڑھتا ہے اور طلوع ہوتا ہے ایک وہ وقت بھی آئے گا جب وہ آگے بڑھنے کی اجازت طلب کرے گا تو اجازت نہ دی جائے گی اور واپس پیچھے لوٹنے کا حکم ہوگا چنانچہ وہ واپس پیچھے لوٹ جائے گا۔ یہاں لوگوں نے یہ اشکال کیا ہے کہ آلاتِ رصد یہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی حرکت کسی وقت بھی ختم نہیں ہوتی برابر چلتا رہتا ہے اس کا اصل جواب تو یہ ہے کہ حدیث شریف کی تصریح کے بعد اس کے خلاف کوئی قول معتبر نہیں پھر کیا یہ ضروری ہے کہ پورے عالم کا ہر جگہ کا طلوع اور غروب مراد ہو ممکن ہے کہ خاص مدینہ منورہ اور اس کے محاذی نقطہ غروب والے مقامات کا غروب مراد ہو اور یہ سجدہ والا سکون ایسا خفیف ہو جس کا آلاتِ رصد یہ سے ادراک نہ ہوتا ہو۔

بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے حرکت سنو یہ بھی مراد ہو سکتی ہے یعنی ہر سال کے ختم پر وہ اپنے مستقر پر جاتا ہے پھر سجدہ کرتا ہے اور طلوع ہونے کی اجازت لیتا ہے لیکن یہ اس مفہوم کے خلاف ہے جو حدیث شریف سے متبادر ہوتا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم باسراہ و ما اودع فی کتابہ۔

فائدہ: سورج کا چلنا تو آیت کریمہ سے ثابت ہوا جس کا انکار کفر ہے رہی یہ بات کہ زمین چلتی ہے یا نہیں اس کے بارے میں قرآن مجید ساکت ہے اور سورہ نمل میں جو اَفَنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا فرمایا ہے اس سے قطعی طور پر زمین کے عدم تحرک پر واضح دلالت نہیں ہے کیونکہ قَرَارًا کا ایک یہ معنی بتایا گیا ہے کہ وہ اس طرح حرکت نہیں کرتی کہ اس پر انسانوں کا رہنا مشکل ہو جائے جسے سورہ لقمان میں وَالْفِیْ فِی الْاَرْضِ رَوٰیہِیْ اَنْ یَّمْدَکَہُمْ میں بیان فرمایا ہے۔

منازلِ قمر کا تذکرہ: یہ بتانے کے بعد کہ آفتاب کا اپنے مستقر تک جانا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے چاند کے بارے میں فرمایا وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰہُ مَنَازِلَ حَتّٰی عَادَ الْغُرُوْحُوْنَ الْاَوَّلٰی (اور ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کیں یہاں تک کہ وہ گھجور کی پرانی

نہی کی طرح رہ جاتا ہے) یعنی جس طرح مچھوڑ کی پرانی ٹہنی ٹیڑھی ہو جاتی ہے اسی طرح مہینے کے اوّل میں اور آخر میں نظر کے سامنے بظاہر خمدان نظر آتا ہے چاند کی جو منزلیں اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہیں ترتیب کے ساتھ انہیں میں چلتا رہتا ہے۔

سورج چاند کو نہیں پکڑ سکتا: اس کے بعد چاند اور سورج کی رفتار اور رات اور دن کی آمد کے نظام بے مثال کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الْيَلُ سَابِقُ النَّهَارِ (کہ نہ سورج کی یہ مجال ہے کہ چاند کو جا کر پکڑ لے اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے) مطلب یہ ہے کہ آفتاب رات کے ٹوٹنے سے پہلے چاند کے منور ہونے کا وقت ہے۔

اور دن جتنا وقت مقرر ہے اُس وقت کے ختم ہونے سے پہلے رات نہیں آ سکتی رات آگے بڑھ کر دن کا کچھ حصہ اپنے اندر لے لے اور مقررہ نظام کے خلاف دن گھٹ جائے اور رات بڑھ جائے ایسا کوئی اختیار نہ رات کو ہے نہ دن کو ہے وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (اور سب ایک ایک دائرہ میں تیر رہے ہیں) فلک گول چیز کو کہتے ہیں جس کا ترجمہ دائرہ سے کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ چاند اور سورج کی حرکت متدیر ہے۔

وَاِیَّاهُمْ اَنَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفَلَكِ الْمَشْهُونِ ۝۱۱ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ۝۱۲

اور ان لوگوں کے لئے ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ اور ہم نے ان کے لئے کشتی جیسی چیزیں پیدا کیں جن پر یہ لوگ سوار ہوتے ہیں۔

وَاِنْ تَسْأَلُهُمْ فَلَا ضَرَرَ مِنْهُمْ وَلَا نَفْعَ لَهُمْ ۝۱۳ اِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا ۝۱۴

اور اگر ہم چاہیں تو انہیں ڈوبویں سوال کی کوئی بھی فرباد رکھنے والا نہ ہو اور نہ انہیں چھٹکارا دیا جائے۔ مگر یہ کہ ہماری مہربانی ہو جائے اور ایک وقت مقررہ تک فائدہ

حِينَ ۝۱۵ وَاِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ اَيْدِيكُمْ وَما خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝۱۶

دینا منظور ہو۔ اور جب اُن سے کہا جاتا ہے کہ تم اس سے ڈرو جو تمہارے آگے ہے اور جو پیچھے ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔

وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ اٰیَةٍ مِنْ اٰیَاتِ رَبِّهِمْ اِلَّا اَكْفُؤْا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ۝۱۷ وَاِذَا قِيلَ

اور اُن کے رب کی نشانیوں میں سے جو نشانی بھی اُن کے پاس آتی ہے اُس کی طرف سے اعراض کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اور جب اُن سے کہا

لَهُمْ اَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللهُ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اَنْفِعُكُمْ مَنْ لَوْ يَشَاءُ

جاتا ہے کہ اُس میں سے خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے تو کافر لوگ اہل ایمان سے کہتے ہیں کہ کیا ہم لوگ اُن لوگوں کو کھلائیں جنہیں

اللَّهُ اَعْزَمُ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝۱۸

اللہ چاہے تو کھلا دے بات یہی ہے کہ تم کھلی ہوئی گمراہی میں ہو

کشتی اللہ کی نعمت ہے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے اور ڈوبنے سے بچاتا ہے

تفسیر: ان آیات میں کشتی کی سواری کا ذکر ہے کشتیوں کا دریاؤں میں چلنا (مطلق کشتی ہر چھوٹے بڑے جہاز کو شامل

ہے) انسانوں کا ان پر سوار ہونا اور سامان لادنا ایک برا عظم سے دوسرے برا عظم تک سفر کرنا اس میں اللہ تعالیٰ کا انعام عظیم بھی ہے اور قدرت قاہرہ پر دلالت بھی ہے۔ کشتی کی سواری کے ساتھ یوں بھی فرمادیا۔ وَحَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نَسْلِهِ مَا يَرْتَدَّ (اور ہم نے ان کے لئے کشتی جیسی ایسی چیزیں پیدا فرمائیں جن پر یہ لوگ سوار ہوتے ہیں) یہ سواریاں گھوڑے، بچر اور گدھے ہیں جن کا سورۃ النحل میں ذکر ہے۔ وَالنَّحْلَ وَالْعِجْلَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً اور اب توریل گاڑی اور پٹرول سے چلنے والی گاڑیاں اور ہوائی جہاز بھی سواریوں کا کام دے رہے ہیں اور بوجھ بھی لے جاتے ہیں۔ سورۃ النحل میں ان نئی سواریوں کی بلکہ انکے بعد جو سواریاں پیدا ہوں گی اُن کے بارے میں پیشین گوئی فرمادی: وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (اور اللہ وہ چیزیں پیدا فرمائے گا جو تم نہیں جانتے)

مزید فرمایا کہ یہ لوگ جو جہازوں اور کشتیوں میں امن و امان کے ساتھ سفر کرتے ہیں یہ امن و امان سے رکھنا اور ڈوبنے سے حفاظت کرنا ہمارا ہی انعام ہے۔ وَلَنْ نُنْصِفَهُمْ فَلَا حَصْرَ لَهُمْ (اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں پھر انہیں کوئی فریاد رس نہ ملے) وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ (اور نہ انہیں خلاصی دی جائے) إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ (مگر یہ کہ ہماری مہربانی ہو جائے اور ایک وقت معین تک انہیں فائدہ دینا منظور ہو) اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے محفوظ فرماتا ہے اور وقت معین تک فائدہ پہنچاتا ہے۔

اعراض کرنے والوں کی محرومی: پھر فرمایا وَلَا تَقْنَطُوا مِمَّا بَيْنَ يَدَيْكُمْ وَمَا خَلَقَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور جب مکذبین و منکرین سے کہا جاتا ہے کہ تم اُس عذاب سے ڈرو جو تمہارے سامنے ہے (یعنی غرق کیا جانا یا زمین میں دھنسیا جانا یا مقتول ہونا وغیرہ) اور اُس عذاب سے ڈرو جو تمہارے پیچھے ہے یعنی آخرت میں آنے والا ہے تمہارا یہ ڈرنا تم پر رحمت کا سبب بن جائے گا تو وہ لوگ نصیحت پر کان نہیں دھرتے اور اس سے اعراض کرتے ہیں۔ وَمَا كُنْتُمْ مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِهِ مَلَكُوتًا (اور اُن کے پاس اُن کے رب کی نشانیوں میں سے جو بھی نشانی آتی ہے اُس سے اعراض کرنے والے بن جاتے ہیں)

یہ تو ان کا معاملہ عقیدہ توحید کے ساتھ ہوا جسے وہ قبول کرنے کو تیار نہیں۔ آگے مالی انعامات ہوتے ہوئے جو کجوسی اور ناشکری کرتے تھے اُس کا تذکرہ فرمایا کہ جب اُن سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اُس میں سے مسکینوں اور حاجت مندوں پر خرچ کرو تو خرچ کرنے کی بجائے شرارت سے اور مذاق اڑانے کی نیت سے کافروں نے یوں کہا کیا ہم اُن لوگوں کو کھلائیں جو تمہارے ساتھ ایمان قبول کر چکے ہیں اللہ چاہے تو انہیں کھلا دے اُن کا مطلب یہ تھا کہ تم کہتے ہو کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا ہے تو بس وہی انہیں رزق دے دے گا۔ اُن لوگوں نے یہ بھی کہا کہ تم جو ہمیں خرچ کرنے کو کہہ رہے ہو یہ کھلی ہوئی گمراہی ہے۔

کفار بھی یہ بات مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا ہے اور کھلانے والا ہے لیکن اس بات کو انہوں نے بطور طنز کے ذکر کیا اور مقصد ان کا یہ تھا کہ تم تو یوں کہتے ہو کہ جسے اللہ تعالیٰ چاہے کھلا دے تو اپنے قول کے مطابق اللہ تعالیٰ ہی سے مانگ لو اور انہیں کھلا دو۔



وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۳۳۳﴾ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ

اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہو گا اگر تم سچے ہو۔ وہ لوگ بس ایک سخت آواز کے انتظار میں ہیں جو ان کو پکڑ لے

وَهُمْ يُخْضِعُونَ ﴿۳۳۴﴾ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴿۳۳۵﴾ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ

اور وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں۔ سو نہ تو وہ کوئی وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر جاسکیں گے۔ اور صور پھونکا جائے گا

فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ﴿۳۳۶﴾ قَالُوا أَوِیْلَکُمَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا ۚ

سو وہ سب ایک قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف جلدی جلدی چلے گئیں گے۔ وہ کہیں گے کہ ہائے ہماری کم نعتی ہمیں کس نے ہماری لینے کی جگہ سے اٹھادیا

هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴿۳۳۷﴾ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِیعٌ

یہ وہی ہے جس کا رحمن نے وعدہ فرمایا اور پیغمبروں نے سچی خبر دی۔ بس وہ ایک چیخ ہو گی سو وہ سب ہمارے پاس حاضر کر

لَدَيْنَا مَحْضُرُونَ ﴿۳۳۸﴾ فَالْيَوْمَ لَا تُظَلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۳۳۹﴾

دیئے جائیں گے۔ سو اس دن کسی جان پر ذرا سا بھی ظلم نہ ہو گا اور تمہیں صرف انہیں کاموں کا بدلہ ملے گا جو تم کرتے تھے۔

## منکرین بعث کا قول اور ان کی تردید

**تفسیر:** توحید کے دلائل اور منکرین کے اعراض کا بیان فرمانے کے بعد وقوع قیامت کے یقینی ہونے کا اور منکرین کے استبعاد کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ (اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہو گا اگر تم سچے ہو) یعنی تم جو یوں کہتے ہو کہ قیامت آئے گی ہمارے خیال میں یہ تمہاری باتیں ہی باتیں ہیں آنی ہوتی تو کب کی آپجی ہوتی، اس کے واقع ہونے کی جو تم خبر دے رہے ہو اگر تم اس خبر میں سچے ہو تو وقت طے کر دو کہ قیامت فلاں وقت آئے گی یہ بات کہنے سے ان کا مقصود وقوع قیامت کا انکار کرنا تھا اس انکار کو انہوں نے استفہام انکاری کے پیرایہ میں بیان کیا، اللہ جل شانہ نے فرمایا مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ یہ لوگ جو قیامت کا انکار کر رہے ہیں ان کے انکار کرنے سے قیامت کا آثار نہ نہیں جائے گا، بس یہ لوگ ایک چیخ کے انتظار میں ہیں جو انہیں پکڑ لے گی اور اس وقت یہ لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے اس وقت جو جہاں ہو گا وہیں دھرا رہ جائے گا اور وہیں مرجائے گا اس وقت نہ کوئی وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں گے۔ (یعنی اولیٰ یعنی پہلی بار صور پھونکنے کے وقت ہو گا)

**نسخ صور کے وقت حیرانی اور پریشانی:** مزید فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ (اور صور میں پھونکا جائے گا تو وہ اچانک قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف (یعنی حساب کی جگہ کے لئے) جلدی جلدی چلے گئیں گے۔ قبروں سے اٹھنے والے (جن کو اللہ تعالیٰ امن و امان نہ دے گھبراہٹ سے محفوظ نہ فرمائے) وہ) کہیں گے

یٰوَيْلَتَا مِمَّنْ بَعَثْنَا مِنْهُمُ اقْرَبَ نَا (ہائے ہماری کم بختی ہمیں لینے کی جگہ سے کس نے اٹھادیا) فرشتے جواب میں کہیں گے هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ (یہ وہی قیامت کا دن ہے جس کا جس نے وعدہ فرمایا تھا اور پیغمبروں نے سچی خبر دی تھی)

اِنْ كَانَتْ اِلَاصِیْعَةُ وَّاحِدَةً ۙ كَاِذَا هُمْ يَّجْمَعُوْنَ (اِس وہ ٹچہ ٹانیہ ایک زور کی آواز ہوگی جس سے یکا یک سب جمع ہو کر ہمارے پاس حاضر کئے جائیں گے) یہ جمع ہونا حساب کتاب کے لئے ہوگا حساب ہونے پر جس کو جو سزا ملے گی اس میں کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہ ہوگا نہ کسی کی کوئی نیکی کم کی جائے گی جو لائق ثواب ہو اور نہ کسی کے گناہوں میں کسی نہ کردہ گناہ کا اضافہ ہوگا۔ سورہ کہف میں فرمایا: وَجَدُوْا مَا عٰمِلُوْا خَيْرًا ۚ وَلَا يَنْظُرُ بِذٰلِكَ اَحَدًا (اور انہوں نے جو عمل کئے تھے ان کو حاضر پائیں گے اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا)

اِنَّ اصْحٰبَ الْجَنَّةِ الْیَوْمَ فِیْ شُغْلٍ فَکَهُوْنَ ۝۵۹ هُمْ وَاَزْوَاجُهُمْ فِیْ ظِلٍّ عَلٰی اَرَابٍ ۙ

بلاشبہ آج جنت والے اپنے مشغلوں میں خوش ہوں گے۔ وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں ہوں گے مسہریوں پر تکیہ لگائے ہوئے

مُتَّكِئُوْنَ ۝۶۰ لَهُمْ فِيْهَا مَا كَمِهَتْ ۚ وَلَهُمْ فِيْهَا دُرُّ عُرُوْنَ ۝۶۱ سَلٰمٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبِّ رَحِيْمٍ ۝۶۲

ہوں گے۔ اس میں اُن کے لئے میوے ہوں گے اور جو کچھ طلب کریں گے انہیں وہ ملے گا۔ مہربان رب کی طرف سے اُن پر سلام ہوگا۔

## اہل جنت کی نعمتوں کا تذکرہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ سایوں میں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے

**تفسیر:** ان آیات میں اہل جنت کی بعض نعمتوں کا تذکرہ فرمایا اول تو یہ فرمایا کہ یہ لوگ اپنے اپنے مشغلوں میں خوش ہوں گے۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں: والمراد به ما هم فيه من النعيم الذي شغلهم عن كل ما يحظر بالبال یعنی شغل سے وہاں کی نعمتوں میں مشغول رہنا مراد ہے وہاں کی نعمتیں ہر اس چیز کے تصور سے بے پرواہ کر دیں گی جن کا تصور آسکتا ہو۔ فساكهُون کا ایک ترجمہ تو یہی ہے جو اد پر لکھا گیا ہے یعنی وہ اپنی نعمتوں میں خوش ہوں گے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے تمتع اور تلافی مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس میوے موجود ہونگے جن میں سے کھایا کریں گے (روح المعانی)

پھر فرمایا کہ اہل جنت اور ان کی بیویاں سایوں میں ہوں گے جہاں ناگوار گرمی ذرا نہ ہوگی اَرَابٍ یعنی مسہریوں پر ہوں گے یہ اَرَابِیَّة کی جمع ہے اَرَابِیَّہ مسہری کو کہتے ہیں۔

مُتَّكِئُوْنَ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ سورۃ الواقعة میں فرمایا عَلٰی سُرُرٍ مَّوْضُوْنَةٍ ۚ فَمُنْكَبِیْنَ عَلَیْهَا مُتَقَابِلِیْنَ ۝ (وہ لوگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے)

مزید فرمایا لَهُمْ فِيْهَا مَا كَمِهَتْ وَلَهُمْ فِيْهَا دُرُّ عُرُوْنَ (اس میں ان کے لئے میوے ہوں گے اور جو کچھ طلب کریں گے انہیں وہ ملے گا) اس میں یہ بتا دیا کہ اہل جنت کی جن نعمتوں کا صریح طور پر تذکرہ کر دیا گیا ہے صرف انہی نعمتوں میں انھما نہیں ہے وہ لوگ

وہاں جو کچھ بھی طلب کریں گے سب کچھ حاضر کر دیا جائے گا۔ سورۃ الزخرف میں فرمایا **وَفِيهَا مَا أَكْفَيْنَاهُ النَّفْسَ وَتِلْكَ الْأَعْيُنُ** (اور اس میں وہ چیزیں ملیں گی جن کی ان کے نفسوں کو خواہش ہوگی اور جن سے آنکھوں کو لذت ہوگی)۔

اور ان سب سے بڑھ کر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام آئے گا جسے **سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّكَ** یعنی فرما کر بتایا ہے کیا کہنے ان بندوں کے لئے ان کے رب کا سلام آئے۔

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا اس کے درمیان کہ اہل جنت اپنی نعمتوں میں ہوں گے اچانک ایک نور کی چمک ہوگی اور پروا اپنے سر اٹھائیں گے تو دیکھیں گے کہ رب جل شانہ نے ان پر توجہ فرمائی ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوگا۔ **السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ**۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۱۵۰/۲ از ابن ماجہ)

**وَأَمَّا زُورُ الْيَوْمِ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ۚ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَبْنَئِ أَدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ**

اور اے مجرمو! آج علیحدہ ہو جاؤ۔ اے بنی آدم کیا میں نے تمہیں تاکید نہیں کی تھی کہ شیطان کی عبادت مت کرنا

**إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۚ وَإِنْ أَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۚ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ**

بلاشبہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے اور میری عبادت کرنا یہ سیدھا راستہ ہے۔ اور یہ واقعی بات ہے کہ شیطان نے

**جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ۚ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ۚ إِصْلَوْهَا الْيَوْمَ**

تم میں سے کثیر مخلوق کو گمراہ کر دیا کیا تم سمجھ نہیں رکھتے تھے۔ یہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ آج تم اس میں

**يَمَا كُنْتُمْ تُكْفِرُونَ ۚ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا**

داخل ہو جاؤ اپنے فکری جہ سے آج ہم ان کے منہوں پر ہمہ لگا دیں گے اور ہم سے ان کے ہاتھ کلام کریں گے اور ان کے پاؤں اس کی گواہی دیں گے جو کچھ وہ

**كَانُوا يَكْسِبُونَ ۚ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ ۚ وَلَوْ نَشَاءُ**

کیا کرتے تھے۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھوں کو مٹا دیے سودہ راستے کی طرف دوڑتے پھرتے سو ان کو کہاں نظر آتا۔ اور اگر ہم چاہتے

**لَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ۚ وَمَنْ تَعْبِرُهُ نُنَكِّسْهُ فِي**

تو انہیں ان کی جگہ پر سبک کر دیتے اس طرح پر کردہ جہاں ہیں وہیں رہ جاتے جس کی جگہ سے سینا کے چل سکتے اور نہ پیچھے لوٹ سکتے اور ہم جس کو زیادہ عرصہ دیتے ہیں

**الْخَلْقِ ۚ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ۚ**

اُسے طبعی حالت پر لوٹا دیتے ہیں کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے

**مجرمین سے خطاب اور ان کے عذاب کا تذکرہ**

**تفسیر:** اہل جنت کا اکرام اور انعام بیان فرمانے کے بعد اہل دوزخ کی تباہی اور بربادی کو بیان فرمایا جو قیامت کے دن ان کے سامنے آئے گی۔ اول تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ان سے خطاب ہوگا کہ اے مجرمو! آج تم علیحدہ ہو جاؤ دنیا میں

تم اہل ایمان کے ساتھ ملے جلے رہتے تھے اور قبروں سے نکل کر بھی میدانِ حشر میں اکٹھے جمع ہوئے ہو اب تم ان سے علیحدہ ہو جاؤ کیونکہ ان کو جنت میں جانا ہے اور تم کو دوزخ میں جانا ہے۔ (یہ آیت بہت زیادہ فکر مند بنانے والی ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ پوری رات نفل نماز میں کھڑے رہے اور اسی آیت مبارکہ کو پڑھتے رہے) اس میں فکر کی بات یہ ہے کہ جس وقت یہ حکم ہوگا اس وقت میں کن لوگوں میں ہوں گا مجرمین میں ہوں گا یا مومنین میں۔

کافروں سے یہ خطاب بھی ہوگا اَلْكَافِرُ هَذَا الْكَافِرُ (الآیۃ) اے آدم کی اولاد کیا میں نے تمہیں یہ تاکید نہیں کی تھی کہ شیطان کی عبادت مت کرنا یعنی اس کی فرمانبرداری مت کرنا اور اس کے کہنے کے مطابق عمل نہ کرنا بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے اور تمہیں تاکید کی تھی کہ میری عبادت کرنا یہ سیدھا راستہ ہے (تم اس سیدھے راستے سے ہٹ گئے) وَلَقَدْ أَضَلَّ عَنْكُمْ (الآیۃ) اور یہ بات واقعی ہے کہ شیطان نے تم میں سے کثیر مخلوق کو گمراہ کر دیا کیا تم سمجھ نہیں رکھتے تھے۔ (اب اس گمراہی کا بدلہ ملے گا) هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ یہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ لِيُذِيقَهُمُ الْيَوْمَ لِقَاءَهُمْ تَكْفُرُونَ (آج اس میں داخل ہو جاؤ اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے تھے)

مجرمین کے خلاف ان کے اعضاء کی گواہی کافروں کی سزا بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ (ہم آج کے دن ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے) وَنُخَيِّمُ بَيْنَهُمْ وَوَعْدُكُمْ (اور ہم سے ان کے ہاتھ کلام کریں گے) وَنَجْعَلُ اَرْجُلَهُمْ بِمِثْلِ اسْوَابِ الْاَيْدِي (اور ان کے پاؤں ان کاموں کی گواہی دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ مجرمین کی زبانوں پر مہر لگا دی جائے گا اور ہاتھ پاؤں ان کے اعمال بد کی گواہی دیں گے۔ اور سورۃ التور میں فرمایا: يَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ اَفْوَاهِهِمْ وَنُخَيِّمُ بَيْنَهُمْ وَوَعْدُكُمْ لَعَلَّكُمْ يَفْقَهُونَ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اعمال بد کی گواہی زبان بھی دے گی اس میں کوئی تعارض نہیں ہے کیونکہ قیامت کے دن احوال مختلف ہوں گے کسی وقت ہاتھ پاؤں بلکہ انکے چمڑے تک ان کے خلاف گواہی دے دیں گے اور زبان نہ بول سکے گی اور جب زبان کھول دی جائے گی تو زبان سے بھی اپنی نافرمانی کے اقرار ہی ہو جائیں گے۔

اس کے بعد فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ اَنَّ اِلٰهَ اِيْنُسَانٍ لَّا يَخْشِي الْاِيْنَسَانَ وَلَا يَخْشَىٰ اِلٰهَ الْاِيْنُسَانِ (الآیۃ) اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو ختم کر دیں پھر وہ راستے کی طرف دوڑیں سوان کو کہاں نظر آئے۔ وَلَوْ تَرَىٰ اَنَّ اِلٰهَ الْاِيْنُسَانِ لَّا يَخْشَىٰ الْاِيْنَسَانَ (الآیۃ) اور اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہوں پر ہی ان کی صورتوں کو سرخ کر دیں تو انہیں نہ گزرنے کی طاقت رہے اور نہ واپس ہو سکیں۔

ان دو آیتوں میں یہ بتایا کہ ہم دنیا میں بھی سزا دینے پر قدرت رکھتے ہیں اور ان سزاؤں کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم ان کی آنکھوں کو ختم کر دیں یعنی چہرہ کو سپاٹ بنا دیں آنکھیں باقی ہی نہ رہیں آگے بڑھنا چاہیں تو کچھ بھی نظر نہ آئے اسی طرح ہم ان ہی کی جگہ رکھتے ہوئے انہیں مخ بھی کر سکتے ہیں یعنی ان کی صورتیں بدل سکتے ہیں جیسے گذشتہ امتوں میں سے بعض لوگ بندر اور خنزیر بنا دئے گئے جب جانور ہی بن جائیں تو جہاں تھے وہیں رہ جائیں نہ آگے بڑھ سکیں نہ پیچھے ہٹ سکیں جو مقاصد دنیاویہ لے کر نکلے تھے ان کا ہوش ہی نہ رہے گا۔

انسان قوت کے بعد دوبارہ ضعف کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے: اس کے بعد فرمایا وَمَنْ يُضْلِلْهُ (الآیۃ) کہ ہم جسے طویل عمر دے دیتے ہیں اس کی حالت طبعی جو اسے پہلے دی گئی تھی اسے الٹ دیتے ہیں یعنی جوانی میں جو قوتیں

دی گئی تھیں وہ چلی جاتی ہیں اور ضعف بڑھتا چلا جاتا ہے، سننے اور دیکھنے کی قوتیں ضعیف ہو جاتی ہیں، سمجھنے اور سوچنے کی طاقت بھی کمزور ہو جاتی ہیں، گوشت گھل جاتا ہے، کھال لٹک جاتی ہے، یہ تو سب کے سامنے ہے اسی سے سمجھ لینا چاہئے کہ ہم آنکھوں کو ختم کر سکتے ہیں اور صورتیں مسخ کر سکتے ہیں: اَفَلَا يَعْقِلُونَ (کیا یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی نہیں سمجھتے ہیں) قولہ تعالیٰ مُضَيًّا اَصْلُهُ مَضًوٰی اجتمعت الواو ساکنۃ مع الیاء فقلب یاء کما هو القاعدة وادغمت الیاء فی الیاء وقلبتم الضاد کسرة لتخف وتناسب الیاء (اللہ تعالیٰ کا قول مُضَيًّا یہ اصل میں مُضَوٰی تھا وادساکنہ اور یاء جمع ہو گئیں تو واد کو یاء کر دیا جیسا کہ قانون ہے پھر یاء کو یاء میں ادغام کیا اور ضاد کو ضمہ کو تخفیف اولیاء کی مناسبت کی وجہ سے کسرہ سے تبدیل کر دیا)

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ ۚ لِيُنْذِرَ مَنِ كَانَ

اور ہم نے ان کو شعر نہیں سکھایا اور نہ شعر ان کے لائق ہے، وہ تو بس ایک نصیحت ہے اور قرآن مبین ہے تاکہ وہ اُسے ڈرائے

حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝

جو زندہ ہے اور کافروں پر حجت ثابت ہو جائے

شاعری رسول اللہ ﷺ کی شان کے لائق نہیں، قرآن کریم زندہ قلوب کے لئے نصیحت ہے اور کافروں کے لئے حجت ہے

**تفسیر:** مشرکین عرب اور خاص کر اہل مکہ جب قرآن مجید سنتے تھے تو یہ جانتے ہوئے کہ نہ اس میں اشعار ہیں نہ شاعرانہ خیالی مضامین ہیں پھر بھی قرآن مجید کے بارے میں یوں کہہ دیتے تھے کہ یہ شاعرانہ باتیں ہیں ان لوگوں کی تردید کرتے ہوئے فرمایا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ (ہم نے اپنے نبی ﷺ کو شعر نہیں سکھایا) وَمَا يَنْبَغِي لَهُ (اور نہ شعر کہنا ان کی شان کے لائق ہے) سو جب وہ شعر کہنا جانتے ہی نہیں اور ان کی شان کے لائق ہی نہیں تو تمہارے سامنے شاعرانہ باتیں کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ شاعرانہ تخیلات تو جھوٹے ہوتے ہیں ان میں جب تک ان کہنی نہ ہو اس وقت تک شعر شعر ہی نہیں ہوتا پھر یوں بھی دیکھنا لازم ہے کہ یہ جو قرآن کریم آپ پیش فرماتے ہیں یہ شعر نہیں ہے نہ اس میں خیالی مضامین ہیں نہ شاعرانہ تنگ بندیاں ہیں بلکہ لفظی اعتبار سے نہایت فصیح اور بلیغ اور محکم کلام ہے اور معنوی اعتبار سے اس کے مضامین اعلیٰ درجہ کے محقق ہیں اور سراپاچ ہیں لیکن دشمن جب اعتراض پر آجائے تو اندھا بن جاتا ہے پھر اسے حق اور ناحق کی کچھ تمیز نہیں رہتی۔

اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ (وہ تو بس ایک نصیحت ہے اور قرآن مبین ہے) لِيُنْذِرَ مَنِ كَانَ حَيًّا (تاکہ وہ اسے ڈرائے جو زندہ ہے) یعنی عقل رکھتا ہے اور اسے حق اور ناحق کی سوچ بوجھ ہے بے عقلی کی وجہ سے اموات کے درجہ کو نہیں پہنچا۔ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ (اور کافروں پر حجت ثابت ہو جائے) یعنی جب قیامت کے دن کافروں کو عذاب ہونے لگے تو ان کے عذر پیش کرنے پر صاف صاف کہہ دیا جائے کہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا رسول پہنچا اس نے اللہ تعالیٰ کی

کتاب سائی ایمان کی دعوت دی لیکن تم نے نہیں مانا اور خود ہی مستحق عذاب ہوئے آج کوئی معذرت کام دینے والی نہیں۔

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَا اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ۝ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ

کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے لئے ان چیزوں میں سے جو ہمارے ہاتھوں نے پیدا کیں سوئی پیدا کئے ہیں سو وہ ان کے مالک ہیں۔ اور ہم نے ان مویشیوں کو ان کا فرمانبردار بنادیا ہے

فِيْمَنَآرَ كُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَكُلُوْنَ ۝ وَلَهُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ ۝ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ۝ وَاتَّخِذُوا

سوان میں سے بعض ایسے ہیں جو ان کی سواریاں ہیں اور بعض ایسے ہیں جنہیں وہ کھاتے ہیں۔ اور ان مویشیوں میں ان کے لئے منافع ہیں اور پینے کی چیزیں ہیں سو کیا یہ شکر مانہیں کرتے۔ اور انہوں نے

مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِلٰهَةً لَّعَلَّهُمْ يَنْصُرُوْنَ ۝ لَا يَسْتَطِيعُوْنَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُوْنَ ۝

اللہ کے سوا معبود بنا لئے ہیں اس امید پر کہ ان کی مدد کر دی جائے گی۔ وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے اور وہ ان کے لئے ایک فریق ہو جائیں گے جو حاضر کر دیئے جائیں گے۔

فَلَا يَحْزَنْكَ قَوْلُهُمْ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يَسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ۝

سو آپ کو ان کی باتیں رنجیدہ نہ کریں بلاشبہ ہم جانتے ہیں جو کچھ یہ لوگ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔

## جانوروں میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ان میں منافع اور مشارب ہیں

**تفسیر:** ایمانیات کا تذکرہ فرمانے کے بعد بعض دنیاوی منافع کا تذکرہ فرمایا، ارشاد فرمایا کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں

کہ ہم نے ان کے لئے محض اپنی قدرت سے چوپائے پیدا کئے یہ لوگ چوپایوں کے مالک ہیں، ہر چیز کا حقیقی مالک تو اللہ تعالیٰ ہی ہے انسانوں کو بھی اس نے اپنی مخلوق میں سے بعض چیزوں کا مالک بنا دیا ہے، بندے مجازی مالک ہیں اور مالک ہوتے ہوئے ان احکام کے پابند ہیں جو شریعت اسلامیہ کی طرف سے مقرر کئے گئے ہیں، جو شخص ان کی خلاف ورزی کرے گا گنہگار ہوگا، یوں نہ سمجھے کہ میں اس جانور کا مالک ہوں جو چاہوں کروں۔

جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے قابو میں دے دیا ہے، کچھ جانور ایسے ہیں جو سواری کا کام دیتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو خوراک کے کام میں آتے ہیں ان کا گوشت کھایا جاتا ہے، جب کوئی جانور بدک جائے یا چمک جائے قابو سے باہر ہو جائے اس وقت انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسخیر سے یہ جانور ہمارے قابو میں ہے اگر بے قابو ہو جائے تو ہم اس سے کام نہیں لے سکتے۔ اسی لئے سواری کی دعا سُبْحٰنَ الَّذِیْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِیْنَ ۝ وَ اِنَّا اِلٰی رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ تعلیم فرمائی۔ (سورۃ الزخرف رکوع نمبر ۱)

وَلَهُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ ۝ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ (اور چوپایوں میں ان کے لئے منافع ہیں اور پینے کی چیزیں ہیں سو کیا یہ شکر نہیں کرتے) اور پر دو منافع کا ذکر تھا، ایک یہ کہ جانور سواری کا کام دیتے ہیں اور دوسرے یہ کہ ان میں سے بعض کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ اس آیت میں دوسرے منافع کا بھی اجمالاً ذکر فرمادیا۔ مثلاً ان کی کھالیں دباغت کے بعد کام میں لاتے ہیں اور ان کے بال اور ان کاٹ کر بچھانے اور پہننے کی چیزیں تیار کرتے ہیں اور ان سے کھیتی جو تنے کا کام بھی لیتے ہیں اور ان کے ذریعے پانی کھینچ کر کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ ساتھ ہی مشارب کا بھی ذکر فرمایا، صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ اس سے دودھ مراد ہے اور

مشارب مشرب کی جمع ہے جو مشروب کے معنی میں ہے اور دودھ کی چونکہ بہت سی اقسام ہیں اس لئے جمع لایا گیا۔  
پھر دودھ سے گھی بنتا ہے۔ لسی بھی بنتی ہے دی بھی بنائی جاتی ہیں جن کو پیتے ہیں اور استعمال میں لاتے ہیں یہ بھی جمع لانے کی ایک وجہ ہے۔

بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ مشارب ظرف کا صیغہ ہے اور اس سے برتن مراد ہیں زمانہ قدیم میں جانوروں کے چمڑوں سے مشکیزے تو بناتے ہی تھے پیالے بھی بنالیتے تھے جس میں دودھ وغیرہ پیتے تھے۔ اگر یہ معنی مراد لئے جائیں تو یہ بھی بعید نہیں ہے اور اس سے مشارب کا جمع لانا اور زیادہ واضح ہو جاتا ہے۔

**مشرکین کی بیوقوفی:** اس کے بعد فرمایا وَإِتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهًا لَّهُمْ يُضِلُّونَ اور ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنائے ہیں جن سے یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ ہماری مدد کریں گے۔ لَا يَسْتَجِيبُونَ نَصْرَهُمْ (جن لوگوں سے مدد کی امید کر رکھی ہے وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے) وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُخْضَرُونَ (اور وہ ان کے لئے فریق مخالف ہو جائیں گے جو حاضر کردئے جائیں گے) یعنی اللہ کے سوا جنہیں معبود بنا کر ان سے مدد کی امید باندھے ہوئے ہیں وہ تو ان معبود بنانے والوں کے مخالف ہو جائیں گے اور میدان قیامت میں بالاضطرار حاضر کردئے جائیں گے اور وہاں حاضر ہو کر جنہوں نے انہیں معبود بنایا تھا ان کی مخالفت کریں گے۔ سورہ مریم میں فرمایا: وَإِتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهًا لَّهُمْ يُضِلُّونَ ۚ كُلُّ سَائِغٍ كُفْرُونٌ يُبَادِلُونَهُمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا (اور ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر دوسرے معبود تجویز کر رکھے ہیں تاکہ ان کے لئے وہ باعث عزت ہوں ہرگز نہیں وہ ان کی عبادت ہی کا انکار کریں گے اور ان کے مخالف ہو جائیں گے) وہاں جھوٹی آرزوؤں کی قلعی کھل جائے گی۔

فَلَا يَخْرُجُ مِنْهَا شَيْءٌ يُسَلِّتُ لَهُمْ وَلَا يَعْزِزُ لَهُمْ (سوان کی باتیں آپ کو رنجیدہ نہ کریں بلاشبہ ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں) اس میں رسول اللہ ﷺ کو تسلی دی ہے کہ آپ منکرین کی باتوں سے رنجیدہ نہ ہوں ان میں عناد ہے بات ماننے کو تیار نہیں لہذا ان سے ایمان قبول کرنے کی امید رکھنا ہی غلط ہے آپ اپنے کام میں لگے رہیں اور ان کی باتوں سے آزرہ خاطر نہ ہوں ان کے دل کے حالات اور زبانی باتیں ہمیں سب معلوم ہیں ہم انہیں ان سب چیزوں کی سزا دے دیں گے۔

**اَوَلَمْ يَرِ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَازَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ۝۱۰ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ**

کیا انسان کو اس کا علم نہیں ہے کہ ہم نے اسے نطفہ سے پیدا کیا سوا چاک وہ علانیہ طور پر جھگڑا ہو گیا۔ اور ہمارے بارے میں مثل بیان کرنے لگا اور اپنی

**خَلَقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ۝۱۱ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي اَشْهَدُ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ**

پیدا شدہ کو بھول گیا اس نے کہا کہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا حالانکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی آپ فرما دیجئے کہ انہیں وہی زندہ فرمائے گا جس نے انہیں پہلی مرتبہ

**خَلَقَ عَلَيْهِمُ ۝۱۲ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا اِذَا آتَيْتُمُ مِنْهُ تَوْقُدُونَ ۝۱۳**

پیدا فرمایا اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے جس نے تمہارے لئے ہرے درخت سے آگ پیدا کی سوا چاک تم اس میں سے جلاتے ہو۔



اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِقَدِيْرٍ عَلٰۤى اَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلٰۤى وَهُوَ الْخَلّٰقُ

جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ ان کے جیسے پیدا فرمادے ہاں وہ قادر ہے اور وہ بڑا پیدا کرنے والا ہے

الْعَلِيْمُ ۝۱۰ اِنَّمَا اَمْرُهٗ اِذَا اَرَادَ شَيْْءًا اَنْ يَقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ ۝۱۱ فُسُبْحٰنَ الَّذِيْ يَبْدِئُ

خوب جاننے والا ہے اس کا معمول یہی ہے کہ جب وہ کسی چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ فرمائے تو یوں فرماتا ہے کہ ہو جا سو وہ ہو جاتی ہے۔ سو پاک ہے وہ ذات

مَلِكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ ؕ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝۱۲

جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا پورا اختیار ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔

## انسان قیامت کا منکر ہے وہ اپنی خلقت کو بھول گیا

**تفسیر:** وقوع قیامت اور بعثت اور حشر نشر کا جو لوگ انکار کیا کرتے تھے ان میں سے ایک شخص عاص بن وائل بھی تھا یہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایک گلی سڑی ہڈی لے کر آیا اس ہڈی کو اپنے ہاتھ سے چورا چورا کیا اور کہنے لگا کہ اے محمد (ﷺ) جب میں اس ہڈی کو اپنے ہاتھ سے پھینک دوں تو کیا اللہ تعالیٰ اسے زندہ فرمادے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ اسے زندہ فرمادے گا پھر تجھے موت دے گا پھر تجھے زندہ فرمائے گا پھر تجھے دوزخ کی آگ میں داخل کرے گا۔ اس پر اَوَكْفِرُ بِالْاِنْسَانِ سے لے کر تم سورۃ تک آیات نازل ہوئیں جس شخص سے یہ باتیں ہوئی تھیں اس کے بارے میں دیگر اقوال بھی ہیں جو روح المعانی جلد ۲۳ ص ۵۳ میں مذکور ہیں۔

ارشاد فرمایا کیا انسان کو معلوم نہیں ہے کہ ہم نے اسے نطفہ منی سے پیدا کیا؟ اس کو تو وہ جانتا ہے مانتا ہے جب نطفہ منی سے اسے پیدا کر سکتے ہیں تو بوسیدہ ہڈیوں کو مرکب کر کے ان میں جان کیوں نہیں ڈال سکتے؟ قیامت اور حشر نشر کی سچی خبر جو حضرات انبیائے کرام علیہم السلام نے دی اس کی تصدیق کرنے کی بجائے انسان بڑا جھگڑا لوبن گیا اور ایسا جھگڑا لوبنا کہ واضح طور پر وقوع قیامت اور موت کے بعد زندہ ہونے کا انکار کرنے لگا جو اسے اپنے مبدع فطرت کا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ذلیل پانی سے پیدا فرمایا ہے تو اسے جھگڑنے اور یہ بات کہنے کا کیا مقام ہے کہ میں بوسیدہ ہڈیوں سے کیسے پیدا کیا جاؤں گا۔ اسی کو فرمایا وَصَرَبَ لَنَا مَثَلًا اور اس نے ہمارے بارے میں ایک مثل بیان کر دی اور ایسی بات کہہ دی جو فی نفسہ عجیب ہے۔ وَلَيِّنٰى خَلْقَهٗ اور وہ یہ بھول گیا کہ وہ کیسے پیدا کیا گیا ہے قَالَ مَنْ لَّحْنِ الْعِظَامِ وَهِيَ رَعِيْمٌ کہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا حالانکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی۔ یہ ہے وہ عجیب مضمون جسے اس نے اللہ کی شان میں بیان کیا بجائے یہ سمجھنے کے کہ میں جس طرح پہلے پیدا ہوا ہوں اسی طرح میرا خالق دوبارہ پیدا فرمادے گا ایسی بات کہنے لگا جس سے انکار بعثت مقصود ہے۔

قُلْ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰتٰكُمْ اَمْۡرًا مِّنْ رَّبِّكُمْ (آپ جواب میں فرمادے تھے کہ ان ہڈیوں کو وہی زندہ فرمائے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا فرمایا) وَهُوَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ (اور وہ ہر مخلوق کو جاننے والا ہے) اس میں منکرین کا یہ اشکال دور کر دیا کہ ہڈیاں گل جائیں گی ان کے ریزے کہاں کہاں پہنچے ہوں گے پھر کیسے جمع کئے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمادیا کہ جس نے پیدا کیا تھا

اسے سب پتہ ہے کہ کون سی چیز کہاں ہے اسے اس کا علم ہے کہ کون سا ذرہ کہاں پہنچا اور کس جگہ میں ہے۔

الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ (جس نے تمہارے لئے ہرے درخت سے آگ پیدا کی سو اچانک تم اس میں سے جلاتے ہو) یعنی جس ذات پاک نے ہرے درخت میں سے آگ نکالی حالانکہ درخت پانی کے اثر سے ہر ابھرا ہوتا ہے اور درخت کو نچوڑیں تو اس میں سے پانی نکلتا ہے اور آگ اور پانی آپس میں ضد ہیں اس کے لئے جماد یعنی ایسی بے جان چیز میں جان ڈالنا کیا مشکل ہے جس میں ظاہری اعتبار سے اس کے مخالف اور متافی کوئی چیز موجود نہیں ہے اور وہ ایک بار زندگی پا چکی ہے۔

صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ مرغ اور عفارود درخت ہوتے تھے اور سرسبز ہوتے تھے جن میں سے پانی ٹپکتا تھا ان میں سے ایک کی ٹہنی لے کر دوسری کی ٹہنی پر مارتے تھے تو اس سے آگ نکلتی تھی پھر اس آگ سے اپنی ضرورت کے لئے آگ جلا لیتے تھے۔ ان دو درختوں میں سے ایک کا دوسرے پر مارا جانا چتھاق کا کام دیتا تھے۔ اسی کو فرمایا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ (سو اچانک تم اس میں سے آگ جلاتے ہو)

اس کے بعد انسانوں کو دوبارہ پیدا فرمانے کی ایک اور دلیل ذکر فرمائی اور سوال کے پیرایہ میں فرمایا وَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلٰی اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ (جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ ان کے جیسے پیدا فرما دے) بلی و هو الخلق العلیہم (ہاں وہ قادر ہے اور وہ بڑا پیدا کرنے والا ہے) جس ذات پاک نے اتنے بڑے بڑے آسمان بنا دیئے اتنی بڑی زمین بنا دی اس کے بارے میں یہ کہنا کہ جب ہم مرجائیں گے تو وہ ہمیں کیسے پیدا کرے گا یہ سوال سراسر حماقت ہے۔ اللہ پاک قادر ہے مطلق ہے سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے : اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا اَرَادَ شَيْءًا اَنْ يَقُوْلَ لَاٰكُنْ فَيَكُوْنُ (اس کی شان یہی ہے کہ جب وہ کسی چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ فرمائے تو یوں فرمادیتا ہے کہ ہو جا سو وہ ہو جاتی ہے) سو جب صرف گن فرمادینے سے سب کچھ جو دہیں آ جاتا ہے تو زندوں کو موت دے کر دوبارہ زندہ فرمانا کیونکر مشکل ہو سکتا ہے؟ فَسُبْحٰنَ الَّذِيْ يَسْبِيحُوْنَكَ مَلَٰئِكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّ اَلٰیٰوُتُ يُرْجِعُوْنَ (سو پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا پورا اختیار ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے) اس کی ذات ہر عیب اور نقص سے پاک ہے کسی بھی چیز کے پیدا کرنے سے عاجز نہیں مردہ انسانوں کو دوبارہ زندہ پیدا فرمانا بھی اس کی قدرت سے باہر نہیں تمہیں لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے اس کی قدرت کا انکار کرو گے تو سزا پاؤ گے۔

ولقد تمّ تفسیر سورۃ یس والصلوٰۃ والسلام علی سید الانبیاء  
والمرسلین وعلی الہ واصحابہ ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
سورة صافات مکہ معظمہ میں نازل ہوئی اس میں ایک سو بیس آیات اور پانچ رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے﴾

وَالصَّافَّاتُ صَفًّا ۖ فَالزَّجْرَاتُ زَجْرًا ۖ فَالتَّالِيَاتُ ذِكْرًا ۚ إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ۚ رَبُّ السَّمٰوٰتِ

قسم ہے صف بنا کر کھڑے ہونے والے فرشتوں کی پھر ان فرشتوں کی جو بندش کرنے والے ہیں پھر ان فرشتوں کی جو ذکر حالات کرنے والے ہیں۔ بلاشبہ ہر معبود ایک ہے جو بڑا واحد ہے۔ آسمانوں کا

وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ۚ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ ۚ وَحِفْظًا

اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اور رب ہے مشارق کا۔ بلاشبہ ہم نے قریب والے آسمان کو زینت دی ہے غامض زینت یعنی ستاروں کے ذریعہ اور حفاظت

فَمِنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ ۚ لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِئِٔلِ الْأَعْلَىٰ وَيُقَذِّفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ۖ دُحُورًا

کی ہے ہر سرکش شیطان سے۔ یہ لوگ عالم بالا کی طرف کان نہیں لگا سکتے اور وہ ہر جانب سے مار کر دھکے دینے جاتے ہیں اور ان کے لئے

وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ۚ إِلَّا مَنْ خِطَفَ الْخُطَفَةَ فَاتَّبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ۖ

وہی عذاب ہے۔ سوائے اُس شیطان کے جو اچک کر لے بھاگے تو اُس کے پیچھے ایک شعلہ دکھتا ہوا لگ جاتا ہے۔

صرف اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے

آسمان وزمین اور مشارق و مغارب کا رب ہے

**تفسیر:** ابتدائی تین آیات میں تو فرشتوں کی قسم کھا کر فرمایا ہے کہ بلاشبہ تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ اولاً صف بنا کر

کھڑے ہونے والے فرشتوں کی قسم کھائی، فرمایا وَالصَّافَّاتُ صَفًّا (قسم ہے صف بنا کر کھڑے ہونے والے فرشتوں کی قسم

) جو عبادتِ خداوندی کے لئے صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا الا تصفون کم تصفون کم تصفون

الملكیة عند ربہا (کیا تم اس طرح صف نہیں بناتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے پاس صف بناتے ہیں) صحابہؓ

نے عرض کیا فرشتے اپنے رب کے پاس کیسے صف بناتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ پہلی صفوں کو پورا کرتے ہیں اور صفوں

میں خوب مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ (رواہ مسلم کم فی مشکوٰۃ ص ۹۸)

فَالزَّجْرَاتُ زَجْرًا یہ لفظ زجر سے لیا گیا ہے زجر جھڑکنے اور منع کرنے کو کہتے ہیں اسی لئے ترجمہ یوں لکھا گیا ہے پھر ان

فرشتوں کی قسم جو بندش کرنے والے ہیں۔ فرشتوں کا زجر کرنا اور روکنا کیا ہے؟ روح المعانی میں لکھا ہے کہ اس سے یہ مراد

ہے کہ فرشتے اللہ کے بندوں کو گناہوں سے روکتے ہیں اور ان کے دل میں خیر کی باتیں ڈالتے ہیں اور شیاطین کو دوسو سے

ڈالنے سے روکتے ہیں۔

فَالْثَلَاثِیَّةُ ذُكْرًا (پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو ذکر کی تلاوت کرنے والے ہیں) اس کا ایک مطلب مفسرین نے یہ بتایا ہے کہ ان فرشتوں کی قسم جو اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم اور دوسری کتابیں لاتے رہے اور جس نبی کے پاس لائے اس پر پڑھتے رہے۔ اور ایک مطلب یہ بتایا ہے کہ ان فرشتوں کی قسم کھائی ہے جو ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں اور تسبیح و تقدیس میں لگے رہتے ہیں۔

إِنَّ إِلَهَهُمْ لَوَاحِدٌ یہ جواب قسم ہے قسم کھا کر فرمایا کہ بلاشبہ تمہارا معبود ایک ہی ہے پھر اس معبود کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ وہ آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کا بھی رب ہے اور مشارق کا بھی رب ہے۔

مشارق مشرق کی جمع ہے یہاں رَبُّ الْمَشَارِقِ فرمایا ہے۔ اور سورة المعارج میں فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغْرِبِ فرمایا ہے اور سورة الرحمن میں رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ فرمایا ہے۔

مشارق اور مغارب جمع ہے اور مَشْرِقَيْنِ اور مَغْرِبَيْنِ متثنیہ ہیں اور سورة المزمل میں رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ فرمایا ہے۔ ان میں واحد کا صیغہ تو جنس کے اعتبار سے ہے اور متثنیہ سردی اور گرمی کے موسموں کے اعتبار سے کیونکہ سردی کے دنوں میں آفتاب کے طلوع اور غروب ہونے کی جگہ اس جگہ کے علاوہ ہے جو گرمی میں غروب ہونے اور طلوع ہونے کی جگہ ہے اور جمع اس اعتبار سے ہیں کہ مشرق اور مغرب بدلتے رہتے ہیں۔

اس کے بعد ستاروں کا تذکرہ فرمایا: فَإِنَّكَ النَّمَكَةُ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ (بلاشبہ ہم نے قریب والے آسمان کو ایک خاص زینت کے ساتھ مزین کیا یعنی ستاروں کے ذریعے اسے زینت دی) وَحَفِظْنَا مِنْ كُلِّ قَبِيلٍ مَّارِدٍ اِی وَحَفِظْنَاهَا حِفْظًا اور ہم نے آسمان کو محفوظ کیا ہر سرکش شیطان اور ہر جاکر فرشتوں کی باتیں سننے کی جو کوشش کرتے ہیں ستارے انہیں مار بھگاتے ہیں۔

ستارے آسمان دنیا کے لئے زینت ہیں اور شیاطین سے محفوظ رہنے کا ذریعہ ہیں: رسول اللہ ﷺ کی بعثت سے پہلے شیاطین نے ایک دھندہ بنا رکھا تھا اور جاتے تھے باتیں سنتے تھے اور باتیں لا کر کاہنوں میں ڈالتے تھے وہ اس میں سو جھوٹ ملا کر آگے بڑھاتے تھے اوپر سے سنی ہوئی سچی بات نکل جاتی تھی تو لوگ کاہنوں کے معتقد ہو جاتے تھے کہ دیکھو یہ غیب کی باتیں بتاتے ہیں جب رسول اللہ ﷺ کی بعثت ہوئی تو وہاں پہرہ لگ گیا اب شیاطین اوپر جاتے ہیں تو مار کھاتے ہیں۔

اسی کو فرمایا لَا يَسْتَمِعُونَ إِلَىٰ الْهَلَاكِ الْأَعْلَىٰ (وہ ملاء اعلیٰ کی بات نہیں سن سکتے) وَيَقْدِرُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُخُورًا (اور وہ مارے جاتے ہیں ہر جانب سے دھکے مارے ہوئے) یعنی اوپر پہنچ کر کان تو لگاتے ہیں لیکن مار پڑنے اور دھکے مارنے جانے کی وجہ سے سن نہیں پاتے۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ وَأَعِيبٌ (اور ان کے لئے دائمی عذاب ہے) یعنی دنیاوی مار پیٹ اور دھکے مار کے علاوہ آخرت میں مستقل عذاب ہوگا جو دائمی ہوگا۔

إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ (مگر ان میں سے جس نے کوئی بات اچک لی) یعنی فرشتے جو آپس میں باتیں

کرتے ہیں مار پڑنے سے پہلے ان میں سے کوئی بات کسی نے اچک لی اور وہاں سے لیکر چل دیا تو اس کے پیچھے ایک روشن شعلہ لگ جاتا ہے یہ روشن شعلہ اس پر پڑتا ہے تو اسے جلا دیتا ہیں یا اس کے بعض اعضاء کٹ جاتے ہیں یا وہ دیوانہ وہ جاتا ہے۔

آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ ستاروں کے ذریعے سرکش شیاطین سے آسمان کی حفاظت کا انتظام کیا گیا ہے۔ سورۃ الحجر اور سورۃ الصافات میں مزید فرمایا ہے کہ شیطان اوپر بات سننے لگتے ہیں تو انہیں شعلہ مار دیا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ اشکال کیا ہے کہ ستارے تو اپنی جگہ چھوڑ کر شیاطین کے پیچھے دوڑتے ہوئے نظر نہیں آتے پھر ستاروں کے مارنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو ستارے اس کام پر لگے ہوئے ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہوں اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ یہ شعلہ جسے سورۃ الحجر میں شہاب مبین اور سورۃ الصافات میں شہاب کاوٹ فرمایا ہے یہ شہاب بعض ستاروں کی بخوت (یعنی گرمی) سے پیدا ہوتے ہوں اور یہ بھی سمجھنا چاہئے کہ شہاب ثاقب دن کو بھی شیاطین کا پیچھا کرتا ہے لیکن سورج کی روشنی کی وجہ سے نظر نہیں آتا لہذا یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ شیاطین رات ہی کو بات سننے کے لئے کیوں اوپر جاتے ہیں؟ اور یہ بھی سمجھنا چاہئے کہ یہ ضروری نہیں کہ آسمان پر جو نگارہ نظر آئے وہ شیاطین ہی کے مارنے کے لئے ہوں اس کے وجود کے دوسرے اسباب بھی ہو سکتے ہیں۔

فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنِ خَلَقْنَا إِنَّ خَلْقَهُمْ مِّنْ طِينٍ لَا رَيْبَ ۖ بَلْ

سو آپ ان سے دریافت کر لیجئے کیا وہ پیدائش کے اعتبار سے زیادہ سخت ہیں یا ہماری پیدائش کی ہوئی دوسری چیزیں بیشک انہیں ہم نے جبکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے بلکہ

عَجَبْتَ وَيَسْخَرُونَ ۚ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ ۚ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ ۚ وَقَالُوا إِن هَذَا

آپ تعجب کرتے ہیں اور وہ لوگ تمہارے کھنکھاتے ہیں۔ اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت کو نہیں سمجھتے۔ اور جب وہ کوئی مجروح دیکھتے ہیں تو مٹی اڑاتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ کھلے ہوئے

الْأَسْحَرُ مُبِينٌ ۚ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ۚ أَوْ أَبَاؤُنَا أَوَّلُؤُنَ ۚ قُلْ نَعَمْ

جادو کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے۔ کیا ہمارے پرانے باپ دادے بھی۔ آپ فرمادیجئے ہاں

وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ ۚ فَأَمَّا هِيَ رَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ۖ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ ۚ وَقَالُوا يَوْمَئِذٍ هَذَا يَوْمُ

اور تم ذلیل ہو گے۔ بس وہ ایک للکار ہوگی سو یکایک وہ سب کھڑے دیکھ رہے ہوں گے۔ اور یوں کہیں گے کہ ہائے ہماری کم خمتی یہ تو روز

الدِّينِ ۚ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَكْدِبُونَ ۚ

جڑا ہے۔ یہ فیصلہ کا دن ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔

۱۔ اور ظاہر آیت لا یسمعون سے معلوم ہوتا ہے کہ اول استماع کی نفی کی باعتبار اکثر کے پھر بعد استماع شاذ و نادر کے بعد فون میں سم کی نفی کی پھر بعد سمع اتفاقی کے اجمع سے سماع کی نفی کی اور من کل جانب کا مطلب یہ نہیں کہ ہر شیطان کو ہر طرف سے رجم کرتے ہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس طرف کوئی شیطان جائے ادھر ہی رجم ہوتا ہے۔

## معجزات کا استہزاء کرنے والوں اور وقوع قیامت کے منکرین کی تردید اور ان کے لئے وعید شدید

**تفسیر:** ان آیات میں اثبات تو حید بھی ہے اور اثبات معاد بھی ہے اور منکرین کے استعجاب کی تردید بھی۔ اول تو یہ فرمایا کہ آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ یہ لوگ یعنی منکرین بعث بناوٹ میں زیادہ سخت ہیں یا دوسری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں ان کا ذکر اوپر ہو چکا ہے ظاہر ہے کہ وہی چیزیں زیادہ سخت ہیں۔ جب انسان یہ جانتا ہے کہ مجھ سے زیادہ مضبوط اور سخت چیزیں موجود ہیں تو پھر دوبارہ اپنے پیدا کئے جانے کا کیسے انکار کرتا ہے؟ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ طِينٍ لَّازِبٍ (بے شک ہم نے انہیں چپکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے) جو چپکتی ہوئی مٹی سے پیدا ہوا ہے جس میں نہ کچھ قوت ہیں نہ صلابت ہے اس کو خود غور کرنا چاہئے کہ جب اتنی بڑی بڑی سخت مخلوق کو رب العالمین جل مجدہ نے پیدا فرمادیا تو مجھ جیسے ضعیف کو پیدا کرنا اس کے لئے کیا مشکل ہے مجھے پہلے بھی اسی نے پیدا کیا ہے اور موت کے بعد دوبارہ بھی وہی پیدا فرمائے گا۔ قال صاحب الروح: احتجاج علیہم فی امر البعث بان الطین اللّازب الذی خلقوا منه فی ضمن خلق ابیہم ادم علیہ السلام تراب فمن این استکروا ان یخلقوا منه مرة ثانية. (صاحب تفسیر روح المعانی فرماتے ہیں اس آیت میں بعث بعد الموت کے مسئلہ پر مشرکین کے خلاف دلیل ہے اس طرح کہ چپکتی مٹی جس سے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے واسطہ سے پیدا کئے گئے وہ مٹی ہی ہے لہذا اب اگر وہ دوبارہ مٹی سے اٹھائے جائیں تو اس پر نیکری ان کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے) بَلْ نَحْنُ بِمَبْعُوثُونَ (بلکہ بات یہ ہے کہ آپ تو ان کے انکار پر تعجب کرتے ہیں کیوں کہ یہ قدرت الہیہ کے منکر ہیں اور یہ لوگ تمسخر کرتے ہیں مذاق بناتے ہیں) وَلَا أَكْفُرُوا لَآيَاتِنَا لَئِن كُنُوزُهُمْ لَمِنَ الذُّلِّ (اور جب ان کو سمجھایا جاتا ہے تو نہیں سمجھتے) دلائل عقلیہ ان کے سامنے لائے جاتے ہیں تو ان سے بھی منتفع نہیں ہوتے وَلَا يَرْجِعُونَ (اور جب کوئی معجزہ دیکھتے ہیں)۔ جو آپ کے نبوت ثابت کرنے کے لئے ان کی نظروں کے سامنے آتا ہے تو اس کا مذاق اڑا دیتے ہیں۔ وَقَالُوا إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ (اور کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم نے دیکھا یہ تو کھلا ہوا جادو ہے) بس جب دلائل عقلیہ میں بھی غور و فکر نہیں کرتے اور معجزات کو بھی جادو بتا دیتے تو ان سے قبول حق کی کیا امید رکھی جاسکتی ہے۔

وَإِذَا مِتْنَا (الایتین) وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے کیا ہم پھر زندہ کئے جائیں گے اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی زندہ ہوں گے۔ (ان کی یہ بات استفہام انکاری کے طور پر ہے) (بعث بعد الموت کا انکار کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ مٹی ہو کر اور ہڈیوں کا ریزہ ریزہ بن جانے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہم اسے نہیں مانتے)

قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ (آپ فرمادیجئے کہ ہاں اور تم ذلیل بھی ہو گے) یعنی تمہارے انکار کے باوجود تمہیں قیامت میں زندہ ہونا ہے اور قبروں سے اٹھنا ہے تمہارے پرانے باپ دادے بھی زندہ کئے جائیں گے اور قبروں سے اٹھیں گے اور تم ذلیل بھی ہو گے حق بات تمہارے سامنے آتی ہے تو اسکے منکر ہو جاتے ہو اس دن منکر اور کافر کی ذلت یقینی ہے۔ وَأَمَّا حِجْرٌ فَسُورَةٌ وَأَعْدَادُهُ قادر مطلق جل مجدہ کے لئے قیامت قائم کرنا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا ذرا بھی دشوار نہیں ہے اسکے حکم سے ایک چیخ

وجود میں آئے گی یعنی پہلی بار صور پھونکے جانے کے بعد دوبارہ صور پھونکا جائے گا تو سب قبروں سے نکل کر دیکھ لگیں گے جیسا کہ موت سے پہلے سابقہ زندگی میں دیکھا کرتے تھے کما فی سورة الزمر: لَنُرِيَنَّهُمْ فِيهِمْ اٰخَرٰى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُوْنَ۔ وَقَالُوا يٰوَيْلَنَا هٰذَا يَوْمُ الَّذِيْنَ (اور کہیں گے ہائے ہماری کم بختی یہ تو روز جزا ہے) جس کا ہم انکار کیا کرتے تھے باری تعالیٰ کا ارشاد ہو گا: هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِيْ كُنْتُمْ فِيْهِ تَكْذِبُوْنَ (یہ فیصلہ کا دن ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے) تمہارے جھٹلانے سے اس کی آمد نہیں رکی۔ اب تو تمہیں سزا بھگتنی ہی ہوگی۔

اَحْسِرُوا الَّذِيْنَ ظَلَمُوا وَاَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ ﴿۱﴾ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَاَهْدُوْهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ

ظالموں کو اور اُن کے ہم مشربوں کو جمع کر لو اور اُن معبودوں کو جن کی وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے پھر انہیں دوزخ کا راستہ

الْجَحِيْمِ ﴿۲﴾ وَقِفُوْهُمْ اِنَّهُمْ مَسْئُوْنُوْنَ ﴿۳﴾ مَا لَكُمْ لَا تَنْصَرُوْنَ ﴿۴﴾ بَلْ هُمْ الْيَوْمَ

دکھا دو۔ اور انہیں ٹھہراؤ بیشک اُن سے سول کیا جائے گا۔ کیا بات ہے کہ تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے۔ بلکہ وہ آج سب کے

مُسْتَسْلِمُوْنَ ﴿۵﴾ وَاَقْبَلْ بَعْضُهُمْ عَلٰی بَعْضٍ يَتَسَاءَلُوْنَ ﴿۶﴾ قَالُوْا اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَاْتُوْنَنا عَنِ

سب ہار مانے ہوئے ہوں گے اور اُن میں سے بعض بعض کی طرف متوجہ ہو کر ایک دوسرے سے سوال کریں گے کہیں گے کہ بے شک تم ہمارے پاس بڑے زوردار

الْيَمِيْنِ ﴿۷﴾ قَالُوْا بَلْ لَمْ تَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿۸﴾ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطٰنٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا

طریقے سے آیا کرتے تھے متوہمین کہیں گے بلکہ بات یہ ہے کہ تم خودی ایمان لانے والے نہ تھے۔ اور تم پر ہمارا کوئی زور نہیں تھا بلکہ بات یہ ہے کہ تم

طٰغِيْنَ ﴿۹﴾ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا اِنَّكَ لَذٰلِكَ اَقْبَوْنَ ﴿۱۰﴾ فَاَعْوِيْنَا اِنَّا كُنَّا غٰوِيْنَ ﴿۱۱﴾ وَاِنَّهُمْ

سرکشی کرنے والے تھے سو ہم پر ہمارے سب کی بات ثابت ہو گئی بلاشبہ ہم سب بھگتے والے ہیں۔ سو بلاشبہ ہم نے تمہیں بہکایا بے شک تم خودی گمراہ تھے سو بلاشبہ لوگ آج کسان

يَوْمِيْذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ ﴿۱۲﴾ اِنَّا كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ﴿۱۳﴾ اِنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا

عذاب میں شریک ہوں گے۔ بلاشبہ ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ یعنی بات ہے کہ ان کا ڈھنگ یہ تھا کہ جب اُن سے کہا جاتا کہ اللہ

قِيْلَ لَهُمْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿۱۴﴾ وَيَقُوْلُوْنَ اِنَّا لَتٰرْكُوْا اِلٰهَتِنَا لَشَاعِرٍ مُّجْنُوْنٍ ﴿۱۵﴾

کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو تکبر کیا کرتے تھے۔ اور کہتے تھے کیا ہم ایک ایسے شخص کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں جو شاعر ہے دیوانہ ہے۔

قیامت کے دن مجرمین کا ایک دوسرے پر

بات ڈالنا اور چھوٹوں کا بڑوں کو الزام دینا

تفسیر: یہاں سے سورة الصافات کا دوسرا کوغ شروع ہو رہا ہے اس میں روز قیامت کے بعض مناظر اور اہل دوزخ کی آپس کی بعض باتیں اور اہل جنت کے اکرام و انعام کا اور باہم گفتگو کا تذکرہ فرمایا ہے اور کوغ ختم ہونے سے چند



آیات پہلے زقوم کے درخت کا اور اس کے کھانے والوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔

اَشْمُرُوا الَّذِیْنَ ظَلَمُوا (الآیات التسع) اول تو یہ فرمایا کہ دوسرا صور پھونکے جانے کے بعد جب میدان حشر میں پہنچیں گے تو اللہ جل شانہ کا ارشاد ہوگا کہ جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا یعنی کفر اختیار کیا اور اس کے داعی بنے انہیں اور ان کے ہم مشربوں یعنی ان کا اتباع کرنے والوں کو اور ان معبودوں کو جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے ان سب کو جمع کرواؤ ایک جگہ جمع کر کے دوزخ کا راستہ بتادو کہ جاؤ اس میں داخل ہو جاؤ اور ہاں ان کو ذرا ٹھہرا لو ان سے سوال کیا جائے گا جب ان کو ٹھہرایا جائے گا تو یہ سوال ہوگا کہ آج آپس میں ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ دنیا میں تو بڑے یار یا رب بنے ہوئے تھے اور مدد کے وعدے بھی کرتے تھے۔ جو لوگ کفر کی دعوت دیتے تھے وہ تو یہاں تک کہہ دیتے تھے:

اَتَبْعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلَ خَطَايَكُمْ (کہ تم ہماری راہ کا اتباع کر لو تمہاری خطاؤں کو ہم اٹھالیں گے) کیا بات ہے آج تم میں سے کوئی بھی کسی کی مددگار نہیں؟ وہاں تو ہر ایک خود ہی جتلائے عذاب ہوگا دوسرے کی کچھ بھی مدد نہیں کر سکے گا اور سب شرم کے مارے سر جھکائے ہار مانے ہوئے کھڑے ہوں گے اور یہ مان لیں گے اور جان لیں گے کہ واقعی ہم مستحق عذاب ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی بھی شخص نے (دنیا میں) کسی بھی چیز کی طرف دعوت دی ہوگی تو یہ شخص قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا جس کو دعوت دی ہوگی وہ اُسے پکڑے رہے گا اُس سے جدا نہیں ہوگا اگرچہ ایک ہی شخص نے ایک ہی شخص کو دعوت دی ہوگی اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی: وَقَفُّوْهُمْ اِنَّهُمْ مُّسْتَوْلُوْنَ مَا لَكُمْ لَا تَنْصُرُوْنَ (رواہ الترمذی فی تفسیر سورة الصافات)

آپس میں ایک دوسرے کی مدد تو کیا کرتے وہاں تو چھوٹے بڑوں کو الزام دیں گے اور بڑوں سے کہیں گے کہ تم نے تو ہمارا ناس کر دیا دنیا میں تمہارا یہ حال تھا کہ ہمارے پاس بڑے زوردار طریقے سے آتے تھے اور ہم پر خوب زور ڈال کر کفر و شرک کی راہ دکھاتے تھے اور اپنی چودھراہٹ اور سرداری کو استعمال کرتے تھے آج جب ہم مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں تو تمہاری طرف سے کچھ بھی مدد نہیں؟ ان کے بڑے سردار اور چودھری کہیں گے بات یہ ہے کہ ہم نے جو کچھ کیا وہ اپنی جگہ ہے تمہاری گمراہی صرف ہمارے ہی گمراہ کرنے پر منحصر نہ تھی بلکہ تم خود ہی مومن نہیں تھے ہم نے تم سے جو کچھ کہا اور تمہیں جو کچھ بتایا وہ بہت سے بہت ایسی بات تھی کہ تم کو کفر پر جے رہنے کی تاکید کرتے رہے کافر تو تم خود ہی تھے اگر ہم تمہیں نہ بہکاتے اپنے کفر کی وجہ سے پھر بھی تم آج سزا پاتے اور اس بات کا بھی تو خیال کرو کہ ہم نے تمہیں جو کچھ بتایا اور کفر پر ابھارا اس میں ہماری باتیں ہی باتیں تھیں تم پر ہمارا ایسا کوئی تسلط نہیں تھا کہ لٹھ مارتے اور تلواریں کھینچ کر کفر پر جے رہنے کی تاکید کرتے بات یہ ہے کہ تم خود ہی سرکش تھے تمہارے جذبات اور ہمارے جذبات میں یگانگت تھی لہذا تم نے ہماری بات مان لی: قَالَ صَاحِبُ الرُّوحِ: بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا ظَافِرِينَ جواب آخر تسلیمی علیٰ فرض اضلالہم بانہم لم یجبروہم علیہ وانما دعوہم لہ فاجابوا باختيارہم لموافقة ما دعوا لہ ہواہم۔ (صاحب تفسیر روح المعانی فرماتے ہیں بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا ظَافِرِينَ یہ ایک دوسرا جواب ہے جو اس طرح ہے کہ بالفرض ہم مان لیتے ہیں کہ ہم نے تمہیں گمراہ کیا لیکن ہم نے تمہیں اس گمراہی کے ماننے پر مجبور نہیں کیا ہم نے تو فقط دعوت ہی دی اور انہوں نے اپنی مرضی و پسند سے اس دعوت کو قبول کر لیا)

مجرمین کا اقرار کہ ہم عذاب کے مستحق ہیں: فَقُلْ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا اَلَّذِي يَقُولُ (سو ہم پر ہمارے رب کی بات ثابت ہوگئی بلاشبہ ہم سب چکھنے والے ہیں) یعنی ہمارے خالق اور مالک نے جو کافروں کے لئے جہنم کا داخلہ طے فرما دیا تھا اسی کے مطابق ہمیں اور تمہیں عذاب چکھنا ہوگا۔ فَاَعْوَيْتُمْ لَكُمْ اِنَّا كُنَّا غٰوِبِينَ (سو ہم نے تم کو بہکا دیا بیشک ہم بھی گمراہ تھے) تم بھی کافر تھے اور ہم بھی اب عذاب سے چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں ہمیں الزام دے کر تمہارا بچاؤ نہیں ہو سکتا۔

اتباع اور تابعین سب عذاب میں مشترک ہوں گے: وَاللّٰهُ يَعْلَمُ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ (ارشاد خداوندی ہے کہ وہ سب لوگ تابع اور متبوع بڑے اور چھوٹے اس دن عذاب میں شریک ہوں گے) اِنَّا كُنَّا لَكَ نَفْعًا بالعبورین (بلاشبہ ہم مجرمین کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں) مشرکوں اور کافروں کے لئے عذاب طے شدہ ہے جس میں وہ ضرور مبتلا ہوں گے۔ اِنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَسْتَكْبِرُوْنَ (بے شک جب انکے سامنے معبود برحق کی الوہیت کی دعوت دی جاتی تھی اور ان کے سامنے مضمون لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ بیان کیا جاتا تھا تو تکبر کرتے تھے یعنی اس کلمہ کے ماننے سے نفرت کرتے تھے اور اس کے قبول کرنے میں اپنی ہتک سمجھتے تھے اس طرح تو حید کا انکار کرتے تھے) وَيَقُولُوْنَ اِنَّا لَنَارِكُوْا اَلْاِلٰهِيْنَ اِنَّا عِبَادُ تَجَنُّوْنَ (اور یوں کہتے تھے کیا ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں ایک شاعر دیوانہ کی وجہ سے) اس میں رسالت کا انکار ہے انکار تو حید اور انکار رسالت دنیا میں دونوں باتوں پر جے رہتے تھے اسی طرح مجرم بن کر آخرت میں اللہ کے دربار میں پہنچیں گے اور عذاب بھگتیں گے۔

بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ ۝ اِنَّكُمْ لَذٰلِقُوا الْعَذَابَ الْاَلِيمَ ۝ وَمَا تُجْزَوْنَ

بلکہ بات یہ ہے کہ وہ سچ لے کر آیا اور دوسرے پیغمبروں کی تصدیق کی۔ بلاشبہ تم دردناک عذاب کو چکھنے والے ہو۔ اور تمہیں انہی کاموں کا

اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِينَ ۝ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ۝

بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ ہاں جو اللہ کے مخلص بندے ہیں ان کا حال دوسرا ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے رزق معلوم

فَوَاكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ ۝ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ۝ عَلٰی سُرُرٍ مُّتَقَبِلِينَ ۝ يُطَافُ عَلَيْهِمْ

یعنی میوے ہیں۔ اور وہ نعمت کے باغوں میں باعزت رہیں گے۔ آئنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ ان کے پاس شراب کا ایسا جام لایا جائے گا

بِكَأْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ ۝ بَيَضَاءٌ لَّدٰى الشَّرِيْۤينَ ۝ لَا فِيْهَا غَوْلٌ ۝ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ ۝

جو بہتی ہوئی شراب سے بھر اہوا ہوگا۔ وہ شراب سفید ہوگی پینے والوں کے لئے لذیذ ہوگی۔ نہ اس سے درد سر ہوگا اور نہ اس سے عقل میں فتور آئے گا۔

وَعِنْدَهُمْ قَصْرِۢتُ الطَّرَفِۢ عَيْنٍ ۝ كَاَنَّهُنَّ بَيْضٌ مُّكْنُوۡنٌ ۝

اور ان کے پاس بڑی بڑی آنکھوں والی بیویاں ہوں گی جن کی نظریں پچی ہوں گی۔ گویا کہ وہ بیٹھے ہیں جو چپے ہوئے رکھے ہیں۔

## کافر دردناک عذاب میں ہونگے اور اللہ کے مخلص بندے عزت کے ساتھ تختوں پر جنت کی نعمتوں میں مشغول ہوں گے

**تفسیر:** اس میں منکرین اور معاندین کی تردید ہے ارشاد فرمایا کہ یہ بات نہیں ہے کہ ہمارا رسول شاعر یا دیوانہ ہے بلکہ بات یہ کہ وہ حق لے کر آیا ہے اور آپ سے پہلے رسولوں نے بھی اس کی تصدیق کی ہے تمام انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام توحید کی دعوت دینے کے لئے آئے ان کی دعوت حق تھی اور اس نبی (یعنی امام الانبیاء ﷺ) کی دعوت بھی حق ہے تم شرک پر اور رسول اللہ ﷺ کی تکذیب پر جمے ہوئے ہو اور دعوت توحید قبول کرنے کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہو! اعمال تمہیں دردناک عذاب چکھنا ہی ہوگا اور تمہیں جو عذاب ہوگا وہ صرف تمہارے کئے ہوئے اعمال ہی کا بدلہ ہوگا۔

رہے مومن مخلص بندے سودہ اپنے ایمان کی وجہ سے عذاب سے محفوظ ہوں گے بلکہ ان کا انعام و اکرام کیا جائے گا ان کے لئے رزق معلوم ہوگا جو ہر اعتبار سے عمدہ ہوگا۔ فواکھ یعنی میوے ہوں گے جنہیں پوری رغبت اور اشتہاء کے ساتھ کھائیں گے کما فی سورة الواقعة وَالْأَكْثَرُ أَغْنَىٰ عَنْكَ دُونَ وَكَفَىٰ حَظِيرَةً يَتَأَيَّمْنَ یہ حضرات اللہ کے نزدیک معزز اور مکرم ہوں گے نعمت کے باغچوں میں ہوں گے آسنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے ان پر جام و شراب کا دور چلے گا۔ وَلَذَانِ اور غلّمان ایسی شراب کے جام بھر کر لائیں گے جو جاری یعنی بہتی ہوئی ہوگی۔ جنت میں جیسے پانی اور دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی ایسے ہی شراب کی بھی نہریں ہوں گی اور رنگ کے اعتبار سے یہ شراب سفید ہوگی اور مزہ کے اعتبار سے پینے والوں کے لئے لذیذ ہوگی۔ اور کسی کو یہ وہم نہ ہو کہ شراب میں تو نشہ ہوتا ہے جس سے آدمی کے ہوش و حواس ٹھیک نہیں رہتے شراب پی کر اگر نشہ طاری ہوا اور ہوش و حواس صحیح نہ رہے تو کیا مزہ رہے گا؟ اس دوسرے کو دور کرتے ہوئے فرمایا لَا فِيهَا غُلُولٌ (نہ تو اس میں در دسر ہوگا) یہ ترجمہ حضرت ابن عباسؓ سے منقول ہے اور انہی سے اس کا یہ مطلب بھی منقول ہے کہ لَيْسَ فِيهَا تَنَقُّ وَلَا تَكْرَاهِيَةٌ تَخْمَرُ الدُّنْيَا اس میں دنیا والی شراب کی طرح نہ بدبو ہوگی نہ اس سے کراہت ہوگی۔ (ذکرہ صاحب الروح) وَلَا لَهُمْ عَنْهَا زَفْرُونَ (اور نہ اس سے عقل میں فتور آئے گا) خلاصہ یہ ہے کہ شراب لذیذ بھی ہوگی اور کسی قسم کی ظاہری یا باطنی تکلیف بھی نہیں پہنچے گی شراب پی کر بھی حسب سابق ہوش و حواس برقرار رہے گا۔

مخلص بندوں کو جو نعمتیں ملیں گی ان میں بڑی بڑی آنکھوں والی حسین و جمیل بیویاں بھی ہوں گی وہ صفائی ستھرائی میں ایسی ہوں گی جیسے دنیا میں پرندوں کے انڈے ہوتے ہیں جنہیں جانور اپنے پروں میں چھپا کر رکھتے ہیں جنت کی ان بیویوں کو جو بیض مکنون سے تشبیہ دی ہے یہ تشبیہ صفائی اور گردوغبار اور داغ دھبے سے محفوظ رہنے میں ہے اہل عرب عورتوں کو انڈوں سے تشبیہ دیتے تھے اور انہیں بیضات خدور کہتے تھے لہذا سورہ رحمن میں جو كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ فرمایا یہ اس کے منافی نہیں ہے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ ممکن ہے کہ حور عین کے رنگ مختلف ہوں سفید بھی ہوں سرخ بھی ہوں۔ لیکن چونکہ خالص سفید رنگ (جو انڈے کی طرح سے ہو) عورتوں میں محبوب و مرغوب نہیں سمجھا جاتا اس لئے بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس رنگ میں زردی کی آمیزش ہوگی سفیدی اور زردی مل کر ایک خوشنما منظر دیکھنے میں آئے گا۔ هَذَا مَلَخَصُ مَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ الرُّوحِ وَالَّذِي سَنَحَ فِي قَلْبِي أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الضَّرُورِيِّ أَن تَكُونَ الْبَيْضَةُ بَيْضَاءَ فَقَدْ رَأَيْنَا بَيْضًا

ذات الوانِ اُخریٰ غیر بیاض و لیس فی لفظ الایۃ مایدل علی وجہ الشبہ ولما کان فی الجنة کل نعمۃ حسب رغبات اهلہا یكون لو نہن احسن واجمل ایاً ما کان۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔ (یہ تو اس کا خلاصہ ہے جو صاحب روح المعانی نے ذکر کیا ہے۔ اور جو بات میرے دل میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ائمہ سفید ہی ہو ہم نے سفیدی کے علاوہ کئی رنگوں والے ائمہ دیکھے ہیں۔ اور آیت کے الفاظ میں بھی اس پر شبہ کی کوئی دلیل نہیں ہے لہذا جب جنت میں جنتیوں کے حسب منشاء ہر نعمت ہوگی تو سوروں کا رنگ بھی نہایت حسین و خوبصورت ہوگا خواہ کوئی بھی ہو) جنت کی بیویوں کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ وہ قصرت الطرف ہوں گی جس کا ترجمہ ”بچی نظروں والی“ کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ وہ صرف اپنے شوہروں کی طرف نظر رکھیں گی کسی غیر کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھیں گی دنیا کی مومن عورتوں کو جنتی حوروں کی طرح قصرت الطرف ہونا چاہئے۔

فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ۖ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ۝

سوان میں سے بعض بعض پر متوجہ ہو کر ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ اُن میں سے ایک کہے گا کہ بلاشبہ میرا ایک ساتھی تھا۔

يَقُولُ أَإِنَّكَ لِمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ ۚ إِذْ أَخَذْنَا وَكَاتِرًا بَآءٌ وَإِنَّا لَمَدِينُونَ ۝

وہ کہتا تھا کہ یا تو تصدیق کرنے والوں میں ہے۔ کیا جب ہم مرجائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں اپنے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا۔ وہ کہے گا

هَلْ أَنتُمْ مُطْمَئِنُّونَ ۚ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءٍ الْجَحِيمِ ۝ قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدْتُ لَتُردِّدُنَّ ۝

کیا تم جھانک کر سے دیکھنا چاہتے ہو۔ سو وہ شخص جھانکے گا تو اس کو جہنم کے بیچ میں دیکھ لے گا۔ کہے گا کہ اللہ کی قسم تم قریب تھا کہ تو مجھے ہلاک ہی کر دیتا۔

وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُخْضَرِّينَ ۚ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ ۚ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَىٰ

اور اگر میرے رب کا فضل نہ ہوتا تو میں بھی اُن لوگوں میں ہوتا جو حاضر کئے گئے ہیں۔ یہی بات ہے تاکہ ہم پہلی بار مرنے کے بعد نہیں مریں گے

وَمَا نَحْنُ بِمُعَدِّيْنَ ۚ إِنَّ هَٰذَا هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۚ لِيُثِلَ هَٰذَا فَلَيعْمَلَ الْعَمَلُونَ ۝

اور ہم کو عذاب نہ ہو گا۔ بلاشبہ یہ بڑی کامیابی ہے۔ اسی کے لئے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہئے۔

## ایک جنتی اور ایک دوزخی کا مکالمہ

**تفسیر:** اہل جنت جنت کی نعمتوں میں مشغول ہوں گے آنے سے سائے تختوں پر بیٹھے ہوں گے آپس میں باتیں بھی ہوں گی دل لگی کے طور چھینا چھینتی بھی ہوگی جیسا کہ سورۃ الطور میں یَتَنَازَعُونَ فَمَا تَخَانَا فرمایا۔ انہی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہوگی کہ جنتیوں میں سے ایک جنتی یوں کہے گا کہ دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا جس سے ملاقات ہوتی رہتی تھی وہ خود مومن نہ تھا مجھے بھی سرزنش کرتا تھا اور قیامت پر ایمان لانے کو بہوتوئی سمجھتا تھا اور مجھ سے کہتا تھا کیا تو بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ قیامت قائم ہوگی اور مردے زندہ ہو کر قبروں سے اٹھیں گے تو یہی بتا کہ جب ہم مرجائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں

گے تو کیا زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے اور اپنے اپنے اعمال کی جزا و سزا پائیں گے میری سمجھ میں تو یہ بات نہیں آتی۔ بات کرتے کرتے وہ شخص کہے گا میں تو جنت میں آ گیا اور میرا وہ ساتھی جو جزا و سزا کی تصدیق نہیں کرتا تھا اور مجھے بھی اس سے روکتا تھا وہ دوزخ میں چلا گیا، آؤ ذرا دوزخ میں جھانک کر دیکھیں تو سہی اس کا کیا حال ہے؟ یہ بات کہہ کر جب وہ شخص دوزخ میں جھانکے گا تو اسی ساتھی کو جو ایمان سے روکتا تھا اور خود کا فر تھا دوزخ کے درمیان دیکھ لے گا، جب وہ نظر آئے گا تو اس سے کہے گا کہ تو نے اپنا انجام دیکھ لیا، تو تو مجھے بھی ایمان لانے سے روکتا تھا، قریب تھا کہ تو میرا بھی ناس کھودیتا، اگر میں تیری بات مان لیتا تو آج میں بھی دوزخ میں ہوتا، اللہ تعالیٰ ہی نے مجھ پر فضل فرمایا کہ اس نے مجھے ایمان کی توفیق دی اور کفر سے بچایا، اللہ کی توفیق اور فضل و کرم نہ ہوتا تو آج میں بھی انہیں لوگوں میں ہوتا جو عذاب کے لئے دوزخ میں حاضر کر دیئے گئے۔

جنت میں ہوتے ہوئے دوزخ میں کیسے نظر جائے گی اور سختی آدمی کو اپنا دنیا والا ساتھی جو منکر بعث تھا کیسے نظر آ جائے گا؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ اہل جنت کی نظر کو تیز پیدا فرمادے اور انہیں ایسی قوت دے دے جس کے ذریعے جس کو چاہیں دیکھ سکیں۔ اور دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ جب جنتی حضرات دوزخ میں نظر ڈالنا چاہیں گے تو اعراف پر کھڑے کر دیئے جائیں گے۔ اور بعض حضرات سے نقل کرتے ہوئے تیسرا جواب یہ دیا ہے کہ جنت میں کچھ طاقے ہوں گے ان سے دوزخ والوں کو دیکھ لیں گے، یہ جواب پرانے زمانے کے اعتبار سے ہیں، اب تو دیکھنے سننے اور بات کرنے کے لئے ایسے نئے آلات نظروں کے سامنے آ گئے ہیں کہ احتمالات بعیدہ نکالنے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ پہلا جواب احوال حاضرہ کے مناسب ہے۔ وَيَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ۔

اَھَا تَحْنُ بِمِیْتٍ وَہ جنتی شخص جو اپنے ساتھی کو دوزخ میں دیکھے گا اس سے خطاب کرنے کے بعد پھر اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو کر یوں کہے گا۔ یہی بات ہے نا کہ اب ہم مرنے والے نہیں ہیں، وہ پہلی موت جو دنیا میں آئی تھی اس کے بعد اب اور کوئی موت نہیں ہمیشہ ہمیں جنت ہی میں رہنا ہے اور ہمیں عذاب بھی نہیں ہوگا۔ قال صاحب الروح: والمراد استمرار النفی وتاکیدہ وکذا فیما تقدم واستمرار هذا النفی نعمة جلیلة۔ (صاحب روح المعانی فرماتے ہیں مراد نفی کا استمرار اور تاکید ہے اور گزشتہ میں بھی یہی مراد ہے اور اس نفی کا استمرار بہت بڑی نعمت ہے)

اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا: اِنَّ هَٰذَا لَھُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیْمُ (بلاشبہ یہ بڑی کامیابی ہے) کہ جنت میں داخلہ ہو گیا اور ہمیشہ کے لئے ہو گیا اور وہاں کی بے مثال نعمتیں ہمیشہ کے لئے مل گئیں۔

لِیُثِلَ هَٰذَا فَاَلِیَعْمَلِ الْعَمَلُوْنَ (اسی جیسی کامیابی کے لئے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہئے) یعنی ایمان لائیں اور اعمال صالحہ کرتے رہیں۔

اَذٰلِکَ خَیْرٌ نِّزْلًا اَمْ شَجَرَةُ الرَّقْمِ ۝ اِنَّا جَعَلْنٰهَا فِتْنَةً لِّلظٰلِمِیْنَ ۝ اِنْہَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ

کیا ضیافت کے اعتبار سے یہ بہتر ہے یا رقم کا درخت، بیشک ہم نے اُس درخت کو ظالموں کے لئے فتنہ بنایا ہے۔ بلاشبہ وہ ایک درخت ہے

فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ ۖ طَلْعَهَا كَالنَّارِ ۖ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ ۖ وَأَنَّهُمْ لَا يَكُونُونَ مِنْهَا قِمَارًا ۚ

جو دوزخ کی گہرائی میں سے نکلتا ہے اُس کے پھل ایسے ہیں جیسے سانپوں کے پھن ہوں۔ سواں میں شک نہیں کہ وہ لوگ بالضرور اس میں سے کھائیں گے سواں سے

مِنْهَا الْبُطُونُ ۖ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَيْمٍ ۖ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى

اپنے پیٹوں کو بھر لیں گے۔ پھر بلاشبہ اُن کے لئے اُس درخت کے اوپر سے کھولتا ہوا گرم پانی ملا کر دیا جائے گا پھر بلاشبہ اُن کا لوٹنا

الْجَحِيمِ ۖ إِنَّهُمْ آلَفَا الْآبَاءَ هُمْ ضَالِّينَ ۖ فَهُمْ عَلَىٰ آثَرِهِمْ يُهْرَعُونَ ۖ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ

دوزخ کی طرف ہوگا۔ بے شک انہوں نے باپ دادوں کو گمراہی کی حالت میں پلایا۔ پھر اُن کے نقش قدم پر تیزی کے ساتھ چلتے رہے اور یہ واقعی بات ہے کہ ان سے پہلے گئے لوگوں میں سے

أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ ۖ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا فِيهِمْ مُّنْذِرِينَ ۖ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذِرِينَ ۖ

اکثر گمراہ ہو چکے ہیں۔ اور یہ بات واقعی ہے کہ ہم نے اُن میں ڈرانے والے بھیجے ہیں۔ سو دیکھ لیجئے جن کو ڈرایا گیا اُن کا کیا انجام ہوا۔

الْأَعْبَادَ لِلَّهِ الْخَالِصِينَ ۖ

سوا اللہ کے مخلص بندوں کے۔

## شجرۃ الزقوم کا تذکرہ جسے اہل جہنم کھائیں گے

**تفسیر:** اوپر اہل جنت کی نعمتوں کا اور وہاں کی کامیابیوں کا تذکرہ فرمایا ہے اور ان آیتوں میں اہل دوزخ کے کھانے کی چیزوں میں سے ایک چیز یعنی زقوم کا تذکرہ فرمایا، اہل جنت کے بارے میں فرمایا أُولَٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ اور یہاں یوں فرمایا أَذَلَّكَ خَيْرٌ مِّنْ زُلْزَلَةِ شَجَرَةِ الزَّقُّومِ (کیا اہل جنت کا رزق بہتر ہے جو بطور مہمانی ان کو دیا جائے گا یا زقوم کا درخت بہتر ہے) زقوم کا درخت بہت ہی زیادہ بد مزہ اور کڑوا ہوگا جو دوزخ کی گہرائی میں سے نکلے گا، اُس کے پھل ایسے ہوں گے جیسے سانپوں کے پھن ہوں۔ اس میں درخت کی بد صورتی بیان فرمائی، مزہ بھی بہت زیادہ مکروہ ہوگا اور صورت بھی بہت زیادہ مکروہ ہوگی جس کے دیکھنے ہی سے ڈر لگے گا، یہ درخت گو بہت زیادہ کڑوا اور بد صورت ہوگا لیکن دوزخی بھوک کی وجہ سے اتنا کھائیں گے اتنا کھائیں گے کہ پیٹ بھر لیں گے۔

سورۃ محمد ﷺ میں فرمایا کہ انکو سخت گرم پانی پلایا جائے گا۔ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاهُمْ (اور انہیں گرم پانی پلایا جائے گا جو انکی آنتوں کو کاٹ کر رکھ دے گا)

سورۃ واقعہ میں فرمایا: ثُمَّ إِنَّكُمْ إِنتَهَيْتُمُ الظَّالِمِينَ لَأَكُونُوا لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ فَمَّا يُؤْتُونَ مِنْهَا الْبُطُونُ فَشَرَابٌ يُّؤْتُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَرَابٌ يُّؤْتُونَ شَرْبَ الْهَيْمِ هَذَا أَنزَلْنَاهُمْ يَوْمَ الذِّكْرِ (پھر اے جھٹلانے والے گمراہ لوگو! تم زقوم کے درخت سے کھاؤ گے اور اس سے پیٹ بھر لو گے پھر اوپر سے کھولتا ہوا پانی پیو گے جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں قیامت کے روز اس طرح ان کی مہمانی ہوگی)

وہ کیا ہی برا منظر ہوگا جب دوزخی اس درخت سے کھائیں گے اور پھر اوپر سے کھولتا ہوا پانی پئیں گے اور وہ بھی تھوڑا بہت نہیں بلکہ بیا سے اونٹوں کی طرح خوب زیادہ پئیں گے۔ اعاذنا اللہ تعالیٰ من الزقوم والحمیم وسانر انواع عذاب الحمیم۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اگر زقوم کا ایک قطرہ بھی دنیا میں ٹپکا دیا جائے تو وہ یقیناً تمام دنیا والوں کی غذائیں بگاڑ ڈالے اب بتاؤ اس کا کیا حال ہوگا جس کی خوراک ہی زقوم ہوگی۔ (الترغیب والترہیب جلد ۴ ص ۴۸۰ از ترمذی وابن ماجہ وابن حبان)

ثُمَّ إِنَّ مِنْهُمْ لَأَیْ جَحِیمٍ (پھر انکا لوٹنا دوزخ ہی کی طرف ہوگا) زقوم کھانے اور گرم پانی پینے کے لئے جس جگہ جائیں گے وہ بھی دوزخ ہی میں ہوگی اور یہ چیزیں کھاپی کر بھی دوزخ میں ہی رہیں گے اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائیں گے۔ قال صاحب الروح ای الی مقررهم من النار فان فی جہنم مواضع اعد فی کل موضع منها نوع من البلاء۔ (تفسیر روح المعانی کے مصنف فرماتے ہیں یعنی جہنم میں ان کے ٹھکانے کی طرف لوٹنا ہے کیونکہ جہنم میں کئی درجہ ہیں ہر جگہ ایک الگ قسم کا عذاب ہے)

زقوم کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ ہم نے اسے ظالموں کے لئے امتحان کی چیز بنایا ہے (یعنی موت کے بعد دوزخ میں داخل ہو کر اہل کفر بطور سزا کے زقوم کا درخت کھائیں گے وہاں اسے کھانا پڑے گا اور دنیا میں اس کا ذکر آیا تو مذاق بنانے لگے جو ان کے لئے فتنہ یعنی امتحان کا سبب بن گیا کہ وہ اسکی خبر پر ایمان لاتے ہیں یا انکاری ہوتے ہیں)

صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ کافروں نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگے کہ تمہارے بیان کے مطابق تو دوزخ میں آگ ہی آگ ہے وہاں درخت کا کیا کام؟ اور جب ابو جہل نے زقوم کے درخت کی بات سنی تو مذاق بناتے ہوئے کہنے لگا کہ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ زقوم کھجور اور مسکہ کا نام ہے وہاں جا کر بھی تمہارے مزے ہوں گے۔ یہ بات اس نے اپنے پاس سے بنائی۔ عربی لغت میں زقوم کا ترجمہ کھجور اور مسکہ نہیں ہے اور یہ بات کہ آگ میں درخت کیسے زندہ رہے گا؟ یہ بھی بیوقوفی کا سول ہے آگ تو اللہ کے حکم سے جلاتی ہیں اللہ تعالیٰ جس کو چاہے آگ میں زندہ اور ہر ابھرا کر رکھتا ہے۔

اہل جہنم آباؤ اجداد کی تقلید کر کے گمراہ ہوئے: اِنَّهُمْ اَلْفَوْا اٰبَاءَهُمْ صَلَّوْا عَلٰی اٰثَرِهِمْ فَهَرُّوْنَ یعنی یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کر رکھا ہے اور آخرت کے عذاب کے مستحق ہو رہے ہیں انہوں نے اپنے باپ دادوں کو گمراہ پایا پھر غور و فکر کئے بغیر اور حق اور باطل میں امتیاز کئے بغیر انہی کے قدم بہ قدم تیزی کے ساتھ چل رہے ہیں گمراہوں کی تقلید نے انہیں برباد کیا۔

وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ کَثَرٌ مِّنْ اٰقِلِیْنِ (اور یہ بات واقعی ہے کہ ان موجودہ ظالموں یعنی کافروں سے پہلے گذشتہ امتوں میں سے اکثر لوگ گمراہ ہو چکے ہیں) وَلَقَدْ اَسْلَمْنَا لِیَوْمِئِذٍ رَّیْنِ (اور یہ بات بھی واقعی ہی ہے کہ ہم نے ان میں ڈرانے والے سچے تھے) یعنی حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام حق کی دعوت لیکر پیچھے اور انہیں بتایا کہ اگر باطل میں لگے رہو گے حق قبول نہ کرو گے تو تمہارا برا انجام ہوگا، لیکن وہ لوگ نہ مانے دنیا میں بھی ان پر عذاب آیا اور آخرت میں بھی ان کے لئے عذاب ہے۔ وَالْغُلُزُکِیْفُ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُتَذَرِّیْنَ (سو دیکھ لیجئے جن لوگوں کو ڈرایا گیا ان کا کیا انجام ہوا؟)



اَلْعِبَادُ اللّٰهُ الْغَافِلُونَ ( مگر اللہ کے وہ بندے جنہیں اللہ نے منتخب فرمایا ) وہ برائی سے بھی محفوظ رہے اور ان کا انجام

بھی اچھا ہوا۔

وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحًا فَلْيَنصَحْ الْمُنِيْبُوْنَ ۚ وَنَجِّنَا وَاَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ۚ وَجَعَلْنَا

اور یہ بات واقعی ہے کہ نوحؑ نے ہمیں پکارا سو ہم کیا ہی خوب چیر فرما دینے والے اور ہم نے نوحؑ کو اور اس کے گھر والوں کو بڑے غم سے نجات دی۔ اور ہم نے

ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِيْنَ ۚ وَتَرْكُنَا عَلَيْهِ فِي الْاٰخِرِيْنَ ۚ سَلَّمَ عَلٰی نُوْحٍ فِي الْعُلَمِيْنَ ۚ اِنَّا كَذٰلِكَ

اس کی ذریت کو باقی رہنے دیا۔ اور ہم نے اُن کے لئے بعد کے آنے والوں میں یہ بات رہنے دی کہ نوحؑ پر سلام ہے جہانوں میں۔ بلاشبہ ہم

نَجْرٰى الْمُحْسِنِيْنَ ۚ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْاٰخِرِيْنَ ۚ

مخلصین کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بلاشبہ ہماری مؤمن بندوں میں ہیں۔ پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو غرق کر دیا۔

## حضرت نوح علیہ السلام کا دُعا کرنا اور ان کی قوم کا ہلاک ہونا اور ان کی ذریت کا نجات پانا

**تفسیر:** حضرت نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنی قوم میں ساڑھے نو سو برس رہے انہیں سمجھایا تو حید کی دعوت دی کہ غیر اللہ کی پرستش چھوڑنے کی تلقین کی، لیکن ان لوگوں نے نہ مانا بس تھوڑے سے ہی آدمی مسلمان ہوئے۔ اہل ایمان کی مختصر تعداد کے علاوہ جو دوسرے لوگ تھے وہ ضد پراڑے رہے اور حضرت نوح علیہ السلام کی مخالفت کرتے رہے، حضرت نوح علیہ السلام نے تنگ آ کر ان کے لئے بددعا کر دی: لَآتَنَزَعَنَّ عَلٰی الْاَرْضِ مِنَ الْكَافِرِيْنَ دِيَارًا (کہ اے رب زمین میں ایک بھی کافر باشندہ مت چھوڑ) اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ کشتی بنالو، انہوں ایک کشتی بنائی، اللہ پاک کی طرف سے پہلے خبر دے دی گئی تھی کہ پانی کا طوفان آئے گا، طوفان آیا، حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنے گھر والوں اور دوسرے اہل ایمان کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے، یہ حضرات غرق ہونے سے بچ گئے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو نجات دے دی اور اہل کفر سب غرق ہو گئے، ان غرق ہونے والوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی تھا اور ایک بیوی بھی تھی۔

ارشاد فرمایا: وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحًا فَلْيَنصَحْ الْمُنِيْبُوْنَ اور واقعی بات یہ ہے کہ نوحؑ نے ہمیں پکارا، سو ہم کیا ہی خوب دعا قبول کرنے والے ہیں (یعنی ان کی دعا قبول فرمائی)۔

وَنَجِّنَا وَاَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ (ہم نے نوحؑ کو ان کے گھر والوں کو بڑے غم سے یعنی ڈوبنے کی مصیبت سے

نجات دے دی) وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِيْنَ (اور ہم نے ان کی ذریت کو باقی رکھا) وَتَرْكُنَا عَلَيْهِ فِي الْاٰخِرِيْنَ سَلَّمَ عَلٰی نُوْحٍ

فِي الْعُلَمِيْنَ (اور بعد کے آنے والوں میں انکے لئے ہم نے یہ بات رہنے دی کہ نوحؑ پر سلام ہو جہانوں میں) اللہ تعالیٰ نے ان پر کئی طرح سے انعام فرمایا، اول تو انہیں اور ان کے اہل و عیال کو غرق ہونے سے بچالیا۔ دوسرے ان کی نسل کو دنیا میں باقی رکھا جو آج تک چل رہی ہے۔ اور تیسرے یہ انعام فرمایا کہ بعد کے آنے والوں میں ان کا ذکر جاری رکھا، ان کے

بعد جو انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام تشریف لائے اور ان کی امتیں وجود میں آئیں سب نے ان پر سلام بھیجا اور سلام میں بھی عموم ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ نوح علیہ السلام جہاں بھی ہوں جس عالم میں بھی ہوں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہو۔

پھر فرمایا: إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (ہم احسان والوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں) کسی کام کو اچھی طرح انجام دینے کو احسان کہا جاتا ہے۔ نیت کو درست کرنا، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے عمل کرنا اس کی بڑی اہمیت ہے اسی لئے ترجمہ میں الْمُحْسِنِينَ کا ترجمہ مُخْلِصِينَ کیا گیا ہے۔

إِنَّا مَنْ عِبَادَنَا الْمُؤْمِنِينَ (بلاشبہ وہ مومن بندوں میں سے تھے) ایمان ہی تو اصل چیز ہے جس کے بغیر اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی مقبولیت نہیں، حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے پھر بھی ان کے ایمان کا تذکرہ فرمایا اور اس سے پہلے احسان کا تذکرہ فرمایا جس سے معلوم ہوا کہ ایمان کے ساتھ احسان بھی ضروری ہے انہی سے اللہ کے نزدیک ترقیات ہوتی ہیں، لیکن نبوت وہی چیز ہے کسی چیز نہیں اور رسول اللہ ﷺ پر وہ بالکل ہی ختم ہوگئی۔ لَقَدْ آتَيْنَا الْكَافِرِينَ (پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو غرق کر دیا) یعنی حضرت نوح علیہ السلام آپ کے اہل و عیال اور اہل ایمان کو نجات دے دی اور ان کے علاوہ کو غرق کر دیا۔

کیا طوفان نوح سارے عالم کو محیط تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے اور یہ بات مشہور ہے کہ ان کے بعد دنیا میں جو آبادی ہوئی وہ سب ان ہی کی اولاد سے ہے قرآن مجید کی آیت وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ سے بھی یہی متبادر ہوتا ہے کیونکہ یہ الفاظ حصر پر دلالت کرتے ہیں۔

حضرت سرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ کی تفسیر میں (حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے) یوں فرمایا کہ یہ حام اور سام اور یافث تھے۔ امام ترمذی نے اس کے بارے میں فرمایا: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ پھر حضرت سرہؒ ہی سے نبی اکرم ﷺ کا یہ فرمان نقل کیا ہے کہ سام عرب کا جد اعلیٰ اور حام حبشیوں کا جد اعلیٰ اور یافث رومیوں کا جد اعلیٰ تھا۔ (سنن ترمذی تفسیر سورۃ الصافات) اور معالم التنزیل میں حضرت سعید بن المسیبؒ تابعی سے یوں نقل کیا ہے کہ سام عرب اور فارس اور روم کا جد اعلیٰ تھا۔ اور حام سوڈان یعنی کالے لوگوں کا جد اعلیٰ تھا۔ اور یافث ترکوں کا اور یا جوج ماجوج کا اور جو ان کے قریب اقوام رہتی ہیں ان کا جد اعلیٰ تھا۔

اگر طوفان پورے عالم میں آیا ہو اور زمین پر جتنی بھی آبادیاں تھیں ان سب کو غرق کر دیا گیا ہو تو پھر یہی متعین ہو جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہی سے آگے دنیا آباد ہوئی، لیکن اس میں یہ اشکال باقی رہ جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جن اہل ایمان نے نجات پائی تھی کیا ان کی نسلیں نہیں چلیں؟ اس کے بارے میں صاحب روح المعانی نے لکھا ہے: وقد روى انه مات كل من فى السفينة ولم يعقبوا عقبا باقيا غير الثلث سام وحام ويافث وازواجهم فانهم بقوا متناسلين الى يوم القيمة (روایت ہے کہ کشتی میں جو تھے سب مر گئے سوائے حام، سام، یافث اور ان کی بیویوں کے اور کوئی نہیں بچا۔ قیامت تک انہیں کائنات میں چلتی رہے گی) یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ کشتی

میں تھے وہ لوگ غرق ہونے سے نجات پا کر کشتی سے اتر کر اپنی اپنی اجل کے مطابق مر گئے اور آپ میں سے کسی کی نسل نہیں چلی صرف حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے سام، حام اور یافث اور ان کی بیویاں باقی رہیں جن کی قیامت تک نسل جاری رہے گی۔“ صاحب روح المعانی نے لکھ تو دیا لیکن سند پیش نہیں کی اور یہ بھی نہیں بتایا کہ یہ کس کا قول ہے۔

عام طور پر جو یہ مشہور ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ہی کی اولاد سے آگے نسل چلی اس کے مقابل دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کے علاوہ دوسری نسلیں بھی دنیا میں چلتی رہی ہیں۔ جن لوگوں نے یہ بات کہی ہے ان کا قول اس پر مبنی ہے کہ طوفان نوح (علیہ السلام) عام نہیں تھا ان حضرات کا یہ کہنا ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت تمام اقوام کے لئے عام نہیں تھی کیونکہ یہ صرف خاتم الانبیاء ﷺ کی خصوصیت ہے جب ان کی بعثت عام نہیں تھی تو جو لوگ ان کے مخاطب تھے انہوں نے ان کی نبوت کا انکار کیا اور انہی کے لئے بددعا فرمائی اور وہی لوگ ہلاک ہوئے۔ اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ آیت کریمہ کے الفاظ سے تو صحر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ہی کی ذریت کو باقی رکھا اس کا جواب یوں دیا گیا ہے کہ یہ صحر کشتی والوں سے متعلق ہے مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کشتی میں سوار تھے ان میں سے صرف حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے نسل چلی باقی دنیا جو اپنی جگہ آباد تھی اس میں بسنے والوں اور ان کی نسلوں کا تذکرہ نہیں ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔ (راجع روح المعانی ج ۲۳ ص ۹۸)

وقد وقع فی قلبی بفضل اللہ تعالیٰ وکرمہ انہ یمکن ان یقال ان الارض لم تکن معصورة ببنی ادم وما کانت اقطارها کلھا یعیش فیھا الانسان وکان عمر انھا فی مناطق محدودة ولم تکن الامة واحدة لعدم الامتداد الطویل من عهد ادم علیہ السلام مکان جمیع الناس مخاطبین له فلما انکروا اغرقوا وهذا الاینا فی کون بعثة النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عامة لانها عمت لجمیع افراد البشر ولسائر الاقوام ولجمیع الامکنة والازمنة. واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب (اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرے دل میں یہ بات آگئی ہے کہ یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ اس وقت پوری زمین میں انسان آباد نہیں تھے فقط محدود علاقوں میں آبادی تھی۔ وہ محدود آبادی گویا بس ایک ہی امت تھی کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو کوئی لمبا عرصہ نہیں گذرا تھا، لہذا اس وقت کے سب لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کے مخاطب تھے۔ جب انہوں نے انکار کیا تو سب غرق کئے گئے۔ اور یہ توجیہ حضور ﷺ کی عمومی بعثت کے منافی نہیں ہے کیونکہ حضور ﷺ کی رسالت تمام انسانی افراد اقوام اور تمام ممالک و زمانوں کو عام ہے)

وَلَمَّا مِّنْ شِيعَةٍ لِابْرٰهِيْمَ ؕ اِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ؕ اِذْ قَالَ لِاٰیٰتِهٖ وَقَوْمِهٖ

اور بلاشبہ نوح کا اتباع کرنے والوں میں ابراہیم بھی تھے۔ جب وہ اپنے رب کے پاس قلب سلیم لے کر آئے۔ جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا

مَاذَ اتَعَبُودُنَّ اَیُّفَکَ الْاِلٰهَةُ دُوْنَ اللّٰهِ تَرِیْدُوْنَ ؕ فَبَاظَنَکُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ؕ

تم لوگ کس چیز کی عبادت کرتے ہو۔ کیا اللہ کو چھوڑ کر تھوٹ موٹ کے معبودوں کو چاہتے ہو۔ سورب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔

فَنَظَرَ نَظْرَةً فِی الْجُومِ ؕ فَقَالَ اِنِّیْ سَقِیْمٌ ؕ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِیْنَ ؕ فَرَاغَ اِلٰی الْاٰهَتِهِمْ

پھر ایک نظر اٹھا کر ستاروں کو دیکھا۔ اور کہہ دیا کہ بیشک میں بیمار ہوں۔ سو وہ لوگ ان سے پشت پھیر کر چلے گئے۔ سو وہ ان کے بتوں کی طرف متوجہ ہوئے

فَقَالَ لَا تَأْكُلُونَ ۚ مَا كُمْ لَا تَطْقُونَ ۖ فَرَأَوْنَاهُمْ ضُرَابًا لَّيْمِينَ ۖ فَاقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزْقُونَ ۖ

سو کہا کیا تم کھاتے نہیں ہو۔ تم کو کیا ہوا تم بولتے نہیں۔ پھر ان پر قوت کے ساتھ متوجہ ہو کر مارنے لگے۔ سو وہ لوگ ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے۔

قَالَ اتَّعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ۖ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ۖ قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا

انہوں نے کہا کیا تم اس چیز کی پوجا کرتے ہو جسے خود تراشتے ہو۔ اور اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا ہے اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو۔ کہنے لگے کہ اس کے لئے ایک مکان بناؤ

فَالْقُوَّةُ فِي الْحَيِيمِ ۖ فَارْادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ۖ

پھر اُسے دیکتی ہوئی آگ میں ڈال دو۔ سو انہوں نے ان کے ساتھ برابر تازہ کرنے کا ارادہ کیا سو ہم نے ان لوگوں کو نیچا دیکھنے والا بنادیا

**حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کو توحید کی دعوت دینا اور  
بتوں کو توڑ دینا پھر آگ میں ڈالا جانا اور صحیح سالم محفوظ رہ جانا**

**تفسیر:** یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے ارشاد فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اتباع کرنے والوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تھے۔

اتباع کا مطلب کیا ہے؟ اس کے بارے میں بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ ان دونوں کی شریعتوں میں اصول دین میں تو اتفاق تھا ہی احکام میں بھی اکثر اتفاق تھا۔ اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ تابع ہونے کا مطلب یہ کہ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت کے کام میں بہت محنت کی اور تکلیفیں برداشت کیں اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جم کر دعوت کا کام کیا اور بڑی بڑی مشقتیں برداشت کیں، حتیٰ کہ آگ میں ڈالے گئے۔

إِذْ جَاءَكَ رَبُّكَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (جبکہ وہ اپنے رب کے پاس قلب سلیم لیکر آئے) سلیم سالم کے معنی میں ہے مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا دل لے کر بارگاہ الہی میں حاضر ہوئے کہ عقائد بالکل صحیح تھے، نیت خالص تھی، صفات قبیحہ مثلاً حسد، کھوٹ، کپٹ سے خالی تھے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک گفتگو کا تذکرہ فرمایا جو ان کے اور ان کی قوم کے درمیان ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے فرمایا کہ تم کس چیز کی پرستش کرتے ہو؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ ہم بتوں کو پوجتے ہیں کما ذکر فی سورۃ الشعراء۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ موٹ کے معبودوں کو چاہتے ہو؟ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ سورۃ العالمین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تم اس کی عبادت بالکل ہی نہیں کرتے یا اسکی عبادت تو کرتے ہو لیکن ساتھ ہی بتوں کو بھی شریک بنا رکھا ہے یعنی ساتھ ہی انکی بھی عبادت کرتے ہو۔

صاحب روح المعانی نے اس کا ایک یہ مطلب لکھا ہے کہ تمہارا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے، کیا وہ تمہاری اس جرات پر عذاب نہ دے گا کہ تم نے جھوٹے معبود بنائے اور تمہیں کچھ بھی ڈر نہیں ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بت پرست تھی اور بت پرست اقوام کی طرح میلے لگاتے تھے، ایک مرتبہ قوم اپنے

بتوں کے سامنے کھانا رکھ کر میلے میں شریک ہونے کے لئے چلی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم بھی چلو چونکہ یہ لوگ ستاروں کی تاثیرات کے قائل تھے اس لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پیچھا چھڑانے اور ان کے پیچھے ان کے بتوں کی توڑ پھوڑ کے لئے ستاروں کے طرف ایک نظر دیکھا اور فرمایا کہ میں تو بیمار ہونے والا ہوں تمہارے ساتھ کیسے جاؤں وہ لوگ آپکو چھوڑ کر چلے گئے آپ نے ان کے پیچھے بت خانہ کا رخ کیا اور وہاں جا کر اول تو ان بتوں کی مذاق بنائی اور فرمایا کیا بات ہے کہ تم کھاتے نہیں ہو؟ (کھانے کی چیزیں وہاں پہلے سے رکھی ہوئی تھیں، مشرکین وہاں متبرک بنانے کے طور پر رکھ کر گئے تھے تاکہ واپس ہو کر کھائیں) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں سے یہ بھی کہا کیا بات ہے تم بولتے نہیں؟ بت تو بت ہیں کیا جواب دیتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پر کھڑا لے کر پل پڑے اور مار مار کر ان کا تہ پہنچا کر دیا اور توڑ کر رکھ دیا۔ اس میں جو لفظ بالیمین وارد ہوا ہے اس کے دو ترجمے کئے گئے ہیں اول یہ ہے کہ داہنے ہاتھ سے حملہ کیا اور دوسرے یہ کہ پوری قوت کے ساتھ مار بجائی۔

جب وہ لوگ میلہ سے واپس ہوئے اور بتوں کو اس حال میں پایا کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے گئے ہیں تو اول تو آپس میں پوچھنے لگے کہ یہ کس نے کیا ہے؟ پھر کہنے لگے کہ ہاں وہ ایک نوجوان جسے ابراہیم کہا جاتا ہے وہ ایک دن کہہ رہا تھا کہ میں ایک دن ان کے بارے میں ایک تدبیر نکالوں گا، ہونہ ہو ایسا کام کرنے والا ابراہیم ہی ہوگا، کہنے لگے اسے بلاؤ سب لوگوں کے سامنے بات ہوگئی اس مشورے کے بعد جلدی جلدی حضرت ابراہیم کے پاس دوڑے ہوئے آئے اور آپ سے دریافت کیا کیا تم نے ہمارے بتوں کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ فرمایا یہ کام ان کے بڑے نے کیا ہے انہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں؟ کہنے لگے تم جانتے ہو یہ تو بولتے نہیں ہیں! فرمایا تو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی پوجا کرتے ہو جو تمہیں کچھ بھی نفع اور ضرر نہیں پہنچا سکتے، تف ہے تم پر اور تمہارے معبودوں پر یہ سوال اور جواب سورة الانبیاء میں مذکور ہے۔ یہاں سورة الصافات میں فرمایا ہے: قَالَ اتَّعْبُدُونَ مَا تَكْفُرُونَ کیا تم ان چیزوں کی عبادت کرتے ہو جنہیں خود ہی تراش کر اور کاٹ چھانٹ کر کے بنا لیتے ہو واللہ خلقکم و ما تَعْبُدُونَ اور حال یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جن چیزوں کو تم بتاتے ہو انہیں بھی اسی نے پیدا فرمایا ہے۔

مشرکین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کا دلیل سے تو جواب نہ دے سکے البتہ آپس میں یہ طے کیا کہ ان کے لئے ایک مکان بناؤ یعنی ایک چار دیواری تیار کرو پھر اس میں بہت زیادہ آگ جلاؤ اور اس شخص کو اس آگ میں ڈال دو۔ چنانچہ انہوں نے ایک بڑی جگہ بنائی اور اس میں خوب آگ جلائی پھر منجیق کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈال دیا، آگ کو اللہ کا حکم ہوا کہ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا ابراہیم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے چنانچہ آگ اللہ کے حکم سے ٹھنڈی ہوگئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بال بھی بیکانہ ہوا اب تو دشمنوں نے منہ کی کھائی، سب حیران رہ گئے۔ اسی کو فرمایا: فَاِذَا دُافِعْ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمْ اِلٰلَافِئَةً (سوان لوگوں نے ابراہیم کو تکلیف پہنچانے کی تدبیر کی سو ہم نے ان لوگوں کو نیچا کر دیا) وہ ذلیل ہوئے اور سب نے نچاد دیکھا۔

اس قصہ کی تفصیل سورة الانبیاء (رکوع ۴) میں بھی گزر چکی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو انسی سقیم فرمایا تھا اس کے بارے میں بھی وہاں ضروری بحث لکھ دی گئی، مطالعہ کر لیا جائے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ستاروں کی طرف دیکھ کر اپنی قوم کو جواب دیا کہ میں

پیار ہونے والا ہوں تو ستاروں کی طرف کیوں دیکھا اور کیا ستاروں سے انسانوں کے احوال اور امراض اور اسقام کا کوئی تعلق ہے؟ پہلی بات کا جواب اوپر گزر چکا ہے کہ چونکہ وہ لوگ ستاروں کو مانتے تھے اور یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ہمارے حالات کا ستاروں سے تعلق ہے اس لئے ستاروں کو بہانہ بنا کر ان لوگوں کو چلتا کر دیا اور خود وہیں رہ گئے۔ اب رہا دوسرا سوال تو اس کے بارے میں حضرت حکیم الامت قدس سرہ "بیان القرآن" میں لکھتے ہیں کہ علم نجوم شرعاً مذموم ہے خواہ اس وجہ سے کہ وہ باطل ہے اور کواکب میں سعادت و نحوست مفتی ہے اور یا اس وجہ سے مذموم ہے کہ کواکب کی سعادت اور نحوست میں گوشت و عدم نہ ہو مگر عدم ثبوت ہے اور اس کے قواعد کسی دلیل صحیح کی طرف مستند نہیں اور پھر مفاسد کثیرہ اس پر مرتب ہوتے ہیں اعتقاد قبیح اور شرک صریح اور ضعف توکل علی اللہ اور ترک علوم نافعہ وغیرہ ذلک۔ حاصل یہ ہے کہ نجوم مذموم ہے خواہ فتح لعینہ کی وجہ سے مذموم ہو خواہ فتح لغیرہ کی وجہ سے۔ (انتہی ملخصاً)

وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِيْنِ ۝ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِيْنَ ۝ فَبَشِّرْهُ

اور ابراہیم نے کہا کہ بلاشبہ میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں وہ مقرب مجھے ادا دے گا اے میرے رب مجھے نیک فرزند عطا فرما۔ سو ہم نے

بِعِلْمِ حَلِيْمٍ ۝ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيُ قَالَ يَبْنَؤُا إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ

انہیں علم حلیم کے کی بشارت دی۔ سو جب وہ کاکلی عمر کو پہنچا کہ ابراہیم کے ساتھ چلے پھرنے لگا تو ابراہیم نے کہا اے میرے چھوٹے بیٹے بیک میں خواب میں دیکھ رہا ہوں

مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَأْتِ بِفَعْلٍ مَا تَوْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّادِقِيْنَ ۝ فَلَمَّا

کہ تجھ کو خواب میں وہ غور کر لے تیری کیا دے گا؟ بیٹے نے کہا اے ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے اس پر عمل کر لیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو سچا ہونے میں سے ہمیں دے گا۔ سو جب

أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِيْنِ ۝ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيْمُ ۝ قَدْ صَدَّقَتِ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذٰلِكَ

دونوں نے حکم کو مان لیا اور ابراہیم نے بیٹے کو کروٹ کے بل لٹا دیا۔ اور ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ بلاشبہ ہم

نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ۝ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِيْنُ ۝ وَقَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ ۝ وَتَرْكُنَا

مخلصین کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بلاشبہ یہ کھلا ہوا امتحان ہے۔ اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے عوض دے دیا۔ اور بعد کے آنے والوں میں

عَلَيْهِ فِي الْآخِرِيْنَ ۝ سَلَّمَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيْمَ ۝ كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ۝ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا

ان کے لئے یہ بات رہنے دی کہ سلام ہو ابراہیم پر۔ ہم اس طرح مخلصین کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بیک وہ ہمارے

الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ وَبَشِّرْهُ بِإِسْحٰقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِيْنَ ۝ وَبَرَكَنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحٰقَ

مومن بندوں میں سے تھے۔ اور ہم نے انہیں اس کی بشارت دی کہ وہ نبی ہوں گے صالحین میں سے ہوں گے۔ اور ہم نے ابراہیم پر اور اس کی برکت دی

وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِيْنٌ ۝

اور ان کی نسل میں سے اچھے لوگ ہیں اور ایسے لوگ بھی ہیں جو سرِ عجاہلی جان پر ظلم کرنے والے ہیں۔

## حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے علاقہ سے ہجرت کرنا پھر بیٹے کے ذبح کرنے کا حکم ملنا اور فرمانبرداری میں کامیاب ہونا

**تفسیر:** حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وطن بابل کے قریب تھا انہوں نے وہاں کے مشرکین کو شرک سے باز آنے اور خالق کائنات وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی یہ لوگ شرک سے باز نہ آئے آپ نے ہجرت کا اعلان کر دیا اور فرمایا کہ میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں یعنی کسی ایسی جگہ جا کر آباد ہوتا ہوں جہاں اپنے رب کے احکام ادا کر سکوں اور دوسروں کو بھی راہ حق دکھا سکوں میرا رب میری رہبری فرمائے گا اور مجھے ایسی جگہ پہنچا دے گا جہاں رہنے سے اس کی رضا مندی حاصل ہوگی چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شام کو ہجرت کر گئے اور وہاں جا کر آباد ہو گئے حضرت لوط علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تھے دونوں نے سرزمین شام کے لئے ہجرت کی اور فلسطین کے علاقے میں جا کر آباد ہو گئے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی تو سفر ہی میں ان کے ساتھ تھیں جن کا نام سارہ تھا اور دوسری بیوی ایک بادشاہ نے پیش کر دی تھیں جن کا نام ہاجرہ تھا جس بادشاہ نے حضرت سارہ کو پکڑوا کر بلایا تھا اسی نے حضرت ہاجرہ کو بطور خادمہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا تھا (جس کا قصہ سورۃ الانبیاء میں گذر چکا ہے) حضرت سارہ اطلق علیہ السلام کی والدہ تھیں اور حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ تھیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے ایک ایسا فرزند عطا فرمائیے جو صالحین میں سے ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا۔ مفسرین کثیر لکھتے ہیں کہ سب علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ یہاں جس بیٹے کی بشارت کا ذکر ہے اس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی مراد ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے کچھ بڑے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں اور ان کی والدہ کو اللہ کے حکم سے مکہ معظمہ کی سرزمین میں جھوڑ دیا اس وقت مکہ معظمہ چٹیل میدان تھا کعبہ شریف کی عمارت بھی موجود نہ تھی اللہ کریم نے ان کے لئے زمزم کا چشمہ پیدا فرمایا پھر نبی جبرہم کا قبیلہ بھی وہاں آ کر آباد ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے اپنی بیوی اور بیٹے کی خبر لینے مکہ معظمہ جایا کرتے تھے ایک مرتبہ تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں خواب میں دکھایا گیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں انبیاء کرام علیہم السلام کا خواب سچا ہوتا تھا اور اللہ کی جانب سے ہوتا تھا ایسی بات اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم دیئے جانے کے مترادف سمجھی جاتی تھی اس لئے انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے تمہاری کیا رائے ہیں؟ بیٹے نے جواب دیا: يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّادِقِينَ (یعنی اے ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے اس پر عمل کر لیجئے آپ مجھے انشاء اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے)

چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ سے لیکر چلے اور منیٰ میں جا کر ذبح کرنے کی نیت سے ایک چھری ساتھ لی (منیٰ مکہ معظمہ سے تین میل دور دو پہاڑوں کے درمیان بہت لمبا میدان ہے) جب منیٰ میں داخل ہوئے تو ان کے بیٹے کو شیطان بہکانے لگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا تو اللہ اکبر کہہ کر سات کنکریاں ماریں جس



کی وجہ سے وہ زمین میں دھنس گیا، دونوں باپ بیٹے آگے بڑھے تو زمین نے شیطان کو چھوڑ دیا، پھر قریب آ کر ورغلانے لگا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اللہ اکبر کہہ کر سات کنکریاں مار دیں، وہ پھر زمین میں دھنس گیا، یہ دونوں آگے بڑھے تو پھر زمین نے اس کو چھوڑ دیا، پھر قریب آ کر ورغلانے لگا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اللہ اکبر کہہ کر اُسے سات کنکریاں ماریں، پھر وہ زمین میں دھنس گیا اور اس کے بعد آگے بڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل زمین پر لٹا دیا۔

وَقَدْ يَنْبُئُهُ أَنَّ ابْنَهُ هَيْمُ قَدْ صَدَّقَتْ الزُّبَيَّا (اور ہم نے ابراہیم کو آواز دی کہ تم نے خواب کو سچا کر دکھایا) خواب میں جو حکم دیا گیا تھا اپنی طرف سے اس کا انجام دینے میں ذرا بھی کسر نہ چھوڑی۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (اور ہم مخلصین کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں)

اِنَّ هَذَا هُوَ الْبَلَاءُ الْيُمِينُ (بلاشبہ یہ کھلا امتحان ہے) وَقَدْ يَنْبُئُهُ ابْنُ هَيْمٍ عَظِيمٍ (اور ہم نے اس کے بدلہ ایک بڑا ذبیحہ دے دیا) یعنی ابراہیم علیہ السلام کے فرزند کو ذبح ہونے سے بچا لیا۔ (انہوں نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری پھیر دی لیکن گلانہ کٹا، مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گلے کو تانے کا بنا دیا جس پر چھری نے کچھ کام نہ دیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا ذبیحہ بھیج دیا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ ذبیحہ ایک مینڈھا تھا جو جنت سے لایا گیا تھا، اور بعض روایات میں ہے کہ اس مینڈھے کو حضرت جبریل علیہ السلام لیکر آئے تھے۔ وَقَدْ كُنَّا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَّمَ عَلَى ابْنِ اِبْرَاهِيمَ (اور ہم نے بعد کے آنیوالوں میں ابراہیم کے بارے میں یہ بات چھوڑ دی کہ سلام ہو ابراہیم پر) كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (ہم مخلصین کو اس طرح صلہ دیا کرتے ہیں) چنانچہ بعد کے آنیوالی تمام امتوں میں ان کا اور ان کی قربانی کا تذکرہ ہے اور اہل ایمان ان پر سلام بھیجتے رہتے ہیں، جب ان کا نام لیتے ہیں علیہ السلام کہتے ہیں اور امت محمدیہ کو ان سے خاص تعلق ہے، ان کی شریعت کے احکام اس شریعت میں ماخوذ ہیں اور نماز میں جو رود و ابراہیمی پڑھا جاتا ہے وہ تو نمازیوں کو یاد ہی ہے انہوں نے دعا بھی کی تھی: وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ (اور اے اللہ بعد کے آنیوالوں میں میرا اچھا تذکرہ جاری رکھئے) اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی برابر ان کا ذکر خیر جاری ہے اور برابرا ان کے لئے سلام کی دعا اہل ایمان کی زبانوں سے نکلتی ہے۔ اِنَّ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (بلاشبہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے ہیں)

نیکٹ بیٹی پر ثواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت بڑی قربانی دی، اپنے وطن میں آگ میں ڈالے گئے اسے خوشی سے منظور کر لیا، اللہ تعالیٰ شانہ نے حفاظت فرمائی اور صحیح سالم آگ سے باہر آ گئے، پھر جب ہجرت فرما کر شام آ گئے اور مکہ معظمہ میں اپنی بیوی اور ایک بچے کو آباد کر دیا، پھر جب اس کے ذبح کرنے کا حکم ہوا تو اسے بھی ذبح کر دیا۔ (یعنی اپنی کوشش میں کوئی کسر نہیں چھوڑی) اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی مدد فرمائی اور ان کے بیٹے کو بچا لیا اور اس کی جگہ ایک مینڈھا بھیج دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو بھی کوئی شخص سچی نیت سے اور سچے دل سے کسی عمل کا ارادہ کرے اور پھر وہ کام نہ ہو سکے تب بھی اس کا ثواب مل جاتا ہے۔

حدیث شریف میں وارد ہے کہ جو شخص حج یا عمرہ یا جہاد کے لئے (اپنے گھر سے) نکل گیا پھر راستہ میں مر گیا تو اُس کے لئے اللہ تعالیٰ جل شانہ، مجاہد اور حاجی اور عمرہ کرنے والوں کا ثواب لکھ دے گا۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۲۲۳)

قرآن شریف میں وارد ہے: وَمَنْ يُخْرِجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِكُلِّ الْمَوْتِ فَقَدْ وَقَعَتْ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ (سورة النساء) اور جو شخص اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کیلئے نکل جائے پھر اسکو موت آ جائے تو اللہ کے ذمہ اس کا ثواب ثابت ہو گیا۔

حدیث شریف میں یہ بھی وارد ہے کہ جو شخص تہجد کی نماز پڑھنے کی نیت سے سو گیا اور پھر آنکھ نہ کھل سکی تو اس کو تہجد پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ (الترغیب و الترہیب ص ۴۰۹)

اُمت محمدیہ کے لئے قربانی کا حکم: حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہما السلام کے واقعہ سے قربانی کی ابتدا معلوم ہوئی اور حج کے موقع پر منیٰ میں جو کنکریاں ماری جاتی ہیں ان کی ابتداء بھی اسی واقعہ سے ہے۔ انہی تین جگہوں میں کنکریاں مارتے ہیں جہاں شیطان زمین میں دھنسنے لگا تھا، جگہ کی نشاندہی کے لئے پتھر کے بینار بنادئیے گئے ہیں۔ اس کے بعد سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لئے ان جگہوں میں حج کے موقع پر کنکریاں مارنا اور جانوروں کی قربانی کرنا عبادت میں شمار ہو گیا ہے چنانچہ امت محمدیہ کے لئے بھی قربانی شروع ہو گئی، صاحب حیثیت پر قربانی واجب ہے اور اگر کسی کی اتنی حیثیت نہ ہو اور قربانی کر دے تب بھی ثواب عظیم کا مستحق ہوگا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا مَنْ وَجَدَ مِسْعَةً لَانَ يُضْحِي فَلَمْ يُضْحِ فَلَا يَخْضُرُ مُضَلًّا (الترغیب والترہیب ج ۲ ص ۱۰۳) یعنی جو شخص وسعت ہوتے ہوئے بھی قربانی نہ کرے وہ ہماری عید گاہ میں نہ آئے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے مدینہ منورہ میں دس سال قیام فرمایا اور ہر سال قربانی فرمائی۔ (مشکوٰۃ)

ان حدیثوں سے قربانی کی بہت زیادہ تاکید معلوم ہوئی۔ حضور اقدس ﷺ کے پابندی سے قربانی کرنے اور اس کی تاکید کرنے کی وجہ سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اہل وسعت پر قربانی کو واجب کہا ہے اور فرمایا ہے کہ صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے (واجب کا درجہ فرض کے قریب ہے بلکہ عمل میں فرض کے برابر ہے) صاحب نصاب کون ہے؟ اسکو سمجھنے کے لئے کتب فقہ کی مراجعت کی جائے۔

چونکہ اصل خون بہانا یعنی جان جان آفریں کے سپرد کرنا ہے اس لئے قربانی کے ایام میں اگر کوئی شخص قربانی کی قیمت صدقہ کر دے یا اس کی جگہ غلہ یا کپڑا جوں کو دے دے تو اس سے حکم کی تعمیل نہ ہوگی اور ترک قربانی کا گناہ ہوگا اور ہر بال کے بدلہ نیکی ملنے کی جو سعادت تھی اس سے محرومی ہوگی۔

حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے صحابہؓ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جاری کیا ہوا طریقہ ہے پھر سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ ہمارے لئے قربانی میں کیا ثواب ہے؟ فرمایا ہر بال کے بدلہ میں ایک نیکی ہے صحابہؓ نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ اُون کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ فرمایا (اگر قربانی کے طور پر ایسا جانور ذبح کیا جو اُون والا ہو مثلاً ذُنْبہ ہو تو) اس کے ہر بال کے بدلہ میں ایک نیکی ملے گی۔ (رواہ احمد ابن ماجہ)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ یوم النحر (ذی الحجہ کی دسویں تاریخ کے دن) کسی شخص نے کوئی عمل ایسا نہیں کیا جو اللہ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے زیادہ محبوب ہو اور ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ قیامت کے دن قربانی کرنے والا قربانی کے جانور کے سینگوں اور بالوں اور کھروں کو لے کر آئے گا، مزید فرمایا کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبولیت کا درجہ پالیتا ہے لہذا تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ (رواہ ابن ماجہ و الترمذی وقال حسن غریب و الحاکم وقال صحیح الاسناد فی الترغیب ص ۱۰۴ ج ۲)

حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ اپنی قربانی کے قریب کھڑی ہو جاؤ کیونکہ قربانی کے خون کا قطرہ جو گرے گا اسکی وجہ سے تمہارے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ یہ ثواب ہمارے لئے یعنی اہل بیت کے لئے مخصوص ہے یا ہمارے اور تمام مسلمانوں کے لئے ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ ثواب ہمارے لئے اور تمام مسلمانوں کے لئے ہے۔ (رواہ البیہقی و ابوشیخ بن حبان فی کتاب الفضایا وغیرہ کما فی الترغیب ص ۱۰۴ ج ۲)

حضرت اسحق علیہ السلام کی بشارت: وَبَشِّرْنَاهُ بِاسْحَاقَ نَبِيًّا مِنْ الطَّيِّبِينَ (اور ہم نے ابراہیم کو بشارت دی اسحق کی کہ وہ نبی ہوں گے صالحین میں سے) وَبَشِّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ (اور ہم نے ابراہیم اور اسحق پر برکتیں نازل کیں) وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا نَحْنُ وَكَانَ اللَّهُمُّ يُؤْمِنُ (اور ان دونوں کی نسل میں بعض اچھے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو کھلے طور پر اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو بیٹے عطا فرمائے تھے ان میں سے ایک حضرت اسحاق علیہ السلام تھے جن کے ذریعے مکہ معظمہ آباد ہوا ہے اور ان کے ساتھ مل کر انہوں نے کعبہ شریف تعمیر کیا اور جن کی نسل سے خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ پیدا ہوئے دوسرے مشہور صاحبزادہ حضرت اسحق علیہ السلام تھے ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے جن کا لقب اسرائیل تھا ان کے بارہ بیٹے تھے بنی اسرائیل انہیں کی اولاد ہیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بہت برکت دی ان کی نسل بھی بہت ہوئی اور ان میں انبیائے کرام علیہم السلام بھی کثیر تعداد میں ہوئے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں بھی ان پر نازل ہوئیں اور صحیفہ بھی۔

آخر میں جو یہ فرمایا کہ ان کی ذریت میں محسنین بھی ہیں اور ظالمین بھی۔ اس میں یہ بتا دیا کہ انبیائے کرام علیہم السلام کی نسلوں میں ہونا عند اللہ مقبولیت کی دلیل نہیں ہے جو ایمان سے محروم ہوگا اور عمل صالح سے دور ہوگا وہ کسی مقبول بندہ کا بیٹا ہو سکتی وجہ سے نجات کا مستحق نہیں ہو سکتا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کون سا فرزند ذبح تھا: اس میں اختلاف ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس بیٹے کے ذبح کرنے کا حکم اللہ نے دیا تھا وہ کون سا بیٹا تھا اہل کتاب تو یہی کہتے ہیں کہ وہ حضرت اسحق علیہ السلام تھے اور امت محمدیہ میں سے بھی بعض علماء نے اسی کو اختیار کیا ہے لیکن بہت سے اہل تحقیق فرماتے ہیں کہ ذبح حضرت اسحاق علیہ السلام تھے ان حضرات کی دو دلیلیں زیادہ وزنی ہیں ایک تو یہ کہ سورة الصافات میں اولاد یہ فرمایا کہ فَبَشِّرْنَاهُ بِعِيسَى حَوْلِيٍّ پھر مصلح یوں فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَؤُا لِيْ اَزْوَاجِيْ فِي الْمَنَازِلِ اَذْبَحْكَ اس کے بعد ذبح کا

قصہ ذکر فرمایا، پھر فرمایا **وَبَشِّرْهُمْ بِاسْحَاقَ بْنِ يَاقَانَ** لہذا یاقان کے اسحاق سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جس بیٹے کی اولاد خوشخبری دی گئی وہی ذبح تھے اور وہ اسحق علیہ السلام کے علاوہ تھے دوسری دلیل جو پہلی دلیل سے زیادہ وزن دار ہے یہ ہے کہ سورۃ ہود میں فرمایا ہے: **فَبَشِّرْهُمْ بِاسْحَاقَ بْنِ يَاقَانَ** کہ ہم نے ابراہیم کو اسحاق کی خوشخبری دی اور ہم نے یہ خوشخبری بھی دی کہ اسحق کے بعد یعقوب کا بھی تولد ہوگا اور یہ بات ظاہر ہے کہ جس بیٹے کو ذبح فرمایا وہ نابالغ تھا اسی لئے اسے بچائی کہہ کر خطاب کیا اور جب کسی کے بارے میں پہلے سے کہہ دیا جائے کہ اس سے اولاد بھی ہوگی اور پھر یوں کہہ دیا جائے کہ اس کو ذبح کر دو تو اس میں امتحان کا خاص پہلو نہیں نکلتا جسے ذبح کرنے کا حکم دیا جائے وہ پہلے سے جانتا ہے کہ یہ ذبح ہونے والا نہیں ہے کیونکہ اسے بالغ بھی ہونا ہے اور اس کی اولاد بھی ہونی ہے۔ صاحب الذر الخیر لکھتے ہیں کہ: المختار ان الذبیح اسماعیل، وفي القاموس انه اصح قال ومعناه مطيع الله، صاحب رد المحتار اس پر تعلق کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ قلت وبه قال احمد ورجحه غالب المحققین۔

**وَلَقَدْ مَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ۖ وَبَخَيْنَهُمَا قَوْمُهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ۝**

اور یہ واقعی بات ہے کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا۔ اور اُن دونوں کو اور اُن کی قوم کو بڑی بے چینی سے نجات دی۔

**وَنَصَرْنَاهُمْ فَاَنْزَلْنَاهُمُ الْعِلْيَيْنِ ۖ وَاتَيْنَهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ ۖ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ**

اور ہم نے اُن کی مدد کی سو وہی غالب ہونے والے تھے۔ اور ہم نے انہیں واضح طور پر بیان کرنے والی کتاب دی۔ اور ہم نے انہیں صراط

**الْمُسْتَقِيمَ ۖ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ ۖ سَلَّمَ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ۖ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي**

مستقیم کی ہدایت کی۔ اور ہم نے بعد میں آنے والوں میں اُن دونوں کے بارے میں یہ بات چھوڑ دی کہ سلام ہو موسیٰ پر اور ہارون پر۔ بلاشبہ ہم اسی طرح

**الْمُحْسِنِينَ ۝ اِنَّهُمْ اَمِنَ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ۝**

مخلصین کو صلہ دیا کرتے ہیں۔ بیشک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔

## حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام کا تذکرہ

**تفسیر:** ان آیات میں حضرت موسیٰ اور اُن کے بھائی حضرت ہارون علیہما السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اول تو یہ فرمایا کہ ہم نے ان دونوں پر احسان کیا یعنی نبوت عطا کی اور اس بڑے انعام سے نوازا اور اس کے علاوہ بھی دوسری نعمتیں عطا فرمائیں، انہی نعمتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انہیں اور ان کی قوم کو بڑی بے چینی سے نجات دی کیونکہ یہ لوگ مصر میں رہتے تھے جہاں کا صاحب اقتدار فرعون تھا وہ بڑا ظالم تھا اس کی حکومت میں بنی اسرائیل عاجز محض بنے ہوئے تھے (جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام کی قوم کے لوگ تھے) فرعون ان کے لڑکوں تک کو ذبح کر دیتا تھا اور یہ چوں بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس سے بڑی بے چینی اور مظلومیت کیا ہوگی اللہ تعالیٰ نے اس بے چینی سے اُن کو نجات دی، ان لوگوں کی مدد فرمائی۔ دریا سے پار کر دیا یہ لوگ غالب ہوئے اور فرعون اور اس کے لشکر مغلوب ہوئے جو دریا میں غرق ہو کر ہلاک ہو گئے۔

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ الَّتِي هُمْ يَدْعُونَ لَا تَعْلَمُ أَسْمَاءُ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُولُنَّ لَا عِلْمَ لَنَا بِخَلْقِهَا وَلَا اَنَّا كُنَّا صٰغِرِيْنَ (اور ہم نے انہیں واضح کتاب دی) یعنی توریت شریف عطاء فرمائی جس میں واضح طور پر احکام شرعیہ بیان فرمائے وَهٰذَا يَوْمُهَا يَحْضُرُهَا الْمُسْتَقِيمُ (اور ہم نے ان دونوں کو صراطِ مستقیم کی ہدایت دی) جس پر وہ قائم رہے اور بنی اسرائیل کو بھی اسی کی دعوت دیتے رہے۔ وَتَرْكُنَا عَلَيْهِمَا فِي الْاٰخِرِيْنَ سَلَّمَ عَلٰی مُؤْمِنِيْ وَهَرُوْنَ اور ہم نے بعد کے آنیوالوں میں اُن کے بارے میں یہ بات رہنے دی کہ سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر (چنانچہ اُن کے بعد آنے والی ساری امتیں خاص کر امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والتحیۃ برابر دعائے سلام کیساتھ اُن کا نام لیتی ہے یعنی انہیں لفظ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ یاد کرتی ہے) اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ اِنَّهُمْ اَمِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ (بیشک ہم مخلصین کو اسی طرح صلہ دیا کرتے ہیں بلاشبہ وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے ہیں)

وَإِنِّيَاسٍ لِّمَنِ الْمُرْسَلِينَ ۝ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَلَا تَتَّقُونَ ۝ اَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ

اور بلاشبہ الیاس پیغمبروں میں سے ہیں۔ جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم نہیں ڈرتے کیا بعل کی عبادت کرتے ہو

اَحْسَنَ الْخَالِقِيْنَ ۝ اللّٰهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَائِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ۝ فَكَذَّبُوْهُ فَاِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ ۝

اور احسن الخالقین کو چھوڑے ہوئے ہو۔ جو اللہ ہے جو تمہارا رب ہے اور تمہارے باپ داداؤں کا رب ہے۔ سو ان لوگوں نے انہیں جھٹلایا لہذا وہ ضرور حاضر کئے جائیں گے

اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ۝ وَتَرْكُنَا عَلَيْهِ فِي الْاٰخِرِيْنَ ۝ سَلَّمَ عَلٰی اِلٰیاسِيْنَ ۝

سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے۔ اور بعد میں آنے والوں میں اُن کے بارے میں یہ بات چھوڑ دی کہ سلام ہو الیاس پر۔

اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ۝ اِنَّهُمْ اَمِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

بلاشبہ ہم مخلصین کو ایسے ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔

## حضرت الیاس علیہ السلام کا اپنی قوم کو توحید کی

## دعوت دینا اور بُت پرستی چھوڑنے کی تلقین فرمانا

**تفسیر:** حضرت الیاس علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں میں سے تھے، بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ وہ بنی اسرائیل میں سے اور حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے آپ جن لوگوں کی طرف مبعوث ہوئے تھے وہ لوگ مشرک تھے اُن کا ایک بت تھا جس کا نام بعل تھا یہ لوگ اس کی عبادت کرتے تھے اور اُس سے حاجتیں مانگا کرتے تھے۔ روح المعانی میں ایک قول لکھا ہے کہ یہ بت سونے کا تھا جس کا قد بیس ہاتھ تھا اور چار چہرے تھے شیطان اُس کے اندر داخل ہو جاتا تھا اور اُس کے پجاریوں اور خدمت گاروں سے باتیں کرتا تھا وہ لوگ اُس کی باتیں وہاں آنے والوں کو بتا دیتے تھے جس سے وہ لوگ اور زیادہ معتقد ہو جاتے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اُن کو تبلیغ کی اور توحید کی دعوت دی اور استفہام انکاری کے طور پر فرمایا کیا تم اُس ذات پاک کو چھوڑتے ہو جو احسن الخالقین ہے جو اللہ ہے جو تمہارا بھی رب ہے اور

تمہارے باپ دادوں کا بھی تم معبودِ حقیقی کی عبادت نہیں کرتے اور اُسے اپنی حاجتوں کے لئے نہیں پکارتے یہ تمہاری بیوقوفی ہے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اسی سے اپنی حاجتیں طلب کرو۔

اس میں جو احسن الحائقین فرمایا ہے اس سے احسن المصورین مراد ہے یعنی اللہ تعالیٰ شانہ سب کی صورتیں بناتا ہے وہی حقیقی مصور ہے اس کے علاوہ جو لوگ صورتیاں بناتے ہیں وہ مجازی مصور ہیں۔

اُن لوگوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کی بات نہ مانی، شرک کو نہ چھوڑا، توحید پر نہ آئے اُن کے بارے میں ارشاد فرمایا: وَالَهُمْ لِنَحْضُرُونَ (کہ وہ ضرور عذاب میں حاضر کئے جائیں گے) لَا عِبَادَ لِلّٰهِ الْغُلُوصِیْنَ (سوائے اللہ کے اُن بندوں کے جو اللہ ہی کے خالص بندے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لئے جن لیا تھا) اس میں یہ بتادیا کہ حضرت الیاس علیہ السلام کی اُمت میں سبھی کافر و مشرک نہ تھے بعض مخلص مومن بھی تھے: وَتَرْكُنَا عَلَيْنَا فِي الْآخِرِينَ سَلَّمَ عَلَىٰ إِنْ يَاسِينَ اور ہم نے بعد کے آنے والوں میں اُن کے بارے میں یہ بات رہنے دی کہ سلام ہو الیاس پر إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ بیشک ہم مخلصین کو اسی طرح صلہ دیا کرتے ہیں بیشک وہ ہماری مومن بندوں میں سے ہیں۔

سَلَّمَ عَلَىٰ إِنْ يَاسِينَ میں جو لفظ إِنْ يَاسِينَ ہے اس کے بارے میں بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ یہ بھی حضرت الیاس علیہ السلام کا نام تھا۔ کبھی کبھی کلمہ کے آخر میں یا اور نون بڑھا دیا کرتے ہیں جیسے سَيْنَاء اور سینین ہے رعایت فواصل کی وجہ سے إِنْ يَاسِينَ لایا گیا ہے۔ وقیل ہو جمع الیاس علی طریق التغلیب علی قومہ واتباعہ کالمہلبین للمہلب وقومہ وقیل جمع الیاسی بیاء النسبة فخفف والمراد بالیاسین قوم الیاسین المخلصون فإنهم الاحقاء بأن ينسبوا اليه وَضَعَفَ هَذَا الْقَوْلُ. وقرأ نافع وابن عامر ويعقوب وزيد بن علي (آل ياسين) بالاضافة، وكتب في المصحف العثماني منفصلاً ففيه نوع تأييد لهذه القراءة وجوز ان يكون الآل مقحماً على ان ياسين هو الیاس نفسه۔ (اور کہا گیا ہے کہ وہ الیاس کی جمع ہے حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم اور قبیعین پر ان کی تغلیب کی وجہ سے جیسے مہلب اور اس کی قوم کے لئے مہلبین کہا جاتا ہے۔ اور بعض نے کہا یہ الیاسی کی جمع ہے جس کے آخر میں یا نسبت کی ہے پھر اس میں تخفیف کر کے الیاسین ہوا۔ اور الیاسین سے مراد حضرت الیاس علیہ السلام کے مخلص متبع ہیں کیونکہ وہی حضرت الیاس علیہ السلام کی طرف منسوب ہونے کے مستحق ہیں۔ لیکن اس قول کو ضعیف کہا گیا ہے نافع، ابن عامر، یعقوب اور زید بن علی نے اضافت کے ساتھ آل یاسین پڑھا ہے مصحف عثمانی میں آل اور یاسین الگ الگ لکھا ہوا ہے لہذا یہ بات اس قول کی تائید کرتی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آل کا لفظ زائد ہو اور یاسین سے مراد خود حضرت الیاس ہی ہوں)

وَأَنَّ لَوْطًا لِّمَنِ الْمُرْسَلِينَ ۖ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ۖ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَيْرِينَ ۖ

اور بلاشبہ لوٹ پیغمبروں میں سے ہیں۔ جبکہ ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو نجات دے دی۔ سوائے بوڑھی عورت کے وہ باقی رہ جانے والوں میں سے تھی۔

ثُمَّ دَمَرْنَا الْأَخْرِينَ ۖ وَرَبَّكُمُ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِينَ ۖ وَبِالْبَلَاءِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۖ

پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ اور بلاشبہ تم اُن پر ضرور گذرتے ہو صبح کے وقت اور رات کو سو کیا تم سمجھ نہیں رکھتے۔

## حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ اور قوم کا ہلاک ہونا اور بیوی کے علاوہ ان کے تمام اہل و عیال کا نجات پانا

**تفسیر:** ان آیات میں حضرت لوط علیہ السلام کی بعثت اور اُن کی اہل و عیال کی نجات اور ان کی قوم کی ہلاکت کا ذکر ہے اُن کی قوم کے لوگ کافر تو تھے ہی برے اعمال میں بھی بہت آگے بڑھے ہوئے تھے مرد مردوں سے شہوت پوری کرتے تھے حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا وہ لوگ نہ مانے اور حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ اے لوط اگر تم اپنی بات سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں اپنی آبادی سے نکال باہر کر دیں گے۔ اُن لوگوں پر جس دن صبح عذاب آنا تھا اللہ تعالیٰ نے اُس صبح سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ اپنے اہل و عیال کو لے کر رات کے آخری حصہ میں آبادی سے نکل جائیں البتہ اپنی بیوی کو ساتھ لینا (یہ اس لئے کہ وہ کافر تھی جیسا کہ سورۃ التحریم کے آخر میں اس کا کافر ہونا مذکور ہے) چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام رات کو اپنے اہل و عیال کو لے کر آبادی سے نکل گئے صبح ہوئی قوم پر عذاب آ گیا زمین کا تختہ الٹ دیا گیا اور آسمان سے پتھر برسادیئے گئے یہ قصہ سورۃ الانعام، سورۃ الحجر، سورۃ الشعراء اور سورۃ النمل میں گزر چکا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی اپنے کفر کی وجہ سے ہلاک شدہ لوگوں میں رہ گئی اسی کو **الْاَعْوَجٰی فی الْغَوٰیین** سے تعبیر فرمایا ہے۔

اہل مکہ کو عبرت دلانا: اہل مکہ کا یہ طریقہ تھا کہ سال میں دو مرتبہ ملک شام کا سفر کرتے تھے ایک سفر سردی میں اور ایک سفر گرمی میں ہوتا تھا جس کے بارے میں **رِحْلَةُ الْبَيْتِ وَالضَّمْنِ** فرمایا ہے یہ سفر تجارت کا ہوتا تھا شام جانے کے لئے ضروری تھا کہ اُن بستیوں کے پاس سے گزرے جو اُٹ دی گئی تھیں اُن کے کمینڈر نظر آتے تھے اُن جگہوں میں کبھی رات کو گزرتے تھے اور کبھی صبح کو ہلاک شدہ اقوام کے آثار اور نشان دیکھتے تھے لیکن اثر نہیں لیتے تھے اسی کو فرمایا **وَرَأَوْا لَئِنْ لَّمْ يَنْزِلْ عَلَيْهِمْ مُّصِیْبٌ مِّنْ سَمَوٰتِیْہِمْ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ** (اور بے شک تم اُن پر گزرتے ہو صبح کے وقت اور رات کو تو کیا تم سمجھ نہیں رکھتے) بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ جب حجاز کی جانب سے شام کو جاتے تھے تو ان کا گزر ان بستیوں کے قریب صبح کے وقت ہوتا تھا اور جب اُدھر سے حجاز کی جانب واپس آتے تھے تو رات کو ان بستیوں کے پاس سے گزرتے تھے انہیں یاد دلایا کہ دیکھو کفر کی وجہ سے یہ بستیاں ہلاک ہو گئیں تم آنکھوں سے اُن کی نشانیاں دیکھ رہے ہو پھر بھی عبرت حاصل نہیں کرتے تم اللہ کے رسول ﷺ کی مخالفت سے باز آؤ اور ہلاک شدہ قوموں سے عبرت حاصل کرو ورنہ تمہیں بھی عذاب پہنچ سکتا ہے۔

وَإِنْ یُؤْسَ لِمَنِ الْمُرْسَلٰیْنَ ۖ اِذَا بَقِیَ اِلَی الْفُلْکِ الْمَشْحُوْنِ ۖ فَسَاهُمْ فَاَنْ مِّنْ

اور بلاشبہ یوس بن یثیروں میں سے ہیں۔ جب وہ بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ کر چلے گئے سو قرعۃ الاسودہ ہار جانے والوں میں سے ہو گئے۔ سو محلّی نے

الْمُدْحَضِیْنَ ۖ فَالْقَمَّہُ الْخَوْتُ وَهُوَ مُدِیْمٌ ۖ فَلَوْلَا اَنْتَ کَانَ مِنَ الْمُسْتَحِیْنِ ۖ لَکِبَتْ

ان کا قلمہ بنالیا اس حال میں کہ وہ صاحب ملامت ہو گئے۔ سو اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو ضرور محلّی کے پیٹ میں اُس دن تک ٹھہرے رہتے



فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿٣٦٩﴾ فَبَذَلْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ﴿٣٧٠﴾ وَأَبْنَيْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً

جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے۔ سو ہم نے انہیں ایک میدان میں ڈال دیا اس حال میں کہ وہ سقیم تھے۔ اور ہم نے اُن کو ایک بیل دار درخت اگا دیا۔

مَنْ يَقْطُبْنِیَّ ﴿٣٧١﴾ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿٣٧٢﴾ فَاْمِنُوا فَمُتَّعْنَهُمْ إِلَى حِينٍ ﴿٣٧٣﴾

اور ہم نے انہیں ایک لاکھ یا اس سے زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا تھا۔ سو وہ لوگ ایمان لے آئے تو ہم نے ان کو ایک زمانہ تک عیش دیا۔

## حضرت یونس علیہ السلام کا کشتی سے سمندر میں کوڈ پڑنا، پھر مچھلی کے پیٹ میں تسبیح میں مشغول رہنا

**تفسیر:** ان آیات میں حضرت یونس علیہ السلام کی بعثت اور مصیبت اور اُن کی قوم کی ضلالت اور پھر ہدایت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جب وہ ایک عرصہ تک اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے اور قوم نے نہ مانا انکار پر تلے رہے تو حضرت یونس علیہ السلام نے اُن سے فرما دیا کہ دیکھو تین دن کے اندر اندر تم پر عذاب آ جائے گا، اس کے بعد دو دن تک انتظار کیا، تیسرے دن بھی انتظار میں تھے لیکن عذاب کے آثار نہیں دیکھے، جب یہ صورت حال سامنے آئی تو یہ سمجھ کر کہ اگر عذاب نہ آیا تو میں جھوٹا بنوں گا وہاں سے روانہ ہو گئے اور ادھر اُن کی قوم نے عذاب آتا دیکھا تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں روئے اور گڑ گڑائے زاری کرتے رہے، خوب توبہ کی، معافی مانگی اور ایمان قبول کر لیا، اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب ہٹا دیا اور ان کا ایمان قبول فرمایا۔ یہ اُن کی خصوصیت تھی کیونکہ عذاب آنے کے بعد ایمان اور توبہ کی قبولیت نہیں ہوتی۔ سورۃ یونس میں فرمایا: فَلَوْلَا كَانَتْ فَرِيَّةً اٰمَنَتْ فَنَفَعْنَاهَا اِيْمَانًا هَلْ اِلَّا قَوْمٌ يُّنْسُوْنَ لَيَا كَانَتْ اَكْثَفُنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمُتَّعْنَاهُمْ اِلٰى حِيْنٍ سو کوئی ایسی بستی کیوں ایمان نہ لائی جس کا ایمان لانا اس کو نافع ہوتا مگر یونس کی قوم جب وہ ایمان لائے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کا دُنیوی زندگی میں اُن پر ٹال دیا اور اُن کو ایک وقت خاص تک عیش دیا۔

حضرت یونس علیہ السلام یہ دیکھ کر عذاب نہیں آیا اپنی قوم کو چھوڑ کر روانہ ہوئے تو چلتے چلتے دریا کے کنارے پہنچے وہاں جو کشتی والے تھے سوار یوں کو کشتی میں بٹھا کر اس کنارہ سے اُس کنارہ تک پہنچاتے تھے اور مسافروں سے کرایہ بھی لیتے تھے انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو پہچان لیا اور بغیر اجرت کے کشتی میں بٹھالیا، کشتی میں سوار تو ہو گئے لیکن اب یہ ماجرا ہوا کہ کشتی روانہ ہو کر بیچ منجھدار میں جا کر رک گئی۔ کشتی والوں نے کہا کہ جو لوگ کشتی میں سوار ہیں ان میں کوئی ایسا شخص ہے جس کی وجہ سے کشتی بیچ دریا میں آ کر ٹھہر گئی ہے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو دیکھ رہے ہیں کہ دائیں بائیں کشتیاں چل رہی ہیں لیکن آپ جس کشتی میں تھے وہ نہ چلانے سے چلتی ہے نہ ہلانے سے ٹپتی ہے آپ نے خود ہی دریافت فرمایا کہ اس کشتی کو کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو پتہ نہیں! فرمایا لیکن مجھے اس کا سبب معلوم ہے اس میں کوئی ایسا غلام ہے جو اپنے آقا کی فرمانبرداری چھوڑ کر بھاگ آیا ہے اور جب تک اُس شخص کو سمندر میں نہ ڈال دو یہ کشتی

ٹھہری رہے گی اور وہ بھاگا ہوا غلام میں ہوں (یہ اس لئے کہا کہ اللہ جل شانہ کی اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے آئے تھے) مجھے دریا میں ڈال دو لوگوں نے کہا یا نبی اللہ! ہم آپ کو دریا میں نہیں ڈال سکتے۔ فرمایا اچھا تو پھر قرعہ ڈال لو جس کے نام کا قرعہ نکلے اُسے دریا میں ڈال دینا چنانچہ انہوں نے تین بار قرعہ ڈالا ہر بار آپ ہی کا نام نکلا لہذا آپ نے خود ہی دریا میں چلا ننگ لگادی۔ عربی زبان میں لفظ سہم تیر کو کہتے ہیں چونکہ تیروں کے ذریعہ قرعہ ڈالا گیا تھا اس لئے اسے فِساہم سے تعبیر فرمایا۔ اور طریقہ قرعہ کا یہ تھا کہ ہر شخص اپنا اپنا تیر لے کر پانی میں ڈال دے جس کا تیر اوپر ہی کور ہے اس کو دریا میں ڈال دیا جائے اور جس کا تیر ڈوب جائے اُس کے بارے میں سمجھ لیا جائے کہ یہ وہ شخص نہیں ہے جس کی وجہ سے کشتی رُک کر ٹھہری ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے نام کا جو تیر تھا وہ پانی پر ہی تیرتا ہوا رہ گیا اس پر آپ نے سمجھ لیا کہ مجھ ہی کو سمندر کے حوالے ہونا چاہئے اور کشتی کے دوسرے سواروں نے بھی اس بات کا یقین کر لیا۔ اس کو یہاں فرمایا فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (کہ حضرت یونس علیہ السلام مغلوب ہو گئے اور دوسری سوار یوں کے مقابلہ میں ہار گئے) (ذکرہ صاحب الروح)

حضرت یونس علیہ السلام نے جیسے ہی دریا میں چھلانگ لگائی ایک مچھلی اللہ کے حکم سے پہلے ہی سے تیار تھی اُس نے آپ کا قلمہ بنا لیا لیکن چپا نہیں صحیح سالم نکل لیا، مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تو تین تارکیوں میں مبتلا ہوئے۔ ایک تارکی رات کی دوسری سمندر کے پانی کی تیسری مچھلی کے پیٹ کی ان تارکیوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہے جسے سورة الانبیاء میں فرمایا ہے: فَكَانَ فِي الظُّلُمَاتِ اَنْ لَّا إِلَهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِیْنَ (سوتا رکیوں میں پکارتے رہے کہ اے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں آپ پاک ہیں بیشک میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں) مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تہلیل میں مشغول رہے اللہ تعالیٰ نے وہاں اُن کی حفاظت فرمائی اور اُن کو اس مصیبت سے نجات دے دی سورة الانبیاء میں فرمایا ہے فَانْتَجَبْنَاكَ وَابْحَيْنَاكَ مِنَ الْغُيُوبِ وَكَذٰلِكَ نُخَيِّرُ الْمُؤْمِنِیْنَ (سو ہم نے اُن کی دعا قبول کی اور انہیں گھٹن سے نجات دی اور ہم اسی طرح اہل ایمان کو نجات دیا کرتے ہیں) اور یہاں سورة الصافات میں فرمایا ہے: فَكُلُوْا مِنْ اَنْعَامِہٖ مِنْ السَّحَابِ ۚ اِنَّیْ لَفِیْ بَیِّنٰتٍ لِّیَوْمِ یُعْذَّبُوْنَ (سو اگر وہ تسبیح بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ ہی میں رہتے)

ایک بیلدار درخت کا سایہ دینا: جب مچھلی کے پیٹ میں آپ نے ذکر کیا اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی تو اللہ جل شانہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو کنارے پر اُگل دے، مچھلی نے آپ کو کنارے پر ڈال دیا۔ اس کے پیٹ سے اور پانی سے باہر تو آ گئے لیکن سقیم تھے، سقیم عربی زبان میں بیمار کو کہتے ہیں، جب مچھلی کے پیٹ میں کھانا دانہ نہ ملا تو تندرستی والی حالت برقرار نہ رہی، ضعف ہو جانا لازمی تھا۔ اسی لئے بعض حضرات نے سقیم کا ترجمہ مضطرب کیا ہے، ضرورت تھی کہ سایہ بھی ملے اور غذا بھی پہنچے اللہ تعالیٰ شانہ نے وہاں ایک بیلدار درخت اُگادیا مشہور یہ ہے کہ وہ کدو کا درخت تھا اور مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جنگل کی بکری کو انہیں دودھ پلانے پر لگادیا، وہ بکری آتی تھی اور آپ کو دودھ پلا کر چلی جاتی تھی۔

اُمّتیوں کی تعداد: حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ غنیوی بستی کی طرف مبعوث ہوئے تھے جو شہر موصل کے قریب تھی، یہاں سورة الصافات میں اُن کی تعداد کے بارے میں فرمایا ہے: وَارْسَلْنٰہُ اِلٰی مَآئِیۡتٍ اَلْفٍ اَوْ یَزِیْدٌ وَّنَ (اور ہم نے انہیں ایک لاکھ بلکہ اُس سے کچھ زیادہ افراد کی طرف بھیجا) چونکہ اُن لوگوں نے عذاب کے

آثار دیکھ کر توبہ کر لی اور ایمان لے آئے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اُن سے عذاب ہٹا دیا اور اس کے بعد انہیں ایک زمانہ تک مزید زندگی بخش دی اور دنیا کی زندگی سے اور دنیا کی دوسری نعمتوں سے بھی منتفع ہونے کا موقع دیا۔ اسی کو یہاں فرمایا: **كَامُنُوا فَمَنْعَهُمْ إِلَىٰ حِينٍ** (سو وہ لوگ ایمان لے آئے لہذا ہم نے انہیں ایک زمانہ تک جینے اور فائدہ اٹھانے کا موقع دے دیا) تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام تندرست ہو گئے تو اپنی قوم کے پاس تشریف لے گئے۔

یہاں جو یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ بیل دار درخت تو زمین پر پھیل جاتا ہے اس سے سایہ کیسے مل سکتا ہے؟ بعض حضرات نے اس کے جواب میں فرمایا ہے کہ بطور خرق عادت اس درخت کی بیل کسی سہارے کے بغیر اوپر پھیل گئی، کیونکہ معجزہ تھا اس کے لئے چڑھنے اور ٹھہرنے کے لئے کسی درخت یا دیوار کی ضرورت نہ ہوئی اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ ممکن ہے کہ وہاں کوئی سوکھا ہوا درخت کھڑا ہو اس پر بیل چڑھ گئی ہو۔

إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ جو فرمایا ہے کہ اس میں اوٹھک کے لئے نہیں ہے۔ لَآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَىٰ مُتَعَالَىٰ عَنْ ذَلِكِ اسی لئے فراموشی نے فرمایا ہے کہ یہاں اَوْ يَزِيدُونَ کے معنی میں ہے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ واؤ کے معنی میں ہے اور اخفش اور زجاج نے فرمایا ہے کہ الفاظ قرآنی کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم ان کو دیکھ لیتے تو تمہارے اندازہ میں ایک لاکھ یا اس سے کچھ زیادہ سمجھ میں آتے۔ (تفسیر قرطبی ص ۱۳۲ ج ۱۵) اور ”بیان القرآن“ میں لکھا ہے کہ کسر کا اعتبار نہ کرو تو ایک لاکھ کہو اور اگر کسر کا اعتبار کرو تو زیادہ کہو۔

سنن ترمذی میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان نقل کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے اللہ تعالیٰ کے فرمان **وَاسْأَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ** کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ ایک لاکھ سے بیس ہزار زیادہ تھے۔ (قال الترمذی هذا حديث غريب وفي مسنده رجل مجهول)

فائدہ: اللہ تعالیٰ کا تکوینی قانون یہ ہے کہ جب کسی قوم پر عذاب آجائے تو اُس وقت توبہ کرنے سے واپس نہیں ہوتا لیکن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے لئے یہ خصوصیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب آنے کے بعد بھی اُن کی توبہ قبول فرمائی وہ ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے اُن کی توبہ قبول فرمائی اور ایمان بھی قبول فرمایا اور عذاب کو ہٹا دیا جس کی تفصیل سورہ یونس میں گزر چکی ہے۔ (انوار البیان ج ۴)

**فَاسْتَفْتِهِمُ الرِّبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ ۖ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ ۖ**

سو آپ اُن سے دریافت فرما لیجئے کیا آپ کے رب کے لئے بیٹیاں اور اُن کے لئے بیٹے ہیں؟ کیا ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنایا ہے اس حال میں کہ وہ حاضر تھے؟

**أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ أَفْكَهِمْ لَيَقُولُونَ ۖ وَلَكَ اللَّهُ ۖ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۖ أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ ۖ**

خبردار وہ اپنی غنیمت تراشی سے یوں کہتے ہیں کہ اللہ صاحب اولاد ہے اور بلاشبہ وہ جموعے ہیں کیا اُس نے بیٹیوں کو بیٹوں کے مقابلہ میں چن لیا۔

**مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ۖ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۖ أَمْ لَكُمْ سُلْطٰنٌ مُّبِينٌ ۖ فَاتُوا بِكَيْسِكُمْ**

تمہیں کیا ہوا؟ کیا حکم لگاتے ہو۔ کیا تم مجھے نہیں ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے؟ سو لے آؤ اپنی کتاب اگر تم سچے ہو۔ اور انہوں

اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نِيسَابًا ۝ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الْجَنَّةَ اَنْتُمْ مُخَضَّرُونَ ۝

نے اللہ کے اور جنات کے درمیان رشتہ داری قرار دی حالانکہ جنات کو معلوم ہے کہ وہ ضرور حاضر کئے جائیں گے۔ اللہ اُن باتوں سے

سُبْحَنَ اللّٰهِ عَمَّا يُصِفُونَ ۝ اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلِصِينَ ۝

پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ مگر وہ جو اللہ کے خاص بندے ہیں

## مشرکین کی تردید جو اللہ کے لئے اولاد تجویز کرتے تھے

**تفسیر:** شیطان نے اپنی کوششوں سے انسانوں کو تو حید سے ہٹایا اور شرک کا رواج ڈالا اس سلسلہ میں اُس کی جو کوششیں آگے بڑھیں اُن کا نتیجہ یہ ہوا کہ اُس نے بتوں کی عبادت پر تو ڈالا ہی تھا جنات اور فرشتوں کے بارے میں بھی لوگوں کو یہ سمجھایا کہ ان میں اور خالق کائنات جل مجدہ کے درمیان رشتہ داری ہے چنانچہ انہوں نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بتا دیا۔ لوگ شیاطین کی بات مانتے چلے گئے اور اور اللہ تعالیٰ کے ذمہ وہ باتیں لگا دیں جن سے وہ بری ہے اور پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد ہونا اس کی شان یمکتا کے خلاف ہے اُس کی شان الْعَزِيزُ الَّذِي يُولِّدُ ہے نہ اُس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، سورۃ مریم میں فرمایا: وَمَا يَشْعُرُ الْمُتَحْنِنُ اَنْ يُخْذَ وَلَدًا (اور یہ رحمٰن کی شان کے لائق نہیں ہے کہ وہ کسی کو اولاد بنائے) مشرکین نے اوّل تو یہ سخت غلطی کی کہ اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد تجویز کر دی، پھر جب اولاد تجویز کی تو وہ بھی لڑکیاں اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی لڑکیاں بتا دیا، اللہ تعالیٰ کی اولاد تجویز کرنے میں بھی جھوٹ تراشا اور اولاد بھی وہ تجویز کی جو اپنے لئے ناپسند ہے۔

اسی کو یہاں فرمایا کہ آپ اُن سے پوچھ لیجئے کہ خالق جل مجدہ نے اپنے لئے لڑکیوں کو بطور اولاد کے چن لیا اور تمہیں اپنے لئے لڑکے پسند ہیں اور تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں تمہارا یہ جھوٹ اپنی جگہ رہا اب یہ تو بتاؤ کہ فرشتوں کے لڑکیاں ہونے کا علم تمہیں کہاں سے ہوا؟ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا تو کیا تم حاضر تھے اور یہ دیکھ رہے تھے کہ وہ مخلوق جو پیدا ہو رہی ہے مؤنث یعنی مادہ ہے فر ایک تو تم نے فرشتوں کو مؤنث بتایا دوسرے انہیں اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بتایا تیسرے یہ کیا کہ جب خالق جل مجدہ کے لئے اولاد تجویز کرنے لگے تو بیٹیاں تجویز کر دیں جبکہ اپنے لئے بیٹی کو ناپسند کرتے ہو۔ یہ ساری باتیں بے دلیل اور سراپا جھوٹ ہیں اللہ تعالیٰ کے کوئی اولاد نہیں نہ بیٹی نہ بیٹا اور اولاد ہونا اُس کی شان اقدس کے خلاف ہے۔ ان مشرکین سے فرمایا مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ تمہیں کیا ہوا تم کیسے حکم لگاتے ہو کیا تم سمجھ سے کام نہیں لیتے؟ کوئی دلیل عقلی یا کوئی دلیل نقلی یعنی اللہ کی بھیجی ہوئی کوئی کتاب تمہارے پاس ہو جس سے تم نے یہ بات نکالی ہے تو وہ پیش کرو جب تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں تو یہ شرکیہ باتیں کیوں کرتے ہو اور اپنی طرف سے کیوں جھوٹ بناتے ہو؟

جب مشرکین مکہ نے یوں کہا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اُن سے

دریافت کیا کہ ان کی مائیں کون ہیں؟ اس پر انہوں نے کہہ دیا کہ جنات میں جو سردار ہیں اُن کی بیٹیاں فرشتوں کی مائیں ہیں۔ (روح المعانی ص ۱۵۱ ج ۲۳) اس طرح سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اور جنات کے درمیان قرابت داری تجویز کر دی اور گویا جنات کے سرداروں کو فرشتوں کا نانا بنادیا۔ اس کو فرمایا وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نِجَاجًا (کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اور جنات کے درمیان رشتہ داری تجویز کر دی) پھر ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الْجِنَّةَ إِنْهَامُ الْمُحْضَرُونَ (اور جنات کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ حاضر کئے جائیں گے) یعنی قیامت کے دن گرفتار ہوں گے ان میں جو کافر ہوں گے دوزخ میں ڈالے جائیں گے جن میں اُن کے سردار بھی ہوں گے لہذا جو گرفتار ہو کر آئے گا اور دوزخ میں ڈالا جائے گا اُس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کیسے رشتہ ہو سکتا ہے۔ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ اللہ اُن باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں (یہ جملہ معترضہ ہے) إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ مگر جو اللہ کے خاص بندے ہیں وہ دوزخ سے بچائے جائیں گے انسانوں میں سے ہوں یا جنات میں سے۔

**فَاتَّكُمُ وَمَا تَعْبُدُونَ ۖ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاعِلِينَ ۖ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ ۝ وَمَا**

سو بلاشبہ تم اور تمہارے معبود اللہ تعالیٰ سے کسی کو نہیں پھیر سکتے مگر اسی کو جو دوزخ میں داخل ہونے والا ہے۔ اور ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے

**مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ ۖ وَإِنَّا لَخُنُودٌ ۖ وَإِنَّا لَخُنُوسٌ ۖ وَإِنَّا كَانُوا**

جس کا مقام معلوم نہ ہو۔ اور بلاشبہ ہم صاف بستہ کھڑے ہونے والے ہیں۔ اور بلاشبہ ہم تسبیح میں مشغول ہونے والے ہیں۔ اور یہ واقعی بات ہے کہ یہ لوگ

**لَيَقُولُونَ ۖ لَوْ أَنَّا عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ ۖ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ۖ**

یوں کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس کوئی نصیحت ہوتی اُن نصیحتوں میں سے جو پہلے لوگوں کے پاس تھیں تو ہم ضرور اللہ کے خاص بندے ہوتے۔

**فَكُفِّرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۖ**

سو اُن لوگوں نے اس کا انکار کیا لہذا معتریب جان لیں گے۔

## فرشتوں کی بعض صفات کا تذکرہ

**تفسیر:** ان آیات میں اول تو مشرکین کو خطاب فرمایا کہ تم اور تمہارے سارے معبود جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ شانہ کی توحید سے کسی کو نہیں پھیر سکتے حالانکہ تمہاری کوششیں برابر جاری ہیں ہاں اللہ تعالیٰ کے علم ازیٰ میں جس کسی کا دوزخ میں جانا مقرر مقدر ہے اسی کو توحید کے راستے سے ہٹا سکتے ہو۔

چونکہ مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بتاتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے اور اس لئے ان کی شانِ عبدیت انہی کی زبانی بیان فرمائی (پہلے جنات کے بارے میں بتایا جا چکا ہے کہ وہ اپنے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو شخص مجرم ہو گا گرفتار ہو کر حاضر کیا جائے گا) جس طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے جنات عاجز ہیں اسی طرح فرشتے بھی اپنا عجز

تسلیم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں فرشتوں کا کہنا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا مقام معلوم ہے جو حکم ہے ہر ایک اسی کی بجا آوری میں لگا ہوا ہے ہم اللہ کے حضور میں صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کی پاکی بیان کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ (فرشتوں کا تو یہ حال ہے لیکن جو لوگ اُن کی عبادت کرتے ہیں اور انہیں اللہ کی بیٹیاں بتاتے ہیں انہوں نے اپنی حماقت اور سفاہت سے فرشتوں کو کیا سمجھ رکھا ہے)

اس کے بعد کفار عرب کا یہ قول نقل فرمایا کہ یہ لوگ محمد رسول اللہ ﷺ کی بعثت اور نزول قرآن سے پہلے یوں کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس کوئی ایسا ذکر یعنی کتاب آجاتی جیسی پہلی لوگوں یعنی یہود و نصاریٰ کے پاس کتابیں آئیں تو ہم اللہ کے خاص بندے ہوتے یعنی تصدیق کرتے اور عمل کرتے اور اُن لوگوں کی طرح تکذیب نہ کرتے جیسا کہ سورہ فاطر میں اُن کا قول نقل کیا گیا ہے: **وَ أَكْثَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ سَائِدًا لَهُمُ الْيَوْمَ الَّذِي لَقُوا** (اور ان لوگوں نے خوب زور دار اللہ کی قسم کھائی کہ اگر ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آ گیا تو گدشتہ امتیں جو گذری ہیں اُن کے مقابلہ میں ہر ایک سے بڑھ کر ہم ہدایت والے ہوں گے)

**فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مِّنْكَ لَا يَأْتِيهِمْ إِلَّا ذِكْرٌ لَّهُمْ (الذِّكْرُ)** (پس جب اُن کے پاس ڈرانے والا آ گیا تو اُن کی نفرت اور زیادہ ہو گئی) اڈل تو کفر اور شرک یوں ہی سب سے بڑا گناہ ہے پھر خود سے کتاب کا مطالبہ کرنا اور وعدے کرنا کہ اگر ہمیں کتاب مل جائے تو ایسے نیک بنیں گے اور ہدایت میں سابقہ امتوں کو پیچھے چھوڑ دیں گے پھر جب کتاب مل گئی ہدایت آ گئی تو اُس کے منکر ہو گئے ظاہر ہے کہ اس طرح بڑی سزا کے مستحق ہو گئے اسی کو فرمایا **كُفْرًا** (سو عنقریب جان لیں گے)

**وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ۖ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ ۖ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ۖ**

اور ہمارا قول اپنے بندوں یعنی پیغمبروں کے لئے پہلے ہی سے طے شدہ ہے کہ بیشک انہیں کی مدد کی جائے گی اور بیشک ہمارا لشکر ضرور غالب ہوگا۔

**قَتُولَ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ۖ وَابْصُرْهُمْ فُسُوفَ يُبْصِرُونَ ۖ أَفَبَعْدَٰ اٰیٰتِنَا سَتَجِدُلُونَ ۚ وَاِذَا نَزَلَ**

سو آپ عنقریب زمانہ تک اُن سے اعراض فرمائیے اور اُن کو دیکھتے رہئے سو عنقریب وہ بھی دیکھ لیں گے۔ کیا وہ ہمارے عذاب کے لئے جلدی چاہ رہے ہیں۔ سو جب وہ اُن کے میدان میں

**يَسَاحَتِبُهُمْ فِئَآءُ صِبَآءِ الْمُنْذِرِينَ ۖ وَتَوَلَّوْا عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ۖ وَابْصُرْ فُسُوفَ يُبْصِرُونَ ۖ**

نازل ہو جائے گا تو ان لوگوں کی صف بندی ہوگی جن کو زلیلا چاک تھا۔ اور تھوڑے زمانہ تک آپ اُن سے اعراض کیجئے اور اُن کو دیکھتے رہئے سو عنقریب وہ بھی دیکھ لیں گے۔

## پیغمبروں کی مدد کی جائے گی اللہ کے لشکر غالب رہیں گے

**تفسیر:** ان آیات میں اول تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہمارے خاص بندوں یعنی پیغمبر حضرات کے بارے میں ہماری طرف سے یہ پہلے ہی سے طے شدہ ہے کہ اُن کی ضرور مدد کی جائے گی اور اللہ کا لشکر غالب رہے گا۔ سورۃ المؤمن میں فرمایا: **إِنَّا كُنَّا نُرْسِلُكَ وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَنُؤَمِّرُهُمُ أَنْتَ هَٰذَا (بلاشبہ ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی دنیاوی زندگی میں مدد کرتے ہیں اور اُس روز بھی جس دن گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے) اور سورۃ الحجدہ میں فرمایا ہے: كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنْتَ وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں اور میرے رسول**



ضرور غالب ہوں گے بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہے عزیز ہے) اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لئے بڑی کثیر تعداد میں حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام مبعوث فرمائے ان میں بہت سے تو ایسے تھے جن کے ماننے والے تھے ہی نہیں یا بہت قلیل مقدار میں تھے۔ (صحیح مسلم قبیل کتاب الطہارۃ ص ۱۱۷ ج ۱) ان حضرات کا اہل کفر کے ساتھ قتل و قتل والا مقابلہ ہوا ہی نہیں البتہ دلیل و حجت سے یہ حضرات تکذیب کرنے والوں پر ہمیشہ غالب رہے اور پھر تکذیب کی سزائیں اُن کی اُمّتیں ہلاک ہوئی یہ بھی حضرات انبیاء کرام علیہم السلام ہی کا غلبہ ہے۔

پھر جن انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ماننے والے زیادہ تھے جو لشکر اور فوج بنانے کے لائق تھے اُن کی تعداد بھی زیادہ نہ تھی اُن کے زمانہ کے کافروں نے حق کو نہ مانا تو وہ کافر مغلوب ہوئے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی فوجوں کے مقابلہ میں شکست کھائی یا عذاب کے ذریعے ہلاک کر دیئے گئے جو آیات اور ذکر کی گئی ہیں اُن میں سے کسی میں بھی اس بات کی تصریح نہیں ہے کہ کافروں کے مقابلہ میں کوئی مسلمان شہید نہ ہوگا اور یہ بھی نہیں کہ پہلی ہی ملاقات میں مسلمان غالب ہو جائیں گے ہاں انجام یہ ہوگا کہ حضرات انبیاء کرام اور ان کے لشکر ہی غالب ہوں گے۔ چنانچہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی موجودگی میں ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہا اور دلیل سے غالب ہونا اور آخرت میں فتح یاب ہونا اور کافروں کا شکست کھانا یہ بات تو بہر حال ہے اگر شاذ و نادر کسی نبی کو اس کی قوم نے بلا مقابلہ شہید کر دیا جیسا کہ بنی اسرائیل کے بارے میں یَقْتُلُونَ النَّبِيْنَ فرمایا ہے تو یہ واقعات اول تو شاذ و نادر ہوئے ہیں عسکری قوت کے مقابلہ میں ایسا نہیں ہوا دشمنوں نے بلا مقابلہ قتل کر دیا۔ دوسرے اس میں اللہ کی بعض تکوینی حکمتیں بھی تھیں لہذا ان حضرات کا قتل سورة الصافات اور سورة المؤمن اور سورة المجادلہ کی تصریحات کے خلاف نہیں ہے اور یہ بھی سمجھنا چاہئے کہ یہ نہیں فرمایا ہے کہ ہر موقع پر ہر مقابلہ میں حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کا لشکر غالب ہوگا بلکہ لڑائیوں کا خلاصہ اور حاصل بتا دیا ہے۔ غزوہ اُحد میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جو لشکر تھا اُس کو شکست تو ہوئی پھر آخر میں انہی حضرات کو بعد میں فتح ہوئی غزوہ احزاب میں بھی کافر بھاگے اور فتح مکہ کے موقع پر بھی مغلوب ہوئے غزوہ حنین میں بھی شکست کھائی طائف والے بھی خود سے آئے مدینہ منورہ میں حاضر ہو کر مسلمان ہوئے سارا عرب اسلام کا دشمن تھا بالآخر سبھی مغلوب ہوئے کسریٰ بھی ختم ہوا اور قیصر بھی انجام کار رسول اللہ ﷺ اور آپ کے لشکروں ہی کو فتح یابی حاصل ہوئی۔

پھر یہ بھی سمجھ لینا چاہئے کہ غزوہ اُحد میں جو مسلمانوں نے شکست کا منہ دیکھا وہ اُن کی اپنی غلطی کی وجہ سے تھا جیسا کہ سورة آل عمران میں ارشاد فرمایا: حَتّٰی اِذَا فِیْہِ لَظْمٌ وَّکُنَّا زَعْمَةٌ فِی الْاَمْرِ وَعَصَبْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَاۤ اَرْکَبْکُمْ فَاَنْجَبُوْا مِنْکُمْ مِّنْ یُّرِیْدُ الدُّنْیَا وَ مِنْکُمْ مَّنْ یُّرِیْدُ الْاٰخِرَةَ (دیکھو انوار البیان جلد ۲)

رسول اللہ ﷺ کی حیات مبارکہ میں اُمت کو عملی تربیت دینے کے لئے تکوینی طور پر ہر طرح کے واقعات پیش آ جاتے تھے۔ غزوہ بدر میں یہ بتا دیا کہ فتح یابی ہو تو کیا کریں اب عملی طور پر یہ بتانا بھی ضروری تھا کہ شکست ہو تو کیا کریں یہ بات غزوہ اُحد کے واقعہ نے بتادی اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ شکست کا سبب رسول اللہ ﷺ کی نافرمانی تھی جس کا صحابہ سے صدور ہو گیا تھا۔

اخلاص اور تقویٰ کی ضرورت: جب تک مسلمان اخلاص اور تقویٰ کے ساتھ لڑتے رہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے برابر اُن کی مدد ہوتی رہی جب مسلمان اخلاص کھو بیٹھے دنیا دار ہو گئے دشمنوں سے دوستی کر لی خیانتیں کرنے لگے گناہوں میں کامیابی سمجھنے لگے اُس وقت سے تنزل میں آ گئے دشمن انہیں پیٹنے لگے غزوہ اُحد میں جو کچھ انہیں بتایا اور سمجھایا تھا اُس کی خلاف ورزی کرنے لگے یعنی گناہوں ہی کو زندگی کا مشغلہ بنا دیا لہذا اللہ تعالیٰ کی مدد جاتی رہی اور مغلوب



ہونے لگے، جو تمہارا ایک اللہ تعالیٰ نے قبضہ میں دیئے تھے وہ بھی ہاتھ سے نکل گئے۔ مدد کا وعدہ تو ہے لیکن ایمان کی شرط کے ساتھ ہے۔ سورۃ آل عمران میں جہاں غزوۂ اُحد کا ذکر ہے وہیں یہ بھی فرمایا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُرْتَدِّينَ (اور ہمت نہ ہارو اور غمگین مت ہو اور تم ہی بلند ہو گے اگر مومن ہو) آج کا مسلمان اللہ تعالیٰ کی مدد کا انتظار تو کرتا ہے لیکن مدد کی جو شرط ہے اُسے پورا کرنے کو تیار نہیں، گناہوں کو چھوڑ دیکھو۔

اس کے بعد رسول اللہ ﷺ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ ان سے اعراض فرمائیے وقت گزرنے دیجئے، آپ ان کو دیکھتے رہیے یہ بھی دیکھ لیں گے چنانچہ آپ نے دیکھ لیا اور اہل مکہ بدر میں مغلوب ہوئے۔ آپ نے بھی اُن کا انجام دیکھ لیا اور انہوں نے بھی۔ اَفَعَذَابُنا یَسْتَحْیِلُونَ (کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لئے جلدی مچا رہے ہیں) یعنی عذاب کا تقاضا کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ مَتٰی هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ (یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو) اُن کا یہ تقاضا کرنا اُن کے حق میں اچھا نہیں ہے۔ فَاَذْنُکَ بِسَاحَةِہُمْ فَسَاءَ صَبٰۤاُمُ الْمُنْذَرِیْنَ (سو جب وہ اُن کے میدان میں نازل ہو جائے گا تو ان لوگوں کی صبح بری ہوگی جن کو ذرا بایا گیا) یعنی عذاب کا تقاضہ کیوں کرتے ہیں وہ کوئی فائدہ کی چیز تو نہیں ہے جب عذاب آئے گا وہ دن انکے حق میں برا ہوگا۔ عام طور سے اہل عرب کا طریقہ تھا کہ صبح کے وقت ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ پر حملہ کیا کرتا تھا اور جس قبیلہ پر حملہ ہوتا تھا وہ یَا صَبٰۤاَحٰہُ کی آواز دے کر سب کو مطلع کیا کرتا تھا، اسی محاورہ کے مطابق فَسَاءَ صَبٰۤاُمُ الْمُنْذَرِیْنَ فرمایا، اُن کی طرف اعراض فرمانے کا حکم دوبار فرمایا اور یہ بھی دوبار فرمایا کہ آپ اُن کو دیکھتے رہیے۔

سُبْحٰنَ رَبِّکَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا یَصِفُوْنَ ۝ وَسَلٰمٌ عَلٰی الْمُرْسَلِیْنَ ۝ وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝

آپ کا رب جو ب اعزت ہے اُن باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ اور سلام ہو پیغمبروں پر۔ اور سب تعریف ہے اللہ کے لئے جو رب العالمین ہے

اللہ رَبُّ الْعِزَّةِ ہے اُن باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں

**تفسیر:** یہاں سورۃ الصفّت ختم ہو رہی ہے جو تین آیات اوپر ذکر کی گئی ہیں اُن میں پوری سورۃ کا خلاصہ آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت اور اس کا رب العزت ہونا بیان فرمایا اور جو بھی لوگ اس کی ذات متعالیہ کے بارے میں غلط باتیں کہتے ہیں یا دل میں اعتقاد رکھتے ہیں اُن کی تردید فرمائی اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو سلام کی نعمت سے نوازا دیا جو اللہ کے بندوں کے درمیان خیر پہنچانے کا ذریعہ تھے۔ آخری رکوع سے پہلے دو رکوع میں متعدد انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ کے لئے سلام کا تذکرہ فرمایا تھا یہاں ختم سورۃ پر وَسَلٰمٌ عَلٰی الْمُرْسَلِیْنَ فرما کر تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو سلام کی دولت سے نوازا دیا۔

سب تعریف اللہ ہی کے لئے ہے: اور آخر میں وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ فرمادیا کہ ہر طرح کی سب تعریفیں رب العالمین جل مجدہ ہی کے لئے ہیں اس کے سارے افعال محمود ہیں اور وہ ہمیشہ ہر حال میں حمد و ثنا کا مستحق ہے۔

تفسیر روح المعانی میں ہے کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد (مذکورہ بالا) تینوں آیتوں کو پڑھ لے تو اُس نے پچانہ بھر کر ثواب لے لیا۔ اور بعض روایات میں ان آیات کو مجلس کے ختم پر پڑھنے کی فضیلت بھی وارد ہوئی ہے۔ (روح المعانی ج ۲۳ ص ۱۵۹)

ولقد تم تفسیر سورۃ الصفّت، والحمد للہ رب الصّافات والتّالیات

والسلام علی رسلہ اصحاب الباقیات اصالحات وعلی من تبعہم من المسلمین والمسلمات

اضافہ شدہ ایڈیشن

عام فہم اردو تفسیر

# القرآن الکریم

فی کشف الاسرار القرآن

جلد — ۸

ستلیس اور عام فہم زبان میں اردو کی سب سے پہلی مفصل اور جامع تفسیر، تفسیر القرآن بالقرآن اور تفسیر القرآن بالحدیث کا خصوصی اہتمام، دلنشین انداز میں احکام و مسائل اور مواظظ و نصائح کی تشریح، اسباب نزول کا مفصل بیان، تفسیر وحدیث اور کتب فقہ کے حوالوں کیساتھ

محقق العصر  
حضرت مولانا مفتی محمد عاشق الہی  
مہاجر مدنی

ادارۃ الیفات اشرفیہ

چوک خوارہ ملتان، پاکستان فون: 540513

## اجمالی فہرست

- سورة ص ۳۷۹  
سورة الزمر ۴۱۲  
سورة المؤمن ۴۴۹  
سورة حم السجدة ۴۸۰  
سورة الشورى ۵۰۵  
سورة النحر ۵۲۹  
سورة الدخان ۵۵۷  
سورة الجاثية ۵۷۹  
سورة الاحقاف ۵۸۵  
سورة محمد ۶۰۵  
سورة الفتح ۶۲۶  
سورة التجرىث ۶۵۳

سُوْرَةُ صِّیِّفِیْهِمْ فَاَنْتَ مَلِكٌ یُّدْعٰی اِلَیْهِمْ خَمْسَ مَرَّاتٍ

سورہ ص مکہ معظمہ میں نازل ہوئی اس میں اٹھاسی آیات اور پانچ رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے﴾

ص وَالْقُرْآنِ ذِی الذِّکْرِ ۚ بَلِ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا فِیْ عَزَّةٍ وَّشَقَاقٍ ۚ کُمْ اَهْلُکُمْ مِّنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ

ص قسم ہے قرآن کی جو فصاحت والا ہے بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا تعصب میں اور مخالفت میں ہیں ہم نے ان سے پہلے کئی ہی امتوں کو ہلاک کر دیا

فَنَادَوْا وَاٰلَاتَ حِیْنٍ مِّنَاصٍ ۚ وَعَجِبُوْا اَنْ جَاءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْکٰفِرُوْنَ هٰذَا سِحْرٌ کَذٰبٌ ۙ

ساتھ ہوں نے پکارا اور وہ وقت غلامی کا زمانہ تھا اور ان لوگوں نے اس بات پر تعجب کیا کہ انہیں میں سے ایک ڈرانے والا آیا اور کافروں نے کہا کہ یہ شخص جادوگر ہے بڑا جھوٹا ہے

اَجْعَلِ الْاِلٰهَةَ الْهٰٓءِ وَاحِدًا اِنَّ هٰذَا لَشَیْءٌ عَجَبٌ ۚ وَاَنْطَلَقَ الْمَلَا مِنْهُمْ اَنْ اَمْشُوا وَاَصْبِرُوْا

کیا اس نے سارے معبودوں کو ایک ہی معبود بنادیا۔ بیشک یہ تو بڑی عجیب بات ہے اور ان کے بڑے لوگ یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ چلو اور اپنے معبودوں پر

عَلٰی اٰیٰتِکُمْ اِنَّ هٰذَا لَشَیْءٌ مُّرْکَبٌ ۙ مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِی الْاِلٰهَةِ الْاٰخِرَةِ اِنَّ هٰذَا اِلَّا اَخْتِلَافٌ ۙ

جیسے ہو۔ بلاشبہ یہ ایسی بات ہے جس میں کوئی مقصد ہے ہم نے یہ بات گزشتہ مذہب میں نہیں سنی بس یہ تو گھڑی ہوئی بات ہے کیا ہمارے درمیان سے

اَوْزِلَ عَلَیْکَ الَّذِیْ کُرْمِنْ بَیْنِنَا ۙ بَلْ هُمْ فِیْ شَکٍّ مِّنْ ذِکْرِیْ ۙ بَلْ لَّمَّا یَذُوْقُوْا عَذَابٌ

اسی شخص پر کلام نازل ہوا۔ بلکہ بات یہ ہے کہ یہ لوگ میری وحی کی وجہ سے شک میں ہیں بلکہ بات یہ ہے کہ انہوں نے میرا عذاب نہیں چکھا

اَمْرٌ عِنْدَکُمْ خَزَآئِنُ رَحْمَةِ رَبِّکَ الْعَزِیْزِ الْوَهَّابِ ۙ اَمْ لَکُمْ مَّلٰکُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا ۙ فَلَیْزِیْنٰوْا

کیا ان کے پاس آکھدب کے خزانے ہیں جو غالب ہے بخشش فرمانے والا ہے کیا ان کے لئے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ کھد میان ہے ان کا اختیار حاصل ہے سوچا ہے

فِی الْاَسْبَابِ ۙ جُنْدٌ مِّنْکَ مَہْزُوْمٌ مِّنَ الْاَحْزَابِ ۙ کَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَّعَادٌ وَّفِرْعَوْنُ

کہ نیزمیاں لگا کر چھ جائیں۔ اس مقام پر لوگوں کی ایک بھڑ ہے جو شکست خوردہ جماعتوں میں سے ہے ان سے پہلے قوم نوح نے اور عاد نے اور فرعون نے

ذُو الْاَوْتَادِ ۙ وَشُعُوْدٌ وَّقَوْمُ لُوطٍ وَّاَصْحٰبُ لُیْکَہٗ ۙ اُولٰٓئِکَ الْاَحْزَابُ ۙ اِنْ کُلٌّ اِلَّا کَذَّبَ الرُّسُلَ

جو بیٹوں والا تھا اور شعود نے اور لوط کی قوم نے اور ایک والنوں نے جھٹلایا وہ گروہ یہی لوگ تھے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے رسولوں کو جھٹلادیا

فَحَقَّ عِقَابٌ ۙ

سو میرا عذاب واقع ہو گیا۔



لیکن حضرت ابو عبیدہ قاسم بن سلام کا ارشاد ہے کہ لائقین وصل النساء کے ساتھ رسم قرآنی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مصحف عثمانی میں، میں نے خود موصولاً لکھا ہوا دیکھا ہے لیکن امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے قصیدہ رائیہ میں فرمایا ہے ابو عبیدہ عزو لا تحین ال امام والکل فیہ اعظم النکرا (یعنی ابو عبیدہ نے ”ولا تحین“ کو مصحف عثمانی کی طرف منسوب کیا ہے اور تمام علماء نے اس بارے میں بڑی نکیر کی ہے) حضرت عبید بھی رسم قرآنی کے امام ہیں لیکن چونکہ یہ نقل خبر واحد کے درجہ میں ہے جس کا تو اثر ثابت نہیں ہوا اس لئے ائمہ کرام نے اس کو تسلیم نہیں کیا، حضرت امام جزری نے بھی نام لئے بغیر اپنے مقدمہ میں حضرت ابو عبیدہ کا قول نقل کیا ہے اور آخر میں دوہلا فرمایا یعنی یہ قول ضعیف قرار دیا گیا ہے۔

لات حین کے مذکورہ وصل قطع کے اختلاف کی وجہ سے وقف اور ابتداء میں بھی اختلاف ہو گیا، چنانچہ جملہ علماء و قراء فرماتے ہیں کہ ”لا“ پر وقف کر کے تحین سے ابتداء کرنا درست نہیں ہے کیونکہ لا پر تا زائدہ آتی ہے اور دونوں کلمہ ہلحدہ کے حکم میں ہیں لہذا وقف کریں تو لات پر کریں لیکن ابو عبیدہ رحمہ اللہ اپنے اختیار کردہ رسم الخط کی بناء پر کہتے ہیں کہ لا پر وقف کر کے تحین سے ابتدا کر سکتے ہیں۔

ملاطی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآت شاذ ہے کیونکہ مبنی اور معنی کے اعتبار سے قواعد عربیہ کے خلاف ہے۔ اگر ضرورت کی بناء پر لات پر حسب مذہب جمہور قراء عمل کیا جائے تو تا کو ہا سے بدل کر وقف کریں یا تا کو ت ہی رہنے دیں؟ اس کے بارے میں ملاطی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسائی ”وقف بالحاء کرتے ہیں اور باقی قراء کرام رسم کے تابع کرتے ہوئے وقف بالتا کرتے ہیں۔ (کیونکہ تالیبی لکھی ہوئی ہے)

وَتَعْجَبُونَ أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِّنْهُمْ (اور انہیں اس بات سے تعجب ہوا کہ انہیں میں ایک ڈرانے والا آگیا) اس میں ان کے لئے دو باتیں تعجب کی تھیں ایک تو یہ کہ انسان اللہ کا پیغمبر بن کر آیا ہے دوسرے یہ کہ ہمارے ہی اندر سے نبی بھیجا گیا ہے اگر ہمارے اندر سے اللہ تعالیٰ کا پیغمبر بھیجتا تھا تو کوئی سردار آدمی ہوتا کمانی سورۃ الزخرف لَوْ لَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقُرْآنِ بَعِثْنَا عَظِيمًا

وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سِحْرٌ مُّكْدَبٌ (اور کافروں نے کہا کہ یہ شخص جادوگر ہے بڑا جھوٹا ہے) رسول اللہ ﷺ کے معجزات دیکھ کر انہوں نے یہ بات کہی تھی، کافروں نے یہ بھی کہا جَعَلُوا لِلَّهِ إِلَهًا وَاحِدًا (کیا اس نے بہت سے معبودوں کو ایک ہی معبود بنا دیا) إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ مُّعْجَبٌ (بلاشبہ یہ بڑے تعجب کی بات ہے) چونکہ قریش مکہ اپنے باپ دادوں کو دیکھتے آئے تھے جو بہت سے معبود مانتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے اس لئے انہیں یہ بات عجیب معلوم ہوئی کہ صرف ایک ہی معبود کی عبادت کی جائے اور ایک معبود کے علاوہ سارے معبودوں کو باطل معبود قرار دیدیا جائے خیر کی بات رواج سے اٹھ جاتی ہے اور بُری بات عام ہو جاتی ہے رواج میں جگہ پکڑ لیتی ہے تو اچھی بات سن کر جو خلاف رواج ہو تعجب ہونے لگتا ہے اسی لئے قریش مکہ کو تو حید کی بات سن کر تعجب ہوا)

وَأَنطَلَقْنَا لَمَّا وَنُفْهُهُ (اور ان میں جو سردار تھے یوں کہتے ہوئے روانہ ہو گئے کہ یہاں سے چل دو اور اپنے معبودوں پر جے رہو) اگر یہاں اور بیٹھے رہے تو ممکن ہے کہ اس شخص کی بات ہمارے دلوں میں اثر کر جائے اور ہمیں ایک ہی معبود کو ماننا پڑے، إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ مُّعْجَبٌ (بیشک یہ ایسی چیز ہے جس کا ارادہ کیا جا رہا ہے) یہ بھی مشرکین کا قول ہے اس کا ایک مطلب تو وہ ہے جس کی طرف ترجمہ میں اشارہ کر دیا گیا ہے یعنی یہ شخص جو ہماری جماعت سے نکل کر نئی نبی باتیں کر رہا ہے

اس کا کوئی مقصد ہے اور وہ یہ کہ اسے عرب و عجم کی سرداری مل جائے اور سب سے اوپر ہو کر رہے، اور بعض مفسرین نے یہ مطلب بتایا ہے کہ اس شخص کا جو کچھ دعویٰ ہے اور اس پر اس کا جو جماؤ ہے اس سے اس کو ہٹایا نہیں جاسکتا، اس کی طرف سے کسی طرح جھکاؤ کی امید نہیں اور تیسرا مطلب یہ بتایا ہے کہ اس شخص کا وجود اور اس شخص کی دعوت اور اس کا دعویٰ یہ بھی زمانہ کی لائی ہوئی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ہے ہمارے پاس کوئی ایسی تدبیر نہیں کہ اس شخص کو روک دیں صبر کے گھونٹ پینے کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ (ذکرہ صاحب الروح)

مشرکین مکہ نے مزید کہا، مَا مَعْنَا بِهَذَا فِي الْاٰخِرَةِ (ہم نے یہ بات کسی دوسرے دین میں نہیں سنی) حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے دین نصاریٰ مراد ہے اس وقت تک ادیان مساوی میں وہی آخری دین تھا جس میں نصاریٰ نے تحریف و تغیر کر لی تھی اور مشرکین مکہ نصاریٰ کی باتیں سنتے رہتے تھے اس لئے انہوں نے یہ بات کہی، نصاریٰ نے اپنے دین کو بدل دیا تھا تو حید سے منحرف ہو کر تین خدما ماننے لگے تھے۔

ان لوگوں نے یہ بھی کہا اِنْ هٰذَا اِلَّا خِلَاقٌ (یہ جو تو حید والی بات کہتے ہیں بالکل ہی گھڑی ہوئی ہے) جس کو انہوں نے اپنے پاس سے بنالی ہے، اپنی بات میں اضافہ کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا اَوْ نَزَّلَ عَلَیْهِ الَّذِیْ کُنتُمْ یَسْتَعْجِلُوْنَ (کیا نصیحت کی بات یعنی قرآن جس کے نازل ہونے کا ان کو دعویٰ ہے ہمارے درمیان سے انہیں پر نازل کیا گیا) ان کا مطلب یہ تھا کہ ہم لوگ سردار ہیں مال والے ہیں بڑے لوگ ہیں اگر اللہ کی طرف سے کوئی کتاب نازل ہوئی تھی تو ہم میں سے کسی پر نازل ہونی چاہئے تھی اس کی کیا خصوصیت ہے جو اس کو نبی بنایا گیا اور اس پر کتاب نازل کی گئی۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْ ذٰلِکَ (بلکہ بات یہ ہے کہ میرے ذکر کی طرف سے یہ لوگ شک میں ہیں) بَلْ لَّسْنَا بِدُفُوَاعٍ (بلکہ بات یہ کہ انہوں نے میرا عذاب نہیں چکھا) یہ ساری باتیں اور منہ شگافیاں عذاب آنے سے پہلے پہلے ہیں، جب عذاب آجائے گا تو تصدیق کرنے پر مجبور ہو جائیں گے لیکن اس وقت کی تصدیق فائدہ نہ دے گی۔ اَفَرَأٰی کَیْفَ خَرَجْنَا مِنْ رَحْمَتِ رَبِّکَ الْعَزِیْزِ الْوَهَّابِ (کیا ان کے پاس آپ کے رب کی رحمت کے خزانے ہیں جو بہت عزت والا ہے بہت عطا فرمانے والا ہے) یعنی یہ لوگ جو یوں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چھوڑ کر اس شخص کو کیوں پیغمبری ملی اور اس پر قرآن کیوں نازل ہوا انہیں یہ بات کہنے اور اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں اللہ تعالیٰ شانہ عزیز ہے وہاب ہے وہ اپنی رحمت سے جس کسی کو جو چاہے عطا فرما دے نبوت اور رسالت بھی اس کا ایک عطیہ ہے اس نے اپنی حکمت کے مطابق جسے چاہا نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا، ان لوگوں کو نہ کوئی اختیار ہے نہ پروردگار عالم جل مجدہ کے خزانوں کے مالک ہیں انہیں یہ بات کہنے کا کیا اختیار ہے کہ آپ کو نبوت کیوں نہ ملی؟

اَمْ لَکُمْ مِّلْکُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا، (کیا اُن کے قبضہ میں آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کی ملکیت ہے؟ یعنی یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اجرام علویہ اور اجسام سفلیہ میں انہیں کچھ بھی دخل اور اختیار نہیں ہے پھر انہیں کیا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ملک اور ملکوت میں دخل دیں اور قادر مطلق جل مجدہ پر اعتراض کریں کہ فلاں کو کیوں نبوت دی فلانکَ تَقُوْا فِی الْاَنْبِیَآءِ، آسمانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان جو چیزیں ہیں اگر انہیں ان کے



بارے میں کسی اختیار کا دعویٰ ہے تو میزھیوں کے ذریعہ اوپر چڑھ جائیں لیکن انہیں تو ذرا سا بھی اختیار نہیں پھر کیوں اعتراض کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں کیوں دخل دے رہے ہیں۔

جُنْدًا هُنَالِكَ مَهْزُومًا مِنَ الْاَحْزَابِ، (اس مقام پر ان لوگوں کی ایک بھیڑ ہے جو شکست کھائی ہوئی جماعتوں میں سے ہیں) یعنی یہاں مکہ معظمہ میں ایسے لوگوں کی بھیڑ ہے جو رسول اللہ ﷺ کی مخالفت کرتے ہیں ان کا لشکر شکست خوردہ جماعتوں میں سے ایک جماعت ہے، یہ بھی شکست کھائیں گے جیسے ان سے پہلے مخالف جماعتوں نے شکست کھائی، چنانچہ اہل مکہ نے بدر میں شکست کھائی اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ احزاب سے وہ جماعتیں مراد ہیں جو غزوہ خندق کے موقع پر چڑھ کر آگئی تھیں انہوں نے بھی شکست کھائی اور بری طرح پسا ہو کر بھاگے اس مضمون میں رسول اللہ ﷺ کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ غم نہ کریں فکر مند نہ ہوں دوسری اقوام کی طرح ان کو بھی شکست ہوگی۔ (راجع القرطبی ص ۱۵۳ ج ۱۵)

## گزشتہ ہلاک شدہ اقوام کا تذکرہ

اس کے بعد گزشتہ ہلاک شدہ اقوام کا ذکر فرمایا جس میں مشرکین مکہ کے لئے عبرت ہے ارشاد فرمایا کہ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے اور قوم عاد نے اور فرعون نے جو ذی الادب تھا اور شمود نے اور لوط علیہ السلام کی قوم نے اور اصحاب الایکہ نے حضرات انبیائے کرام علیہم السلام کو جھٹلایا یہ وہ جماعتیں ہیں جنہوں نے اللہ کے رسولوں کی مخالفت کو اپنا شیوہ بنایا اور اس کی سزا پائی، مزید فرمایا اِنْ كُلِّ اِلَّا كَذِبٌ مُّسْتَقْبَقٌ عِقَابٍ، یہ سب وہی ہیں جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو ان پر میرا عذاب ثابت ہو گیا، ان لوگوں کے عذاب کی تفصیلات قرآن مجید میں جگہ جگہ مذکور ہیں جنہیں عام طور سے عوام اور خواص جانتے ہیں، اصحاب الایکہ سے حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک امت مراد ہے جو ایک یعنی جھاڑیوں اور جنگلوں میں رہتے تھے ان پر ظلم کا عذاب آیا یہ لوگ سخت گرمی کی وجہ سے ایک بادل کے سایہ میں کھڑے ہو گئے تھے اور وہیں ہلاک کر دیئے گئے۔ (دیکھو انوار البیان تفسیر سورة شعرا ص ۷۹ ج ۶)

## ذوالالوتاد کا معنی

ذوالالوتاد (میخوں والا) یہ لفظ فرعون کی صفت ہے اس سے کیا مراد ہے؟ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ وہ میخوں یعنی کیلوں کے ذریعہ لوگوں کو سزا دیتا تھا، چاروں ہاتھ پاؤں چارستونوں سے باندھ دیتا تھا اور چاروں میں ایک ایک کیل ٹھوک دیتا تھا پھر اسی طرح چھوڑ دیتا تھا جس کی وجہ سے وہیں پڑے پڑے آدمی مرجاتا تھا، اور بعض حضرات نے اس کا یہ مطلب بتایا ہے کہ اس کی حکومت مضبوط تھی، اور ایک قول یہ ہے کہ اوتاد سے لشکر مراد ہے مطلب یہ ہے کہ فرعون کے بہت سارے لشکر تھے چونکہ لشکر جہاں پڑاؤ ڈالتے ہیں اپنے خیمے نصب کرنے کے لئے کیلیں گاڑتے ہیں اس لئے لشکروں کو اوتاد سے تعبیر کیا واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔ (ذکر ذوالالوتاد صاحب الروح)

وَمَا يَنْظُرُهُمْ إِلَّا صِغَةً وَاحِدَةً مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ ۖ وَكَأَنَّا بُنَّاءٌ عَمَلٌ لَّنَا قِطْنَا قَبْلَ

اور یہ لوگ بس ایک زوردار چیخ کے انتظار میں ہیں جس میں دم لینے کی گنجائش نہ ہوگی اور ان لوگوں نے کہا کہ اے رب ہمارا حصہ حساب کے

### يَوْمُ الْحِسَابِ ۝

دن سے پہلے ہمیں دے دیجئے

**تفسیر :** اہل مکہ کو جب یہ بات سنائی جاتی تھی کہ انکار اور تکذیب پر عذاب آجایا کرتا ہے اور پہلی قومیں

کفر پر جبرے رہنے اور انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تکذیب کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو چکی ہیں تو اس کا مذاق بناتے تھے اور اطمینان کے ساتھ دنیاوی اعمال میں مشغول رہتے تھے اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ یہ لوگ بس اسی انتظار میں ہیں

کہ ایک چیخ آجائے یعنی صور پھونک دیا جائے گا اس وقت جو چیخ ہوگی وہ رکنے والی نہ ہوگی سمجھداری اسی میں ہے کہ

قیامت آنے سے پہلے ہی ایمان قبول کر لیں اور اپنا حال درست کر لیں علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے سورۃ

یٰسین میں فرمایا ہے، مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صِغَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ (یہ لوگ ایک ایسی سخت آواز کے منتظر ہیں

جو انہیں آ کر پکڑے گی اور وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے) فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ (سو نہ وصیت کر

سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف جا سکیں گے) علامہ قرطبی سورۃ ص کی آیت کا مطلب بتاتے ہوئے فرماتے ہیں

کہ اب غزوہ بدر کے واقعہ کے بعد انہیں یہی انتظار ہے کہ قیامت قائم ہو جائے (ان کو چاہئے تھا کہ بدر کے واقعہ سے

عبرت حاصل کر لیتے اور اہل ایمان کے غلبہ سے سبق لے کر خود بھی مومن ہو جاتے قیامت قائم ہوگی تو دم مارنے کی گنجائش

نہ ہوگی اور ذرا سی بھی مہلت نہ دی جائے گی، قیامت کو مانتے بھی نہیں اور ڈھنگ ایسا ہے جیسے وہاں کیلئے بہت کچھ کیا ہو

اور عذاب کی بھی بددعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب حساب کے دن سے پہلے ہمارا حصہ ہمیں دیدے۔

یعنی قیامت کے دن کا انتظار کیوں ہے ہمیں جو عذاب دینا ہے ابھی آجائے، بات یہ ہے کہ انہیں قیامت آنے

کا یقین نہیں تھا اور نہ اپنے منہ سے کون عذاب مانگتا ہے۔

۱۔ (قوله تعالى ما لها من فواق بفتح الفاء ضمها في السبعة وهو ما بين الحبطين لانها لم تترك سبعة يرضعها الفضيل لندرم

تسحب قال الفراء وابوعبيدة وغيرهما من فواق بفتح الفاء أي راحة لا يفوق فيها كما يفوق المريض والمغشى عليه ومن فواق بضم

الفام انتظار، والقط في كلام العرب الحظ والنصيب او القط اسم للقطعة من الشيء كالقسم والقسم فاطلق على النصيب والكتاب

والرزق لقطعه عن غيره الا انه في الكتاب اكثر استعمالاً وأقوى حقيقة (المتقطا من القرطبي ص ۱۵۶ ج ۱ ص ۱۵۷)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ یہ فَوَاقٍ فاء کے فتح کے ساتھ اس وقت کو کہتے ہیں جو دو دفعہ دو دفعہ دہنے کے درمیان ہوتا ہے کہ پہلے دو دفعہ

دو دفعہ کر تھوڑا سا چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ پختوں کو چہرے سے دو دفعہ دو دفعہ آئے اور پھر دوسری دفعہ دو دفعہ لیں فراء اور ابو عبیدہ وغیرہ کہتے ہیں فَوَاقٍ فاء کے فتح

کے ساتھ یعنی ایسی راحت و سکون جس میں افادہ نہ ہوگا جیسے مریض کو افادہ ہوتا ہے یا بے ہوش کو، اور فَوَاقٍ فاء کے ضمہ کے ساتھ انتظار کے معنی میں ہے۔ اور

”قط“ کلام عرب میں حصہ اور نصیب کو کہتے ہیں یا ”القط“ کسی شے کے ٹکڑے کو کہتے ہیں جیسے القسم اور القسم پھر اس کا اطلاق حصہ پر کیا گیا وہ کتاب اور رزق

جو الگ کر لیا گیا ہوا نہ بھی بولا جاتا ہے مگر کتاب کے معنی میں اس کا استعمال زیادہ ہے اور حقیقت کے لحاظ سے قط بمعنی کتاب زیادہ قوی ہے)

إَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَادْكُرْ عَبْدًا نَادَا وَذَا الْإِيدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ۝ إِنَّا نَحْنُ الْجِبَالُ مَعَهُ يُسَبِّحُونَ

یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کیجئے اور ہمارے بندہ داؤد کو یاد کیجئے جو قوت والے تھے بیٹک وہ رجوع کرنے والے تھے، بیٹک ہم نے ان کے ساتھ پہاڑوں کو سحر کر دیا وہ تسبیح میں مشغول

يَا عِشْيَ وَالْإِشْرَاقِ ۝ وَالطَّيْرِ مَحْشُورَةٍ كُلُّ لَّهُ أَوَّابٌ ۝ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ

ہوئے تھے شام کو اور اشراق کے وقت طور پر ندوں کو سحر کر دیا جو جمع کئے ہوئے تھے سب کی طرف رجوع کرنے والے تھے اور ہم نے ان کے ملک کو مضبوط کر دیا اور انہیں حکمت دیدی

### وَفَصْلُ الْخُطَابِ ۝

اور فصل خطاب دیدیا۔

## حضرت رسول اکرم ﷺ کو تسلی اور حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ

**تفسیر:** رسول اللہ ﷺ کو مشرکین کی باتوں سے رنج ہوتا تھا، آیت بالا میں آپ کو حکم دیا کہ آپ ان کی باتوں پر صبر کریں اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ ہمارے بندہ داؤد کو یاد کیجئے جو قوت والے تھے اور فرمایا کہ وہ اوواب تھے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے، پھر ان کی تسبیح کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے ان کے ساتھ پہاڑوں کو حکم کر رکھا تھا کہ ان کے ساتھ شام کو اور صبح کو تسبیح کیا کرو اور پرندوں کو بھی حکم دیا تھا جو جمع ہو جاتے تھے اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے تھے یعنی اُس کے ذکر میں مشغول رہتے تھے سورہ سبا کے دوسرے رکوع میں بھی یہ مضمون گزر چکا ہے اسکی مراجعت کر لی جائے۔

اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کا ملک مضبوط کر دیا تھا اور انہیں حکمت یعنی نبوت دی تھی اور فصل الخطاب سے نوازا تھا یعنی وہ ایسی تقریر کرتے تھے جو خوب واضح ہوتی تھی، سننے والے اچھی طرح سمجھ لیتے تھے۔

اس کے بعد آئندہ آیات میں اُن کا ایک واقعہ ذکر فرمایا جس میں اُن کے صبر کا تذکرہ ہے اور اسی نسبت سے

إَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام کو یاد کرنے کا حکم دیا۔

وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَضِرِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْحُرَابَ ۝ إِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُدَ فَفَزِعَهُ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ ۝

اور کیا آپ کے پاس جھگڑا کر نبیوں کی خبر پہنچی ہے جبکہ وہ دیوار پھاند کر محراب میں آ گئے جب وہ داؤد پر داخل ہوئے تو وہ ان کے آنے سے گھبرا گئے

خَضِرٌ مِّنْ بَعْضِ مَا عَلَىٰ بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَهُمَا بِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ ۝

انہوں نے کہا کہ آپ ذریں نہیں ہم وہاں معاملہ ہیں ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے تو آپ حق کے ساتھ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیجئے اور بے انصافی نہ کیجئے اور ہمیں سیدھے راستہ بتائیے

إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَجَّةً وَلِي نَجَّةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي

بیٹک یہ میرا بھائی ہے اس کے پاس ننانویس و نہیاں ہیں اور میرے پاس ایک دُنی ہے سو یہ کہتا ہے کہ وہ مجھ سے اور بات چیت میں مجھ سے باتا ہے

الْخُطَابِ ۝ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَجَّتِكَ إِلَىٰ نَجَاتِهِ وَإِنْ كُنَّا مِنْ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ

داؤد نے کہا کہ بلاشبہ اس نے تجھ پر ظلم کیا کہ تیری دُنی کو اپنی دُنیوں میں ملانے کا سوال کیا اور اکثر شرکا کا ایک دوسرے پر زیادتی کیا کرتے ہیں مگر وہ

عَلَىٰ بَعْضِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَتْهُ فَاستَغْفَرَ

لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کئے اور ایسے لوگ بہت کم ہیں اور داؤد نے خیال کیا کہ ہم نے ان کا امتحان لیا ہے سو انہوں نے اپنے رب سے

رَبِّهِ وَخَرَّ رَاكِعًا وَابْتَدَأَ بِتِلْكَ آيَةٍ فَذَكَرَ إِلَهُهُ ذَٰلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَ النَّازِلِينَ وَحُسْنَ مَآلٍ ﴿۳۸۶﴾

استغفار کیا اور سجدہ میں گر پڑے اور شروع ہوئے سو ہم نے وہ ان کو معاف کر دیا اور بلاشبہ ان کے لئے ہمارے پاس نزدیکی ہے اور اچھا انجام ہے۔

## حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں دو شخصوں

## کا حاضر ہو کر فیصلہ چاہنا اور آپ کا فیصلہ دینا

**تفسیر :** ان آیات میں حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا اور اس کے بعد والی آیات میں یہ بتایا کہ ہم نے داؤد کو زمین کا خلیفہ بنانے کا اعلان کیا تھا اور انہیں حکم دیا تھا کہ آپ انصاف کے ساتھ لوگوں میں فیصلہ کریں، یہاں جو قصہ ذکر فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ دو شخص اپنا مقدمہ لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آئے بھی کس طرح؟ دروازہ سے آنے کی بجائے دیوار چھاند کر آئے اور تنہائی میں ان کے پاس پہنچ گئے انہوں نے عبادت کیلئے ایک جگہ بنا رکھی تھی جسے محراب سے تعبیر فرمایا وہ مشغول عبادت بھی تھے جب ان دونوں پر نظر پڑی تو یہ تقاضائے بشریت گھبرا گئے ان دو شخصوں نے ان کی گھبراہٹ کو محسوس کر لیا اور کہنے لگے کہ آپ ہماری وجہ سے خوف زدہ نہ ہوں ہم کوئی چور ڈاکو نہیں ہیں ہم اپنا مقدمہ لے کر حاضر ہوئے ہیں ہم میں ایک مدعی ہے اور دوسرا مدعی علیہ ہے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، آپ ہمارا مقدمہ سن لیجئے اور انصاف سے فیصلہ کر دیجئے اور فیصلہ میں بے انصافی نہ کیجئے اور ہم کو سیدھی راہ بتا دیجئے۔

پھر ان میں سے ایک بولا کہ یہ میرا (دینی) بھائی ہے اس کے پاس ننانویں یعنی ایک کم سو دنیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دینی ہے اب یہ کہتا ہے کہ وہ بھی مجھے دیدے، اور کہنے میں بھی وہ طریقہ نہیں اختیار کیا جو سوال کرنے والوں کا ہوتا ہے بلکہ مجھے اس سختی کے ساتھ خطاب کیا حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے جو یہ بات اٹھائی کہ تیری جو ایک دینی ہے وہ تو اسے دیدے اور یہ اُسے اپنی دنیوں میں ملا لے اس کا یہ سوال کرنا ظلم ہے، یہ تو ان دونوں کے مقدمہ کا فیصلہ فرمایا اور ساتھ ہی عام لوگوں کا مزاج اور رواج اور طریقہ کار بھی بیان فرمادیا اور وہ یہ کہ بہت سے لوگ جو شریک ہوتے ہیں، یا مل جل کر رہتے ہیں ان کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں ہاں اہل ایمان اور اعمال صالحہ والے لوگ ایک دوسرے پر زیادتی نہیں کرتے ایسے لوگ ہیں تو سہی مگر کم ہیں۔

اول تو یہ سمجھنا چاہئے کہ اللہ جل شانہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعہ کو اَصْدَقُ عَلٰی مَا يَقُولُونَ کے ساتھ شروع فرمایا ہے جس سے واضح ہو رہا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو کسی ایسی بات میں مبتلا فرمایا تھا جس میں صبر کی ضرورت تھی رسول اللہ ﷺ کو حکم ہوا کہ آپ اپنے مخاطبین کی باتوں پر صبر کریں اور داؤد کے قصے کو یاد کریں اس کے بعد یہ بات بیان فرمائی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مشغول رہتے تھے پھر یہ قصہ بیان فرمایا کہ دو شخص ان کے پاس دیوار پھلانگ کر آ گئے اور دونوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا، انہوں نے ان کا فیصلہ سنا دیا، اس میں یہ بات تلاش کرنے کی ہے اس میں صبر کرنے کی کون

سی بات تھی، اس بارے میں روایات حدیث سے کوئی بات واضح نہیں ہوتی، البتہ اتنی بات قرآن مجید کے سیاق اور بیان سے معلوم ہو رہی ہے کہ جو شخص ان کے پاس تنہائی میں پہنچ گئے تھے وہ وقت ان کی عبادت کرنے کا تھا فیصلہ خصوصیات کا وقت نہ تھا پھر وہ دونوں دیواریں کو دکر آئے جب داؤد علیہ السلام کو ان سے گھبراہٹ ہوئی تو انہوں نے تسلی تو دیدی کہ آپ گھبرائے نہیں لیکن بے وقت پہنچے پھر دیوار کو دکر آئے اور ساتھ ہی یوں کہہ دیا کہ **فَاَتَكْفُرُ بِنِعْمَةِ اللَّهِ** آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیجئے اور مزید یوں کہا کہ بے انصافی نہ کیجئے اور ساتھ ہی یوں بھی کہہ دیا کہ سیدھی راہ بتا دیجئے ان باتوں سے ایک طرح کی بے ادبی ظاہر ہوتی تھی جس سے ابہام ہوتا تھا کہ داؤد علیہ السلام ناحق فیصلہ بھی کر سکتے ہیں اور زیادتی بھی کر سکتے ہیں، داؤد علیہ السلام نبی ہونے کے ساتھ ساتھ جلیل القدر بادشاہ بھی تھے مدعی اور مدعی علیہ کی باتیں سن کر صبر کیا اور محل سے کام لیا ان متواتر گستاخیوں پر کوئی دارو گیر نہیں فرمائی بلکہ بڑی نرمی کے ساتھ اُن کا مقدمہ سنا اور فیصلہ فرمادیا۔

## حضرت داؤد کا مبتلائے امتحان ہونا پھر استغفار کرنا

اب رہی یہ بات کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب صبر کے ساتھ مدعی اور مدعی علیہ کی بات سنی اور فیصلہ فرمادیا جو صحیح فیصلہ تھا تو اس میں وہ کون سی بات تھی جو ان کے امتحان کا سبب بن گئی؟ اس کے بارے میں بعض حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے مدعی کی بات سن کر مدعی علیہ سے دریافت کئے بغیر جو یہ فرمادیا کہ اس شخص نے تجھ پر ظلم کیا کہ اپنی دنیوں میں ملانے کے لئے تیری دینی ملانے کا سوال کیا اس میں فریقین میں سے ایک کی جانب جھکاؤ معلوم ہوتا ہے جو آداب قضاء کے خلاف ہے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ مدعی علیہ نے اس بات کا اقرار کر لیا تھا کہ واقعی میں نے اس شخص سے یہ سوال کیا ہے کہ اپنی دینی مجھے دیدیے اگر یہ صورت ہو تو پھر بھی یہ بات رہ جاتی ہے کہ قاعدہ کے مطابق مدعی علیہ سے فرمانا چاہئے تھا کہ تو نے اس پر ظلم کیا ہے بجائے اس سے خطاب کرنے کے مدعی سے فرمایا کہ اس شخص نے تجھ پر ظلم کیا یہ بھی ایک قسم کی مدعی کی تھوڑی سی طرف داری ہوئی جب یہ خیال آیا تو انہوں نے اسے امتحان کی بات سمجھا، بڑوں کی بڑی باتیں ہیں معمولی بات میں بھی ان کی گرفت ہو جاتی ہے اس لئے وہ استغفار کی طرف متوجہ ہوئے اور سجدہ میں گر پڑے اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرمادیا اور یہ بھی فرمادیا کہ ان کے لئے ہمارے یہاں نزدیکی ہے اور اچھا انجام ہے۔

یہ دونوں شخص جو مقدمہ لے کر آئے تھے اس کی واضح تصریح نہیں ملتی کہ یہ کون تھے؟ صاحب روح المعانی نے لکھا ہے (جو بے سند ہے) کہ یہ دونوں حضرت جبریل اور میکائیل علیہما السلام تھے، اندر جانا چاہا تو چونکہ اروں نے روکا، لہذا وہ دیوار کو دکر ان کے پاس محراب میں تشریف لے گئے، یہ بات بعید نہیں ہے کہ یہ دونوں فرشتے ہوں کیونکہ اونچی دیوار تھی، پھلانگ کرتنہائی میں پہنچ جانا انسانوں کا کام نہیں ہے لیکن اگر یہ حضرات فرشتے تھے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کا دنیوں سے کیا واسطہ اور جھگڑے سے کیا تعلق اعلیٰ والے دنیوں کے بارے میں کیوں جھگڑا کرنے لگے اور ننانویں دینی والے نے ایک دینی والے سے مطالبہ کیوں کیا کہ یہ ایک دینی بھی مجھے دیدے اور نہ صرف یہ کہ سادگی کے ساتھ مطالبہ کیا بلکہ سختی کو استعمال کیا اگر یہ دونوں فرشتے تھے تو انہوں نے جھگڑا کیا تو وہ بھی حقیر دنیا کیلئے اور اگر جھگڑا ہوا ہی نہیں تھا تو حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں یہ بات کیوں کہی کہ ہمارا آپس میں جھگڑا ہوا ہے یہ تو کذب بیانی ہوئی اور جھوٹا بیان

ہوا جو گناہ کبیرہ ہے اور فرشتے تو ہر گناہ سے پاک ہیں۔

مفسرین نے اس کا یہ جواب لکھا ہے کہ یہ جھگڑا اور دعویٰ کسی حقیقت و واقعہ پر مبنی نہیں تھا بلکہ بطور فرض انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا تھا جس سے حضرت داؤد علیہ السلام کو متنبہ کرنا مقصود تھا اس کے ذریعہ انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کو امتحان میں ڈالنے کا ایک راستہ نکالا تھا۔

حضرت داؤد علیہ السلام جس فتنہ میں مبتلا کئے گئے اس کے بارے میں حضرت ابن عباسؓ سے یوں نقل کیا گیا ہے جسے محدث حاکم نے مستدرک میں لکھا ہے کہ داؤد علیہ السلام کو ان کی خود پسندی نے امتحان میں مبتلا کیا جس کی صورت حال یوں بن گئی کہ انہوں نے عرض کیا کہ یا اللہ رات اور دن میں کوئی بھی ایسی خالی گھڑی نہیں گزرتی جس میں آل داؤد میں سے کوئی شخص نماز یا تسبیح یا تکبیر اور دیگر عبادات میں مشغول نہ ہوتا ہو، اللہ جل شانہ کو ان کی یہ بات ناگوار ہوئی اور ارشاد فرمایا کہ اے داؤد یہ سب کچھ میری ہی مدد سے ہے اگر میری مدد شامل حال نہ ہوتو تمہیں مذکورہ عبادت پر قدرت نہ ہو قسم ہے میرے جلال کی میں ایک دن تجھے تیرے ہی سپرد کرتا ہوں داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے رب مجھے وہ دن بتا دیجئے گا اس کے بعد اس خاص دن میں وہ فتنہ میں مبتلا کر دیئے گئے۔ (مستدرک حاکم ص ۳۳۳ ج ۲ وقال صحیح الاسناد و اقوالہ الذہبی) اس میں سبب فتنہ کا تو ذکر ہے لیکن فتنہ کا ذکر نہیں بعض اکابر نے فرمایا ہے کہ جتنی دیر فرشتوں سے بات چیت ہوئی اتنی دیر میں چونکہ اللہ کے ذکر سے غافل رہے اس لئے انہوں نے اسے فتنہ سمجھ لیا گو قضاء کا کام اور فیصلے دینا بھی عبادت ہے لیکن چونکہ عبادت بلا واسطہ یعنی تسبیح تو تہلیل سے غفلت ہوئی اس لئے انہوں نے اسے اپنے حق میں فتنہ سمجھ لیا۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

## شرکاء مالیات کا عام طریقہ

حضرت داؤد علیہ السلام نے دو شخصوں کے درمیان جو فیصلہ فرمایا صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ ہی عام شرکاء کی ایک حالت بھی بتادی جنہیں خطاء سے تعبیر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اس دنیا میں بسنے والے لوگ جو آپس میں مل جل کر رہتے ہیں جن میں وہ لوگ بھی ہیں جن کا تجارت میں یا کسب اموال کے دوسرے طریقوں میں سا جھار ہوتا ہے عام طور سے یہ لوگ ایک دوسرے پر زیادتی کرتے رہتے ہیں جو خیانت وغیرہ کی صورت میں ہوتی ہے عام طور سے لوگوں کا یہی حال ہے ہاں اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو اہل ایمان اور اعمال صالحہ والے ہیں یہ لوگ اپنے شرکاء پر زیادتی نہیں کرتے لیکن ایسے لوگ زیادہ نہیں ہیں، یہ لوگ کسی کے ساتھ پائے جاتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام نے بہت کام کی بات بتائی اور شرکاء کا ایک مزاج بتا دیا اور درحقیقت شرکت میں کوئی دھندا کرنا بہت بڑے امتحان میں پڑنے کا ذریعہ ہے بات بات میں جھگڑے بھی اٹھتے رہتے ہیں اور خیانت کے مواقع بھی سامنے آتے رہتے ہیں، جو شخص خیانت سے بچ گیا بہت ہی مبارک ہے، حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ میں دو شریکوں میں تیسرا ہوتا ہوں (یعنی میری طرف سے ان کی مدد ہوتی رہتی ہے) جب تک کہ ان میں سے کوئی ایک خیانت نہ کرے پھر جب دونوں میں سے کوئی شریک خیانت کر لیتا ہے تو میں درمیان سے نکل جاتا ہوں۔ (رواہ ابو داؤد) یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد ختم ہو جاتی ہے۔

## حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک دُعاء

حضرت داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام بہت بڑے ذاکر و عابد تھے، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب داؤد علیہ السلام کی نماز تھی اور روزوں میں سب سے زیادہ محبوب داؤد علیہ السلام کے روزے تھے وہ آدھی رات سوتے تھے اور تہائی رات نماز میں کھڑے رہتے تھے اور آخری چھٹے حصہ میں سو جاتے تھے اور ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن بغیر روزہ کے رہتے تھے (رواہ البخاری ص ۲۸۶ ج ۱) اور ایک روایت میں ہے کہ داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن بے روزہ رہتے تھے اور جب دشمن سے بھڑ جاتے تھے تو پشت نہیں پھیرتے تھے۔ (ایضاً)

حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کی دُعاؤں میں سے ایک یہ دُعاء بھی تھی اللھم انی اسالک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک اللھم اجعل حبک احب الی من نفسی ومالی واهلی ومن الماء البارد (اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا اور ان لوگوں کی محبت کا جو آپ سے محبت کرتے ہیں اور اس عمل کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو مجھے آپ کی محبت تک پہنچا دے اے اللہ آپ اپنی محبت کو مجھے اتنی زیادہ محبوب بنا دیجئے جو میری جان سے اور میرے مال سے اور میرے اہل و عیال سے اور ٹھنڈے پانی سے بڑھ کر مجھے محبوب ہو۔ (رواہ الترمذی وحسنہ لکھانی المعکوفۃ ص ۲۲۰)

رسول اللہ ﷺ جب داؤد علیہ السلام کا ذکر کرتے تھے تو یہ بات بیان فرمایا کرتے تھے کہ وہ انسانوں میں سب سے بڑھ کر عبادت گزار تھے۔ (ایضاً)

حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کے ہنر سے کسب کرتے تھے، اسی میں سے کھاتے تھے (رواہ البخاری مرفوعاً) اور انکا ذریعہ کسب یہ تھا کہ لوہے کی زرہیں بناتے تھے انہیں فروخت کر کے اپنا خرچہ بھی چلاتے تھے اور فقراء مساکین پر بھی خرچ کرتے تھے۔

## سورۃ ص کا سجدہ

سورۃ ص میں شوافع کے نزدیک سجدہ تلاوت نہیں ہے حنفیہ کے نزدیک یہاں سجدہ تلاوت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے سورۃ ص میں سجدہ تلاوت ادا کیا اور فرمایا کہ داؤد نے توبہ کے طور پر سجدہ کیا تھا، اور ہم اس سجدہ کو بطور شکر ادا کرتے ہیں۔ (رواہ النسائی لکھانی المعکوفۃ ص ۴۹)

## ایک مشہور قصہ کی تردید

حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس جو دو شخص فیصلہ لے کر آئے تھے جن کا یہ فیصلہ ان کے امتحان کا سبب بنا اس کے بارے میں بعض کتابوں میں ایک ایسا قصہ لکھ دیا گیا ہے جو حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی شان کے



خلاف ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک عورت پر ان کی نظر پڑ گئی تھی جس سے نکاح کرنے کا خیال پیدا ہو گیا اور اس خیال کے پیچھے ایسے پڑے کہ اس کے شوہر کو جہاد میں بھیج کر شہید کروانے کا راستہ نکالا اور جب وہ شخص شہید ہو گیا تو آپ نے اس عورت سے نکاح کر لیا، یہ قصہ جھوٹا ہے جسے اسرائیلی روایات سے لیا گیا ہے حد یہ ہے کہ محدث حاکم نے بھی مستدرک (مستدرک ص ۵۸۶، ص ۲۵۸) میں لکھ دیا اور تعجب ہے کہ حافظ ذہبی نے بھی تلخیص مستدرک میں اسے ذکر کر کے سکوت اختیار کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص داؤد علیہ السلام کے بارے میں ایسی بات کہے گا اور اس کا عقیدہ رکھے گا تو میں اس پر حد قذف کی دوہری سزا جاری کروں گا یعنی ایک سو ساٹھ (۱۶۰) کوڑے لگاؤں گا۔ (روح المعانی ص ۱۸۵ ج ۲۳)

اور صاحب جلالین نے یوں لکھ دیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی ننانویں بیویاں تھیں اور اس شخص کی ایک بیوی تھی جس نے شکایت کی تھی۔

یہ قصہ بھی اسرائیلی روایات سے لیا گیا ہے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی شان کے خلاف بھی ہے اور کسی صحیح سند سے ثابت بھی نہیں ہے۔

يٰۤاٰدُۤا۟ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاَحْكُمُۢ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ

اے داؤد بے شک ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنادیا سو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیجئے اور خواہش کی پیروی مت کرنا وہ آپ کو اللہ کے

عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ يَّمْسُوْهُمُ الْيُسْبَابُ ۝

راستہ سے بہکا دے گی بلاشبہ جو لوگ اللہ کے راستے سے ہٹ گئے ہیں ان کے لئے سخت عذاب ہے اس سبب سے کہ وہ حساب کے دن کو بھول گئے۔

## حضرت داؤد علیہ السلام کی خلافت کا اعلان

**تفسیر:** اس آیت میں اللہ تعالیٰ شانہ کا خطاب ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمایا تھا، ارشاد فرمایا کہ اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنادیا سو آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کریں اور خواہش نفس کا اتباع نہ کیجئے ورنہ یہ خواہش آپ کو اللہ کے راستہ سے ہٹا دے گی یوں تو ہر حاکم پر لازم ہے کہ فیصلہ کرنے میں عدل و انصاف کو ملحوظ رکھے لیکن خاص طور پر جسے اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا اور نبوت سے بھی سرفراز فرمایا اس کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ وہ حق اور حقیقت اور عدل و انصاف پر قائم رہے۔

## اتباع ہوئی کی مذمت

نیز یہ بھی خطاب فرمایا کہ آپ اتباع ہوئی سے پرہیز کریں یعنی خواہش نفس کا اتباع نہ کریں ورنہ وہ آپ کو اللہ کے راستہ سے ہٹا دے گی، درحقیقت دو ہی چیزیں ہیں اتباع ہدی اور اتباع ہوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف سے جو عمل کرنے کے لئے حکم ہو وہ ہدی یعنی ہدایت ہے اور اس کا اتباع کرنا لازمی ہے اور جو چیز اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف سے نہ ہو اپنے نفس کے تقاضوں کے مطابق ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی ہدایت کے

خلاف ہو اس کا اتباع کرنا جائز نہیں ہے یہ نفس کا اتباع ہی تو ہے جو بندوں کو احکام شرعیہ سے روکتا ہے جو لوگ قاضی اور حاکم ہیں اور حج ہیں یہ لوگ خلاف شرع فیصلے کر جاتے ہیں، رشوت لے لیتے ہیں یا اپنے رشتے دار کی رشتہ داری کو دیکھ کر اس کے حق میں فیصلہ کر دیتے ہیں یہ اتباع ہوئی ہی تو ہے سورۃ النساء میں فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَقْوَامِينَ بِالْقِسْطِ نُهَيْدِ أَرْبَابَهُمْ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنَّ يَكُنْ عَنِيكَ أَوْ قَرِيبًا ۖ فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا

(اے ایمان والو انصاف پر خوب قائم رہنے والے اللہ کیلئے گواہی دینے والے رہو اگرچہ اپنی ہی ذات پر ہو یا والدین یا دوسرے رشتہ داروں کے مقابلہ میں ہو وہ شخص اگر امیر ہے تو اور غریب ہے تو دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو زیادہ تعلق ہے تو تم خواہش نفس کا اتباع مت کرنا کبھی تم حق سے ہٹ جاؤ) اور بہت سے حکام کسی کی دشمنی میں ظالمانہ فیصلہ دے دیتے ہیں سورۃ المائدہ میں اسی کو فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَنْ تَتَّخِذُوا (اور کسی قوم کا بغض تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم انصاف نہ کرو)

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے سوال فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ اللہ عزوجل نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ عزوجل کے سایہ کی طرف پہلے پہنچنے والے کون ہیں؟ عرض کیا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں حق دیا جائے تو قبول کر لیں اور جب ان سے حق کا سوال کیا جائے تو پوری طرح دے دیں اور لوگوں کیلئے اسی طرح فیصلے کریں جیسے اپنے لئے فیصلہ کرتے ہیں۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۳۲۲)

یہ اتباع ہوئی ہی قرآن وحدیث کے احکام میں تاویل کرنے پر آمادہ کرتا ہے علماء سے بدظن کرتا ہے، زکوٰۃ نہ دین کیلئے حیلے اور بہانے تراشتا ہے بے پردگی اور سود کو حلال کرنے کیلئے ایسے لوگوں کی تحریروں کی آڑ لیتا ہے جو اخلاص سے خالی ہیں تقویٰ سے دور ہیں بھرپور علم سے بعید ہیں، ننگے پہناوے، ناچ رنگ، نفس ونظر کی حرام لذت، جاہ وشہرت کی طلب اور مال کثیر کی رغبت شریعت کے خلاف عمل کرنے پر آمادہ کرنا اتباع ہوئی ہی کا کام ہے، کسی بھی مرنے والے کی میراث شرعی وارثوں کو نہ دینا، بہنوں کو باپ کے ترکہ سے نہ دینا مزدور سے کام لے کر مزدوری نہ دینا یہ اور اسی طرح کی سینکڑوں چیزیں ہیں جنہیں انسان اتباع ہوئی کی وجہ سے اختیار کرتا ہے اور احکام شرعیہ سے منہ موڑتا ہے جو لوگ ہدایت کا اتباع کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے حکم پر چلنے ہی کو زندگی کا مقصد قرار دیتے ہیں اور جو حکم سنتے ہیں مان لیتے ہیں۔

## خواہشوں کا اتباع گمراہ کر دیتا ہے

یہ جو فرمایا فَيُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اس میں یہ بتا دیا کہ خواہشوں کا اتباع کرنا اللہ تعالیٰ کے راستہ سے ہٹا دیتا ہے جس طرح دنیاوی احکام میں نفس کی خواہشوں کے پیچھے چلنے کی وجہ سے قوانین شریعت کی خلاف ورزی ہوتی ہے اسی طرح امور آخرت میں بھی اتباع ہوئی اللہ کے راستہ سے ہٹا دیتا ہے نام دین کا اور بزرگی کا ہوتا ہے لیکن کام شریعت کے خلاف ہوتے ہیں، یہ جو قبر پرستی ہے جھوٹی پیری مریدی ہے عرسوں کے خرافات ہیں اپنی طرف سے تجویز کردہ نفل نمازوں کی بدعات ہیں یہ سب اتباع ہوئی کی وجہ سے ہے اور لوگوں کو عموماً اتباع سنت سے زیادہ بدعات پر چلنا زیادہ مرغوب ہے

کیونکہ وہ ان کی اپنی نکالی ہوئی ہیں اور شیطان بھی ان کو بدعات پر ابھارتا ہے، حدیث شریف میں ہے کہ ابلیس نے کہا کہ میں نے لوگوں کو گناہوں پر ڈال کر ہلاک کر دیا اور انہوں نے مجھے استغفار کے ساتھ ہلاک کر دیا، (یعنی میں گناہ کروانا تھا وہ گناہ کر کے استغفار کر لیتے تھے جس سے میری محنت پر پانی پھر جاتا تھا) لہذا میں نے یہ کیا کہ ان کے لئے وہ چیزیں نکال لیں جو دین الہی میں نہیں ان کی خواہشوں کے مطابق انہیں وہ نیکی سمجھ کر کرتے ہیں لہذا وہ ان چیزوں سے توبہ نہیں کرتے (الترغیب والترہیب للحافظ المنذری) جب خواہشات نفس کا اتباع کریں گیا ورنہ اعمال کو انہیں نیکی سمجھ کر کریں گے تو توبہ نہ کریں گے لہذا عذاب میں مبتلا ہوں گے اور شیطان کا مقصد پورا ہوگا۔

## گمراہ لوگ عذابِ شدید کے مستحق ہیں

إِنَّ الَّذِينَ يَخْلُونُ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ لِّمَا كَانُوا يَفْسُدُونَ (بلاشبہ جو لوگ اللہ کی راہ سے ہٹتے ہیں، ان کے لئے سخت عذاب ہے حساب کے دن کو بھول جانے کے سبب سے) اس میں اللہ تعالیٰ کی راہ سے ہٹنے والوں کیلئے وعید بیان فرما دی اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ لوگ اس لئے مبتلا عذاب ہوں گے کہ دنیا میں رہتے ہوئے حساب کے دن کو بھول گئے تھے اس میں تعیم ہے کہ اتباع ہوئی کی وجہ سے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی راہ سے ہٹا ہوا اور کسی وجہ سے، وہ عذابِ شدید کا مستحق ہوا ہوا ان گمراہوں میں عام طور سے وہی لوگ مبتلا ہوتے ہیں جو قیامت کو نہیں مانتے، یا مانتے تو ہیں لیکن وہاں کی حاضری کا خیال نہیں رکھتے اور اُسے بھول بھلیاں کئے رہتے ہیں اس لئے وہاں کے لئے تیاری نہیں کرتے اور اپنی جان کو مستحق عذاب بناتے رہتے ہیں۔

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا قَوْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ

اور ہم آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بطلان میں نہیں کیا یہ گمان ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا سو ان لوگوں کے لئے ہلاکت ہے یعنی دوزخ کا

النَّارِ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ

داغملہ ہے جو لوگ ایمان لائے اور اعمالِ صالحہ کئے کیا ہم انہیں ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں کیا ہم متقیوں کو فاجروں کی طرح

كَالْفَجَّارِ ۚ كَتَبَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّدَعْوَانَا ۚ وَلَيْتَنَّا كَرَأُولُوا الْأَلْبَابِ ۝

کر دیں گے یہ کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے مبارک ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات میں غور کریں اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں۔

## مفسدین اور اعمالِ صالحہ والے مومنین اور فجار برابر نہیں ہو سکتے!

تفسیر: یہ تین آیات کا ترجمہ ہے ان سے پہلے داؤد علیہ السلام کا ذکر ہو رہا تھا اور عنقریب حضرت سلیمان اور ان کے بعد حضرت ایوب علیہما السلام کا ذکر آ رہا ہے ان تین آیات میں بطور جملہ مقررہ توحید و رسالت اور معاد کو بیان فرمادیا یہی تینوں چیزیں ہیں جن کی طرف قرآن کریم برابر دعوت دیتا ہے اور ان کے ماننے پر آخرت کی بھلائی کا وعدہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے اُسے وجود بخشا یہ سب یوں ہی

خواہ مخواہ اور بلا حکمت نہیں ہیں ان کے وجود کو دیکھ کر اول تو خالق کائنات جل مجدہ کی معرفت حاصل ہونا چاہئے اور پھر یہ بھی فکر کرنا چاہئے کہ ان چیزوں کے پیدا فرمانے میں حکمت کیا ہے؟ دنیا میں انسان بھی اور دوسری مخلوق بھی ہے آپس میں رحم بھی ہے، مظالم بھی ہیں، لڑائی جھگڑے بھی ہیں قتل و خون بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے مؤمن بندے بھی ہیں اور کافر و مشرک بھی ہیں، موت بھی ہے اور حیات بھی ہے، یہ کارخانہ جو جاری اور ساری ہے خالق کائنات جل مجدہ نے اسے کیوں پیدا فرمایا اگر اس بات میں غور کیا جائے تو سمجھ میں آجائے گا کہ اس کارخانہ میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ تعالیٰ شانہ کی حکمت پر مبنی ہے ایمان و کفر، خیر و شر کا سلسلہ جاری ہے لیکن ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی قیامت واقع ہوگی سب حاضر ہوں گے اس وقت اہل ایمان کو ایمان کی جزا اور اہل کفر کو کفر کی سزا دی جائیگی جو لوگ وقوع قیامت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے نزدیک موت کے بعد اچھے یا بُرے اعمال کا بدلہ ملنے والا نہیں ہے ان کی بات کا حاصل یہ ہے کہ جو لوگ مؤمن ہیں متقی ہیں گناہوں سے بچتے ہیں وہ اور بڑے بڑے فاجر برابر ہو جائیں گے، یعنی نہ انہیں کوئی ثواب ملے گا نہ انہیں کوئی عذاب ملے گا ان لوگوں کا یہ گمان باطل ہے جو ان کے لئے ہلاکت اور بربادی کا سبب ہے اور وہ بربادی یہ ہوگی کہ یہ لوگ دوزخ میں داخل کر دیئے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے یہاں اہل ایمان اور اعمال صالحہ والے بندوں کا بڑا مرتبہ ہے یہ حضرات جنتی ہوں گے اور زمین میں فساد کرنے والے دوزخ میں جائیں گے اگر ان کافروں اور مفسدوں نے یہ سمجھا ہے کہ اہل ایمان کو نعمتیں نہ ملیں گی اور وہ ہماری طرح ہی ہوں گے مگر کفر ختم ہو جائیں گے یا یہ سمجھا ہے کہ جو نعمتیں انہیں ملیں گی ہمیں بھی مل جائیں گی یہ ان کی حماقت ہے۔ (یہاں تک توحید اور معاد کا بیان ہوا)

ان کے بعد فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف ایک کتاب نازل کی ہے جو مبارک ہے اس کے ماننے اور پڑھنے پڑھانے اور اس پر عمل کرنے میں دنیا اور آخرت کی خیر ہی خیر ہے، آپ کے توسط سے جن لوگوں تک پہنچے ان کو چاہئے کہ اس کی آیات میں فکر کریں اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں تاکہ احکام شریعہ کو جانیں اور ان پر عمل پیرا بھی ہوں۔

وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ۝ اِذْ عَرَضَ عَلَيْهِ الْغَيْثُ الْصَفِيفَتِ الْاِحْمَادِ ۝

اور ہم نے دَاوُد کو سلیمان بخش کر دیا وہ اچھا بندہ تھا بلاشبہ بہت رجوع کرنے والا تھا جب چیں گے اس پر شام کی وقت ایسے گھوڑے جو سامنے کا ایک پاؤں پر کھڑے ہونے والے تھے غور گھوڑے تھے

فَقَالَ اِنِّیْ اَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّیْ حَتّٰی تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ۝ رُدُّوْهَا عَلٰی فُطُوقٍ مَّسْحًا

سو انہوں نے کہا کہ میں نے مال کی محبت کو ترجیح دی اپنے رب کے ذکر کو چھوڑ کر یہاں تک کہ پردے میں چھپ گئے انہیں مجھ پر واپس کر دو شروع کر دیا

بِالسُّوقِ وَالْاَعْنَاقِ ۝

ان کی پنڈلیوں اور گردنوں کا چھونا

حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ وہ اچھے بندہ تھے

تفسیر: حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ مال اور دولت اور ملک اور حکومت سے نوازا تھا اول ان کے بارے میں فرمایا نعم العبد کہ وہ اچھے بندے تھے اور ساتھ ہی انہ او اب بھی فرمایا یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے۔

## گھوڑوں کا پیش کیا جانا آخر میں متنبہ ہونا

اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان فرمایا اور وہ یہ کہ ان کے پاس گھوڑے بندھے ہوئے تھے اندازہ یہی ہے کہ یہ گھوڑے جہاد کی ضرورت کیلئے پال رکھے تھے گھوڑے بھی اصیل تھے، اور عمدہ تھے صافناٹ یہ صافن کی جمع ہے صافن اس گھوڑے کو کہتے ہیں جو سامنے کے ایک پاؤں کو موڑ کر باقی تین پاؤں پر کھڑا ہو، اصیل گھوڑوں کی یہ صفت بتائی جاتی ہے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے معائنہ فرمانے کے لئے گھوڑوں کو طلب کیا آپ ان کے دیکھنے میں اتنے مشغول ہوئے کہ سورج چھپ گیا اس سے پہلے جو فرض یا نفل نماز پڑھا کرتے تھے وہ رہ گئی (اگر فرض نماز تھی تو بھولنے کی وجہ سے گناہ میں شمار نہیں ہوتی خصوصاً جبکہ حاضرین میں سے کسی نے یاد بھی نہ دلایا ہو، اور اگر نفل نماز تھی تب تو اس کے چھوٹ جانے میں گناہ ہی نہیں لیکن انہوں نے ہر حال میں اس نماز کے چھوٹنے کو اچھا نہ سمجھا ہو اور گو کہ گھوڑوں کی مشغولیت بھی اللہ تعالیٰ کے لئے تھی لیکن پھر بھی چونکہ ذکر بالواسطہ ذکر حقیقی یعنی ذکر بلا واسطہ سے غافل ہونے کا سبب بن گیا اس لئے جب مذکورہ نماز کے فوت ہو جانے کا احساس ہوا تو فرمایا کہ ان گھوڑوں کو واپس کر دو جب گھوڑے واپس لوٹائے گئے تو انہیں ذبح کرنا شروع کر دیا ان کی گردنیں تو کاٹی ہی تھیں پنڈلیاں بھی کاٹ دیں اور فرمایا کہ مال کی محبت نے مجھے اپنی طرف اتنا لگایا کہ اپنے رب کی طرف سے غافل ہو گیا یہ ذبح کرنا مال ضائع کرنے کے طور پر نہیں تھا بلکہ بطور قربانی ہے اس سے گھوڑا دوڑتا ہے اس لئے غیرت کے جوش میں پنڈلیاں بھی کاٹ دیں یعنی اس کام میں جلدی کر دی ورنہ کھانے پینے کیلئے تو کاٹنا ہی تھا چونکہ تقدم ذکر کری تقدم عملی کو سترم نہیں ہے اس لئے یہ اشکال پیدا نہیں ہوتا کہ آیت شریفہ میں پہلے پنڈلیوں کا ذکر ہے یہاں رعایت فاصلہ کیلئے لفظ الاعتاق کو موخر کر دیا گیا ہے یہ بلاغت میں ہوتا رہتا ہے جیسا کہ سورۃ ط میں رب ہرون و موسیٰ فرمایا ہے اور دوسری جگہ رب موسیٰ و ہارون فرمایا ہے۔

۱ (وفی روح المعانی: وقيل ضمير (تورات) للخیل کضمیر (ردوہا) واختار هجوع، فقيل الحجاب اصطلاحها ای حتی دخلت اصطلاحها، وقيل حتى تورات فی المسابقة بما يحجبها عن النظر، وبعض من قال بارجاع الضمير للخیل جعله للنعليل ولم يجعل المسح بالسوق والاعتاق بالمعنى السابق فقلت طائفة: عرض علی سلیمان الخیل وهو فی الصلاة فاشار اليهم انی فی صلاة فازا الوها عنه حتی دخلت فی الاصطلاح فقال لما فرغ من صلاته: (انی أجت حب الخیر) ای الذی لى عند الله تعالى فی الآخرة بسبب ذکره بیکانه یقول فشفلنی ذلک عن رؤیة الخیل حتی دخلت اصطلاحها ردوها علی فطفق یمسح اعرافها وسوقها محبة لها وتکریمها، وردی أن المسح کان للذلک عن ابن عباس، والزهری، وابن کيسان ورجحه الطبری، وقيل کان غسلا بالماء ولا یخفی أن تطبق هذه الطائفة الآية علی ما یقولون رکبک جدا. (ص ۱۹۳ ج ۳)

(اور بعض حضرات کہ "تورات" کی ضمیر گھوڑوں کی طرف لوتی ہے جیسا کہ ردوہا کی ضمیر گھوڑوں کی طرف لوتی ہے۔ ایک جماعت نے اسی کو پسند کیا ہے بعض نے کہا "حجاب" سے مراد گھوڑوں کے اصطبل ہیں معنی یہ ہوا "حتی کہ گھوڑے اپنے اصطبلوں میں داخل ہو گئے"، بعض نے کہا کہ دوڑ میں آگے بڑھ کر چھپ گئے کہ نظر آنے سے رہ گئے۔ جن لوگوں نے تورات کی ضمیر گھوڑوں کی طرف لوتی ہے ان میں سے بعض نے یہاں لمن کو تعلیل کیلئے بنایا ہے اور گھوڑوں کی پنٹھوں اور گردنوں کے سج کو سابقہ معنی میں نہیں لیا ہے۔

ایک جماعت نے کہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے گھوڑے پیش کئے گئے جبکہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے اشارہ کیا کہ میں نماز میں ہوں، تو گھوڑے ہٹائے گئے مگر آپ نے اسے اصطبل میں پہنچ گئے جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا میں نے خیر کی محبت کو ترجیح دی یعنی وہ خیر جو میرے ذکر اللہ کے سبب سے اللہ تعالیٰ کے پاس آخرت میں ہے گویا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ کے ذکر نے گھوڑوں کو دیکھنے سے روکا حتیٰ کہ گھوڑے اصطبلوں میں واپس چلے گئے اب انہیں میرے پاس لے آؤ گھوڑے دوبارہ لائے گئے تو آپ ان کی پنٹھوں اور گردنوں پر ان کی محبت و وقعت کی وجہ سے ہاتھ بھرنے لگے اور مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے پاس سج اسی طرح ہے اور زہری، ابن کيسان کے نزدیک بھی اسی طرح ہے اور طبری نے اسی کو ترجیح دی ہے۔ بعض نے کہا سج پانی سے دھونا تھا، اور یہ بات واضح ہے اس گروہ نے آیت سے اپنے قول کو جو طریق دی ہے یہ بہت کمزور ہے۔

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَالْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ۚ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا

اور یہ اُنی بات ہے کہ ہم نے سلیمان کو امتحان میں ڈالا اور ہم نے ان کی کرسی پر ایک جسم ڈال دیا پھر انہوں نے رجوع کیا عرض کیا ہے میرے سب میری مغفرت فرما اور مجھے ایسا ملک عطا کیجئے

يَتَّبِعُنِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۚ فَغَفَرْنَا لَهُ أَلْزَمْنَاهُ بِمِعْرَاهُ تَجَرَّيْ بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ

جو میرے بعد کسی دوسرے کو میرا نمونہ ہو بلاشبہ آپ بڑے دینے والے ہیں۔ سو ہم نے ان کے لئے ہوا کو مسخر کر دیا جو ان کے حکم سے زمی سے چلتی تھی جہاں ان کو

أَصَابَ ۚ وَالشَّيَاطِينُ كُلٌّ بِنَاءٍ وَعَوَاصٍ ۚ وَآخِرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ۚ هَذَا عَطَاؤُنَا

جانا ہوتا تھا اور ان کے لئے شیاطین مسخر کر دیئے ہر بنائے والا اور غوطہ لگانے والا اور ان کے علاوہ بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے تھے یہ ہماری بخشش ہے۔

وَأَنذَنُ أَوْ أَمْسِكْ يُغَيِّرُ حِسَابَ ۚ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَّآبٍ ۚ

سو آپ احسان کریں یا روک لیں کوئی حساب نہیں اور بلاشبہ ان کے لئے ہمارے پاس نزدیکی ہے اور اچھا انجام ہے۔

## حضرت سلیمان علیہ السلام کا ابتلاء اور دُعا، شیاطین کا مسخر ہونا، کاموں میں لگنا، اور زنجیروں میں باندھا جانا

**تفسیر:** حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ سلیمان ابن داؤد علیہما السلام نے کہا کہ آج کی رات میں ستر عورتوں کے پاس جاؤں گا (یعنی ان سے صحبت کروں گا) اُن میں ہر عورت حاملہ ہوگی اور ہر عورت سے ایک شہسوار پیدا ہوگا جو نبی سمیل اللہ جہاد کرے گا وہاں جو ان کے پاس فرشتہ موجود تھا اُس نے کہا کہ ان شاء اللہ کہہ لیجئے لیکن انہوں نے (پھر بھی) انشاء اللہ نہ کہا اور دل میں جو اعتقاد خالص تھا کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوتا ہے اسی پر اکتفاء کیا) اس کے بعد یہ ہوا کہ ان عورتوں میں سے صرف ایک عورت کو حمل قرار پایا اُس سے ادھورا بچہ پیدا ہوا جس کا ایک طرف کا دھڑنہ تھا یہ بیان فرما کر رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ ان شاء اللہ کہہ لیتے تو سب صحیح و سالم لڑکے پیدا ہوتے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے۔

آیت بالا کی تفسیر میں مفسرین کرام نے یہ واقعہ نقل کیا ہے اور بتایا ہے کہ آیت شریفہ میں جو سلیمان علیہ السلام کے امتحان میں ڈالنے کا ذکر ہے اُس سے یہی امتحان مراد ہے کہ انہوں نے ان شاء اللہ نہ کہا تھا اور جو ادھورا بچہ پیدا ہوا تھا اسی کے بارے میں فرمایا ہے کہ ہم نے ان کی کرسی پر ایک جسم ڈال دیا، پھر جب انہیں اپنی اس لغزش کا احساس ہوا (کہ ان شاء اللہ نہ کہا تھا) تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوئے اور استغفار کیا۔

استغفار بھی کیا اور آئندہ کیلئے اللہ تعالیٰ سے ایسی حکومت اور سلطنت کی دُعا کی جو ان کے سوا اور کسی کو نہ ملے، دُعا کے اخیر میں إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ کہا کہ اے اللہ آپ بہت بڑے دینے والے ہیں یہ دُعا کے آداب میں سے ہے کہ دُعا کے اول و آخر اللہ تعالیٰ کی صفات جلیلہ بیان کی جائیں اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کی دُعا قبول فرمائی پہلے تو گھوڑے ہی قابو میں تھے اب ہوا کو مسخر فرمایا اور ان کے تابع بنا دیا وہ جہاں جانا چاہتے تھے وہ ہوا انہیں وہاں لے کر چلی جاتی تھی سورۃ سبائیں

فرمایا ہے **عُدُّوْهُمَا شَهْرًا وَرَوْحُهَا شَهْرًا** کہ اس ہوا کا چلنا ایک مہینے کی مسافت تھی اور اس کا شام کا چلنا بھی ایک مہینے کی مسافت تھی، ہوا تیز تو چلتی ہی تھی لیکن نرمی کے ساتھ جاتی تھی اس میں ہلانا جلاتا نہیں تھا، اب تو طیاروں کی رفتار نے عام اور خاص سب کو یہ بات بتادی ہے کہ تیز چلنا اور بیٹھنے والوں کا آرام سے بیٹھے رہنا دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں، سلیمان علیہ السلام کے لئے جس طرح ہوا مسخر کر دی گئی تھی جو ان کو لشکروں اور خادموں سمیت حکم کے مطابق لاتی اور لے جاتی تھی اسی طرح اللہ نے شیاطین بھی ان کیلئے مسخر فرمادیئے تھے ان سے وہ عمارتیں بنوانے کا کام لیتے تھے اور انہیں یہ بھی حکم دیتے تھے کہ دریا میں غوطہ لگاؤ اور سمندری چیزیں نکال کر لاؤ نیز ان سے ان کے علاوہ بھی کام لیتے تھے جن کا ذکر سورۃ انبیاء کے چھٹے رکوع میں اور سورۃ سبأ کے دوسرے رکوع میں گزر چکا ہے، بہت سے شیاطین ایسے بھی تھے جنہیں حضرت سلیمان علیہ السلام زنجیروں میں جکڑ کر ڈال دیتے تھے یہ قدرت اور قوت اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علی السلام کو دی تھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو خدمات سپرد کی جاتی تھیں ان میں سے کسی کام کے کرنے میں اگر جنات میں سے کوئی شیطان پہلو تہی یا کوتاہی کرتا تو اسے قید کر کے ڈال دیتے تھے۔

اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو سلطنت دی، بڑی بڑی چیزیں عطا فرمائیں، الماک سے اور ملک سے نوازا شیاطین پر قابو دیا اور فرمایا کہ **هَذَا عَطَاٰ نَا** کہ یہ ہمارا عطیہ ہے فاسمن سواس میں سے کسی کو دے کر احسان کر دو **اَوْ اَمْسِكْ** یا روکے رکھو یعنی کسی کو کچھ بھی نہ دو تمہیں اختیار ہے تمہیں جو کچھ دیا گیا سب بغیر حساب اور بغیر دار و گیر کے ہے تم اس کے مالک ہو اور آخر میں اسی انعام کا تذکرہ فرمایا جو ان کے والد کیلئے فرمایا تھا **وَ اِنْ لَّا عِنْدَنَا لَزْلِفٰی وَ حَسَنَ مَّآلٍ**۔

**فائدہ:** مجموعی حیثیت سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے حکومت اور سلطنت نصیب فرمائی وہ ان کے بعد کسی کو نہیں ملی انہوں نے جو دعاء میں **اَلَا یَنْتَبِیْ لِاَحَدٍ مِّنْ بَعْدِیْ** کہا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعاء کو قبول فرمایا جنات پر تو قابو پالیا جاتا ہے اور مشاہدہ ہے لیکن ہوا پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کسی کا تسلط اور قبضہ ہوا ہواس کا کوئی ثبوت نہیں ہے حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ جنات میں سے ایک عفريت (بڑا خبیث شیطان) رات کو چھوٹ گیا تھا، (وہ میرے پاس آگیا) تاکہ میری نماز کاٹ دے اللہ نے مجھے اس پر قابو دے دیا سو میں نے اسے پکڑ لیا میں نے چاہا کہ اسے مسجد کے ایک ستون سے باندھ دوں تاکہ تم سب اسے دیکھ لو پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی یاد آگئی **رَبِّ اغْفِرْ لِّیْ وَ هَبْ لِّیْ مَلٰٓئِکَۃً یَّتَّبِعُوْنِیْ لِاَحَدٍ مِّنْ بَعْدِیْ** لہذا میں نے اُسے ذلیل کر کے دھکا دے دیا۔

معلوم ہوا کہ کسی انسان کو اللہ تعالیٰ کسی شیطان پر قابو دیدے تو یہ کوئی بعید بات نہیں ہے، اور یہ آپس کے اکرام اور احترام کی بات ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قابو کر لینے کے باوجود شیطان کو چھوڑ دیا اور باندھ کر نہ ڈالا تاکہ اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی انفرادی شان میں فرق نہ آجائے جو انہیں مرغوب تھی اور جس کیلئے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعاء کی تھی۔

**وَ اذْکُرْ عَبْدَنَا یُوْبَ اِذْ نَادٰی رَبَّهُٗ اِنِّیْ مُسْتَنِیَ الشَّیْطٰنُ یَنْصُبُ وَّعْدَابٍ ۚ اَزْکُضْ بِرِجْلِکَ**

اور ہمارے بندے یوب کو یاد کیجئے جبکہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ بیشک مجھے شیطان نے دکھا اور آزار پہنچایا ہے اپنا پاؤں مارویہ غسل کرنے کا ٹھنڈا

**هٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَ شَرَابٌ ۚ وَ وَهَبْنَا لَہٗ اٰہْلَہٗ وَ مِمَّا رَزَقْنٰہُمْ رَحْمَۃً مِّنَّا وَ ذِکْرٰی لِاُولٰٓئِی**

پانی ہاں پینے کا اور ہم نے ان کو ان کا کنبہ اور ان کے ساتھ ان کے برابر عطا کئے ہماری رحمت خاصہ کے سبب سے اور عقل والوں کی یادگار کے لئے اور تم اپنے ساتھ



الْكَافِرُ ۖ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنُثْ ۖ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا ۖ اِنْعَمَ الْعَبْدُ ۚ اِنَّهُ اَوَّابٌ ﴿۱۰﴾

میں ایک مٹھا سینکوں کا لے لو اور پھر اسے مار دو اور قسم نہ توڑو بلاشبہ ہم نے ان کو صابر پایا اچھے بندے تھے وہ بیشک بہت رجوع ہونے والے تھے۔

## حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری اور دعاء اور شفا یابی کا تذکرہ

**تفسیر:** ان آیات میں حضرت ایوب علیہ السلام کے ابتلاء اور امتحان میں ان کے کامیاب ہونے کا ذکر ہے سورۃ الانبیاء رکوع نمبر ۶ میں بھی ان کا یہ تذکرہ گزر چکا ہے قرآن مجید میں ان کے واقعہ کا اجمالی ذکر ہے تفصیلی حالات جاننے کا کوئی راستہ نہیں ہے رسول اللہ ﷺ کے ارشاد سے صرف اتنا ثابت ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے سونے کی ٹنڈیاں گریں تو انہیں جمع کرنے لگے (جیسا کہ ہم عنقریب ہی پوری حدیث ذکر کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ) حضرت ایوب علیہ السلام کے دکھ تکلیف کے تفصیلی حالات اور مدت ابتلاء اور دیگر امور سے متعلق بعض چیزیں حضرت ابن عباس سے اور بعض حضرت قتادہ (تابعی) اور بعض حضرت حسن (تابعی) سے منقول ہیں جنہیں حافظ جلال الدین سیوطی نے دُرّ منثور میں لکھا ہے لیکن یہ چیزیں اسرائیلی روایات ہیں جن پر اعتماد کرنے کا کوئی راستہ نہیں۔

قرآن مجید کی تصریحات سے جو باتیں معلوم ہوتی ہیں وہ یہ ہیں:

۱۔ حضرت ایوب علیہ السلام سخت تکلیف میں مبتلا کئے گئے۔

۲۔ شیطان نے انہیں تکلیف پہنچائی۔

۳۔ تکلیف جانی بھی تھی اور مالی بھی۔

۴۔ ان کے اہل و عیال بھی ختم کر دیئے گئے تھے۔

۵۔ اس پر انہوں نے بہت صبر کیا جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی کہ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا ۖ بے شک ہم

نے ان کو صابر پایا انعم العبد اچھے بندے تھے ایوب انہ او اب (بیشک بہت رجوع کر نیا لے تھے)

اسرائیلی روایات میں ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام سات سال اور چند ماہ سخت تکلیف میں مبتلا رہے (فتح الباری میں ۳ سال اور ۱۳ سال اور ۷ سال ذکر کیا ہے اور قول ثانی کو صحیح بتایا ہے (ج ۶ ص ۴۲۲)) مال اور اہل و عیال کچھ بھی پاس نہ رہا تھا جبکہ پہلے طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال تھے صرف ان کی بیوی ان کے پاس رہ گئی تھی جو ان

۱۔ (و اما النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم یصح عنه انه ذکرہ بحرف واحد الا قوله بینا ایوب یغتسل اذ عمر علیہ رجل من جراد من ذهب الحدیث و اذ الم یصح عنه فیہ قرآن وسنة الا ما ذکرناہ فمن الذی یوصل السامع الی ایوب خبر لہ ام علی ای لسان سمعہ؟ والاسرائیلیات مرفوضۃ عند العلماء علی البینات، فأعرض عن سطور ہا بصرک واصمم علی سماعہا اذ نیک فانہا لا تعطی فکوک الاختیالا، ولا تلذید فوادک الاختیالا۔ (القرطبی ص ۲۱۰ ج ۱۵)

(لیکن حضور اکرم ﷺ سے کوئی صحیح روایت نہیں کہ آپ ﷺ نے ایک حرف بھی اس بارے میں فرمایا ہو مگر صرف اتنا کہ حضرت ایوب علیہ السلام نہا رہے تھے تو ان پر نڈی کی ایک سونے کی ٹانگ آ پڑی پس جب اس بارے میں نہ قرآن سے کوئی ثبوت ہے اور نہ صحیح حدیث سے تو پھر اس بات کی سند حضرت ایوب علیہ السلام تک کیسے پہنچ سکتی ہے یا کون ہے جس نے یہ بات حضرت ایوب علیہ السلام تک کیسے پہنچ سکتی ہے یا کون ہے جس نے یہ بات حضرت ایوب علیہ السلام سے سنی ہو۔ اسرائیلی روایات علماء کے نزدیک دلائل کی محتاج ہیں لہذا ہم اس قسم کے واقعات کو بڑھنے سے آنکھیں بند کر لو اور ان کے سننے سے کان بھی بند کر لو ان روایات سے تو بس ذہن میں خیال ہی آئیں گے اور دل میں وہابیات باتیں پیدا ہوں گی)

کی خدمت کرتی رہتی تھی اس وفادار بیوی کا نام رحمت تھا، انہوں نے جو دعاء کی تھی اس کے الفاظ سورۃ الانبیاء میں یوں ہیں، اِنِّیْ مَسْنِیُّ الصُّرُوْاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّحِیْمِیْنَ، (بیشک مجھے تکلیف پہنچ گئی اور آپ ارحم الراحمین ہیں) اور سورۃ ص میں یوں ہے اِذْ نَادٰی رَبُّہَا اِنِّیْ مَسْنِیُّ الشَّیْطٰنِ یُنْصِبُ وُعْدَکَیْ (کہ شیطان نے مجھے دکھ پہنچا دیا اور تکلیف پہنچادی) صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ نصب مشقت کے معنی میں آتا ہے اور زیادہ تر کام کاج کی وجہ سے جو تھکن ہو جائے اس کیلئے استعمال ہوتا ہے اور عذاب سے اَلَم مراد ہے جسے سورۃ الانبیاء میں الضر سے تعبیر فرمایا ہے۔ اور بعض حضرات کا یہ قول نقل کیا ہے کہ انصب اور الضر سے جسمانی تکلیف اور عذاب سے اہل اور مال ضائع ہونے کی تکلیف مراد ہے۔

جب اللہ تعالیٰ شانہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعاء قبول فرمائی تو فرمایا ار کض بسر جملک کہ زمین میں اپنا پاؤں مارو، انہوں نے پاؤں مارا تو وہاں سے چشمہ جاری ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، هٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ (یہ غسل کرنے کی چیز ہے جو ٹھنڈی ہے اور پینے کی چیز ہے) چنانچہ انہوں نے غسل کیا اور پانی پیا جسم درست ہو گیا شفاء کامل حاصل ہو گئی ظاہری اور باطنی طور پر بالکل صحت اور عافیت اور سلامتی والی زندگی مل گئی۔ ان کے اہل و اولاد جو ادھر ادھر منتشر ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے واپس ان کے پاس پہنچا دیئے اور سب کو عیش و عشرت والی زندگی عطا فرمادی۔

پھر ان لوگوں سے آگے نسل چلی اور اتنی زیادہ نسل پھیلی پھولی کہ جس قدر ان کی پہلی نسل کے افراد تھے اسی قدر اللہ تعالیٰ نے مزید افراد پیدا فرمادیئے وَوَهَبْنَا لَہٗ اَہْلَکَ وَوَمَلَکُمْ مَعَهُمْ کا ایک مطلب یہی بیان کیا گیا ہے صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ میرا میلان بھی اسی طرف ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ ان کی اولاد لقمہ اجل بن گئی تھی سب مر گئے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ اتنی ہی اولاد دے دی اور اس کے علاوہ مزید اتنی ہی اولاد اور دیدی سنن ابن ماجہ میں ہے کہ حضرت ایوب علیہ الصلوٰۃ والسلام کو جس دن تکلیف پہنچی وہ بدھ کا دن تھا اور جس دن انہیں عافیت ملی وہ منگل کا دن تھا (باب فی اٰی الایام حجم) رَحْمَۃً رَبَّکَ وَذٰکِیْ لَادُلٰی الْاَلْبَابِ۔

یہ ہماری طرف سے رحمت خاصہ کے طور پر تھا اور عقل والوں کے لئے ایک یادگار تھی (تاکہ اہل عقل یہ سمجھیں اور یاد رکھیں کہ صابرین کو اللہ تعالیٰ کیسی اچھی اچھی جزا عطا فرماتا ہے) وَخُذْ بِیْکَ لِیْ ضَعْفًا (الآیہ) حضرت ایوب علیہ السلام اپنی بیماری کے زمانہ میں اپنی بیوی سے ناراض ہو گئے تھے۔ ناراضگی کا کیا سبب تھا اس کے بارے میں تفسیر کی کتابوں میں کئی باتیں لکھی ہوئی ہیں اور ہیں سب اسرائیلی روایات۔ ان میں سے ایک روایت یہ ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ شیطان معالج کی صورت بنائے ہوئے جا رہا تھا ان کی بیوی نے اس سے کہا کہ میرے شوہر کا علاج کر دے شیطان نے کہا کہ میں علاج تو کر دوں گا مجھے کوئی فیس اور دوا کی قیمت کی ضرورت نہیں ہاں جب تیرا شوہر اچھا ہو جائے تو صرف اتنا کہہ دینا کہ تو نے شفا دی حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے اس کو مان لیا پھر ان سے تذکرہ کیا انہیں یہ بات ناگوار ہوئی اور فرمایا کہ تو نے شیطان سے یہ وعدہ کر لیا کہ اس کے بارے میں یوں کہہ دیا جائے کہ تو نے شفا دی؟ میں اچھا ہو گیا تو تجھے سو ٹمپیاں ماروں گا جب اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا دیدی تو قسم پورا کرنے کا خیال آیا

اللہ تعالیٰ شانہ نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے ہاتھ میں سینکوں کا ایک مٹھا لے لو اور اس کو ایک مرتبہ اپنی بیوی کے جسم میں مار دو جب ایسا کر لو گے تو تمہاری قسم پوری ہو جائے گی اور حادث ہونے سے بچ جاؤ گے چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا چونکہ اللہ تعالیٰ شانہ نے خود ہی انہیں یہ عمل بتایا اور یہ فرمایا کہ تم قسم توڑنے والے نہ بنو اور اس عمل کو قسم پورا ہونے کی جگہ قبول فرمایا اس لئے ایسا نہیں کہا جاسکتا کہ کوئی شخص سو کوڑے یا سو گچیاں مارنے کی قسم کھالے اور اکٹھی سو سینکیں مار کر قسم پوری کر نیوالوں میں شمار ہو جائے اور قسم توڑنے کے گناہ سے بچ جائے جو چیزیں خاص ہوتی ہیں ان پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ البتہ اس سے قسم پورا کرنے کی ضرورت اور اہمیت معلوم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کی قسم کے ٹوٹ جانے کو بالکل ہی معاف فرما دیتا لیکن بالکل معاف نہیں فرمایا کچھ نہ کچھ ایسا عمل کروا ہی دیا جس سے قسم میں پورا اترنے کی شرعی حیثیت باقی رہے اسی طرح کا ایک واقعہ سنن ابی داؤد شریف میں مذکور ہے جو حضرت ابوامامہ بن سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص جو بہت ہی زیادہ ضعیف ہو چکا تھا وہ ایک باندی کے ساتھ زنا کر بیٹھا پھر اسے احساس ہوا تو انصار کے جو لوگ اس کی عیادت کرنے گئے انہیں صورت حال بتادی اور کہا کہ میرے لئے رسول اللہ ﷺ سے فتویٰ طلب کرو ان حضرات نے رسول اللہ ﷺ کے سامنے واقعہ پیش کیا اور ساتھ ہی یہ بھی بیان کر دیا کہ وہ شخص اتنا زیادہ نحیف اور ضعیف ہے کہ صرف ہڈیوں پر کھال رہ گئی ہے اگر ہم اسے آپ کی خدمت میں لے کر آئیں تو اس کی ہڈیاں ٹوٹ پھوٹ کر رہ جائیں گی۔ آپ ﷺ نے حکم دیا کہ کھجور کی ایک ٹہنی کے سوا جزاء لے لو اور ایک ساتھ سب کو ایک مرتبہ مار دو۔ (سنن ابی داؤد ج ۲ ص ۵۸)

اس سے بھی وہ ہی بات سمجھ میں آرہی ہے کہ وہ شخص زنا کرنے کی وجہ سے سو کوڑوں کی سزا کا مستحق تھا لیکن موت کی سزا کا مستحق نہ تھا اب اسے سو کوڑے مارے جاتے تو مر جاتا اور جان سے مار دینا مقصود نہ تھا اور حد کو بالکل ہی ختم کر دینا بھی شریعت کے مزاج کے خلاف تھا کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: وَلَا تَلْحُذُ كَذِبًا يَوْمًا زَانًا فِي دِينِ اللَّهِ (اور اللہ کے دین میں تمہیں رحم نہ پکڑے کہ تم زانی اور زانیہ پر رحم کھا جاؤ) لہذا حد کو معطل نہیں فرمایا بلکہ کچھ نہ کچھ سزا دلو ابی دی تاکہ امت ہوشیار اور بیدار رہے اور حد جاری کرنے میں کسی طرح کی ڈھیل کو برداشت نہ کرے۔

## فائدہ: دعا کی قبولیت اور برکات

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیا حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی سخت بیماری کے دنوں میں صحت و عافیت کے لئے دعا نہیں کی! اور اگر کی تھی تو کیوں قبول نہ ہوئی بات یہ ہے کہ بظاہر حضرت ایوب علیہ السلام دعا سے غافل تو نہ رہے ہوں گے لیکن اللہ جل شانہ کی قضا و قدر میں جب تک انہیں مبتلا رکھنا تھا اس وقت تک ابتلاء باقی رہا اور دعا کا ثواب انہیں ملتا رہا اور آخرت میں درجات کی بلندی کے لئے یہ دعائیں ذخیرہ بنتی رہیں مومن بندہ کی کوئی دعا ضائع نہیں جاتی۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی کوئی مسلمان کوئی دعا کرتا ہے جو گناہ کی یا قطع رحمی کی دعا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے ضرورت میں چیزوں میں سے ایک عطاء فرما دیتا ہے۔

۱۔ جو دعا کی اس کے مطابق اس دنیا میں جلدی مقصد پورا کر دیا جاتا ہے۔

۲۔ یا اس دعا کو اس کے لئے آخرت کا ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے۔

۳۔ یا اس جیسی آنے والی مصیبت اس سے پھر دی جاتی ہے (یعنی آنے سے رک جاتی ہے) صحابہ نے عرض کیا میں تو ہم پھر خوب زیادہ دعائیں کریں گے، آنحضرت ﷺ نے فرمایا (اللہ بھی) بہت زیادہ دینے والا ہے۔ (رواہ احمد کانی مشکوٰۃ ص ۱۹۶)

## سب کچھ اللہ تعالیٰ کے قضاء و قدر کے موافق ہوتا ہے

اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام کو تکلیف پہنچی تھی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دعا کرنا بھلا دیا تھا، گو اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کرتے تھے لیکن دعا نہ کرتے تھے اور چونکہ دکھ تکلیف میں اللہ کی رضا سمجھتے تھے۔ اس لئے ان کی رغبت اسی میں تھی کہ تکلیف میں رہوں (بعض اسرائیلی روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ جب حضرت ایوب علیہ السلام کی اہلیہ نے عافیت کی دعاء کرنے کی بات کہی تو فرمایا ہم ستر سال عیش و آرام میں رہے اب صبر کرو جب ستر سال تکلیف میں گزر جائیں گے اس کے بعد دعاء کریں گے۔ (روح المعانی ص ۲۰۷ ج ۲۳)) پھر جب اللہ تعالیٰ کو ان کی تکلیف دور کرنا منظور ہوا تو انہیں دعا کرنے کی توفیق دیدی اور انہیں دعا کرنا یاد آ گیا جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے دعاء قبول فرمائی اور مال و دولت آل و اولاد جو کچھ جاتا رہا تھا اس کا دو گنا عطا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی کہ

إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَلِيحًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ (ذکرہ فی الدر المنثور ص ۳۲۸ ج ۴)

بات یہ ہے کہ پورے عالم میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر کے موافق ہوتا ہے دعا بھی اسی وقت مقبول ہوتی ہے جب کامیابی کا وقت آ جاتا ہے اور دوا بھی جب ہی اثر کرتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی قضاء اور قدر میں شفا دینا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو پورا پورا اختیار ہے کہ جسے چاہے جتنا آرام دے اور جسے چاہے تکلیف کے ذریعہ آزمائے اور مومن بندوں کے لئے چونکہ تکلیف میں بھی خیر ہی خیر ہے (اس پر ثواب ملتا ہے اور آخرت میں درجات بلند ہوتے ہیں) اس لئے ان کے لئے تکلیف میں مبتلا ہونا بھی خیر ہی خیر ہے کوئی شخص یوں نہ سمجھے کہ فلاں شخص دیکھنے میں تو اتنا نیک ہے پھر یہ اتنی بڑی تکلیف میں مبتلا ہوا ہے تو ضرور کسی بڑے گناہ میں مبتلا ہوا ہوگا۔ ۱

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جب مصیبت والوں کو ثواب دیا جائے گا تو آرام و عافیت والے تمنا کریں گے کہ کاش ہماری کھالیں قینچیوں سے کاٹی جاتیں۔ (رواہ الترمذی کانی مشکوٰۃ ص ۱۳۷)

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام اپنے تکلیف کے دنوں میں دعا کو بھولے رہے اس کی تائید میں حضرت ابان بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات سنئے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی کوئی بندہ روزانہ صبح و شام تین مرتبہ بِسْمِ اللّٰهِ الذی لَا یضر مع اسمہ شئی فی الارض ولا فی السماء وهو السميع العليم پڑھ لیا

۱۔ (قال العینی فی عمدة القاری ج ۵ ص ۲۸۲ فان قلت فلم لم يدع اول ما نزل به البلاء قلت لانه علم امر الله فيه ولا تصرف للعبد مع مولاه او اراد مضاعفة الثواب فلم یسال كشف البلاء)

(علامہ عینی عمدة القاری میں فرماتے ہیں اگر تم کہو کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری کے شروع ہی میں دعاء کیوں نہیں مانگی تو میں کہتا ہوں اس لئے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے خیال کیا کہ اس آزمائش میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم میں بندہ کا کوئی تصرف نہیں ہے یا یہ کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے زیادہ ثواب حاصل کرنے کیلئے شروع ہی میں تکلیف دور ہونے کی دعائیں مانگی)

کرے تو اسے کوئی چیز بھی ضرر نہ پہنچا سکے گی حضرت ابان نے حدیث تو بیان کر دی لیکن ان کے جسم پر ایک جگہ فالج کا اثر تھا جس شخص سے انہوں نے حدیث بیان کی وہ ان کی طرف (تعجب کی نظروں سے) دیکھنے لگا حضرت ابان نے اس کی نظروں کو بھانپ لیا اور فرمایا تم مجھے کیا دیکھ رہے ہو؟ خوب سمجھ لو بلا شک و شبہ حدیث اسی طرح سے ہے جیسا کہ میں نے بیان کی لیکن بات یہ ہے کہ جس دن مجھے یہ تکلیف پہنچی ہے میں نے اس دعا کو نہیں پڑھا تھا (یعنی بھول گیا تھا) تاکہ اللہ اپنی تقدیر کے فیصلے کو نافذ فرمادے۔  
(رواہ الترمذی وابن ماجہ و ابوداؤد و کما فی المسئلۃ ص ۲۰۹)

## تکمیل تذکرہ حضرت ایوب علیہ السلام

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اس درمیان میں کہ ایوب علیہ السلام (تنہائی میں) ننگے غسل کر رہے تھے ان کے اوپر سونے کی ٹڈیاں گر گئیں وہ انہیں اپنے کپڑے میں سمیٹنے لگے اللہ تعالیٰ نے انہیں پکارا کہ اے ایوب کیا میں نے تمہیں غنی نہیں بنادیا تمہارے سامنے جو کچھ ہے اس کی ضرورت نہیں عرض کیا آپ کی عزت کی قسم آپ نے مجھے غنی بنادیا ہے لیکن میں آپ کی برکت سے بے نیاز نہیں ہوں۔

فتح الباری ۴۲۰ جلد ۶ میں بحوالہ احمد وابن حبان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو عافیت دیدی یعنی ان کا مرض دور فرمادیا تو ان پر سونے کی ٹڈیاں برسادیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ٹڈیوں کا برسنامرض سے شفا یاب ہونے کے بعد کی بات ہے۔

فتح الباری میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام دکھ و تکلیف میں مبتلا ہوئے تو ہر شخص نے انہیں چھوڑ دیا البتہ ان کے دوستوں میں دو شخص ان کے پاس صبح و شام آنا جانا رکھتے تھے ایک دن ان دونوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ ضرور ایوب نے کوئی بڑا گناہ کیا ہے ایسی بات نہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ ان کی اس مصیبت کو ضرور دور فرمادیتا جس شخص سے یہ بات کہی تھی اس نے ایوب علیہ السلام سے اس کا تذکرہ کر دیا اس پر وہ رنجیدہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے اسی وقت دعا کی پھر قضاء حاجت کے لئے چلے گئے اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو انہوں نے زمین پر پاؤں مارا تو ایک چشمہ جاری ہو گیا جس میں انہوں نے غسل کیا اور بالکل صحیح اور تندرست ہو گئے اب جو ان کی بیوی آئی تو انہیں پہچان نہ سکی اور خود انہی سے دریافت کیا کہ یہاں جو مریم تھا وہ کہاں گیا ایسا تو نہیں کہ اسے بھیڑیا کھا گیا ہو حضرت ایوب علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ میں ہی ہوں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی تندرستی دے دی اور ان کی بیوی پر بھی جوانی لوٹا دی یہاں تک کہ اس کے بعد ان سے 26 لڑکے پیدا ہوئے فتح الباری میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے دو کھلیان تھے (جن میں کھیتی کاٹنے کے بعد غلہ جمع کیا جاتا ہے) ایک کھلیان گیہوں کا اور دوسرا کھلیان جو کا تھا اللہ تعالیٰ نے ایک بادل بھیجا جس نے گیہوں والے کھلیان میں اتنا سونا برسایا کہ بہنے لگا اور جو کے کھلیان میں اتنی چاندی برسی کہ وہ بھی بہہ پڑی۔ فللہ الحمد علی انعامہ۔

وَاذْكُرْ عَبْدًا نَّاكَ اِبْرَاهِيْمَ وَاسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ اُولٰٓئِکَ الَّذِیْنَ وَالَّابْصَارَ ۚ اِنَّا اَخْلَصْنٰهُمْ مِّنْ خَالِصَةٍ

اور یاد کیجئے ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو جو ہاتھوں والے اور آنکھوں والے تھے بیشک ہم نے انہیں ایک خاص بات کیساتھ مخصوص کیا تھا

ذِكْرِي الدَّارِ ۝ وَإِنَّمُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ ۝ وَادْكُرْ إسماعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَذَا الْكُفْلِ وَكُلٌّ

جو آخرت کی یاد ہے اور بلاشبہ یہ بندے ہمارے نزدیک انتخاب کردہ اچھے لوگوں میں سے ہیں اور یاد کیجئے اسماعیل کو اور اسحاق کو اور ذوالکفل کو اور یہ سب اچھے لوگوں میں سے تھے،

مِنَ الْأَخْيَارِ ۝ هَذَا ذِكْرُ وَإِنَ لِلْمُتَّقِينَ لِحُسْنِ مَآبٍ ۝ جَنَّتْ عَدْنٍ مَّقْعَتَ لَهُمُ الْأَبْوَابُ ۝

یہ ایک نصیحت ہے اور بلاشبہ پرہیزگاروں کے لئے اچھا ٹھکانہ ہے ہمیشہ رہنے کے بارغ ہیں ان کے لئے دروازے کھلے ہوں گے

مُتَكِينٍ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَلَاحَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَّابٍ ۝ وَعِنْدَهُمْ قَصْرٌ مِّنَ الظَّرْفِ أَرْتَابٌ ۝ هَذَا مَا

وہ ان میں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے وہ وہاں بہت سے میوے اور پینے کی چیزیں طلب کریں گے اور ان کے پاس نیچی لگاؤ والی ہم عمر عریاں ہوئی یہ وہ ہے

تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ۝ إِنَّ هَذَا لِرِزْقِنَا مَالٍ مِّنْ نَّفَاذٍ ۝

جس کا تم سے روز حساب آنے پر وعدہ کیا جاتا تھا بلاشبہ یہ ہمارا رزق ہے جس کو ختم ہونا ہی نہیں۔

## حضرت ابراہیم، حضرت اسحق، حضرت یعقوب علیہم السلام کا تذکرہ

**تفسیر:** ان آیات میں اول چند حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا اجمالی تذکرہ فرمایا اس کے بعد متقیوں کا انعام

بیان فرمایا جو باغوں اور ہم عمریوں اور مطعومات اور مشروبات کی صورت میں دیا جائے گا۔

ارشاد فرمایا کہ ہمارے ان بندوں کو یاد کیجئے یعنی ابراہیم اور ان کے بیٹے اسحق اور ان کے بیٹے یعقوب کو یاد کیجئے ان

حضرات کی نبوت کا تذکرہ قرآن مجید میں دوسری جگہ آچکا ہے حضرت ابراہیم علیہم السلام کا تذکرہ تو بہت جگہ آیا ہے تو حید کی

دعوت کے سلسلے میں ان کا تکلیفین اٹھانا آگ میں ڈالا جانا کافروں اور مشرکوں سے مباحثہ کرنا اللہ تعالیٰ کا حکم ملنے پر بیٹے کو

ذبح کرنے کے لئے لٹا دینا یہ سب گزر چکا ہے۔ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ مل کر کعبہ شریف بنایا

پھر حج کے لئے لوگوں کو پکارا اور یہ دعا کی کہ اے ہمارے رب مکہ والوں میں انہیں میں سے ایسا شخص نبی بنا کر بھیجنا جو آپ کی

کتاب پڑھ کر سنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ یہ بیان بھی پہلے گزر چکا ہے اور رسول اللہ ﷺ کو جو ان کی ملت

کا اتباع کرنے کا حکم فرمایا ہے سورہ بقرہ اور سورہ نحل اور سورہ حج میں اس کا بیان بھی گزر چکا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے

بعد جتنے بھی نبی آئے سب انہی کی نسل میں سے تھے۔ خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ نبی اسماعیل میں سے اور باقی تمام

انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام نبی اسحق میں سے تھے جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا

لقب تھا حضرت اسماعیل اور اسحق بڑھاپے میں عطاء کئے گئے تھے اس لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بطور شکریوں کہا

أُحْمَدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعٌ الدُّعَاءِ (سب تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے

مجھے بوڑھی عمر میں اسماعیل اور اسحق عطا فرمائے بلاشبہ میرا رب دعا کا سننے والا ہے)

ان حضرات کا ایک خاص وصف اُولَى الْاَيْدِي وَالْاَبْصَالِ بیان فرمایا لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ وہ ہاتھوں والے تھے

اور آنکھوں والے تھے اور اس کا مطلب علماء نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی اطاعت اور عبادت کی قوت عطا

(ذکرہ ابن کثیر)

فرمائی اور دینی بصریت اور تفقہ فی الدین کی نعمت سے نوازا تھا۔

اس کے بعد انکی ایک اور صفت بیان فرمائی اِنَّا اخْلَصْنَاهُمْ مِنَ الْغَيِّ وَالصَّيِّئَةِ ذِكْرُ الْاَلَدِ (یعنی ہم نے انہیں ایک خاص بات کے ساتھ مخصوص کیا تھا جو آخرت کی یاد ہے)

یہ حضرات خالص آخرت کے کاموں میں اور وہاں کی فکر مندی میں لگے رہتے تھے۔

تفسیر ابن کثیر میں حضرت مالک بن دینار سے اس آیت کی تفسیر نقل کرتے ہوئے لکھا ہے نَزَعَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ قُلُوبِهِمْ حُبَّ الدُّنْيَا وَذَكَرَهَا وَاخْلَصَهُمْ بِحُبِّ الْآخِرَةِ وَذَكَرَهَا (یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے دنیا کی محبت اور اسکی یاد کو نکال دیا اور ان کے دلوں میں خالص آخرت کی محبت ڈال دی اور خالص اسی کے فکر سے آراستہ فرمادیا اور حضرت قتادہ سے نقل کیا ہے كَسَنُوا يَذْكُرُونَ النَّاسَ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَالْعَمَلَ لَهَا (یعنی یہ حضرات دوسرے لوگوں کو آخرت یاد دلاتے تھے اور اس کے لئے عمل کرنے کی ترغیب دیتے تھے۔)

ان حضرات کی تیسری صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا وَرَأَيْنَاهُمْ عِنْدَ تَالِيْنِ الْمُصْطَفَيْنِ الْاَخْيَارِ (اور بلاشبہ یہ بندے ہمارے نزدیک منتخب کئے ہوئے تھے اچھے لوگوں میں سے تھے) کیا کہنے اُن بندوں کے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنا برگزیدہ بنائے اور اچھے لوگوں میں شمار فرمائے۔

## حضرت اسماعیل حضرت الیسع اور ذوالکفل علیہم السلام کا تذکرہ

ان کے بعد حضرت اسماعیل اور حضرت الیسع اور حضرت ذوالکفل علیہم السلام کا تذکرہ کرنے کا حکم فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ یہ سب اچھے بندے تھے ان حضرات کا تذکرہ سورۃ الانبیاء میں گزر چکا ہے نیز سورۃ الانعام کے رکوع خُبْرُنَا اَتَيْنَا هَآؤُلَاءِ اِهْنِمَ عَلٰی قَوْمِهِ کی تفسیر بھی دیکھ لی جائے۔

هَذَا ذِكْرُ یعنی یہ جو کچھ بیان ہوا ایک نصیحت کی چیز ہے جسکو یاد رکھنا چاہئے اور اسکے متضاد پر عمل کرنا چاہئے۔

## مستقی حضرات کی نعمتوں کا ذکر

وَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ لَحُسْنَ مَآلٍ (اور بلاشبہ پرہیزگاروں کے لئے اچھا ٹھکانا ہے) پھر اس ٹھکانے کی تفسیر بتائی جَنَّاتٍ عِدْنٍ مِّنْ مَّغْنَمٍ لَّهُمْ فِي الْاُبْوَابِ (یعنی ہمیشہ رہنے کے باغیچے ہوں گے جن کے دروازے ان کے لئے کھلے ہوں گے) جب جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو اس کے دروازے کھلے ہوئے پائیں گے جیسا کہ ان لوگوں کا اکرام اور استقبال کیا جاتا ہے جنہیں مہمانی کے طور پر بلایا جاتا ہے سورۃ زمر میں اِذَا جَاءَهُمْ حَقٌّ اِذَا جَاءَهُمْ حَقٌّ وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا اس کے بعد ان حضرات کے بیٹھنے کا اور میوؤں کا اور پینے کی چیزیں طلب کرنے کا تذکرہ فرمایا مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِغُلَامٍ غَيْرَ مَبْرُورٍ وَشَرَابٍ پھر ان کی بیویوں کا تذکرہ فرمایا وَعِنْدَهُمْ قَهْرُ الطَّيْرِ اَتْرَابٍ (ان کے پاس ایسی بیویاں ہوں گی جو نظریں پست کئے ہوں گی یعنی اپنے شوہروں کے علاوہ کسی کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھیں گی اور وہ ہم عمر بھی ہوں گی۔)



هَذَا مَا تُعَدُّونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ (ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ انعام و اکرام جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا کہ حساب کے دن یعنی قیامت کے روز تمہیں یہ چیزیں دی جائیں گی اہل جنت کو خوش کرنے کے لئے یہ بھی کہا جائے گا کہ اِنَّ هَذَا لَسِرُّنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ (بلاشبہ یہ ہمارا رزق ہے جس کے لئے ختم ہونا نہیں ہے یعنی یہ رزق ہمیشہ رہے گا کبھی چھینا نہ جائے گا اور کم نہ ہوگا۔ سورہ ہود میں فرمایا عَطَاءٌ غَيْرُ مَجْذُوذٍ (بخشش ہے جو ختم ہونے والی نہیں ہے) اور اہل ایمان کے لئے فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ بھی فرمایا ہے ان کے لئے ایسا اجر ہے جو کٹنے والا یعنی ختم ہونے والا نہیں۔

هَذَا وَإِنَّ لِلظَّالِمِينَ شَرَّ مِائٍ ۖ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَيَسْأَلُونَ لَهَا ۚ هَذَا أَفْلَيْدٌ وَفَوْهُ حَمِيمٌ ۖ وَغَسَاقٌ ۖ

اس بات کو سمجھ لو اور بلاشبہ سرکشوں کے لئے برا ٹھکانا ہے جہنم ہے جس میں وہ داخل ہوں گے سو وہ برا بھونٹا ہے یہ عذاب ہے سو تم اس کو چکھ لو حیم ہے اور غساق ہے

وَأُخْرٍ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ ۖ هَذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ ۖ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ ۖ قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ

اور اس کے سوا اس طرح کی اور عذاب ہیں یہ جماعت ہے جو تہا رہا تھا داخل ہو رہی ہے جن کے لئے کوئی مرحبا نہیں ہے بلکہ یہ لوگ دوزخ میں داخل ہونے والے ہیں وہ کہیں گے بلکہ تم ایسے ہو کہ

لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنْتُمْ قَدْ مُتِمُّوهُ لَنَا فَيَسْأَلُ الْقَارِئُ قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدْ مَلَأَ هَذَا فِرْدَوْسًا عَذَابًا

تمہارے لئے مرحبا نہیں ہے تم نے اس کو ہمارے لئے آگے بڑھایا سو یہ بڑی جگہ ہے پھر نے کیا وہ کہیں گے کہ اب ہمارے عذاب جس نے اس کو ہمارے لئے کیا ہے دوزخ میں دوگنا

ضَعُفًا فِي النَّارِ ۖ قَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ ۖ أَتَمَخَذُ نَهُمْ سَخِرَ بِنَا

عذاب بڑھا دیجئے اور وہ کہیں گے کیل بات ہے ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جنہیں ہم شرار یعنی برے لوگوں میں شمار کیا کرتے ہیں کیا ہم نے ان کا مذاق بنا رکھا تھا

أَفَرَأَيْتُمْ أَهْلَ الْأَبْصَارِ ۖ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَافُهُمْ أَهْلُ النَّارِ ۖ

یا انکے دیکھنے سے آنکھیں چکر رہی ہیں؟ بلاشبہ یہ حق ہے دوزخ والوں کا بھگونا۔

## سرکشوں کا برا انجام دوزخ میں ایک دوسرے سے بیزار ہونا

**تفسیر:** اہل سعادت کا اکرام اور انعام بیان کرنے کے بعد فرمایا اِنَّ هَذَا لَسِرُّنَا یعنی یہ بات جو اوپر بیان ہو چکی اس کو محفوظ رکھو اور یاد رکھو اس کے بعد اہل شقاوت کا حال معلوم کرو اور وہ یہ ہے کہ سرکشوں کا برا ٹھکانہ ہوگا یعنی یہ لوگ دوزخ میں داخل ہوں گے جو بدترین ٹھکانہ ہے اور برا بھونٹا ہے (چونکہ دوزخیوں کے نیچے بھی آگ ہوگی اس لئے اسے برا بھونٹا فرمایا) یہ عذاب ہے ہوا سے چکھ لو حیم ہے اور غساق ہے اور اسی طرح کا مختلف قسم کا عذاب ہے۔ مثلاً ضریح ہے اور زھریر ہے زقوم ہے اور غسلین ہے صعد ہے اور مقامع ہیں وغیرہ ذالک حیم گرم پانی کو کہتے ہیں سورہ محمد میں فرمایا وَسُقُوفًا مَّاءٍ حَمِيمًا فَفُطِّعَ أَمْعَاءُهُمْ (اور انہیں کھولتا ہوا گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور غساق کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اگر اس ایک ڈول دنیا میں ڈال دیا جائے تو تمام دنیا والے سڑ جائیں۔ (مشکوٰۃ المصابیح از ترمذی ص ۵۰۳) غساق کیا چیز ہے اس کے بارے میں صاحب مرقاۃ (شرح مشکوٰۃ) نے چار قول نقل کئے ہیں۔

۱۔ دوزخیوں کی پیپ اور ان کا دھواں مراد ہے

۲۔ دوزخیوں کے آنسو مراد ہیں

۳۔ زمہریر یعنی دوزخ کا ٹھنڈک والا عذاب مراد ہے

۴۔ غساقی سڑی ہوئی اور ٹھنڈی پیپ ہے جو ٹھنڈک کی وجہ سے پی نہ جاسکے گی (مگر بھوک کی وجہ سے مجبوراً اپنی پڑے گی) بہر حال غساق بہت بری چیز ہے جو بہت ہی زیادہ بدبودار ہے۔ اَللّٰهُمَّ اَعِزَّنَا مِنْهُ۔

اس کے بعد اہل دوزخ کا ایک باہمی مکالمہ نقل فرمایا اور وہ یہ کہ جو لوگ پہلے سے دوزخ میں جا چکے ہوں گے علی التعاقب اس طرح کی بہت سی جماعتیں جان بولی ہوں گی) تو بعد میں آنے والی جماعت کو دیکھ کر پہلے داخل ہونے والی جماعت کہے گی یہ ایک جماعت اور آئی جو تمہارے ساتھ عذاب بھگتنے کے واسطے یہیں گھسنے کے لئے آرہی ہے ان کیلئے کوئی مرحبا نہیں یعنی ان کے آنے کی کوئی خوشی نہیں یہ بھی جہنمی ہم بھی ہمیں ان سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ بعد میں آنے والی جماعت جواب میں کہے گی جو دنیا میں پہلی جماعت کی پیروکار تھی اور اس کے بہلانے اور ورغلانے سے کفر اختیار کئے ہوئے تھی) بلکہ تمہارے لئے کوئی مرحبا نہیں ہے تم یہ عذاب ہمارے آگے لائے یعنی تم نے ہمیں کفر پر ڈالا اور جمایا جس کے نتیجے میں ہم یہاں عذاب بھگتنے کے لئے داخل کئے گئے اس کے بعد وہ بعد میں آنے والی جماعت (جو اتباع تھے) اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنے متبوعین یعنی بڑوں اور سرداروں کی سزا کے لئے یہ درخواست پیش کریں گے کہ اے ہمارے رب جو شخص ہمارے لئے عذاب کو آگے لایا اسے دوزخ میں دو گنا عذاب دیجئے (یہاں دنیا میں ایک دوسرے سے تعلق بھی رکھتے ہیں چھوٹے لوگ اپنے بڑوں کی بات بھی مانتے ہیں اور ان کے کہنے سے کفر پر جے رہتے ہیں لیکن جب وہاں دوزخ میں داخل ہوں گے تو ایک دوسرے پر لعنت کریں گے اور چھوٹے لوگ اپنے سرداروں کے لئے دوہرے عذاب کی درخواست کریں گے۔

## اہل دوزخ کو حیرت ہوگی جب اہل ایمان کو اپنے ساتھ نہ دیکھیں گے

اہل دوزخ کہیں گے کہ ہم دنیا میں تھے تو اہل ایمان کو اور خاص کر فقراء مومنین کو ذلیل سمجھتے تھے اور یوں بھی کہتے تھے کہ یہ اشرار ہیں یعنی برے لوگ ہیں ان میں کوئی خیر نہیں اور بعض مرتبہ ان سے یوں بھی کہہ دیتے تھے کہ تم دوزخ میں جاؤ گے ہم جنتی ہوں گے (جیسا کہ یہود اور نصاریٰ اور اہل ہندو سمجھتے ہیں) لیکن جب یہ کفار دوزخ میں پہنچیں گے اور ادھر ادھر ڈالیں گے تو انہیں اہل ایمان میں سے کوئی بھی نظر نہ آئے گا نظروں کے سامنے سب کافر ہی ہوں گے اس وقت یوں کہیں گے کیا بات ہے ہم ان آدمیوں کو نہیں دیکھ رہے جنہیں ہم برے لوگوں میں شمار کیا کرتے تھے کیا ہم نے ناحق ان کی ہنسی کر رکھی تھی کہ انہیں دوزخی سمجھتے تھے (اور حقیقت میں وہ ایسے نہ تھے جیسا ہم نے سمجھا تھا) یا یہ بات ہے کہ وہ لوگ یہاں موجود تو ہیں لیکن ہماری آنکھیں چکر رہی ہیں کہ ان پر نظر نہیں پڑتی اس بات کو یاد کر کے انہیں حیرت بھی ہوگی اور حسرت بھی کہ جن کی ہم نے مذاق بنائی تھی وہ تو یہاں نہ پہنچے اور ہمیں یہاں آنا پڑا۔

إِنَّ ذَٰلِكَ لَحَقُّ تَحَا۟طِّهِمْ أَهْلُ النَّارِ (یعنی دوزخیوں کا آپس میں جھگڑنا بالکل سچی بات ہے ایسا ضرور ہوگا)

قُلْ إِنَّمَا كَانُذِرٌ وَكَافِرٌ إِلَّا إِلَهَ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

آپ فرمادیجئے کہ میں تو صرف ڈرانے والا ہوں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو واحد ہے قہار ہے وہ آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کھائے اندر ہے ان سب کا رب ہے

الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ قُلْ هُوَ نَبِيُّ عَظِيمٍ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَى

عزیز ہے غفار ہے آپ فرمادیجئے کہ یہ بڑی خبر ہے تم اس سے اعراض کئے ہوئے ہو مجھے ملا اعلیٰ کا کچھ علم نہیں ہے جبکہ وہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں

إِذْ يَخْتَصِمُونَ ۚ إِنَّ يُوحَىٰ إِلَىٰ آلِهَةٍ أَنَا أَنْذِرُ مُبِينٌ

میری طرف تو صرف یہ وحی بھیجی گئی ہے کہ میں واضح طور پر ڈرانے والا ہوں

## صرف اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے وہ واحد و قہار ہے

## مالک ارض و سماء ہے عزیز و غفار ہے

**تفسیر:** ان آیات میں تو حید اور رسالت کا اثبات فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ کی پانچ صفات بیان فرمائیں۔ آپ کو

خطاب فرمایا کہ اپنے مخاطبین سے فرمادیں کہ میں تو صرف ڈرانے والا ہوں زبردستی کسی سے ایمان قبول کرانے والا نہیں پھر تو حید کی دعوت دی کہ معبود صرف ایک ہی ہے یعنی اللہ تعالیٰ جو اپنی ذات و صفات میں تنہا بھی ہے اور قہار بھی ہے یعنی وہ سب پر غالب ہے نگوئی طور پر اس کی قضاء اور قدر کے مطابق سب کچھ وجود اور ظہور میں آتا ہے وہ آسمانوں کا بھی رب ہے اور زمین کا بھی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کا رب ہے پروردگار عالم جل مجدہ کو چھوڑ کر تم جو کسی دوسرے کی عبادت کر رہے ہو یہ حماقت اور ضلالت پھر یہ بھی سمجھ لو کہ وہ عزیز بھی ہے یعنی غلبہ والا ہے اسے تمہاری گرفت فرمانے اور عذاب دینے پر پوری پوری قدرت ہے وہ غالب ہے اور سب مغلوب ہیں لیکن اگر تم کفر و شرک سے توبہ کر لو گے تو وہ بخش دے گا کیونکہ وہ غفار یعنی بہت بڑا بخشنے والا بھی ہے۔

اس کے بعد آپ کی نبوت کی ایک دلیل بیان فرمائی کہ آپ ان لوگوں سے فرمادیں یہ جو کچھ میں نے اپنی رسالت کی

خبر دی ہے اور تمہیں یہ بتایا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں یہ بہت بڑی خبر ہے تمہیں اس کی طرف متوجہ ہونا لازم تھا لیکن تم اس سے اعراض کر رہے ہو تم یہ تو دیکھو کہ میں جو ملا اعلیٰ (عالم بالا) کی خبریں دیتا ہوں یہ خبریں میرے پاس کہاں سے آگئیں نہ میں نے پرانی کتابیں پڑھی ہیں نہ اہل کتاب سے میرا میل جول رہا ہے یہ باتیں جو میں بتاتا ہوں جن کی اہل کتاب تصدیق کرتے ہیں اور تمہارے سامنے بھی میری بتائی ہوئی خبروں کا صحیح طور پر ظہور ہوتا رہتا ہے یہ علم مجھے کہاں سے ملا؟ ظاہر ہے کہ یہ سب مجھے وحی کے ذریعہ سے ملا ہے اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو پیدا فرمایا پھر فرشتوں کو سجدہ کرنا حکم فرمایا اور ابلیس سجدہ کرنے سے منکر ہوا ان باتوں کی جو میں نے خبر دی ہے مجھے ان کا کچھ علم نہ تھا۔

اللہ تعالیٰ کا اپنے فرشتوں سے یوں فرمانا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں پھر ان کا اس پر سوال

اٹھانا پھر آدم علیہ السلام کے مقابلہ میں چیزوں کے نام بتانے سے عاجز ہو کر سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا کہنا دیکھا

مَرَّ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَهَذَا دَاخِلٌ فِي الْاِخْتِصَامِ لِأَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ بَدَلْ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ كَمَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ الرُّوحِ (یہ سب تفصیل مجھے صرف وحی سے معلوم ہوئی ہے اس سے پہلے ان چیزوں کو بالکل نہیں جانتا تھا تم اپنے ہوش کی دوا کرو اور بات کو سمجھو اور میری نبوت کے انکار سے باز آؤ میں دوبارہ واضح طور پر تمہیں بتاتا ہوں کہ میری طرف دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں یہی وحی آئی ہے کہ میں واضح طور پر ڈرانے والا ہی ہوں میری بات نہ مانو گے تو اپنا برا کرو گے میں تم سے زبردستی قبول نہیں کر سکتا۔

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِينٍ ۖ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا

جب کتاب کعب نے فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں کچھ عایک بشر کو پیدا کرنے والا ہوں سو جب میں اسے پوری طرح بنادوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو

لَهُ سَجِدِينَ ۖ فَسَجَدَ الْمَلَكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ۖ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ۖ قَالَ

اس کے لئے سجدہ میں گر پڑنا، سو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا اسے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ

يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيْدِي اسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ ۖ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ

ابلیس تجھے کہ بات سے کہ کچھ نے رکھا کہ تو سجدہ کرے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے کیونکہ میں نے تم کو کیا رکھا تو سجدہ نہ ہاں میں سے ہے ابلیس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں

خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ۖ قَالَ فَاهْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ۖ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي

مجھے آپ نے آگ سے اور اسے کچھ سے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سو تو یہاں سے نکل جا کیونکہ بلاشبہ تو مردود ہے اور قیامت کے دن تک تجھ پر میری لعنت ہے

إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ۖ قَالَ رَبِّ فَانْظُرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۖ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ۖ إِلَى يَوْمِ

ابلیس نے کہا اے میرے رب مجھے اس دن تک مہلت دیجئے جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک وقت معلوم کے دن تک

الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ۖ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَا أُغْوِيَهُمْ أَجْمَعِينَ ۖ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْخَالِصِينَ ۖ قَالَ فَالْحَقُّ

تجھے مہلت دی گئی، ابلیس نے کہا سو آپ کی عزت میں ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا سوائے آپ کے ان بندوں کے جو منتخب ہوں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ

وَالْحَقُّ أَقُولُ ۖ لَا مَلَكٌ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَتَّبِعُ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ۖ

میں سچ کہتا ہوں اور سچ ہی کہا کرتا ہوں۔ میں جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے ضرور بھردوں گا جو تیرے پیچھے چلیں گے۔

ابلیس کی حکم عدولی اور سرتابی، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے

سے انکار کر کے مستحق لعنت ہونا اور بنی آدم کو ورغلائے کی قسم کھانا

تفسیر: ان آیات میں تخلیق آدم اور پھر فرشتوں کو انہیں سجدہ کرنے کا حکم اور ان کے سجدہ کرنے کا واقعہ اور ابلیس

کے انکار کا تذکرہ فرمایا ہے یہ مضمون سورۃ البقرہ رکوع ۴ اور سورۃ اعراف رکوع ۱۲ اور سورۃ حجر رکوع ۱۳ اور سورۃ الاسراء رکوع ۶

میں بھی گزر چکا ہے وہاں جو ہم نے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے اس کی بھی مراجعت کر لی جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے فرمایا کہ میں طین یعنی کچڑ سے ایک بشر کو پیدا کروں گا جب میں اسے پیدا کر دوں اور پوری طرح بنا دوں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے لئے سجدہ میں گر جانا۔

اس میں لفظ بشر فرمایا ہے جس کا معنی ہے ایسی کھال والی چیز بالوں سے چھپی ہوئی نہ ہو دوسرے حیوانات ہیں ان کے جسم پر بال ہوتے ہیں جن سے ان کا بدن ڈھکا ہوتا ہے لیکن انسان کے سر اور اس کی ڈاڑھی کے علاوہ اور کسی جگہ پر عام طور سے بڑے بڑے بال نہیں ہوتے کچڑ نہ پہننے تو کھال نظر آتی اور بعض جگہ جو بال نکل آتے ہیں اور بڑھتے چلے جاتے ہیں ان کے صاف کرنے کا حکم دیا گیا البتہ ڈاڑھی رکھنا واجب ہے پھر جب جنت میں جائیں گے تو وہاں مردوں کے بھی ڈاڑھی نہ ہوگی وہاں بشر ہونے کا پورا پورا مظاہرہ ہو جائے گا یہاں کچڑ سے پیدا فرمانے کا ذکر ہے اور سورۃ الانعام میں لفظ تراب وارد ہوا ہے اور سورۃ حجر میں صَلْصَالٌ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو بچتی ہوئی کالی سڑی ہوئی مٹی سے پیدا فرمایا اور سورۃ الرحمن میں فرمایا من صَلْصَالٍ کَالْفَخَّارِ کہ ہم نے انسان کو ایسی مٹی سے پیدا فرمایا جو ٹھیکرے کی طرح بچنے والی تھی ان آیات میں آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کئے جانے کے تذریبی حالات بتائے ہیں مختلف جگہوں سے مٹی جمع کی گئی پھر اس میں پانی ڈال دیا تو کچڑ بن گئی اور عرصہ تک اسی طرح پڑے رہنے کی وجہ سے سیاہ اور بدبودار ہو گئی پھر جب پتلا بنا دیا گیا تو وہ پڑے پڑے سوکھ گیا اور ایسا ہو گیا کہ اگر اس پر انگلی ماری جائے بچنے لگے جیسے مٹی سے بنائے ہوئے برتن انگلیاں مارنے سے بچتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ جب میں اس بشر کو پیدا کر دوں اور پوری طرح اس کا مجسمہ بنا دوں پھر اس میں روح پھونک دوں تو تم اس کو سجدہ کرنا (اس کی تعظیم کے لئے سجدہ میں گر جانا) فرشتوں نے حکم کے مطابق اس بشر کو جن کا نام پہلے سے آدم تجویز کر دیا گیا تھا تعظیمی سجدہ کر لیا ابلیس بھی وہیں رہتا تھا اسے بھی حکم تھا کہ اس نئی مخلوق یعنی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے وہ سجدہ کرنے سے منکر ہو گیا سورۃ الکہف میں فرمایا ہے کَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ (وہ جنات میں سے تھا سو اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور سورۃ البقرہ میں فرمایا ہے ابْنِیْ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِیْنَ) کہ اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے تھا یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے ہی سے یہ بات تھی کہ وہ کفر اختیار کر لے گا کافروں میں سے ہو جائیگا اور سورۃ الاعراف میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے فرمایا مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ کہ تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا (معلوم ہوا کہ وہ بھی عمومی حکم میں شامل تھا یا اسے خطاب فرما کر مستقل طور پر بھی حکم دیا تھا یہاں سورص میں فرمایا قَالَ یٰۤاٰدَمُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِیْدَیْ (کہ اے ابلیس تجھے کس چیز نے اس بات سے روکا کہ تو اس چیز کو سجدہ کرے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا) علماء نے فرمایا کہ ہاتھوں سے پیدا کرنا جو فرمایا اس سے معنی مجازی مراد ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ جسمیت اور اعضاء سے پاک ہے اور یہ فرمانا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا اس کی اہمیت بتانے کے لئے ہے جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے اس کے بارے میں یوں کہا جاتا ہے کہ اسے اپنے ہاتھ سے بنایا یہ اہل تاویل کا قول ہے اور سلف کا فرمانا یہ ہے کہ ہم تاویل نہیں کرتے اور یدین (دونوں ہاتھ) کا جو مطلب ہے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مفوض کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو یدین کا مطلب ہے جو

اس کی شان کے لائق ہے ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں اس طرح یہ جو فرمایا کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں اس کے بارے میں بعض حضرات نے تاویل کی ہے اور فرمایا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میں اس میں جان ڈال دوں گا تو تم اس کے لئے سجدہ میں گر پڑنا اور دوسرے حضرات نے فرمایا کہ ہم تاویل نہیں کرتے اس پر ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو اس کا مطلب ہے جو اس کی شان کے لائق ہے ہم اسے مانتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ شانہ نے ابلیس سے فرمایا اَسْتَكْبَرْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالَمِينَ (کیا تو نے تکبر کیا یا یہ کہ تو بڑے درجے والوں میں سے ہے) یعنی کیا تو غرور میں آگیا اور واقع میں بڑا نہیں ہے یا کہ تو واقع میں ایسے بڑے درجہ والوں میں سے ہے جس کو سجدہ کا حکم کرنا زیبا نہیں۔

ابلیس نے کہا کہ یہ شق ثانی ہی واقع ہے یعنی اس کو سجدہ کرنا میری شان کے لائق نہیں ہے (جس کی وجہ یہ ہے کہ) مجھے آپ نے آگ سے پیدا فرمایا ہے اور اسے کچھ سے پیدا فرمایا ہے۔ (لہذا میں اس سے بہتر ہوا اور مجھے یہ حکم دینا کہ اسے سجدہ کروں میری شان کے خلاف ہے) اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ تو یہاں سے نکل جا کیونکہ بلا شک تو مردود ہو گیا اور قیامت کے دن تک تجھ پر میری لعنت ہے (اور جس پر قیامت کے دن تک لعنت رہے گی وہ اس کے بعد بھی ملعون ہی رہے گا کَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی 'شَانَهُ فَاذْنِمْؤذَنْ بَيْنَهُمْ اَنْ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلٰی الظّٰلِمِیْنَ (ابلیس کو تکبر کھا گیا۔ ملعون ہونا منظور کر لیا لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے اور معافی مانگنے کے لئے تیار نہ ہوا بلکہ اس نے لمبی عمر ہونے کی درخواست کر دی اور یوں کہا کہ اے رب مجھے اس دن تک مہلت دیجئے جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے (یعنی قبروں سے نکلیں گے) روح المعانی میں لکھا ہے کہ اس سے نفخہ ثانیہ کا وقت مراد ہے مطلب ابلیس ملعون کا یہ تھا کہ مجھے لمبی زندگی دیدی جائے اور اتنی لمبی ہو کہ قیامت پر ہی ختم ہو۔ ۱

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاتجھے ایک وقت تک مہلت دے دی گئی اب تو اس نے اپنے نفس میں جو بات چھپا رکھی تھی وہ ظاہر کر دی اور کہنے لگا کہ اے رب آپ کی عزت کی قسم میں ان لوگوں کو (جو اس نئی مخلوق کی نسل میں ہونگے) سب کو بہکاؤں گا کفر پر اور آپ کی نافرمانیوں پر ڈالوں گا اور برے کاموں کو اچھا بتاؤں گا مگر جن لوگوں کو آپ نے اپنی اطاعت کے لئے چن لیا اور میرے بہکانے سے بچا دیا ان پر میرا بس نہ چلے گا۔

ابلیس چونکہ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ملعون و مردود ہوا تھا اس لئے اس نے ان سے اور ان کی اولاد سے انتقام اور بدلہ لینے کا فیصلہ کیا حالانکہ حماقت اس کی تھی رب العلمین جل مجدہ کے حکم سے سرتابی کی ملعون ہونے کا کام خود کیا اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کیا اس کے حکم کو غلط بتایا اور شان لی آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد سے بدلہ لینے کی چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ابتلاء اور امتحان کے لئے پیدا فرمایا ہے اس لئے ابلیس کو لمبی زندگی بھی دیدی اور بہکانے اور ورغلانے کی کوشش کرنے کا موقع بھی دیدیا اور انسانوں کو بتا دیا کہ یہ اور اس کی ذریت تمہارے دشمن ہیں تم ان سے چوکنے رہنا ان

۱ (وفی تفسیر القرطبی ارادالملعون ان لایموت فلم یُجب الی ذلک و اُخبر الی الوقت المعلوم وهو یوم یموت الخلق

فیہ فاخبر الیہ تھو نا بہ (ص ۲۲۹ ج ۱۵)

(تفسیر قرطبی میں ہے کہ شیطان کی خواہش تو یہ تھی کہ اے موت ہی نہ آئے لیکن اس کی یہ خواہش قبول نہیں ہوئی اور اسے وقت معلوم یعنی تمام

مخلوق کی موت کے دن (تخت ثانیہ) تک اے مہلت دینے کیلئے اس کی موت مؤخر کی گئی)

کے بہکاوے میں نہ آنا اور خیر اور شر کے دونوں راستے بتا دیئے انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو مبعوث فرمایا اور اپنی کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے پھر ان کے خلفاء کے ذریعے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا جو شخص شیاطین کی باتوں میں آئے گا راقہ حق چھوڑے گا وہ اپنی بربادی کا خود ذمہ دار بنے گا۔

## ابلیس اور اس کے متبعین سے دوزخ کو بھردیا جائے گا

جب ابلیس نے کہا کہ میں بنی آدم کو درغلاؤں گا اور بہکاؤں گا اور راہ حق سے ہٹاؤں گا تو اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ میں سچ ہی کہتا ہوں اور سچ ہی کہا کرتا ہوں (تو اپنی اور اپنے پیچھے چلنے والوں کی سزا ابھی سے سن لے) میں تجھ سے اور جو لوگ ان میں تیرا اتباع کریں گے ان سب سے دوزخ کو بھردوں گا یہ بات اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے بھی فرمادی اور جب آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو زمین پر بھیجا جانے لگا اس وقت ان کو خطاب کر کے صاف صاف بتا دیا **فَلَمَّا يَئِسَ كُفْرُ مَنَاقِبِ هَٰؤُلَاءِ فَلَاخُوفَ عَلَيَّمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ** <sup>۱</sup> **وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ** (سوا اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے سو جو شخص میری ہدایت کا اتباع کرے گا ان لوگوں کو کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اور جو لوگ کفر اختیار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

فائدہ: ابلیس نے جو مہلت مانگی تھی اس میں یوں کہا تھا کہ مجھے اس دن تک مہلت دی جائے جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ تجھے وقت معلوم تک مہلت ہے یہ وقت معلوم اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے جب تک ابلیس کی موت کا وقت مقرر نہ آجائے وہ زندہ رہے گا اور کفر پر مرے گا اور دوزخ میں جائے گا۔

**قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ** <sup>۲</sup> **إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ** <sup>۳</sup> **وَلَتَعْلَمُنَّ**

آپ فرمادیجئے کہ میں تم سے اس پر کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں یہ صرف جہان والوں کے لئے ایک نصیحت ہے اور کچھ عرصہ کے بعد تم

**نَبَأًا بَعْدَ حِينٍ** <sup>۴</sup>

اس کا حال ضرور جان لو گے۔

## دعوت حق پر کسی معاوضہ کا مطالبہ نہیں

تفسیر: رسول اللہ ﷺ لوگوں کو قرآن مجید سناتے تھے تو حید کی دعوت دیتے تھے تو لوگوں کو ناگوار ہوتا تھا آپ کی تکذیب کرتے تھے معجزات دیکھ کر بھی حق قبول نہیں کرتے تھے انہیں ایک اور طریقہ سے سمجھایا اور فکر کی دعوت دی ارشاد فرمایا کہ آپ ان سے فرمادیجئے کہ میں تم سے قرآن کی باتیں سنانے پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا یہ بات تم پر واضح ہے اب تمہیں خود غور کرنا چاہئے کہ جس شخص کو ہم سے کوئی دنیاوی غرض نہیں کسی طرح کے مال و متاع کا طالب نہیں یہ بار بار ہمیں



تبلیغ کیوں کرتا ہے ظاہر ہے کہ جب اسے کوئی مطلب نہیں ہے تو ضرور اللہ تعالیٰ کی طرف اسے دعوت تبلیغ کرنے کا حکم ہوا ہے اور آپ ان سے یہ بھی فرمادیں کہ میں تکلف والوں میں سے نہیں ہوں یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں نے بناوٹ کی راہ سے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہو اور غیر قرآن کو قرآن کہہ دیا ہو یہ جو کچھ تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یہ قرآن تمام جہانوں کے لئے نصیحت ہے تم اسے نہ مانو گے تو اپنا برا کرو گے اور عنقریب موت کے بعد تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ حق تھا اور اس کا انکار کرنا باطل کام تھا لیکن اُس وقت معلوم ہونا فائدہ نہ دے گا، اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ بَعْدَ حِسْنِ سے یوم بدر مراد ہے یعنی اس دنیا میں تمہیں عنقریب پتہ چل جائے گا کہ قرآن حق ہے اور اس کا انکار کرنے والے باطل پر ہیں۔

فائدہ:- آیت کریمہ میں جو یہ فرمایا ہے کہ آپ ان سے فرمادیں کہ میں تم سے اپنی محنت اور دعوت پر کوئی اجر طلب نہیں کرتا اس میں تمام مبلغین اور داعی حضرات کو یہ بتا دیا کہ دعوت الی الخیر کا کام محض اللہ کی رضا کے لئے کریں مخلوق سے کسی چیز کے طالب نہ ہوں اور امید وار بھی نہ ہوں اور وَكَأَنَّمِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ میں یہ بتا دیا کہ اہل ایمان اور خاص کراہل علم تکلف کو اختیار نہ کریں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو جسے کوئی چیز معلوم ہو وہ بتا دے اور جسے علم نہ ہو وہ کہہ دے کہ اللہ کو معلوم (بغیر علم کے کوئی چیز نہ بتائے اور یہ ظاہر نہ کرے کہ مجھے علم ہے کیونکہ اس میں تصنع اور تکلف ہے جو جھوٹ کی ایک قسم ہے) جو چیز نہ جانے اس کے نہ جانے کا اقرار کر لینا اور یہ کہہ دینا کہ اللہ کو معلوم ہے یہ بھی علم کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے کہ آپ فرمادیجئے کہ میں تم سے اس پر کوئی اجر طلب نہیں کرتا اور میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ (صحیح بخاری ۷۱۰ جلد دوم)

بہت سے لوگوں کو علم نہیں ہوتا اپنے نام کے ساتھ مفتی یا مولانا کا لفظ لگا لیتے ہیں یا ممتاز عالم دین کا لقب اختیار کر کے اخبارات میں اپنا نام اُچھالتے رہتے ہیں پھر جب اُن سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا ہے یا کوئی حدیث دریافت کی جاتی ہے تو یوں کہنا کہ مجھے معلوم نہیں اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں اور اپنے پاس سے کچھ نہ کچھ بتا دیتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے آیت بالا میں تنبیہ ہے بہت سی باتیں جو حق اور حقیقت سے دور ہوتی ہیں جو تصنع جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں مومن آدمی کو ان سب سے بچنا لازم ہے۔ ایک عورت نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری ایک سوتن یعنی شوہر کی دوسری بیوی ہے کیا مجھے اس بات پر گناہ ہوگا کہ میں جھوٹ موٹ اس پر یہ ظاہر کروں کہ مجھے شوہر نے یہ دیا اور وہ دیا اور حقیقت میں نہیں دیا (تاکہ اسے جلن ہو) آپ نے فرمایا جسے کوئی چیز نہیں دی گئی اگر وہ جھوٹ موٹ یہ ظاہر کرے کہ مجھے دی گئی ہے وہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص جھوٹ کے کپڑے پہن لے۔

وقد تم تفسیر سورۃ ص فی شهر ربیع الآخر ۱۴۱۷ھ والحمد للہ الہاد الی سبیل الرشاد

والصلوة علی نبیہ سید العباد وعلی الہ وصحبہ و من تبعہم باحسان الی یوم المعاد.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورۃ زمر مکہ معظمہ میں نازل ہوئی اس میں پچھتر آیات اور آٹھ رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے﴾

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۝ اِنَّا اَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ

یہ نازل کی ہوئی کتاب ہے اللہ کی طرف سے جو غلبہ والا ہے حکمت والا ہے۔ بلاشبہ ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی

الدِّينِ ۝ اِلَّا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ۝ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَا

سوا آپ اللہ کی عبادت کیجئے اس طرح سے کہ اسی کیلئے دین خالص ہو خبردار اللہ ہی کے لئے دین خالص ہے اور جن لوگوں نے اس کے علاوہ شراکاء بنائے وہ کہتے ہیں

اِلَى اللَّهِ زُلْفَى ۝ اِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝ اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ

کہہ رہا کہ عبادت صرف اسی کے لئے کرتے ہیں کہ اللہ کا زیادہ مقرب بنائیں۔ جن باتوں میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں بلاشبہ اللہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دے بلاشبہ اللہ اپنے فیصلے کو عبادت نہیں دیتا

كَذِبَ كَقَوْلِهِ ۝ لَوْ اَرَادَ اللَّهُ اَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَاصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۝ سُبْحٰنَهُ ۝ هُوَ اللَّهُ

جو جھوٹا ہو کا فر ہو اگر اللہ چاہتا کہ کسی کو اولاد بنائے تو جسے چاہتا اپنی مخلوق میں سے منتخب فرما لیتا وہ پاک ہے وہ اللہ ہے

الْوٰحِدُ الْقَهَّارُ ۝ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۝ يَكُوْرُ الْاَيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيَكُوْرُ النَّهَارُ عَلَى الْاَيْلِ

تنہا ہے زبردست ہے اُس نے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے

وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِاجَلٍ مُّسَمًّى ۝ اَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ۝ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ

اور اس نے چاند اور سورج کو سخر فرمایا ہے ہر ایک وقت مقرر تک جاری ہے خبردار وہ زبردست ہے بڑا بخشنے والا ہے اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا

وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِنْ اَلْنَعَامِ ثَمَنِیۡۃً ۝ اَزْوَاجًا یَخْلُقُكُمْ فِیْ بُطُوْنِ

پھر اسی سے اس کا جوڑ بنایا اور تمہارے لئے جو بایوں میں سے آٹھ قسم کے جوڑے بنائے وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں پیدا فرماتا ہے

اَهْطٰیۡكُمْ خَلْقًا مِّنْۢ بَعْدِ خَلْقِ فِیْ ظُلُمٰتٍ ثَلٰثٍ ۝ ذٰلِكُمْ اَللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ

ایک پیدا آتش دوسری پیدا آتش کے بعد ہوتی ہے تین اندھیروں میں۔ یہ اللہ ہے تمہارا رب ہے اسی کے لئے ملک ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں

فَاَنْتُمْ تُصْرَفُوْنَ ۝

سو تم کہاں پھرے جا رہے ہو۔

## اللہ واحد ہے قہار ہے عزیز ہے غفار ہے اس نے چاند سورج کو مسخر فرمایا انسان کو تین اندھیروں میں پیدا فرمایا

**تفسیر:** یہاں سے سورہ زمر شروع ہو رہی ہے اوپر سات آیات کا ترجمہ کیا گیا ہے ان آیات میں انزال قرآن اور اثبات توحید اور شرک کی تردید فرمائی ہے اور اللہ جل شانہ کی شانِ خالقیت کو بیان فرمایا ہے۔

اول تو یہ فرمایا کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو عزیز یعنی عزت اور غلبہ والا ہے اور حکیم یعنی حکمت والا ہے پھر غیبت سے تکلم کی طرف التفات فرمایا اور فرمایا کہ ہم نے تمہاری طرف کتاب کو حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے لہذا آپ اپنے دین کو یعنی اعتقاد کو اللہ ہی کے لئے خالص رکھتے ہوئے اللہ ہی کی عبادت کیجئے اس میں بظاہر آپ کو خطاب ہے اور اسی کے ذیل میں دوسرے بندوں سے بھی خطاب ہو گیا جب آپ پر لازم ہے کہ توحید پر رجمے رہیں تو دوسروں پر توحید اختیار کرنا کیونکر فرض نہ ہوگا پھر خطاب عام فرمایا **اَللّٰهُمَّ الدِّیْنَ الْخَالِصُ** خبر دار دین خالص اللہ ہی کے لئے (یعنی سب بندوں پر فرض ہے کہ موحد بنے رہیں)

اس کے بعد مشرکین کی ایک بڑی گمراہی اور ان کے جھوٹے دعوے کا تذکرہ فرمایا اور وہ یہ کہ جن لوگوں نے اللہ کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں یعنی شرکاء تجویز کر رکھے ہیں وہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لئے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کا مقرب بنادیں گے یعنی ہماری عبادت کو اللہ کے حضور میں پیش کر دیں گے یا ہماری حاجت روائی کے لئے سفارش کر دیں گے بات یہ ہے کہ شیطان بڑا چالاک ہے گمراہ کرنے میں ماہر ہے اس سلسلہ کے داؤ پیچ خوب جانتا ہے جب لوگوں کو شرک پر ڈالا اور حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور ان کے داعیوں نے توحید کی طرف بلایا اور شرک کی برائی بیان کی تو مشرکین کی سمجھ میں کچھ بات آنے لگی لہذا شیطان نے انہیں یہ پٹی پڑھادی کہ تمہارا یہ غیر اللہ کی عبادت کرنا تو حید کے خلاف نہیں ہے بلکہ یہ توحید ہی کی ایک صورت ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہو یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں جب تک کوئی واسطہ نہ ہو اللہ تعالیٰ کی ذات عالی تک تم کہاں پہنچ سکتے ہو اللہ کے سوا جن معبودوں کی عبادت کرتے ہو یہ تو وسائل ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہاری سفارش کر دیں گے لہذا یہ بھی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت ہوئی اور اس کی ذات عالی تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہوا دیکھو دنیا میں چھوٹے موٹے وزیروں سے کام لینا ہو تو سفارش کی ضرورت پڑتی ہے جب بلا واسطہ مخلوق تک بات نہیں پہنچ سکتی تو خالق تعالیٰ کی ذات عالی تک بلا واسطہ تمہاری پہنچ کیسے ہو سکتی ہے شیطان کی یہ بات مشرکین کے دلوں میں اتر گئی اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ شرک کو چھوڑو واللہ کی عبادت کرو تو وہ یہی جواب دیتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت اس لئے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیں گے جو تو میں فرشتوں کو جنات کو پوتوں کو پوجتی ہیں اور ان کے علاوہ جو قبر پرست ہیں یہی بات کہتے ہیں کہ ہم جو ان کی قبروں کو عہدہ کرتے ہیں اور ان کی نیازیں مانتے ہیں یہ کوئی توحید کی خلاف نہیں یہ قبر والے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کر کے ہمیں بخشوا دیں گے انہیں شرک بھاتا ہے جو دوزخ میں لے جانے والا ہے اور توحید کی بات بُری لگتی ہے الاساء ما یحکمون اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا **اِنَّ اللّٰهَ یَحْکُمُ بَیْنَهُمْ فِیْمَا هُمْ فِیْہِ یَخْتَلِفُوْنَ**۔ (کہ لوگ جس چیز میں اختلاف کرتے ہیں

اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرمادے گا) دلائل کے ذریعہ دنیا میں بھی حق اور باطل کا فیصلہ فرمادیا ہے قیامت کے روز عملی طور پر فیصلہ فرمادے گا کہ اہل حق کو جنت میں اور کفر و شرک والوں کو دوزخ میں بھیج دے گا۔

پھر فرمایا اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ (کہ بلاشبہ اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا ہو اور کافر ہو) ہدایت کی دو صورتیں ہیں ایک ہدایت کا راستہ بتا دینا وہ تو سبھی کے لئے ہے اور ایک حق قبول کرنے کی حد تک پہنچا دینا یہ ہدایت ان لوگوں کو نہیں ہوتی جن میں عناد ہو اقوال کفریہ اور عقائد کفریہ پر اصرار ہو اور حق کی طلب نہ ہو یہاں وہی ہدایت مراد ہے جسے علمی زبان میں ایصال الی المطلب سے تعبیر کیا جاتا ہے اس کے بعد ان لوگوں کی تردید فرمائی جو اللہ کے لئے اولاد تجویز کرتے ہیں لَوْ اَنَّ اللّٰهَ اَنۡ يَّخۡلُقْ (اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی اولاد بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے کسی کو منتخب فرما لیتا لیکن اولاد ہونا اس کے لئے عیب ہے وہ اس سے پاک ہے کہ اس کے لئے کوئی اولاد ہو وہ بالکل ہی یکتا ہے اور قہار ہے یعنی غلبہ والا ہے اسے کسی کی ضرورت اور حاجت نہیں ہیں عموماً مخلوق اس لئے اولاد کی آرزو کرتی ہے کہ آڑے وقت میں اور بڑھاپے میں کام آئے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اس کی ذات و صفات میں کوئی تغیر و تبدل نہیں نہ اس میں کبھی ضعف آئے گا اسے نہ کسی کی مدد کی ضرورت ہے نہ کبھی ضرورت ہوگی، کوئی اس کے مماثل اور مجانس نہیں ہے غیر جنس اولاد ہونا یوں بھی نامعقول بات ہے وہ واحد ہے واحد لا شریک ہے اس کے لئے اولاد نہیں ہو سکتی۔

پھر لیل و نہار اور شمس و قمر کا تذکرہ فرمایا اس میں بھی شان خالقیت کا مظاہرہ ہے ارشاد فرمایا کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا وہ دن کو رات پر اور رات کو دن پر لپیٹ دیتا ہے یعنی دن کی روشنی کو رات چھپا دیتی ہے اور رات کی اندھیری کو دن چھپا دیتا ہے اور اس نے چاند اور سورج کو مسخر فرمایا یعنی کام میں لگا دیا ان دونوں کو جس کام میں لگایا ہے اس میں لگے ہوئے ہیں ان کا کام بھی مقرر ہے اور ان کی اجل بھی مقرر ہے مقررہ اجل تک چل رہے ہیں اور چلتے رہیں گے پھر جب خالق جل مجدہ کا حکم ہوگا تو بے نور کر دیئے جائیں گے اللہ تعالیٰ عزیز ہے غلبہ والا ہے اس کی مشیت اور ارادہ اور تکوین کے خلاف کوئی نہیں چل سکتا وہ غفار بھی ہے جو لوگ منکر ہیں اگر وہ انکار سے توبہ کر لیں اور مومن ہو جائیں تو انہیں بخش دیا کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ اتنے لوگوں کو اور اتنے گناہوں کو کیسے بخش دیا جو شخص ایسا سوال اٹھائے اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی صفت الغفار بیان فرمادی کہ وہ بڑا غفار ہے بڑا بخشنے والا ہے۔

اس کے بعد ارشاد فرمایا خَلَقَ الْاِنۡسَانَ مِنْ عَلَقٍ (اللہ نے تمہیں ایک جان یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا) ثُمَّ جَعَلْ وِّنۡهَا زُجۡجًا پھر اسی جان سے ان کا جوڑا بنادیا یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی انیسیت کے لئے حضرت حواء کو پیدا فرمایا ان کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے فرمادی اور دونوں کی نسل دنیا میں پھیلا دی جو کروڑوں کی تعداد میں موجود ہے۔ وَ اَنۡزَلَ لَكُمۡ مِنَ الْاَنۡكَارِ قُبۡلَیۡۃً (اور تمہارے لئے چوپایوں میں سے آٹھ قسمیں پیدا فرمادی ہیں آٹھ قسموں سے اونٹ گائے، بھیڑ اور بکری کے جوڑے) نیز اور مادہ مراد ہیں جیسا کہ سورۃ الانعام میں آٹھوں قسموں کا تذکرہ گزر چکا ہے۔

يَخۡلُقُكُمْ فِیۡ بُطۡوٰنٍ اُنۡھِیۡۡ تَخۡلُقُ خَلۡقًا مِّنۡۢ بَعۡدِ خَلۡقِ (وہ ماؤں کے پیٹ میں تمہاری ایک پیدائش کے بعد دوسری پیدائش فرماتا ہے) یعنی نطفہ کو علقہ یعنی جما ہوا خون کو تھڑے کی شکل میں بنا دیتا ہے پھر اسے مُصۡخَۃً یعنی بوٹی بنا دیتا ہے پھر اس کو ہڈیاں بنا دیتا ہے پھر ان ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیتا ہے۔

فِي ظُلُمَاتٍ لَّكَاثٍ (یہ ساری تخلیق تین اندھیروں میں ہوتی ہے) ایک اندھیری ماں کے پیٹ کی دوسری رحم کی تیسری اس جھلی کی جس میں بچہ لیٹا ہوا ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور علم کامل پر دلالت کرتا ہے ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ (یہ ہے اللہ تمہارا رب) لَهُ الْمُلْكُ (اسی کی سلطنت ہے) لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ (اس کے سوا کوئی معبود نہیں) فَكَايَ تُهْرَفُونَ (سو تم کہاں پھرے جا رہے ہو) حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف رخ کئے ہوئے ہو خالق کائنات جل مجدہ کی توحید سے منہ موڑ کر شرک میں مبتلا ہو رہے ہو جس نے تمہیں تین تاریک کوشریوں میں پیدا فرمایا اس کی توحید سے منہ موڑ کر غیروں کو لائق عبادت سمجھنا کیا یہ تمہاری حماقت نہیں ہے؟

إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا

اگر تم کفر کرو بلاشبہ اللہ تم سے بے نیاز ہے اور وہ اپنے بندوں کے لئے کفر کو پسند نہیں فرماتا اور اگر تم شکر کرو تو وہ اس کو تمہارے لئے پسند فرماتا ہے اور کوئی

تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ

بوجہ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹ جانا ہے۔ سو وہ تمہیں تمہارے سب اعمال بتا دے گا بلاشبہ سینوں

بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝

کی باتوں کا جاننے والا ہے۔

اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے کفر سے راضی نہیں، شکر اسے محبوب ہے

تفسیر: گذشتہ آیات میں توحید کی دعوت تھی اور شرک اور کفر اختیار کریندالوں کی حماقت اور ضلالت بیان فرمائی تھی اگر کسی کو یہ وہم اور وسوسہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے موحد ہونے کی یا اس کی عبادت کرنے کی ضرورت ہے تو اس وہم اور وسوسہ کو دور فرما دیا کہ اگر تم کفر اختیار کرو اور اسی پر جے رہو تو اللہ تعالیٰ کے کمالات میں کوئی کمی نہیں آئے گی وہ تم سے بے نیاز ہے تمہارا حاجت مند نہیں ہے لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ وہ اپنے بندوں کے کفر سے راضی ہے اگر کوئی شخص کافر ہوگا تو وہ اس کے کفر کی سزا دے گا اور اگر تم شکر کرو گے اس پر ایمان لاؤ گے اس کی توحید کے قائل ہو گے اور دل سے مانو گے تو وہ اس کی قدر دانی فرمائے گا جس پر انعامات دے گا کفر میں تمہارا ہی نقصان ہے اور ایمان لانے میں تمہارا ہی نفع ہے۔

اور یہ جو تم کفر اختیار کرتے ہوئے اپنے سرداروں کی بہکاوے میں آتے ہو اس بارے میں یہ نہ سمجھ لینا کہ ہمارے کفر کا وبال ان ہی لوگوں پر پڑے گا اور ہمارا مواخذہ نہ ہوگا اس بات کو واضح کرنے کے لئے فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ (کوئی جان کسی جان کا بوجھ نہ اٹھائے گی) ہر شخص کو اپنے کفر کی سزا دینی عذاب کی صورت میں بھگتنی ہوگی۔

اور یہ بھی سمجھ لینا چاہئے کہ تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے وہ تمہارے اعمال سے آگاہ فرمادے گا کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ میرے اعمال کی پیشی نہ ہوگی یا یہ کہ میرے اعمال وجود میں آکر معدوم ہو جائیں گے تو کیونکر پیش ہوں گے بات یہ ہے کہ جس نے پیدا فرمایا ہے جان دی ہے اسے تمہارے سب کاموں کا علم ہے اور نہ صرف ظاہری اعمال کا علم ہے بلکہ دلوں کی باتوں تک کا اسے علم ہے وہ تمہیں بتا دے گا اور بتا دے گا کہ تم نے یہ یہ اعمال کئے ہیں لہذا وہاں کی پیشی کے لئے تیار ہو ایمان لاؤ اور اعمال صالحہ اختیار کرو۔



کہ دنیا والی آگ کو پانچ منٹ ہاتھ میں لے لو اور اس کے عوض بادشاہ یا وزیر یا بہت بڑے جاگیردار بن جاؤ تو اسے کبھی گوارا نہیں کر سکتا عجیب بات ہے کہ دوزخ کے دائمی عذاب کے لئے تیار ہیں اور حقیر دنیا کا نقصان گوارا نہیں جو تھوڑی ہے اور تھوڑی مدت کے لئے ہے اگرچہ دیکھنے میں بہت زیادہ معلوم ہوتی ہو۔

## صالحین کی صفات

دوسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس طرح رات گزارتا ہو کہ اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے کبھی سجدہ میں کبھی کھڑا ہوا ہے جو آخرت کے مواخذہ سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہے کیا یہ شخص اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو کافر ہو گناہوں میں لگا ہوا ہو۔ (یہ بطور استفہام انکاری ہے) مطلب یہ ہے کہ عبادت گزار شخص جو راتوں رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے جو آخرت سے ڈرتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہے یہ شخص اور اللہ تعالیٰ کا نافرمان کافر بندہ برابر نہیں ہو سکتے بلکہ مومن صالح اور مسلم فاسق بھی برابر نہیں ہو سکتے جیسا کہ سورہ ص میں فرمایا: **أَفَجَعَلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ يُجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ** پھر فرمایا: **قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ**۔ (آپ فرمادیجئے کیا جانے والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟) یعنی برابر نہیں ہو سکتے مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اہل علم ہیں جن کے علم نے انہیں ایمان کی روشنی دکھائی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے ایمان قبول کیا اور عبادت میں لگے اور جو لوگ جاہل ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کو نہیں جانتے یہ دونوں فریق برابر نہیں ہو سکتے نہ جہل علم کے برابر ہے نہ جاہل عالم کے برابر ہے اور نہ دونوں کا رتبہ برابر ہے جب قیامت کے دن حاضر ہوں گے تو اہل علم اصحاب ایمان جنت میں اور اہل کفر دوزخ میں بھیج دیئے جائیں گے۔

**إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ** (جو لوگ عقل والے ہیں وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں) جن لوگوں کو عقل نہیں یا عقل بے جا استعمال کرتے ہیں وہ لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے قرآن سنتے ہیں قرآن کی دعوت اور اس کی تعلیمات پر ایمان نہیں لاتے بے شمار آدمی ایسے ہیں جو دنیاوی کاموں میں بہت آگے آگے ہیں نئی نئی مصنوعات ایجاد کرتے ہیں انسان کی ترقی کے لئے بہت کچھ سوچتے ہیں طرح طرح کی مشینری مارکیٹ میں لاتے ہیں سائنس اور جغرافیہ کی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن کافر و مشرک ہیں اپنے خالق کو نہیں پہچانتے بہت سے لوگ تو خالق تعالیٰ شانہ کے وجود ہی کو نہیں مانتے اور جو مانتے ہیں وہ مشرک ہیں اس کے لئے اولاد بھی تجویز کرتے ہیں اور غیر اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں یہ عقلمندی بے کار ہے ایسے لوگوں کے عقل پر پتھر پڑے ہوئے ہیں ایسی عقل کا کیا فائدہ جو دوزخ میں لے جائے۔

## نماز تہجد کی فضیلت

آیت کریمہ سے نماز تہجد کی فضیلت معلوم ہوئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد افضل ترین نماز وہ ہے جو رات کے درمیانی حصے میں پڑھی جائے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اشراف (یعنی شرافت والے) وہ لوگ ہیں جو



حاملین قرآن ہیں راتوں کو نمازیں پڑھنے والے ہیں حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے نمازوں میں اتنا قیام فرمایا کہ آپ کے قدم مبارک سوچ گئے کسی نے عرض کیا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں حالانکہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ بخش دیئے ہیں (گناہوں سے وہ لغزشیں مراد ہیں جن کی خطا اجتہادی طور پر صادر ہو) آپ نے فرمایا تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ ہوں (رواہ البخاری) یعنی اللہ تعالیٰ کے انعام کا تقاضا تو یہ ہے کہ اور زیادہ عبادت گزار ہونا چاہئے نہ کہ تھوڑی عبادت پر اکتفا کیا جائے یحذر الآخرة ویرجوہ حمقہ سے معلوم ہوا کہ خوف اور امید و ہم کے ساتھ ہونا چاہئے یہ مومن کی صفات میں سورۃ الانبیاء میں چند حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا اِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا (یہ سب نیک کاموں میں ڈرتے تھے اور امید و ہم کے ساتھ ہماری عبادت کیا کرتے تھے) اور سورۃ آل سجدہ میں فرمایا تَتَجَافَىٰ جُنُوبَهُمْ عَنِ الْمَضَاجِدِ يُدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (ان کے پہلو خوابگاہوں سے علیحدہ ہوتے ہیں اس طور پر کہ وہ اپنے رب کو امید سے اور خوف سے پکارتے ہیں اور ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرتے ہیں) ان دونوں آیتوں سے بھی معلوم ہوا کہ اعمال صالحہ میں بھی لگے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے امید بھی رکھے ڈرتا بھی رہے۔ یہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور عباد صالحین کا طریقہ ہے عمل نہ کرنا اور خالی امید رکھنا یہ ایمانی تقاضوں کے خلاف ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ ایک جوان فحش کے پاس تشریف لے گئے یہ ان کی موت کا وقت تھا آپ نے فرمایا کہ تم اپنے کو کس حال میں پاتے ہو عرض کیا کہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں اور اپنے گناہوں پر مواخذہ ہونے سے ڈرتا ہوں اُس حضرت ﷺ نے ان کی بات سن کر فرمایا اس جیسے موقعہ میں (یعنی موت کے وقت) جس کسی بندہ کے دل میں یہ دونوں باتیں جمع ہوں گی اللہ اس کی امید کے مطابق ضرور اسے (انعام) عطا فرمائے گا اور وہ جس چیز سے ڈرتا رہا ہے اس سے امن و امان میں رکھے گا۔

قُلْ يٰعِبَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا رَبَّ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّاَرْضُ اللّٰهِ

آپ فرمادیجئے کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے اپنے رب سے ڈرو یہی بات ہے کہ جن لوگوں نے اس دنیا میں اچھے کام کئے ان کے لئے اچھا بدلہ ہے اور اللہ کی زمین

وَاَسِعَتْ اِنَّمَا يُوقِي الصِّدُوْنَ اَجْرُهُمْ يَغِيْرُ حِسَابٌ ۚ قُلْ اِنِّيْ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا لِّهِ

فرائض ہے صبر کر نیوالوں کو ان کا پورا اجر بغیر حساب دیا جائے گا آپ فرمادیجئے کہ بلاشبہ مجھے حکم دیا گیا کہ اس طرح اللہ کی عبادت کرو کہ عبادت اسی کے لئے

الَّذِيْنَ ۙ وَاُمِرْتُ لِاَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ الْمُسْلِمِيْنَ ۚ قُلْ اِنِّيْ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ

خالص ہو اور مجھے حکم ہوا کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں آپ فرمادیجئے کہ بیشک میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں اس طرح سے کہ میری

عَظِيْمٌ ۚ قُلْ اللّٰهُ اَعْبُدْ مُخْلِصًا لِّدِيْنِيْ ۚ فَاَعْبُدُوْا مَا كُشِّتُمْ مِنْ دُوْنِهٖ قُلْ اِنَّ الْخَيْرِيْنَ الَّذِيْنَ

عبادت اسی کے لئے خالص ہے سوا سے چھوڑ کر تم جس کی چاہو عبادت کرو آپ فرمادیجئے کہ بلاشبہ نقصان میں پڑنے والے وہی لوگ ہیں

خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ وَاَهْلِيْهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ اِلٰذَا ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ ۚ لَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلُمْ ۙ مَنْ

جو قیامت کے دن اپنی جانوں سے اور اپنے اہل و عیال سے خسارہ میں پڑ گئے خبردار یہ صریح خسارہ ہے ان کے لئے ان کے اوپر سے آگ کے شعلے ہوں گے اور ان

الْكَافِرُونَ مِنْ تَحْتِهِمْ ظُلُمْ ۚ ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ ۚ يَعْبُدُونَ ۖ فَالْتَقُونَ ۚ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ

کے نیچے سے بھی شعلے ہوں گے یہ وہ بات ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے میرے بندو سو تم مجھ سے ڈرو اور جن لوگوں نے اس بات سے پرہیز کیا کہ شیطان کی

أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنْ أَبُولَ إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادَ ۚ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ

عبادت کریں اور وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے ان کے لئے خوشخبری ہے۔ سو آپ میرے ان بندوں کو خوشخبری سنائیے جو اس کام کو کان لگا کر سنتے ہیں پھر اس کی اچھی سے

أَحْسَنَهُ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ ۚ وَآوَلِيكَ هُمْ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْآلِبَابُ ۚ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ

اچھی باتوں کا اتباع کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور یہی وہ لوگ ہیں جو عقل والے ہیں سو جس شخص کے بارے میں عذاب کی بات

أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي الثَّارِ ۚ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرُوفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرُوفٌ مَبْنِيَّةٌ تَجْرِي

طے ہو چکی ہے کیا آپ اسے چھڑالیں گے جو دوزخ میں ہے لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرے ان کے لئے بالا خانے بنے ہوئے ہیں ان کے نیچے

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ وَعَدَ اللَّهُ لِمَنِعِلْفِ اللَّهِ الْمُبِيعَادَ ۚ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ

نہر میں جاری ہوں گی۔ یہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے اللہ وعدہ خلاف نہیں فرماتا کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا پھر

يَنْزِلُ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفًى ثُمَّ يُعْجِلُ لِحُطَاكُمَا

اس کو زمین کی سطحوں میں داخل کر دیا پھر اس کے ذریعہ کھیتیاں نکالتا ہے جن کی قسمیں مختلف ہیں پھر وہ کھیتی ٹٹک ہو جاتی ہے سو اسے دیکھتا ہے پلے رنگ کی حالت میں پھر وہ اسے چورا چورا بنا دیتا ہے

إِن فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۚ

بلاشبہ اس میں عقل والوں کے لئے نصیحت ہے۔

## اللہ سے ڈرنے اور خالص اس کی عبادت کرنے کا حکم

**تفسیر:** ان آیات میں اللہ جل شانہ نے رسول اللہ ﷺ کو متعدد باتوں کا اعلان کرنے کا حکم دیا ہے اول تو یہ

فرمایا کہ آپ میرے مومن بندوں سے فرمادیجئے کہ تم اپنے رب سے ڈرو یہ ڈرنا اعمال صالحہ پر ابھارنے اور گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہوتا ہے جب کوئی شخص اعمال صالحہ ادا کرتا ہے تو اس کی نیکیاں جمع ہوتی رہتی ہیں ان نیکیوں پر صبر کرنا اور جھے رہنا مبارک ہے صبر کرنے والوں کا پورا پورا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے عطا فرمادے گا ساتھ ہی یہ بھی فرمایا وَأَرْضِ اللَّهِ وَاسِعَةٌ (کہ اللہ کی زمین فراخ ہے)۔

اس میں یہ بیان فرمایا کہ جو کوئی ایسی جگہ رہتا ہو جہاں کافر رہتے اور بے ایمان کے نرغہ میں رہنے کی وجہ سے دین پر نہیں جم سکتا اور اعمال صالحہ انجام نہیں دے سکتا اور ممنوعات شرعیہ سے نہیں بچ سکتا تو وہاں سے چلا جائے اور کسی ایسی جگہ جا کر آباد ہو جائے جہاں احکام اسلام پر عمل کر سکتا ہو اور کوئی شخص نہ یہ سوچے کہ میں یہاں سے کہاں جاؤں ہمت و ارادہ کرے گا اور وطن کی محبت سے بالاتر ہو کر اللہ تعالیٰ کی محبت کے پیش نظر نکل کھڑا ہوگا تو انشاء اللہ تعالیٰ بہت سی جگہ مل جائے

گی، سورة النساء میں اسی کو فرمایا وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْعًا كَثِيرًا وَسَعَةً (اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرے گا تو اس کو روئے زمین پر جانے کی بہت جگہ ملے گی اور بہت گنجائش)۔

دوم: یہ حکم دیا کہ آپ اعلان فرمادیں کہ مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں خالص اسی کی عبادت میں مشغول رہوں اور مجھے یہ بھی حکم ہوا ہے کہ مسلمانوں میں سب سے پہلا مسلمان ہوں چونکہ یہ امت آخری امت ہے اور آخری نبی ہیں لہذا آپ اس کی آخری امت میں سب سے پہلے مسلمان ہیں جیسے دیگر تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل پیرا ہونا لازم ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کا دین پیش کرنے والے پر بھی ان احکام کی فرماں برداری لازم ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی ذات سے متعلق ہیں اس اعلان میں یہ بتا دیا کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور فرماں بردار ہوں اور صرف دوسروں ہی کو ایمان کی دعوت نہیں دیتا خود بھی مومن ہوں اور احکام پر عمل پیرا ہوں معلوم ہوا کہ ہر داعی کو اپنی دعوت پر خود بھی ہونا لازم ہے۔

تیسرا: حکم یہ دیا کہ آپ فرمادیجئے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب کا خوف رکھتا ہوں (انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام) گناہگار اور نافرمان نہیں ہوتے تھے بطور فرض یہ اعلان کروادیا گیا کہ میں خود نافرمانی کے مواخذہ سے ڈرتا ہوں جبکہ اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں لہذا دیگر افراد کو تو زیادہ خوف زدہ ہونے اور مواخذہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔

چوتھا: حکم یہ دیا کہ آپ لوگوں سے فرمادیں کہ دیکھو میں تو خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں اور (اور تمہیں بھی اسی کی دعوت دیتا ہوں) تم میری دعوت قبول نہیں کرتے تو تم جانو اللہ کچھ بڑا کریم ہے جس کی چاہو عبادت کر لو لیکن اس کا انجام برا ہوگا۔ پانچویں: حکم میں فرمایا کہ آپ فرمادیجئے اصل خسارہ والے وہ ہیں جو قیامت کے دن اپنی جانوں اور اپنی اہل و عیال کی طرف سے خسارہ میں پڑیں گے یعنی اس کفر و شرک کے وبال میں قیامت کے دن جو اہل ہوگا وہ سخت خسارہ کی صورت میں سامنے آئے گا اس دن کا خسارہ معمولی نہ ہوگا اس دن اپنی اس جان کو کوئی نفع نہ پہنچا سکیں گے اور نہ عذاب سے بچا سکیں گے اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ ہوگا دوزخ میں داخل ہوں گے فرشتے عذاب دیں گے اور جن لوگوں کو انہوں نے کفر و شرک پر ڈالا یعنی ان کے اہل و اولاد اور دوسرے لوگ جو اتباع کر نیوالے تھے وہ بھی ان کے نہ رہیں گے وہ ان پر لعنت بھیجیں گے ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا اور کوئی کسی کی مدد نہ کر سکے گا دنیا میں جو اپنے تھے وہ وہاں اپنے نہ رہیں گے۔ جب دنیا میں کفر و شرک پر ڈال کر اپنی جانوں کا ناس کھو دیا تو اپنی جانوں سے بھی گئے اور انکی جانوں سے بھی اَلْاٰذِلٰکَ هُوَ الْخٰتِرُ النَّبِیُّ (خبردار خوب سمجھ لو کہ یہ واضح کھلا ہوا خسارہ ہے)۔

اس کے بعد ان کے عذاب کی کچھ تفصیل بیان فرمائی اور وہ یہ کہ ان کے اوپر آگ کے شعلے ہوں گے اور نیچے بھی آگ کے ان شعلوں کو ظلمل سے تعبیر فرمایا ظلمہ کی جمع ہے ظلمہ سائبان کو کہا جاتا ہے

علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے سورہ اعراف میں فرمایا لَہُمْ مِنْ جَہَنَّمَ مِهَادٌ وَ مِنْ فَوْقِہُمْ عَوَاشِیْ اور سورہ عنکبوت میں فرمایا یَوْمَ یُعْشَیْہُمْ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِہُمْ وَ مِنْ تَحْتِہُمْ اَنْجِلُہُمْ نیچے بھی آگ ہوگی اور اوپر بھی آگ ہوگی

جلسیں گے اور نیچے بھی مشاکلتہ نیچے کے ستر کو ظلمل سے تعبیر فرمایا قال صاحب الروح وتسمیہا ظلالا من باب المشاکلتہ ذٰلِکَ یُعَوِّثُ اللّٰہَ عِبَادَہُ (یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعہ اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے یُوْبَلِیْہُ الْقٰتِلُوْنَ) (اے میرے بندو تم

مجھ سے ڈرو) میری ناراضگی کے کام نہ کرو قال صاحب الروح ولا تتعرضوا لما یوجب سخطی۔

اس کے بعد ان حضرات کی تعریف فرمائی جو کفر و شرک سے بچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنْ يَكُونُوا لِلَّهِ لَهْفًا بَشَرِيًّا (اور جن لوگوں نے اس بات سے پرہیز کیا کہ شیطان کی عبادت کریں اور اللہ کی طرف متوجہ ہوئے ان کے لئے خوش خبری ہے) لفظ الطَّاغُوت فعلوت کے وزن پر ہے بقول صاحب روح المعانی اس کی اصل طغیوب یا طغورت ہے اور جمع طغاویت ہے بہت زیادہ شریر اور حد سے زیادہ نافرمان کے لئے یہ لفظ بولا جاتا ہے اسی لئے اسی کا ترجمہ شیطان کیا گیا ہے شیطان لوگوں کو بہکا تا ہے اور توحید سے دور رکھتا ہے اپنی فرماں برداری کراتا ہے اور ڈراؤنی صورتیں بنا بنا کر مشرکین کے سامنے آتا ہے وہ ان صورتوں کے مطابق صورتیں بناتے ہیں جن کی پوجا کرتے ہیں یہ سب باتیں شیطان کی عبادت میں شامل ہیں جو شیطان سے دور رہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور ان کے لئے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور دخول جنت کی خوشخبری ہے۔

اس کے بعد مومن بندوں کی ایک خاص صفت بیان فرمائی ارشاد فرمایا فَيُخَوِّرُهُمْ اَنْ يَكُونُوا لِحُكْمِ الْقَوْلِ فَيَتَوَلَّوْا حَسَنَةً (سو آپ میرے بندوں کو خوشخبری دے دیجئے جو کلام کو یعنی قرآن کو سنتے ہیں پھر اس کی اچھی سے اچھی باتوں کا اتباع کرتے ہیں) یعنی وہ اعمال اختیار کرتے ہیں جن میں زیادہ سے زیادہ ثواب ہے فرائض اور واجبات پر تو عمل کرتے ہی ہیں دوسرے نیک کاموں میں بھی احسن اور افضل کو اختیار کرتے ہیں۔

قال صاحب الروح ص ۲۵۲ ج ۲۳ مدح لهم بنهم نقاد في الدين يميزون بين الحسن والاحسن والفاضل والافضل فاذا اعتبر ضهم امران واجب وندب اختاروا الواجب وكذا لك المباح والندب (تفسیر روح المعانی والے فرماتے ہیں اس آیت میں مومن بندوں کی تعریف ہے کہ وہ دین میں بالغ نظر ہیں اچھے اور سب سے اچھے کی تمیز کر سکتے ہیں افضل اور افضل ترین میں فرق کرتے ہیں جب انہیں تو امر پیش آئیں ایک واجب ہو اور دوسرا مستحب تو وہ واجب کو اختیار کر لیتے ہیں اسی طرح مباح اور مستحب میں بھی فرق کر لیتے ہیں)

مذکورہ بالا حضرات کی تعریف میں دو باتیں اور بیان فرمائیں اولاً فرمایا اُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ثانیاً یوں فرمایا اُولَئِكَ هُمُ الْاَكْبَابُ اور یہ لوگ عقل والے ہیں ان کی عقلیں سلیم ہیں صحیح ہیں آباء و اجداد کی تقلید میں کفر و شرک پر نہ جبر ہے بلکہ اپنے عقول کو کام میں لائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ہدایت آئی اسے قبول کیا۔ فائدہ: روح المعانی میں آیت کریمہ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ کا سبب نزول یہ لکھا ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تو عبدالرحمن ابن عوف اور سعد بن ابی وقاص اور سعید بن زید اور زبیر بن عوام ان کے پاس آئے اور سوال کیا کہ آپ نے اسلام قبول کر لیا؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں! اور ساتھ ہی ان لوگوں کو نصیحت کی اس پر انہوں نے بھی ایمان قبول کر لیا اور مسلمان ہو گئے اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی۔

اَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ اَفَاَنْتَ تُنْفِئُ مَنْ فِي النَّارِ (سو کیا جس شخص کے بارے میں عذاب کی بات طے ہو چکی ہے کیا آپ اسے چھڑا لیں گے جو دوزخ میں ہو) اس میں رسول اللہ ﷺ کو تسلی دی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ گمراہی پر جننے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ طے ہے کہ انہیں دوزخ میں جانا ہے اور وہ بھی اپنے بارے میں یہ



أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۖ اللَّهُ تَزَلَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ

یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں اللہ نے بڑا اچھا کلام نازل فرمایا جو ایسی کتاب ہے جس کی باتیں آپس میں ملتی جلتی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں

الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلَدُّنَ جُلُودَهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ذَٰلِكَ هُدَىٰ اللَّهِ

اس سے ان لوگوں کے بدن کانپ اٹھتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں پھر ان کے بدن اور دل نرم ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں

يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضِلِلِ اللَّهُ فَهُوَ بِغَايَةِ ضَلَالٍ ۚ أَفَمَن يَتَّبِعِ بَوَاحِشَهُ سَوَاءَ الْعَذَابِ

یہ اللہ کی ہدایت ہے جسے چاہے ہدایت دے اور اللہ جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں جو شخص قیامت کے دن اپنے چہرہ کو برے عذاب سے بچانے کا

يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ۚ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَاتَتْهُمُ الْعَذَابُ

اور ظالموں سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تم کماٹی کرتے تھے اسے چکھ لو ان لوگوں سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے جھٹلایا سو ان کے پاس اس طور سے عذاب آیا

مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۚ فَآذَاهُمْ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ

کہ انہیں اس کا خیال بھی نہ تھا سو اللہ نے انہیں دنیا والی زندگی میں رسوائی چکھا دی اور البتہ آخرت کا عذاب اس سے بڑا ہے

لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۚ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۚ

اگر وہ جانتے ہوتے اور یہ بات واقعی ہے کہ ہم نے لوگوں کے لئے اس قرآن میں ہر قسم کے عمدہ مضامین بیان کر دیے ہیں تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں

قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۚ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ

وہ قرآن ہے عربی ہے جس میں کئی کئی نہیں تاکہ یہ لوگ ذرین اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ ایک شخص ہے جس میں کئی ساتھی ہیں جن میں آپس میں منہ ضدی ہے

وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ ۖ هَلْ يُسْتَوِينَ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۚ إِنَّكَ بِمِثْقَالِ ذَرَّةٍ

اور ایک وہ شخص ہے جو ایک ہی آدمی کے لئے سالم ہے کیا یہ دونوں حالت کا مقابلہ برابر ہیں؟ سب تعریف اللہ ہی کے لئے ہے بلکہ ان میں اکثر لوگ نہیں جانتے بلاشبہ آپ مرنے والے ہیں

تَبْتَئُونَ ۚ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ۚ

اور بلاشبہ یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں پھر تمہاری بات ہے کہ قیامت کے دن تم اپنے رب کے پاس پیش ہو کر مدعی اور مدعی علیہ بنو گے۔

اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لئے جس کا سینہ کھول دیا وہ صاحب نور ہے

جن کے قلوب اللہ کے ذکر کی جانب سے سخت ہیں انکے لئے ہلاکت ہے

تفسیر: گزشتہ آیات میں مومنین کے ثواب کا اور کافروں کے عقاب کا ذکر ہے۔ یہ تو دونوں فریق کا انجام کے

اعتبار سے فرق ہے جو آخرت میں سب کے سامنے آجائے گا اب یہاں مومن اور کافر کی فطری کیفیات کو بیان فرمایا ارشاد



فرمایا کہ ایک وہ شخص ہے جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لئے کھول دیا اور اس کے دل میں نور ایمان بھر دیا اور دوسرا وہ شخص ہے جس کا دل تنگ ہے نور ایمان سے خالی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تنگی محسوس کرتا ہے اور ذکر اللہ سے مانوس نہ ہونے کی وجہ سے اس کے دل میں سختی ہے بتاؤ وہ شخص جس کا دل ایمان سے معمور ہے اور اسے اسلام کے بارے میں شرح صدر ہے کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کے دل میں کفر ہو جو اللہ کے ذکر کو قبول نہ کرتا ہو اس کے دل کی قسادت اور سختی اسے اللہ تعالیٰ کا نام نہ لینے دے۔ یہ ایک سوال ہے جس کا جواب آسان ہے سب جانتے ہیں۔

سورۃ انعام میں فرمایا **فَمَنْ يُؤْمَرْ بِاللَّهِ أَنْ يُحَرِّمَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتُحَرِّمُوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتُحَرِّمُوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ** (سو جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت پر ڈالنا چاہتا ہے اس کے سینہ کو اسلام کے لئے کھول دیتا ہے اور جس کو بے راہ کرنا چاہتا ہے اس کے سینہ کو بہت تنگ کر دیتا ہے جیسے کوئی آسمان میں چڑھتا ہو اسی طرح اللہ تعالیٰ ایمان نہ لانے والوں سے پھٹکار ڈالتا ہے)۔

## شرح صدر کی دو نشانیاں

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے آیت کریمہ **اَفَمَنْ شَرَعَ اللَّهُ مَصَدْرًا لِلْاِسْلَامِ** تلاوت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ جب نور سینہ میں داخل ہو جاتا ہے تو سینہ کھل جاتا ہے عرض کیا گیا یا رسول اللہ کیا اس کی کوئی نشانی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں اس کی نشانی ہے اور وہ یہ کہ دارالغرور (دھوکہ کے گھر یعنی دنیا) سے دور رہے اور دارالخلو (ہیٹنگی کے گھر یعنی جنت) کی طرف رجوع ہو، یعنی ایسے اعمال کرتا رہے جو دخول جنت کا ذریعہ بن جائیں اور ایک نشانی یہ ہے کہ موت آنے سے پہلے اس کے لئے تیاری کر لے

حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ اسلام کے لئے شرح صدر ہو جانے کی یہ نشانی ہے کہ دارالغرور سے بچے اور دارالخلو یعنی آخرت کی طرف متوجہ رہے اور موت کے لئے تیاری کرتا رہے۔

سورۃ زمر کی آیت میں شرح صدر والی بات بیان کرنے کے بعد فرمایا **فَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ تِلْكَ الْقُلُوبُ لَا يَسْمَعُونَ** (سو جن لوگوں کے دل اللہ کے ذکر کی جانب سے سخت ہیں یعنی اللہ کے ذکر سے متاثر نہیں ہوتے اور اس کیلئے نرم ہوتے ان کے لئے بڑی خرابی ہے یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں) اس سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں کے دل میں اسلام کے لئے شرح صدر نہیں ہوتا ان کے دل ایسے سخت ہوتے ہیں کہ اللہ کی یاد میں لگتا اور اللہ کا ذکر کرنا انہیں شاق گزرتا ہے ان کے دلوں کی سختی انہیں اللہ کی یاد میں نہیں لگنے دیتی۔ درحقیقت اللہ کا ذکر بڑی نعمت ہے مبارک بندے ہی اس میں لگتے ہیں اور اس میں لذت محسوس کرتے ہیں اور کثرت ذکر ان کی خصوصی غذا بن جاتی ہے۔

## ذکر اللہ کی فضیلت اور اہمیت

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ مت بولا کرو کیونکہ ذکر اللہ کے علاوہ زیادہ بولنا دل کی سختی کا سبب بن جاتا ہے اور بلاشبہ لوگوں میں اللہ سے سب سے زیادہ



دور وہی شخص ہے جس کا دل سخت ہے۔

(رواہ الترمذی)

حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ دین کی باتیں تو بہت ہیں ان سب پر مجموعی حیثیت سے عمل کرنا مجھے دشوار معلوم ہو رہا ہے (کیونکہ فضیلت والے اعمال اس قدر ہیں کہ مجھ سے ان سب پر عمل نہیں ہو سکتا) لہذا آپ مجھے ایسی چیز بتادیتے کہ میں اسے پکڑے رہوں آپ نے فرمایا کہ تیری زبان ہر وقت اللہ کی یاد میں تر رہے۔

(رواہ الترمذی)

حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے ایک اعرابی (دیہات کے رہنے والے) نے سوال کیا یا رسول اللہ تمام اعمال میں افضل کونسا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہ تو دنیا سے اس حال میں جدا ہو کر تیری زبان اللہ کی یاد سے تر ہو۔

(رواہ الترمذی)

## مُتَشَابِهَاتُ مَثَانِي کی تشریح

اس کے بعد قرآن مجید کی فضیلت بیان فرمائی ارشاد فرمایا کہ اللہ نے سب سے اچھا کلام نازل کیا پھر اس کی ایک صفت کِتَابًا مُتَشَابِهًا اور دوسری صفت مَثَانِي بیان فرمائی مُتَشَابِهَاتُ کا مطلب یہ ہے کہ لفظی اعتبار سے فصیح بلیغ بھی ہے اور معجزہ بھی ہے اور معنوی اعتبار سے اسکے مضامین آپس میں مشابہ ہیں اور آیات آپس میں ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں۔ سب میں عقائد صحیحہ بیان کئے ہیں تو حیدر رسالت کے اقرار اور آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں مَثَانِي کا معنی یہ ہے کہ اس میں احکام مواعظ اور نصائح بار بار دہرائے گئے ہیں نیز بار بار اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، لیکن طبعیت ملول نہیں ہوتی اور ہر مرتبہ نئی چیز معلوم ہوتی ہے۔

## ذاکرین کی صفات

پھر فرمایا تَقَرُّوْا مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ (اس سے لوگوں کے بدن کانپ اٹھتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں) اس میں ان حضرات کی صفت خاص بیان فرمائی جو قرآن کو پڑھتے اور سنتے ہیں اور اس کا یہ اثر لیتے ہیں کہ انکے بدن اور دل کانپ اٹھتے ہیں ثُمَّ يَكِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ اِلٰی ذِكْرِ اللّٰهِ (پھر ان کے بدن اور دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں) یہ دونوں صفات ان مومن بندوں کی ہیں جن کے دلوں میں خوف و خشیت ہو اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہونے سے ڈرتے رہتے ہو سورۃ انفال میں فرمایا اِنَّكَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا اُتِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهُ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَعَلٰی رَبِّكَمْ يَتَوَكَّلُوْنَ (ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں) ذٰلِكَ هُدٰى اللّٰهُ يَهْدِيْٓهِمْ مِّنْ يَّسَّارًا (یہ اللہ کی ہدایت ہے اس کے ذریعہ وہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے) وَمَنْ يُضِلِلِ اللّٰهُ فَالْاَمْرُ مِنْ هٰذَا (اور اللہ جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں) اَفَمَنْ يَتَّبِعِ يَوْجِهَهُ سُوْءُ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ کیا جو شخص قیامت کے دن اپنے چہرے کے ذریعے برے عذاب سے بچ

جائے اور جنت میں داخل ہو جائے کیا اس شخص کے برابر ہے جو دوزخ میں داخل کر دیا جائے؟ چہرہ کے ذریعہ بچنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے اہل عذاب کے چہروں کو آگ پہنچے گی وہ چاہئیں گے کہ چہروں کو ڈھال بنالیں اور اپنی جانوں کو عذاب سے بچالیں لیکن ایسا نہ ہو سکے گا دوزخ میں داخل ہوں گے اور ہر ہر حصہ عذاب میں ڈالا جائے گا اور طرح طرح کے عذاب میں گرفتار ہوں گے سورة الفرقان میں فرمایا ہے اَلَّذِیْنَ یُحْشَرُونَ عَلٰی وُجُوْهِہُمْ اِلٰی بَہِیْمَةٍ لَّہُمْ اُذُنٌ مَّکَانًا وَّ اَعْمٰیۃٌ سَمِیۡلًا (جو لوگ اپنے چہروں کے بل دوزخ کی طرف لے جائے جائیں گے وہ لوگ جگہ کے اعتبار سے بدترین ہیں اور بہت زیادہ گمراہ ہیں) چہروں کے گھسیٹا جانا بھی ایک عذاب ہے اسی طرح گھسیٹے ہوئے اسے دوزخ میں پہنچا دیا جائے گا وَ قَوْلٌ لِّلْظٰلِمِیۡنَ دُۢدُوۡمَا لَکُنۡتُمْ تَکْفُرُوۡنَ (اور ظالموں سے کہا جائے گا کہ تم جو عمل کیا کرتے تھے ان کا عذاب چکھ لو)

کَذَّبَ الْکٰذِبُ مِنْ قَبْلِہُمْ اِنۡ دُوۡنَ اَیۡتِیۡنَ مِّنۡ مَّکْرِیۡنَ کِیۡ بَدۡحَالِیۡ بَیۡاٰنَ فَرۡمٰنِیۡ کَہ دہ یوں نہ سمجھیں کہ عذاب کی وعید یوں ہی ایک تہدید ہے ان کو سمجھ لینا چاہئے کہ وعیدیں سچی ہیں جھٹلانے والوں کو عذاب پہنچ کر رہے گا ان سے پہلے بھی لوگوں نے جھٹلایا پھر ان کے پاس عذاب پہنچ گیا اور پہنچا بھی اس طرح کہ انہیں اس کے آجانے کا خیال بھی نہ تھا اللہ نے انہیں دنیا میں بھی رسوائی کا مزہ چکھادیا اور آخرت میں ان کے لئے بڑا عذاب ہے ہی جو دنیا والے عذاب سے بہت بڑھ کر ہے۔

وَلَقَدْ خَضِرْنَا لِّلۡنَّاسِ فِیۡ ہٰذَا الْفُرۡقَانِ (الآیتین) ان دو آیتوں میں قرآن مجید کی صفات بیان فرمائیں اور ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لئے ہر قسم کے عمدہ مضامین بیان کر دیئے ہیں تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں اور یہ بھی فرمایا کہ قرآن عربی میں ہے (جسے اولین مخاطبین اہل عرب سمجھتے اور جانتے ہیں اور اس کی فصاحت اور بلاغت سے بھی واقف ہیں) تیسری بات یہ بیان فرمائی کہ قرآن میں ذرا بھی کجی نہیں ہے نہ اس میں لفظی رکاکت ہے نہ فصاحت میں اختلال ہے نہ معنوی طور پر اس میں کوئی تناقض ہے آخر میں فرمایا لَعَلَّہُمْ یَتَّقُوۡنَ تاکہ یہ لوگ قرآن کی تکذیب سے باز آئیں اور اللہ جل شانہ کے عذاب اور پکڑ سے ڈریں اور اپنی جانوں کو اس سے بچائیں۔

## مشرک و موحد کی مثال

اس کے بعد مشرک اور موحد کی ایک مثال بیان فرمائی اور وہ یہ ہے کہ ایک غلام ہے اس میں کئی افراد شریک ہیں اور وہ بدخلق بھی ہیں کھینچا تان میں ان کی بدخلقی کا مظاہرہ ہوتا رہتا ہے ایک اس غلام کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور کہتا یہ میرے ماتحت رہے اور میرا ہی کام کرے اور دوسرا اور تیسرا اپنی طرف کھینچتا ہے اور اس سلسلہ میں ہر ایک بدخلقی کو اختیار کرتا ہے ساتھ ہی کی بدخلقی کی لپیٹ میں یہ غلام حیران رہتا ہے اور ساتھیوں کے سانجھے کی سزا بھگتتا رہتا ہے اور ایک غلام وہ ہے جو ایک ہی شخص کا غلام ہے اسے صرف ایک ہی شخص کی خدمت کرنی ہے ان دونوں غلاموں کی زندگی پر نظر ڈالو ایک کی حیرانی اور پریشانی کو دیکھو اور دوسرے کی سلامتی کو دیکھو اور بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی سے سمجھ لو کہ جس طرح یہ برابر نہیں ہو سکتے اسی طرح سے موحد اور مشرک بھی برابر نہیں ہو سکتے موحد پورا پورا معبود واحد اور معبود حقیقی کا بندہ بنا رہتا ہے اسی کی عبادت کرتا ہے اسی کی یاد میں مگن رہتا ہے ہر حاجت اسی سے طلب کرتا ہے اور دوسرا شخص وہ ہے جس نے بہت سے معبود بنا رکھے ہیں اس کی بھی عبادت کرتا ہے اور اس کی بھی عبادت کرتا ہے اس کے سامنے بھی سر جھکا تا ہے اور اس کے

سامنے بھی جبین نیاز رگڑتا ہے۔ موحّد و مشرک میں اتنا عظیم فرق ہے، شرک اختیار کرنے والے سراپا گمراہ ہیں اور سراپا بیوقوف بھی ہیں۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ سب تعریف اللہ ہی کے لئے ہے جس نے ہدایت نازل فرمائی اور توحید کی دعوت دی اور مشرکوں کو گمراہی اور حماقت سے آگاہ فرمایا۔

بَلْ اَکْثَرُهُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ (بلکہ ان میں اکثر وہ لوگ ہیں جو نہیں سمجھتے) حق اور ناحق میں تمیز کرنا ہی نہیں چاہتے۔

قولہ تعالیٰ 'متشاکسون قال الراغب فی مفرداتہ الشکس: السئ الخلق و قوله شرکاء متشاکسون ای متشاجرون لشکاسة خلقهم اہ قال صاحب الروح والمعنی ضرب اللہ تعالیٰ مثلاً للمشرک حسبما یقود الیہ مذہبہ من ادعاء کل من معبودہ عبودیتہ عبد ایتشارک فیہ جماعة متشاجرون لشکاسة اخلاقهم وسوء طبائعهم یتجاذبونہ ویتعاورونہ فی معوماتهم المتباینۃ فی تحیرہ و توزع قلبہ۔

(اللہ تعالیٰ کا ارشاد "متشاکسون" اس کے بارے میں امام راغب اپنی کتاب مفردات القرآن میں لکھتے ہیں "الغس" کا معنی ہے بدخلق اور اللہ تعالیٰ کے قول "شرکاء متشاکسون" یعنی ایسے شرکاء جو اپنی بدخلقی کی وجہ سے آپس میں لڑنے والے ہیں اھ)

تفسیر روح المعانی کے مصنف فرماتے ہیں اس کا معنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرک کی مثال بیان فرمائی ہے کہ مشرک کو جب اس کا مذہب اپنے معبودوں میں سے ہر ایک کی عبادت کی دعوت دیتا ہے تو اس کی حیرانی اور بے یقینی کی حالت کی مثال اس غلام کی ہے جس کی ملکیت میں ایک گروہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنی بدخلقی کی وجہ سے لڑتا رہتا ہو ہر ایک غلام کو اپنی طرف کھینچتا ہو اور ہر کوئی دوسرے سے کام سے مختلف اپنے کام میں استعمال کرنا چاہتا ہو)

آخر میں فرمایا اِنَّکُمْ بِتِلْکَ اُمَّۃٍ تَشْتَوْنَ (بلاشبہ آپ مرنیوالے ہیں اور بلاشبہ یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں) مطلب یہ ہے کہ آپ منکرین کے بارے میں ممکن نہ ہوں یہ لوگ دنیا میں آپ کی بات نہیں مانتے قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا اہل ایمان جنت میں اور اہل کفر و دوزخ میں ہونگے جیسا کہ آئندہ آیات میں بیان فرمایا۔

تفسیر جلالین میں لکھا ہے کہ اہل مکہ رسول اللہ ﷺ کی وفات کا انتظار کرتے تھے اور یوں کہتے تھے کہ اس شخص کو موت آجائے تو ہماری جان چھٹ جائے گی اللہ تعالیٰ نے آپ کو خطاب کر کے فرمایا کہ آپ بھی وفات پانے والے ہیں اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے۔ دنیا سے تو سب کو ہی جانا ہے اگر یہ لوگ نہ مرتے تو آپ کی وفات ہو جانے سے ان کی جان چھوٹ جاتی۔

سورۃ الانبیاء میں فرمایا اَفَاَیْنِیْۤ اَمَّۃٌ فَهَؤُلَآءِ الْخٰیِرُ وَّ اَمَّۃٌ فَهَؤُلَآءِ الْخٰیِرُ (اگر آپ کی وفات ہو جائے گی تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے) ان کو بھی مرنا ہے اور پیشی بھی ہوتی ہے۔

## قیامت کے دن ادعاء اور اختصام

لَمَّا اَنَّکُمْ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ عِنْدَ رَبِّکُمْ تَخْتَصِمُوْنَ (پھر یقینی بات ہے کہ قیامت کے دن تم اپنے رب کے پاس پیش ہو کر مدعی اور مدعی علیہ بنو گے) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ عرصہ دراز تک ہم اس آیت کو پڑھتے رہے لیکن یہ سمجھ میں

نہیں آتا تھا کہ ہم میں جھگڑے کیوں ہونگے جبکہ ہماری کتاب ایک ہے قبلہ ایک ہے حرم ایک ہے نبی ایک ہے (ﷺ) پھر جب ہم میں آپس میں قتل و قاتل ہوا تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ (درمنثور از مستدرک حاکم)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب جنگ صفین کے موقعہ پر ہم آپس میں ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئے اس وقت ہم نے سمجھا کہ یہ آیت ہمارے بارے میں ہے۔ (درمنثور)

حضرت ابن عمر و حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہما نے اپنے زمانہ میں ایک دوسرے پر حملہ آور ہونے کو آیت شریفہ کا مصداق قرار دیا، لیکن الفاظ کا عموم ان سب جھگڑوں کو شامل ہے جو قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے اور بارگاہ خداوندی میں پیش ہوں گے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جو لوگ جھگڑے لے کر اٹھیں گے ان میں سب سے پہلے دو پڑوسی ہوں گے جس کا جو حق مارا گیا ہوگا اپنے حق کے لئے جھگڑا کرے گا۔ رعیت امیر و وزیر اور بادشاہ پر دعویٰ کرے گی مالی حق رکھنے والوں پر اصحاب حقوق دعویٰ کریں گے مظلوم ظالم سے اپنا حق طلب کرے گا جن کے قرضے تھے وہ قرضے طلب کریں گے جن کی غیبت تھی یا جن پر تہمت دھری تھی وہ بھی مدعی بن کر کھڑے ہو جائیں گے اس مضمون میں تفصیل بہت ہے جاننے والے جانتے بھی ہیں بہر حال اگر وہاں مدعی علیہ ہونے سے بچنا ہے تو کسی بندے کا کوئی حق مار نہ جائیں۔

**فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَبَ بِالْصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ الْيُسُ**

سو اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور سچ کو جھٹلایا جبکہ وہ اس کے پاس آیا۔ کیا

**فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ۚ وَالَّذِي جَاءَ بِالْصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ**

دوزخ میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے اور جو شخص سچ کو لکیر آیا اور سچ کی تصدیق کی یہ وہ لوگ ہیں

**الْمُتَّقُونَ ۚ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ۚ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ**

جو متقی ہیں ان کے لئے ان کے رب کے پاس وہی ہے جو وہ چاہیں یہ بدلہ ہے اچھے کام کرنے والوں کا تاکہ اللہ ان کے

**عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ**

برے کاموں کا کفارہ کر دے اور انہیں اعمال کا اچھے سے اچھا اجر دے جو وہ کیا کرتے تھے۔

## جھوٹوں سے بڑھ کر ظالم کون ہے

**تفسیر:** گزشتہ آیات میں مؤمنین موحدین اور شرکین معاندین اور کافرین کذبین کا ذکر تھا ان آیات میں ہر دو فریق کا انجام بتایا ہے مؤمنین کے اجر و ثواب سے اور کافروں کے عذاب سے باخبر کیا ہے فرمایا **فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ** (سو اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی بات منسوب کرے جو اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائی انہیں باتوں میں سے ایک یہ ہے کہ شرکین یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے شریک بنائے ہیں اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے

اولاد تجویز کر لی ہے نیز مشرکین کا یہ مزاج بھی ہے کہ جب کسی برے کام سے روکا جاتا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے کما فی سورة الاعراف قَالَوَاَجِدْنا عَلَیْهَا آٰیٰتِنَا وَاللّٰهُ اَمْرًا یَّجٰلُهَا خَالِمٌ لُّوْگ اللہ تعالیٰ پر تہمت دھرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر افترا کرتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا ظلم ہے جس کی سزا بھی بہت بڑی ہے۔

وَكَذَّبَ بِالْصِّدْقِ اِذْ جَاءَهُ (اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو سچی بات کو یعنی قرآن کو جھٹلائے جبکہ وہ اس کے پاس آ گیا۔

اَلْیَسِّنُ فِیْ جَهَنَّمَ مَثْوًی لِّلْكَافِرِیْنَ (کیا دوزخ میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟) (یہ استفہام تقریری ہے یعنی کافروں کا ٹھکانہ دوزخ میں ہے۔

اس کے بعد اہل ایمان کا حال بتایا وَالَّذِیْ جَاءَ بِالْصِّدْقِ (اور جو شخص سچی بات کو لے کر آیا اس کا عموم تمام انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور جو حضرات ان کے کام میں لگے حق کے داعی بنے ان سب کو شامل وَصَدَّقَ بِہٖ اور جس نے سچی بات کی تصدیق کی اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ (یہ لوگ پرہیز کرنے والے ہیں) شرک سے کفر سے گناہوں سے بچتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے الصدق سچی بات سے کلمہ لا الہ الا اللہ اور الذی جَاءَ سے رسول اللہ ﷺ کی ذات گرامی مراد ہے آگے ان کی جزائیں لکھی ہیں لَھُمْ مَا یَشَآءُوْنَ عِنْدَ رَبِّھُمْ (ان کے لئے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے) وَذٰلِکَ جَزَآءُ الْمُحْسِنِیْنَ (اور یہ بدلہ ہے اچھے کام کرنے والوں کا)

لَیُّکْفِّرَنَّ اللّٰهُ عَنْھُمْ اَسْوَا الَّذِیْ عَمِلُوْا فِیْہُمْ اَجْرُھُمْ بِاَحْسَنِ الَّذِیْ کَانُوْا یَعْمَلُوْنَ (تاکہ اللہ ان کے برے کاموں کا کفارہ کر دے اور انہیں ان اعمال کا اچھے سے اچھا اجر دے جو وہ کیا کرتے تھے) یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے اور ان کا انعام جو پہلے ہی سے اس دنیا میں بتا دیا ہے یہ اس لئے ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے وعدہ پر یقین رکھتے ہوئے اچھے اچھے کام کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کے بموجب ان کے برے اعمال کا کفارہ فرما دے اور ان کے اچھے اعمال کا بدلہ دیدے۔ قَالَ صَاحِبُ الرُّوْحِ اِی وَعَدَھُمُ اللّٰهُ جَمِیْعَ مَا یَشَآءُ وَنہ مِنْ زَوَالِ الْمَضَارِ وَ حَصُوْلِ الْمَسَارِ لِیُکْفِرَ عَنْھُمْ بِمَوْجِبِ ذٰلِکَ الْوَعْدِ اَسْوَا الَّذِیْ عَمِلُوْا الْخ۔

(صاحب روح المعانی نے کہا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس سے ہر تکلیف کو دور کرنے اور ہر راحت کا حصول جسے وہ چاہتے ہیں سب کچھ کا وعدہ کیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے اس وعدہ کے ذریعہ ان کے برے اعمال کا بدلہ کر دے)

اَلْیَسِّنُ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدًا وَيُخَوِّفُوْنَكَ بِالَّذِیْنَ مِنْ دُوْنِہٖ وَمَنْ یُّضِلِلِ اللّٰهُ

کیا اللہ اپنے بندہ کو کافی نہیں ہے اور وہ آپ کو ان سے ڈراتے ہیں جو اللہ کے علاوہ ہیں اور اللہ

فَمَا لَہٗ مِنْ هَادٍ وَمَنْ یَّھْدِ اللّٰهُ فَمَا لَہٗ مِنْ مُّضِلٍّ اَلْیَسِّنُ اللّٰهُ بِعَزِیْزٍ ذِیْ اَنْتِقَامٍ

جسے گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور جسے اللہ ہدایت دیدے سو اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں کیا اللہ عزت والا بدلہ لینے والا نہیں ہے

وَلٰیۤن سَاَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَیَقُوْلُنَّ اللّٰهُ قُلْ اَفَرٰیۤیْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ

اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو ضرور یوں کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا آپ فرمادیتے کہ تم ہی بتاؤ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو

مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادْنِيَ ضُرٌّ هَلْ هُنَّ كُشِفَتْ ضُرِّيَّهٗ أَوْ أَرَادْنِيَ بِرَحْمَةٍ هَلْ

اگر اللہ مجھے کوئی ضرر پہنچانے کا ارادہ فرمائے تو کیا یہ اس کی پہنچائی ہوئی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں یا اگر وہ مجھے رحمت سے نوازنے کا ارادہ فرمائے تو کیا

هُنَّ مُنْسِكَتٌ رَّحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ۝ قُلْ يَقَوْمِ

یہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں آپ فرما دیجئے کہ کافی ہے مجھے اللہ! اسی پر بھروسہ کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں آپ فرما دیجئے کہ اے میری قوم

اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَاتِكُمْ إِنِّي عَاِلٌۢمٌۢمٌ ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُغْزِيهِ وَيَحْنُ

تم اپنی جگہ پر عمل کرتے ہو بیشک میں عمل کر رہا ہوں سو تم غریب جان لو گے کس کے پاس عذاب آتا ہے جو اس کو ذلیل کر دے گا اور اس پر ایسا

عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ۝ إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ ۖ

عذاب نازل ہوتا ہے جو بھروسہ کر رہے ہو بیشک ہم نے لوگوں کے لئے حق کے ساتھ آپ پر کتاب نازل کی ہے جو ہدایت پر آجائے یہ اس کی اپنی جان کے لئے ہے

وَمَنْ ضَلَّٰ فَلِإِنْمَا يَضِلُّ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ۝

اور جو شخص گمراہی اختیار کرے سو وہ اپنی جان کو ضرر پہنچانے کے لئے گمراہی کو اختیار کرتا ہے اور آپ ان پر مسلط بنا کر نہیں بھیجے گئے۔

## بندہ کو اللہ کافی ہے اللہ کے سوا تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا اور اس کی رحمت کو کوئی روک نہیں سکتا

**تفسیر:** جب رسول اللہ ﷺ مشرکین کو توحید کی دعوت دیتے تھے تو وہ لوگ برامانتے تھے ایک دن ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ دیکھو ہمارے معبودوں کو برا کہنا چھوڑ دو ورنہ ہم اپنے معبودوں سے کہیں گے کہ تمہیں ایسا کر دیں کہ تمہارے ہوش و حواس قائم نہ رہیں اس پر آیت کریمہ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدًا نازل ہوئی۔

اور بعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا کہ غزوئی بت کو توڑ دیں جب یہ وہاں پہنچے تو وہاں کے بت خانہ کا جو مذہب دار بنا ہوا تھا اس نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں اس بت کی طرف سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے گی۔ حضرت خالد بن ولید نے اس کی کوئی بات نہ مانی آگے بڑھے اور جو کھانا لیکر گئے تھے وہ اس بت کی ناک پر مار کر تیاپا چا کر دیا اس پر وَتُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ۚ كَانَزَوْلُ هُوَاذِكْرُهُمَا فِي الدَّرِ الْمُنْتَوْر عَنْ قِتَادَةِ مشرکین خود تو اپنے معبودوں سے ڈرتے ہی ہیں مؤمن بندوں کو بھی ڈراتے ہیں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدًا (کیا اللہ اپنے بندہ کے لئے کافی نہیں ہے) یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کے لئے کافی ہے جو ہر شر اور ضرر اور آفت و مصیبت سے بچائے گا بت تو بے جان ہیں ان سے کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی جو انسان اور جن کچھ اختیار رکھتے ہیں وہ بھی کسی نفع اور ضرر کے مالک نہیں۔

وَمَنْ يُضِلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (اور اللہ جسے گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں) وَمَنْ يَهْدِیْ

اللَّهُ فَمَالَهُ مِنَ مُضِلٍّ الْكَبِيرِ اللَّهُ يَعْنِي ذِي الْاِتْقَانِ (اور جسے اللہ ہدایت دے دے اس کا کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ کیا اللہ عزت والا بدلہ لینے والا نہیں ہے؟) جو لوگ بت پرست ہیں وہ اپنے معبودوں کے ضرر پہنچانے سے ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قادر اور کافی اور عزیز (غالب) ہونے اور انتقام لینے کی قدرت ہونے پر ان کی نظر نہیں جو باطل معبودانہوں نے خود تجویز کر رکھے ہیں اپنی گمراہی سے ان میں نفع و ضرر سمجھتے ہیں اور ان سے خود بھی ڈرتے ہیں اور دوسروں کو بھی ڈراتے ہیں۔

اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ آپ ان مشرکین سے دریافت فرمائیے کہ یہ بتاؤ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ اس سوال کا جواب ان کے پاس اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے جب وہ جواب دیدیں (زبان حال سے یا قال سے تو آپ ان سے فرمائیں کہ اب یہ بتاؤ کہ تم نے جو اللہ تعالیٰ کے سوا معبود بنا رکھے ہیں کیا انہیں ایسی قدرت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ضرر پہنچانا چاہے تو یہ اسے دور کر دیں یا اگر اللہ تعالیٰ مجھ پر رحمت فرمانا چاہے تو یہ اس کی رحمت کو روک دیں اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے دکھ تکلیف کو اس کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا اور اس کی رحمت کو کوئی نہیں روک سکتا جب یہ بات ہے تو تمہارے معبودوں سے میں کیوں ڈروں؟ مجھے صرف اللہ کافی ہے صحیح معنی میں توکل کر نیوالے صرف اسی پر توکل کرتے ہیں اور میرا بھی اسی پر توکل ہے۔

قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ (آپ فرمادیجئے کہ تم اپنی جگہ پر عمل کئے جاؤ میں اپنے طور پر عمل کر رہا ہوں۔ تم اپنا مشرکانہ طرز عمل نہیں چھوڑتے اور مجھے تو اپنا دین بہر حال چھوڑنا ہی نہیں ہے۔ تم جو مجھے غلطی پر سمجھ رہے ہو تو تمہیں جلدی معلوم ہو جائے گا کہ وہ کون ہے جس پر عذاب آنے والا ہے جو اسے زسوا کھوے گا اور جس پر ایسا عذاب نازل ہوگا جو دائمی ہوگا مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس سے مشرکین کا بدر میں مقتول ہونا مراد ہے بدر کے مقتولین نے دنیا میں بھی سزا پائی ذلیل ہوئے اور آخرت میں بھی ان کے لئے دائمی عذاب ہے اور ہر کافر کے لئے عذاب دائمی ہی ہے۔

قال صاحب الروح فان الاول اشارة الى العذاب الدنيوي وقد لنا لهم يوم بدر والثاني اشارة الى العذاب الاخروي فان العذاب المقيم عذاب النار.

(صاحب روح المعانیؒ فرماتے ہیں پہلے عذاب سے دنیوی عذاب کی طرف اشارہ ہے جو ہم نے ان کیلئے بدر کے دن میں مقرر کیا تھا اور دوسرے عذاب سے مراد آخرت کا عذاب ہے کیونکہ عذاب مقيم جہنم ہی کا عذاب ہے) آخر میں فرمایا اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ عَلَيْنَا لِنُنَكِّسَ بِالْحَقِّ (بے شک ہم نے آپ پر لوگوں کے لئے حق کے ساتھ کتاب نازل کی) فَمَنْ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ (سو جو ہدایت پر آجائے یہ اس کی اپنی جان کے لئے ہے) وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِ (اور جو گمراہی اختیار کرے سو وہ اسے اپنی جان کو ضرر پہنچانے کے لئے اختیار کرتا ہے وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ (اور آپ ان پر مسلط بنا کر نہیں بھیجے گئے اس میں آپ کو تسلی دی ہے مطلب یہ ہے کہ آپ کے ذمہ یہ نہیں کیا گیا کہ لوگوں کو زبردستی دین پر لائیں اور اپنی بات منوائیں آپ کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے۔ عمل کرنا نہ کرنا ان کی اپنی ذمہ داری ہے۔ آپ انکی وجہ سے غمگین نہ ہوں۔

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَكُنْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ

اللہ قبض کر لیتا ہے جانوں کو ان کی موت کے وقت اور ان جانوں کو بھی جن کی موت نہیں آئی ان کے سوتے وقت پھر اسے روک لیتا ہے



عَلَيْهَا الْمَوْتُ وَيُرْسِلُ الْآخَرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ

جس کے بارے میں موت کا فیصلہ فرمادیا اور دوسری کو اجل مقرر تک چھوڑ دیتا ہے بلاشبہ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے

يَتَفَكَّرُونَ ۝ أَمْ آتخذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوْ كُنُوا كَالَّذِينَ لَا

جو فکر کرتے ہیں۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا سفارش کرنے والے تجویز کر رکھے ہیں آپ فرمادیجئے اگرچہ وہ کچھ بھی قدرتِ نہ کہتے ہوں اور کچھ بھی نہ

يَعْقِلُونَ ۝ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ۚ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝

سمجھتے ہوں؟ آپ فرمادیجئے کہ سفارش تمام اللہ ہی کے اختیار میں ہے اللہ ہی کے لئے ہے ملک آسمانوں کا اور زمین کا پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے

وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ۖ وَإِذَا ذَكَرَ الَّذِينَ

پھر جب تنہا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل منقبض ہو جاتے ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر

مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۝

کیا جاتا ہے تو اچانک وہ خوش ہو جاتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ جانوں کو قبض فرماتا ہے، سفارش کے بارے میں  
صرف اسی کو اختیار ہے، مشرکین کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر  
ہوتا ہے تو ان کے دل منقبض ہوتے ہیں

**تفسیر:** یہ تین آیات کا ترجمہ ہے پہلی آیت میں اللہ جل شانہ نے اپنے ان تصرفات کا تذکرہ فرمایا جو انسانوں کی جانوں سے متعلق ہیں، ارشاد فرمایا کہ انسانوں کی جانوں کو اللہ تعالیٰ ان کی موت کے وقت قبض فرمالیتا ہے اور یہ قبض کامل ہوتا ہے اس کے بعد جسم انسانی میں کوئی حس و حرکت باقی نہیں رہتی اور جب نبی آدم سو جاتے ہیں تو اس وقت بھی اللہ ان کی جانوں کو قبض فرمالیتا ہے لیکن چونکہ قبض کامل نہیں ہوتا روح باقی رہتی ہے (اگرچہ افعال و حرکات پر ارواح کا قبضہ نہیں رہتا) اس لئے ان کی موت کا مقررہ وقت آنے تک سونے والوں کی جانوں کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے یعنی جو ہوش گوش اور حس و حرکت اور اختیار والی زندگی عارضی طور پر جاچکی تھی اسے واپس لوٹا دیتا ہے ان تصرفات میں اللہ تعالیٰ بالکل مختار مطلق ہے کسی کو اس میں کوئی دخل نہیں دیکھنے والے دیکھتے ہیں اور روزانہ اس کا مظاہرہ ہوتا رہتا ہے اس میں ان لوگوں کے لئے بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں انسان کو ہر سونے اور جاگنے کے وقت سوچنا چاہئے کہ میں ایسا ضعیف ہوں کہ سونے جاگنے تک پر مجھے قدرت نہیں اگر انسان اپنی عاجزی پر غور کرے تو سمجھ میں آجائے گا کہ واقعی مجھے جس نے پیدا فرمایا ہے میں صرف اسی کا بندہ ہوں۔

دوسری آیت میں مشرکین کی اس بے وقوفی کو بیان فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود تجویز کر رکھے ہیں ان شرکاء کو شَفَعَاء سے تعبیر فرمایا کیونکہ مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ جن کو ہم نے اللہ تعالیٰ کا شریک بنایا ہے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور میں شفاعت کر کے ہماری بخشش کرا دیں گے پہلے تو غیر اللہ کو معبود بنانے کی تکلیف فرمائی پھر فرمایا کہ جن کو تم نے سفارش سمجھا ہے انہیں تو کچھ بھی قدرت نہیں اور کچھ بھی سمجھ نہیں یہ تو پتھر کی مورتیاں ہیں نہ انہیں کچھ قدرت ہے نہ کسی بات کا علم ہے یہ کیا جانیں کہ سفارش کیا ہوتی ہے اور یہ کہ سفارش کس کی کی جائے اور کس سے سفارش کی جائے جب ان کے عجز اور جہل کا یہ حال ہے تو کیا سفارش کر سکتے ہیں؟

یہ بھی سمجھنا چاہئے کہ سفارش کے بارے میں ہر طرح کا اختیار اللہ تعالیٰ ہی کو ہے وہ جسے چاہے گا اور جس کے لئے چاہے گا سفارش کرنے کی اجازت دے گا اس کے یہاں مشرک اور کافر کی بخشش نہیں۔ اس لئے جو بندے اس کے نزدیک شفاعت کرنے کے اہل ہیں انبیاء کرام اور ملائک عظام علیہم السلام انہیں کافروں اور مشرکوں کی سفارش کرنے کی اجازت نہ دی جائے گی لہذا شرک و کفر میں مبتلا رہنا اور اپنے معبودوں کی سفارش کا بخشش کے لئے سہارا لینا یہ سراپا جہالت اور حماقت اور گمراہی ہے اس بیان سے مشرکین کے اس سوال کا جواب بھی واضح ہو گیا ہے کہ ہم نے تو فرشتوں کو اور بعض پیغمبروں کو بھی الوہیت میں شریک کر رکھا ہے وہ تو شفاعت کے اہل ہیں اوپر کے بیان میں واضح ہو گیا کہ جس کی بخشش نہیں اس کے لئے نہ کوئی سفارش کرے گا نہ اس کے لئے سفارش کی اجازت دی جائے گی اور بلا اجازت کسی کو سفارش کا اختیار نہیں سورۃ بقرہ میں فرمایا مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَ اِلٰهٍ اِلَّا بِاِذْنِهٖ (کون ہے جو اس کی بارگاہ میں سفارش کرے مگر اس کی اجازت سے) اور سورہ طہ میں فرمایا يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّا مَنْ اِذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَفَعَهُ لِكُلِّ قَوْمٍ (اس روز سفارش نفع نہ دے گی مگر ایسے شخص کو جس کے واسطے اللہ تعالیٰ نے اجازت دیدی ہو اور اس شخص کے واسطے بولنا پسند کر لیا ہو)

اور سورۃ الانبیاء میں فرشتوں کے بارے میں فرمایا وَلَا يَشْفَعُونَ اِلَّا لِمَنْ اِذْنُطٰی (اور وہ بجز اس کے جس کے لئے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو اور کسی کی سفارش نہیں کر سکتے) مزید فرمایا لَكَ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (اسی کے لئے ملک ہے آسمانوں کا اور زمین کا) ثُمَّ لَآئِنِ يَسْعَوْۤاكَ فَسَبِّحْۤهُنَّ (پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے) اس میں یہ بتادیا کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک الملک ہے دنیا و آخرت سب اسی کی مملوک ہیں اور ہر طرح کا پورا اختیار اور اقتدار اسی کا ہے تیسری آیت میں مشرکین کا مزاج بتایا اور وہ یہ کہ شرک ان کے دلوں میں اس درجہ گھر کر گیا ہے اور انہیں تو حید اس قدر ناگوار ہے کہ جب ان کے سامنے صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے جس میں لا الہ الا اللہ کی دعوت بھی ہے تو ان لوگوں کے دل منقبض ہوتے ہیں جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے انہیں یہ بات ناگوار معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے تجویز کردہ شرکاء کے بغیر اللہ کا نام کیوں لیا گیا اور ان لوگوں نے اللہ کے سوا جو دوسرے معبود تجویز کر رکھے ہیں جب ان کا تمہا ذکر ہوتا ہے تو اس سے خوش ہوتے ہیں اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں یوں نہیں کہتے کہ اللہ کا ذکر کئے بغیر ان کو کیوں یاد کیا گیا ان کے دلوں میں اس درجہ شرک رچ بچ گیا ہے کہ تمہا اللہ کا ذکر ہو تو انہیں بہت ناگوار ہوتی ہے اور جو باطل معبود انہوں نے تجویز کر رکھے ہیں ان کا ذکر ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہو تو اس وقت ان کی خوشی کی انتہاء نہیں رہتی قال صاحب الروح فان الاستبشار ان یمتلی القلب سرور احتی ینسط له بشرة الوجه، والا شمنزاز ان یمتلی غیظا وغما ینقبض عنه ادیم الوجه کما یشاہد فی وجہ العابس المحزون۔

(تفسیر روح المعانی کے مصنفؒ فرماتے ہیں استبشار یہ ہے کہ دل خوشی سے بھر جائے یہاں تک کہ دل کی اس خوشی سے چہرہ پر خوشگوار اثرات ظاہر ہو جائیں اور اشعر از یہ ہے کہ دل غصہ اور غم سے بھر جائے جس سے چہرہ مقبض ہو جائے جیسا کہ غمگین و غصہ کرنے والے کے چہرے پر دیکھا جاتا ہے)

یہی حال ان مبتدعین و مشرکین کا ہے جو مسلمان ہونے کے دعویدار ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے ذکر کی اور اتباع سنت کی تلقین کی جاتی ہے تو انہیں اچھی نہیں لگتی بدعتوں کا بیان کیا جائے اور پیروں فقیروں کی جھوٹی کرامات اور خود تراشیدہ قصے بیان کئے جائیں تو اس سے خوش ہوتے ہیں راتوں رات قوالی سنتے ہیں ہارمونیم اور طبلہ کی آواز پر انہیں وجد آتا ہے اور اسی رات کے ختم پر جب فجر کی آذان ہوتی ہے تو مسجد کا رخ کرنے کی بجائے بستر کی طرف رخ کرتے ہیں اور گھروں میں جا کر سو جاتے ہیں۔

قال صاحب الروح وقد رأينا كثيراً من الناس على نحو هذه الصفة التي وصف الله تعالى بها المشركين يهشون لذكر اموات يستغيثون بهم ويطلبون منهم ويطلبون من سماع حكايات كاذبة عنهم توافق هو اهم واعتقادهم فيهم ويعظمون من يحكي لهم ذلك وينقبضون من ذكر الله تعالى وحده، (الى ان قال) وقد قلت يوماً لرجال يستغيث في شدة ببعض الاموات وينادي يا فلان اغثنى فقلت له قل يا الله فقد قال سبحانه واذا سالك عبادى عنى فانى قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان فغضب وبلغنى انه قال فلان منكبر على الاولياء وسمعت عن بعضهم انه قال الولي اسرع اجابة من الله عز وجل وهذا من الكفر بمكان نسال الله تعالى ان يعصمنا من الزيغ والطفغان. (ص ۱۱ ج ۲۳)

(تفسیر روح المعانی کے مصنفؒ فرماتے ہیں ہم نے بہت سارے لوگوں کو ایسی ہی حالت پر دیکھا جو حالت اللہ تعالیٰ نے یہاں مشرکین کی بیان فرمائی ہے کہ وہ فوت شدہ لوگوں کے ذکر پر خوش ہوتے ہیں ان سے مدد مانگتے ہیں ان سے سوال کرتے ہیں اور ان کے بارے میں اپنی خواہشات نفس اور اپنے اعتقاد کے موافق جھوٹے قصے سن کر خوش ہوتے ہیں جو لوگ اس طرح کی قصہ خوانی کرتے ہیں یہ ان کو عزت و احترام دیتے ہیں اور اکیلے اللہ کے ذکر سے منہ بناتے ہیں مصنفؒ نے یہ بھی فرمایا کہ ایک آدمی جو مصیبت میں بعض مردوں سے مدد مانگتا تھا اور انہی یا فلان کہہ کر پکارتا تھا ایک دن میں نے اس سے کہا یا اللہ کہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جب میرا کوئی بندہ مجھ سے سوال کرے تو میں قریب ہوں جب مجھے کوئی پکارے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں تو وہ آدمی غضبناک ہو گیا اور مجھے یہ بات پہنچی کہ اس نے کہا فلاں آدمی اولیاء پر تکبر کرتا ہے بعض لوگوں سے میں نے سنا کہ وہ کہتے ہیں اللہ کی نسبت ولی جلدی دعا قبول کرتا ہے یہ کفر ہے اور ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں گمراہی و سرکشی سے محفوظ رکھے)

قُلِ اللَّهُمَّ فَاضِلُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ

آپ یوں کہیے۔ اے خدا آسمانوں اور زمینوں کے پیدا فرمانے والے غیب اور شہادت کے جاننے والے آپ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے ان باتوں کے

فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۚ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ

بارے میں جن میں اختلاف کرتے ہیں اور جن لوگوں نے ظلم کیا اگر ان کے لئے وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اس

لَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَبَدَأَ اللَّهُ مَا لَمْ يَكُونُوا

جیسا اور ہو تو قیامت کن عذاب کی بد حالی کی وجہ سے وہ اس سب کو جان کے بدلہ میں دیدیں گے اور ان کے لئے اللہ کی طرف سے وہ ظاہر ہو جائے گا جو ان کے

يَحْتَسِبُونَ ۚ وَبَدَأَ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۝

گمان میں نہ تھا اور انہوں نے جو عمل کئے تھے ان کے برے نتیجہ ان کے لئے ظاہر ہو جائیں گے اور انہیں وہ چیز گھیر لے گی جس کا وہ مذاق بناتے تھے

فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا نَادِمًا إِذْ أَخْلَقْنَاهُ نِعْمَةً مِّمَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ

سو جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ میں پکارتا ہے پھر جب ہم اس کی طرف سے نعمت دے دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو مجھے نہ رکھا ہے

بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِن أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا

بلکہ بات یہ ہے کہ وہ امتحان ہے لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے یہ کلمہ ان سے پہلے لوگوں نے کہا سو جو کچھ کمائی کرتے تھے

أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ

اس نے انہیں کچھ بھی فائدہ نہ دیا سو انہوں نے جو برے اعمال کئے تھے ان کا بدلہ انہیں پہنچ گیا اور ان میں سے جن لوگوں نے ظلم کیا غریب انہیں ان کے

هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ۝ أَوْ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْصُطُ

اعمال کا بدلہ پہنچ جائے گا اور وہ عاجز کرنے والے نہیں ہیں کیا انہوں نے نہیں جانا کہ اللہ رزق پھیلا دیتا ہے جس کے لئے چاہے اور تنگ

الرِّزْقِ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝

کر دیتا ہے جس کے لئے چاہے بلاشبہ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو ایمان لاتے ہیں۔

## رسول اللہ ﷺ کو ایک خاص دعا کی تلقین

### انسان کی بد خلقی اور بد حالی کا تذکرہ

تفسیر: یہ سات آیات کا ترجمہ ہے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو تلقین فرمائی کہ آپ یوں دعا کریں:

اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ .

(اے اللہ آسمانوں اور زمین کے پیدا فرمانے والے غیب اور شہادۃ کے جاننے والے آپ اپنے بندوں کے درمیان

فیصلہ فرمائیں گے ان باتوں کے بارے میں جن میں اختلاف کرتے ہیں۔

رسول اللہ ﷺ کے مخاطبین جو رو یہ اختیار کرتے، تکلیف پہنچاتے اور تکذیب کرتے تھے اس سے آپ کو تکلیف

ہوتی تھی، تسلی کے لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دعا سکھائی آپ کے توسط سے امت کو بھی یہ دعا معلوم ہو گئی جس کی کو دین

کے دشمنوں سے تکلیف پہنچے یہ دعا پڑھے اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادۃ ہے اسے سب کا حال معلوم ہے وہ اپنے علم کے

مطابق جزا سزا دے گا اور لوگوں میں جو اختلاف ہے حق بات نہیں مانتے اور باطل ہی کو حق سمجھتے ہیں اس بات کا آخرت کے دن فیصلہ ہو جائے گا اہل کفر دوزخ میں اور اہل ایمان جنت میں چلے جائیں گے۔

دوسری آیت میں اہل کفر کی قیامت کے دن کی بد حالی بیان فرمائی اور فرمایا کہ زمین میں جو کچھ ہے اگر کسی کافر کے پاس یہ سب کچھ ہو اور اس کے علاوہ اور بھی اسی قدر ہو تو قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لئے اس سب کو جان کے بدلہ دینے کو تیار ہو جائے گا اس سے ان کی بد حالی معلوم ہوگئی نہ وہاں کسی کے پاس کچھ ہوگا نہ جان کا بدلہ قبول ہوگا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ (نہ کسی کی طرف سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا اور نہ کسی کو کوئی سفارش مفید ہوگی اور نہ ان لوگوں کی مدد کی جائے گی)۔

یہ لوگ جب دنیا میں تھے تو قیامت قائم ہونے ہی کے منکر تھے دوزخ پر اجمالی ایمان لانے کو تیار نہ تھے وہاں کی عقوبات اور سزاؤں کی تفصیل کو کیا جانتے اب جب وہاں طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہو گئے تو عذاب کی وہ چیزیں ان کے سامنے آجائیں گی جن کا انہیں خیال بھی نہ تھا لہذا جان کا فدیہ دینے کے لئے تیار ہو جائیں گے لیکن وہاں کچھ پاس نہ ہوگا اور اگر بالفرض کچھ پاس ہو تو قبول نہ ہوگا۔

تیسری آیت میں یہ فرمایا کہ دنیا میں جو انہوں نے برے عمل کئے وہ وہاں ظاہر ہو جائیں گے اور جس چیز کا مذاق بنایا کرتے تھے یعنی عذاب جہنم وہ ان کو وہاں گھیر لے گا۔

چوتھی آیت میں انسان کا مزاج بیان فرمایا اور وہ یہ کہ اسے کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگتا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہو جاتی ہے اور نعمت نصیب ہو جاتی ہے تو یوں نہیں کہتا کہ یہ نعمت مجھے اللہ نے دی ہے بلکہ اس میں بھی اپنا کمال ظاہر کرتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ میں نے اپنے علم کو استعمال کیا اپنے ہنر کو کام میں لایا تدبیریں سوچیں مال کمانے کے گر سکھے یہ نعمت مجھے اسی کے ذریعہ ملی ہے۔

اللہ تعالیٰ شانہ نے ارشاد فرمایا اِنْ هِيَ فِتْنَةٌ يَهْدِيهِمْ فِتْنَةٌ یہ بات نہیں ہے کہ یہ مال اسے اس کے علم اور ہنر سے ملایا یہ مال اسے ہم نے دیا ہے جب اس کے پاس مال نہیں تھا اس وقت بھی تو علم اور ہنر والا تھا اس وقت کیوں مال حاصل نہیں کر سکا یہ مال جو ہم نے اسے دیا یہ فِتْنَةٌ ہے یعنی امتحان ہے کہ مال ملنے پر شکر گزار ہوتا ہے یا ناشکری اختیار کرتا ہے لیکن ان میں سے بہت سے لوگ نہیں جانتے اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو نہیں پہچانتے، شکر کی ضرورت نہیں سمجھتے، ناشکری پر ہی جتے رہتے ہیں اور امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں،

قوله تعالى انما اوتيته على علم بل هي فتنة ذكرنا الضمير الاول لان النعمة بمعنى الانعام وقيل لان

المراد بها المال وانت الضمير الثاني لرجوعها الى النعمة واختير لفظها كما اختير في الاول المعنى .

(اللہ تعالیٰ کا ارشاد ”انما اوتيته على علم بل هي فتنة“ اس میں پہلی ضمیر کو مذکر اس لئے لایا گیا ہے

کیونکہ یہاں نعمۃ انعام کے معنی میں ہے اور بعض نے کہا اس لئے کہ یہاں نعمۃ سے مراد مال ہے اور دوسری ضمیر کو اس لئے ذکر لایا گیا ہے کیونکہ وہ نعمۃ کی طرف لوٹ رہی ہے اور یہاں نعمۃ کا لفظ مراد ہے جیسا کہ پہلی ضمیر لوٹانے کے

وقت نعمۃ کا معنی مراد لیا گیا ہے)

پانچویں آیت میں یہ بیان فرمایا کہ یہ جملہ ایسے شخص نے کہا ہے جسے مال دے کر نوازا گیا اس سے پہلے بھی لوگ اس طرح کہتے رہے ہیں اور اسے زبان پر لاتے رہے ہیں وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا یہ مال ہمیں فائدہ پہنچا دے گا لیکن یہ مال نہ دنیا کے عذاب سے بچا سکا اور نہ انہیں آخرت کے عذاب میں اس سے کوئی فائدہ پہنچے گا۔

چھٹی آیت میں فرمایا ان لوگوں نے جو برے اعمال کئے انہیں کا بدلہ مل گیا اور جو وہ موجودہ لوگ ہیں ان میں جو ظالم ہیں وہ بھی عنقریب اپنے اعمال کا بدلہ پالیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی چنانچہ بدر میں سردارانِ قریش میں سے ستر آدمی مقتول ہوئے اور ستر قیدی ہوئے اور جو زندہ بچ گئے تھے بڑی ذلت اور رسوائی کے ساتھ واپس ہوئے ساتھ ہی وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ بھی فرمایا یعنی ہم جن لوگوں کو عذاب دینا چاہیں عذاب دے دیں گے ایسا نہیں ہے کہ مشرکین کافرین میں سے کوئی شخص کہیں بھاگ کر چلا جائے اور ہمارے قبضہ قدرت سے نکل جائے۔

ساتویں آیت میں فرمایا کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ جس کے لئے چاہتا ہے رزق کو فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے یہ سب اس کی مشیت اور حکمت پر مبنی ہے ہنرمند کو بھی دیتا ہے اور بے ہنر کو بھی علم والے تنگی اٹھاتے ہیں اور جاہل جٹ سیٹھ جی بنے رہتے ہیں جس کے پاس جو کچھ ہے اللہ کے فضل سے ہے اس میں اپنے کسب اور ہنر کا دخل نہ جائیں۔

بناداناں چنانا روزی رساند کہ دانا اندراں حیراں بماند

قُلْ يٰعِبَادِىَ الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ

آپ فرمادیجئے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو جاؤ بلاشبہ اللہ تمام گناہوں کو معاف فرمادے گا

جَمِيعًا اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ ۝ وَاَنِيبُوا اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْأَلُوْهُ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاتِيَكُمْ

بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے نہایت رحم والا ہے اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس کے فرمانبردار بن جاؤ اس سے پہلے کہ تمہارے پاس

الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ۝ وَاتَّبِعُوا اَحْسَنَ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ

عذاب آئے پھر تمہاری مدد نہ کی جائے اور تم اپنے رب کے پاس سے آئے ہوئے اچھے اچھے حکموں پر چلو مل اس کے کہ تم پر

يَّاتِيَكُمْ الْعَذَابُ بِغَتَةٍ ۝ اَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۝ اَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَّحْسُرُنِىْ عَلٰى مَا

اچانک عذاب آپڑے اور تم کو خیال بھی نہ ہو کبھی کوئی جان یوں کہنے لگے کہ ہائے میری حسرت اس چیز پر جو میں نے

فَرَّطْتُ فِىْ جَنْبِ اللّٰهِ وَاِنْ كُنْتُ لِنِ السَّآخِرِيْنَ ۝ اَوْ تَقُولَ لَوْ اَنَّ اللّٰهَ هَدٰى سَبِيْ

اللہ کے بارے میں نصیر کی اور بے شک بات یہ ہے کہ میں مذاق بنانے والوں میں سے تھا یا کوئی جان یوں کہنے لگے

لَا كُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ۝ اَوْ تَقُولَ حِيْنَ تَرٰى الْعَذَابَ لَوْ اَنَّ لِىْ كَذَرَةً فَاَكُوْنَ مِنَ

کہ اگر میری واپسی ہو جاتی تو میں نیک کام کر نیوالوں میں سے ہو جاتا ہاں بات یہ ہے کہ تیرے پاس

الْمُحْسِنِيْنَ ۝ بَلٰى قَدْ جَاۤءَتْكَ اِيْتٰى فَاكْذَبْتَ بِهَا وَاسْتَكَبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ۝

میری آیتیں آئیں تو نے انہیں جھٹلا دیا اور تو نے تکبر اختیار کیا اور تو کافروں میں سے تھا اور اے مخاطب تو

وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى

قیامت کے دن دیکھے گا جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ان کے چہرے سیاہ ہوں گے کیا دوزخ میں

لَا تُنْتَكِرِينَ ۝ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمِثْلِ أَزْتِهِمْ لَا يَمْسُهُمْ الشُّوْءُ وَلَا هُمْ يُعْزَنُونَ ۝

تکبر والوں کا ٹھکانہ نہیں ہے اور اللہ تقویٰ والوں کو ان کی کامیابی کے ساتھ نجات دے گا انہیں تکلیف نہ پہنچے گی اور نہ وہ ٹھگن ہوں گے

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۝ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

اللہ ہر چیز کا پیدا فرمانے والا ہے اور وہ ہر چیز میں تصرف کر نیوالا ہے اسی کے لئے آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝

اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا یہ لوگ تباہ ہونے والے ہیں۔

## اللہ تعالیٰ کی رحمت عامہ کا اعلان

### انابت الی اللہ کا حکم، مکذبین اور متکبرین کی بد حالی

تفسیر: اللہ تعالیٰ حکیم ہے سمیع ہے بصیر ہے علیم ہے خبیر ہے قہار ہے غفار ہے وہ گناہوں پر مواخذہ بھی فرماتا ہے

اور معاف بھی فرمادیتا ہے اس کی مغفرت بہت بڑی ہے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی شانِ غفاریت کا عام اعلان کیا اور فرمایا۔

قُلْ يُعْبَادُوا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ (آپ میرے بندوں سے فرمادیجئے کہ اللہ کی رحمت

سے ناامید نہ ہوں) کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ میں تو بہت بڑا گناہگار ہوں میری بخشش کیسے ہوگی جتنا بڑا بھی جو شخص گناہگار ہو اللہ تعالیٰ

مغفرت فرمادے گا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم میں آیت شریفہ قُلْ يُعْبَادُوا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ

سے بڑھ کر کوئی دوسری آیت نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت کا اعلان ہو (روح المعانی)

البتہ کافر اور مشرک کی مغفرت ہونے کے لئے اسلام قبول کرنا شرط ہے کفر پر برقرار رہتے ہوئے معافی اور مغفرت

نہیں ہو سکتی جیسا کہ سورۃ النساء میں فرمایا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ

ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا (بیشک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہ بخشیں گے کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا جائے اس کے سوا اور جتنے گناہ

ہیں جس کے لئے منظور ہوگا اس کے گناہ بخش دیں گے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے وہ بڑی دور کی گمراہی میں جا

پڑا) اور سورۃ آل عمران میں فرمایا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَأُمَمَاتُوا وَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ يُقْبَلُ مِنْ أَحَدِهِمْ قِيلَ أَلَا رَضِيتُمْ بِذُنُوبِكُمْ ۖ لَوْ

اَفْتَدَىٰ بِهَا ۖ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَّاصِرِينَ (بیشک جو لوگ کافر ہوئے اور وہ مر گئے حالت کفر ہی میں سوان

میں سے کسی کا زمین بھر سونا قبول نہ کیا جاوے گا اگرچہ وہ معاوضہ میں اس کو دینا بھی چاہے ان لوگوں کو دردناک سزا ہوگی اور

ان کے حامی بھی نہ ہوں گے) کوئی کتنا ہی بڑا کافر و مشرک ہو اس کے لئے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کا دروازہ کھلا ہوا



ہے بشرطیکہ توبہ کر لے یعنی اسلام قبول کر لے مشرکین میں سے بہت سے لوگوں نے اور بہت سارے قتل کئے تھے اور اس میں بہت زیادہ آگے بڑھ گئے تھے اور ان میں سے بہت سے لوگوں سے زنا بھی کثرت سے صادر ہوا تھا یہ لوگ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ آپ جس چیز کی دعوت دیتے ہیں وہ تو اچھی چیز ہے لیکن ہمیں یہ توبہ بتائیے کہ ہم نے جو بڑے بڑے گناہ کئے ہیں کیا ان کا کفارہ ہو سکتا ہے اس پر سورۃ فرقان کی آیت کریمہ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَأُولَٰئِكَ يُرْجَوْنَ الْغُرُورَ اور سورۃ زمر کی آیت يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ نَازِلٍ هُوَیْ۔ (صحیح البخاری ص ۷۱۰ ج ۲)

جب کسی شخص نے اسلام قبول کر لیا کفر و شرک سے توبہ کر لی تو اس کے پچھلے گزشتہ سب گناہ معاف ہو گئے البتہ حقوق العباد کی ادائیگی کی فکر کرے اور جو شخص پہلے سے مسلمان ہے وہ کتنے ہی گناہ کر لے جب توبہ کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید نہ ہوں البتہ حقوق العباد کی تلافی کریں یہ بھی توبہ کا جزو ہے اگر توبہ سچی ہو اور صحیح ہو تو ضرور قبول ہوتی ہے حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے آیت شریفہ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلٰٓی اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ یَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِیْعًا کی تلاوت کی پھر فرمایا ولا بالی کہ اللہ تعالیٰ کچھ پرواہ نہیں کرتا (وہ جس کو چاہے بخش دے اور جس بڑے گناہ کو بخش دے اور جتنے بڑے گناہگار کو بخش دے اس کے لئے کچھ بھاری نہیں ہے اور اس کے کرم اور فضل اور رحمت اور مغفرت نے اسے کوئی روکنے والا نہیں صحیح طریقہ یہی ہے کہ برابر توبہ کرتے رہیں اگر توبہ ٹوٹ جائے پھر کر لیں توبہ ٹوٹی رہے بار بار کرتے رہیں) سورۃ زمر کی مذکورہ بالا آیت بندوں کے لئے بہت بڑی ڈھارس ہے اور اس میں بندوں کو حکم دیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہوں کروڑوں گناہ بھی اللہ کی رحمت اور مغفرت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے سورۃ یوسف میں ارشاد ہے۔

وَلَا تَاۡمِنُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّہٗ اِلَّا لَیۡلٰسٌ ۚ مِّنۡ دُوۡرِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوۡمُ الْکٰفِرُوۡنَ اور اللہ کی رحمت سے ناامید مت ہو بے شک اللہ کی رحمت سے وہی لوگ ناامید ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ اور سورۃ حجر میں ارشاد ہے: قَالَ وَمَنْ یَقْنَطُ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّہٖۤ اِلَّا الضَّالُّوۡنَ (حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے گفتگو فرماتے ہوئے کہا) کہ گمراہ لوگوں کے سوا اپنے رب کی رحمت سے کون ناامید ہوتا ہے۔

صغیرہ گناہوں کی مغفرت اور ان کا کفارہ تو اعمال صالحہ سے بھی ہوتا رہتا ہے لیکن کبیرہ گناہوں کی یقینی طور پر مغفرت ہو جانا توبہ کے ساتھ مشروط ہے اگر توبہ نہ کی اور اسی طرح موت آگئی تو بشرط ایمان مغفرت تو پھر بھی ہو جائے گی لیکن یہ کوئی ضروری نہیں کہ بلا عذاب کے مغفرت ہو جائے، اللہ تعالیٰ بلا توبہ بھی مغفرت فرما سکتا ہے اور اسے یہ بھی اختیار ہے کہ گناہوں کی سزا دینے کے لئے دوزخ میں ڈال دے پھر عذاب کے ذریعہ پاک و صاف کر کے جنت میں بھیجے چونکہ عذاب کا خطرہ بھی لگا ہوا ہے اس لئے سچی توبہ اور استغفار کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مغفرت کی امید رکھیں اس کی رحمت سے ناامید کبھی نہ ہوں تاکہ اس حال میں موت آئے کہ توبہ کے ذریعہ سب کچھ معاف ہو چکا ہو۔

وفادار بندوں کا یہ شعار نہیں کہ مغفرت کا وعدہ سن کر بے خوف ہو جائیں بلکہ مغفرتوں کی بشارتوں کے بعد اور زیادہ گناہوں سے بچنے اور نیکیوں میں ترقی کرنے کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے حضور اقدس ﷺ سے بڑھ کر کسی کے

لئے بشارتیں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی سب لغزشوں کی مغفرت فرمادی جس کا اعلان سورۃ الفتح کے شروع میں فرمادیا اس کے باوجود آپ راتوں رات نمازیں پڑھتے تھے جس کی وجہ سے آپ کے قدم مبارک سوچ گئے تھے جب کسی نے عرض کیا کہ آپ عبادت میں اتنی محنت فرماتے ہیں حالانکہ اللہ پاک نے آپ کا سب کچھ اگلا پچھلا (لغزش والا عمل) معاف فرما دیا اس پر آپ نے ارشاد فرمایا افلا اکون عبداً شکوراً (کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ ہوں) (رواہ البخاری ص ۱۵۲) مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے اتنی بڑی مہربانی فرمائی کہ میرا سب کچھ معاف فرمادیا تو اس کی شکر گزاری کا تقاضا یہ ہے کہ میں مزید طاعت اور عبادت کے ذریعہ اللہ کے قرب میں ترقی کرتا چلا جاؤں۔

کتنے ہی صحابہؓ ایسے تھے جن کو حضور اقدس ﷺ نے اسی دنیا میں خوشخبری دیدی تھی کہ وہ جنتی ہیں عشرہ مبشرہ (دس جنتی) تو مشہور ہی ہیں عموماً ان کو سب جانتے ہیں اور غزوہ بدر میں شرکت کرنے والے حضرات کو اللہ جل شانہ کی طرف سے حضور اقدس ﷺ نے یہ خوشخبری دی کہ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم یعنی تم جو چاہو کرو میں نے تم کو بخش دیا۔ ان حضرات کے علاوہ اور بھی صحابہؓ ہیں جن کو حضور اقدس ﷺ نے جنت کی بشارت دی لیکن ان حضرات نے اس کا یہ اثر بالکل نہیں لیا کہ گناہ کرتے چلے جائیں اور فرائض کو ضائع کرتے رہیں بلکہ یہ حضرات برابر گناہوں سے پرہیز کرتے رہتے تھے اور نیکیوں میں ترقی کے لئے کوشاں رہتے تھے اور معمولی سا گناہ ہو جانے پر فکر مند ہو جاتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے ہم کو انہی حضرات کا اتباع کرنا لازم ہے۔ سورۃ طہ میں فرمایا وَإِنِّي لَنَفْعَالِكُمْ لَئِن تَابُوا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحًا لَأُعْطِيَنَّهُمْ أَجْرًا كَثِيرًا (اور میں ایسے لوگوں کے لئے بڑا بخشنے والا ہوں جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور نیک عمل کرتے رہیں پھر راہ پر قائم رہیں یعنی مزید عمل صالح پر مداومت کریں)

معلوم ہوا کہ ایمان اور عمل صالح اور توبہ پر استقامت ضروری ہے یہ تفصیل اس لئے لکھی گئی ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت اور عفو مغفرت کی بات سن کر گناہوں میں ترقی نہ کرتا چلا جائے اور توبہ میں دیر نہ لگائے کیونکہ احادیث صحیحہ اور صریحہ سے یہ بات ثابت ہے کہ بہت سے اہل ایمان بھی اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں داخل ہوں گے پھر عذاب بھگت کر حضرات ملائکہ کرام اور حضرات انبیاء عظام علیہم السلام اور دیگر اہل ایمان کی شفاعت سے اور محض ارحم الراحمین جل مجدہ کی رحمت سے دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کر دیئے جائیں گے۔ (کمافی مشکوٰۃ الصالح ص ۳۹۰ ۳۹۱)

پھر فرمایا وَآتَيْنَا آلَ إِبْرٰہِیْمَ رَحْمَةً مِنَّا وَلَقَدْ نَجَّیْنَاهُمْ مِّنْ ذُلِّ آلِ فِرْعٰوْنَ فَکَرِهَ آلُ فِرْعٰوْنَ أَن یَّسَکُنُوا اَیْنَکُمْ وَآتَيْنَاکُمْ مِّنْ قَبْلِ أَن یَّهْبِیَ سَیْفٌ مِّنْ ذِی قُوَّةٍ لَّا تَمْلِکُ اَیْنَکُمْ وَآتَيْنَاکُمْ مِّنْ قَبْلِ أَن یَّهْبِیَ سَیْفٌ مِّنْ ذِی قُوَّةٍ لَّا تَمْلِکُ اَیْنَکُمْ (اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس کے فرماں بردار بن جاؤ اس سے پہلے کہ تمہارے پاس عذاب آئے پھر تمہاری مدد نہ کی جائے) اس آیت میں اللہ کی طرف رجوع ہونے اور اس کا فرماں بردار بننے کا حکم دیا اور فرمایا کہ عذاب کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس کے فرماں بردار بن جاؤ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آجائے گا تو اس وقت مدد نہ کی جائیگی لفظ ”آتینا“ سے مشتق ہے صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ اِنَابَۃ اور توبہ میں یہ فرق ہے کہ توبہ کرنے والا عذاب کے ڈر سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہے اور انابت کرنے والا اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل سے متاثر ہو کر شرماتا ہے اور یہ حیاء اسے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے پر آمادہ کرتی ہے پھر وَاسْتَسْلِمُوْا لَہٗ کَامَطْلَبٍ یَّتَاتِیْہِ لَہٗ کَاللّٰہِ تَعَالٰی شَانِہِکِی طَاعَتِیْ مِّنْ اَخْلَاصٍ مَّعَہٗ لَکَارَہِ۔

وَآتَيْنَاکُمْ مِّنْ قَبْلِ أَن یَّهْبِیَ سَیْفٌ مِّنْ ذِی قُوَّةٍ لَّا تَمْلِکُ اَیْنَکُمْ وَآتَيْنَاکُمْ مِّنْ قَبْلِ أَن یَّهْبِیَ سَیْفٌ مِّنْ ذِی قُوَّةٍ لَّا تَمْلِکُ اَیْنَکُمْ (اور اپنے

رب کے پاس سے آئے ہوئے اچھے اچھے حکموں پر چلو قفل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آپڑے اور تم کو خیال بھی نہ ہو) اس آیت میں قرآن کریم کا اتباع کرنے کا حکم دیا ہے لفظ احسن اسم تفصیل کا صیغہ ہے اس کے بارے میں بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ حسن کے معنی ہیں اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے عزائم مراد ہیں جو رخصتوں اور اجازتوں کے مقابلے میں اختیار کئے جاتے ہیں اور ان کا ثواب زیادہ ہوتا ہے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ ہر عبادت میں جو افضل ترین اعمال ہیں ان پر عمل کر کے ثواب حاصل کرنے کا حکم دیا ہے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ جو حکم منسوخ ہیں ان کی جگہ اس حکم پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے جو منسوخ نہیں ہے حضرت عطاء بن یسار رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ قُلْ يُعْبَادُوا الَّذِينَ سے لیکر وَاسْتَعْمُوا آیتوں میں مدینہ منورہ میں وحشی بن حرب اور ان کے جیسے افراد کے بارے میں نازل ہوئیں (وحشی بن حرب وہی ہیں جنہوں نے بحالت کفر غزوہ احد کے موقع پر رسول اللہ ﷺ کے چچا حضرت حمزہ بن عبدالمطلبؓ کو شہید کیا تھا)

آیات بالا کا مضمون سامنے رکھنے سے معلوم ہوا کہ کتنا بھی کوئی بڑا گناہ کرے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید نہ ہو اس کی رحمت اور مغفرت کا یقین رکھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو۔ احکام قرآنیہ پر عمل کرتے رہیں اور اس بات سے ڈرتے رہیں کہ گناہوں کی وجہ سے عذاب نہ آجائے انیسوا واسلموا میں بتایا کہ باوجود وعدہ مغفرت کے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں اور اعمال خیر میں لگے رہیں۔

اَنْ تَقُولُ نَفْسُ (الآیات الثلاث) (ان آیات میں یہ بتا دیا کہ اسی دنیا میں اپنے اعمال درست کر لئے جائیں گناہوں سے پرہیز کیا جائے تاکہ قیامت کے دن کوئی شخص پہچانتے ہوئے یوں نہ کہے کہ ہائے ہائے میں نے کیا کیا اللہ تعالیٰ شانہ کے احکام کے بارے میں تفصیر کی اب مجھے یہاں اس کی سزا مل رہی ہے اور نہ صرف یہ کہ میں نافرمان تھا بلکہ اللہ تعالیٰ شانہ کے دین کا مذاق بنانے والوں میں سے تھا اور اس کے نیک بندوں کی ہنسی اُڑاتا تھا اور کوئی شخص میدان قیامت میں یوں نہ کہنے لگے کہ اے اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں متقیوں میں سے ہوتا یعنی گناہ نہ کرتا (اللہ تعالیٰ نے رسول بھیج دیا قرآن نازل فرمایا ایمان کی دعوت دیدی اور اس کی جزا بھی بتادی اور کفر کا جرم عظیم ہونا بیان کر دیا اور اس کی سزا بھی بتادی اب یوں کہنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دیتا تو میں متقیوں میں سے ہوتا اس بات کے کہنے کا موقع نہیں رہا۔

قیامت کے دن کسی کے لئے یہ بات کہنے کا موقع نہیں رہا کہ مجھے واپس لوٹا دیا جائے اگر مجھے واپس مل جائے تو دنیا میں جا کر خوب نیک بن جاؤں جس نے پہلی زندگی ضائع کر دی اب دوسری زندگی میں کیا ہدایت قبول کرے گا جبکہ اس مرتبہ بھی اموال اور اولاد کا فتنہ موجود ہوگا اسی لئے سورۃ الانعام میں فرمایا وَكَوْرُؤُ الْعَاذُ وَالْمَا تُهَوِّعُهُ وَهَلْ تَكْذِبُونَ (اور اگر انہیں واپس کر دیا جائے تو ضرور پھر وہی عمل کریں گے جس سے منع کیا گیا اور بلاشبہ وہ جھوٹے ہیں)

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بَلَىٰ قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ (ہاں تیرے پاس میری آیات آئیں سو تو نے انہیں جھٹلادیا اور تو کافروں میں سے تھا)

اس کے بعد قیامت کے دن کی بد حالی بیان فرمائی جو کافروں کو درپیش ہوگی فرمایا تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا کفر اختیار کیا (اور وہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیں جن سے وہ بری اور

بیزار ہے کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے ہدایت سامنے آ جانے کے بعد ہدایت کو قبول نہ کرنا چونکہ تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے یعنی کافر آدمی حق کو اس لئے قبول نہیں کرتا کہ میری قوم اور سوسائٹی کے لوگ کیا کہیں گے اس لئے فرمایا اَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِيْنَ (کیا جہنم میں تکبر والوں کا ٹھکانا نہیں ہے) یعنی اہل تکبر کا تکبر انہیں لے ڈوبے گا جس نے دنیا میں ایمان قبول نہ کرنے دیا، تکبر کی وجہ سے یہ لوگ دوزخ میں جائیں گے۔

اس کے بعد اہل ایمان کا ثواب بیان فرمایا وَيُنْفِخُ اللّٰهُ اَلْكَفَّٰرِيْنَ اَتَقُوْا (الایہ) ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے تقویٰ اختیار کیا کفر اور شرک سے بھی بچے اور گناہوں سے بھی اللہ تعالیٰ انہیں ان کی کامیابی کے ساتھ نجات دے گا اور اہل تکبر کے ٹھکانہ یعنی دوزخ ہے بچالے گا انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔

اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ (اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے) چونکہ ہر چیز کو اسی نے پیدا فرمایا ہے ہر چیز میں اس کا تصرف بھی پورا پورا ہے

لَهُ مَقَالِیْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (اسی کے لئے آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں) وہ تصرف کرنے والا بھی ہے اور محافظت فرمانے والا بھی ہے

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَلٰٓئِیْہِ اللّٰهُ اُولٰٓئِکَ مُمَّا الْخٰصِرُوْنَ (اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا یہ لوگ تباہ ہونے والے ہیں)۔

قُلْ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَاْمُرُوْنَ اَعْبُدُوْا اَيُّهَا الْجٰہِلُوْنَ ۝ وَلَقَدْ اَوْحٰی اِلَیْكَ وَاِلَی الَّذِیْنَ

آپ فرمادیجئے کہ اے جاہلو! کیا میں اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کروں؟ اور یہ واقعی بات ہے کہ آپ کی طرف اور آپ سے پہلے جو رسول تھے ان کی

مِّنْ قَبْلِكَ ۚ لَیِّنْ اَشْرَکْتَ لَیْعَبْطَنَّ عَمَلُکَ وَلَکَ تُوْنَنٌ مِّنَ الْخٰسِرِیْنَ ۝ بَلِ اللّٰهُ فَاَعْبُدْ وَکُنْ

طرف سے دینی بھیجی گئی کہ اسے مخاطب اگر تو نے شرک کیا تو تیرا عمل جبط ہو جائے گا اور تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا بلکہ اللہ ہی کی عبادت کر اور

مِّنَ الشَّکِرِیْنَ ۝

شکر گزاروں میں سے ہو جا۔

آپ فرمادیجئے کہ اے جاہلو میں اللہ کے سوا

کسی دوسرے کی عبادت نہیں کر سکتا

تفسیر: مفسر ابن کثیرؒ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ مشرکین اپنی جہالت کی وجہ سے رسول اللہ ﷺ کو دعوت دی کہ ہمارے معبودوں کی عبادت کرنے لگوا اگر ایسا کرو گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ تمہارے معبود کی عبادت کرنے لگیں گے اس پر آیت کریمہ قُلْ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ اَشْرَکْتَ (نازل ہوئی اللہ تعالیٰ شانہ نے آپ کو حکم دیا ان مشرکوں سے کہہ دیجئے کہ اے جاہلو! کیا مجھے حکم دے رہے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کرنے لگوں؟ مزید

فرمایا وَلَقَدْ أَهْجَىٰ إِلَيْكَ کہ آپ کی طرف اور آپ سے پہلے انبیاء کرام علیہم السلام سب کی طرف ہم نے یہ وحی بھیجی ہے کہ اگر بالفرض اے مخاطب تو نے شرک اختیار کر لیا تو اللہ جل شانہ تیرا عمل جط فرما دے گا یعنی بالکل اکارت کر دیا جائے گا جس پر ذرا بھی ثواب نہ ملے گا وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا (یعنی اعمال کا بھی کچھ نہ ملے گا اور جان بھی ضائع ہوگی اس کی کچھ قیمت نہ ملے گی) جان کی مکمل بربادی ہوگی کیونکہ دوزخ میں داخلہ ہوگا حضرات انبیاء کرام علیہم السلام تو گناہوں سے بھی معصوم تھے شرک اور کفر کا ارتکاب ان سے ہو ہی نہیں سکتا لیکن بر سبیل فرض اگر کسی نبی نے بھی شرک کر لیا تو اس کی بھی جان بخشی نہ ہوگی غیروں کا تو سوال ہی کیا ہے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو خطاب کر کے ان کی امتوں کو بتا دیا کہ دیکھو شرک ایسی بری چیز ہے کہ اگر کسی نبی سے بھی صادر ہو جائے تو اس کے اعمال صالحہ برباد ہو جائیں گے اور وہ تباہ برباد ہوگا لہذا امتیوں کو تو اور زیادہ شرک سے دور رہنا اور بیزار رہنا لازم ہے۔

بَلِ اللّٰهُ فَاعْبُدْ (بلکہ آپ صرف اللہ ہی کی عبادت کریں) وَلَكِنَّ مِنَ الْكٰفِرِیْنَ (اور شکر گزروں میں سے ہو جائیں) اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرک کے ماحول میں پیدا فرمایا لیکن شرک سے بچایا موحد بنایا تو حید کی دعوت کا کام آپ کے سپرد کیا لہذا آپ پر شکر ادا کرنا فرض ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کیجئے اور اس کا شکر بھی ادا کرتے رہئے یہ لوگ جو آپ کو معبودوں کی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں اس کی طرف متوجہ نہ ہو جائیے اور ان کی باتوں میں نہ آئیے اللہ کی عبادت کرانے کے لئے خود غیر اللہ کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے جو لوگ حق قبول نہیں کرتے ان کا وبال ان پر پڑے گا۔

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِۦ وَالْاَرْضُ جَمِیْعًا قَبْضَتُهُ یَوْمَ الْقِیَمَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوٰیٰتٌ

اور ان لوگوں نے اللہ کی عظمت نہیں کی جیسی عظمت کرنا لازم تھا حالانکہ قیامت کے دن ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے دانے

یُمِیْنِہٖ سُبْحٰنَہٗ وَتَعَالٰی عَمَّا یُشْرِكُوْنَ ۝ وَنُفِخَ فِی الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ

ہاتھ میں لیے ہوئے ہوں گے وہ پاک ہے اور اس سے برتر ہے جو لوگ شرک کرتے ہیں اور صور میں پھونکا جائے گا تو جو بھی آسمانوں میں

وَمَنْ فِی الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ سَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ نُفِخَ فِیْہِ اٰخَرٰی فَاِذَا هُمْ قِیَامٌ یَنْظُرُوْنَ ۝

اور زمین میں ہوں گے سب بے کار ہو جائیں گے مگر جنہیں اللہ چاہے پھر اس میں دوبارہ پھونکا جائے گا تو وہ اچانک سب کھڑے ہوں گے دیکھتے ہوں گے

وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُورِ رَبِّہَا وَوُضِعَ الْكِتٰبُ وَجِئَیْ بِالنَّبِیِّیْنَ وَالشُّہَدَآءِ وَقُضِیَ

اور زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی اور اعمال نامے رکھ دیئے جائیں گے اور پیغمبروں کو اور گواہوں کو لایا جائے گا اور لوگوں کے سامنے

بَیِّنٰتُہُمُ بِالْحَقِّ وَہُمْ لَا یُظْلَمُوْنَ ۝ وَوُفِیَتْ کُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَہُوَ اَعْلَمُ بِمَا یَفْعَلُوْنَ ۝

حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا ہر جان کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور اللہ ان کاموں کو خوب جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔

## وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِۦ

تفسیر: اللہ تعالیٰ شانہ کی ذات بہت بڑی ہے اس کو اس دنیا میں دیکھا نہیں ہے لیکن اس کی صفات کا مظاہرہ ہوتا رہتا ہے اس کی صفت خالقیت کو سب عقل مند جانتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ سب کچھ اسی نے پیدا کیا ہے اس کا حق ہے کہ

صرف اسی کی عبادت کی جائے جن لوگوں نے کسی کو اس کا ساجھی ٹھہرایا اور عبادت میں شریک بنایا اور نہ صرف یہ کہ خود مشرک بنے بلکہ اس کے رسول کو بھی شرک کی دعوت دے دی ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی وہ تعظیم نہیں کی جس تعظیم کا وہ مستحق ہے اس کی ذات پاک کے لئے شریک تجویز کرنا بہت بڑی حماقت اور ضلالت ہے دنیا میں اس کی قدرت کا مظاہرہ ہوتا رہتا ہے اور قیامت کے دن ایک مظاہرہ اس طرح سے ہوگا کہ ساری زمین اس کی ٹٹھی میں ہوگی اور سارے آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہونگے وہ ہر عیب سے پاک ہے اور ان لوگوں کے شرکیہ اقوال و افعال سے بھی پاک ہے۔ چونکہ سورہ شوریٰ میں ارشاد فرمایا ہے کہ لَیْسَ کَمِثْلِہٖ شَیْءٌ (اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے) اس لئے اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم سے اور اعضاء سے پاک ہے اگر آیت کریمہ کا معنی ہاتھ کی ٹٹھی لیا جائے اور یمینہ سے داہنا ہاتھ مراد لیا جائے تو اس سے جسمیت اور مشکیّت لازم آتی ہے اس لئے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ آیت شریفہ کے مضمون کے بارے میں یوں عقیدہ رکھو کہ اس کا جو بھی مطلب اللہ کے نزدیک ہے وہ حق ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کا معنی اور مفہوم اسی کی طرف تفویض کرتے ہیں بعض علماء نے تاویل بھی کی ہے لیکن محققین تاویل کے بجائے تفویض کو اختیار کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسم سے اور اعضاء سے پاک ہے اور جو کچھ بھی قرآن حدیث میں آیا ہے وہ سب حق ہے اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے ہم اپنی طرف سے مطلب تجویز نہیں کرتے اس طرح کا مضمون جہاں کہیں بھی آئے اس کے بارے میں تفویض والی صورت اختیار کی جائے۔ آئندہ جو احادیث نقل کی جائیں گی جو آیت بالا سے متعلق ہیں ان کے معنی کی تفویض بھی اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک یہودی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ اے محمد ﷺ بلاشبہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کو ایک انگلی پر اور زمینوں کو ایک انگلی پر، اور پہاڑوں کو ایک انگلی پر اور درختوں کو ایک انگلی پر، اور (باقی) ساری مخلوق کو ایک انگلی پر روک لے گا پھر فرمائے گا کہ اَنَا الْمَلِکُ (میں بادشاہ ہوں) یہ سن کر رسول اللہ ﷺ کو ہنسی آگئی یہاں تک کہ آپ کی مبارک ڈاڑھیں ظاہر ہو گئیں اس کے بعد آپ نے آیت (بَلَا) وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ تلاوت فرمائی آپ کا ہنسا اس یہودی کی تصدیق کے طور پر تھا۔

(صحیح بخاری ۱۱۰۲/۱۱۰۳)

## قیامت کے دن صور پھونکے جانے کا تذکرہ

پھر فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ (الآیہ) اور صور میں پھونک ماری جائے گی تو جو بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہیں سب بے ہوش ہو جائیں گے مگر جنہیں اللہ چاہے پھر صور میں دوبارہ پھونکا جائے گا تو اچانک وہ کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے جب قیامت قائم ہوگی تو اس کی ابتداء صور پھونکے جانے سے ہوگی اور دوسرے صور پھونکا جائے گا رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اسرائیل علیہ السلام کان لگائے ہوئے ہیں اور پیشانی کو جھکائے ہوئے انتظار میں ہیں کہ کب صور پھونکنے کا حکم ہو آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ صور ایک سینگ ہے جس میں پھونکا جائے گا۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۸۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ البتہ قیامت ضرور اس حالت میں قائم ہوگی کہ دو شخصوں نے اپنے درمیان (خرید و فروخت کے لئے) کپڑا اکھول رکھا ہوگا ابھی معاملہ طے کرنے اور کپڑا

لپٹنے بھی نہ پائیں گے کہ قیامت قائم ہو جائے گی (پھر فرمایا کہ) البتہ قیامت ضرور اس حال میں قائم ہوگی کہ ایک انسان اپنی اونٹنی کا دودھ نکال کر لے جا رہا ہوگا اور پی بھی نہ سکے گا اور قیامت یقیناً اس حال میں قائم ہوگی کہ انسان اپنا حوض لپ رہا ہوگا اور ابھی اس میں موسیٰیوں کو پانی پلانے بھی نہ پائے گا اور واقعی قیامت اس حال میں قائم ہوگی کہ انسان اپنے منہ کی طرف لقمہ اٹھائے گا اور اسے کھا بھی نہ سکے گا۔

(رواہ البخاری)

پہلی بار صور پھونکا جائے گا تو جو لوگ زندہ ہونگے وہ مرجائیں گے اور ان پر بے ہوشی طاری ہو جائیگی اور جو اس سے پہلے مر چکے تھے وہ بے ہوش ہو جائیں گے آسمانوں میں اور زمینوں میں جو لوگ ہونگے سب پر بے ہوشی طاری ہو جائیگی پھر دوبارہ صور پھونکا جائیگا تو سب اٹھ کھڑے ہوں گے، قبروں سے نکل کر موقف (یعنی حساب کی جگہ) کی طرف چل دیں گے، دونوں بار جو صور پھونکا جائے گا ان کے درمیان کتنا فاصلہ ہوگا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس بارے میں رسول اللہ ﷺ کا ارشاد نقل کرتے ہوئے چالیس کا عدد ذکر کیا حاضرین نے عرض کیا اے ابو ہریرہ کیا چالیس دن کا فاصلہ ہوگا؟ فرمایا مجھے پتہ نہیں عرض کیا گیا کہ چالیس مہینے کا فاصلہ ہوگا؟ فرمایا مجھے پتہ نہیں عرض کیا گیا چالیس سال کا فاصلہ ہوگا؟ فرمایا مجھے پتہ نہیں۔

(مشکوٰۃ المصابیح ص ۲۸۱)

## الْأَمَنُ شَاءَ اللَّهُ كَاسْتِثْنَاءٍ

الْأَمَنُ شَاءَ اللَّهُ میں کن حضرات کا استثناء ہے اس کے بارے میں احادیث مرفوعہ صحیحہ میں کوئی واضح بات نہیں ملتی البتہ ایک حدیث میں یوں ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مسلمان اور ایک یہودی کے درمیان کچھ گالی گلوچ ہوگئی باتوں باتوں میں مسلمان نے یوں کہہ دیا کہ قسم اس ذات کی جس نے محمد رسول اللہ ﷺ کو سارے جہانوں پر فضیلت دی ہے یہ سن کر یہودی نے یوں کہا قسم اس ذات کی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو سارے جہانوں پر فضیلت دی ہے یہ سن کر اس مسلمان نے یہودی کے منہ پر طمانچہ مار دیا وہ یہودی نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں چلا گیا اور واقعہ بیان کیا نبی اکرم ﷺ نے اس مسلمان کو بلایا جس نے طمانچہ مار دیا تھا اور اس سے صورت حال معلوم کی اس نے صورت حال بیان کر دی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے موسیٰ پر فضیلت نہ دو (یعنی اس طرح کی کوئی بات نہ کہو جس سے ان کے مرتبہ کی تنقیص ہوتی ہو) کیونکہ قیامت کے دن سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور میں بھی ان کے ساتھ بے ہوش ہو جاؤں گا پھر سب سے پہلے مجھے ہی ہوش آئے گا میں دیکھوں گا کہ موسیٰ عرش کعبہ کو پکڑے کھڑے ہیں، میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ ان لوگوں میں ہونگے جو بے ہوش ہو گئے تھے اور انہیں مجھ سے پہلے ہوش آ گیا یا وہ ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کا استثناء کیا گیا ہے یعنی الْأَمَنُ شَاءَ اللَّهُ کے عموم میں وہ بھی شامل ہوں گے اور ایک روایت میں یوں ہے کہ میں نہیں جانتا کہ طور پر انہیں جو بے ہوشی طاری ہوئی تھی اس کو اس وقت کی بے ہوشی کے حساب لگا دیا گیا (اور ان پر بے ہوشی ہی نہ ہو) یا بے ہوش تو ہوں گے لیکن مجھ سے پہلے ہوش میں آچکے ہوں گے۔ (رواہ البخاری ص ۳۸۵، ج ۱، ص ۶۹۶، ج ۲ ص ۶۸۸)

چونکہ اس کی تصریح نہیں ہے کہ الْأَمَنُ شَاءَ اللَّهُ کا مصداق کون ہے اس لئے مفسرین میں سے کسی نے یوں کہا کہ جو حضرات بے ہوش نہ ہونگے ان سے جبرئیل، اسرافیل اور میکائیل اور ملک الموت علیہم السلام مراد ہیں اور بعض مفسرین



نے فرمایا ہے کہ اس سے عالمین عرش مراد ہیں اور یوں بھی لکھا ہے کہ پہلی بار صور پھونکے جانے پر حضرات بے ہوشی سے محفوظ رہیں گے بعد میں ان کو بھی موت آجائے گی۔

وَأَنفَرَتِ الْأَرْضُ يَنفُورًا يَهَا (اور زمین روشن ہو جائے گی اپنے رب کے نور سے) یعنی شمس و قمر کے بغیر محض اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پر روشنی پھیل جائے گی۔

وَوُضِعَ الْكِتَابُ (اور کتاب رکھ دی جائے گی) یعنی اعمال نامے سامنے آجائیں گے اور عمل کرنے والوں کے ہاتھوں میں ان کے اعمال نامے رکھ دیئے جائیں گے وَجَئِیْ تِلْكَ الْيَوْمِیْنِ اور نبیوں کو لایا جائے گا تاکہ وہ اپنی امتوں کے بارے میں گواہی دیں اور خود ان سے تبلیغ کے بارے میں سوال کیا جائے جیسا کہ سورۃ الاعراف میں فرمایا فَكَتَبْنَا لِلَّذِیْنَ أُزْسِلَ إِلَهُمْ وَلَكِنَّ الْمُرْسَلِیْنَ

وَالشَّهِدَاءَ (اور شہداء کو لایا جائے گا) لفظ الشہداء کا عموم تمام گواہی دینے والوں کو شامل ہے جن میں تمام امتوں کے انبیاء کرام علیہم السلام اور اعمال نامے لکھنے والے فرشتے اور انسانوں کے اپنے اعضاء ہاتھ پاؤں اور زبانیں سب داخل ہیں۔ وَفُضِّلَ بَيْنَهُمُ الْيَقِیْنُ (اور بندوں کے درمیان حق کے ساتھ یعنی انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا) وَهُمْ لَا یُظْلَمُونَ (اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا)

وَوُفِّیَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ (اور ہر جان کو اسکے عمل کا پورا بدلہ دیا جائیگا) وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا یَفْعَلُونَ (اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ لوگ کرتے ہیں) یعنی اسے سب کے اعمال معلوم ہیں وہ اپنی حکمت کے مطابق جزا و سزا دے گا یہ جو فرمایا کہ ہر شخص کو پورا بدلہ دیا جائیگا اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکیوں کے بدلے میں کمی نہ ہوگی البتہ نیکیوں میں اضافہ کر کے ثواب میں اضافہ کرو یا جائیگا جیسا کہ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ مَثَلٍ هَا (میں بیان فرمایا ہے اور برے اعمال کا پورا بدلہ دینے کا یہ مطلب ہے کہ جس قدر برے عمل ہوں گے ان کے بقدر عذاب دیا جائے گا اور اُنکی جزائے موعود میں اضافہ نہ کیا جائیگا جِسْكَو وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا یُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا اور وَجَزَا سَوَیَّةً مِّثْلَ مَا هُمَا میں بیان فرمایا ہے۔

وَسِیْقَ الَّذِیْنَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ أَفْطَحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ

اور کافر لوگ گروہ گروہ بنا کر دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے یہاں تک کہ جب دوزخ کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیئے جائیں گے اور ان سے

خَزَنَتُهَا أَلَمْ یَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ یَتْلُونَ عَلَیْكُمْ آیَاتِ رَبِّكُمْ وَیُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ یَوْمِكُمْ

دوزخ کے محافظ کہیں گے کیا تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم ہی میں سے تھے جو تمہیں تمہارے رب کی آیات سناتے تھے جو تمہیں آج کے دن کی ملاقات سے

هَذَا قَالُوا بَلٰی وَلٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلٰی الْكٰفِرِیْنَ ۚ قِیْلَ ادْخُلُوا ابْوَابَ جَهَنَّمَ

ڈراتے تھے وہ کہیں گے کہ ہاں آئے تو تھے لیکن عذاب کا کلمہ کافروں پر ثابت ہو کر رہا کہا جائے گا کہ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اس میں تم

خٰلِدِیْنَ فِیْهَا فَبِئْسَ مَثْوٰی الْمُتَكَبِّرِیْنَ ۚ وَسِیْقَ الَّذِیْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّىٰ

ہمیشہ رہو گے سو برا ٹھکانہ ہے تکبر کرینوالوں کا اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرے انہیں جنت کی طرف گروہ گروہ بنا کر روانہ کر دیا جائے گا یہاں تک کہ

إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلِّمُوا عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴿۴۴﴾

جب جنت کے قریب پہنچ جائیں گے اس حال میں کہ اس کے دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے اور ان سے جنت کے محافظ کہیں گے کہ تم پر سلام ہو تم خوش کے ساتھ ہو تم اس میں ہمیشہ رہنے کے لئے داخل ہو جاؤ

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ ﴿۴۵﴾

اور وہ کہیں گے کہ سب تعریف ہے اللہ کے لئے جس نے ہم سے سچا وعدہ کیا اور ہمیں زمین کا وارث بنا دیا ہم جنت میں جہاں چاہیں قیام کریں

فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمِلِينَ ﴿۴۶﴾ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ

سوا اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا اور آپ فرشتوں کو دیکھیں گے کہ عرش کے گرد گروہ حلقہ بنائے ہوئے ہیں وہ اپنے رب کی تسبیح و تحمید میں مشغول ہوں گے

رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۴۷﴾

اور بندوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ سب تعریف ہے اللہ کے لئے جو رب العالمین ہے

## اہل کفر اور اہل ایمان کی جماعتوں کا گروہ گروہ اپنے اپنے ٹھکانوں تک پہنچنا

**تفسیر:** اس رکوع میں اہل کفر اور اہل ایمان کا انجام بیان فرمایا ہے۔ اول کافروں کا حال بیان فرمایا کہ کافروں کو گروہ گروہ بنا کر دوزخ کی طرف ہانک کر لے جایا جائے گا سورۃ الطور میں فرمایا یَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دُفْعًا (جس روز انہیں دوزخ کی آگ کی طرف دھکے دے کر لایا جائے گا) جب دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا تو ان کے مختلف گروہ ہوں گے کیونکہ کفر کے بہت سے اقسام ہیں اور کفر کے مراتب بھی جُدا جُدا ہیں اس لئے ایک ایک طرح کے کافروں کا ایک گروہ ہوگا۔ قال صاحب الروح ای سيقوا اليها بالعنف والاهانة افوا جامتفرقة بعضها في اثر بعض مترتبة حسب ترتب طبقاتهم في الضلالة والشرارة۔ (تفسیر روح المعانی والے فرماتے ہیں: یعنی جہنم کی طرف سختی اور ذلت کے ساتھ ہانکے جائیں گے مختلف گروہوں کی شکل میں گراہی و شرارت میں اپنے اپنے درجہ کے مطابق ترتیب سے) اسی طرح چلائے جاتے رہیں گے یہاں تک کہ جب دوزخ کے قریب پہنچ جائیں گے تو اس میں داخل کرنے کے لئے اس کے دروازے کھول دیئے جائیں گے اس سے پہلے دوزخ کے دروازے بند ہوں گے جیسے کہ دنیا میں بھی جیل خانوں کے دروازے بند رہتے ہیں جب کوئی قیدی لایا جاتا ہے تو کھول دیئے جاتے ہیں دوزخ کے جو ذمہ دار فرشتے ہوں گے وہ ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم ہی میں سے تھے (جن سے علم حاصل کرنا اور عمل سیکھنا اور ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا تمہارے لئے آسان تھا وہ تم پر اللہ کی آیات تلاوت کرتے تھے اور آج کے دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے اس کے جواب میں وہ لوگ کہیں گے کہ ہاں اللہ کے رسول آئے تھے تو انہوں نے ہمیں پروردگار جل مجدہ کی آیات بھی سنائیں اور آج کے دن کی ملاقات سے بھی ڈرایا لیکن عذاب کا کلمہ کافروں کے حق میں ثابت ہو گیا اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ فرمایا تھا کہ کافر دوزخ میں جائیں گے اس کے مطابق ہمیں یہاں آنا پڑا نہ کافر ہوتے نہ یہاں آتے ان سے کہا جائیگا کہ تم دوزخ

کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ تم اس میں ہمیشہ رہو گے اس میں داخل ہونے کے بعد اب تمہیں یہاں سے نکلنا نہ ہوگا۔

فَمَنْ مِّنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ (سو برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا) تکبر نے ان لوگوں کا ناس کھویا اور حق قبول کرنے نہ دیا، کافرین جب دوزخ میں داخل کر دیئے جائیں گے تو اس کے دروازے بند کر دیئے جائیں گے اور وہاں سے کبھی نکلنا نہ ہوگا۔ (وَمَا لَهُمْ مِّنْ مَّخْرَجٍ مِّنَ النَّارِ) اس کے بعد اہل ایمان کے انعام کا تذکرہ فرمایا کہ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے وہ گروہ گروہ ہو کر جنت کی طرف لے جائے جائیں گے تقویٰ کا ابتدائی درجہ تو یہ ہے کہ کفر کو چھوڑ کر ایمان قبول کرے پھر اعمال صالحہ اختیار کرنے اور گناہوں سے بچنے کے اعتبار سے اہل تقویٰ کے مختلف درجات ہیں اور ان میں فرق مراتب ہے ان درجات کے مراتب کے اعتبار سے گروہ گروہ بنادے جائیں گے جنت کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے پہلے سے کھلے ہوئے پائیں گے جیسا کہ مہمان کے اکرام کے لئے ایسا ہی کیا جاتا ہے اور وہاں کے محافظ فرشتے ان سے کہیں گے سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوا فِي دَارِكُمْ تم پر سلامتی ہو تم اچھی طرح رہو مزے میں رہو اور اس جنت میں ہمیشہ کے لئے داخل ہو جاؤ یہاں سے کہیں جانا اور نکلنا نہیں ہے نہ یہاں سے نکلے گا نہ لے جاؤ گے لَا يَكُنْ لَهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِخْرَجٌ

اہل جنت جنت میں داخل ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء میں مشغول ہو جائیں گے اور عرض کریں گے الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي صَدَّقَنَا وَعْدًا سَبَّحَ تَعْرِيفُ اللّٰهِ کے لئے ہے جس نے اپنا وعدہ ہم سے سچا کیا یعنی جو وعدہ فرمایا تھا پورا فرمادیا وَأَوْفَىٰ نَا الْأَرْضِ نَبْعًا مِّنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ اور ہم کو اس زمین کا وارث بنا دیا ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنا ٹھکانہ بنائیں ہمیں بہت بڑی اور عمدہ جگہ ملی ہے جہاں چاہیں چلے پھریں قیام کریں۔

فَوَعَدَ أَجْرَ الْعَمِلِينَ (سوا چھابدلہ ہے عمل کرنے والوں کا) جنہوں نے نیک عمل کئے انہیں یہاں آنا نصیب ہوا۔ سورت کے ختم پر روز قیامت کے فیصلوں کو مختصر الفاظ میں بیان فرمادیا کہ آپ فرشتوں کو دیکھیں گے کہ عرش کے گرد اگر حلقہ باندھے ہوئے ہوں گے اپنے رب کی تسبیح و تحمید بیان کرتے ہوئے وَقُضِيَ بَيْنَهُمُ بِالْحَقِّ اور بندوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور کہا جائے گا کہ ساری تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے (ساری تعریفیں اللہ ہی کے لئے خاص ہیں جس نے حق کے ساتھ سارے فیصلے فرمادیئے)

فائدہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب تک سورۃ زمر اور سورۃ بنی اسرائیل (رات کو) نہیں پڑھ لیتے تھے اس وقت تک نہیں سوتے تھے۔ (رواہ الترمذی فی الواب الدعوات)

وقد تم تفسیر سورۃ الزمر والحمد لله اولاً

وآخرًا والسلام علی من ارسل طیباً وطاهراً

سُورَةُ الْمُؤْمِنِ مَكِّيَّةٌ مِّنَ الْقُرْآنِ ۚ وَكَانَ فِيهَا مِائَتُ وَخَمْسُونَ آيَةً

سورة مؤمن مکی ہے اس میں پچاس آیات ہیں اور نو رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے﴾

حَمْدٌ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيزِ الْعَلِیْمِ ۚ غَافِرُ الذَّنْبِ وَقَابِلُ التَّوْبِ

حَمْدُ یہ کتاب اُتاری گئی ہے اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے سب کچھ جاننے والا ہے گناہ بخشنے والا ہے اور توبہ قبول کرنے والا ہے

شَدِيدُ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ ۚ لَا هُوَ إِلَٰهٌ إِلَّا هُوَ إِلَٰهٌ مُّصِیْرٌ

سخت سزا دینے والا قدرت والا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

اللہ تعالیٰ گناہ بخشنے والا ہے توبہ قبول کر نیوالا ہے  
سخت عذاب والا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں

تفسیر: یہاں سے سورۃ المؤمن شروع ہو رہی ہے جس کا دوسرا نام سورۃ الغافر بھی ہے یہ پہلی سورت ہے جو تم سے شروع ہوئی ہے اس کے بعد سورۃ حم سجدہ اور سورۃ الشوریٰ اور سورۃ الزخرف اور سورۃ الدخان اور سورۃ الجاثیہ اور سورۃ الاحقاف بھی تم سے شروع ہیں انہیں حوامیم سب سے کہا جاتا ہے روح المعانی نے بحوالہ فضائل القرآن لابن عبید حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ ہر چیز کا ایک خلاصہ ہوتا ہے اور بلاشبہ قرآن کا خلاصہ وہ سورتیں ہیں جو حم سے شروع ہوتی ہیں سنن ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے صبح کو سورۃ المؤمن اول سے لے کر الیہ المصیر تک تلاوت کی اور ساتھ ہی آیت الکرسی بھی پڑھی تو یہ شخص شام تک اس کی وجہ سے (مصائب اور تکالیف سے) محفوظ رہے گا اور جس نے ان دونوں کو شام کے وقت پڑھا وہ صبح ہونے تک محفوظ رہے گا حم حروف مقطعات میں سے جو تشابہات ہیں ان کا معنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

اوپر سورۃ المؤمن کی دو آیتوں کا ترجمہ کیا گیا ہے اول توبہ فرمایا کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اُتاری گئی ہے پھر اللہ تعالیٰ کی چھ صفات بیان فرمائیں اول یہ کہ وہ عزیز ہے یعنی زبردست دوم یہ کہ وہ علیم ہے یعنی ہر چیز کو پوری طرح جانتا ہے سوم یہ کہ وہ گناہوں کا بخشنے والا ہے اور چہارم یہ کہ وہ توبہ قبول فرمانے والا ہے پنجم یہ کہ وہ سخت سزا دینے والا ہے ششم یہ کہ وہ قدرت والا ہے اللہ تعالیٰ کی صفت عزت اور علم بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ وہ گناہ بھی بخشا ہے توبہ بھی قبول فرماتا ہے مومن بندہ سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے حضور میں توبہ کرے اور اپنے گناہ معاف کرائے اگر کوئی شخص گناہ کرتا رہے توبہ کی طرف متوجہ نہ ہو تو یہ نہ سمجھے کہ دنیا میں اور آخرت میں میری کوئی گرفت نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ گناہ بخشنے والا بھی اور سخت سزا دینے والا بھی ہے نیز وہ قدرت والا بھی ہے وہ جسے جو سزا دینا چاہے اسے اس پر پوری طرح قدرت ہے کوئی

اسے روک نہیں سکتا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ط اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جو لوگ اس کے سوا کسی کو معبود بناتے ہیں وہ سخت عذاب کے مستحق ہیں ان پر لازم ہے کہ شرک سے توبہ کریں تاکہ عذاب شدید سے بچ جائیں الیہ المصیر (سب کو اسی کی طرف واپس ہو کر جانا ہے) دنیا میں آتو گئے ہیں لیکن ہمیشہ رہنے کے لئے نہیں آئے مرنا ہے یہاں سے جانا ہے اسی وحدہ لا شریک لہ کے سامنے پیش ہونا ہے لہذا دنیا سے ایسی حالت میں جائیں کہ عقاید اعمال و احوال درست ہوں جن پر اجر و ثواب ملے اور وہاں کے عذاب سے محفوظ رہ سکیں۔

مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُرُكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ ۚ كَذَّبَتْ

اللہ کی آیات میں جھگڑا نہیں کرتے مگر وہی لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا سو آپ کو دھوکہ میں نہ ڈالے ان کا شہروں میں چلنا پھرنا ان سے

قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادِلُوا

پہلے نوح کی قوم نے اور ان کے بعد دوسری جماعتوں نے جھٹلایا اور ہر امت نے ارادہ کیا کہ اپنے رسول کو پکڑ لیں

بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْنَاهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابُ ۚ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ

اور باطل کے ذریعہ جھگڑا کریں تاکہ اس کے ذریعہ حق کو باطل کر دیں سو میں نے اُن کو پکڑ لیا سو کیسا تھا میرا عذاب آپ کی طرح آپ کے رب

عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ

کا قول کافروں پر ثابت ہو چکا کہ وہ دوزخ والے ہیں۔

کافر لوگ اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں  
شہروں میں ان کا چلنا پھرنا دھوکہ میں نہ ڈالے سابقہ امتوں  
اور جماعتوں نے جھٹلایا جسکی وجہ سے انکی گرفت کر لی گئی

تفسیر: قرآن مجید کی آیات نازل ہوتی تھیں تو جو لوگ ایمان نہیں لاتے تھے اور اپنے کفر پر جے رہتے تھے ان

آیات کے بارے میں یہ لوگ طرح طرح کی باتیں نکالتے تھے اور جھگڑے کی باتیں کرتے تھے ان لوگوں کی باتوں سے رسول اللہ ﷺ کو تکلیف پہنچتی تھی یہ لوگ دنیاوی اعتبار سے کھاتے پیتے اور مالدار تھے ان کے پاس سواریاں بھی تھیں اس شہر سے دوسرے شہر میں جاتے تھے اور زمین میں گھومتے پھرتے تھے جو لوگ آپ کے ساتھی تھے ان کو خیال ہو سکتا تھا کہ ہم اہل ایمان ہیں غریب ہیں اور یہ لوگ کافر اور منکر ہیں ان کے پاس دنیا ہے عیش کے اسباب ہیں مال کی فراوانی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا شہروں میں گھومنا پھرنا آپ کو دھوکہ میں نہ ڈالے یہ ان کی چند روزہ زندگی ہے آخرت میں تو ہر کافر کو عذاب ہی ہے اور دنیا میں بھی انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے معاندوں اور منکروں اور جدال کرنے والوں پر عذاب آتا رہا ہے اور ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم گزری ہے اور ان کے بعد بہت سی جماعتیں گزری ہیں مثلاً عاد و ثمود وغیرہ

انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا اور مبتلائے عذاب رہے۔

جو اتنی پہلے گزری ہیں ان میں سے ہر امت نے اپنے نبی کو پکڑنے کا ارادہ کیا تا کہ قتل کر دیں اور بعض انبیاء کرام علیہم السلام کو قتل بھی کر دیا اور ان لوگوں نے باطل کے ذریعہ جھگڑا کیا تا کہ حق کو منادیں کچھ دن ان کا یہ طریقہ کار رہا بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کی گرفت فرمائی انہیں پکڑ لیا اور عذاب چکھا دیا اور عذاب بھی معمولی نہیں ان پر سخت عذاب آیا ہلاک اور برباد ہوئے اسی کو فرمایا فَآخِذْهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ سو میں نے ان کی گرفت کر لی سو کیسا ہوا میرا عذاب (اس میں رسول اللہ ﷺ کو تسلی ہے کہ ان لوگوں کے جدال اور عناد اور کفر و انکار کی وجہ سے غمزدہ نہ ہوں سابقہ امتوں نے بھی اپنے اپنے نبیوں کے ساتھ جدال و عناد کا معاملہ کیا ہے۔

دنیا میں کافروں کو جو عذاب ہو گا اسی پر بس نہیں ہے کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ثابت ہو چکا ہے کہ ان کو دوزخ میں ضرور جانا ہے۔

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ

جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو فرشتے ان کے گرد گرد ہیں وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ان

لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ

لوگوں کے لئے استغفار کرتے ہیں جو ایمان لائے ہمارے رب آپ کی رحمت اور آپ کا علم ہر چیز کو شامل ہے سو ان لوگوں کو بخش دیجئے جنہوں نے توبہ کی اور آپ کے مائدے کا اتباع کیا

وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ اللَّهُ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ

اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے اے ہمارے رب اور انہیں ہمیشہ رہنے کی بہشتوں میں داخل فرما دیجئے جن کا آپ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے اور ان کے

أَبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ

آباء ازواج و ذریعوں میں جو صالح ہوئے ان کو بھی داخل فرما دیجئے بلاشبہ آپ زبردست ہیں حکمت والے ہیں اور ان کو تکلیفوں سے بچا دیجئے

السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

اور اس دن جسے آپ نے تکلیفوں سے بچا لیا سو آپ نے اس پر رحم فرما دیا اور یہ بڑی کامیابی ہے۔

حاملین عرش کا مؤمنین کے لئے دعاء کرنا اہل ایمان اور ان کی

ازواج اور ذریات کے لئے جنت میں داخل ہونے کا سوال

تفسیر: اور اہل کفر کی سزا کا بیان ہوا ان آیات میں اہل ایمان کی فضیلت بیان فرمائی اور یہ فرمایا کہ اہل ایمان کے لئے حاملین عرش اور وہ فرشتے جو ان کے آس پاس ہیں دعاء کرتے ہیں یہ حضرات اللہ تعالیٰ کی تحمید و تقدیس میں مشغول رہتے ہیں اللہ پر ایمان لائے ہیں اور دنیا میں جو اہل ایمان ہیں ان کے لئے استغفار کرتے ہیں اور یوں دعا کرتے

ہیں کہ ہمارے پروردگار آپ کی رحمت اور آپ کا علم ہر چیز کو شامل ہے لہذا آپ ان لوگوں کو بخش دیجئے جنہوں نے شرک و کفر سے توبہ کی اور آپ کے راستہ پر چلتے رہے ان کو آپ عذاب جہنم سے بھی بچا لیجئے اور ان کو ان بیہوشوں میں داخل فرمائیے، ہمیشہ رہنے کے لئے داخل فرمائیے جن کا آپ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے یہ لوگ اہل ایمان ہیں اور رحمت کے مستحق بھی ہیں لہذا ان کو بخش ہی دیا جائے۔

حاطین عرش اور ان کے آس پاس جو فرشتے ہیں ان کی دعا اہل ایمان کے آباء و اجداد اور ازواج و اولاد کے لئے بھی ہے کہ ان کو بھی ہمیشہ رہنے کی بیہوشوں میں داخل فرمائیے اس مضمون کو وَمَنْ صَلَّحْهُ مِنْ اٰلِہٖٓ وَ اَزْوَاجِہٖٓ وَ ذُرِّیَّتِہٖٓ میں بیان فرمایا صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ وَمَنْ صَلَّحْهُ کما عطف ادخلہم کی ضمیر منصوب پر ہے اور مطلب یہ ہے کہ ان حضرات کے ساتھ ان کے آباء و ازواج اور ذریات کو بھی جنات عدن میں داخل فرمائیے ان میں سے جو جنت میں داخل ہونے کے قانون میں آسکیں انکی صلاحیت اگرچہ متبوع کی صلاحیت سے کم ہو پھر بھی انہیں ان کے ساتھ داخل جنت فرما دیجئے تاکہ ان کی خوشی مکمل ہو بلکہ خوشی میں خوب زیادہ اضافہ ہو جائے۔

ابناء آب کی جمع ہے جس سے باپ دادے مراد ہیں اور ازواج زواج کی جمع ہے یہ لفظ جوڑے کے لئے بولا جاتا ہے اس کا عموم مرد اور عورت دونوں کے لئے شامل ہے اور ذریت ذریت کی جمع ہے ذریت آل و اولاد کے لئے مستعمل ہوتا ہے۔ سورۃ الطور میں فرمایا ہے وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَ اتَّبَعَتْہُمْ ذُرِّیَّتُہُمْ بِاِیْمَانٍ الْخَفِیَّۃِ یٰۤاٰیُّہُمْ ذُرِّیَّتُہُمْ (اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی ذریت نے ایمان کے ساتھ ان کا اتباع کیا ہم ذریت کو ان کے ساتھ ملا دیں گے اس میں جو وَ اتَّبَعَتْہُمْ ذُرِّیَّتُہُمْ بِاِیْمَانٍ فرمایا ہے یہاں سورۃ المؤمن میں اسی کو ذمّن صَلَّح سے تعبیر فرمایا ہے جو شخص با ایمان نہ ہو وہ دخول جنت کا مستحق نہیں ہے لہذا کسی کے تعلق کی وجہ سے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا اہل ایمان کی اہل ایمان اولاد ہی جنت میں داخل ہوگی اسی طرح آباء و ازواج بھی وہی جنت میں داخل ہو سکیں گے جو اہل ایمان ہوں۔

وَقَرَّبَہُمْ الشَّیَاطِیْنَ اور ان کو بد حال یوں سے بچائیے وَمَنْ تَوَلَّی الشَّیَاطِیْنَ یَوْمَہِذِ فَقَدْ رَعَضَہُ (اور اس دن آپ نے جسے بد حالیوں سے بچالیا تو آپ نے اس پر رحم فرما دیا وَ ذٰلِکَ هُوَ الْغَوْرُ الْعَظِیْمُ (اور یہ بڑی کامیابی ہے) یَوْمَہِذِ سے قیامت کے دن کی اور اس کے بعد عذاب جہنم کی تکلیفیں مراد ہیں بعض حضرات نے یَوْمَہِذِ سے دنیا والی زندگی مراد لی ہے اور اس صورت سیات کے معنی معروف مراد ہوں گے اور مطلب یہ ہوگا کہ ان لوگوں کو دنیا میں گناہوں سے بچائیے اور جسے آپ نے دنیا میں گناہوں سے بچالیا آپ اس پر آخرت میں رحم ہی فرما دیں گے۔

جن حضرات سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے ان کے لئے داخل جنت ہونے کی دعا ان لوگوں کے اظہار فضیلت اور تقرب الی اللہ کے لئے ہے مومنین کو ہمیشہ اپنے لئے اور اپنے متعلقین کے لئے خیر ہی کی دعا کرتے رہنا چاہیے جن حضرات صحابہ کو رسول اللہ ﷺ نے دخول جنت کی بشارت دیدی تھی وہ بھی اعمال صالحہ اور دعاؤں سے غافل نہیں ہوئے اور ارتکاب سیات سے بچتے رہے بندگی کا تقاضا یہی ہے۔

اِنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا یُنَادُوْنَ لِمَقْتُلِ اللّٰہِ الْکَبْرِ مِنْ مَّقَتِلِکُمْ اَنْفُسُکُمْ اِذْ تُدْعَوْنَ اِلَی الْاِیْمَانِ

بلشب جنہوں نے کفر کیا ان کو پکارا جائے گا کہ یہ بات واقعی ہے کہ اللہ کا جہنم سے نفص ہوا اس نفص سے بہت برا ہے جو تمہیں خود اپنی جانوں سے ہم ایمان کی طرف بلاتے جاتے تھے



فَتَكْفُرُونَ ۝ قَالُوا رَبَّنَا أَمَتْنَا اثْنَتَيْنِ وَاحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّنْ سَبِيلٍ ۝ ذِكْرُكُمْ يَاتِي إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ۝

تو کفر اختیار کرتے تھے وہ لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے رب آپ نے ہمیں دوبار موت دی اور دوبار زندگی دی سو ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا تو کیا نکلنے کی کوئی راہ ہے

سَبِيلٍ ۝ ذِكْرُكُمْ يَاتِي إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ۝

یسا اس وجہ سے کہ جب صرف اللہ کا نام لیا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے اور اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جاتا تھا تو اسے مان لیتے تھے سو فیصلہ اللہ ہی کے لئے ہے جو بلند ہے بڑا ہے

کافروں کا اقرارِ جرم کرنا اور دوزخ سے نکلنے کا سوال کرنے پر جواب  
ملنا کہ تم نے توحید کو ناپسند کیا اور شرک کی دعوت پر ایمان لائے

تفسیر: دنیا میں اہل کفر اپنے کو اچھا جانتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں ایمان والوں سے بہتر ہیں اور برتر ہیں لیکن جب قیامت کے دن اپنی بد حالی دیکھیں گے تو خود اپنے نفسوں سے اور اپنی جانوں سے بغض کرنے لگیں گے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ تمہیں جتنا اپنے نفسوں سے بغض ہے اللہ تعالیٰ کو تمہارے نفسوں سے اس بغض سے بھی زیادہ بغض ہے اور یہ بغض اب سے نہیں جب سے تم دنیا میں تھے اسی وقت سے اللہ تعالیٰ کو تم سے بغض ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ جب دنیا میں تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم اس کے قبول کرنے سے انکار کرتے تھے اور کفر پر جیسے رہتے تھے تمہیں بار بار ایمان کی دعوت دی گئی لیکن تم نے ہر بار حق کے قبول کرنے سے انکار کیا۔

مَقَاتِلُكُمْ أَنْفُسُكُمْ کا ایک مطلب تو وہی ہے جو اوپر بیان کیا گیا اور بعض حضرات نے فرمایا ہے وَجُوزَ أَنْ يَرَادَ بِهِ مَقَاتِلُكُمْ بَعْضُهُمْ (یعنی آپس میں تم میں جو آج ایک دوسرے سے بغض اور نفرت ہے کہ بڑے چھوٹوں کو اور چھوٹے بڑوں کو الزام دے رہے ہیں اور ایک دوسرے سے برأت ظاہر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو تم سے اس سے زیادہ بغض ہے یہ تفسیر یلَعْنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا کے ہم معنی ہے جو سورہ عنکبوت میں مذکور ہے۔

کافر عرض کریں گے کہ اے ہمارے رب آپ نے ہمیں دو مرتبہ موت دی پہلی بار جب ہمیں پیدا کیا اس وقت ہم بے جان تھے کیونکہ منی کا نطفہ تھے آپ نے ہمیں زندہ فرما دیا ماؤں کے پیٹوں میں روح پھونک دی پھر ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اور آپ کی مشیت کے مطابق زندگی بڑھتی رہی پھر آپ نے ہمیں موت دیدی جس کی وجہ سے ہم قبروں میں چلے گئے پھر آج آپ نے ہمیں قیامت کے دن زندہ فرمایا ہم پر دو موتیں طاری ہوئیں اور دوزندگیاں آئیں ایک پہلے تھی اور ایک اب ہے یہ آپ کے تصرفات ہیں ہمیں چاہئے تھا کہ ہم دنیا والی زندگی میں ایمان قبول کرتے اور شرک اور کفر سے بچتے ہم یہی سمجھتے رہے کہ دنیا والی زندگی کے بعد جو موت آئے گی اس کے بعد پھر زندہ ہونا نہیں ہے یہ ہماری غلطی تھی اب ہم اس زندگی میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اب تو ہمیں عذاب سے چھٹکارہ کی ضرورت ہے تو کیا ایسی کوئی صورت ہے کہ ہمارا چھٹکارہ ہو جائے اور عذاب کی مصیبت سے نکاسی ہو جائے گی اگر ہمیں چھٹکارہ مل جائے اور دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تو وہاں ایمان قبول کریں گے اور نیک اعمال اختیار کریں گے اور اس کے بعد پھر جب موت آئے تو اچھی حالت میں میدان

حشر میں حاضر ہوں۔ وھذا کما حکى الله تعالى فى قوله فى سورة الم السجدة رَبَّنَا ابْصُرْنَا وَسَمِعْنَا۔  
 اللہ کا ارشاد ہوگا ذلکم یأتی اذ ادعی اللہ وحدہ لا شریک کو نکارا جاتا تھا تو تمہیں اچھ نہیں لگتا تھا تم اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے تھے اور اسی  
 ہے کہ جب دنیا میں اللہ وحدہ لا شریک کو نکارا جاتا تھا تو تمہیں اچھ نہیں لگتا تھا تم اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے تھے اور اسی  
 انکار پر جسے رہتے تھے اور اگر تمہارے سامنے کوئی ایسا موقع آ جاتا کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جاتا تو تم اسے مان لیتے تھے اور  
 اسے صحیح کہتے تھے اور اس کے اقرار ہی ہو جاتے تھے وہ دنیا گزر گئی تم اس میں برابر کافر ہی رہے آج چھکارہ کا راستہ نہیں اللہ  
 تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ تمہیں عذاب میں ہی رہنا ہے اللہ تعالیٰ برتر بھی ہے اور بڑا بھی ہے اس کے سارے فیصلے حق ہیں  
 حکمت کے مطابق ہیں اس کے فیصلے کو کوئی رد نہیں کر سکتا اس کی صفت علو اور کبریا کی طرف تم نے نہیں دیکھا اور اپنے من  
 مانے خیالات اور اعتقادات میں منہبک رہے اب عذاب اور عقاب کے سوا تمہارے لئے کچھ نہیں۔

هُوَ الَّذِیْ یُرِیْکُمْ آیَاتِہٖ ۚ وَیَنْزِلُ لَکُمْ مِّنَ السَّمَآءِ رِزْقًا ۚ وَمَآلِیْنِ لَّکُم مِّنْ یُّنِیْبٌ ۖ فَادْعُوْا

وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے لئے آسمان سے رزق اتارتا ہے اور نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر وہی لوگ جو رجوع کرتے ہیں سو تم

اللہ فُخْلِصَیْنِ لَہُ الدِّیْنِ وَلَوْ کَرِهَ الْکَافِرُوْنَ ۝ رَفِیْعُ الدَّرَجٰتِ ذُو الْعَرْشِ یَلْقٰی الرُّوْحَ

اللہ کو پاک و دین کو اسی کے لئے خالص کرتے ہوئے اگر کافروں کو ناگوار ہو وہ رفیع الدرجات ہے عرش والا ہے وہ اپنے حکم سے وحی نازل فرماتا ہے

مِّنْ اَمْرِہٖ عَلٰی مَنْ یَّشَآءُ ۚ مِنْ عِبَادِہٖ لَیْنٰذِرُ یَوْمَ التَّلَاقِ ۚ یَوْمَہُمْ بَارِزُوْنَ ۚ لَا یَخْفٰی عَلٰی اللّٰہِ

اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے ڈرائے جس دن وہ لوگ ظاہر ہوں گے اللہ تعالیٰ پر ان میں سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہ ہوگی

مِنْہُمْ شَیْءٌ ۚ لِّمَنِ الْمُلْکُ الْیَوْمُ ۙ لِلّٰہِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۝ الْیَوْمُ تُجْزٰی کُلُّ نَفْسٍ بِمَا کَسَبَتْ ۚ

آج کس کے لئے ملک ہے اللہ واحد قہار کے لئے ہے۔ آج کے دن ہر جان کو اس کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا

لَا ظُلْمَ الْیَوْمَ ۙ اِنَّ اللّٰہَ سَرِیْعُ الْحِسَابِ ۝

آج کے دن ظلم نہیں ہے بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔

اللہ تعالیٰ رفیع الدرجات ہے ذوالعرش ہے جس کی طرف چاہتا ہے  
 وحی بھیجتا ہے قیامت کے دن سب حاضر ہوں گے اللہ سے کوئی بھی  
 پوشیدہ نہ ہوگا صرف اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہی ہوگی

تفسیر: ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے بعض انعامات اور صفات جلیلہ اور قیامت کے دن کے بعض مناظر بیان  
 فرمائے ہیں اول تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اس کی مخلوق میں بے شمار نشانیاں ہیں جو اس کے قادر

مطلق اور وحدہ لاشریک ہونے پر دلالت کرتی ہیں پھر فرمایا کہ وہ تمہارے لئے آسمانوں سے رزق نازل فرماتا ہے اس میں بیان قدرت بھی ہے اور اظہار انعام بھی پھر فرمایا **وَمَا يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مَنَ يُنْزِلُ** اور نشانیں کو دیکھ کر وہی لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں جو رجوع کرتے ہیں یعنی اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں اور فکر کہ کام میں لاتے ہیں اور نشانوں سے فائدہ حاصل کرتے ہیں ان کا یہ غور و فکر انہیں قبول حق تک پہنچا دیتا ہے۔

**فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ** (سو تم اللہ کو پکارو اسی کی عبادت کرو اور دین کو اس کے لئے خالص رکھو یعنی اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بناؤ و لَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ) (اگرچہ کافروں کو ناگوار ہو) تم اللہ کے بندے ہو خالص اسی کی عبادت کرو توحید اور ایمان پر مستقیم رہنا اور خالص اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنا یہ تمہارا فریضہ ہے جو لوگ تمہارے دین کو قبول نہیں کرتے وہ تم سے اور تمہارے عقیدہ توحید اور اخلاص فی العبادۃ سے راضی نہیں انہیں ناراض رہنے دو ان کی ناراضگی اور ناگواری کی کوئی پرواہ نہ کرو۔

**رَفِيعِ الدَّرَجَاتِ** (یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے مفسرین نے اس کے دو معنی بیان کئے ہیں اول یہ کہ وہ درجات کو بلند فرمانے والا ہے جو بندے مومن ہیں اور نیک کاموں میں لگے ہوئے ہیں قیامت کے دن ان کے درجات بلند فرمائے گا اور اس دنیا میں بھی اس نے اپنے بندوں میں فرق مراتب رکھا ہے کما قال تعالیٰ **وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ** وقال تعالیٰ **يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ** (یہ معنی زیادہ واضح ہے اس میں رفیع بمعنی رافع ہوگا) گو صاحب روح المعانی نے فرمایا ہے کہ اس میں بعد ہے) اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مرتبہ درجات ہے یعنی عظیم الصفات ہے۔ (قال صاحب الروح عن ابی زیدانہ قال ای عظیم الصفات و كانہ بیان لحاصل المعنی الکثانی)

**ذُو الْعَرْشِ** (وہ عرش والا ہے) **يَلْقَى الزُّوْمَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ** (وہ نازل فرماتا ہے روح کو یعنی وحی کو اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے وحی کو روح اس لئے فرمایا کہ اس کے ذریعہ قلوب کو حیات حاصل ہوتی ہے اور لفظ **مِنْ أَمْرِهِ** کے بارے میں بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ یہ روح کا بیان ہے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ **مِنْ أَمْرِهِ** ہے اور مطلب یہ ہے کہ یہ روح یعنی وحی کا نازل ہونا اس کے حکم سے ہے ایک قول یہ بھی ہے کہ روح سے حضرت جبرئیل علیہ السلام مراد ہیں اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو اپنا حکم پہنچانے کے لئے نازل فرماتا ہے۔

**عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ** جو فرمایا ہے اس میں یہ بتا دیا کہ وہ خود ہی اپنی رسالت کے لئے اپنے بندوں میں سے اشخاص اور افراد کو چن لیتا ہے کما قال تعالیٰ فی سورۃ الحج **اللَّهُ يَصْطَلِفُ مَنْ يَشَاءُ مِنْ رَسُولَاتِهِ** اور نبوت اور رسالت کوئی ایسا عہدہ نہیں ہے جسے ہنر اور کسب کے ساتھ حاصل کر لیا جائے اللہ تعالیٰ شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین ﷺ تک جس کو چاہا منتخب فرمایا اور نبوت و رسالت سے نوازا دیا۔

**لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ** (تا کہ اللہ کا یہ بندہ جس کی طرف وحی بھیجی ملاقات کے دن سے ڈرائے) لفظ التلاق **لَقِيَ** سے باب تفاعل کا مصدر ہے جو جائن میں سے ملاقات کرنے پر دلالت کرتا ہے اس کے آخر سے یا حذف کر دی گئی ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جس بندہ پر چاہا وحی بھیج دی تا کہ وہ قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرائے اس دن نیک بندے اپنے اچھے اعمال کی جزاء سے اور برے بندے اپنی بد اعمالیوں کی سزا سے ملاقات کریں گے۔

الْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ (آج کے دن ہر جان کو اس کا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ اس نے کسب کیا یعنی جو کچھ کمایا خیر ہو یا شر ہو اس کا بدلہ دیا جائے گا لَا ظَلَمَ الْيَوْمَ (آج کے دن کوئی ظلم نہیں) نہ کسی کی کوئی نیکی ضائع جائے گی اور نہ کسی کے اعمال نامے میں کسی برائی کا اضافہ کیا جائے گا جو اس نے نہ کی ہو إِنَّ اللَّهَ نَصِيرُ الْغَاسِقِ (بلاشبہ اللہ جلد حساب لینے والا ہے) وہ سب کا حساب بیک وقت لینے پر قادر ہے ایسا نہیں ہے کہ ترتیب وار حساب لینے کی ضرورت ہو اور ایک کا حساب لینا دوسرے کے حساب سے مانع ہو۔

وَأَنذَرُهُمْ يَوْمَ الْأَرْفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاطْمِينَةٍ مَّا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حِمٍّ وَلَا

اور آپ ان کو قریب آنے والی مصیبت کے دن سے ڈرائیے جس وقت قلوب گلوں کے پاس ہوں گے گھٹن میں پڑے ہوئے ہوں گے ظالموں کے لئے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ

شَفِيعٌ يُطَاعُ ۖ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ۖ وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ

کوئی سفارش کر نہ سکا ہوگا جس کی بات مٹی جانے وہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو اور ان چیزوں کو جنہیں سینے پوشیدہ رکھتے ہیں اور اللہ حق کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا اور

يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۖ

اللہ کے سوا جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکتے بلاشبہ اللہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے۔

انہیں قیامت کے دن سے ڈرائیے جس دن دل گھٹن میں ہونگے  
ظالموں کے لئے کوئی دوست یا سفارش کرنے والا نہ ہوگا

تفسیر: ان آیات میں بھی قیامت کا منظر بتایا ہے ارشاد فرمایا کہ آپ انہیں یوم الارفۃ سے ڈرائیے یہ ارفہ یا زف سے اسم فاعل کا صیغہ ہے جو قرب کے معنی پر دلالت کرتا ہے سورۃ النجم میں فرمایا اَرْفَتِ الْأَرْفَةَ (قریب آنے والی قریب آگئی) اس سے قیامت مراد ہے جو جلد ہی آجانے والی ہے آیت بالا میں فرمایا کہ آپ ان کو قیامت کے دن سے ڈرائیے یہ ایسا دن ہوگا کہ قلوب حلقوم کو پہنچے ہوئے ہوں گے اور ایسا معلوم ہوگا کہ دل اندر سے اٹھ کر گلوں میں آکر پھنس گئے ہیں اور باہر آنا چاہتے ہیں یہ قلوب بڑی گھٹن میں ہوں گے اس وقت سخت تکلیف گھٹن اور غم اور بے چینی بہت زیادہ ہو گی جو لوگ دنیا میں ظلم والے تھے وہ وہاں مصیبت سے چھٹکارہ کے لئے دوست اور سفارشی تلاش کریں گے تو کوئی بھی دوست نہ ملے گا اور نہ کوئی سفارشی ملے گا جس کی بات مانی جائے صاحبِ روح المعانی لکھتے ہیں کہ ظالمین سے کافر مراد ہیں کیونکہ ظلم میں کامل ہونا انہیں کی صفت ہے۔

اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو اور دلوں کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے

یَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ قیامت کے دن محاسبہ ہوگا نیکیوں کی جزا ملے گی اور برائیوں پر سزا یاب ہوں گے اعضا ظاہرہ کے اعمال کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور سینوں میں جو چیزیں پوشیدہ ہیں برے عقیدے بری نیتیں برے جذبات اللہ تعالیٰ

ان سب سے بھی باخبر ہے کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ میرے باطن کا حال پوشیدہ ہے اس پر مواخذہ ہوگا اعضاء ظاہرہ میں آنکھیں بھی ہیں بری جگہ نظر ڈالنا جہاں دیکھنے کی اجازت نہیں اور بد اعمالیوں میں آنکھوں کا استعمال کرنا یہ سب گناہ ہے آنکھوں کے اعمال میں سے ایک عمل خیانت بھی ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ آنکھوں کی خیانت کو اور دلوں میں پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے آنکھ کے گوشے سے نا محرم کو دیکھ لیا چپکے سے گناہ کی نظر کہیں ڈال لی آنکھ کے اشارہ سے کسی کی غیبت کر دی یہ سب گناہ میں شمار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو سب کا علم ہے۔

حضرت اُم معبد رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ یوں دعا کرتے تھے:

اَللّٰهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِيْ مِنَ النِّفَاقِ وَعَمَلِيْ مِنَ الرِّيَآءِ وَلِسَانِيْ مِنَ الْكُذْبِ وَعَيْنِيْ مِنَ الْخِيَانَةِ فَاِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُوْرُ (رواہ البیہقی فی الدعوات الکبیر کمافی المشکوٰۃ ص ۲۲۰) ترجمہ دعا یہ ہے

(اے اللہ میرے دل کو نفاق سے اور میرے عمل کو ریا اور میری زبان کو جھوٹ سے اور میری آنکھ کو خیانت سے پاک فرما دے کیونکہ آپ آنکھوں کی خیانت اور ان چیزوں کو جانتے ہیں جنہیں سینے چھپائے ہوئے ہیں)

وَاللّٰهُ يَقْضِيْ بِالْحَقِّ (اور اللہ حق کے ساتھ فیصلے فرماتا ہے) وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَقْضُوْنَ شَيْئًا ۚ اور جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں یعنی معبودان باطلہ کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکتے (اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ) (بلاشبہ اللہ سننے والا دیکھنے والا) اسی کا فیصلہ حق ہے جو واقعی علم کے مطابق ہے۔

اَوْ لَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ كَانُوْا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوْا هُمْ

کیا یہ لوگ زمین میں نہیں چلے پھرے تاکہ دیکھ لیتے ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جو ان سے پہلے تھے وہ قوت کے اعتبار سے ان سے زیادہ

اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّاَنَارًا فِى الْاَرْضِ فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ ۝۱۰

سخت تھے اور زمین میں نشانوں کے اعتبار سے بھی بڑھ کر تھے سو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کی گرفت فرمائی اور انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی بھی نہ تھا

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانَتْ تَاْتِيَهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَكَفَرُوْا فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ اِنَّهٗ قَوِيٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝۱۱

یہ اس وجہ سے کہ ان کے پاس ان کے رسول مکمل ہوئی دلیلین لے کر آئے سو انہوں نے کفر کیا پھر اللہ نے ان کو پکڑ لیا بے شک وہ قوی ہے سخت عذاب والا ہے۔

کیا زمین میں چل پھر کر سابقہ امتوں کو نہیں دیکھا وہ قوت میں بہت

بڑھے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی وجہ سے ان کی گرفت فرمائی

تفسیر: کفارِ مکہ رسول اللہ ﷺ کی تکذیب کرتے تھے جب یہ کہا جاتا تھا کہ ایمان لاؤ ورنہ کفر پر عذاب

آجائے گا تو اس کا بھی مذاق بناتے تھے حالانکہ ایک سال میں دو مرتبہ تجارت کے لئے ملک شام جاتے تھے راستے میں ان قوموں کی تباہ شدہ عمارتوں اور کھنڈروں پر گزرتے تھے جو حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہلاک ہوئیں آیت بالا میں ان کو اسی طرف متوجہ کیا اور فرمایا کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے

لوگوں کا کیا انجام ہوا؟ عدا اور شہود کی بستیوں پر گزرتے ہیں وہ لوگ ان سے بہت زیادہ طاقتور تھے اور بڑی قوت رکھتے تھے زمین میں ان کے بڑے بڑے نشان تھے جو اب بھی ٹوٹی پھوٹی حالت میں نظروں کے سامنے ہیں انہوں نے بڑے بڑے قلعے بنائے، شہروں کو آباد کیا لیکن انبیائے کرام علیہم السلام کی بات نہ مانی، ایمان نہ لائے اور کھڑکی وجہ سے ہلاک اور برباد ہوئے ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا ان کا گھمنڈ رکھا رہ گیا جو یوں کہتے تھے کہ مَنْ أَخَذَ مِنَّا قُوَّةً (ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے؟) ان کی ساری قوت دھری رہ گئی عذاب آیا اور ہلاک ہوئے جب اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا تو کوئی بھی انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں تھا اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے جو ان کی گرفت ہوئی اور بتلائے عذاب ہوئے اس کا یہی سبب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو رسول ان کے پاس بھیجے وہ کھلی ہوئی نشانیاں معجزات لے کر آئے انہوں نے ان کی دعوت پر کان نہ دھرا براہِ انکار کرتے رہے اللہ تعالیٰ نے پکڑا تو کہاں بچ سکتے تھے اللہ تعالیٰ قوی ہے اور شدید العقاب ہے گذشتہ امتوں کے حالات اور واقعات سے ہر زمانے کے کافروں کو عبرت لینا ضروری ہے۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۖ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَهٰمٰنَ وَقَارُوْنَ فَقَالُوْا سِحْرٌ كَذٰبٌ ۝۱

اور یہ بات واقعی ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا بی آیت اور واضح دلیل کے ساتھ فرعون اور ہامان اور قارون کے پاس بھیجا سو ان لوگوں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے بڑا جھوٹا ہے

فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْا اقْتُلُوْا اَبْنَاءَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ۚ وَاسْتَحْيُوْا اِسْءَاہُمْ ۝۲

سو جب ان کے پاس ہمارے پاس سے حق لے کر آیا تو کہنے لگے کہ جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دو

وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ۝۳ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِيْ اَقْتُلْ مُوسٰى وَلْيَدْعُ رَبِّيْ ۚ اِنِّىْۤ اَخَافُ

اور کافروں کی تدبیر محض بے اثر رہی اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑ دو میں موسیٰ کو قتل کر دوں اور وہ اپنے رب کو پکارے بلاشبہ میں ڈرتا ہوں

اَنْ يُبَدِّلَ دِيْنَكُمْ اَوْ اَنْ يُظْهِرَ فِي الْاَرْضِ الْفُسَادَ ۚ وَقَالَ مُوسٰى اِنِّىْۤ اَعُوْذُ بِرَبِّيْ ۚ وَرَبِّكُمْ

کہ وہ تمہارے دین کو بدل دے یا زمین میں فساد پھیلا دے اور موسیٰ نے کہا بلاشبہ میں اپنے رب کی پناہ لیتا ہوں جو میرا بھی رب ہے

مَنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ۝۴

اور تمہارا بھی ہر تکبر سے جو حساب کے دن پر ایمان نہیں لاتا۔

ہم نے موسیٰ کو فرعون، ہامان، قارون کی طرف بھیجا انہوں نے

ان کو ساحر اور کذاب بتایا، فرعون کے بڑے عزائم کا تذکرہ

اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنے رب کی پناہ مانگنا

تفسیر: گزشتہ آیات میں اجمالی طور پر بعض اقوام کی تکذیب اور ہلاکت و تعذیب کا تذکرہ فرمایا آیات بالا میں اور ان

کے بعد ڈیڑھ رکوع تک فرعون اور اس کی قوم کے عناد اور تکذیب کا اور بالآخر ان کے غرق اور تعذیب کا تذکرہ فرمایا درمیان میں ایک ایسے شخص کی نصیحتوں کا تذکرہ بھی فرمایا جو آل فرعون میں سے تھا یہ شخص ایمان لے آیا تھا اور اپنے ایمان کو چھپاتا تھا۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات یعنی معجزات کے ساتھ اور واضح حجت کے ساتھ فرعون اور ہامان اور قارون کے پاس بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو معجزات دکھائے تو حید کی دعوت دی لیکن ان لوگوں نے جمود اور عناد اور انکار سے کام لیا کہنے لگے یہ تو جادوگر ہے بڑا جھوٹا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی تکذیب کی کوئی پرواہ نہ کی اور برابر تبلیغ فرماتے رہے۔

فرعونیوں نے جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات اثر کر رہی ہے اور کچھ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں اور کچھ لوگ متاثر ہوتے جا رہے ہیں تو باہم مشورہ کر کے کہنے لگے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لڑکوں کو قتل کر دو اور ان کی عورتوں کو باقی رکھو (یعنی وہی عمل لڑکوں کے قتل کرنے کا پھر شروع کر دو جو کاہنوں کے خبر دینے پر بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے کا سلسلہ شروع کیا تھا تا کہ ان کا کوئی بچہ ایسی پرورش نہ پا جائے جو فرعون کی حکومت کو تہہ وبالا کرنے کا ذریعہ بن جائے ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت تو حید کو دبانے کے لئے مشورہ تو کر لیا اور ممکن ہے اس پر عمل بھی کر لیا ہو لیکن ان کی سب تدبیریں ضائع ہوئیں جسے وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلٰلٍ میں بیان فرمایا ہے۔

فرعون نے اپنی قوم کے سرداروں سے کہا کہ تم مجھے چھوڑ دو میں موسیٰ کو قتل کر دوں اور جب میں اسے قتل کرنے لگوں تو وہ اپنے رب کو پکارے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تو اس کی قوم کے سرداروں نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے سے روکا اور یہ سمجھایا کہ تو انہیں قتل کر دے گا تو عامۃ الناس یہ سمجھ لیں گے تو دلیل سے عاجز آ گیا اس لئے قتل کے درپے ہو گیا لیکن وہ سمجھتا تھا کہ ان کے قتل کر دینے ہی سے میرا ملک بچ سکتا ہے)

فرعون نے یہ جو کہا کہ میں جب اسے قتل کرنے لگوں تو یہ اپنے رب کو پکارے یہ ظاہری طور پر ڈینگ مارنے والی بات ہے اندر سے گھبرایا ہوا تھا اور ان کی بددعاء سے ڈر رہا تھا اور ظاہر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانے کیلئے یہ الفاظ بول رہا تھا۔

فرعون نے اپنے ماننے والوں سے یہ بھی کہا کہ اگر موسیٰ کو چند دن اور بھی چھوڑ دیا تو ڈر ہے کہ تمہارے دین کو بدل دے میری عبادات چھڑا دے اور بتوں کی عبادت سے ہٹا دے اور یہ بھی ڈر ہے کہ یہ زمین میں کوئی فساد کھڑا کر دے کیونکہ جب اس کی بات بڑھے گی اس کے ماننے والے تعداد میں بہت ہو جائیں گے تو اس کے ماننے والوں میں اور میرے ماننے والوں میں لڑائی جھگڑے ہوں گے اور اس سے نظام معطل ہوگا جو لوگ دنیا دار ہوتے ہیں اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں ان کے سوچنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ اپنے مقابل کو قتل کر دیں اور خود دنیاوی مال و جائیداد اور اختیار و اقتدار پر قابض رہیں اور یہ اس بارے میں عوام کو یہ سمجھاتے ہیں کہ میں تمہارے بھلے کے لئے ایسا کر رہا ہوں اس شخص کے وجود سے تمہارے دین و دنیا کو خطرہ ہے لہذا اس کو قتل کر دینا ضروری ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی بات کا جب علم ہوا تو فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے کہ وہ مجھے ہر متکبر سے محفوظ رکھے جو حساب کے دن پر ایمان نہیں لاتا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی



حفاظت کی دعا کی اور لوگوں کو بتا دیا کہ جو میرا رب ہے وہی تمہارا رب ہے جو بھی کوئی شخص تکبر کرے آخرت کے دن کو نہ مانے ایسا منکر اور معاند کافر ہے اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ رکھے گا مجھے اس کی دھمکیوں کی کوئی پروا نہیں۔

وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ

اور آل فرعون میں سے ایک مومن نے کہا جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا کیا تم ایسے شخص کو قتل کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے

وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكْذِبْ عَلَيْكُمْ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكْذِبْ

حالانکہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیلیں لے کر آیا ہے اور اگر وہ جھوٹا ہوگا تو اس کا جھوٹ اسی پر پڑے گا اور اگر وہ سچا ہوگا

يُصِيبُكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ يَقَوْمٌ لَكُمْ

تو تمہیں بعض وہ مصائب پہنچ جائیں گے جن کی وہ بطور پیشین گوئی فرم رہا ہے بلاشبہ اللہ ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جائے والا وہ بہت جھوٹا ہوا ہے میری قوم

الْبَلَاءِ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ

آج زمین میں تمہاری حکومت ہے تم غلبہ پائے ہوئے ہو سو اگر اللہ کا عذاب ہم تک آپہنچا تو ہمیں اس سے بچانے کے لئے کون مدد کرے گا؟ فرعون نے کہا

مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ

میں تو تمہیں وہی رائے دوں گا جسے میں خود ٹھیک سمجھ رہا ہوں اور میں تمہیں وہی راہ بتاؤں گا جو ہدایت کا راستہ ہے۔

## آل فرعون میں سے ایک مومن بندہ کی حق گوئی نیز تنبیہ اور تہدید

**تفسیر:** آل فرعون میں سے ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا (جیسا کہ فرعون کی بیوی مسلمان ہو گئی تھی) کہا جاتا ہے کہ یہ شخص فرعون کے چچا کا لڑکا تھا اور یہ بھی لکھا ہے کہ وہ فرعون کا ولی عہد سمجھا جاتا تھا اور محکمہ پولیس کا ذمہ دار تھا یہ مومن تو تھا لیکن اپنے ایمان کو چھپاتا تھا اس نے بطور ہمدردی فرعون سے اور اس کے ساتھیوں سے جو اس کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے یوں کہا کہ تم جو اس شخص کو قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے ہو یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں اول تو اس کا کوئی قصور نہیں کوئی چوری نہیں کی کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا اس نے ایک حق بات کہی ہے اور یوں کہا کہ میرا رب اللہ ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں جسے قتل کرنے کا سبب بنالیا جائے پھر وہ جو کچھ کہتا ہے وہ اس کے لئے دلائل بھی پیش کرتا ہے دلائل واضح اور معجزات دیکھتے ہوئے جو تمہارے رب کی طرف سے اسے دیئے گئے ہیں قتل کر دو گے تو تمہارا کیا بنے گا؟ سمجھداری کی بات یہ ہے کہ اسے قتل نہ کرو اگر یہ اپنی باتوں میں جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اس پر پڑ جائے گا یعنی اسی دنیا میں اس کی سزا پالے گا تمہیں اس کے قتل میں ہاتھ ملوث کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو ایک رخ کی بات ہوئی اب دوسرے رخ پر بھی غور کرو اور وہ یہ ہے کہ اگر یہ اپنے دعوے میں سچا ہو واقعی پروردگار جل مجدہ کا پیغمبر ہو اور تم برابر اسے جھٹلاتے رہے اور جھٹلانے کی وجہ سے پروردگار جل مجدہ کی طرف سے تم پر عذاب آ گیا جس کا اس شخص نے اپنی باتوں میں تذکرہ کیا ہے اور تمہیں یہ بتایا ہے کہ میری بات نہ مانو گے تو ایسے ایسے عذابوں میں مبتلا ہو گے (تو تم کہیں کے نہ رہو گے یہ

دنیا بھی برباد ہوگی اور موت کے بعد بھی عذاب کا سامنا ہوگا۔

سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے بندہ مومن نے یہ بھی کہا اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرَ (بلاشبہ اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جو حد سے بڑھنے والا ہو بہت جھوٹا ہو) اس میں یہ بتادیا کہ موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں اگر یہ سچے نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزات کے ذریعے ان کی تائید نہ کی جاتی اور یہ جو دلائل پیش کرتے ہیں یہ دلائل ان کو نہ دیئے جاتے اور اس میں اس طرح بھی اشارہ کر دیا کہ فرعون مسرف ہے حد سے بڑھنے والا ہے بات بات میں لوگوں کو قتل کرتا ہے فساد پر تلا ہوا ہے اپنے معبود ہونے کا دعویٰ کر کے بہت بڑا کذاب یعنی جھوٹا بھی ہے اس کی سب تدبیریں ٹیل ہوں گی اور یہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہ کر سکے گا بندہ مومن نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے یوں بھی کہا کہ آج تم لوگ اس سرزمین یعنی مصر میں حکومت والے ہو تمہارا غلبہ ہے لیکن اللہ کی گرفت کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں اگر ہم پر اللہ کا عذاب آجائے تو یہ ساری حکومت اور سلطنت دھری رہ جائے گی اور ہمیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا وغیرہ اور تھدید کو استفہام کے پیرائے میں بیان کیا جو اصحاب حکمت و موعظت کا طریقہ ہے فرعون پر یہ باتیں سن کر مزید خوف طاری ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات بڑھتی رہی تو لوگوں میں اسلام پھیل جائے گا اور میری حکومت اور دعوائے خدائی سب کچھ خاک میں مل جائے گا اس لئے بندہ مومن کی بات سن کر حاضرین سے کہنے لگا کہ میں تو تمہیں وہی بات بتاتا ہوں جسے اپنی رائے میں درست سمجھتا ہوں میرے نزدیک تو موسیٰ کو قتل ہی کر دینا چاہئے میں جو تمہیں رائے دے رہا ہوں یہی رائے ٹھیک ہے جو مصلحت کے موافق ہے۔ (لعمدہ اللہ تعالیٰ)

وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَوْمَ يَقَوْمِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ قَوْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ ۖ مِثْلَ دَابِ قَوْمِ نُوحٍ

اور اس شخص نے کہا کہ جو ایمان لایا تھا کہ اے میری قوم میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم پر سابقہ جماعتوں جیسا دن نہ آ پڑے جیسا کہ قوم نوح

وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظَلْمًا لِلْعِبَادِ ۖ وَيَقَوْمِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ

اور عاد اور ثمود اور ان کے بعد والوں کا حال ہوا اور اللہ بندوں پر کسی طرح بھی ظلم کا ارادہ نہیں فرماتا اور اے میری قوم بلاشبہ میں تمہارے بارے میں

يَوْمَ التَّنَادِ ۖ يَوْمَ تُولَوْنَ مُدْبِرِينَ مَّا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ ۖ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ هَادٍ

یوم التناد کا اندیشہ رکھتا ہوں جس دن تم پشت پھیر کر واپس لوٹو گے تمہارے لئے اللہ سے بچانے والا کوئی بھی نہ ہوگا اور اللہ جسے گمراہ کرے اسے کوئی بھی

فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ

ہدایت دینے والا نہیں۔

بندہ مومن کا سابقہ امتوں کی بربادی کو یاد دلانا

اور قیامت کے دن کی بد حالی سے آگاہ کرنا

تفسیر: بندہ مومن نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے تھدید اور تخویف سے بھی کام لیا اور یوں کہا کہ اے میری

قوم تم جو حق کے انکار پر اور اس شخص کی تکذیب پر تلے ہوئے ہو تمہارا یہ رویہ خود تمہارے حق میں صحیح نہیں ہے تم سے پہلے بھی

قومیں گزری ہیں ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے قوموں نے ان کی تکذیب کی اور برباد ہوئے اس طرح کی ہلاک شدہ جو جماعتیں گزری ہیں ان میں سے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بھی گزری ہے عاد اور ثمود بھی اس دنیا میں آئے اور بے یہ سب قومیں حق کو ٹھکرانے کی وجہ سے ہلاک اور برباد ہوئیں ان کے بعد بہت سی قومیں آئیں جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کو جھٹلایا اور جھٹلانے کا مزہ پایا یعنی ہلاکت اور بربادی کے گھاٹ اتر گئے اللہ تعالیٰ نے جن قوموں کو ہلاک کیا ہے ان لوگوں کی بری حرکتوں کی وجہ سے ہلاک فرمایا ہے وہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے کا ارادہ نہیں فرماتا۔

بندہ مؤمن نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے مزید یوں کہا کہ دیکھو تمہیں ہمیشہ دنیا ہی میں نہیں رہنا ہے مرنا بھی ہے قیامت کے دن پیشی بھی ہونی ہے وہاں حساب کتاب ہوگا، فیصلے ہوں گے اور پکارا جائے گا (اسی پکارے جانے کی وجہ سے یوم القیامت کو یوم التناد کے نام سے موسوم کیا، اُس دن بہت سی ندائیں ہوں گی)

پہلی پکار نوح صور کے وقت ہوگی جسے یَوْمَ يَنفُخُ لِلنَّارِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ میں بیان فرمایا اور میدان حشر میں مختلف قسم کے لوگ ہوں گے انہیں ان کے اپنے اپنے پیشوا کے ساتھ بلایا جائے گا جسے یَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاثٍ لِابْنِ مَرْيَمَ میں بیان فرمایا ہے اور جب اہل ایمان کو داہنے ہاتھ میں کتاب دی جائے گی تو پکارا انھیں گے هَآؤُمْ اَقْرَبُ وَ اَكْبَرُ یٰۤاَهْلَ الْاٰیْمَانِ جنت دوزخ والوں کو اور اہل دوزخ جنت والوں کو اور اہل اعراف بہت سے لوگوں کو پکاریں گے جیسا کہ سورۃ اعراف رکوع ۵ اور ۶ میں ذکر فرمایا ہے۔

جب پکار پڑے گی تو تم پشت پھیر کر چل دو گے یعنی محشر سے دوزخ کی طرف روانہ ہو جاؤ گے دوزخ سے بھاگنا چاہو گے تو بھاگ نہ سکو گے اس میں داخل ہونا ہی پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ جب فیصلہ فرما دے گا کہ تمہیں دوزخ میں جانا ہی ہے تو کوئی بھی چیز تمہیں عذاب سے نہیں بچا سکتی اور اس کے حکم کو نہیں ٹال سکتی۔

دیکھو تم رائے حق قبول کر لو ہاں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری گمراہی کا فیصلہ ہو ہی چکا ہے تو پھر تمہیں کوئی ہدایت دینے والا نہیں وَمَنْ يُضِلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ بندہ مومن نے اپنے مخاطبین کی ہدایت سے ناامید ہو کر ایسا کہا۔

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّىٰ اِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ

اور یہ بات واقعی ہے کہ یوسف تمہارے پاس اس سے پہلے واضح معجزات لے کر آئے سو وہ جو کچھ تمہارے پاس لائے تم اس میں برابر شک کرتے رہے یہاں تک کہ جب ان کی

لَنْ يَبْعَثَ اللّٰهُ مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ هُوَ مُسْرِوٌّ مُّرْتَابٌ ۝۱۰۱ الذین

وفات ہو گئی تو تم نے کہا کہ اللہ ان کے بعد کسی کو مبعوث نہ فرمائے گا اللہ ایسے ہی گمراہ کر دیتا ہے اس شخص کو جو حد سے بڑھ جانے والا ہو شک میں

يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ اَتَتْهُمْ ذِكْرٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَعِنْدَ الذّٰلِیْنَ اٰمَنُوْا

پڑنے والا ہو جو اللہ کی آیات میں بغیر دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو جھگڑے بازی کرتے ہیں اللہ کے نزدیک اور اہل ایمان کے نزدیک

كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰی كُلِّ قَلْبٍ مُّتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ۝۱۰۲

یہ بڑے نفخ کی چیز ہے اسی طرح اللہ مہر لگا دیتا ہے ہر تکبر جبار کے دل پر۔

## مصرف و مرتاب کا گمراہ ہونا اور ہر متکبر جبار کے دل پر اللہ کی طرف سے مہر لگ جانا

**تفسیر:** مرد مومن کا سلسلہ کلام جاری ہے اس نے پہلے تو فرعون اور اس کی قوم کو ڈرایا اور یاد دلایا کہ دیکھو تم سے پہلے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلا کر گزشتہ امتیں ہلاک ہو چکی ہیں اس کے بعد ان سے خصوصی طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کی بعثت کا تذکرہ کیا جو اہل مصر کی طرف مبعوث ہوئے تھے انہیں یاد دلایا کہ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام دلائل کے ساتھ تمہارے پاس آئے لیکن تم نے ان کو بھی جھٹلایا اور انہوں نے جو دعوت پیش کی اور اللہ تعالیٰ کے احکام بتلائے تم اس میں برابر شک کرتے رہے تم نے یہ تسلیم نہ کیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور ان کی دعوت حق ہے اور تم نے نہ صرف یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی رسالت کا انکار کیا بلکہ ان کی وفات ہو جانے پر یوں کہہ دیا کہ اگر یہ بالفرض رسول تھے تو اب ان کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی رسول نہ بھیجے گا اللہ کے رسول کی رسالت کا انکاری ہونا اور اپنی طرف سے یہ تجویز کر دینا کہ اللہ تعالیٰ اب کوئی بھی رسول نہ بھیجے گا عناد اور عناد اور بغاوت در بغاوت ہے۔

جو لوگ بغاوت اور سرکشی میں حد سے بڑھ جائیں اور انکا مزاج شک کرنے کا بن جائے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ گمراہ فرمادیتا ہے ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ خواہ مخواہ بلا دلیل اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے رہیں ان کی یہ جھگڑے بازی اللہ کے نزدیک اور اہل ایمان کے نزدیک بہت زیادہ بغض اور نفرت کی چیز ہے۔

مرد مومن نے مزید کہا کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تمہارے دلوں پر مہر لگ چکی ہے اب تمہیں حق قبول کرنا نہیں ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں پر مہر لگا دی ہے وہ اسی طرح ہر متکبر مغرور اور جابر کے دل پر مہر لگا دیتا ہے ایسے شخص کے دل میں ذرا بھی حق قبول کرنے کی طرف جھکاؤ نہیں رہتا اس میں حق سمجھنے اور حق قبول کرنے کی بالکل ہی گنجائش نہیں رہتی۔

**فائدہ:** صاحب روح المعانی نے اول تو حضرت یوسف علیہ السلام کے نام کے ساتھ بن یعقوب لکھ دیا ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام جو کنعان سے آکر مصر میں صاحب اقتدار ہو گئے تھے اور ان کے سامنے ہی ان کے والدین اور بھائی تمام اہل و عیال کے ساتھ مصر میں آکر بس گئے تھے انہیں یوسف علیہ السلام کو مراد لیا ہے اور جساء کُفْم میں جو ضمیر خطاب ہے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ اس سے اہل مصر کے آباؤ اجداد مراد ہیں پھر ایک یہ قول نقل کیا ہے کہ آیت بالا میں جس یوسف کا ذکر ہے وہ حضرت یوسف الصديق علیہ السلام کے پوتے تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا تھا انہوں نے بھی مصر میں بیس سال قیام کیا اور یہ لوگ انکی دعوت میں شک ہی کرتے رہے واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰهَا هُنَا ابْنُ بَنِي صَرَحًا لَعَلِّيْ اُبْلَغُ الْاَسْبَابَ ۚ اَسْبَابَ السَّمَوٰتِ فَاطْلَعْ اِلَيَّ

اور فرعون نے کہا کہ اے ہاں میرے لئے ایک گل بنادے ہو سکتا ہے کہ میں راستوں میں پہنچ جاؤں یعنی آسمان کے راستوں تک میری رسائی ہو جائے پھر میں

اِلٰهَ مُوسٰى وَاِنِّىْ لَآخِذٌكَ ذُنُوبًا وَاَكْذٰبًا لِّفِرْعَوْنَ سُوْءَ عَمَلِهٖ وَصَدَّ عَنِ السَّبِيْلِ وَمَا

موسیٰ کے معبود کا پتہ چلاؤں اور بے شک میں تو اسے جھوٹا ہی سمجھتا ہوں اور اسی طرح فرعون کے لئے اس کا برا عمل مزین کر دیا گیا اور وہ راستہ سے روک دیا گیا

كَيْدُ فِرْعَوْنَ اِلَّا فِى تَبَايٍۭ

اور فرعون کی تدبیر ہلاکت ہی میں لے جانے والی تھی۔

## فرعون کا اوپر چڑھنے کیلئے اونچا محل بنانے کا حکم دینا اور اسکی تدبیر کا بربادی کا سبب بننا

**تفسیر:** جب فرعون کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعوت پیش کی تو اس نے سوال و جواب کئے قتل کی دھمکی دی بڑی ڈینگیں ماریں اور اپنے عوام کو دھوکہ دینے کے لئے طرح طرح کی باتیں نکالیں انہیں باتوں میں سے ایک یہ بات تھی کہ اُس نے اپنے وزیر ہامان سے کہا کہ ذرا ایک محل یعنی اونچی عمارت تو بناؤ میں اوپر چڑھوں گا۔ آسمانوں کے راستوں پر پہنچوں گا اور موسیٰ علیہ السلام کے معبود کا پتہ چلاؤں گا جھوٹے معبود ایسے ہی ہوتے ہیں دعویٰ تو اس کا یہ تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں اور حال اس کا یہ تھا کہ آسمانوں کی خبر جاننے کے لیے اونچی عمارت کا اور سیڑھیوں کا محتاج تھا چونکہ صرف عوام کو دھوکا دینا مقصود تھا اس لیے بلند عمارت کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ اس نے پہلے ہی سے یوں کہہ دیا کہ میں موسیٰ کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ (فرعون نے جو اونچا محل بنانے کو کہا تھا اس کا ذکر سورۃ القصص میں بھی گزر چکا ہے فَاَوْقَدْ لَبِیْ یَا هَآمَانَ عَلَی الطَّیْنِ (۴ع) کی تفسیر کا مطالعہ بھی کر لیا جائے۔ (دیکھو انوار البیان ص ۲۸ ج ۷))

وَلَٰذَٰلِكَ زَیِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءَ عَمَلِهِ اور اسی طرح فرعون کے لئے اُس کی بدکرداری مزین کر دی گئی جسے وہ اچھی سمجھتا تھا۔ وَصَدَّ عَنْ السَّبِيلِ اور وہ راہ حق سے روک دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لئے تدبیریں سوچتا رہا مگر کوئی تدبیر کام نہ آئی وَمَا كُنْذُرُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ اور فرعون کی تدبیر ہلاکت ہی میں لے جانے والی تھی جو سوچا سب الٹا پڑا بِالْآخِرِ ہلاک ہوا خود بھی ڈوبا اپنے لشکروں کو بھی لے ڈوبا۔

قال تعالى فی سورة طه: فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ وَاَصْلَحَ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدٰی (سفر فرعون کو اور اس کے لشکروں کو سمندر کے ایک بڑے حصے نے ڈھانپ لیا اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور صحیح راہ نہ بتائی)۔

وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُونِ اهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ ۝ يٰقَوْمِ اِنَّمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا

اور جو شخص ایمان لایا اس نے کہا کہ اے میری قوم میرا اتباع کرو میں تمہیں ہدایت والا راستہ بتاؤں گا اے میری قوم یہ دنیا والی زندگی

مَتَاعٌ ۚ وَاِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ۝ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى اِلَّا مِثْلَهَا ۚ وَمَنْ عَمِلَ

تھوڑے سے نفع کی زندگی ہے اور بلاشبہ آخرت ہی رہنے کی جگہ ہے جس نے کوئی بھی برائی کی تو اس کا بدلہ صرف اسی قدر دیا جائے گا اور جس نے

صَالِحًا مِّنْ ذٰكِرٍ اَوْ اُنْثٰی ۚ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ۚ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ ۖ يَرْزُقُوْنَ فِيْهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

نیک عمل کیا مرد ہو یا عورت اور حال یہ ہو کہ وہ مومن ہو تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اس میں انہیں بے حساب رزق دیا جائے گا

وَيَقَوْمٍ مَّا لٰی اَدْعُوْكُمْ اِلَى الْبَحْوَةِ وَتَدْعُوْنِيْ اِلَى النَّارِ ۝ تَدْعُوْنِيْ اِلَّا كُفْرًا بِاللّٰهِ وَاشْرَکًا

اور اے میری قوم کیا بات ہے میں تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے جہنم کی طرف بلاتے ہو تم مجھے اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس چیز کو اس کا شریک بنائوں

يَه مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمُ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ ۝ لَاجِرَمَ أَنْتَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ

جس کی میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور میں تمہیں عزیز غفار کی طرف بلاتا ہوں یہ یقینی بات ہے کہ تم مجھے جس چیز کی دعوت دیتے ہو

لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنْ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ

اس کی دعوت نہ دنیا میں ہے اور نہ آخرت میں اور بلاشبہ ہمارا لوٹنا اللہ کی طرف ہے اور بلاشبہ جو لوگ حد سے بڑھ جانے والے ہیں وہ

التَّارِ ۝ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفَؤُضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ۝

دوزخ والے ہیں سو تم یاد کرو گے جو میں تم سے کہتا ہوں اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں بے شک اللہ بندوں کو دیکھنے والا ہے

فَوْقَهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ ۝ التَّارِ يُعْرَضُونَ

سواللہ نے اس شخص کو ان لوگوں کی تدبیروں کی معذرتوں سے بچالیا اور آل فرعون پر بُرے عذاب نازل ہوا صبح شام یہ لوگ آپ کے سامنے

عَلَيْهَا عُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ۝

لائے جاتے ہیں اور جس دن قیامت قائم ہوگی ہوگا کہ آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو۔

## مرد مومن کا فناء دنیا اور بقاء آخرت کی طرف متوجہ کرنا اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا

**تفسیر:** مرد مومن کا سلسلہ کلام جاری ہے درمیان میں فرعون کی اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ اس نے اپنے وزیر ہامان سے ایک اونچی عمارت بنانے کا حکم دیا اور یوں کہا کہ میں اس عمارت پر چڑھ کر موسیٰ کے معبود کا پتہ چلاؤں گا، مرد مومن نے فرعون کی بات سنی اور قوم فرعون کو مزید نصیحت کی اوّل تو اس نے یہ کہا کہ تم لوگ میرا اتباع کرو میں تمہیں ہدایت کا راستہ بتاؤں گا جیسے میں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا ایسے ہی تم بھی ایمان لاؤ اور یہ دنیا جس پر تم دل دیئے پڑے ہو اور اسی کو سب کچھ سمجھ رہے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے سے ہماری دنیا جاتی رہے گی اس کے بارے میں تمہیں سمجھ لینا چاہئے کہ یہ دنیا والی زندگی تھوڑی سی ہے چند روزہ ہے اس میں جو کچھ سامان ہے وہ بھی تھوڑا سا ہے اور تھوڑے دن کام آنے والا ہے اس ذرا سی دنیا کے لئے تم اپنی آخرت برباد نہ کرو جو شخص کفر پر مرے گا اس کے لئے وہاں دائمی عذاب ہے وہاں کے عذاب کے لئے اپنی جان کو تیار کرنا نا سمجھی کی بات ہے۔ سب کو مرنا ہے میدان آخرت میں جانا ہے جو لوگ ایمان کے ساتھ پہنچیں گے وہ وہاں جنت میں جائیں گے اور جنت ایسی جگہ ہے جو دارالقرار ہے حقیقت میں وہی رہنے کی جگہ ہے۔ مرد مومن نے مزید کہا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نیکیوں اور برائیوں کا بدلہ دیگا برائی کا بدلہ تو اتنا ہی ملے گا جس درجہ برائی کی تھی اور نیک عمل کا بدلہ بہت زیادہ ملے گا کسی بھی مرد یا عورت نے بحالت ایمان کوئی بھی نیک عمل کر لیا تو اس کے لئے اللہ نے یہ صلہ رکھا ہے کہ ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے وہاں انہیں بے حساب رزق دیا جائے گا تم لوگ اسی جنت کے لئے فکر مند بنو اور ایمان قبول کرو۔



مردمومن نے یوں بھی کہا کہ میں تمہیں ایسے کام کی طرف بلاتا ہوں جس میں آخرت کی نجات ہے اور تم مجھے اس چیز کی طرف بلاتے ہو جو دوزخ کے داخلے کا سبب ہے میں ایمان کی دعوت دیتا ہوں اور تم مجھے یہ دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس کیساتھ کسی کو شریک بناؤں جبکہ شرک کے جائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس میں مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ کہا اور انہیں یہ بتادیا کہ تمہارے پاس بھی شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ بات رکھی اپنے اوپر اور سمجھا دیا ان کو قوم کو خطاب کرتے ہوئے مزید کہا اِنَّا اَدْعُوْكُمْ اِلَى الْعَزِيْزِ الْغَلْبِ (یعنی میں تمہیں اپنے معبود کی طرف بلاتا ہوں وہ عزیز ہے زبردست ہے بہت مغفرت کرنے والا ہے) اگر کسی کو عذاب دینا چاہے تو اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے اور وہ غفار بھی ہے کوئی شخص کیسے ہی گناہ کر لے وہ معاف کرنا چاہے تو اسے کوئی بھی روکنے والا نہیں لہذا تم کفر سے توبہ کر لو اور بخشش کے دائرہ میں آ جاؤ یہ نہ سوچو کہ ہم نے جواب تک کفر و شرک کیا ہے اور اعمال بدکار نکاب کیا ہے اس کی معافی کیسے ہوگی۔

مردمومن نے یہ بھی کہا کہ تم لوگ جو مجھے کفر و شرک کی طرف بلاتے ہو یہ باطل چیز ہے اور اس میں بربادی ہے یہ جو تم شرک اور کفر کی دعوت دے رہے ہو یہ محض ایک جاہلانہ بات ہے تم نے جو بت تراش رکھے ہیں یہ تو ذرا بھی نہیں سنتے ہیں نہ ہاں کرتے ہیں نہ کسی نفع اور ضرر کے مالک ہیں یہ تو دنیا میں تمہاری دعوت کی حقیقت ہے اور آخرت میں اس کا کوئی نفع پہنچنے والا نہیں ہے۔ قال صاحب الروح فالمعنى ان مات دعوتنى اليه من الاصنام ليس له استجابة دعوة لمن يدعوه اصلا او ليس له دعوة مستجابة اى لا يدعى دعا يستجيبه لدا عيه فالكلام اما على حذف المضاف او على حذف الموصوف. (تفسیر روح المعانی کے مصنفؒ لکھتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جن بتوں کی طرف تم مجھے بلاتے ہو انہیں جو پکارے وہ اس کی پکار کا جواب ہرگز نہیں دے سکتے یا ان کو پکارنے والے کی کوئی دُعا مقبول نہیں ہے یعنی کوئی ایسی دُعا نہیں ہے جو مانگنے والے کیلئے قبول ہو، یہاں لَيْسَ لَه دَعْوَةٌ میں یا تو مضاف محذوف ہے یا موصوف محذوف ہے)

وَ اِنَّ مَرَدَّنَا اِلَى اللّٰهِ (مردمومن نے مزید کہا کہ ہم سب کا لوٹنا اللہ کی طرف ہے وَ اِنَّ الْمُسْرِفِيْنَ هُمْ اَصْحَابُ النَّارِ (اور بلاشبہ حد سے آگے بڑھ جانے والے ہی دوزخی ہوں گے) اس میں ترکیب سے یہ بتادیا کہ تم لوگ صرف ہو حد سے آگے بڑھنے والے ہو ایمان قبول کرو تا کہ آگ کے عذاب سے بچ سکو۔

فَسَتَنۡرَوُنَّ مَاۤ اَقُولُ لَكُمۡ (سو تم غمگین جان لو گے کہ جو میں تم سے کہتا ہوں) وَ اَفۡخِضۡ اَمْرِيۡ اِلَى اللّٰهِ (اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں) اگر تم نے مجھے تکلیف دینے کا ارادہ کیا تو میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ وہ میری حفاظت فرمائے گا۔

## مردمومن کا قوم کی شرارتوں سے محفوظ ہو جانا اور قوم فرعون کا برباد ہونا

یہاں تک مردمومن کا کلام تھا آگے اللہ تعالیٰ شانہ نے اس کی حفاظت کا اور آل فرعون کے مبتلائے عذاب ہونے کا تذکرہ فرمایا ارشاد فرمایا فَوَقَّعَ اللّٰهُ سَيَاتِهَا مَا مَكَّنَّوۡنَا (سو اللہ نے اس کو ان لوگوں کے مکر اور تدبیر کی مصیبتوں سے محفوظ فرمادیا وَ حَاقَّ بِالۡهٰٓءِ لِقَوۡنِ سَوۡءِ الْعَذَابِ اور فرعون اور آل فرعون پر برا عذاب نازل ہو گیا یہ لوگ دریا میں غرق ہوئے اور ڈوب مرے اگر وَ حَاقَّ بِالۡهٰٓءِ لِقَوۡنِ سے اسی غرق کو مراد لیا جائے تو سیاق کلام سے بعید نہیں ہے گو صاحب روح المعانی نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب مردمومن کو قتل کرنے کا فرعون نے منصوبہ بنایا (جن کا مومن ہونا بعد میں ظاہر ہو گیا تھا) تو وہ ایک



پہاڑ کی طرف چلے گئے ان کے پیچھے فرعون نے ہزار آدمی بھیج دیئے ان آدمیوں نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے پایا اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی اور ان لوگوں کو درندے کھا گئے اور ان میں سے بعض پہاڑ میں پیاسے مر گئے اور بعض لوگ فرعون کے پاس واپس آ گئے اس نے ان کو یہ کہہ کر قتل کر دیا کہ تم قصد اس شخص کو لے کر نہیں آئے واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

آخر میں فرمایا **الَّذِينَ يُعْرِضُونَ عَنْهَا غَدُوءًا وَعَشِيقًا** (یہ لوگ صبح و شام آگ پر پیش کئے جاتے ہیں آل فرعون غرق ہو گئے مر گئے برزخ میں پہنچ گئے وہاں وہ صبح و شام دوزخ کی آگ پر پیش کئے جاتے ہیں اس پیش کرنے میں ان کی سزا بھی ہے آگ پر پیش کئے جاتے ہیں تو اس کی لپٹ پہنچتی ہے اور انہیں بھی بتایا جاتا ہے کہ تمہیں اسی میں داخل ہونا ہے یہ تو برزخ کا معاملہ ہوا اور قیامت کے دن انہیں اصلی دوزخ میں داخل کیا جائے گا ارشاد فرمایا **وَيَوْمَ نَقُومُ السَّاعَةَ ۖ اَدْخِلُوْا آلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ** (اور جس دن قیامت قائم ہوگی فرشتوں سے کہا جائے گا کہ آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کرو۔)

## عذاب قبر کا تذکرہ

کافروں اور فاسقوں کیلئے عذاب قبر میں مبتلا ہونا احادیث شریفہ سے ثابت ہے حضرات مفسرین نے فرمایا ہے کہ آیت کریمہ **الَّذِينَ يُعْرِضُونَ عَنْهَا غَدُوءًا وَعَشِيقًا** اور دوسری آیت **وَمَنْ أَحْطَبَ إِلَيْهِمْ أُغْرِقُوا فَادْخُلُوا نَارًا** سے برزخ کا عذاب ثابت ہوتا ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی شخص مرجاتا ہے تو صبح و شام اس پر اس کا ٹھکانا پیش کیا جاتا ہے اگر اہل جنت میں سے ہوتا ہے تو جنت کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے اگر اہل دوزخ میں سے ہے تو دوزخ کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے ہر ایک کا ٹھکانہ پیش کر کے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا اصلی ٹھکانہ ہے جب تک کہ اللہ تجھے قیامت کے دن اس میں داخل کرنے کے لئے نہ اٹھائے (اس وقت تک یہاں رہنا ہے) (مشکوۃ المصابیح ص ۸۵ من الصغیر)

**وَلَا يَتَخَبَّحُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا قَهْلًا اَنْتُمْ**

اور اس وقت کیا کرو جب کافروں کو دوزخ میں ایک دوسرے سے ٹھکانہ دیں گے جو لوگ کبر و تعہد ان لوگوں سے کہیں گے جو بڑے بے حق ہیں چنگ تمہارے تابع تھے تو کیا

**مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ ۚ قَالَ الَّذِينَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا اِنَّا كُلٌّ فِيهَا اِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ**

تم ہم سے آگ کا کوئی حصہ ہٹا سکتے ہو جو لوگ بڑے حقہ کہیں گے چنگ ہم سب دوزخ میں ہیں چنگ اللہ نے بندوں کے درمیان فیصلہ فرمادیا

**الْعِبَادِ ۚ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ ۖ**

اور جو لوگ دوزخ میں ہوں گے وہ دوزخ کے کارو عاؤں سے کہیں گے تم اپنے رب سے دعا کرو وہ ہم سے ایک دن عذاب کا کچھ حصہ ہٹا کر دے

**قَالُوا اَوْ لَمْ تَكُنْ تَدْعُوهُمْ بِالسُّلْمٰیٰتِ قَالُوا بَلٰی قَالُوا فَاَدْعُوا ۚ وَمَا دُعَاؤُ الْكَافِرِيْنَ اِلَّا**

وہ جواب دیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے مول کے لئے دلائل تھیں آئے تھے وہ لوگ کہیں گے کہ ہاں آئے تھے اس پر اللہ فرمائیے دوزخ جواب دیں گے کہ تم تو تمہاری دعا کرو اور کافروں کی دعا

**فِي ضَلٰلٍ ۝**

مضی بے اثر ہے۔

## دوزخیوں کا آپس میں جھگڑنا چھوٹوں کا بڑوں پر الزام دھرنا

**تفسیر:** دوزخی لوگ آپس میں جھگڑے بازی کریں گے جو لوگ چھوٹے تھے دنیا میں خوب بڑھ چڑھ کر اپنے بڑوں کی بات مانتے تھے اور ان کے کہنے سے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سے اور ان کے متبعین سے لڑتے تھے اور ان کی تکذیب کرتے تھے اور دوسروں کو بھی ایمان قبول کرنے سے روکتے تھے جب قیامت کے دن حاضر ہوں گے تو بڑے چھوٹے سب آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے اور دوزخ میں داخل ہو جائیں گے تو یہی اتباع یعنی چھوٹے لوگ جو دنیا میں سرداروں اور لیڈروں کے کہنے اور ہتھی دینے سے حق اور اہل حق سے دشمنی کرتے تھے اپنے بڑوں سے کہیں گے کہ دنیا میں ہم نے تمہاری بات مانی اب تم یہاں ہمیں کچھ فائدہ پہنچا دو بالکل تو دوزخ سے کیا نکلوا سکتے آگ کا تھوڑا سا عذاب ہی ہو تو اذنان کے بڑے جواب میں کہیں گے کہ بلاشبہ ہمیں اور تم کو اسی میں رہنا ہے اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے درمیان فیصلہ فرمادیا ہے یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تم بھی یہیں رہو گے اور ہم بھی یہیں رہیں گے جب یہاں رہنا ہے تو یہاں کے قانون کے مطابق رہنا ہوگا (اور قانون یہ ہے کہ کوئی دوزخی کسی کی کچھ مدد نہیں کر سکتا) سورہ ابراہیم میں بھی یہ مضمون مذکور ہے کہ چھوٹے وہاں اپنے بڑوں سے یہ بات کہیں گے اور وہ اس کا یہ جواب دیں گے لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَكُم بِكُمُ (اگر اللہ ہم کو کوئی راہ بتاتا تو ہم بھی تم کو وہ راہ بتا دیتے) سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَبْنَا أَمْ صَدَقْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحْسِنِينَ (ہمارے حق میں ہے ہم پریشانی کا اظہار کریں یا صبر کریں ہمارے چھٹکارہ کا کوئی راستہ نہیں)

## دوزخیوں کا فرشتوں سے تخفیف عذاب کے لئے عرض و معروض کرنا

دوزخی عذاب ہلکا کر دینے کے لئے دوزخ پر مقررہ فرشتوں سے بھی عرض معروض کریں گے اور ان سے کہیں گے تم اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ایک ہی دن ہمارا عذاب ہلکا کر دے وہ سوال کریں گے کہ یہاں تمہارے آنے کا جو سبب بنا ہے وہ کیا ہے؟ تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے تمہارے پاس اپنے رسول بھیجے تھے انہوں نے ایمان کی دعوت دی تھی وہ جب تمہارے پاس آئے تم نے ان کو جھٹلایا اور ان کی بات نہ مانی بولو کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ اس پر وہ لوگ جواب دیں گے کہ ہاں واقعی یہ بات صحیح ہے داروغہ ہائے دوزخ کہیں گے کہ ہم ایسے لوگوں کے لئے کچھ بھی سفارش نہیں کر سکتے تم ہی دعا کرو وہاں انکا دعا کرنا بیکار ہوگا ان کی دعا ضائع ہوگی کافروں کی کوئی دعا وہاں قبول نہیں ہو سکتی۔

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ۝ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ

بلاشبہ ہم اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے دنیا والی زندگی میں مدد کرتے ہیں اور جس دن گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے جس دن

الظَّالِمِينَ مَعَذَرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ۝

ظالموں کو ان کی معذرت کام نہ دے گی اور ان کے لئے لعنت ہے اور ان کے لئے برے گھر میں رہنا ہے۔

## اللہ تعالیٰ کا اپنے رسولوں اور اہل ایمان سے نصرت کا وعدہ فرمانا اور ظالمین کے ملعون ہونے کا اعلان فرمانا

**تفسیر:** دو آیتوں کا ترجمہ ہے ان میں دو باتیں بتائی ہیں اول یہ کہ ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی دنیا و الی زندگی میں مدد کرتے ہیں (مدد تو ہوتی ہے بعض مرتبہ دیر لگ جاتی ہے اور اس دیر لگنے میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں انہی حکمتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کافروں کو مہلت دی جاتی ہے جو ان کے حق میں استدراج ہوتا ہے اور اسی استدراج کی وجہ سے اور زیادہ بڑھ چڑھ کر شرارت اور بغاوت کرتے ہیں پھر دنیا میں ان سے انتقام لے لیا جاتا ہے۔

**وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ** (اور ہم اس دن بھی رسولوں اور ایمان والوں کی مدد کریں گے جس دن گواہ کھڑے ہوں گے یعنی فرشتے گواہی دیں گے کہ رسولوں نے تبلیغ کی اور کافروں نے جھٹلایا۔

دوسری بات یہ واضح فرمائی کہ قیامت کے دن ظالموں کو ان کی عذر خواہی نفع نہ دے گی وہ دنیا میں بھی مستحق لعنت ہیں اور آخرت میں بھی ملعون ہوں گے۔

اور جو انہیں رہنے کا گھر ملے گا وہ برا گھر ہوگا یعنی دوزخ میں جائیں جو آگ والا گھر ہے۔

**وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ الْكِتَابَ ۖ هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأُولِي**

اور یہ واقعی بات ہے کہ ہم نے موسیٰ کو ہدایت دی اور بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا یہ کتاب ہدایت اور نصیحت تھی عقل

**الْأَلْبَابِ ۖ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعُشِيِّ**

والوں کے لئے سو آپ صبر کیجئے بلاشبہ اللہ کا وعدہ حق ہے اور اپنے گناہ کے لئے استغفار کیجئے اور صبح شام اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے

**وَالْإِبْكَارِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَجَادِلُونَ فِي آلِيبِ اللَّهِ يَغْيِرُ سُلْطٰنَ أَتْهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ**

جو حمد کے ساتھ ہو بلاشبہ جو لوگ اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو ان کے سینوں میں تکبر

**الْأَكْبَرُ ۖ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝**

ہی ہے وہ کبھی بھی اس تک پہنچنے والے نہیں سو آپ اللہ سے پناہ طلب کیجئے بلاشبہ وہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے۔

## صبر کرنے اور استغفار کرنے اور تسبیح و تحمید میں مشغول رہنے کا حکم

**تفسیر:** ان آیات میں اول تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا ارشاد فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو ہدایت دی اور بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا۔ (یہ کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کے واسطے سے انہیں ملی تھی جو سراپا ہدایت تھی) یہ کتاب ہدایت تھی اور عقل والوں کے لئے نصیحت بھی تھی انہوں نے (قدر دانی نہ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایذا نہیں پہنچائیں اور تو ریت شریف پر بھی عمل نہ کیا) جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا آپ بھی صبر کیجئے

اور اپنے گناہ کے لئے بھی استغفار کیجئے (اگر صبر میں کی آجائے تو اس کی استغفار کے ذریعہ تلافی کر دیجئے کیونکہ صبر کی کمی آپ کے شان عالی کے لائق نہیں ہے اس لئے مجازاً اس کو گناہ سے تعبیر فرمایا اور استغفار سے اس کے تذراک کا حکم دیا اور صبح شام یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تہلیل میں لگے رہیے۔

## اللہ کی آیات میں جھگڑا کرنے والوں کے سینے میں کبر ہے

پھر فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی آیات میں بغیر کسی دلیل کے جھگڑا کرتے ہیں قرآن کو نہیں مانتے اور آپ کی تکذیب کرتے ہیں ان کے سینوں میں بس تکبر گھسا ہوا ہے وہ اپنے تکبر کی وجہ سے خیال کرتے ہیں کہ ہم غالب ہو جائیں گے حالانکہ وہ غالب ہونے والے نہیں ہیں آپ اللہ کی پناہ لیجئے بلاشبہ سب سے اعلیٰ اور بصیر ہے۔

معالم التنزیل میں لکھا ہے کہ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے کہا کہ ہمارا مسیح یعنی دجال آخر زمانے میں نکلے گا اس کے ذریعہ ہمارا ملک واپس مل جائے گا اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ ان کے سینوں میں تکبر نے جگہ پکڑ رکھی ہے اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم غالب ہو جائیں گے حالانکہ وہ غالب نہیں ہو سکتے ان کے لئے تو یہ فرمایا کہ وہ جس چیز کا لالچ کر رہے ہیں اُس تک نہیں پہنچ سکتے اور آپ کو حکم دیا کہ آپ اللہ کی پناہ لیں اس میں دجال سے پناہ لینا بھی داخل ہے۔

لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝۱۰

البتہ آسمانوں کا اور زمین کا پیدا فرمانا لوگوں کے پیدا کرنے سے زیادہ بڑی بات ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے،

وَمَا يَسْتَوِی الْاَعْمٰی وَالْبَصِیْرُ ۝۱۱ وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَلَا النَّبِیُّ ۝۱۲ قَلِیْلًا مِّنْهَا

اور برابر نہیں نابینا اور دیکھنے والا اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کئے برے لوگوں کے برابر نہیں ہیں، لوگ کم

تعداد رکھتے ہیں ۝۱۰ اِنَّ السَّاعَةَ لَا تَبِیْۤهٌ لَّا رَیْبَ فِیْهَا وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا یُؤْمِنُوْنَ ۝۱۱

صحیح حاصل کرتے ہیں۔ بلاشبہ قیامت ضرور آنے والی ہے اور لیکن بہت سے لوگ ایمان نہیں لاتے۔

## بینا اور نابینا اور مومنین صالحین اور برے لوگ برابر نہیں ہو سکتے

تفسیر: ان آیات میں قیامت کا آنا ثابت فرمایا ہے اور جو لوگ وقوع قیامت کو مستبعد سمجھتے تھے ان کا استبعاد دور فرمایا قیامت کا انکار کرنے والے یوں کہتے تھے کہ قبروں سے نکل کر دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے یہ ان لوگوں کی نا سمجھی اور بیوقوفی کی بات تھی اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ آسمان اور یہ زمین اتنی بڑی بڑی چیزیں ہم نے پیدا کیں ایک سمجھ دار منصف آدمی غور کرے گا اسکی سمجھ میں یہی آئے گا کہ مردہ جسم میں جان ڈالنا خالق ارض و سماء کے لئے ذرا بھی بڑی بات نہیں ہے بات تو سیدھی سادی ہے لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ مردوں میں روح دوبارہ آسکتی ہے مزید فرمایا کہ نابینا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے اس کو تو سمجھی سمجھتے ہیں اہل ایمان اور اعمال صالحہ والوں کے مقابلہ میں بدکردار برابر نہیں ہو سکتے جب

یہ بات سمجھتے ہو تو یہ بھی سمجھو کہ اچھو کو اچھا بدلہ ملنا ہے اور بڑوں کو بڑا بدلہ ملنا ہے لہذا قیامت قائم ہونا ضروری ہے تاکہ ہر ایک اپنے اپنے کئے کا بدلہ پالے حقائق سامنے رکھ دیئے جاتے ہیں لیکن تم لوگ کم نصیحت حاصل کرتے ہو بلاشبہ قیامت ضرور قائم ہوگی اس کے آنے میں ذرا شک نہیں ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ

اور تمہارے رب نے فرمایا کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا بلاشبہ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں عنقریب بحالت ذلت

جہنم داخل ہوں گے۔

جہنم میں داخل ہوں گے۔

## اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا کرنے کا حکم اور قبول فرمانے کا وعدہ

**تفسیر:** اس آیت کریمہ میں حکم فرمایا ہے کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا یہ اللہ تعالیٰ شانہ کا بہت بڑا انعام اور احسان ہے کہ بندوں کو اپنی ذات عالی سے مانگنے کی اجازت دیدی اور پھر قبول کرنے کا وعدہ بھی فرمایا دعا مانگنے میں جو کیف ہے اسے وہی بندے جانتے ہیں جو دعا کے طریقہ پر دعا کرتے ہیں دعا سراپا عبادت ہے جیسا کہ آیت ختم پر فرمایا إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ بیشک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں یعنی دعا سے منہ موڑتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہونے کی حالت میں جہنم میں داخل ہوں گے۔

## دُعا کی ضرورت اور فضیلت

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ الدُّعَاءُ مَخِ الْعِبَادَةِ (مکھوۃ المصانع ص ۱۹۴) کہ دُعا عبادت کا مغز ہے چھلکے کے اندر جو اصل چیز ہوتی ہے اسے مغز کہتے ہیں اور اسی مغز کے دام ہوتے ہیں اگر بادام کو پھوڑو تو اس میں سے گری نکلتی ہے اور اسی گری کی اصل قیمت ہوتی ہے اگر چھلکوں کے اندر گری نہ ہو تو بادام بے دام ہو جاتے ہیں عبادتیں بہت سی ہیں اور دعا بھی ایک عبادت ہے لیکن یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے عبادت ہی نہیں عبادت کا مغز ہے اور اصل عبادت ہے عبادت کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کے حضور میں بندہ اپنی عاجزی اور ذلت پیش کرے اور خشوع و خضوع یعنی ظاہر اور باطن کے جھکاؤ کے ساتھ بارگاہ بے نیاز میں پوری نیاز مندی کے ساتھ حاضر اور چونکہ یہ عاجزی والی حضوری دعا میں سب عبادتوں سے زیادہ پائی جاتی ہے اس لئے دعا کو عین عبادت اور عبادت کا مغز فرمایا دعا کرتے وقت بندہ اپنی عاجزی حاجت مندی کا اقرار کرتا ہے اور سراپا نیاز ہو کر بارگاہ خداوندی میں اپنی حاجت پیش کر کے لپٹاتا اور لٹکتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ صرف اللہ ہی والا ہے وہ داتا ہے اس کے سوا کوئی فیئہ والا نہیں ہے وہ قادر ہے کریم ہے جتنا چاہے دے سکتا ہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے وہ بے نیاز ہے اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے اور مخلوق سراسر عاجز اور محتاج ہے جب اپنے اس یقین کے ساتھ قادر و قیوم کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر سوال کرتا ہے تو اس کا یہ شغل

سراپا عبادت بن جاتا ہے اور یہ دعا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا مندی کا سبب بن جاتی ہے اس کے برعکس جو شخص دعا سے گزیر کرتا ہے وہ اپنی حاجب مندی کے اقرار کو خلاف شان سمجھتا ہے چونکہ اس کے اس طرز عمل میں تکبر ہے اور اپنی بے نیازی کا دعویٰ ہے اس لئے اللہ جل شانہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔

چونکہ دعا عبادت ہی عبادت ہے اس لئے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ایسے شیئی اکرم علی اللہ من الدعاء (مشکوٰۃ الصالح ص ۱۹۴ من الترمذی) کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز بزرگ و برتر نہیں ہے۔ اور آنحضرت ﷺ نے یہ بھی فرمایا ہے من لم یسئل اللہ یغضب علیہ (مشکوٰۃ الصالح ص ۱۹۵) (جو شخص اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے)

انسان اپنی بھلائی اور بہتری کے لئے جتنی تدبیریں کرتا ہے اور دکھ تکلیف نقصان اور ضرر سے بچنے کے لئے جتنے طریقے سوچتا ہے ان میں سب سے زیادہ کامیاب اور آسان اور موثر طریقہ دعا کرنا ہے نہ ہاتھ پاؤں کی محنت نہ مال کا خرچہ بس دل کو حاضر کر کے دعا کر لی جائے غریب امیر بیمار اور صحت مند مسافر اور مقیم بوڑھا اور جوان مرد و بیا عورت مجمع ہو یا تنہائی ہر شخص دعا کر سکتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ لا تعجزوا فی الدعاء فانہ لن یمہلک مع الدعاء احد (الترغیب والترہیب للحافظ المنذری) (دعا کے بارے میں عاجز نہ بنو کیونکہ دعا کے ساتھ ہوتے ہوئے ہرگز کوئی شخص ہلاک نہ ہوگا)

جو لوگ دعا سے غافل ہوتے ہیں گویا اپنے کو اللہ تعالیٰ کا محتاج نہیں سمجھتے اور ان سے بڑھ کر وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں خناس گھسا ہوا ہے وہ دعا کرنے کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں آیت بالا میں فرمایا کہ جو لوگ میری عبادت سے یعنی مجھ سے دعا کرنے میں اپنی ذلت محسوس کرتے ہیں اور دعائے کرنے میں اپنی شان سمجھتے ہیں ایسے لوگ ذلت کی حالت میں جہنم میں داخل ہوں گے لوگوں کا یہ طریقہ رہ گیا ہے کہ دنیاوی اسباب ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اگر دعا کرتے بھی ہیں تو بس ذرا نام کو ہاتھ اٹھا لیتے ہیں نہ دل حاضر نہ آداب دعا کا خیال ہاتھ اٹھائے اور منہ پر پھیر لئے یہ بھی پتہ نہیں کہ زبان سے کیا کلمات نکلے اور کیا دعا مانگی نقصان دعا کے بارے میں ہم نے مستقبل کتاب لکھ دی ہے اس کا مطالعہ کر لیا جائے۔

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النِّيلَ لِتَشْكُرُوا فِيهِ وَالتَّهَارُ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى

اللہ وہی ہے جس نے رات کو پیدا فرمایا تاکہ تم اس میں آرام کرو اور دن کو ایسی چیز بنائی جس میں دیکھتے بھالتے ہیں بلاشبہ اللہ لوگوں پر فضل فرمانے

التَّائِسِ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ۝ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۖ لَآ إِلَهَ

والا ہے اور لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے یہ اللہ ہے تمہارا رب ہے ہر چیز کا پیدا فرمانے والا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں سومت

إِلَّا هُوَ قَاتِي تُؤَفَّكُونَ ۝ كَذَلِكَ يُؤَفِّكُ الَّذِينَ كَانُوا يَآئِلَتِ اللَّهُ يَبْحَدُونَ ۝ اللَّهُ الَّذِي

کہاں الٹ کر جا رہے ہو اسی طرح الٹے چلائے جاتے ہیں وہ لوگ جو ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں اللہ وہ ہے

جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ۖ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّن

جس نے زمین کو تمہارے لئے ٹھہری ہوئی چیز بنا دیا اور آسمان کو چھت بنا دیا اور تمہاری صورتیں بنائیں تمہاری اچھی صورتیں بنادیں اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا

الطَّيِّبَاتِ ۚ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَرُّوْا اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ ۝ هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوْهُ

یہ اللہ ہے تمہارا رب ہے۔ سو بابرکت ہے اللہ جو رب العالمین ہے وہ زندہ ہے کوئی معبود نہیں اسکے سوا تم اسے پکارو اس طرح سے کہ

مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۝

خالص اس کی فرمانبرداری کرنے والے ہو سب تعریف ہے اللہ کیلئے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔

## اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، لیل و نہار ارض و سماء اسی نے پیدا فرمائے

تفسیر: ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے انعامات کبیرہ اور اللہ تعالیٰ کی صفات جلیلہ بیان فرمائیں ارشاد فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے رات دن بنائے رات میں آرام کرتے ہو سکون اور چین سے رہتے ہو اور دن کو ایسی چیز بنادی جس میں دیکھتے بھالتے ہو آتے جاتے ہو رزق تلاش کرتے ہو رات اور دن دونوں اسکی بڑی نعمتیں ہیں لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔

اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رب ہے وہ ہر چیز کو پیدا فرمانے والا ہے اسی کے سوا کوئی معبود نہیں ہے ان باتوں کا تقاضا ہے کہ تم اسی کی طرف متوجہ ہو اسی کی عبادت کرو اس کو چھوڑ کر کدھر جا رہے ہو تمہارا کدھر کو رخ ہے معبود برحق کی طرف سے ہٹ کر تمہارا کدھر کو ہے؟ اس کے بعد یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے وہ لوگ ہٹا دیئے جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں یہ اس کی آیات کا انکار کرنا اس بات کا ذریعہ بن جاتا ہے کہ شیاطین الانس والجن ان کو حق سے ہٹا کر دوسری طرف لے جاتے ہیں۔

پھر اللہ تعالیٰ کی مزید چند نعمتوں کا ذکر فرمایا اول یہ کہ اللہ نے تمہارے لئے زمین بنائی جس پر آرام سے رہتے سہتے ہو وہ بلتی جلتی نہیں ہے اور اس نے آسمان کو تمہارے لئے ایک چھت بنادیا اور دیکھتے ہو تو دل خوش ہوتا ہے اور فرمایا کہ اللہ نے تمہاری صورتیں بنائیں اور اچھی صورتیں بنائیں پھر مزید یہ کہ فرمایا کہ پاکیزہ عمدہ چیزیں عطا فرمائیں جو کھانے کی چیزیں بھی ہیں اور پہننے کی بھی ہیں اور دوسرے مواقع پر بھی استعمال ہوتی ہیں جس نے تمہیں ان چیزوں سے نوازا یہ اللہ ہے تمہارا رب ہے بابرکت ہے رب العالمین ہے وہ زندہ ہے اس کی حیات ذاتی ہے حقیقی ہے ازل و ابدی ہے ان باتوں کو سمجھو اور یقین کرو کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے لہذا اسی کو پکارو اسی سے مانگو اسی کی عبادت کرو اور ایسی عبادت کرو کہ عبادت اور طاعت خالص اسی کے لئے ہو آخر میں فرمایا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ (سب تعریف اللہ ہی کے لئے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے)

قُلْ اِنِّیْ نُهَیْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِیْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَمَّا جَاءَنِ الْبَیِّنَاتُ مِنْ رَبِّیْ

آپ فرمادیجئے بلاشبہ میں اس سے منع کیا گیا ہوں کہ ان کی عبادت کروں جن کی اللہ کو چھوڑ کر تم عبادت کرتے ہو جبکہ میرے رب کی

وَاُمِرْتُ اَنْ اُسَلِّمَ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۝ هُوَ الَّذِیْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ

طرف سے میرے پاس واضح نشانیاں آچکی ہیں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین ہی کا فرمانبردار بنوں اللہ وہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پھر نطفہ سے



ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِيَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ

پھر جسے ہوئے خون سے پیدا فرمایا پھر تمہیں اس حالت میں نکالتا ہے کہ تم بچے ہوئے ہو پھر تم کا اپنی طاقت کو پہنچ جاؤ تا کہ تم بڑھے ہو جاؤ اور تم میں سے

مَنْ يُتَوَقَّى مِنْ قَبْلُ وَلِيَبْلُغُوا أَجَلَ مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝ هُوَ الَّذِي يُحْيِي

بعض کو اس سے پہلے اٹھا لیتا ہے اور تا کہ تم اجل مسمیٰ کو پہنچ جاؤ اور تا کہ تم سمجھ حاصل کرو اللہ وہی ہے جو زندہ فرماتا ہے

وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّا نَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝

اور موت دیتا ہے پھر جب وہ کسی حکم کا فیصلہ فرماتا ہے تو یہی فرمادیتا ہے کہ ہو جا لہذا وہ ہو جاتا ہے۔

## میں تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کر سکتا مجھے حکم ہوا ہے کہ رب العالمین کی فرمانبرداری کروں

**تفسیر:** یہ تین آیات کا ترجمہ ہے پہلی آیت میں رسول اللہ ﷺ کو حکم فرمایا کہ آپ مشرکین سے فرمادیں کہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے واضح دلائل آچکے ہیں میں تو صرف اللہ جل مجدہ ہی کی عبادت کروں گا تم اللہ تعالیٰ شانہ کو چھوڑ کر جو فیروں کی عبادت کرتے ہو میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا مجھے اس سے منع کیا گیا ہے کہ میں شرک اختیار کروں مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ رب العالمین جل مجدہ کی خالص فرمانبرداری کروں یہ اعلان کر کے مشرکین کو یہ بتا دیا کہ تم جو یہ امید لئے بیٹھے ہو کہ میں اپنی توحید کی دعوت کو چھوڑ دوں گا یا تمہاری طرف کچھ جھک جاؤں گا یہ تمہارا جھوٹا خیال ہے) دوسری آیت میں انسان کی تخلیق کے مختلف ادوار بتائے اول تو یہ فرمایا کہ اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا یعنی انسان کی ابتدائی تخلیق مٹی سے ہے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا اس طرح سے ان کی پوری نسل کی اصل مٹی سے ہو گئی اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ان کی نسل کی پیدائش کا اللہ تعالیٰ نے یوں سلسلہ چلایا کہ ہر فرد مرد کے نطفہ سے پیدا ہوتا ہے مرد کا نطفہ عورت کے رحم میں جاتا ہے کچھ عرصے کے بعد یہ نطفہ علقہ یعنی جما ہوا خون بن جاتا ہے پھر یہ جما ہوا خون چبانے کے قابل ایک گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ وہیں رحم مادر میں اسکی صورت بنا دیتا ہے اور وہیں پر ہڈیاں بنا دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیتا ہے پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق وہ باہر آ جاتا ہے جب باہر آ جاتا ہے تو اس وقت طفل ہوتا ہے اس شان طفولیت سے ہر بچہ گزرتا ہے اس تفصیل کو ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا میں بیان فرمایا ہے۔

## انسان کی تخلیق اور اس کی زندگی کے مختلف اطوار و ادوار

اس تفصیل اور تفسیر کو بیان کرتے ہوئے سورۃ الحج کے پہلے رکوع اور سورہ المؤمن کے پہلے رکوع کو سامنے رکھا گیا ان دونوں جگہ اجمال کی تفصیل ہے اس کے بعد زندگی کے مزید ادوار بیان فرمائے، اولاً ثُمَّ لِيَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ فرمایا ای ثم

یٰسَیِّدِیْمُ لَتَبْلُوْا اَشَدَّ کُمۡ یٰعَنِیَ اللّٰہُ نَہِیْمِیْنَ حَالَتِ ظُلُمٰی مِیْلِ پید افرمایا پھر تم کو اتنی زندگی دی کہ طاقت کے زمانہ یعنی جوانی کے زمانہ کو پہنچ گئے جسمانی قوت بھی دی سمجھ بھی دی عقل بھی عنایت فرمائی اور قوت گویائی بھی عطا فرمائی ثُمَّ لَمَّا کُنُوْا شَیْوٰخًا پھر تمہاری جوانی آگے بڑھتی رہی بڑھا پا قریب آتا چلا گیا حتیٰ کہ تم بوڑھے ہو گئے۔

پھر یہ ضروری نہیں کہ ہر شخص جوان ہو یا ہر شخص بوڑھا ہو اللہ تعالیٰ بعض کو پہلے ہی اٹھا لیتا ہے بہت سے لوگ بڑھا پے پانے سے پہلے ہی جوانی آنے سے پہلے ہی اس دنیا سے اٹھائے جاتے ہیں اور موت ان کا صفایا کر دیتی ہے اس کو وَمِمَّا کُنُوْا مِنْۢ بَیْنَتَیْ قَبْلِۢ مِیْلِ مِیْلِ یٰمِیَانَ فَرَمَیَا پھر فرمایا وَلَتَبْلُوْا اَجَلًا مُّسَدَّدًا یعنی مختلف ادوار سے گزرتے ہوئے آخر میں سب کو مقررہ اجل یعنی قیامت کے دن تک پہنچاتا ہے یعنی اُس دن حاضر ہونا ہے وہاں سب کی حاضری ہوگی اور جو زندگی دی گئی تھی اس میں جو اعمال کئے اُن کا محاسبہ ہوگا۔

وَلَعَلَّکُمْ تَعْقِلُوْنَ اور تاکہ تم سمجھ لو کہ مختلف ادوار سے جو گزرتے ہو یہ کیوں گزارے جا رہے ہیں اور اس میں حکمتوں اور عبرتوں کی کیا کیا باتیں ہیں۔

تیسری آیت میں یہ بتایا کہ اللہ ہی موت دیتا ہے اور وہی زندہ فرماتا ہے اور اس کے حکم کو کوئی روکنے والا نہیں ہے جب کسی چیز کو وجود میں لانا ہو تو اس کا کن (ہو جا) فرما دینا ہی کافی ہے اُس کا حکم ہوا اور چیز وجود میں آئی فَکُنَّا یَقُوْلُ لَہٗ کُنْ فِیْکُوْنُ جو فرمایا اس میں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کے پیدا فرمانے میں اسباب اور آلات کا محتاج نہیں ہے کسی چیز کو وجود میں لانے کے لئے اس کا ارادہ ہی کافی ہے مزید توضیح کے لئے انوار البیان ص ۱۹۵ ج ۱ کا مطالعہ کیا جائے۔

اَلَمْ تَرَ اِلَی الَّذِیْنَ یُجَادِلُوْنَ فِیْۤ اٰیَةِ اللّٰہِ اَنّٰی یُصْرِفُوْنَ ۝۱۰ الَّذِیْنَ کَذَّبُوْا بِالْکِتٰبِ وَیَسَآ

اے غافل کیا تو نے اُن لوگوں کو جنہیں دیکھا جو اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں کہاں لائے پھرے جا رہے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس کتاب کو جھٹلایا اور اس چیز کو جھٹلایا

اَرْسَلْنَاہٗ رُسُلًا فَمِنْۢهُمْ مَّنْ یَّعْلَمُوْنَ ۝۱۱ اِذَا الْاَغْطٰی فِیْۤ اَعْنَاقِہُمْ وَالسَّلٰسِلُ یُسْحَبُوْنَ ۝۱۲

جس کو ہم نے رسولوں کے واسطے بھیجا وہ قریب وہ لوگ جان لیں گے جبکہ ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے اور زنجیریں ہوں وہ کھینچے جائیں گے

فِی الْحِیۡوِ ثُمَّ فِی النَّارِ یُسْجَرُوْنَ ۝۱۳ ثُمَّ قِیْلَ لَہُمْ اٰیٰنَ مَا کُنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ ۝۱۴ مَنْ

گرم پانی میں پھر ان کو دوزخ میں جھونک دیا جائے گا پھر اُن سے کہا جائے گا کہ وہ معبود غیر اللہ کہاں گئے جنہیں تم شریک بناتے تھے

دُوۡنَ اللّٰہِ قَالُوْۤا ضَلُّوْۤا عَنَّا بَلْ لَمْ تَکُنْ تَدْعُوْۤا مِنْۢ قَبْلُ شَیْئًا کَذٰلِکَ یُضِلُّ اللّٰہُ الْکٰفِرِیْنَ ۝۱۵

وہ جواب دیں گے کہ وہ تو ہم سے غائب ہو گئے بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی چیز کی عبادت کرتے ہی نہ تھے اللہ تعالیٰ اسی طرح کافروں کو

ذَلِکُمْ بِمَا کُنْتُمْ تَفْرَحُوْنَ فِی الْاَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ وَیَسَآ کُنْتُمْ تَفْرَحُوْنَ ۝۱۶ اُدْخِلُوْۤا الْاَبْوَابَ جَہَنَّمَ

گمراہ فرماتا ہے یہ اس وجہ سے کہ تم زمین میں ناحق اتراتے تھے اور اس وجہ سے تم اکثر مکر کرتے تھے داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا فَيَسْ مَثْوٰى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ۝۱۰ فَاُصْـِٔرُ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ ۚ وَاَمَّا نُرِيْبِكَ

اس میں ہمیشہ رہو گے سو برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا سو آپ مبرا کیجئے بیشک اللہ کا وعدہ حق ہے سو اگر ہم آپ کو اس میں سے

بَعْضُ الَّذِي نَعِدُهُمْ اَوْ تُوقِنُكَ ۚ فَلَا يَنْبَغُ لَكُمْ ۝۱۱

بعض چیزیں دکھادیں جس کے بارے میں ہم نے انہیں پہلے سے بتایا ہے یا ہم آپ کو بات دے دیں تو نہایت غلط سمجھائے جائیں گے

دوزخیوں کا طوقوں اور زنجیروں میں گھسیٹا جانا دوزخ میں داخل

ہونا اور ان سے یہ سوال ہونا کہ تمہارے باطل معبود کہاں ہیں

تفسیر: اوپر چند آیات کا ترجمہ ذکر کیا گیا ہے اؤلا ان لوگوں کی وعید ذکر فرمائی جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں جھگڑے

بازی کرتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اور اللہ کے پیغام کو جھٹلاتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ عنقریب اپنی

سزا کو جان لیں گے جبکہ انکی گردنوں میں طوق ہوں گے اور زنجیریں ہوں گی اسی حالت میں فرشتے انہیں گھسیٹتے ہوئے

کھولتے ہوئے پانی میں لے جائیں گے پھر یہ لوگ آگ میں جھونک دیئے جائیں گے وہاں ان سے دریافت کیا جائے گا

کہ اللہ کے سوا تم نے جو معبود بنا رکھے تھے وہ سب کہاں گئے یہ لوگ اول تو یوں کہیں گے کہ وہ سب غائب ہو گئے ہمیں ان

سے کچھ نفع نہیں پہنچا پھر کہیں گے کہ ہم تو کسی کو پوجتے ہی نہ تھے صاحب روح المعانی نے اس کے دو مطلب لکھے ہیں اول

یہ کہ آج ہمیں پتہ چلا کہ ہم اللہ کے سوا جن لوگوں کی پوجا کرتے تھے وہ لوگ کچھ بھی نہ تھے معلوم ہوا کہ ہم سب غلطی پر تھے

ایسی چیز کی پرستش کی جو لاشی محض تھی دوسرا مطلب یہ لکھا ہے کہ وہ لوگ وہاں غیر اللہ کی پرستش سے انکاری ہو جائیں گے اور

قصہ اوارادہ جھوٹ بولیں گے جیسا کہ سورۃ الانعام میں ہے کہ وہ یوں کہیں گے وَاللّٰهُ رَبُّنَا مَا لَنَا اُمُشْرِكِيْنَ ۔

ان لوگوں کا جواب ذکر کرنے کے بعد فرمایا كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ الْكَافِرِيْنَ اللہ تعالیٰ اسی طرح کافروں کو گمراہ کرتا ہے

یہاں اس دنیا میں جس چیز کے نافع ہونے کا خیال باندھے ہوئے ہیں اور اسی خیال سے غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں قیامت

کے دن ان معبودان باطلہ کو لاشی محض قرار دے دیں گے بلکہ ان کی پوجا ہی سے منکر ہو جائیں گے حیرت اور پریشانی کی وجہ

سے جھوٹ پر اتر آئیں گے ذٰلِكَ مَا كُنْتُمْ تَقْرَحُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ (یہ عذاب اس لئے ہے کہ تم ناحق زمین پر اترتے

پھرتے تھے) وَبِمَا كُنْتُمْ تَمُرُّوْنَ اور اس وجہ سے یہ عذاب ہے کہ تم اکثر مکر کرتے تھے (دنیا میں جو نعمتیں تمہیں دی گئیں

ان میں لگ کر تم منعم حقیقی سے غافل ہو گئے اور آخرت کو بھول گئے) فرح اور مرح دونوں نے تمہارا ناس کھو دیا

اَدْخُلُوا الْاَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا (تم دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اس میں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے)

فَيَسْ مَثْوٰى الْمُتَكَبِّرِيْنَ (سو برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا جب تمہارے سامنے حق آتا تھا تو حید پیش کی جاتی تھی اللہ

تعالیٰ کے پیغمبر تمہارے پاس دعوت حق لے کر آتے تھے تو تم ان کی بات قبول کرنے میں اپنی بیٹی سمجھتے تھے اور انسلٹ

جانتے تھے آج اس تکبر کا بدلہ جہنم میں عذاب بھی ہے اور ذلت بھی۔

اوپر جو یسحبون فی الحمیم ثم فی النار یسجرون فرمایا ہے اس پر بعض اہل علم نے یہ اشکال کیا

ہے کہ سورۃ دخان کی آیت **لَمْ يَصْبُؤْ أَفْوَاقُ** اُسے **مِنْ عَذَابِ الْحَبِيدِ** سے معلوم ہوتا ہے کہ نجیم کا عذاب جمیم سے پہلے ہے حقیقت میں اس میں کوئی تعارض اور تافی نہیں ہے کیونکہ سورۃ زمر کی آیت میں یہ نہیں فرمایا کہ بالکل ابتداء میں داخلہ جمیم سے پہلے جمیم کا عذاب ہوگا دوزخ میں داخل ہونے کے بعد کبھی جمیم ہو سکتی ہے جمیم ہو اس طرح تقدیم اور تاخر ہوتا رہے اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں اس کے بعد رسول اللہ ﷺ کو صبر کی تلقین فرمائی **فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ** آپ صبر کیجئے بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے کفر پر جو کافروں کو عذاب ہوگا وہ یقینی ہے **فَأَمَّا نُرُوتُكَ بَعْضُ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ أَتَتْكَ كَلِمَاتُنَا يُدْعُونَ** ہم ان سے جس عذاب کا وعدہ کر رہے ہیں اگر ہم آپ کے سامنے اس میں سے کچھ حصہ آپ کو دکھلا دیں یعنی آپ کی حیات میں اس کا نزول اور ظہور ہو جائے یا اس کے نزول سے پہلے ہی ہم آپ کو وفات دیدیں تو یہ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں جو بھی صورت ہو بہر حال ان سب کو ہمارے ہی پاس آنا ہے لہذا ہم ان کو آخرت میں کفر کی سزا دے دیں گے۔

**وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّن لَّمْ نَقْصُصْ**

اور یہ واقعی بات ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے جن میں سے بعض کا تذکرہ ہم نے آپ سے بیان کر دیا اور ان میں بعض ایسے ہیں جن کا تذکرہ ہم نے

**عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ**

آپ سے بیان نہیں کیا اور کسی رسول کو یہ قدرت نہیں کہ کوئی نشانی لے آئے مگر اللہ کے اذن سے پھر جب اللہ کا حکم آجائے گا تو حق کے ساتھ

**يَأْتِي الْحَقُّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ**

فیصلہ کر دیا جائے گا اور اس وقت باطل والے خسارہ میں رہ جائیں گے۔

ہم نے آپ سے بعض رسولوں کا تذکرہ کر دیا ہے اور بعض کا نہیں کیا کسی نبی کو اختیار نہ تھا کہ اذن الہی کے بغیر کوئی نشانی لے آئے

**تفسیر:** آیت بالا میں دو باتیں ذکر فرمائیں اولاً رسول اللہ ﷺ کو خطاب کر کے فرمایا کہ ہم نے آپ سے

پہلے بڑی تعداد میں رسول بھیجے جن میں سے بعض کا تذکرہ ہم نے آپ سے کر دیا اور بعض کا تذکرہ نہیں کیا (جن حضرات کا تذکرہ فرمایا ہے سورۃ بقرہ سورۃ مائدہ سورۃ النعام اور سورۃ اعراف و سورہ ہود اور سورۃ الانبیاء میں اور بعض دیگر سورتوں میں مذکور ہیں یہ اس کے معارض نہیں ہے کہ اجمالی طور پر ان حضرات کی تعداد سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو باخبر فرما دیا ہو تفصیلی اخبار و آثار کا بیان نہ فرمانا اجمالی عدد جاننے کے منافی نہیں مسند احمد میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ انبیاء کرام کی کتنی تعداد ہے آپ نے فرمایا ایک لاکھ چوبیس ہزار (مزید فرمایا کہ) ان میں تین سو پندرہ رسول تھے۔

(مشکوۃ المصابیح ۱۵۱)

چونکہ یہ حدیث متواتر نہیں ہے اس لئے علماء نے فرمایا کہ ایمان لانے میں حضرات انبیاء کرام علیہم کا خاص عدد ذکر نہ کرے بلکہ یوں عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام رسولوں ﷺ اور نبیوں پر ایمان رکھتا ہوں۔

دوسری بات یہ بتائی کہ کسی نبی کو یہ قدرت نہ تھی اور نہ یہ اختیار تھا کہ خود سے کوئی معجزہ لے آئے جتنے بھی معجزات امتوں کے سامنے لائے گئے وہ سب اللہ کے اذن اور مشیت سے تھے سابقین انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سے بھی ان کی امتوں نے اپنی خواہشوں کے مطابق معجزات طلب کئے وہ حضرات خود مختار نہ تھے جو خود سے معجزات پیش کر دیتے اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ چاہا ظاہر فرما دیا (آپ سے بھی امت کے لوگ خود ترشیدہ معجزات طلب کرتے ہیں اور اس کے ظاہر نہ ہونے پر آپ کی تکذیب کرتے ہیں یہ کوئی بات نہیں ہے انبیائے سابقین علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا ہے آپ تسلی رکھیے اور ان کے حضرت کی طرح صبر کیجئے **فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ فَخُذْهُ بِالْحَقِّ** پھر جب اللہ کا حکم آئے گا یعنی دنیا میں یا آخرت میں عذاب کا نزول ہو جائے گا تو اس وقت فیصلہ کر دیا جائے گا جو حضرات حق پر ہوں گے انکی نجات ہوگی اور اجرو ثواب ملے گا اور اہل باطل عذاب میں مبتلا ہوں گے **وَحَسْبُ هَذَا لِلْمُتَّبِلُونَ** اور اس وقت باطل والے خسارہ یعنی ہلاکت اور بربادی میں پڑ جائیں گے لہذا آپ انتظار فرمائیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور فیصلہ ہوگا اور حق فیصلہ ہوگا۔

**اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۖ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ**

اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لئے مویشی بنائے تاکہ تم ان میں سے بعض پر سوار ہو اور ان میں بعض کو کھاتے ہو اور تمہارے لئے ان میں منافع ہیں

**وَلِتَبْتَغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ۖ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ ۚ**

اور تاکہ تم ان پر سوار ہو کر اپنی حاجت پر پہنچو جو تمہارے سینوں میں ہے اور ان پر اور کشتیوں پر لدے ہوئے پھرتے ہو اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے

**فَأَيُّ آيَةِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ ۚ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ**

سو اللہ کی کون کون سی نشانیاں کا انکار کرو گے کیا وہ لوگ زمین میں نہیں چلے پھرے سو وہ دیکھ لیتے کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے

**الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرُ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا**

وہ ان سے زیادہ تھے اور ان سے قوت میں بھی سخت تھے اور زمین میں بھی انکی نشانیاں بہت ہیں سو انکی کمائی ان کے

**كَانُوا يَكْسِبُونَ ۚ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ**

کچھ کام نہ آئی سو جب انکے پاس ہمارے رسول دلیلیں لے کر آئے تو جو علم انکے پاس تھا اسکی وجہ سے بڑے اترائے اور ان پر وہ

**بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۚ فَلَمَّا رَأَوْا بِأَسَاقِ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ ۚ وَكَفَرْنَا بِمَا**

عذاب نازل ہو گیا جس کا مذاق بتایا کرتے تھے سو جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا تو کہنے لگے ہم ایمان لائے اللہ پر جو تمہا ہے

**كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ۚ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُكُمْ إِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بِأَسَاقِ سُنَّتِ اللَّهِ الَّتِي قَدْ**

اور ہم جن چیزوں کا اللہ کا شریک بناتے تھے ان کے منکر ہیں سو ان کے ایمان نے انکو کچھ نفع نہ دیا جب انہوں نے ہمارے عذاب دیکھا اللہ کی سنت ہے جو اس کے

**خَلَتْ فِي عِبَادِهِ ۚ وَخَسِرَ هُنَاكَ الْكَافِرُونَ ۚ**

بندوں میں گزر چکی ہے اور اس موقع پر کفر کرنے والے خسارہ میں رہ گئے۔

## چوپائیوں اور کشتیوں کی نعمت کا تذکرہ

**تفسیر:** ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں یاد دلانیں اور مخاطبین کو توجہ دلائی کہ زمین میں چل پھر کر پانی امتوں کے نشانات دیکھیں اور ان کی ہلاکت سے عبرت حاصل کریں فرمایا اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لئے چوپائے پیدا فرمائے ان چوپاؤں پر سوار بھی ہوتے ہو اور انکا گوشت بھی کھاتے ہو اور انہیں دیگر منافع بھی ہیں مثلاً دودھ پیتے ہو ان کے بالوں سے اور اون سے اور چمڑوں سے نفع حاصل کرتے ہو ان پر جو سفر کرتے ہو یا اسفار ایسے نہیں کہ صرف تم ہی کو یہ جانور ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیں بلکہ تم انہیں بوجھ منتقل کرنے کے لئے بھی استعمال کرتے ہو ان پر مال لاد کر ایک شہر سے دوسرے شہر لے جاتے ہو پھر اُسے وہاں فروخت کرتے ہو پھر وہاں سے مال خرید کر انکی کمروں پر باندھ کر لے آتے ہو اس طرح سے تمہاری حاجتیں پوری ہوتی ہیں صاحب روح المعانی نے بعض مفسرین سے نقل کیا کہ چونکہ اس پہلی آیت میں جانوروں پر سوار ہونے کا ذکر آچکا ہے اس لئے یہاں بچوں اور عورتوں کے سوار کئے جانے کا ذکر ہے کیونکہ یہ دونوں ضعیف مخلوق ہیں بڑے تو ہمت کر کے ایک شہر سے دوسرے شہر بھی جاسکتے ہیں لیکن ان دونوں جنسوں کے افراد سفر نہیں کر سکتے اسلئے اس میں مجھول کا صیغہ فُحْمَلُونَ لایا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ جب تم چھوٹے چھوٹے تھے تو ان جانوروں پر سوار کیا جاتا تھا۔

وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ اور اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے فَآتَىٰ آيَاتِ اللَّهِ تُنَكِّرُوْنَ سَوْمِ اللہ کی کن کن نشانوں کا انکار کرو گے یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بہت ہیں اور وہ خوب ظاہر بھی ہیں سب کے سامنے ہیں انکار کرنے کا کوئی موقع نہیں صحیح عقل والا انسان ان کا انکار نہیں کر سکتا جب ان سے انکار نہیں تو توحید کے کیوں قائل نہیں ہوتے اور شرک پر کیوں جے ہوئے ہو۔

## گزشتہ قوموں کی بربادی کا تذکرہ

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ (الی آخر السورۃ) کیا ان لوگوں نے سفر نہیں کیا اور نہ فرمان پرانی امتوں کے مکان اور کھنڈر اور کنوئیں اور اینٹ پھر نہیں دیکھے؟ دیکھے ہیں اور بار بار دیکھتے ہیں اُن امتوں کا انجام بھی دیکھ چکے ہیں اور یہ بھی معلوم ہے کہ وہ لوگ ان سے عدد میں بڑھ کر تھے اور طاقت میں بھی زیادہ تھے اور زمین میں انکے نشانات بھی بہت ہیں انہوں نے مضبوط قلعے بنائے پتھروں کو تراش کر گھر بنائے لیکن رسولوں کی تکذیب کی وجہ سے عذاب آیا تو سب چیزیں دھری رہ گئیں جو کچھ کھاتے تھے وہ کچھ بھی کام نہ آیا۔

جب اللہ کے رسول کھلے ہوئے معجزات اور آیات واضحات لے کر آئے تو ان لوگوں نے رسولوں کی باتوں کی طرف دھیان نہیں دیا اور اپنے پاس جو دنیاوی چیزوں کا علم تھا یا جہل کو علم سمجھ رکھا تھا اسی پر اتراتے رہے اور حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی طرف سے جو تکذیب پر عذاب آنے کی خبر دی گئی تھی اس کا مذاق اڑاتے تھے اُس نے ان کو تباہ کر دیا قرآن کے مخاطبین پر لازم ہے کہ اُن لوگوں کے حالات اور ان لوگوں کے انجام سے عبرت حاصل کریں۔

جب اُن لوگوں پر عذاب آیا تو کہنے لگے کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے سوا ہم نے جنگی عبادت کی اور انہیں عبادت الہیہ میں شریک کیا آج ہم اُسکے منکر ہوتے ہیں لیکن جب انہوں نے عذاب دیکھ لیا تو ایمان کی باتیں کرنے سے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا ایمان اس وقت نافع ہوتا ہے جب عذاب آنے سے پہلے ایمان قبول کر لیا جائے اللہ تعالیٰ کی یہی عادت رہی کہ تکذیب کی وجہ سے جب بندوں پر عذاب آیا تو اس وقت ان کا ایمان لانا مقبول نہ ہوا بہر حال ہلاک کر دیئے گئے وَخَسِرْتُمْ هَٰذَا الْكَافِرُونَ اور اس موقع پر کافر لوگ خسارہ ہی میں پڑ گئے (و لا یستثنیٰ من ذلک الا قوم یونس علیہ السلام کما جاء مصر حافی سورۃ یونس علیہ السلام پس مخاطبین قرآن پر لازم ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک پر اور اس کے آخری نبی پر اور اس کے دین پر ایمان لائیں تاکہ سابقہ امتوں کی طرح ہلاک نہ ہو جائیں۔

وهذا آخر تفسیر سورۃ الفاطر، والحمد لله العزیز الغافر والصلوٰۃ علی النبی الطیب الطاهر، وعلی من تبع سنۃ من کل ذاکر و شاکر



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورۃ حم السجدۃ مکہ معظمہ میں نازل ہوئی اس میں چون آیات اور چھ رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے﴾

حَمْ تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ كَتَبَ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝

حَمْ ۝ یہ کلام ہے نازل کیا گیا ہے جن رحیم کی طرف سے یہ کتاب ہے جس کی آیتیں مفصل طریقہ پر بیان کی گئی ہیں یعنی یہ قرآن ہے جو عربی زبان لوگوں کے لئے جو جانتے ہیں

بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۝ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۝ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكْثَرِ مَقَاتِلٍ ۝

بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہے مہربان میں سے اکثر لوگوں نے اعراض کیا سو لوگ نہیں سنتے اور انہوں نے کہا جس چیز کی طرف ہمیں بلاتے ہیں اس کے بارے میں ہمارے دل پھول میں ہیں

وَفِي آذَانِنَا وَقُرْآنُ مِن بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ ۝ فَاَعْمَلْنَا مَا عَمِلُونَ ۝

اور ہمارے کانوں میں ڈالتا ہے اور ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ ہے سو تم کام کئے جاؤ بیشک ہم کام کرنے والے ہیں۔

## قرآن کی آیات مفصل ہیں وہ بشیر ہے اور نذیر ہے منکرین اس سے اعراض کرتے ہیں

**تفسیر:** حم ۝ یہ حروف مقطعات میں سے ہے اس کا معنی اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے اسکے بعد دو آیتوں میں قرآن مجید کی صفات بیان فرمائی، اول یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے جو رحیم ہے اور رحیم ہے یعنی بہت بڑا مہربان ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے اسکی رحمت کا تقاضا ہوا کہ اپنے بندوں کی ہدایت کے لئے کتاب نازل فرمائے دوم یہ کہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کی آیات مفصل ہیں یعنی خوب صاف صاف بیان کی گئی ہیں سو یہ فرمایا کہ یہ قرآن کی آیات ہیں جو عربی ہے اس کے اولین مخاطب اہل عرب ہیں اسکا سمجھنا ان کے لئے آسان ہے اور فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے چونکہ بہت اعلیٰ ہے اس لئے بطور معجزہ اہل عرب پر اس کے ذریعہ حجت قائم ہو چکی ہے اب جو شخص ایمان نہ لائے گا اٹھا برا کرے گا یوں تو قرآن سب ہی کو حق کی دعوت دیتا ہے اور سب ہی پر اس کا ماننا اور اس پر ایمان لانا فرض ہے لیکن اہل علم ہی اس سے مستفید اور منتفع ہوتے ہیں اس لئے لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ فرمایا چہارم بَشِيرًا وَنَذِيرًا فرمایا کہ قرآن اپنے ماننے والوں کو بشارت دینے والا ہے اور منکرین کو ڈرانے والا ہے اس کے بعد لوگوں کی روگردانی کا تذکرہ فرمایا اور جو یہ کہ قرآن خوب اچھی طرح واضح طور پر بیان فرماتا ہے بشیر بھی ہے اور نذیر بھی اکثر لوگ اس کی طرف سے اعراض یعنی روگردانی کرتے ہیں اور ساری سنی ان سنی کر دیتے ہیں گویا کہ انہوں نے سنا ہی نہیں اسی کو فرمایا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ اور نہ صرف یہ کہ ایمان نہ لائے اور جو کچھ سنا تھا اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے بلکہ رسول اللہ ﷺ سے خطاب کر کے یوں کہنے لگے کہ



ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور ہمارے کانوں میں ڈاٹ لگی ہوئی ہے تمہاری دعوت نہ ہمارے کان سننے کو تیار ہیں اور نہ ہمارے دلوں کو اس کا قبول کرنا گوارہ ہے اور مزید یوں کہا کہ تم اگرچہ حسی اور جسمانی طور پر قریب ہو لیکن حقیقت میں ہمارے اور تمہارے درمیان بُعد ہے اور پردہ ہے جو کچھ کہو ہم سننے اور ماننے والے نہیں ان لوگوں نے یہ بھی کہا **فَاَعْمَلُوا لِنَا عَمَلُونَ** کہ آپ اپنا عمل کرتے رہیں ہم اپنے دین کے مطابق عمل کرتے رہیں گے اس میں یہ بھی داخل ہے کہ تمہارا کاٹ کریں گے یہ کہہ کر دعوت حق سننے اور قبول کرنے سے بالکل ہی انکاری ہو گئے۔ ان لوگوں نے جو یہ کہا کہ ہمارے دلوں پر پردے ہیں اور کانوں میں ڈاٹ ہے چونکہ اس سے اصرار علی الکفر مقصود تھا اس لئے **وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ اَكِنَّةً وَفِيْ اَذَانِهِمْ وَقْرًا** اس کے منافی نہیں ہے جس میں **جَعَلُ الْاَكِنَّةِ عَلَى الْقُلُوبِ** کی نسبت اللہ جل شانہ کی طرف کی گئی ہے۔

**قُلْ اِنَّمَا اَنْبَاؤُكُمْ يُنْزِلُ اِلَيَّ اَنْتُمْ اَلْهٰكُمُ اللّٰهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيْمُوا لِيْنِیْ وَاسْتَغْفِرُوْهُ**

آپ فرمادیجئے میں تو تمہارا ہی جیسا بشر ہوں میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی ہے لہذا تم تمک طریقہ پر اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس سے استغفار کرو

**وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ ۚ الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ۚ اِنَّ الَّذِيْنَ**

اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لئے جو شرک کرنے والے ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہ آخرت کے منکر ہیں بلاشبہ جو لوگ

**اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرٌ مَّمْنُوْنَ ۝**

ایمان لائے اور نیک عمل کئے ان کے لئے اجر ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے۔

آپ فرمادیجئے میں تمہارا ہی جیسا بشر ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے،

مشرکین کیلئے ہلاکت ہے اور اہل ایمان کیلئے ثواب ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا

**تفسیر:** قرآن کے مخاطبین جو یہ کہتے تھے کہ ہم تمہیں کیسے اللہ کا نبی مانیں تم تو ہماری ہی طرح کے آدمی ہو اس کا جواب دے دیا کہ میں ہوں تو تمہارا ہی جیسا آدمی لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی فضیلت اور خصوصیت عطا فرمائی ہے جو تم میں نہیں ہے اور وہ یہ کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت سے نوازا ہے چونکہ میں اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوں اس لئے میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی بات پہنچاتا ہوں تمہارا معبود ایک ہی ہے یعنی اللہ تعالیٰ شانہ جس نے سب کو پیدا فرمایا عقل صحیح کا بھی تقاضا ہے کہ خالق تعالیٰ شانہ کی طرف متوجہ ہوں اور اس کے حکموں کو مانیں اور ہر طرح کی کجی اور بے راہی اور ٹیڑھے پن سے دور رہا جائے تم سیدھی راہ چلو اللہ تعالیٰ کو واحد مانو اور صحیح طریقہ پر اس کا دین اختیار کرو اور یہ نہ سمجھو کہ ہماری بخشش کیسے ہوگی، شرک اور کفر ہے تو بہت بڑی بغاوت لیکن جب کوئی کافر اور شرک تو بہ کر لے یعنی کفر اور شرک کو چھوڑ کر ایمان قبول کر لے تو پچھلا سب کچھ معاف ہو جاتا ہے لہذا تم ایمان قبول کرو اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔

اس کے بعد مشرکین کی ہلاکت اور بربادی بیان فرمائی **فَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ** اور بربادی ہے مشرکوں کے لئے

الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ادا نہیں کرتے (نماز کی تو کیا پابندی کریں گے جو بڑا کام ہے وہ تو مال خرچ نہیں کر سکتے جو معمولی چیز ہے ہاتھ کا میل ہے کل ان پر مسلط ہے وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ اور وہ آخرت کے منکر ہیں۔

بعض حضرات نے لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ کا معروف معنی نہیں لیا لغوی معنی لے کر اس کا یہ مطلب بتایا ہے کہ وہ اپنے نفوس کو شرک سے پاک نہیں کرتے اور ایمان سے متصف نہیں ہوتے اس کے بعد اہل ایمان کا ثواب بتایا اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَدٍ مُّمْتُوْنٌ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے ان کیلئے اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔

قُلْ اِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِيْ خَلَقَ الْاَرْضَ فِيْ يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُوْنَ لَهٗ اَنْدَادًا ذٰلِكَ رَبُّ

آپ فرما دیجئے کیا تم ایسی ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو دو دن میں پیدا فرمایا اور تم اس کے لئے شریک تجویز کرتے ہو وہ سارے

الْعٰلَمِيْنَ ۝ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَرَكَ فِيْهَا وَقَدَّرَ فِيْهَا اَقْوَامًا فِيْ اَرْبَعَةِ

جہانوں کا رب ہے اور اس نے زمین میں پہاڑ بنادیئے جو اس کے اوپر موجود ہیں اور اس نے زمین میں برکت دی اور اس نے زمین میں اس کی غذا میں مقرر کر دیں چار

اَيَّامٍ سَوَآءٍ لِّلسَّٰبِغِيْنَ ۝ ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا

دن میں یہ پورے ہیں پونچھ دلوں کے لئے پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی اس حال میں کہ وہ دھواں تھا سواں نے آسمان اور زمین سے فرمایا تم دونوں خوشی سے آؤ

اَوْ كَرْهًا قَالَتَا اَتَيْنَا طَآئِعِيْنَ ۝ فَفَضَّلَهُنَّ سَبْعَ سَمَٰوٰتٍ فِيْ يَوْمَيْنِ وَاَوْحٰى فِيْ كُلِّ سَمَآءٍ

یا زبردستی سے دونوں نے عرض کیا کہ ہم خوشی کے ساتھ حاضر ہیں سواں نے دونوں میں سات آسمان بنادیئے اور ہر آسمان میں اس کے مناسب

اَمْرًا وَزَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْهِ ۝ وَحِفْظًا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۝

حکم بھیج دیا اور ہم نے قریب والے آسمان کو ستاروں سے زینت دے دی اور حفاظت کی چیز بنادی یہ تقدیر ہے عزیز کی علیم کی۔

## زمین و آسمان کی تخلیق کا تذکرہ ان دونوں سے

### اللہ تعالیٰ کا خطاب اور ان کا فرمانبرداری والا جواب

**تفسیر:** ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے توحید کی دعوت دی ہے اور شرک کی شاعت اور قباحت بیان فرمائی نیز آسمان اور زمین کے پیدا فرمانے اور آسمان و زمین سے متعلقہ امور بیان فرمائے۔

ارشاد فرمایا کیا تم اس ذات پاک کی توحید کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو دو دن میں پیدا فرمایا اتنی بڑی زمین کا وجود سمجھنا عقلمند انسان کے لئے یہ یقین دلانے کے لئے کافی ہے کہ اس کا پیدا فرمانے والا وحدہ لا شریک ہے اس کی توحید کے قائل ہونے کے بجائے تم نے یہ کر رکھا ہے کہ اس کے لئے شریک ٹھہرا دیئے جنہیں تم اس کے برابر سمجھتے ہو انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا اور وہ خود پیدا فرمانے والے کے پیدا کرنے سے وجود میں آئے ہیں وہ اپنے خالق کا برابر اور ہمسرا اور شریک اور مقابل کیسے ہو سکتا ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے جس ذات پاک نے زمین کو پیدا فرمایا ہے وہ سارے جہانوں

کا مالک ہے اور پروردگار ہے تم اور تمہارے باطل معبود اسی خالق جل مجدہ کی مخلوق اور مملوک ہیں۔

خالق کائنات جل مجدہ نے صرف زمین ہی کو پیدا نہیں فرمایا زمین میں طرح طرح کی چیزیں پیدا فرمائیں دیکھو اس نے زمین کے اوپر بوجھل اور بھاری پہاڑ پیدا فرمادیئے اور زمین میں برکت رکھ دی صاحب روح المعانی ارشاد فرماتے ہیں: **قدر سبحانه ان یکثر خیرها بان یکثر فیها النباتات وانواع الحیوانات التي من جملتها الانسان** (یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین میں خیر و برکت رکھ دی اور وہ اس طرح سے کہ اس میں طرح طرح کے نباتات اور حیوانات پیدا فرمادیئے جاندار چیزوں میں انسان بھی ہے۔

زمین میں غذائیں بھی رکھ دیں جو انسانوں اور حیوانوں کے کام آتی ہیں یہ غذائیں زمین سے نکلتی ہیں نیز اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے پھل میوے سبزیاں اور دیگر کھانے کی چیزیں پیدا فرمائیں اور پہلے سے تجویز فرمادیا کہ کتنی کتنی چیزیں پیدا ہوں گی اور کہاں کہاں کس کس علاقہ میں پائی جائیں گی اور کس کے حصہ میں کتنی خوراک آئے گی فی روح المعانی **بین کمیتها و اقدارها وقال فی الارشاد ای حکم بالفعل بان یوجد فیما سیاتی لاهلها من الانواع المختلفة اقواتها المناسبة لها علی مقدار معین تقتضیه الحکمة** (روح المعانی میں ہے کہ روزی کی مقدار و انداز واضح فرمادیا اور الارشاد میں ہے یعنی بالفعل حکم دیدیا کہ اہل زمین کیلئے مختلف انواع کی روزی جو ان کے مناسب ہوگی حکم کے مطابق معین مقدار میں موجود رہے گی)

**فی اربعۃ ايام** یہ مذکورہ کام چار دن میں ہوئے یعنی دو دن میں زمین پیدا فرمائی اور دو دن میں پہاڑوں کی پیدائش فرمائی اور برکت کا رکھ دینا اور روزیوں کا مقرر فرمانا ہوا چونکہ دیگر آیات میں آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان چیزوں کی تخلیق چھ دن میں بتائی ہے اس لئے مفسرین کرام نے مذکورہ بالا تفسیر اختیار کی ہے دو دن زمین کے پیدا فرمانے کے اور دو دن دوسری چیزوں کے (جو مذکور ہوئیں) اور دو دن آسمانوں کی تخلیق کے جن کا ذکر ابھی آتا ہے۔ **انشاء اللہ۔**

**سواء للثانیین** یہ پورے چار دن ہیں پوچھنے والوں کے لئے تفسیر درمنثور میں بحوالہ حاکم اور بیہقی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ یہودی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے بارے میں سوال کیا آپ نے انہیں جواب دے دیا پھر اللہ تعالیٰ نے آیت بالا نازل فرمائی اور اس کے آخر میں فرمایا **سواء للثانیین** کہ یہ چار دن ہیں پورے ان لوگوں کے جواب میں جو سوال کرنے والے ہیں۔

اس کے بعد آسمانوں کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا **فمستوی الی السماء وھی دخان** (الایتین) پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی اور وہ اس وقت دھواں تھا یعنی اس کا مادہ دخان کی صورت میں تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا اور زمین اور آسمان دونوں سے فرمایا کہ تم دونوں کو ہمارے حکم کے مطابق آنا لازم ہوگا خوشی سے آؤ یا زبردستی سے، یعنی ہمارے احکام تکوینیہ جو تم دونوں میں جاری ہوں گے ان کے مطابق ہی تمہیں رہنا لازم ہوگا صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ **طوعاً وکرهاً** کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے جو تمہارے اندر تاثیر ہوگی اسی کے مطابق ہوگا تم اس کے خلاف نہیں کر سکتے اور یہ مقصد نہیں ہے کہ انہیں ماننے نہ ماننے کا اختیار دے دیا **کالتا آتینا طائعتین** آسمانوں اور زمین دونوں زمین نے عرض کیا کہ ہم خوشی کے ساتھ فرمانبرداری کے لئے حاضر ہیں۔

فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ مِائَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ (سواللہ تعالیٰ نے دودن میں سات آسمان بنادیئے وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرًا

(اور ہر آسمان میں اس کے مناسب اپنا حکم بھیج دیا) یعنی جن فرشتوں سے جو کام لینا تھا وہ ان کو بتادیا۔

وَرَزَقْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا مِصْرًا مِّمَّةً وَجَعَلْنَا قُرْشًا كَثِيرًا (اور ہم نے قریب والے آسمان کو ستاروں سے زینت دی اور ان ستاروں کو

حفاظت کا ذریعہ بنا دیا شیاطین اوپر کی باتیں سننے کے لئے اوپر جاتے ہیں تو یہ ستارے انہیں مارتے ہیں جیسا کہ سورۃ الملک

کی آیت وَلَقَدْ رَزَقْنَاهُ الذُّنُوبَ الْعَظِيمَةَ وَجَعَلْنَاهُ رُجُومًا لِلشَّيْطَانِ میں بیان فرمایا ہے۔

ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (یہ تقدیر ہے یعنی طے کردہ امر ہے اس ذات پاک کی طرف سے جو عزیز یعنی

زبردست ہے اور علیم ہے)

سورۃ بقرہ کی آیت هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ فَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا اور سورۃ محمدہ کی آیت ہالا اور سورۃ النازعات کی

آیت وَالْأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ان سب کو ملانے سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے زمین کا مادہ بنایا اور اس کے

اوپر بھاری پہاڑ پیدا فرمادیئے پھر سات آسمان بنادیئے جو بنانے سے پہلے دھوئیں کی صورت میں تھے اس کے بعد زمین

کے مادہ کو موجودہ صورت میں پھیلا دیا۔

## قریش کے انکار و عناد پر رسول اللہ ﷺ کا آیاتِ بالا پڑھ کر سنانا

تفسیر: قرطبیؒ ۳۲۸ ج ۱۵ میں لکھا ہے کہ ایک دن قریش نے آپس میں یوں کہا جن میں ابو جہل بھی تھا کہ محمد

ﷺ کا معاملہ ہمارے لئے اشکال کا باعث بن گیا ہے (واضح طور پر ہم اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے سے قاصر

ہیں) تم ایسا کرو کہ ایسے شخص کو تلاش کرو جو شاعر بھی ہو اور کاہن بھی اور ساحر بھی ایسا شخص ان کے پاس جائے اور گفتگو کر

کے واپس آئے اور ہمیں واضح طور پر بتادے کہ ان کے دعویٰ کی کیا حقیقت ہے یہ سن کر عتبہ بن ربیعہ نے کہا کہ اللہ کی قسم

میں کہانت اور شعر اور حرکتوں سے واقف ہوں اگر ان تینوں میں سے کوئی چیز ہوگی تو مجھے پتہ چل جائے گا ان لوگوں نے کہا

کہ اچھا تم محمد (علیہ السلام) کے پاس جاؤ اور بات چیت کرو۔

عتبہ بن ربیعہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے محمد آپ بہتر ہیں یا قصی بن کلاب؟ آپ

بہتر ہیں یا ہاشم؟ آپ بہتر ہیں یا عبدالمطلب؟ آپ بہتر ہیں یا عبد اللہ؟ (مطلب یہ تھا کہ یہ آپ کے آباؤ اجداد ہیں آپ

ان کے دین کو باطل بتاتے ہیں) آپ ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں اور ہمارے باپ دادوں کو گمراہ بتاتے ہیں اور نا سمجھ

بتاتے ہیں اور ہمارے دین کو برا کہتے ہیں (ان سب باتوں سے آپ کا مقصد کیا ہے اگر آپ سردار بننا چاہتے ہیں تو ہم

آپ کو سردار بنا لیتے ہیں جب تک آپ زندہ رہیں اور اس کے اظہار اور اعلان کے لئے جھنڈے کھڑے کر دیتے ہیں اور

اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی شادی ہو جائے تو ہم قریش کی دس لڑکیوں سے آپ کا نکاح کر دیتے ہیں جنہیں آپ

چاہیں اور اگر آپ مال چاہتے ہیں تو ہم آپ کے لئے اتنا مال جمع کر دیں گے کہ اس کی وجہ سے آپ اور آپ کے بعد آنے

والے آل واولاد سب کو بے نیاز کر دیں گے اور اگر یہ بات ہے کہ جو کچھ آپ کی زبان سے نکلتا ہے یہ جنات کا کوئی اثر ہے تو

بتا دیجئے ہم مال جمع کریں گے اور آپ کا علاج کر دیں گے رسول اللہ ﷺ یہ سب باتیں خاموشی کے ساتھ سنتے رہے

جب عتبہ اپنی باتیں کہہ چکا تو آپ نے فرمایا کہ اے ابولولید تو اپنی باتوں سے فارغ ہو گیا؟ ابولولید عتبہ کی کنیت تھی) عتبہ نے کہا کہ ہاں میں کہہ چکا! آپ نے فرمایا سن! کہنے لگا سنائیے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ حم السجدة پڑھنا شروع کیا اور قُرْآنِ اَعْرَضُوا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ تک پڑھتے چلے گئے آپ یہاں تک پہنچے تھے کہ عتبہ کو د پڑا اور آپ کے منہ مبارک پر ہاتھ رکھ دیا اور اللہ کی قسم دی کہ آپ خاموش ہو جائیں اس کے بعد وہ اپنے گھر چلا گیا اور قریش کی مجلس میں نہ آیا ابوجہل نے اس سے کہا کیا تو بے دین ہو کر محمد ﷺ کی طرف ڈھل گیا یا تجھے محمد ﷺ کا کھانا پسند آ گیا یہ سن کر عتبہ غصہ ہو گیا اور اس نے قسم کھائی کہ محمد ﷺ سے کبھی بھی بات نہ کروں گا۔

اس کے بعد عتبہ نے کہا اللہ کی قسم تم جانتے ہو کہ میں قریش میں سب سے زیادہ مال والے لوگوں میں سے ہوں (مال یا طعام کی وجہ سے میں خاموش نہیں ہوا) لیکن بات یہ ہے کہ جب میں نے محمد علیہ السلام سے گفتگو کی انہوں نے جو مجھے جواب دیا اس سے میں نے یہ سمجھ لیا کہ نہ وہ شعر ہے نہ کہانت ہے نہ جادو ہے۔ اس کے بعد عتبہ نے (مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ) تک آیات سنا دیں جو رسول اللہ ﷺ سے سنی تھیں اور اس نے بتایا کہ میں نے ان کا منہ پکڑ لیا اور قسم دی کہ آگے نہ پڑھیں سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے عتبہ نے مزید کہا کہ تم جانتے ہو کہ محمد ﷺ نے جب کبھی بھی کوئی بات کہی ہے جھوٹ نہیں بولا میں ڈر گیا کہ تم لوگوں پر عذاب نازل نہ ہو جائے۔

اور ایک روایت میں یوں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے عتبہ بن ربیعہ کے سامنے سورہ حم السجدة کے شروع سے آیت سجدہ تک تلاوت کی عتبہ کان لگا کر سنتا رہا آنحضرت ﷺ نے جب قرأت ختم کر دی تو فرمایا اے ابولولید تو نے سن لیا جو میں نے کہا آگے تو جانے (یا تو ایمان لائے یا نہ لائے) عذاب میں گرفتار ہو تو جانے۔

عتبہ آنحضرت ﷺ کے پاس سے اٹھا اور قریش کی مجلس میں پہنچا وہ اس کی صورت دیکھتے ہی کہنے لگے کہ اللہ کی قسم ابولولید کا رخ بدلا ہوا ہے یہ دوسرا چہرہ لے کر آیا ہے اس کے بعد عتبہ سے قریش نے کہا اے ابولولید تو کیا خبر لایا؟ کہنے لگا اللہ کی قسم محمد ﷺ سے میں نے ایسا کلام سنا ہے کہ اس جیسا کبھی نہیں سنا میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ نہ شعر ہے نہ کہانت ہے لہذا اس مسئلہ میں تم میری بات مان لو محمد ﷺ کو ان کے حال پر چھوڑ دو (ﷺ) اور انہیں کچھ نہ کہو اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ ان کی باتوں کا ضرور چرچا ہوگا کہ اگر اہل عرب نے ان کو ختم کر دیا تو دوسروں کے ذریعہ تمہارا کام چل جائے گا اور اگر محمد ﷺ بادشاہ بن گئے یا ان کی نبوت کا مظاہرہ ہو گیا تو تمہیں اس کی سعادت پوری طرح نصیب ہو جائیگی کیونکہ ان کا ملک تمہارا ہی ملک ہوگا اور ان کا شرف تمہارا ہی شرف ہے یہ سن کر قریش کہنے لگے۔ اے ابولولید محمد ﷺ نے تم پر جادو کر دیا ہے عتبہ نے کہا کہ یہ میری رائے ہے آگے تم جو چاہو کرو۔

فَاِنْ اَعْرَضُوا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ۚ اِذْ جَاءَتْهُمْ الرُّسُلُ

پھر اگر وہ اعراض کریں تو آپ فرمائیے کہ میں تمہیں ایسی آفت سے ڈراتا ہوں جیسی آفت عاد و ثمود پر آئی جبکہ ان کے پاس ان کے آگے سے اور پیچھے سے رسول

مِّنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ قَالُوْا اَلَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَاۤ اَنْتَلٰۤىكَ فَاِنَّا

آئے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا رب چاہتا تو فرشتے نازل فرما دیتا سو بلاشبہ

بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كُفْرُونَ ﴿۱﴾ فَلَمَّا عَادُوا فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ۖ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِهِ مُبْجَدُونَ ﴿۲﴾

ہم اس چیز کے منکر ہیں جو تم دے کر بھیجے گئے ہو پھر وہ لوگ جو عادو الے تھے انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور کہنے لگے کہ

قُوَّةً ۖ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِهِ مُبْجَدُونَ ﴿۲﴾

قوت میں ہم سے زیادہ کون ہے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جس ذات نے انہیں پیدا فرمایا وہ قوت میں ان سے زیادہ ہے اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ مَّجْاسٍ لِّنُنْذِرَهُمْ عَذَابَ الْآخِرَةِ فِي الْحَيَاةِ

سو ہم نے ان کے اوپر منحوس دنوں میں تیز ہوا بھیج دی تا کہ ہم انہیں دنیا والی زندگی

الدُّنْيَا وَالْعَذَابَ الْآخِرَةَ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ﴿۳﴾ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا

میں ذلت کا عذاب پھر ایں اور یہ بات واقعی ہے کہ آخرت کا عذاب اس سے بڑھ کر رسوائی والا ہے اور ان کی مدد نہ کی جائے گی اور وہ لوگ جو تم ٹھوڑے تھے وہم نے

الْعَصَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صِعْقَةٌ مِنَ الْعَذَابِ لَنُكَسِبُونَ ﴿۴﴾ وَنَجَّيْنَا

انہیں ہدایت دی تو انہوں نے ہدایت کے مقابلہ میں اصرار میں کو پکڑ لیا سو انہیں عذاب کی آفت نے پکڑ لیا جو ناپاؤات تھا ان کی بدکرداریوں کی وجہ سے اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دے دی

الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿۵﴾

جو ایمان لائے اور ڈرا کرتے تھے۔

حق سے اعراض کر نیوالوں کو تنبیہ اور تہدید عاد و ثمود کی بربادی کا تذکرہ

تفسیر: ان آیات میں قرآن کریم کے مخاطبین کو تنبیہ فرمائی ہے کہ تمہارے سامنے واضح طور پر دلائل آچکے ہیں

نشانیوں دیکھ چکے ہو ان سب کے باوجود پھر بھی اعراض کرتے ہو ایمان نہیں لاتے لہذا سمجھ لو کہ عذاب آجائے گا تم سے پہلے ایسی امتیں گزری ہیں جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا پھر ان کو عذاب نے آدبا یا عاد و ثمود (دو قومیں گزر چکی ہیں انہوں نے اپنے اپنے رسول کی تکذیب کی پھر جتلایے عذاب ہوئے اور ہلاک ہوئے ان پر جو عذاب کی مصیبت آئی میں تمہیں اس جیسی آفت سے ڈراتا ہوں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر علیہم الصلوٰۃ والسلام ان کے پاس آئے انہوں نے ان کو توحید کی دعوت دی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو یہ لوگ دلیل سے دین توحید کی تردید نہ کر سکے اور حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی شخصیات پر اعتراض کرنے لگے کہ تم تو آدمی ہو جیسے ہم ویسے تم اگر اللہ تعالیٰ کو رسول بھیجے ہی تھے تو کیا اس کے لئے تم ہی رہ گئے ہو اگر وہ چاہتا تو فرشتوں کو رسول بنا کر بھیج دیتا تم جو یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ کے پیغمبر ہیں اور ایسے ایسے احکام لے کر آئے ہیں اور توحید کی دعوت ہمارا کام ہے ہم ان سب باتوں کے منکر ہیں۔

یہ تو دونوں قوموں کی مشترکہ باتیں تھیں اب الگ الگ بھی ان کا حال سنیں قوم عاد بڑے ذیل ڈول والے تھے انہیں اپنی قوت اور طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا اس کی وجہ سے انہوں نے تکبر کی راہ اختیار کی اور بڑے غرور کے ساتھ کہنے لگے کہ

مَنْ أَشَدُّ مِرْيَاقًا (کہ وہ کون ہے جو طاقت میں ہم سے بڑھ کر ہے) انسان کی بے وقوفی دیکھو کہ وہ دنیا میں اموال و اولاد اور قوت اور طاقت پر گھمنڈ کر لیتا ہے اور تکبر میں آکر بڑی بڑی باتیں کہہ جاتا ہے فرض کرو موجودہ مخلوق میں کوئی بھی مقابل نہ ہو تو جس نے پیدا فرمایا اس کی قوت تو بہر حال سب سے زیادہ ہے اور بہت زیادہ ہے ان لوگوں نے اپنے خالق تعالیٰ شانہ پر نظر نہ کی اور تکبر کی بات کہہ دی ان کی اس بیوقوفی کو ظاہر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا اُولَکُمْ یَرْوُا اَنْ اللّٰہَ الَّذِیْ خَلَقَکُمْ هُوَ اَشَدُّ مِنْہُمْ قُوَّةً (کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ طاقت کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے جس نے انہیں پیدا فرمایا۔

وَکَاثِرًا لِّیَکْفُرْکُمْ (اور یہ لوگ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے واضح دلائل دیکھتے ہوئے اور جانتے بوجھتے انہوں نے حق سے منہ موڑا اور اس کے قبول کرنے سے انکار کیا۔

فَاَنْزَلْنَا عَلَیْہُمْ رِیْحًا صَرَّاءَ (سو ہم نے ان پر تیز ہوا بھیج دی فی اَیَّامٍ مُّحْسَلَاتٍ) (منحوس دنوں میں) لِنَذِیْقَہُمْ عَذَابَ الْخِزْیِ فِی الْحَیٰوَةِ الدُّنْیَا تاہم انہیں دنیا والی زندگی میں ذلت کا عذاب چکھائیں اور اسی عذاب پر بس نہیں ان کے لئے آخرت میں بھی عذاب ہے اور وہ اس دنیا والے عذاب سے بڑھ کر زیادہ ذلت اور رسوائی والا ہوگا وَہُمْ لَا یُنصَرِفُونَ اور وہاں ان کی مدد نہ کی جائے گی یہ جو مال و دولت اور افراد اولاد پر گھمنڈ ہے سب دھرا رہ جائے گا سورۃ الحاقہ میں فرمایا ہے سَخَّرَہَا عَلَیْہُمْ سَبْعَ لَیَالٍ وَتَمْنِیۃً اَیَّامٍ حُسُومًا فَتَرٰی الْقَوْمَ فِیْہَا صَرَغٰۃً کَاکُھُمْ اَعْمَازٌ مُّخْلِیٰ خَالُوۡہِمْ قَوْمٌ عَادٍ پر جو تیز ہوا بھیجتی تھی وہ سات رات اور آٹھ دن ان پر مسلط فرمادی تھی سوائے مخاطب تو اس قوم کو اس طرح گرا ہوا دیکھتا کہ گویا وہ گری ہوئی کھجوروں کے تھے ہیں) یہ لوگ بڑے ذلیل ڈول والے تھے اپنی قوت پر گھمنڈ کئے ہوئے تھے تند و تیز ہوانے بالکل ہی ان کا تاس کھو دیا کھجوروں کے تنوں کی طرح زمین پر گر گئے سورۃ القمر میں اسی کو کَاکُھُمْ اَعْمَازٌ مُّخْلِیٰ مُنْقَعِدٍ فرمایا ہے۔

احادیث شریفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نحوست کوئی چیز نہیں ہے حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اگر نحوست کسی چیز میں ہوتی تو گھر میں اور گھوڑے میں اور عورت میں ہوتی (رواہ ابو داؤد و دکنانی مشکوٰۃ ۳۹۲) قوم عاد کے بارے میں جو یہ فرمایا کہ منحوس دنوں میں ان پر تیز ہوا بھیج دی یہ ان کیساتھ خاص ہے یہ بات نہیں ہے کہ وہ دن سب کیلئے منحوس ہیں اگر ایسا ہوتا تو سارے ہی دن منحوس ہوتے کیونکہ یہ ان پر ایک ہفتہ سے زیادہ تیز ہوا چلی۔

اس کے بعد قوم ثمود کا حال بیان فرمایا وَ اَنَّا ثَمُوْدُ فَہٰکِیْنٰہُمْ اور رہے ثمود سو ہم نے انہیں ہدایت دی یعنی ان کی طرف نبی بھیجا جس نے انہیں حق کا راستہ بتایا اور توحید کی دعوت دی انہوں نے سمجھ سے کام نہ لیا ہدایت کو اختیار نہ کیا اور اندھا رہنے یعنی گمراہی کو ترجیح دی جب ہدایت کو نہ مانا تو انہیں عذاب کی مصیبت نے پکڑ لیا اور وہ اپنے برے کرتوتوں کی وجہ سے ہلاک کر دیئے گئے صاعقہ کا اصل معنی بجلی کا ہے جو بارش کے دنوں میں چمکتی ہے اور کبھی کبھی اس سے مطلق آفت بھی مراد لے لیتے ہیں۔

وَجَعَلْنَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَکَاثِرًا لِّیَکْفُرْکُمْ (اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو ایمان لائے اور ڈرتے تھے) یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف کھاتے تھے۔



وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ۝ حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ

اور جس دن اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف جمع کئے جائیں گے پھر وہ روکے جائیں گے یہاں تک کہ جب دوزخ کے پاس آجائیں گے تو ان کے کان

وَأَبْصَارُهُمْ وُجُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ وَقَالُوا الْبُلْجُودِ هُمْ لَمْ شَهِدْهُمْ عَلَيْنَا قَالُوا لَا

اور آنکھیں اور کھالیں ان کے خلاف ان کاموں کی گواہی دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے اور وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی کہ وہ جواب میں کہیں گے

أَنظَقْنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۖ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَالْيَوْمَ تَرْجَعُونَ ۖ وَمَا كُنْتُمْ

کہ ہمیں اللہ نے بولنے والا بنادیا جس نے ہر چیز کو بولنے والا بنایا ہے اور اس نے تمہیں پہلی بار پیدا فرمایا اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور تم اس وجہ سے

تَسْتَرْوْنَ ۖ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ

پوشیدہ نہیں ہوتے تھے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں تمہارے خلاف گواہی دیں گے اور لیکن تم نے یہ خیال کیا تھا

أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ۖ وَذِكْرُكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَكُمْ

کہ اللہ بہت سے اُن اعمال کو نہیں جانتا جنہیں تم کرتے ہو اور تمہارا یہ گمان جو تم نے اپنے رب کے بارے میں کیا اس نے تمہیں ہلاک کر دیا

فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۖ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ۖ وَإِنْ يَسْتَعِزُّوا فَلْيَاخُذْهُمُ مِنَ

سو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے سوا اگر مبر کریں تو آگ ٹھکانہ ہے ان کے لئے اور اگر راضی کرنا چاہیں تو ان کی درخواست قبول نہیں کی جائے گی

الْمُعْتَذِرِينَ ۖ وَقَيِّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ ۖ فَزَيَّنُوا لَهُمْ خَائِبِينَ ۖ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ آلِ إِبْرَاهِيمَ

اور ہم نے ان کے لئے ساتھیوں کو مقرر کر دیا سو انہوں نے ان کے لئے ان چیزوں کو مقرر کر دیا جو ان کے آگے اور پیچھے ہیں اور ان پر بات ثابت ہوگی

الْقَوْلُ فِي أُمِّهِمْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ۝

ان جماعتوں میں شامل ہو کر جو ان سے پہلے جنات میں سے اور انسانوں میں سے گزر چکی ہے بے شک وہ خسارہ والے ہیں

اللہ کے دشمنوں کا دوزخ کی طرف جمع کیا جانا ان کے اعضاء کا

ان کے خلاف گواہی دینا اور عذاب سے کبھی چھٹکارہ نہ ہونا

تفسیر: ان آیات میں اللہ کے دشمنوں یعنی کافروں کی مصیبت بیان فرمائی کہ قیامت کے دن انہیں دوزخ کی

طرف جمع کیا جائے گا جماعتیں جماعتیں بن کر اس کے قریب پہنچیں گے ایک جماعت آئے گی وہ روک لی جائے گی پھر

دوسری جماعت آئے گی وہ بھی روک لی جائے گی جب یہ جماعتیں جمع ہو جائیں گی اور دوزخ کے قریب پہنچ جائیں گے تو

ان کے خلاف ان کے کان اور آنکھیں اور کھالیں گواہی دیں گی دنیا میں جو جو حرکتیں کی تھیں یہ اعضاء سب بتا دیں گے کہ

اس شخص نے ہمیں ایسے کاموں میں استعمال کیا آنکھیں اور کان تو اعضاء ہیں اس دن کھالیں یعنی چمڑے بھی گواہی

دیں گے کہ یہ لوگ ایسے ایسے اعمال کرتے تھے۔ چڑا تو پورے بدن کو گھیرے ہوئے ہے اور وہ ہر گناہ میں استعمال ہوتا ہے سورۃ النور اور سورۃ یٰسین میں ہاتھوں اور پاؤں کی گواہی کا بھی ذکر ہے جب کافروں کے اعضا ہی ان کے خلاف گواہی دے دیں گے جن کے بارے میں انہیں وہم و گمان بھی نہ تھا تو وہ کہیں گے کہ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ ثَمُودَ عَلَيْنَا کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی اس گواہی کا نتیجہ یہ ہے کہ تمہیں بھی عذاب ہوگا اور ہمیں بھی کیونکہ ہمارے جسم کے اجزاء میں تم بھی شامل ہو ہمارے برے اعمال سے منکر ہونا تمہارے بچانے کے لئے ہی تھا اگر گواہی دے کر تم عذاب سے بچ جاتے تو تمہیں گواہی دینے کا کچھ فائدہ پہنچ جاتا۔ اعضا کہیں گے کہ ہماری کیا مجال تھی کہ نہ بولتے اور خاموش رہ کر گواہی کو چھپا لیتے؟ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان دے دی اور حکم دے کر کہلوا یا تو یہ کیسے ممکن تھا کہ ہم گواہی نہ دیتے تمہارا جو خیال تھا کہ ہم بول نہیں سکتے یہ خیال غلط تھا اللہ جسے چاہے بولنے کی قوت دے سکتا ہے جس نے ہر ہر بولنے والی چیز کو بولنے والا بنایا اسی نے ہمیں بھی قوت گویائی عطا فرمادی۔

صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر تھے آپ کو ہنسی آگئی آپ نے فرمایا تم جانتے ہو میں کس بات سے ہنس رہا ہوں ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جاننے والے ہیں آپ نے فرمایا (قیامت کے دن) بندہ جو اپنے رب سے مخاطب ہوگا اس کی وجہ سے مجھے ہنسی آگئی بندہ کہے گا اے رب کیا آپ نے مجھے اس بات کا وعدہ نہیں دے دیا کہ مجھ پر ظلم نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا ہاں تجھ سے یہ وعدہ ہے اس پر وہ کہے گا کہ بس تو میں اپنے خلاف کسی کی گواہی کو تسلیم نہیں کرتا سوائے ایسے گواہ کے جو مجھ ہی میں سے ہو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوگا کہ آج تیرا نفس ہی تیرے خلاف گواہی دینے کو کافی ہے اور کرام کا تین بھی تیرے خلاف گواہی دینے کو کافی ہیں اس کے بعد اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے اعضا سے کہا جائے گا کہ بولو لہذا اس کے اعضا اس کے اعمال کی گواہی دیں گے پھر اُسے بولنے کی قوت دے دی جائے گی۔ لہذا وہ اپنے اعضا سے کہے گا کہ دور ہو تمہارے لئے ہلاکت ہے تمہاری ہی طرف سے تو میں جھگڑا کر رہا تھا (مشکوۃ المصابیح ص ۳۸۵) (یعنی میں نے جو یہ کہا تھا کہ اپنے نفس کے خلاف کسی کی گواہی قبول نہیں کروں گا) الایہ کہ میرے اندر کی کوئی چیز ہو اس کا مقصد ہی تو تھا کہ تم عذاب سے بچ جاؤ۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ منافق قیامت کے دن یوں کہے گا کہ اے رب میں آپ پر ایمان لایا اور آپ کی کتاب پر اور آپ کے رسولوں پر ایمان لایا اور میں نے نمازیں پڑھیں روزے رکھے اور صدقات دیئے اور جہاں تک ممکن ہوگا اپنی تعریف کرے گا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا یہاں ابھی پیٹہ چل جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا کہ ہم ابھی گواہ پیش کرتے ہیں اس پر وہ اپنے نفس میں سوچے گا کہ کون ہے جو میرے خلاف گواہی دے گا پھر اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کی ران سے اور گوشت سے ہڈیوں سے کہا جائے گا کہ بولو! لہذا اس کی ران اور اس کا گوشت اور اس کی ہڈیاں اس کے اعمال پر گواہی دیں گی یہ گفتگو اس لئے کرائی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی اعتراض نہ رہے یہ جو کچھ مذکور ہوا منافق سے متعلق ہے اس سے اللہ تعالیٰ کو ناراضگی ہوگی۔ (صحیح مسلم ص ۳۰۹)

یہاں جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ سورۃ النور میں فرمایا کہ مجرمین کی زبانیں بھی گواہی دیں گی اور سورۃ یٰسین میں اور مسلم

شریف کی حدیث میں فرمایا کہ منہ پر مہر لگا دی جائیں گی اس میں بظاہر تعارض ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مختلف احوال کے اعتبار سے ہے بعض احوال میں زبانیں گواہی دیں گی اور بعض مواقع میں ان پر مہر لگا دی جائے گی۔  
 وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَكْلًا مَرْقًا وَلِيَرْجِعُوْنَ (اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پہلی بار دنیا میں پیدا فرمایا پھر مر جاؤ گے اور اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے) اسی نے دنیا میں زبان کو بولنا سکھایا آخرت میں دوسرے اعضاء کو بھی بولنے کی طاقت دے دیگا اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں۔

وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَعِزُّوْنَ (الایہ) یہ بھی کافروں سے خطاب ہے وہاں ان سے کہا جائے گا کہ تم دنیا میں جو کام کرتے تھے اس کا تمہیں ذرا بھی احتمال نہ تھا کہ قیامت کے دن تمہارے کان اور آنکھیں اور چڑے تمہارے خلاف گواہی دے دیں گے لہذا تم ان سے نہ چھپتے تھے نہ چھپ سکتے تھے جس کی وجہ سے تم ذیلری کے ساتھ گناہ کرتے تھے تم سمجھتے تھے کہ ہمارے خلاف گواہی دینے والا کوئی نہ ہوگا مخلوق کے بارے میں تو تمہارا خیال تھا ہی تم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہی خیال کر رکھا تھا کہ وہ تمہارے بہت سے اعمال کو نہیں جانتا۔

قال القرطبي و معنى "تَسْتَعِزُّوْنَ" تستخفون فى قول اكثر العلماء اى ما كنتم تستخفون من انفسكم خذراً من شهادة الجوارح عليكم، لأن الانسان لا يمكنه ان يخفى من نفسه عمله، فيكون الاستخفاء بمعنى ترك المعصية وقيل: الاستتار بمعنى الاتقاء اى ما كنتم تتقون فى الدنيا ان تشهد عليكم جوارحكم فى الآخرة فتتركوا المعاصى خوفاً من هذه الشهادة. (علامہ قرطبی نے کہا اکثر علماء کے قول کے مطابق "تَسْتَعِزُّوْنَ" کا معنی ہے "تم چھپتے تھے" یعنی تم جو اپنے آپ سے چھپتے تھے اعضاء کی اپنے خلاف گواہی کے خوف سے، چونکہ انسان کیلئے اپنے عمل کو اپنے آپ سے چھپانا ممکن نہیں ہے اس لئے یہاں استخفاء بمعصیت کے ترک کے معنی میں ہوگا، اور بعض نے کہا الاستتار بمعنی اتقاء ہے یعنی تم جو دنیا میں بچتے تھے اس سے کہ آخرت میں تمہارے اعضاء تمہارے خلاف گواہی دیں لہذا اس گواہی کے خوف سے تم نے گناہ چھوڑ دیئے)

صحیح بخاری میں ہے کہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں کعبہ شریف کے پردوں میں چھپا ہوا تھا تین آدمی آئے ان میں سے ایک ثقفی تھا اور دو قریشی تھے ان کے پیٹ بھاری تھے اور کم سمجھتے تھے انہوں نے کچھ ایسی باتیں کیں جنہیں میں (ٹھیک سے) نہ سن سکا ان میں سے ایک نے کہا کہ بتاؤ کیا اللہ ہماری باتوں کو سنتا ہے دوسرے نے کہا بلند آواز ہو تو سنتا ہے اور بلند نہ ہو تو نہیں سنتا تیسرے نے کہا کہ اگر وہ سنتا ہے تو سب کچھ سنتا ہے میں نے یہ قصہ رسول اللہ ﷺ کو سنا دیا تو اللہ تعالیٰ نے وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَعِزُّوْنَ سے مِنَ الْخَيْرِ تک آیت کریمہ نازل فرمائی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا ہے اور اس کے سننے اور جاننے کے علاوہ یہ بات بھی ہے کہ تمہارے اعضاء بھی تمہارے خلاف گواہی دے دیں گے لہذا ایمان اور اعمال صالحہ سے متصف ہونا ضروری ہے۔

## کافروں کو ان کے گمان بد نے ہلاک کیا

وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ اَنْزَلَكُمْ (اور یہ تمہارا گمان کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بہت سے اعمال کو نہیں جانتا اس نے تمہیں ہلاک کر دیا فَاصْبِرْهُمْ مِنَ الْخَيْرِ) (سو تم خسارے والے ہو گئے) تم نے جو یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کو

ہمارے بہت سے اعمال کا علم نہیں ہے اسی گمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے اگر اللہ تعالیٰ کو علم والا جانتے اور یہ یقین کرتے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے تو خلوتوں میں اور جلوتوں میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے اور اس نے جو اعضاء کی نعمتیں دی تھیں ان کو نیکیوں میں استعمال کرتے، تم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط گمان کیا اور اعضاء کو بھی غلط استعمال کیا آج یہاں خسارہ میں یعنی پوری ہلاکت میں پڑ گئے۔

وَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَكُونٌ لَهُمْ (سویہ لوگ جو دوزخ میں داخل کرنے کے لئے جمع کر دیئے گئے ہیں ان کو دوزخ میں داخل ہونا ہی ہے اور انہیں اس میں رہنا ہی ہے اور ہمیشہ رہنا ہے صبر کریں یا نہ کریں دوزخ ہی ان کا ٹھکانہ ہے یہ نہ سمجھیں کہ دنیا میں تکلیف پر صبر کر لیتے تھے تو بعد میں اچھی حالت آ جاتی تھی وہاں صبر کرنا کوئی کام نہیں دے گا وَلَئِنْ يَسْتَعْجِلُوا فَمَا لَهُمْ مِنَ الْمُعْتَجِلِينَ (اور اگر وہ یہ چاہیں کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں اور اس کے لئے درخواست کریں تو ان کی یہ درخواست منظور نہیں کی جائے گی راضی کرنے کا موقع موت سے پہلے تھا ایمان لاتے اعمال صالحہ کرتے نافرمانیوں سے بچتے تو آج عذاب کا منہ نہ دیکھنا پڑتا۔

## مشرکین اور کافرین پر برے ساتھی مسلط کر دیئے گئے

وَقَيِّضْنَا لَهُمْ قُرُونًا ۚ وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (ان کے اوپر ساتھی مسلط کر دیئے جو انسانوں میں سے بھی ہیں اور جنات میں سے بھی اور ان کے ساتھ لگے رہتے ہیں فَزَيَّنُوا لَهُمْ قَابِلِينَ ۖ وَيَذَرُهُمْ وَمَا خَلَقَهُمْ (ان ساتھیوں نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا اور ان کو اچھا بتا کر پیش کیا گناہوں کو اچھا کر کے دکھایا لذتوں پر ابھارا شہوتوں میں پڑنے کی ترغیب دی اور انہیں یہ بھی سمجھایا جو مزے اڑا سکتے ہو اڑا الو موت کے بعد نہ جی اٹھنا ہے نہ جنت ہے نہ دوزخ ان ساتھیوں کی باتوں میں آ کر غرور و شرک اختیار کیا گناہوں میں منہمک رہے۔ لہذا عذاب کے مستحق ہوئے قَابِلِينَ ۖ وَيَذَرُهُمْ وَمَا خَلَقَهُمْ کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پہلے لفظ سے آخرت مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ انہیں یہ سمجھایا کہ حساب کتاب اور جنت و دوزخ کچھ نہیں اور وَمَا خَلَقَهُمْ کے بارے میں فرمایا کہ اس سے دنیا والی زندگی مراد ہے انہوں نے اس دنیا میں کفر کو اچھا بتایا اور خواہشوں اور لذتوں پر ڈالا اور ابھارا۔

سورۃ الزخرف میں فرمایا وَمَنْ يَفْسُقْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَدَيْ قَوْمٍ ۚ وَاللَّهُ لِيَصُدُّ عَنْ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّ اللَّهَ مُتَعَدِّلُونَ (اور جو شخص اندھا بنتا ہے رخص کی یاد سے ہم اس پر تعینات کر دیا کرتے ہیں ایک شیطان سودہ اس کے ساتھ رہتا ہے شیاطین ان کو روکتے ہیں راہ سے اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم راہ پر ہیں وَحَقُّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمِّهِمْ قَدْ خَلَقْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ اور ان پر عذاب والی بات ثابت ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ طے کر دیا گیا کہ ان کو عذاب میں داخل ہونا ہے ان سے پہلے جو امتیں جنات میں سے اور انسانوں میں سے گزر چکی ہیں یہ بھی انہیں میں شامل کر دیئے گئے یعنی وہ بھی عذاب میں داخل ہوئے اور یہ بھی اِنَّهُمْ كَانُوا اخِصْرَيْنَ (بلاشبہ یہ سب لوگ خسارے والے تھے) دنیا میں آئے زندگی ملی جان ملی اعضاء دیئے گئے اموال کے مالک ہوئے لیکن سب کچھ کھودیا اور ضائع کر دیا اب تو عذاب ہی عذاب ہے۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا هَذَا الْقُرْآنَ وَالْغَوَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ۝ فَلَنذِيقَنَّ

اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کہ اس قرآن کو مت سنو اور اس کے درمیان شور مچایا کرو شاید تم غالب رہو سو جن لوگوں نے

الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَشْرَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ ذَلِكَ

کفر کیا ہم انہیں ضرور ضرور سخت عذاب چکھادیں گے اور ضرور ضرور انہیں برے کاموں کی سزا دیں گے جنہیں وہ کیا کرتے تھے۔ یہ سزا ہے

جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءُ يَمَّا كَانُوا يَأْتِنَا يَجْحَدُونَ ۝

اللہ کے دشمنوں کی جو آگ ہے ان کے لئے اس میں ہمیشہ کارہنا ہے اس بات کے بدلہ میں کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرْنَا الْكَافِرِينَ أَضَلْنَا مِنَ الْجَنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلُهُم

اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار جنات میں سے اور انسانوں میں سے جن لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا ہم کو انہیں دکھا دیجئے ہم انہیں

تَحْتِ أَقْدَامِنَا لِيَكُونُوا مِنَ الْأَسْفَلِينَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ

اپنے قدموں کے نیچے کر لیں تاکہ یہ دونوں گروہ خوب زیادہ ذلیلوں میں سے ہو جائیں بلاشبہ جن لوگوں نے یوں کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر مستقیم رہا ان پر

عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ الْأَتْخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ۝

فرشتے نازل ہوں گے کہ تم خوف نہ کرو اور رنج نہ کرو اور خوش ہو جاؤ جنت کی خبر سے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا

مَنْ أُولَئِكَ كُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهَى أَنْفُسُكُمْ

ہم دنیا والی زندگی میں تمہارے رفیق ہیں اور آخرت میں بھی اور تمہارے لئے اس میں ہر وہ چیز ہے جس کی تمہارے نفسوں کو خواہش ہوگی

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ۝ نَزَّلْنَا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ ۝

اور تمہارے لئے اس میں ہر وہ چیز ہے جو تم طلب کرو گے یہ مہمانی کے طور پر ہے غفور رحیم کی طرف سے

کافروں کا قرآن سننے سے روکنا اور شور و شغب کرنے کا مشورہ دینا

تفسیر: یہ سات آیات کا ترجمہ ہے اول کی چار آیتوں میں کافروں کی شرارت اور حماقت کا اور ان کے عذاب کا تذکرہ فرمایا ہے اور آپس میں جو دہاں بڑوں اور چھوٹوں میں دشمنی کا مظاہرہ ہوگا اس کو بیان کیا ہے رسول اللہ ﷺ جب قرآن مجید تلاوت کرتے اور لوگوں کو سناتے تو مکہ کے مشرکین میں سے جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ اپنے نیچے والوں کو حکم دیتے تھے کہ اس قرآن کو نہ تو خود سنو اور نہ دوسروں کو سننے دو جب محمد رسول اللہ ﷺ قرآن پڑھیں تو تم لوگ اس میں شور و غل مچاؤ یعنی باتیں کرو بے ٹکی آوازیں نکالو لہذا وہ لوگ آنحضرت ﷺ کی تلاوت کے وقت بیٹھیاں بجاتے تھے اور تالیاں پیٹتے تھے اور شور کرتے تھے اور اونچی آواز سے اشعار بھی پڑھتے تھے رؤسا مشرکین جو اپنے نیچے کے لوگوں کو ان

باتوں کا حکم دیتے تھے ان کا مقصد یہ تھا کہ قرآن کی آواز دب جائے اور چیخ و پکار کرنے والے غالب ہو جائیں تاکہ قرآن آگے نہ بڑھے اور اس کے ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ نہ ہو۔

مشرکین کی حرکتوں کو بیان فرمانے کے بعد جن کا وہ دنیا میں ارتکاب کرتے تھے ان کی سزا بیان فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ ہم انہیں سخت عذاب چکھائیں گے یہ لوگ جو برے اعمال کیا کرتے تھے انہیں ضرور ان کی سزادیں گے آیت کریمہ میں عذاب دنیا یا عذاب آخرت کا ذکر نہیں ہے مطلق عذاب کی وعید ہے صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ اس سے دونوں جہان کا عذاب بھی مراد ہو سکتا ہے اور دونوں میں سے کسی ایک کا بھی پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ عَذَابًا شَدِيدًا سے غزوہ بدر کا عذاب مراد ہے اور اَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ سے آخرت کا عذاب مراد ہے مطلب یہ ہے کہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے دنیا میں بھی سخت عذاب میں مبتلا ہونگے اور آخرت میں بھی برے اعمال کی سزائیں گے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے دشمنوں کو (آخرت میں جو) سزا ملے گی آگ کی صورت میں ان کے سامنے آئے گی یعنی نارِ جہنم میں داخل ہوں گے اور ایسا نہیں کہ تھوڑے سے دن سزا بھگت لیں تو جان بخشی ہو جائے بلکہ انہیں اس آگ میں ہمیشہ رہنا ہوگا ان کا یہ عذاب اس کا بدلہ ہوگا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔

گمراہ لوگ درخواست کریں گے کہ ہمارے بڑوں کو سامنے

لایا جائے تاکہ قدموں سے روند ڈالیں

دنیا میں تو یہ حال تھا کہ چھوٹے موٹے لوگ اپنے بڑے اور سرداروں کے بہکانے سے کفر پر جھرے رہے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے رہے ان کے بہکانے والوں میں جنات بھی تھے اور انسان بھی تھے جو انہیں حق قبول نہیں کرنے دیتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ قرآن پڑھا جائے تو تم شور و غل کرو یہ لوگ ان کی بات مان لیتے تھے یہ تو ان کا دنیا میں حال تھا پھر جب آخرت میں حاضر ہوں گے تو اپنے بڑوں پر غصہ ہوں گے اور دانت پیسیں گے کہ انہوں نے ہمارا ناس کھویا لہذا بارگاہِ خداوندی میں عرض کریں گے کہ اے ہمارے پروردگار جنات میں سے اور انسانوں میں سے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا انہیں ہمارے سامنے لائیے آج ہم انہیں بہکانے اور درغلانے کا مزہ چکھا دیں بتائیے وہ لوگ کہاں ہیں ہم انہیں اپنے پاؤں میں روند ڈالیں۔ انہوں نے ہمارا ناس کھویا آج ہم ان سے بدلہ لے لیں انہیں اپنے پاؤں کے نیچے مسل دیں اور کچل دیں تاکہ وہ خوب زیادہ ذلت والوں میں سے ہو جائیں۔

اہل استقامت کو بشارت

اس کے بعد اہل ایمان کی فضیلت بیان فرمائی اور ان کی اجمالی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور پھر ایمان پر جھرے رہے یعنی اس کے تقاضوں کو پورا کرتے رہے ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان کو بشارت دیتے ہیں کہ تم خوف نہ کرو اور رجحان نہ کرو اور جنت کی خوشخبری سن لو جس کا تم سے اللہ کے نبی نے اور اللہ کی کتاب نے وعدہ کیا ہے۔

فرشتوں کے جس نزول اور بشارت کا ذکر ہے اس کا وقوع کب ہوتا ہے؟ صاحب روح المعانی نے حضرت زید بن اسلم تابعی سے نقل کیا ہے کہ موت کے وقت اور قبر میں نازل ہوتے وقت فرشتے آتے ہیں اور مذکورہ بالا بشارت دیتے ہیں اور قیامت کے دن جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے اس وقت بھی فرشتے یہ بشارت دیں گے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ بشارت مذکورہ بالا تینوں احوال کے ساتھ حاصل نہیں ہے بلکہ عام حالات میں بھی اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا رہتا ہے کہ فرشتے بطریقہ الہام ان کے دلوں میں سکون اور اطمینان کا لقاء کرتے رہتے ہیں جس سے وہ اور زیادہ خیر کے کاموں میں آگے بڑھتے رہتے ہیں حضرت عطاء ابن ابی رباح نے فرمایا کہ اَلَا تَخَافُوْا کَا مَطْلَبِیْہِہِ کہ تمہاری نیکیاں مقبول ہیں یہ خوف نہ کرو کہ وہ رد کردی جائیں گی اور وَاَلَا تَحْزَنُوْا کَا مَطْلَبِیْہِہِ کہ گناہوں کے بارے میں رنجیدہ مت ہو وہ بخش دیئے جائیں گے۔

## فرشتوں کا اہل ایمان سے خطاب

مَنْ اٰذِنُوْكُمْ فِی الْحَیٰوَةِ الدُّنْیَا وَ فِی الْاٰخِرَةِ فرشتے اہل استقامت مومنین سے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم دنیا اور آخرت میں تمہارے ولی ہیں یعنی ہم تمہارے مددگار ہیں تمہارے دلوں میں حق کی بات ڈالتے ہیں اور تمہیں خیر و صلاح کا مشورہ دیتے رہتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ موت سے پہلے بھی ملائکہ کا نزول ہوتا رہتا ہے جو اہل ایمان کو تسلی دیتے ہیں اور خیر و صلاح کی باتیں بتاتے ہیں اور شرور سے بچاتے ہیں دنیا میں انکی یہ دوستی ہے اور آخرت میں بھی دوستی کا ظہور ہوگا شفاعت بھی کریں گے اور اکرام کیساتھ پیش آئینگے اور انکے پاس پہنچیں گے اور سَلَامٌ عَلَیْکُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبٰی الدَّارِ کہہ کر سلامتی کی دعا بھی دیں گے اور مبارکباد بھی۔

فرشتے جو جنت کے داخلے کی پیشگی بشارت دیں گے اس بشارت کے ساتھ اجمالی طور پر نعمتوں کا تذکرہ بھی فرمایا وہ کہیں گے کہ آخرت میں تمہیں جو جنت کا داخلہ ملے گا وہ داخلہ بہت بڑی نعمت ہے وہ ہر قسم کی خواہش پوری ہونے کی جگہ ہے جنت میں تمہاری جو بھی خواہش ہوگی وہ سب پوری کر دی جائیگی اور وہاں جو بھی کچھ مانگو گے اور طلب کرو گے سب کچھ موجود ہوگا ایسا نہ ہوگا کہ کوئی خواہش رکی رہ جائے اور کوئی مطلوبہ شے عطا نہ کی جائے۔

## غفور رحیم کی طرف سے مہمانی

آخر میں فرمایا اِنَّ لِّمَنْ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا وہاں جو کچھ عطا کیا جائے گا غفور رحیم کی طرف سے بطور مہمانی کے ہوگا دیکھو سب سے بڑی ذات کے مہمان بن رہے ہو جس نے تمہارے سب گناہ اور خطائیں معاف فرمادی ہیں اور مہربانی فرما کر تمہیں یہاں داخلہ دے دیا ہے جس ذات عالی کے مہمان ہو اس کی مہمانی اسی کے شان کے لائق ہے جس کا تقاضا یہ ہے کہ مہمان کی جو خواہش ہو پوری کی جائے اور جو کچھ طلب کرے وہ اسے دیا جائے۔

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنِّیْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۝ وَلَا

اور اس سے اچھی کس کی بات ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کئے اور یوں کہا کہ بلاشبہ میں مسلمان میں سے ہوں اور



تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّذِي هِيَ أَحْسَنُ فَأِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ

اچھائی اور برائی برابر نہیں ہوتی آپ ایسے برتاؤ کے ساتھ دفع کیجئے جو اچھا طریقہ ہو پھر یکا یک ایسا ہوگا جس شخص کو آپ سے دشمنی تھی

كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ۚ وَمَا يُلْقُهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقُهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ

گو یا کہ وہ خالص دوست ہے اور اس بات کا صرف انہیں لوگوں کو القا کیا جاتا ہے جو صبر والے ہیں اور اس بات کا القا اسی شخص کو ہوتا ہے

عَظِيمٌ ۚ وَإِنَّمَا يَنزَغُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ ۖ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۚ

جو بڑے نصیب والا ہو اور اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی دوسرا آنے لگے تو اللہ کی پناہ لیجئے بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔

## داعی الی اللہ کی فضیلت، اخلاق عالیہ کی تلقین شیطان سے محفوظ ہونے کے لئے اللہ کی پناہ لینا

**تفسیر:** ان آیات میں داعی الی اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے اشخاص و افراد کی فضیلت بیان فرمائی اور بعض امور پر تنبیہ کی ہے ارشاد فرمایا کہ اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور یوں کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں اس میں یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو شخص بلائے یعنی توحید کی دعوت دے اور اس کے دین اور احکام دین قبول کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی دعوت دے اسے خود بھی اعمال صالحہ میں لگنا چاہئے جب خود عمل کرے گا تو دوسروں کو اعمال صالحہ کی دعوت دینا بھی مفید اور نافع ہوگا اور جو شخص داعی ہو اس میں تواضع بھی ہونی چاہئے حق کی دعوت بھی دے اور اپنے کو بڑا بھی نہ سمجھے اپنے بارے میں یوں کہے کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں اپنے علم و عمل کو تکبر اور غرور کا ذریعہ نہ بنالے جب کوئی شخص حق کی دعوت لئے کھڑا ہوتا ہے تو نیکے بے شکے لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے معاندین اور متکبرین سامنے آتے ہیں زبان سے اور ہاتھ سے تکلیف دیتے ہیں ایسے مواقع پر صبر کرنا درگزر کرنا مناسب ہوتا ہے اور ترکی بہ ترکی جواب دینا برائی کا بدلہ برائی سے دینا مناسب نہیں ہوتا اگر برائی کا بدلہ برائی سے دیا جائے اور اسی قدر دیا جائے جتنی زیادتی دوسرے نے کی ہے تو یہ جائز تو ہے لیکن خوبی اور بہتری، حلم اور برداشت ہی میں ہے۔ اسی کو فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ کہ اچھا برتاؤ اور برا برتاؤ برابر نہیں ہے پھر فرمایا ادْفَعْ بِالَّذِي هِيَ أَحْسَنُ جو اچھی خصلت ہے اور عمدہ طریقہ ہے اس کو اختیار کیجئے اس کے ذریعہ مخالف کی بد معاملگی اور برے برتاؤ کو دفع کیجئے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ وَلِيٌّ حَمِيمٌ جب ایسا کرو گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جس شخص سے آپ کی دشمنی تھی وہ آپ کا خالص دوست بن جائے گا۔

اس کے بعد اچھی خصلت یعنی حلم اور بردباری، حسن خلق وغواور درگزر کے بارے میں فرمایا کہ یہ بہت عمدہ اور بہت بلند صفت ہے جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ وَمَا يُلْقُهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقُهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (اور یہ بلند اخلاق کی صفت انہی لوگوں کو دی جاتی ہے جو بڑے نصیب والے ہیں۔

حَظَّ عَظِيمٌ (بڑا نصیب) کیا ہے بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے ثواب کا بڑا حصہ مراد ہے اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے جنت مراد ہے (ذکر ہمائی الروح)

جب کوئی شخص نیک کاموں میں لگتا ہے تو شیطان اس کے نفس میں برے برے دوسے ڈالتا ہے اس کے بارے میں فرمایا وَ إِنَّمَا يَفْزَعُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ (اور اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کچھ دوسرے آنے لگے تو آپ اللہ کی پناہ مانگیں إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے)

صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ لفظ نزغ عربی زبان میں کسی لکڑی یا انگلی سے چھانے کے لئے بولا جاتا ہے جسے اردو کے محاورے میں کچوک دینا کہہ سکتے ہیں ذرا ذرا سے دوسے تو آتے ہی رہتے ہیں شیطان کبھی زوردار دوسرے بھی ڈال دیتا ہے اسی لئے اسے نزغ سے تعبیر فرمایا جب کوئی شخص دعوت حق دے گا خیر کی بات کرے گا اور مخالف اور منکر کی تکلیف دہ باتوں پر صبر کرے گا تو شیطان اس موقع پر کچوکا دے گا اور مثالیوں سمجھائے گا کہ تم تو حق بات کہہ رہے ہو۔ تمہیں چھوٹا بننے اور دبنے کی کیا ضرورت ہے ایسے موقع پر اللہ کی پناہ لے اور اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ پڑھ کر آگے بڑھ جائے۔

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ الْاَيْلُ وَالتَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ

اور اللہ کی نشانیوں میں سے رات ہے اور دن ہے اور چاند ہے اور سورج ہے مت سجدہ کرو سورج کو اور نہ چاند کو

وَاسْجُدْ لِلّٰهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ۝۱۰ فَاِنْ اسْتَكْبَرُوْا فَاَلَّذِيْنَ

اور سجدہ کرو اللہ کو جس نے ان کو پیدا فرمایا اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو سو اگر وہ تکبر کریں تو جو

عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُوْنَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ۝۱۱ وَمِنْ اٰيٰتِهٖ اَنَّكَ تَرٰى

تیرے رب کے مقرب ہیں وہ رات دن اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اکتاتے نہیں ہیں اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ

الْاَرْضَ خَاشِعَةً ۚ وَاِذَا اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ۚ اِنَّ الَّذِيْ اَحْيَاهَا لَمُجْبٰى

تو زمین کو دبی ہوئی حالت میں دیکھتا ہے پھر جب ہم اس پر پانی نازل کر دیتے ہیں تو وہ ابھر آتی ہے اور بڑھتی ہے

الْمَوْتٰى ۚ اِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝۱۲

بلاشبہ جس نے اس کو زندہ فرمایا وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے۔

رات اور دن چاند اور سورج اللہ کی نشانیوں

میں سے ہیں ان کے پیدا کرنے والے کو سجدہ کرو

تفسیر: ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی توحید پر بعض دلائل قائم فرمائے ہیں اور غیر اللہ کو سجدہ کرنے اور غیر اللہ کی عبادت کرنے سے منع فرمایا ہے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے رات بھی ہے اور دن بھی ہے اللہ تعالیٰ کی

قدرت اور مشیت سے ایک دوسرے کے آگے پیچھے آتے رہتے ہیں اور سورج اور چاند بھی اس کی نشانیوں میں سے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا اور روشنی بخشی اور ان کے گردش کرنے کا مدار مقرر فرمایا اور طلوع و غروب کے اوقات مقرر فرمائے جس ذات پاک نے ان کو پیدا فرمایا صرف وہی مستحق عبادت ہے۔

لَا تُسْجُدْ وَالتَّمٰنِیْنَ وَلَا لِلْقَمَرِ (یہ مشرکین کو خطاب ہے مطلب یہ ہے کہ تم سورج کو سجدہ نہ کرو ان کو بڑی چیزیں سمجھ کر سجدہ کرتے ہو حالانکہ جس نے انہیں پیدا کیا وہ سب سے بڑا ہے اور صرف وہی عبادت کا مستحق ہے اسی کو فرمایا وَاسْجُدْ وَالتَّمٰنِیْنَ الَّذِیْ خَلَقَهُنَّ (اور اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا) اِنْ كُنْتُمْ اِیَّاہُ تَعْبُدُوْنَ (اگر تم ان کے پیدا کرنے والے کی عبادت کرتے ہو) مطلب یہ ہے اگر خالق کی عبادت کرتے ہو تو مخلوق کی عبادت نہ کرو خالق کی وہ عبادت معتبر نہیں جس کے ساتھ مخلوق کی بھی عبادت کی جاتی ہو لہذا شرک اختیار کرتے ہوئے تمہارا یہ دعویٰ کرنا کہ ہم اللہ کے عبادت گزار ہیں یہ غلط ہے۔

فَاِنْ اسْتَكْبَرُوا (الایہ) سو اگر وہ لوگ تکبر اختیار کریں اور آپ کی بات ماننے میں عار سمجھیں اور غیر اللہ کو سجدہ کرنے سے باز نہ آئیں تو انہیں بتادیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کی عبادت اور سجود کا محتاج نہیں ہے تم اسے سجدہ کرو یا نہ کرو اس کی ذات عالی صفات بہر حال بلند اور برتر ہے اس کی بارگاہ اقدس میں جو فرشتے حاضر ہیں وہ ہمہ تن اور ہر وقت تسبیح میں مشغول رہتے ہیں ذرا بھی نہیں اکتاتے اور اسے ان کی تسبیح اور عبادت کی بھی حاجت نہیں ہے)

## زمین کا خشک ہو کر زندہ ہو جانا بھی اللہ کی نشانی ہے

اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شانہ کی نشانیوں میں سے زمین بھی ہے جس پر یہ لوگ رہتے ہیں اور اس پر جن تغیرات کا ظہور ہوتا رہتا ہے انہیں یہ لوگ دیکھتے رہتے ہیں انہی تغیرات میں سے ایک یہ ہے کہ زمین خشک ہو جاتی ہے سبزی بالکل نہیں رہتی سوکھی ہوئی حالت میں پڑی رہتی ہے پھر اللہ تعالیٰ بارش بھیجتا ہے بارش برستی ہے زمین پر پانی پڑتا ہے اندر پہنچتا ہے جیسے ہی یہ زمین پانی سے متاثر ہوتی ہے اس میں تازگی آ جاتی ہے زمین پھولتی ہے اندر سے پودے زور لگاتے ہیں باہر نکلتے ہیں تھوڑا ہی سا وقت گزرتا ہے کہ زمین ہری بھری ہو جاتی ہے اس میں کھیتیاں بھی ہوتی ہیں جن سے انسانوں کو غذا اُمِلتی ہے بڑے بڑے درخت بھی ہوتے ہیں جن پر کچھ عرصے کے بعد پھل آتے ہیں ان میں سے انسان کھاتے ہیں اور گھاس بھی نکلتی ہے جو مویشیوں کی غذا بنتی ہے اس میں کئی طرح سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی ظاہر ہوتی ہے اور توحید بھی ثابت ہوتی ہے کیونکہ ان تصرفات کا کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے اور اس سے وقوع قیامت کا استبعاد بھی دور ہو جاتا ہے قیامت قائم ہونے اور زندہ ہو کر قبروں سے نکلنے اور دوبارہ زندگی حاصل ہونے کو جو لوگ بعید اور عجیب سمجھتے ہیں ان کے لئے زمین کی حالت بدلنا خشک زمین کا تروتازہ ہو جانا اس میں پودے نکل آنا یہ اس بات کی نظیر ہے کہ انسان بھی سرکھپ کر اسی طرح زندہ ہو کر قبروں سے باہر آ جائیں گے اسی کو فرمایا اِنَّ الَّذِیْ اَخْیَاھا الْمَیْمَنُ الْوَحْدٰی (بلاشبہ جس نے اس زمین کو زندگی بخشی وہی مردوں کو زندہ فرمانے والا ہے اِنَّہٗ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ اور وہ ہر چیز پر قادر ہے)

إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرًا مِّمَّنْ

بلاشبہ جو لوگ ہماری آیتوں میں کجروی اختیار کرتے ہیں وہ ہم پر پوشیدہ نہیں ہیں کیا جو شخص آگ میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے یا وہ

يَأْتِيْنَا إِنَّمَا تُؤْمَرُ الْقِيمَةُ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُم مُّاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا

فحسب جو قیامت کے دن اس کی حالت میں آئے گا تم کو جو چاہو بے شک وہ تمہارے کاموں کو دیکھنے والا ہے بیشک جن لوگوں نے ذکر کے ساتھ کفر کیا

بِالذِّكْرِ لَنُكَافِيَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ۝ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ

جب وہ انکے پاس آگیا اور بے شک حال یہ ہے کہ وہ کتاب عزیز ہے اس کے پاس باطل نہیں آتا آگے سے اور نہ

خَلْفَهُ تَنْزِيلُ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ۝ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ

پچھے سزا دینا ہی ہوئی ہے حکمت والے کی طرف سے جو ستورہ اوصاف ہے آپ سے نہیں کہا جاتا مگر وہی جو آپ سے پہلے رسولوں کے لئے کہا گیا بلاشبہ

رَبِّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ۝ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَبًا لَقَالُوا الْوَلَا فُصِّلَتْ

آپ کا رب مغفرت والا ہے اور سزا دینے والا ہے اور اگر ہم اس کو قرآن عجیب بنادیتے تو یہ لوگ کہتے کہ اس کی آیات کو کیوں واضح طرح پر بیان نہیں کیا گیا

آيَاتُهُ إِنَّمَا عَجَبٌ ۝ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

یہ کیا بات ہے کہ رسول عربی ہے اور کتاب عجیب ہے آپ فرمادیتے کہ وہ ایمان والوں کے لئے ہدایت ہے اور شفا ہے اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے

فِي أَذَانِهِمْ وَقَفَرُوا وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ۝

ان کے کانوں میں ڈاٹ ہے اور وہ ان پر گمراہی کا سبب بنا ہوا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دور سے پکارا جاتا ہے۔

**طہرین ہم پر پوشیدہ نہیں ہیں جو چاہو کر لو اللہ دیکھتا ہے!**

**تفسیر:** قرآن مجید سے نفع حاصل کرنے والے اہل ایمان ہیں اور دو جماعتیں ایسی ہیں جو قرآن کی دشمن ہیں

ایک جماعت تو وہ ہے جو قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہی نہیں یہ لوگ منکرین ہیں اور دوسری جماعت وہ ہے جو یوں نہیں کہتے

کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے لیکن ان کی دشمنی اس طرح ظاہر ہوتی ہے کہ وہ قرآن کا مطلب اپنی طرف سے تجویز کرتے

ہیں اور اپنی خواہشوں کے مطابق آیات اور کلمات کا مطلب بتاتے ہیں یہ لوگ طہرین ہیں جو قرآن میں کجروی نکالتے ہیں

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے الحاد کا یہی مطلب بتایا اور فرمایا يَضْفُونَ الكلام في غير موضعه یعنی آیات کا

مطلب اپنی طرف سے تجویز کرتے ہیں مشابہات کے پیچھے پڑنا اپنی نکالی ہوئی بدعتوں اور خواہشوں کے مطابق قرآن کی

تفسیر کرنا یہ سب الحاد کی صورتیں ہیں حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مسائل سلوک میں حضرت ابن عباس رضی اللہ

عنہما کا قول نقل فرمانے کے بعد لکھتے ہیں و دخل فيه غلاة الصوفية في نفهم التفسير المنقول واختراهم ما

ببخالف الاصول یعنی اس میں غلو والے صوفی بھی داخل ہیں جو منقول تفسیر کی نفی کرتے ہیں اور اپنے پاس سے وہ چیزیں



جس کو حق سے پُر ہو اور عناد پر کمر باندھ لے اس کا نفس اور شیطان طرح طرح کے شوشے چھوڑتے رہتے ہیں قریش مکہ نے ایک یہ شوشہ چھوڑا کہ یہ قرآن عربی ہی میں کیوں ہے عجمی یعنی غیر عربی عجمی زبان میں بھی ہوتا تو اس کا معجزہ ہونا اور زیادہ ظاہر ہو جاتا اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید میں ارشاد فرمایا کہ اگر ہم قرآن کو عجمی زبان میں نازل کرتے تو یہ لوگ پھر بھی ایمان لانے والے نہ تھے۔ یہ لوگ اس وقت یہ حجت نکالتے کہ ہم تو عرب ہیں ہمارے سامنے تو عربی ہی میں آیات ہوتیں جن میں صاف صاف بیان ہوتا اور یہ اعتراض اٹھاتے **مَا تَعْجَبُونَ وَعَرَبِيٌّ يُبَيِّنُ لَكُمْ** یعنی یوں کہتے کیا بات ہے کتاب عجمی اور رسول عربی ہے؟ اب جو قرآن عربی میں ہے تو کہتے ہیں کہ عربی کیوں ہے اور عجمی ہوتا تو کہتے کہ عربی کیوں نہیں مقصود محض اعتراض ہے قبول حق نہیں اسی لئے بے تکلی باتیں کرتے ہیں۔ قال صاحب الروح و حاصلہ انہ لو نزل کما یریدون لا نکروا ایضاً وقالوا مالک وللعجمۃ او مالنا وللعجمۃ۔ (صاحب روح المعانی فرماتے ہیں اور حاصل یہ ہے کہ اگر قرآن انہیں کی خواہش کے مطابق نازل کیا جاتا تو بھی یہ انکار کرتے اور کہتے آپ کیا لگیں اور عربی کیا لگے یا کہتے ہمیں غیر عربی زبان سے کیا واسطہ؟) (ص ۱۲۹ ج ۲۳)

## قرآن مومنین کے لئے ہدایت ہے اور شفا ہے

قُلْ هُوَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْهُدٰی وَشَفَاۗءُ (آپ فرمادیجئے کہ یہ قرآن ایمان والوں کے لئے ہدایت اور شفاء ہے) وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ فِیْ اٰذَانِهِمْ وَقُوْرٌ هُوَ عَلَیْهِمْ عَمٰی اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں ڈاٹ ہے اور وہ ان کے حق میں اندھے پن کا سبب بنا ہوا ہے اُولٰٓئِکَ یُنَادُوْنَ مِنْ مَّکٰنٍ بُعِیْدٍ (یہ لوگ دور جگہ سے بلائے جاتے ہیں) یعنی یہ لوگ ایسے ہیں کہ جیسے کسی کو پکارا جائے وہ آواز تو سننے لیکن بات نہ سمجھے حق کی آواز کانوں میں پڑتی ہے لیکن اسے سمجھنا اور قبول کرنا نہیں چاہتے۔

## یُنَادُوْنَ مِنْ مَّکٰنٍ بُعِیْدٍ کی تفسیر

صاحب روح المعانی لکھتے ہیں اُولٰٓئِکَ یُنَادُوْنَ مِنْ مَّکٰنٍ بُعِیْدٍ کا یہ مطلب (جو اوپر لکھا گیا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت مجاہد سے مروی ہے اور بعض مفسرین نے اس کا یہ مطلب بتایا ہے کہ قیامت کے دن یہ لوگ کفر اور اعمال بد کی وجہ سے برے ناموں کے ساتھ پکارے جائیں گے اور یہ پکار دور سے ہوگی تاکہ اہل موقف بھی اس آواز کو سن لیں جس سے ان لوگوں کی شہرت ہو جائے کہ یہ لوگ ایسے ایسے تھے۔

وَلَقَدْ اٰتٰیْنَا مُوْسٰی الْکِتٰبَ فَاخْتَلَفَ فِیْهِ ۚ وَلَوْلَا کَلِمَۃٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّکَ لَقَضٰی

اور یہ بات ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی سو اس میں اختلاف کیا گیا اور اگر ایک بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے ملے ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ

بَیْنَهُمْ وَاِنَّهُمْ لَفِیْ شَکٍّ مِّنْهُ مُرِیْبٍ ۚ مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِہٖ ۚ وَمَنْ اَسَآءَ

کر دیا جاتا اور بلاشبہ یہ لوگ اس کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں جس نے نیک عمل کیا سو وہ اس کی جان کے لئے ہے اور جس نے برے عمل کیا تو اس کا

## فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ۝

وہاں اسی پر ہے اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔

ہر شخص کا نیک عمل اس کے لئے مفید ہے  
اور برے عمل کا وہاں برا عمل کر نیوالے پر ہی ہے

**تفسیر:** اوپر آنحضرت ﷺ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ معاندین کی طرف سے آپ کے بارے میں وہی باتیں کہی جاتی ہیں جو آپ سے پہلے رسولوں سے کہی گئیں اس کے بعد گزشتہ رسولوں میں سے ایک رسول یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ارشاد فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی توریت شریف دی اس کتاب میں اختلاف کیا گیا کسی نے اس کی تصدیق کی اور کسی نے اسے جھٹلایا آپ کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ جو آپ کے مخاطبین کا معاملہ ہے یہ پہلے بھی ہو چکا ہے پھر فرمایا کہ آپ کے رب کی طرف سے ایک بات طے ہو چکی ہے اور وہ یہ کہ جھٹلانے والوں پر مقررہ وقت پر عذاب آئے گا اگر یہ طے شدہ بات نہ ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا یعنی گزشتہ امتوں کی طرح عذاب بھیج کر ان کو ختم کر دیا جاتا وَاَنْتُمْ لَعْنَى شَاقِيْنَ قَوْلِهِ مُرِيْبٌ اور یہ لوگ قرآن کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ شک باعث تردد اور باعث اضطراب بنا ہوا ہے۔

بعض حضرات نے مِنْہُ کی ضمیر عذاب کے فیصلے کی طرف راجع کی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ عذاب موجود کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں اس شک نے ان کو تردد میں ڈال رکھا ہے عذاب کی وعید سنتے ہیں لیکن یقین نہیں کرتے۔ مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِہٖ (جو شخص نیک کام کرے گا اس کا یہ عمل اس کے لئے نفع مند ہوگا اور اس پر ثواب ملے گا) وَمَنْ اَسَاءَ فَعَلَيْہَا (اور جو شخص برا عمل کرے گا تو اس کا وہاں اور ضرر اسی پر پڑے گا) وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کر نیوالا نہیں ہے) وہ ہر چھوٹی بڑی نیکی کا بدلہ دے گا اور ایسا نہ ہوگا کہ جو کوئی برائی نہ کی ہو وہ اس کے اعمال نامہ میں لکھ دی جائے اور پھر اس کی وجہ سے عذاب دیا جائے۔

اَلَيْسَ بِرُدٍّ عَلَی السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِّنَ الْكُمَاہِ وَمَا تَخِيلُ مِنْ اُنْثٰی وَلَا تَضَعُ

اسی کی طرف قیامت کا علم حوالہ کیا جاتا ہے اور جو پھل اپنے خولوں سے نکلتے ہیں اور جو کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے اور جو بچہ جنم لیتی ہے یہ سب

اَلَا بِعِلْمِہٖ وَّیَوْمَ یُنَادِیْہُمْ اَیْنَ شُرَکَآئِیْ قَالُوْۤا اٰذْکَ لَا مَمْنٰنَ مِنْ شَہِیْدٍ ۝ وَضَلَّ عَنْہُمْ مَا کَانُوْۤا

اس کے علم میں ہے اور جس دن وہ پکارے گا کہیں شُرکاء وہ کہیں گے کہ ہم اعلان کے ساتھ آپ سے عرض کرتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی شہید نہیں ہے اور اس سے پہلے وہ جن کو پکارا کرتے تھے

یَدْعُوْنَ مِنْ قَبْلِ وَّظَنُّوْۤا مَا لَہُمْ مِنْ فَحِیْصٍ ۝

وہ سب غائب ہو جائیں گے اور یہ لوگ یقین کر لیں گے کہ ان کے چھوٹنے کی کوئی صحت نہیں ہے۔



## قیامت کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے اس دن مشرکین کی حیرانی و بربادی

**تفسیر:** قیامت کا علم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف حوالہ کیا جاتا ہے یعنی قیامت کب واقع ہوگی اس کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں سورة الاعراف میں فرمایا يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانُ مُرْسِلُهَا قُلْ إِنَّمَا يَعْلَمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجِيبُهَا إِلَّا هُوَ (وہ آپ سے قیامت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ کب ہے اس کا واقع ہونا آپ فرمادیتے کہ اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے اس کو ظاہر نہیں فرمائے گا مگر وہی) ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ ﷺ کے پاس انسانی صورت میں آئے اور متعدد سوالات کئے ان میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ قیامت کے بارے میں ارشاد فرمائیے وہ کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِاعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ (کہ جس سے دریافت کیا وہ دریافت کرنے والے سے زیادہ جاننے والا نہیں) یعنی اس معاملہ میں میں اور تم برابر ہیں نہ مجھے اس کے وقوع کا وقت معلوم ہے اور نہ تمہیں پس اگر کسی سے پوچھا جائے کہ قیامت کب آئے گی تو یہی جواب دے دو کہ اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے صاحب روح المعانی لکھتے ہیں۔ اِذَا سَأَلَ عَنْهَا قَبِيلُ اللَّهِ تَعَالَى يَعْلَمُ أَوَّلًا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (یعنی جب قیامت کے بارے میں پوچھا جائے تو کہا جائے اللہ تعالیٰ جانتا ہے یا کہا جائے اسے نہیں جانتا مگر اللہ تعالیٰ ہی)

اس کے بعد بعض دیگر اشیاء کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے جب درخت پر پھل آتے ہیں اولاً ایک غلاف کی سی صورت بنتی ہے ابتداء میں پھل ذرا سا ہوتا ہے پھر بڑھتا رہتا ہے اور بڑھتے بڑھتے اپنے غلاف سے باہر آ جاتا ہے ارشاد فرمایا کہ جو بھی کوئی پھل اپنے غلاف سے باہر نکلتا ہے اور جس کی عورت کو حمل قرار پاتا ہے اور جو بھی کوئی عورت بچہ جنتی ہے اللہ تعالیٰ کو ان سب کا علم ہے اس میں چند چیزوں کا ذکر ہے دوسری آیات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔

جو لوگ دنیا میں شرک کرتے ہیں دلائل قدرت کو دیکھ کر بھی توحید کے قائل نہیں ہوتے یہ لوگ قیامت کے دن حاضر ہوں گے اور ان سے اللہ تعالیٰ کا سوال ہوگا کہ تم نے جو اپنے خیال میں میرے شرکاء بنا رکھے تھے وہ کہاں ہیں وہ لوگ جواب دیں گے کہ ہم آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ یہاں اس وقت ہم میں کوئی بھی اس بات کی گواہی دینے والا نہیں کہ آپ کا کوئی شریک تھا دنیا میں تو پوری ضد کے ساتھ شرک کرتے تھے اور جب سمجھایا جاتا تھا تو حق نہیں مانتے تھے لیکن میدان قیامت میں شرک سے منکر ہو جائیں گے اور یوں کہیں گے وَاللّٰهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ اور جب سمجھ لیں گے کہ انکار کچھ فائدہ نہیں دے سکتا تو اقراری ہو کر یوں کہیں گے هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الَّذِي كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ کہ یہ وہ ہیں جن کی ہم آپ کے علاوہ عبادت کیا کرتے تھے اور ان سے جو مدد کی امید رکھتے تھے وہ کوئی بھی مدد نہ پہنچا سکیں گے وَظَنُوا مَا لَهُمْ مِنْ مَّحِيصٍ (اور یقین کر لیں گے کہ ان کے لئے بھاگنے کا کوئی موقع نہیں)۔

لَا يَسْتَعِينُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيُوسِسْ قَنُوطٌ ۖ وَلَكِنْ أَدْقَقْنَا رَحْمَةً مِّنَّا مَنْ

انسان خیر کی دعا کرنے سے نہیں آگتا اور اگر اسے تکلیف پہنچ جائے اور پوری طرح ناامید ہو جائے اور تکلیف پہنچ جانے کے بعد اگر ہم اسے اپنی رحمت چکھادیں

بَعْدَ ضَرَاءٍ مَّسَّتْهُ لِيَقُولَنَّ هَذَا إِلَىٰ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً ۖ وَلَكِنْ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي

تو وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ چاہئے اور میں یہ گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹا یا گیا تو میرے لئے اس کے پاس

عِنْدَهُ لِحُسْنِ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَاَلَنذِيْقَتَهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ ۝۱۰ وَاِذَا

بہتری ہوگی سو جن لوگوں نے کفر کیا ہم ضرور ضروران کے اعمال سے انہیں باخبر کر دیں گے اور ہم انہیں ضرور سخت عذاب چکھادیں گے اور جب ہم انسان کو

اَنْعَمْنَا عَلٰی الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَاۤءَ بِجَانِبِهٖ ۚ وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَوَدَّعَاۤءَ عَرِيْضٍ ۝۱۱

نعمت عطا کرنے میں تو وہ اعراض کرتا ہے اور ایک جانب کھڑا ہوتا ہے اور جب اسے تکلیف پہنچ جاتی ہے تو لمبی چوڑی دعاؤں کا ہوتا ہے۔

## انسان کا حُب دنیا اور ناشکری کا مزاج اور وقوع قیامت کا انکار

**تفسیر:** ان آیات میں انسان کا ایک مزاج بیان فرمایا ہے اور وہ یہ کہ انسان برابر اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا کرتا ہے مال بھی مانگتا ہے اور صحت بھی اور دوسری چیزیں بھی جب تک یہ چیزیں پاس رہتی ہیں تو خوب خوش رہتا ہے اور اگر کوئی تکلیف پہنچ جائے مریض ہو جائے تنگ دستی آجائے تو اس پر ناامیدی چھا جاتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ بس اب تو میں مصیبت ہی میں رہوں گا کبھی میری حالت ٹھیک ہونے والی نہیں ہے (یہ ان لوگوں کا حال ہوتا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو نہیں پڑھا اس کے رسول ﷺ کی ہدایات پر عمل نہیں کیا نیک بندوں کی صحبت نہیں اٹھائی)۔

پھر فرمایا کہ اگر ہم انسان کو اپنی رحمت چکھادیں خیر اور عافیت اور مال داری سے نوازدیں اس کے بعد کہ اسے تکلیف پہنچ چکی تھی تو کہتا ہے کہ ہاں مجھے یہ چاہئے اور میں اس کا حق دار ہوں اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ملی اسے اللہ کا فضل نہیں بلکہ اپنے ہنر کا نتیجہ سمجھتا ہے جیسا کہ قارون نے کہا تھا اِنَّمَا اَوْتِنْتُهُ عَلٰی عِلْمٍ عِنْدِي (یہ تو مجھے میرے علم کی وجہ سے دیا گیا) حالت ٹھیک ہوتی ہے اور مال مل جاتا ہے تو انسان قیامت ہی کا منکر ہو جاتا ہے کہتا ہے کہ میرے خیال میں تو قیامت آنے والی نہیں ہے اور اگر بالفرض قیامت آئی گئی اور میں اپنے رب کی طرف لوٹا دیا گیا تو میں وہاں بھی عزت اور کرامت سے نوازا جاؤں گا جیسا کہ دنیا میں مجھے نوازا گیا ہے وہاں بھی میرا حال اچھا ہوگا دنیا میں بھی اچھی حالت کا مستحق ہوں اور آخرت میں بھی یعنی یہ ناشکر انسان یہ نہیں مانتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر فضل فرمایا ہے دنیا اور آخرت میں اچھی حالت میں رہنے کو اپنا ذاتی استحقاق مانتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافروں کو ہم ان کے اعمال سے باخبر کر دیں گے اور بتا دیں گے کہ تم نے غلط سمجھا تھا تم اپنے اعمال کے اعتبار سے عزت اور کرامت کے مستحق نہیں ہو زلت اور اہانت کے مستحق ہو وَلَنُنَبِّئَهُمْ قُرْنٌ عَذَابٍ غَلِيْظٍ (اور ہم انہیں ضرور ضرور سخت عذاب چکھائیں گے) اس وقت جھوٹی باتوں اور جھوٹے دعوؤں کا پتہ چل جائے گا۔

اس کے بعد انسان کے مزاج کی ایک حالت بتائی اور وہ یہ کہ جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں یعنی جب اسے نعمتیں دیتے ہیں تو تکبر کے انداز میں ایک طرف کھڑا ہوتا ہے یعنی وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار نہیں ہوتا یہ مال اور نعمتیں جو موجب شکر تھیں ان کو تکبر کا ذریعہ بنالیتا ہے نعمتوں کے زمانے میں اس کا یہ حال ہوتا ہے اور جب اسے تکلیف پہنچ جاتی ہے تو لمبی چوڑی دعا میں کرنے لگتا ہے انسانوں کا جو حال ان آیات میں بیان فرمایا ہے عموماً مشاہدہ میں آتا رہتا ہے۔

قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنَ عِنْدِ اللّٰهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهٖ مِّنْ اٰثَرٍ مِّنْهُنَّ هُوَ فِیْ شِقَاقٍ بَعِيْدٍ ۝۱۲

آپ فرمادیجئے کہ تم بتاؤ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو پھر تم نے اس کا انکار کیا تو اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو دور کی مخالفت میں پڑ گیا

۱ صاحب روح المعانی فرماتے ہیں دعاؤں کی جو صفت بیان کی گئی ہے اس سے لازم آتا ہے کہ دعاؤں کی بھی ہو کیونکہ دعا طویل جب ہی ہوتی ہے جبکہ وہ چوڑائی سے زیادہ لمبی بھی ہو اور نہ تو طویل نہ ہوگی۔

سُبْحٰنَهُمْ اِيْتَانِي الْاَفَاقُ وَفِيْ اَنْفُسِهِمْ حَتٰى يَتَّبِعْنَ لَهُمْ اَنْزَالُ الْحَقِّ اَوْ لَمْ يَكُنْ بِرَبِّكَ

ہم غریب انہیں آفاق میں اور ان کے نفسوں میں نشانیاں دکھائیں گے یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے کہ بلاشبہ حق ہے کیا آپ کے دہ کی یہ بات کافی نہیں ہے

اِنَّهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝۱۰۱ اَلَا اِنَّهُمْ فِيْ مُّرْيَةٍ مِّنْ لِّقَاۤءِ رَبِّهِمْ اَلَا اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّخِيطٌ ۝۱۰۲

کہ وہ ہر چیز پر شاہد ہے خبردار وہ لوگ اپنے رب کی ملاقات کی طرف سے شک میں ہیں خبردار اس میں شک نہیں کہ وہ ہر چیز کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔

**منکرین کو قرآن حکیم کے بارے میں غور و فکر کی دعوت اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو محیط ہے**

**تفسیر:** سورہ حم سجدہ ختم ہو رہی ہے شروع سورت میں قرآن مجید کی تزیل اور تفصیل بیان فرمائی اور درمیان میں بھی قرآن مجید کی توصیف فرمائی اب آخر میں ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے مخاطبین سے فرمادیجئے کہ تم عقلمندوں کے طریقے پر سوچ لو اور اپنے نفع نقصان کو سمجھ لو یہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے میرا یہ دعویٰ ہے اور دلیل سے ثابت ہو چکا تم اس کے منکر ہو اب تم غور کرو اور سوچ کر بتاؤ کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہوا (یعنی آخرت میں ان کا من عند اللہ ہونا ثابت ہو گیا اور تم اس کا انکار کر بیٹھے تو یہ مخالفت تم پر کس قدر بھاری پڑے گی تم عناد کی وجہ سے آج اس کے منکر ہو رہے ہو اور یہ صریح گمراہی ہے بتاؤ اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے جو حق سے دور ہوتا چلا جائے جو شخص حق سے دور ہو گا وہ آخرت کے عذاب میں مبتلا ہو گا آخرت میں پہنچنے سے پہلے اسی دنیا میں غور کرو اور اپنے انکار کا انجام خود سوچ لو۔ سُبْحٰنَهُمْ اِيْتَانِي الْاَفَاقُ وَفِيْ اَنْفُسِهِمْ (ہم غریب انہیں آفاق میں اور ان کے نفسوں میں نشانیاں دکھائیں گے) آفاق جمع ہے افق کی افق کنارے کو کہتے ہیں اس سے آسمانوں اور زمین کے کنارے چاند سورج ستارے اشجار و انہار مراد ہیں بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے اہم سابقہ کے واقعات مراد ہیں یعنی زمین میں جو سفر کرتے ہیں اور ہلاک شدہ اقوام کے کھنڈروں پر گزرتے ہیں یہ بھی آفاق میں داخل ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق میں دکھا دیں گے اور ان کے نفسوں میں بھی انسانوں کے نفسوں میں جو امراض آتے رہتے ہیں اور حالات بدلتے رہتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں میں سے ہے یہ سب چیزیں سامنے آتی ہیں اور سامنے آتی رہیں گی سمجھ دار انسان کا کام ہے کہ وہ آیات آفاقہ سے بھی عبرت حاصل کر لے اور آیات انفسیہ سے بھی۔

حَتٰى يَتَّبِعْنَ لَهُمْ اَنْزَالُ الْحَقِّ (یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ یہ قرآن حق ہے) قرآن کا حق ہونا سمجھ داروں پر ظاہر ہو گیا ماننا ماننا اور بات ہے دشمن بھی جانتے ہیں گومانے نہیں۔

اَوْ لَمْ يَكُنْ بِرَبِّكَ اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (کیا آپ کے رب کی یہ بات کافی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز پر شاہد ہے) اس نے آپ کی رسالت کی بار بار گواہی دی ہے آپ کے لئے اللہ تعالیٰ کا گواہی دینا کافی ہے آپ ان لوگوں کے انکار اور عناد سے غمگین نہ ہوں۔

اَلَا اِنَّهُمْ (الایۃ) خبردار یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات کی طرف سے شک میں پڑے ہیں انہیں وقوع قیامت کا یقین نہیں اس لئے انکار پر کمر باندھ رکھی ہے لیکن یہ نہ سمجھیں کہ انکی حرکتوں کا اللہ تعالیٰ کو علم نہیں ہے وہ ہر چیز کو اپنے احاطہ علمی میں لئے ہوئے ہے لہذا وہ انکی حرکتوں اور کړتوتوں پر سزا دیگا۔

وهذا اخر ما يسر الله تعالى لنا في تفسير سورة حم السجدة ليلة الثانی والعشرين في محرم الحرام سنة ۱۴۱۸ هـ من هجرة سيد الانام البدر التمام صلى الله تعالى عليه وسلم الى يوم القيام وعلى اله واصحابه البررة الكرام.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورۃ الشوری مکہ معظمہ میں نازل ہوئی اس میں تین آیتیں اور پانچ رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے﴾

حَمْدٌ عَسَقٌ ۝ كَذَلِكَ يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ لَهُ مَا

حَمْدٌ عَسَقٌ ۝ اسی طرح وحی بھیجتا ہے آپ کی طرف اور ان کی طرف جو آپ سے پہلے تھے اللہ جو عزیز ہے حکیم ہے اسی کیلئے ہے جو کچھ

فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۝ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۝ تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ

آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور وہ برتر ہے بڑا ہے کچھ بعید نہیں کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں

وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ ۝ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ

اور فرشتے اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اہل زمین کیلئے مغفرت طلب کرتے ہیں خبردار! اللہ ہی

الرَّحِيمُ ۝ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۝ اللَّهُ حَفِیْظٌ عَلَيْهِمْ ۝ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ۝

مغفرت کرنے والا ہے اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے کارساز تجویز کر رکھے ہیں وہ اللہ کی نگاہ میں ہیں آپ ان کے ذمہ دار نہیں

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا ۝ وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَا

اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف قرآن عربی کی وحی بھیجی تاکہ آپ ام القریٰ اور اس کے آس پاس کے رہنے والوں کو ڈرائیں اور جمع

رَبِّ فِيهِ فَرِیقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِیقٌ فِي السَّعِيرِ ۝ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ۝ وَلَكِنْ

ہونے کے دن سے ڈرائیں جس میں کوئی شک نہیں ایک فریق جنت میں ہوگا اور ایک فریق دوزخ میں اور اگر

يُذْخِلْ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ۝ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝ أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ

اللہ چاہتا ہوں سب کو ایک ہی جماعت بنادیتا اور وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے ظالموں کے لئے کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار کیا ان لوگوں نے اللہ کے

دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۝ قَالَ اللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ ۝ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۝ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

سوا کارساز بنا رکھے ہیں سو اللہ ہی کارساز ہے اور وہ مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

اللہ تعالیٰ عزیز ہے حکیم ہے علی ہے عظیم ہے غفور ہے رحیم ہے

تفسیر: یہ سورۃ الشوری کے پہلے رکوع کا ترجمہ ہے جو سات آیات پر مشتمل ہے ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی

صفات جلیلہ بیان فرمائی ہیں پہلی آیت میں رسول اللہ ﷺ سے خطاب کر کے فرمایا کہ جس طرح یہ سورت اپنے فوائد پر مشتمل ہو کر آپ کی طرف نازل کی جا رہی ہے اسی طرح آپ پر دوسری سورتوں کی بھی وحی کی گئی ہے اور آپ سے پہلے جو حضرت انبیائے کرام علیہم السلام تھے ان پر وحی کی گئی یہ وحی اللہ تعالیٰ نے بھیجی جو عزیز، یعنی زبردست اور غالب ہے اور حکیم یعنی حکمت والا ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اُسی کا ہے اسکی مخلوق بھی ہے اور مملوک بھی ہے وہ برتر ہے اور عظیم الشان ہے تَعَالَى الْمَوْتُ کچھ بعید نہیں کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑیں اس میں مشرکین کی حرکت بد کی شاعت اور قباحت بیان فرمائی ہے کیونکہ آگے مشرکین کے شرک کا ذکر آ رہا ہے اس لئے پہلے ہی اُن کی تردید فرمادی اور یہ ایسا ہی ہے جیسے سورہ مریم میں فرمایا: وَقَالُوا الْمَعْنَى الْإِنْسَانُ وَلَقَدْ جِئْتُم بِشَيْءٍ إِذْ أَكَادَ السَّمَوَاتُ يَنْفَضْنَ مِنْهُ وَتَنْشِقُ الْأَرْضُ وَنَحْنُ بِالْهَالِكِ هَذَا اِنْ دَعَا لِلْإِنْسَانِ وَلَكِنْ (اور کہتے ہیں کہ رَحْمٰنِ اولاد رکھتا ہے یہ تو تم ایسی بھاری بات لائے کہ عجب نہیں آسمان پھٹ پڑیں اس کے باعث اور زمین شقی ہو جائے اور گر پڑیں پھاڑ ٹوٹ کر کہ ثابت کیا رَحْمٰنِ کے لئے (فرزند) آیت کی یہ تفسیر صاحب معالم التنزیل نے اختیار کی کہ بعض دیگر مفسرین نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بہت بڑی کثیر تعداد میں ہیں وہ آسمانوں میں سجدہ کئے ہوئے پڑے ہیں اور بہت سے فرشتے دوسرے کاموں میں لگے ہوئے ہیں ان فرشتوں کا بوجھ اتنا زیادہ ہے کہ اس کی وجہ سے آسمانوں کا پھٹ پڑنا کوئی بعید بات نہیں آیت کا یہ معنی لینا بھی بعید نہیں ہے چونکہ اس کے بعد فرشتوں کی تسبیح و تحمید کا ذکر ہے اس لئے اس کا یہ معنی بھی مرتبط ہوتا ہے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا أَطَّيْتُ السَّمَاءَ وَحَقَّ لَهَا أَنْ قَاطُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا فِيهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعِ إِلَّا وَمَلَكٌ وَاضِعٌ جِهَتَهُ سَاجِدٌ لِلَّهِ. (آسمان پُر پڑ بولتا ہے اور لازم ہے کہ وہ ایسی آوازیں نکالے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے آسمان میں چار انگلی جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں فرشتے نے سجدہ میں اپنی پیشانی نہ رکھ رکھی ہو) (رواہ احمد والترمذی وابن ماجہ کما فی المصنوع ص ۳۵)

اور مِنْ قَوْمِهِمْ جو فرمایا اس کا یہ مطلب ہے کہ آسمان پھٹنا شروع ہوں تو اوپر سے پھٹیں گے پہلے سب سے اوپر والا آسمان پھر اس سے نیچے والا پھر اس سے نیچے والا۔

وَاللَّيْلُ يَسْجُدُ لِلَّهِ يَسْجُدُ رُكُوعًا (اور فرشتے اپنے رب کی تسبیح میں مشغول رہتے ہیں یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی شانِ عالی کے لائق نہیں ان سے اس کی تزیہ اور پاکی بیان کرتے ہیں اور اس کی صفات عالیہ بیان کرتے ہیں جن سے وہ متصف ہے تفسیر قرطبی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ وہ تعجب سے سبحان اللہ کہتے ہیں کہ مشرکین کو کیا ہو گیا وحدہ لا شریک کے ساتھ غیروں کو شریک کرتے ہیں اور خالق جل مجدہ کی ناراضگی اپنے سر لیتے ہیں۔ وَاسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ (اور زمین والوں کے لئے استغفار کرتے ہیں) یعنی اہل ایمان جو دنیا میں بستے ہیں ان کے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔

الْآيَاتِ اللَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (خبردار اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ غفور ہے رحیم ہے) اس کے بعد مشرکین کا تذکرہ فرمایا کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے لئے کار ساز بنائے یعنی یہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا نگران ہے یعنی ان

کے اعمال سے باخبر ہے وہ ان کو سزا دے گا اور آپ کو ان پر کوئی اختیار نہیں دیا گیا اللہ تعالیٰ ہی جب چاہے گا سزا دے دیگا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے آپ کو یہ قرآن وحی کے ذریعہ دیا جو عربی میں ہے تاکہ آپ اُمّ القریٰ یعنی مکہ والوں کو ڈرائیں (جو آپ کے اولین مخاطب ہیں) اور ان لوگوں کو بھی ڈرائیں جو مکہ کے چاروں طرف رہتے ہیں یعنی دیگر اہل عرب ان سب کو کفر کی سزا سے ڈرائیں اور بتادیں کہ اگر ایمان نہ لائیں تو اس کی سخت سزا ہے اور آپ ان سب کو جمع ہونے کے دن سے بھی ڈرائیں اس سے قیامت کا دن مراد ہے جس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں اس دن بندوں کے درمیان فیصلے کئے جائیں گے اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا اس کے فیصلے کو کوئی رد کرنا نہیں پہلے سے اسکا فیصلہ ہے فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ (ایک فریق جنت میں ہوگا اور ایک فریق دوزخ میں ہوگا) یہ اجمالی فیصلہ دنیا میں سنا دیا ہے اور قیامت کے دن ہر فریق کو الگ الگ کر دیا جائے گا اہل ایمان جنت میں اور اہل کفر دوزخ میں چلے جائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَوْ كُنَّا إِلَهُكُمُ (الایہ) یعنی ہر فیصلہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق ہوتا ہے اگر وہ چاہتا تو سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا یعنی سب اہل ایمان ہی ہوتے ہیں وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل فرما دیتا ہے اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ اس دنیا میں اہل ایمان بھی رہیں اور اہل کفر بھی سورۃ الم سجدہ میں فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى مَّا اور اگر ہم چاہتے ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے۔

وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ (اور ظالموں کے لئے کوئی دوست اور مددگار نہ ہوگا) اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت اپنی جگہ ہے لیکن انسانوں کو ہوش اور گوش اختیار دیا ہے اور ایمان و کفر کا فرق بتا دیا ہے اور دونوں کی جزا و سزا بھی بتا دی ہے اس لئے قیامت کے دن اپنے اختیار کو غلط استعمال کرنے کی وجہ سے پڑے جائیں گے کفر و شرک ظلم ہے جب ظلم کی سزا ملے گی تو کوئی بھی حمایتی اور مددگار نہ ملے گا۔

## مشرکین کی تردید

اسکے بعد شرک کا ابطال کیا اور اسکی قباحت بیان فرمائی اور فرمایا أَوَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ ذُوُفُوَّةٍ أُولَیُّاءُ (کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کا رساز بنا لئے) یہ انہوں نے برا کیا فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ (کارساز اللہ ہی ہے) وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى (اور وہ مردوں کو زندہ فرماتا ہے) اس کے سوا کسی کو اسکی قدرت ہی نہیں وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور نہ صرف یہ کہ وہ مردوں کو زندہ فرماتا ہے بلکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے جو قادر مطلق ہے اسے چھوڑ کر کسی دوسرے کو کارساز بنانا حماقت کی بات ہے۔

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ

اور جس کی چیز میں تم اختلاف کرو تو اس کا فیصلہ اللہ ہی کے سپرد ہے وہ اللہ میرا رب ہے میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف رجوع

أُنِيبُ ۝ فَاطْرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ

ہوتا ہوں وہ آسمانوں کا اور زمین کا پیدا فرمانے والا ہے اس میں تمہارے نفسوں میں سے جوڑے بنائے اور مویشیوں میں سے

أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهِ كَيْسَ كَيْشِلهُ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝ لَهُ مَقَالِيدُ

جوڑے بنائے وہ تمہیں مادر رحم میں پیدا فرماتا ہے اس جیسی کوئی چیز بھی نہیں ہے اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے اسی کے اختیار میں ہیں

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۵۰۸﴾

آسمانوں کی اور زمین کی کنجیاں وہ رزق بڑھا دیتا ہے جس کے لئے چاہے اور کم کر دیتا ہے بے شک وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔

## تم جس چیز میں اختلاف کرو اسکا فیصلہ اللہ ہی کی طرف ہے اس نے تمہارے جوڑے پیدا فرمائے

**تفسیر:** ان آیات میں اللہ جل شانہ کی صفات جلیلہ عظیمہ بیان فرمائی ہیں پہلے تو یہ فرمایا کہ تم جن چیزوں میں اختلاف کرتے ہو انہیں اللہ کی طرف لوٹا دو یعنی اس کی کتاب جو فیصلہ دے اسے مان لو اور اسی کے مطابق عمل کرو پھر رسول اللہ ﷺ کو حکم دیا کہ آپ فرمادیں کہ اللہ ہی میرا رب ہے اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں توحید کی دعوت دینے میں تمہاری طرف سے کسی تکلیف کے پہنچ جانے سے میں نہیں ڈرتا۔

مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کا اور زمین کا پیدا فرمانے والا ہے اس کی تخلیق میں کوئی بھی شریک نہیں ہے اور اس نے تم کو بھی پیدا فرمایا ہے تمہاری جانوں سے تمہارے جوڑے بنائے ہیں یعنی حضرت آدمؑ اور حضرت حوا علیہما السلام سے لے کر آج تک جو نسل بعد نسل بنی آدم پیدا ہو رہے ہیں اور جو پیدا ہوں گے ان میں یہ سلسلہ رکھا ہے کہ مرد بھی پیدا فرمائے ہیں اور عورتیں بھی مرد عورتوں کے جوڑے ہیں اور عورتیں مردوں کے اسی طرح اس نے موسیٰوں میں بھی کئی قسمیں پیدا فرمائیں اور ان میں بھی زواہد پیدا کئے جن سے ان کی نسلیں چل رہی ہیں۔

يَذَرُكُمْ فِيهِ (وہ اس تخلیق کے ذریعے تمہاری تکثیر فرماتا ہے) اور اس کی قدرت سے تمہاری نسلیں چلتی ہیں۔

قال القرطبي "أى يخلقكم وينشئكم فيه" أى فى الرحم، وقيل فى البطن، وقال الفراء وابن كيسان "فيه" بمعنى به و كذلك قال الزجاج معنى "يذروكم فيه" يكثر كم به، أى يكثر كم يجعلكم أزواجاً، أى حلالاً، لأنهم سبب النسل، وقيل ان الهاء فى "فيه" للجعل و دل عليه جعل فكانه قال يخلقكم ويكثر كم فى الجعل. (علامہ قرطبیؒ کہتے ہیں یعنی تمہیں پیدا کرتا ہے اور ماں کے رحم میں پرورش دیتا ہے اور بعض نے کہا "فیه" سے مراد ہے پیٹ میں فراء اور ابن کيسان نے کہا ہے "فیه" بہ کے معنی میں ہے اور اسی طرح زجاج کہتے ہیں "يَزِدُّكُمْ فِيهِ" کا معنی ہے تمہیں اس کے ذریعہ بڑھاتا ہے یعنی تمہیں خاوند جوڑے بنا کر بڑھاتا ہے کیونکہ بیویاں نسل کا سبب ہیں بعض نے کہا "فیه" میں "هاء" جعل کے لئے ہے اور جعل اس پر دلالت کرتا ہے گویا کہ فرمایا وہ تمہیں پیدا کرتا ہے اور بنانے میں تمہیں زیادہ کرتا ہے)

## لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ (اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے خالق تعالیٰ شانہ ہی کا وجود حقیقی ہے وہ ہمیشہ سے ہے جس کی کوئی ابتداء نہیں وہ ہمیشہ رہے گا جس کی کوئی انتہا نہیں وہ اپنی ذات اور صفات میں تنہا ہے بے مثال ہے اسکی ذات کی طرح



کوئی ذات نہیں اسکی صفات کی طرح کسی کی صفات نہیں صفات کے اعتبار سے اگر کوئی لفظ کسی کے لئے بول دیا گیا ہے تو وہ محض اشتراک لفظی کے اعتبار سے ہے حقیقت کے اعتبار سے نہیں ہے اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بھی متوحد اور یکتا ہے اور اور اپنی صفات میں بھی متفرد ہے اور اپنے اسماء میں بھی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف تجسیم کرتے ہیں یا اُسکے لئے مکان اور زمان اور جہت تجویز کرتے ہیں اور جو اُسے تشبیہ اور تعطیل سے متصف کرتے ہیں وہ سب گمراہ ہیں خالق شانہ کی توحید کے منکر ہیں خالق اور مخلوق کی صفات میں کوئی مشابہت نہیں۔

قال القرطبی والذی یعتقد فی هذا الباب أن الله جل اسمه فی عظمتہ و کبریائہ و ملکوتہ و حسنی اسمائہ و علی صفاتہ لا یشبه شیئا من مخلوقاته ولا یشبه به فلا تشابه بینہما فی المعنی الحقیقی، اذ صفات القدیم جل و عز بخلاف صفات المخلوق اذ صفاتہم لا تنفک عن الاعراض والاعراض، وهو تعالیٰ منزہ عن ذلك، بل لم یزل باسمائہ و بصفاتہ علی ما بینا ہ فی (الکتاب الاسنی فی شرح اسماء الله الحسنی) و کفی فی هذا قوله الحق: لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ “ وقد قال بعض العلماء المحققین: التوحید اثبات ذات غیر مشبہة للذوات ولا معطلۃ من الصفات وزاد السیوطی رحمہ اللہ بیانا فقال: لیس کذاتہ ذات، ولا کاسمہ اسم، ولا کفعلہ فعل، ولا کصفته صفة الا من جهة موافقة اللفظ، و جلّت الذات القدیمة ان یشبه لہا صفة حدیثہ، کما استحال ان یشبه لہا صفة قدیمۃ (علامہ قرطبی) فرماتے ہیں اس باب میں جو اعتقاد رکھنا چاہئے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام بزرگی والا ہے اپنی عظمت و کبریائی اور مالکیت میں اور اپنے اسماء حسنی میں اور اپنی صفات میں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوقات کے بالکل مشابہ نہیں ہیں اور نہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے مشابہ ہے لہذا حقیقت کے لحاظ دونوں میں کوئی مشابہت نہیں ہے کہ قدیم ذات کی صفات بلند ہیں اور بزرگی والی ہیں بخلاف مخلوق کی صفات کے کیونکہ مخلوق کی صفات تو اغراض اور اعراض سے جدا نہیں ہو سکتیں اور اللہ تعالیٰ اغراض و اعراض سے منزہ ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفات تو قدیم ہیں جیسا کہ ہم نے الکتاب الاسنی فی شرح اسماء الله الحسنی میں بیان کیا ہے اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ کی حق ذات کا یہ ارشاد کافی ہے کہ لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ بعض محققین علماء نے کہا ہے توحید ایسی ذات کے یقین سے مان لینے کا نام ہے کہ جو ذات کی اور ذات کے مشابہ نہیں ہے اور کسی صفت سے معطل ہے۔ علامہ سیوطی نے ایک بیان کا اضافہ کیا ہے کہتے ہیں اللہ کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں ہے نہ اس کے نام جیسا کوئی نام ہے اور نہ اس کے فعل جیسا کوئی فعل ہے اور نہ اس کی صفت جیسی کوئی صفت ہے مگر صرف لفظی موافقت۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بلند ہے کہ اس کوئی صفت نئی پیدا شدہ ہو جیسا کہ یہ محال ہے کہ کسی فانی ذات کی کوئی قدیم صفت ہو یہ اہل حق اہل السنۃ و الجماعۃ کا مذہب ہے)

وَهُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ (اور وہ سنے والا ہے دیکھنے والا ہے وہ ہر بات کو سنتا ہے ہر چیز کو دیکھتا ہے)

## اللہ ہی کے لئے آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں

آسمانوں کی اور زمین کی کنجیاں یعنی سارے خزانوں کا وہی مالک ہے یَبْذُلُ الرِّزْقَ لِمَن یَّشَاءُ وَ یَعْدُوہ پھیلا دیتا ہے رزق جس کے لئے چاہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لئے چاہے إِنَّہ یُحْکِمُ شَیْءٌ عَلَیْہُمْ بے شک وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔

شَرَعْنَا لَكَ مِنَ الدِّينِ مَا وَطَّيْ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ

اللہ نے تمہارے لئے وہی دین شروع فرمایا ہے جس کی اس نے نوح کو وصیت فرمائی اور جس کو ہم نے آپ کی طرف وحی کے ذریعے بھیجا اور ہم نے جس کی وصیت کی ابراہیم کو

وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ

اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو کہ تم دین کو قائم کرو اس میں تفرقہ نہ ڈالو! مشرکین کو وہ بات گراں گزرتی ہے جس کی طرف آپ انہیں بلاتے ہیں اور

اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ۚ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ

اللہ جسے چاہتا ہے اسے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور جو شخص رجوع کرتا ہے اسے اپنی طرف سے ہدایت دے دیتا ہے اور یہ لوگ تفرق نہیں ہوئے مگر خداوندی میں اس کے بعد ان کے

الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى لَفَقَضَىٰ بَيْنَهُمْ

پاس علم آگیا اور اگر آپ کے رب کی طرف سے وقت معین تک ایک بات پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا

وَلَئِكَ الَّذِينَ أَوْثَرُوا الثَّكُوبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَقَدْ شَقَّ مِنْهُ مَرْيَبٌ ۝

اور بلاشبہ ان کے بعد جنہیں کتاب دی گئی وہ اس کی طرف سے شک میں پڑے ہیں جو تود میں ڈالنے والا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے وہی دین مشروع فرمایا ہے  
جس کی وصیت فرمائی نوح اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کو

تفسیر: اللہ تعالیٰ کی توحید اور فرمانبرداری اور اس کے رسولوں اور کتابوں اور فرشتوں اور قیامت کے دن پر اور تقدیر

پر ایمان لانا یہ اصل دین ہے اور یہی تمام انبیائے کرام علیہم السلام کا دین ہے ان امور پر متفق ہوتے ہوئے مسائل فرعیہ متعلقہ عبادات اور معاشرت وغیرہ میں اختلاف رہا ہے اس بات کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہارے لئے اسی دین کو مشروع یعنی مقرر فرمایا جس کی نوح کو وصیت کی اور ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو وصیت کی اور یہی دین آپ ﷺ کی طرف وحی کے ذریعے بھیجا اسی دین پر قائم رہو اسی دین کی انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام دعوت دیتے رہے حتیٰ کہ آخر الانبیاء محمد رسول ﷺ کی تشریف آوری ہوئی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین کا مل عطا فرمادیا ہے جو عقائد کے اعتبار سے ان بنیادی عقائد پر مشتمل ہوتے ہوئے جو انبیائے سابقین علیہم السلام کے تھے انسانی زندگی کے ہر شعبہ کے احکام و اخلاق و آداب پر مشتمل ہے۔

اَنْ اَقِيْمُوا الدِّينَ کے ساتھ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ بھی فرمایا جس کا معنی یہ ہے کہ دین کو قائم رکھو اس کو ترک مت کرو اس میں تبدیلی نہ کرو ایسا نہ کرو کہ کسی بات پر ایمان لائے کسی پر نہ لائے اور کسی بات کو مانا کسی کو نہ مانا اور (بنی اسرائیل ایسا کیا کرتے تھے جنہیں تنبیہ فرمائی تھی اَفْتَوْهُمْ نُونًا بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ)



آچکا ہوتا) اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اجل کسی سے دنیا میں عذاب بھی آگیا کما کان فی سدر  
وَلَئِنَّ الَّذِينَ أُوذُوا لَكُنْتُ لَهُمْ غَلِيظًا مِّنْ رَبِّهِمْ (اور بلاشبہ جن لوگوں کو ان کے بعد کتاب دی گئی وہ شک میں پڑے  
ہوئے ہیں جو تر د میں ڈالنے والا ہے علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ اس سے یہود و نصاریٰ مراد ہیں جنہیں ان لوگوں کے بعد کتاب دی گئی  
جو حق میں ان سے پہلے اختلاف کر چکے تھے اور ایک قول یہ ہے کہ اُوذُوا لَكُنْتُ سے قریش مراد ہیں جن کے پاس قرآن مجید آیا اور  
مِنْ رَبِّهِمْ سے یہود و نصاریٰ مراد ہیں اور منہ کی ضمیر قرآن کریم کی طرف یا محمد رسول اللہ ﷺ کی طرف راجع ہے۔

فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ

سو آپ اس کی طرف بلائیے اور جیسا آپ کا حکم ہوا ہے مستقیم رہیے اور ان کی خواہشوں کا اتباع نہ کیجئے اور آپ فرمائیے کہ اللہ نے جو کتابیں نازل فرمائیں میں ان پر ایمان لایا

وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْوَاحِدُ أَعْمَالُنَا وَأَعْمَالُكُمْ لَا حِجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ

اور مجھے حکم دیا گیا کہ تمہارے درمیان عدل رکھوں اللہ ہمارے اور تمہارا رب ہے ہمارے لئے ہمارے اعمال اور تمہارے لئے تمہارے اعمال میں تمہارے درمیان کوئی حجت باقی نہیں

اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَاللَّهُ الْمَصِيرُ وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتَجِيبَ لَهُ

اللہ ہمیں اور تمہیں جمع فرمائے گا اور اسی کی طرف جانا ہے اور جو لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں اس کے بعد کہ اس کی دعوت کو مان لیا گیا ہے

لَهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۝ اللَّهُ الَّذِي أَنزَلَ

جنت ان کے رب کے نزدیک باطل ہے اور ان پر غضب اور ان کے لئے سخت عذاب ہے اللہ وہی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب کو اور میزان کو نازل فرمایا

الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْبَيِّنَاتِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ۝ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

اور آپ کو کیا پتہ ہے جب نہیں کہ قیامت قریب ہو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ اس کے جلدی آنے کا تقاضا کرتے ہیں اور جو لوگ ایمان لاتے

بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ ۝ إِلَّا الَّذِينَ يُسَارِفُونَ فِي

وہ اس سے ڈرتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے خبردار اس میں شک نہیں کہ جو لوگ قیامت کے بارے میں شک کرتے ہیں وہ دور کی

السَّاعَةَ لَئِنْ ضَلَّ لَبِيعُ ۝ اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ۝

گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں اللہ بندوں پر مہربان ہے وہ رزق دیتا ہے جسے چاہے اور وہ قوی ہے عزیز ہے۔

## استقامت اور عدل کا حکم، کافروں سے برأت کا اعلان

تفسیر: اور جس دین کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اسکی نوح اور ابراہیم اور موسیٰ علیہم الصلوٰۃ والسلام کو وصیت کی اور آپ کی طرف اسکی وحی بھیجی اسی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ آپ اسی کی طرف دعوت دیتے رہیں اور آپ کو جس طرح حکم دیا گیا ہے اسی طرح مستقیم رہیں اور مشرکین کی خواہشوں کا اتباع نہ کریں انہیں آپ کا دین ناگوار ہے اور یہ بھی ناگوار ہے کہ آپ انہیں دین توحید کی دعوت دیں اگر آپ کی دعوت میں ذرا سی بھی چلک آگئی اور انکی کسی بات کو مان لیا

تو استقامت ہاتھ سے جاتی رہے گی۔

مزید فرمایا کہ آپ ان کو بتادیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی کتابیں نازل فرمائیں ہیں سب پر ایمان لاتا ہوں جن میں قرآن مجید بھی ہے اور ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ تم سے کوئی بات کہوں اور خود عمل نہ کروں اور تمہیں تکلیف میں ڈالوں اور خود آزار دہوں لہذا تم میری بات مانو اسے وَأَمْرٌ لِلْعَدْلِ بَيْنَكُمْ فِي مِثْلِهِ مِثْلُهُ میں بیان فرمایا:

اللَّهُ لَكُمْ وَرَبُّكُمْ اللَّهُ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے جب سب اُسی کے بندے ہیں تو لازم ہے کہ سب ایمان لائیں اور اس کے بھیجے ہوئے دین کا اتباع کریں گے اگر تم نہیں مانتے تو دیکھ لو سامنے آخرت کا دن بھی ہے سب اپنے اپنے اعمال لے کر حاضر ہوں گے ہمیں جو کچھ پیغام پہنچانا تھا پہنچا دیا ہمارا کام پورا ہو گیا اب ہمارے تمہارے درمیان کوئی حجت بازی نہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمع فرمائے گا اسی کی طرف سب کو لوٹنا ہے وہ اصحاب تو حید کو جزا دے گا اور اصحاب شرک کو سزا دے گا ہم اظہار حق اور دعوت تو حید کے سوا کیا کر سکتے ہیں نہ مانے کا وبال تمہیں پر پڑے گا۔

## معاندین کی دلیل باطل ہے

وَالَّذِينَ يُخَافُونَ فِي اللَّهِ (الآیات) اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتے ہیں یعنی اس کے بھیجے ہوئے دین کو قبول کرنے میں حجت بازی کر رہے ہیں حالانکہ بہت سے عقل و فہم والے لوگوں نے اسے مان لیا ہے ان جھگڑا کرنے والوں کی دلیلیں باطل ہیں ان کی کوئی دلیل ایسی نہیں جو تو حید کے خلاف عقیدہ رکھنے کو ثابت کر دے اگرچہ وہ اپنی جہالت سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دلیل کام دینے والی ہے لیکن جب بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوں گے تو اس وقت پتہ چل جائے گا کہ انکی دلیل باطل تھی اس باطل پر بھروسہ کئے رہے اور دنیا میں کفر و شرک پر جے رہے اللہ تعالیٰ کا اُن پر بڑا غصہ ہے اور قیامت کے دن سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے۔

مِنْ بَعْدُ مَا أُنْزِلَتْ لَكُمْ میں یہ بتایا کہ اللہ کے نبی نے جو تو حید کی دعوت دی بہت سے لوگوں نے اُسے قبول کیا آپ کے معجزات دیکھ کر نرین اسلام میں داخل ہو گئے معاندین کو بھی غور کرنا چاہیے کہ جن لوگوں نے تو حید کی دعوت قبول کر لی ہے کوئی دیوانے تو نہیں ہیں یہ بھی تو سمجھدار ہیں ہم ہی کو ضد کرنے کی کیا ضرورت ہے، قال فی معالم التنزیل ای استجاب له الناس فاسلموا ودخلوا فی دینہ لظہور معجزتہ۔

## اللہ تعالیٰ نے کتاب کو میزان کو نازل فرمایا

اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ اللہ وہی ہے جس نے حق کے ساتھ کتابیں نازل فرمائیں اور میزان کو نازل فرمایا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور اکثر مفسرین نے فرمایا کہ میزان سے عدل و انصاف مراد ہے کیوں کہ میزان یعنی ترازو عدل و انصاف کا آلہ ہے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے جزا و سزا مراد ہے یعنی طاعت پر جو ثواب ملے گا اور معصیت پر جو عذاب ہوگا اسے میزان سے تعبیر فرمایا اور بعض حضرات نے فرمایا کہ میزان سے ترازو ہی مراد ہے کیونکہ اس کے ذریعے وزن کیا جاتا ہے اور کمی بیشی کا پتہ چلایا جاتا ہے۔

## عجب نہیں کہ قیامت قریب ہو

وَمَا يُذِيرُكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ اور آپ کو کیا خبر عجب نہیں کہ قیامت قریب ہو اس میں بظاہر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خطاب ہے لیکن واقعی طور پر ہر مکلف اس کا مخاطب ہے ہر شخص فکر مند ہو کہ قیامت آنے پر میرا کیا بنے گا عقائد اور اعمال کا حساب ہوگا تو میں کن لوگوں میں ہوں گا قیامت کی تاریخ نہیں بتائی گئی ہو سکتا ہے کہ عنقریب ہی واقع ہو جائے لہذا ہر وقت فکر مند ہونا چاہیے۔

يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا جُولُوكِ قِيَامَتِ پر ایمان نہیں لاتے وہ قیامت آنے کی جلدی چاہتے ہیں چونکہ اس کے آنے کا یقین نہیں ہے اس لئے بار بار یوں کہتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں آ جاتی جلدی آ جانی چاہئے وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ (اور جو لوگ ایمان لائے وہ وقوع قیامت سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ حق ہے) إِلَّا الَّذِينَ يُبَاذِلُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ خبردار جو لوگ شک کرتے ہیں قیامت کے بارے میں وہ دور کی گمراہی میں ہیں دلائل کے قائم ہو جانے کے باوجود بھی انکار پر اصرار کرتے ہیں۔

## اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے

اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ (اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے وہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور وہ قوی ہے عزیز ہے اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے وہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے نیک بندوں کو بھی کھلاتا ہے اور کفار و فجار کو بھی کھانے کی چیزیں دیتا ہے کفر اور معصیت کی وجہ سے وہ اپنا رزق نہیں روکتا مہربانی کی یہ ایک صورت ہے اور اس کے علاوہ اس کی بہت سی مہربانیاں ہیں دنیا میں بھی ان کا مظاہرہ ہوتا رہتا ہے اور آخرت میں بھی اس کی مہربانی کا مظاہرہ ہوگا علامہ قرطبی نے لطیف کی تشریح کرتے ہوئے آٹھ دس معانی لکھے ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ وہ تھوڑے عمل پر بہت زیادہ ثواب دیتا ہے اور ایک یہ ہے کہ اس نے طاقت سے زیادہ اعمال کا مکلف نہیں بنایا اور ایک یہ ہے کہ وہ سوال رد نہیں فرماتا اور امیدوار کو ناامید نہیں کرتا۔

وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ (وہ قوی بھی ہے اور عزیز ہے) اس کی مہربانی اور داد و بخشش کو کوئی نہیں روک سکتا۔

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا

جو شخص آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے ہم اس کے لئے اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے اور جو شخص دنیا کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے ہم اس میں سے اسے دے دیں گے

وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ

اور آخرت میں اس کے لئے کوئی بھی حصہ نہیں۔

## طالب آخرت کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اضافہ ہوگا اور طالب دنیا کو آخرت میں کچھ نہ ملے گا

**تفسیر:** اس آیت کریمہ میں آخرت کے طلب گاروں اور دنیا داروں کی نیّتوں کا اور اعمال کا اور ان کا جو بدلہ ملے گا اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے یعنی دنیا میں ایمان سے متصف ہے۔ اور اعمال صالحہ میں لگا رہتا ہے۔ اور وہ چاہتا ہے کہ میرے ان اعمال کا آخرت میں ثواب دیا جائے اللہ تعالیٰ اُسے بہت زیادہ ثواب دے گا ایک نیکی کی کم از کم دس نیکیاں تو لکھی ہی جاتی ہیں اور ایک نیکی کا عوض سات سو گناہ دینے کا قرآن مجید میں ذکر ہے کَثُرَتْ حَبَّتُهُ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ سات سو گنا ثواب بتانے کے بعد وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ بھی فرمادیا حضرات علمائے کرام نے اس سے یہ ثابت کیا ہے کہ نیکیوں میں اضافہ ہونا اور بڑھا چڑھا کر ان کا ثواب ملنا کوئی سات سو پر منحصر نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ دے گا جس کی تفصیلات احادیث شریفہ میں وارد ہوئی ہیں علم و عمل پھیلانے والوں اور دین کا چرچا کرنے والوں اور اعمال صالحہ کو آگے بڑھانے والوں کا ثواب تو بہت ہی زیادہ ہے جب تک معلمین و مبلغین کے بتائے ہوئے اعمال اور پڑھائے ہوئے امور کے مطابق لوگ عمل کرتے رہیں گے ان حضرات کو ان کے عمل کا بھی ثواب ملتا رہے گا اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں سے کچھ بھی کی نہ ہوگی جس طرح دانہ ڈالنے کے بعد کھیتی بڑھتی ہے اور ایک دانہ بونے سے بہت سے دانے حاصل ہو جاتے ہیں اسی طرح آخرت کے اعمال میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے اسی لئے آخرت کے لئے عمل کرنے والوں کے عمل کو آخرت کی کھیتی سے تعبیر فرمایا پھر فرمایا کہ جو لوگ دنیا کے طالب ہیں دنیا ہی کو چاہتے ہیں اسی کے لئے عمل کرتے ہیں ہم انہیں دنیا میں سے کچھ دے دیں گے جتنا وہ چاہتے ہیں اتنا دیں یا اس سے کم و بیش دیں بہر حال جو کچھ ملے گا تھوڑا ہی ہوگا آخرت کے اجر و ثواب کے مقابلے میں تو کسی دنیا دار کا بڑے سے بڑا حصہ پانسنگ کے درجہ میں بھی نہیں آ سکتا جتنی بھی دنیا مل جائے تھوڑی ہی ہوگی اور یہ بھی ضروری نہیں کہ طالب دنیا کو دنیا مل ہی جائے جو کچھ ملے گا اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے اور چونکہ اصلی دنیا دار مومن نہیں ہوئے اس لئے آخرت میں انہیں کچھ بھی نہیں ملنا سورۃ الاسراء آیت کی تصریح اور تشریح دوبارہ پڑھ لیں ارشاد فرمایا: مَنْ كَانَ يُؤَيِّدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُوَيِّدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَنْ مَدَّ مُؤْمِنًا مَدَّ حُورًا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَكُفُّ عَنْ سَعْيِهَا ثُمَّ لَنَا مَا وَلَدْنَا (جو شخص دنیا کی نیت رکھے گا ہم ایسے شخص کو دنیا میں جتنا چاہیں گے جس کے لئے چاہیں گے دے دیں گے پھر ہم اس کے لئے جہنم تجویز کریں گے وہ اس میں بد حال راندا ہوا داخل ہوگا اور جو شخص آخرت کی نیت رکھے گا اور اس کے لئے کوشش کرے گا جیسی کوشش اس کے لئے ہونی چاہئے اور وہ مومن بھی ہوگا سو یہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر دانی کی جائے گی۔

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُتْنَىٰ

کیا ان کے لئے شرکاء ہیں جنہوں نے ان کے لئے دین میں وہ چیزیں شروع کر دی ہیں جن کی اللہ نے اجازت نہیں دی اگر فیصلہ کی بات ملے شہد نہ ہوتی تو ان کے درمیان



بَيْنَهُمْ وَالْظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ

فیصلہ کر دیا جاتا اور بلاشبہ ظالموں کے لئے دردناک عذاب ہے آپ ظالموں کو دیکھیں گے کہ وہ اپنے اعمال کی وجہ سے ڈر رہے ہوں گے حالانکہ وہ ان پر

وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَةٍ أُنْجِنَتْ لَهُمْ قَائِمَاتُ وَنَعْدُ

واقع ہو کر رہے گا اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے وہ جنتوں کے باغیچوں میں ہوں گے وہ جو کچھ چاہیں گے ان کے لئے ان کے

لَهُمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ۝ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

رب کے پاس وہ سب کچھ ہوگا یہ بڑا فضل ہے۔ یہ وہی ہے جس کی بشارت اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کئے

قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حَسَنًا

آپ فرمائیے کہ میں اس پر تم سے کسی عوض کا سوال نہیں کرتا بجز رشتہ داری کی محبت کے کلمہ جو کوئی شخص کوئی نیک کرے گا ہم اس کے لئے اس میں زیادہ خوبی کریں گے

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمْ

اور بلاشبہ اللہ بخشنے والا ہے قدرت دان ہے کیا وہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے سو اگر اللہ چاہے آپ کے دل

عَلَىٰ قَلْبِكَ وَيَسْخُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحَقِّقُ الْحَقَّ يَكْفُلْهُ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝

پر مہر لگا دے اور اللہ باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو اپنے کلمات کے ذریعہ ثابت کرتا ہے بلاشبہ وہ سینوں کی چیزوں کا جاننے والا ہے۔

قیامت کے دن ظالم لوگ اپنے اعمال بد کی وجہ سے ڈر رہے ہونگے

اور اہل ایمان اعمال صالحہ والے جنتوں کے باغیچوں میں ہونگے

تفسیر: اوپر تین آیات کا ترجمہ لکھا گیا ہے پہلی آیت میں مشرکین کو تنبیہ فرمائی ہے کہ جنہوں نے اللہ کے لئے

شریک تجویز کر رکھے ہیں کیا انہوں نے ان آیات کے لئے ایسے دینی احکام شروع و مقرر کئے ہیں جنکی اللہ نے اجازت نہ

دی ہو؟ یہ استفہام انکاری ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا ایسا کوئی نہیں جو مخلوق کے لئے کوئی دین شروع و مقرر کر دے نہ

کوئی ایسا کر سکتا ہے اور نہ کسی کو اس کا حق ہے اللہ تعالیٰ ہی کو اس کا حق ہے کہ اپنی مخلوق کے لئے دین شروع فرمائے جب

ان بنائے ہوئے شریکوں میں سے کسی نے ان کیلئے دین شروع نہیں کیا تو ان کی عبادت کرنا حماقت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟

مشرکین پر لازم ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اسے وحدہ لا شریک جانیں۔

ان لوگوں نے شرک اختیار کر کے اپنی جانوں کو عذاب کا مستحق بنا دیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے طے فرمادیا ہے کہ عذاب

دنیا میں فلاں وقت ہوگا اور آخرت میں ضرور ہوگا اگر یہ فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو ان کو دنیا میں ابھی عذاب دے دیا جاتا عذاب

کی تاخیر سے خوش نہ ہوں خوب سمجھ لیں کہ ظالموں کے لئے دردناک عذاب ہے جس میں ضرور ہی مبتلا ہوں گے۔

دوسری آیت میں فرمایا کہ ایک وہ وقت بھی آنے والا ہے یعنی قیامت کا دن (جب ظالمین یعنی مشرکین اور کافرین

اپنی کرتوتوں کی وجہ سے عذاب سے ڈر رہے ہوں گے لیکن یہ ڈرنا کچھ مفید نہیں ہوگا ان پر عذاب ضرور واقع ہو کر رہے گا اور ال ایمان اعمال صالحہ والے بہشتوں کے باغوں میں نعمتوں میں مشغول ہوں گے وہاں جو کچھ چاہیں گے ان کے پاس ان کے لئے موجود ہوگا یہ جنتوں کا داخلہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے (یہ دنیا کی چہل پہل اس کے سامنے کچھ بھی نہیں) تیسری آیت میں اول تو مومنین اعمال صالحہ والوں کی فضیلت بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بشارت دیتا ہے کہ ان کو ایسی نعمتیں ملیں گی۔

## دعوت و تبلیغ کے عوض تم سے کچھ طلب نہیں کرتا

اس کے بعد فرمایا قُلْ لَا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اَلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبٰی (آپ فرمادیتے تھے کہ میں اس پر تم سے کسی عوض کا سوال نہیں کرتا بجز رشتہ داری کی محبت کے) اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جو کچھ تمہیں توحید کی دعوت دیتا ہوں اور ایمان لانے کی باتیں کرتا ہوں میری یہ محنت اور کوشش صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ہے میں تم سے کچھ بھی نہیں چاہتا ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ میری تمہاری رشتہ داریاں ہیں رشتہ داری کے اصول پر جو تمہاری ذمہ داری ہے اسے پوری کرو صلہ رحمی کو سامنے رکھ کر مجھے تکلیف نہ پہنچاؤ تو یہ دوسری بات ہے فہو استثناء منقطع و لیس بمتصل حتی تكون المودة فی القربی اجراً فی مقابلة اداء رسالۃ۔

رشتہ داری کے اصول پر تم میرے حق کو پہچانو اور ایذا رسانی سے باز آؤ تم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان بھی نہیں لاتے اور رشتہ داری کا بھی خیال نہیں کرتے ایذا رسانی پر تلے ہوئے ہو یہ تو عربوں کی روایت کے بھی خلاف ہے۔

اَلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبٰی کا ایک مطلب معالم التنزیل میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ نقل کیا ہے کہ میرا تم سے بس یہی سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرو اور اس کی فرمانبرداری کرو عمل صالح اختیار کر کے اس کی دوستی کی طرف بڑھتے رہو (جب ایسا کرو گے تو میرا اجر بھی چند در چند ہو کر مجھے ملے گا اور تم لوگ بھی اللہ کی رحمت کے مستحق ہو گے) وَمَنْ يَّقْرِضْ حَسَنَةً يُؤْذِلْهَا فِيهَا حَسَنًا (اور جو کوئی شخص کوئی نیکی کرے گا ہم اس کے لئے اس میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے) یعنی اسے دو چند کر کے اس کا ثواب بڑھا دیں گے۔

اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (بلاشبہ اللہ بخشنے والا ہے قدر دان ہے) لہذا گناہوں سے توبہ کرو اور نیکیوں میں لگ جاؤ اور خوب زیادہ ثواب پاؤ۔

## قرآن کو افتراء علی اللہ بتانے والوں کی تردید

چوتھی آیت میں ارشاد فرمایا اَمْ يَقُولُونَ افْتَرٰی عَلٰی اللّٰهِ كَذِبًا (کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے یہ استفہام تقریری ہے یعنی یہ لوگ ایسا کہتے ہیں اس کے جواب میں فرمایا اِنْ يَشَاۤءُ اللّٰهُ يَخْتِمْ عَلٰی قَلْبِكَ (سوا اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر بند لگا دے) یعنی آپ کو قرآن بھلا دے (لیکن وہ آپ پر برابر قرآن نازل فرما رہا ہے جو رحمتیں ابتدائے نبوت سے جاری تھیں وہ اب بھی جاری ہیں لہذا ان لوگوں کے قول سے رنجیدہ نہ ہوں آپ پر برابر وحی

آتی رہنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ لوگ اپنی اس بات میں جھوٹے ہیں کہ آپ نے اللہ پر جھوٹ بولا ہے۔  
 وَيَسْمَعُ اللَّهُ الْبَاطِلَ اور اللہ تعالیٰ باطل کو مٹا دیتا ہے لہذا وہ ان کی باتوں کو مٹا دے گا و یحق الحق بحکماۃ اور وہ حق کو اپنے کلمات کے ذریعے غالب کر دیتا ہے (لہذا وہ اپنے دین حق کو کلمات کے ذریعہ ثابت فرما دیگا۔  
 اِنَّا عَلَيْنَا بِذَاتِ الصُّدُورِ (بلاشبہ اللہ سینوں کی باتوں کو جاننے والا ہے) (اگر کسی نے کوئی اچھی یا بُری بات سینہ میں چھپا کر رکھی تو اللہ تعالیٰ اس کی جزا و سزا دیدے گا)

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ۝
اور وہ ایسا ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور برائیوں کو معاف فرماتا ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو
وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ۝ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ
اور جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کئے اور ان کی دعا قبول فرماتا ہے اور اپنے فضل سے انکے اعمال میں اضافہ فرماتا ہے اور جو کافر ہیں ان کیلئے
عَذَابٌ شَدِيدٌ ۝ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنْزِلُ
سخت عذاب ہے اور اگر اللہ اپنے بندوں کیلئے روزی فراخ کر دے تو وہ زمین میں بغاوت کرنے لگیں اور لیکن وہ نازل فرماتا ہے ایک اندازہ
يَقْدِرُ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ۝ وَهُوَ الَّذِي يُنْزِلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا
کیسا تم جو وہ چاہتا ہے بلاشبہ وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے دیکھنے والا ہے اور وہ ایسا ہے جو لوگوں کے ناامید ہونے کے بعد بارش برساتا ہے
وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ۝
اور اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے اور وہ ولی ہے مستحق حمد ہے۔

اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے اور تمہارے اعمال کو جانتا ہے  
 اپنی مشیت کے مطابق رزق نازل فرماتا ہے اور جب  
 ناامید ہو جائیں بارش برساتا ہے

تفسیر: ان آیات میں اللہ تعالیٰ شانہ کی صفات جلیلہ اور نعمہائے عظیمہ بیان فرمائی ہے اول تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں کو معاف فرماتا ہے دوم یہ فرمایا کہ تم جو بھی کچھ عمل کرتے ہو وہ اسے جانتا ہے (اسے سچی توبہ کا بھی علم ہے اور صرف زبانی توبہ کو بھی جانتا ہے) سوم یہ فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے (نیک اعمال میں یہ بھی داخل ہے کہ دعا کرنے والا حرام روزی سے بچتا ہو) چہارم یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اہل ایمان کے اعمال میں اضافہ فرماتا یعنی مختصر سے عمل کا بہت زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے

اور ایک عمل کو کئی گنا کر کے خوب بڑھا چڑھا کر ثواب عطا فرماتا ہے۔ پنجم یہ فرمایا کہ کافروں کے لئے سخت عذاب ہے (وہ دنیا کی زندگی سے دھوکہ نہ کھائیں اور آخرت کے عذاب سے ڈریں) ششم یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مشیت سے خاص اندازہ کے مطابق رزق عطا فرماتا ہے اگر وہ بندوں کے لئے رزق کو پھیلا دے یعنی بہت زیادہ دے دے اور کبھی کو بہت زیادہ مال مل جائے (تو زمین میں بغاوت کرنے لگیں لیکن وہ ایسا نہیں کرتا) کچھ لوگ زیادہ پیسے والے ہیں کچھ کم پیسے والے ہیں کچھ فقیر ہیں اور مسکین ہیں سب کو اس نے اپنی حکمت کے مطابق پیدا فرمایا ہے اور ہر ایک کو اپنی حکمت کے مطابق موجودہ حال میں رکھا ہے وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھتا ہے ہفتم یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے لئے اس وقت بارش برساتا ہے جب وہ ناامید ہو چکے ہوتے ہیں وہ بارش بھی برساتا ہے رحمت بھی پھیلاتا ہے بارش میں دیر ہوتی ہے تو بندے ناامید ہو جاتے ہیں اور جب بارش ہو جاتی ہے تو خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت پھیل جاتی ہے اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں ہشتم دو عظیم صفات بتاتے ہوئے فرمایا **وَهُوَ الْكَافُّ** (اللہ تعالیٰ ولی ہے کارساز ہے) مخلوق کی حاجتیں پوری فرماتا ہے اور اس کے سارے افعال لائق ستائش ہیں وہ بہر حال تعریف کا مستحق ہے۔

**وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ دَابَّةٍ وَّهُوَ عَلَىٰ**

اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں کا اور زمین کا پیدا کرنا اور ان جانوروں کا پیدا کرنا جو اس نے ان دونوں میں پھیلا دیئے ہیں اور وہ ان کے

**جَمْعِهِمْ اِذَا شَاءَ قَدِيْرٌ وَّ مَا اَصَابَكُمْ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فَمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا**

جمع کرنے پر جب چاہے قادر ہے اور تمہیں جو بھی کوئی مصیبت پہنچ جائے سو وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے اور وہ بہت کچھ معاف

**عَنْ كَثِيْرٍ وَّ مَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ فِي الْاَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّ لَا**

فرما دیتا ہے اور تم زمین میں عاجز بنانے والے نہیں ہو اور تمہارے لئے اللہ کے سوا کوئی ولی اور

**نَصِيْرٌ ۝ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ ۝ اِنْ يَشَآءِ يُسْكِنِ الرِّيْحَ فَيُظْلِلْنَ**

مددگار نہیں ہے اور اس کی نشانیوں میں سے کشتیاں ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح ہیں اگر وہ چاہے تو ہوا کو روک دے سو یہ کشتیاں سمندر کی

**رَوَآكِدَ عَلٰی ظَهْرٍ اِنْ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ۝ اَوْ يُوقِفْهُنَّ بِمَا كَسَبْنَ**

پشت پر رکھ دے گا ان میں بلاشبہ اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے شکر کرنے والے کیلئے یادہ انہیں کے اعمال کی وجہ سے ہلاک فرما دے

**وَيَعْفُ عَنْ كَثِيْرٍ ۝ وَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْ اٰيٰتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ حٰجِصٍ ۝**

اور بہت سوں کو معاف کر دے اور وہ ان لوگوں کو جانتا ہے جو ہماری آیات میں جھگڑتے ہیں ان کیلئے کوئی بھی بچنے کی جگہ نہیں ہے۔

**آسمان وزمین اور چوپایوں کی تخلیق میں اللہ کی نشانیاں ہیں**

**تفسیر:** ان آیات میں اللہ تعالیٰ شانہ کی شانِ تخلیق اور شانِ ربوبیت بیان فرمائی ہے ارشاد فرمایا کہ انسانوں کا

اور زمین کا پیدا فرمانا اور ان کے اندر جو جاندار چیزیں پیدا فرمائی اور پھیلائی ہیں ان کو وجود بخشنا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی نشانیوں میں سے ہے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ یہ مخلوق جو آسمانوں میں اور زمین میں پھیلی ہوئی ہے کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ ان کو جمع کرنا کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کو جمع کرنا اللہ تعالیٰ کے لئے بہت آسان ہے اسے اس پر قدرت ہے کہ ان سب کو جمع فرما دے اور قیامت کے دن ایسا ہوگا۔

## جو بھی کوئی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے

پھر فرمایا کہ میں سے جس کسی کو جو بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے پہنچ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہر گناہ پر تکلیف نہیں بھیجتا اگر ہر گناہ کی وجہ سے مصیبت بھیجی جائے تو ہو سکتا ہے کہ آرام و راحت کا نمبر ہی نہ آئے بہت سے گناہوں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرماتا ہے لہذا ان کی وجہ سے کوئی مصیبت نہیں آتی۔

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی بندہ کو کوئی ذرا سی تکلیف یا بڑی تکلیف پہنچ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہر گناہ پر تکلیف نہیں بھیجتا اگر ہر گناہ کی وجہ سے مصیبت بھیجی جائے تو ہو سکتا ہے کہ آرام و راحت کا نمبر ہی نہ آئے بہت سے گناہوں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرماتا ہے لہذا ان کی وجہ سے کوئی مصیبت نہیں آتی۔

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی بندہ کو کوئی ذرا سی تکلیف یا بڑی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو وہ گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جن گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے وہ ان گناہوں سے زیادہ ہوتے ہیں جن پر مواخذہ ہوتا ہے۔

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ مومن مرد اور مومن عورت کو جان و مال اور اولاد میں تکلیف پہنچتی رہتی ہے یہاں تک کہ جب وہ (قیامت کے دن) اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تو اس کا کوئی گناہ بھی باقی نہ ہوگا۔

معلوم ہوا کہ اہل ایمان پر جو تکلیفیں آتی ہیں ان سے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں اور یہ بہت بڑا فائدہ ہے کیونکہ آخرت میں گناہوں پر جو عذاب ہے وہ بہت سخت ہے دنیا میں جو تکلیفیں پہنچتی رہتی ہیں وہ معمولی چیزیں ہیں۔

رسول اللہ ﷺ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندہ کے لئے کوئی بلند مرتبہ دینے کا فیصلہ فرما دیتا ہے لیکن وہ اپنے عمل سے اس مرتبہ تک پہنچنے سے قاصر رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے تکلیف میں مبتلا فرما دیتا ہے یہ تکلیف اس کے مال جان اور اولاد میں پہنچ جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ اس پر مبر عطا فرما دیتا ہے یہاں تک کہ اس مرتبہ پر پہنچا دیتا ہے جو اللہ کی طرف سے اس کے لئے پہلے سے مقرر کر دیا گیا تھا۔

(مسکوٰۃ المصابیح ۱۱۲ از احمد ابو داؤد)

یاد رہے کہ وَمَا أَصَابَكُمْ میں جو خطاب ہے یہ عام مومنین سے ہے لہذا یہ اشکال پیدا نہیں ہوتا کہ حضرات انبیائے کرام علیہم السلام تو معصوم تھے ان پر تکلیفیں کیوں آئیں ان حضرات کو جو تکلیفیں پہنچیں گناہوں کی وجہ سے نہیں بلکہ رفع درجات کی وجہ سے پہنچیں۔



فَمَا أُوْتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّاعٌ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَأَبْقٰى لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

اور تم کو جو کچھ چیز دی گئی ہے سو وہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے لئے جو ایمان لائے

وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبِيْرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ وَاِذَا مَا

اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں اور جو کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں اور جب انہیں

غَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى

غصہ آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں اور جنہوں نے اپنے رب کے حکم کو مانا اور نماز قائم کی اور ان کے کام آپس کے مشورے سے ہوتے ہیں

بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ اِذَا اَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُوْنَ ۝

اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور جن کا حال یہ ہے کہ جب ان کو ظلم پہنچ جاتا ہے تو وہ بدلہ لے لیتے ہیں۔

جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے اہل ایمان اور اہل توکل کے لئے بہتر ہے

**تفسیر:** ان آیات میں دنیا کی بے ثباتی بتائی ہے اور آخرت کے اجر اور ثمرات کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ بہتر ہیں اور زیادہ باقی رہنے والے ہیں اور یہ بھی بتایا کہ یہ اجر و ثمرات اہل ایمان کو ملیں گے پھر اہل ایمان کے اوصاف بیان فرمائے (۱) یہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں (۲) کبیرہ گناہوں سے اور فحش باتوں اور فحش کاموں سے پرہیز کرتے ہیں (۳) اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں (۴) اور یہ لوگ اپنے رب کا حکم مانتے ہیں یعنی دل و جان سے قبول کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں (۵) اور نماز قائم کرتے ہیں اور ان کے امور آپس میں باہمی مشورے سے طے ہوتے ہیں (۶) انہیں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں (۷) اور جب ان پر کوئی ظلم ہوتا ہے تو وہ بدلہ لے لیتے ہیں (ظلم نہیں کرتے جتنا ظلم ہوا اسی قدر بدلہ لیتے ہیں) یہ ایسے امور ہیں جن کا پابند ہونا زندگی بھر نہایت چلے جانا اہم کام ہے ان میں توکل کرنا بھی ہے اور گناہوں اور فحش کاموں سے بچنا بھی اور غصہ آ جائے تو معاف کرنا بھی اور مشورے سے کاموں کو انجام دینا بھی ہے صحیح طریقے پر نماز ادا کرنا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ اور مالی فرائض اور واجبات ادا کرنا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ میں بیان فرمایا دیا ایسے جامع الاوصاف اہل ایمان کے لئے آخرت کے اجر و ثواب کا خیر ہونا اور باقی ہونا ظاہر ہے۔

دنیا کے بارے میں یہ جو فرمایا کہ تمہیں جو کوئی چیز دی گئی ہے وہ دنیا کی زندگی میں کام آنے والی ہے اس میں دو باتوں کی طرف اشارہ فرمایا اول یہ کہ جو لوگ دنیا میں جیتے اور بستے ہیں ان میں مومن بھی ہیں اور کافر بھی ہیں دنیا سے فائدہ حاصل کرنے میں مومن یا کافر اور نیک بد کی کوئی تخصیص نہیں سب اس سے مستحق اور مستفید ہوتے ہیں اور دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ دنیا میں جسے جو کچھ ملا ہے وہ دنیا ہی کی حد تک ہے جب دنیا سے چلے جائیں گے سب یہیں دھرا رہ جائے



(ہاں جو کچھ اللہ کے لئے خرچ کیا اس کا ثواب وہاں مل جائے گا جسے وَمَنَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ میں بتا دیا)۔  
آخر میں فرمایا وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَكْتُمُونَ (جب ان کو ظلم پہنچتا ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں) اس میں مظلوم کو ظالم سے بدلہ لینے کی اجازت دی ہے سیاق کلام سے یہ مفہوم ہو رہا ہے کہ جتنا ظلم ہوا ہے اسی قدر بدلہ لیا جاسکتا ہے مزید تفصیل آئندہ آیات کی تفسیر کے ذیل میں پڑھیے۔

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ

اور برائی کا بدلہ برائی ہے اسی جیسی سو جو شخص معاف کر دے اور صلح کر لے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے بلاشبہ وہ ظالموں کو

الظَّالِمِينَ ۝ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيلٍ ۝ إِنَّمَا

پسند نہیں فرماتا اور البتہ جو شخص مظلوم ہو جانے کے بعد بدلہ لے لے سو یہ ایسے لوگ ہیں جن پر کوئی الزام نہیں

السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ أُولَٰئِكَ

الزلام انہیں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور دنیا میں ناحق سرکشی کرتے ہیں یہ وہ لوگ

لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ۝

ہیں جن کے لئے دردناک عذاب ہے اور البتہ جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا بلاشبہ یہ امت کے کاموں میں سے ہے۔

برائی کا بدلہ برائی کے برابر لے سکتے ہیں معاف  
کرنے اور صلح کرنے کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے

تفسیر: اوپر جو آیات مذکور ہوئیں ان میں سے آخری آیت میں نیک بندوں کی صفات میں یہ بتایا تھا کہ جب ان پر ظلم ہوتا ہے تو بدلہ لے لیتے ہیں اس میں چونکہ کمی بیشی کا ذکر نہیں ہے اور یہ بھی ذکر نہیں ہے کہ معاف کر دینا اور بدلہ نہ لینا افضل ہے اس لئے بطور استدراک ان آیات میں اولاً تو یہ بتایا کہ برائی کا بدلہ بس اسی قدر لینا جائز ہے جتنی زیادتی دوسرے فریق نے کی ہو اگر کسی نے اس سے زیادہ بدلہ لے لیا جو اس پر زیادتی کی گئی تھی تو اب وہ اسی قدر ظلم کرنے والا ہو جائے گا۔ ثانیاً یہ فرمایا کہ بدلہ لینا جائز تو ہے لیکن افضل یہ ہے کہ بدلہ نہ لیا جائے معاف کر دیا جائے جو شخص معاف کر دے گا اس کا یہ معاف کر دینا ضائع نہ جائے گا اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے اس کا اجر عطا فرمائے گا معاف نہ کرے تو زیادتی بھی نہ کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا ثالثاً یہ فرمایا کہ جس شخص پر کوئی ظلم کیا گیا اور اس نے اسی قدر بدلہ لے لیا جتنا اس پر ظلم ہوا تھا تو اب اس کا مواخذہ کرنا جائز نہیں کیونکہ اس نے اپنا حق لیا ہے ظالم یا ظالم کی مدد کرنے والا دوست احباب کنبہ و قبیلہ کے لوگ اب اگر اس سے بدلہ کا بدلہ لینگے تو یہ لوگ ظالم ہو جائیں گے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ دنیا میں یا آخرت میں یا دونوں جگہ ان کی گرفت ہوگی یہ لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق سرکشی کرتے ہیں ان کے

لئے دردناک عذاب ہے رابعاً ایک عام اعلان فرمادیا کہ صبر کرنا اور معاف کرنا بڑی ہمت اور صبر کے کاموں میں سے ہے ہر شخص اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہوتا حالانکہ اس کا اجر و ثواب بہت بڑا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ ابن عمران علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ اے میرے رب آپ کے بندوں میں آپ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص (بدلہ لینے کی) قدرت رکھتے ہوئے معاف کر دے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ۴۳۳)

وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَرَئِي مَنْ بَعْدَهُ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَبَّاءُ وَالْعَذَابُ

اور اللہ جس کو گمراہ کرے اس کے لئے اس کے بعد کوئی چارہ ساز نہیں اور جب ظالم لوگ عذاب کو دیکھیں گے تو اسے مخاطب تو انہیں اس حال میں دیکھے گا کہ

يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ ۖ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِيعِينَ مِنَ الدَّلِيلِ

یوں کہہ رہے ہوں گے کیا واپس کئے جانے کا کوئی راستہ ہے؟ اور تو انہیں اس حال میں دیکھے گا کہ وہ دوزخ پر پیش کئے جا رہے ہوں گے ذلت کی وجہ سے

يَنْظُرُونَ مِنْ طَرَفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ

جھکے ہوئے چھپی ہوئی نظر سے دیکھتے ہوں گے اور ایمان والے کہیں گے بلاشبہ پورے خسارہ میں پڑ جانے والے وہ ہیں جو اپنی جانوں سے

وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ ۖ وَكَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءِ

اور اپنے گھر والوں سے قیامت کے دن خسارہ میں پڑ گئے خبردار اس میں شک نہیں کہ ظالم لوگ دائمی عذاب میں رہیں گے اور ان کے لئے اللہ کے سوا

يَنْصُرُوهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ ۖ

مددگار نہ ہوں گے جو ان کی مدد کریں اللہ کو چھوڑ کر اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لئے کوئی راستہ ہی نہیں۔

## قیامت کے دن ظالموں کی بد حالی، ہلاکت اور ذلت کا سامنا

**تفسیر:** یہ چار آیات کا ترجمہ ہے پہلی آیت میں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ جسے گمراہ کر دے یعنی ہدایت سے محروم فرما دے تو اس کے لئے کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کا ولی اور کار ساز بنے، کوئی شخص اسے ہدایت نہیں دے سکتا اور کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا پھر ظالموں یعنی کافروں کی بد حالی کا تذکرہ فرمایا کہ قیامت کے دن جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو یوں کہیں گے کہ کیا ایسا کوئی راستہ ہے کہ ہم واپس کر دیئے جائیں یعنی دنیا میں چلے جائیں پھر وہاں ایمان لائیں کفر اختیار نہ کریں لیکن وہاں سے واپسی کا کوئی قانون نہیں مزید فرمایا کہ یہ لوگ جب دوزخ پر پیش کئے جائیں گے یعنی اس میں داخل کئے جانے لگیں گے تو ذلت سے جھکے ہوئے ہوں گے اور چنپی نظر سے دیکھ رہے ہوں گے اہل ایمان کہیں گے کہ آج تو علی العیان یہ چل گیا کہ اہل کفر سر اسر خسارہ میں ہیں یہ اپنی جانوں کا بھی نقصان کر بیٹھے اور اپنی اہل و عیال کا بھی ان کی جانیں بھی ہلاک ہوئیں اور ان کے متعلقین کی بھی تمام کافروں کے لئے دوزخ ہے چھوٹے درجہ کے لوگ ہوں یا سردار ہوں یہ

لوگ اپنی جانوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے اور اہل و عیال سے بھی اور وہاں کا عذاب تھوڑا سا نہیں اور تھوڑے سے دن کا نہیں ان کے لئے بڑا عذاب ہے اور دائمی عذاب ہے اسی کو فرمایا وَمَا كَانُ لَهُمْ قَوْلٌ مِّنْ أُولَٰئِكَ يَتَخَّرُونَ فَهُمْ قَوْلٌ مِّنْ أُولَٰئِكَ (اور ان کے لئے مددگار نہ ہوں گے جو ان کی مدد کریں اللہ کو چھوڑ کر) یعنی کوئی شخص اگر یہ چاہے کہ اللہ کے فیصلے کے خلاف کوئی ان کی مدد کر دے یعنی انہیں دوزخ سے چھڑا دے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ (اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لئے کوئی راستہ ہی نہیں)

یعنی اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں کما قال تعالیٰ فی سورة الکہف وَمَنْ يُضِلِلِ فَلَنْ يَهْدِيَهُ إِلَّا مَزِيدًا اس آیت میں سابق مضمون کو دہرایا ہے جو تاکید کے لئے ہے۔

إِسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُم مِّن مَّالٍ

تم اپنے رب کا حکم مانو اس سے پہلے کہ وہ دن آجائے جس میں اللہ کی طرف سے واپس کرنا نہ ہوگا تمہارے لئے اس

یَوْمٍ مِّن مَّالِكُمْ مِّن تَكْذِبٍ ۖ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا إِنْ عَلَيْكَ

دن پناہ لینے کی جگہ نہ ہوگی نہ کوئی تکبیر کرنے والا ہوگا پس اگر وہ اعراض کریں تو ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا آپ کے ذمہ

إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَزَحَّيْهَا وَإِنْ تُصْبِحُهُمُ سَيِّئَةٌ مَّا قَدَّمَتْ

صرف پہنچانا ہے اور بلاشبہ بات یہ ہے کہ جب ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت چکھا دیے ہیں تو اس پر خوش ہوتا ہے اور اگر ان کے کړتوتوں کی وجہ سے انہیں

أَيُّدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ ۖ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُخْلِقُ مَا يَشَاءُ يَهْبُ لِمَنْ يَشَاءُ

کوئی مصیبت پہنچ جائے تو بلاشبہ انسان ناشکری کرنے لگتا ہے اللہ ہی کے لئے ہے آسمانوں کا اور زمین کا ملک وہ پیدا فرماتا ہے جو چاہے

إِنَّا نَقْهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الدُّكُورَ ۖ أَوْ نَزْوِجُهُمْ ذُكْرَانًا وَنُنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ

جسے چاہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے اور جسے چاہے بیٹے دیتا ہے یا بیٹے اور بیٹیاں دونوں جنسوں کو جمع کر دیتا ہے اور جسے چاہے

عَقِيبًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

پانچھ بتا دیتا ہے بلاشبہ وہ جاننے والا ہے اور قدرت والا ہے۔

## قیامت آنے سے پہلے اپنے رب کا حکم مانو

تفسیر: ان آیات میں اولاً یہ ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو واپس نہیں کیا جائے گا وہ واقع ہو گیا سو ہو گیا اس دن کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بات مان لو ایمان بھی قبول کرو اور عمل صالح بھی اختیار کرو جب قیامت کا دن ہوگا تو کسی کے لئے کوئی پناہ نہ ہوگی اللہ جس کو پناہ دے اسی کو پناہ مل سکے گی اور کافروں کے لئے کوئی پناہ کی جگہ نہیں اس دن جس شخص کے ساتھ جو بھی معاملہ ہوگا اس میں کسی کو کچھ بھی کسی کے بارے میں یہ کہنے کا اختیار نہ ہوگا کہ یہ کیوں ہوا اور کیوں ہو رہا ہے۔

قوله تعالى وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ اى لا تجدون منكرا يومئذ بما ينزل بكم من العذاب اس کے بعد رسول اللہ ﷺ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ کی دعوت اور تبلیغ کے بعد مخاطب لوگ اگر اعراض کریں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آپ فکر نہ کریں اور غم میں نہ پڑیں آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا گیا اگر ایمان نہ لائیں تو آپ سے اس کی کوئی باز پرس نہیں آپ نے پہنچا دیا آپ کا کام ختم ہوا آپ کی ذمہ داری اتنی سی ہے کہ آپ پہنچا دیں اور بس۔

## انسان کا خاص مزاج رحمت کے وقت خوش اور تکلیف میں ناشکرا!

اس کے بعد انسان کا ایک مزاج بتایا اور وہ یہ ہے کہ جب اسے نعمت ملتی ہے اور رحمت الہی کا مظاہرہ ہوتا ہے تو خوب خوش اور مگن ہو جاتا ہے اور اگر کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے جو انسانوں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی ہے تو وہ ناشکرا بن جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے اور ایسے بول بولتا ہے کہ جو سابقہ نعمتیں تھیں گویا وہ اسے ملی ہی نہ تھیں اللہ تعالیٰ کی موجودہ نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا اور معاصی سے توبہ بھی نہیں کرتا۔

## اللہ تعالیٰ کی شان خالقیت کا بیان وہ اپنی مشیت کے مطابق اولاد عطا فرماتا ہے

اس کے بعد فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کا ملک اللہ ہی کیلئے ہے وہی ان کا خالق اور مالک ہے وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے انسانوں کی جو اولاد ہوتی ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہی سے ہوتی ہے کسی کو مجال نہیں جو اس کی مشیت کے سامنے دم مار سکے دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو جوڑے بنائے ہیں یعنی مرد اور عورت ان میں کسی کے ہاں صرف لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں اور کسی کے ہاں صرف لڑکے پیدا ہوتے ہیں اور کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹا بیٹی دونوں جنسیں عطا فرما دیتا ہے اور ضروری نہیں کہ مرد عورت کا میل ملاپ ہو جائے تو اولاد ہو ہی جائے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے وہ علیم بھی اور قدیر بھی ہے وہ سب کے حال جانتا ہے حکمت کے مطابق عطا فرماتا ہے اور جو چاہے کر سکتا ہے اسے ہر چیز پر قدرت ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا اس کی قدرت سب پر غالب ہے۔

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بآيَاتِهِ

اور کسی بشر کے لئے یہ ہوتی نہیں ہے کہ وہ اللہ سے بات کرے ہاں وحی کے ذریعہ یا پردہ کے پیچھے سے یا اس طرح بات ہو سکتی ہے کہ اللہ کسی رسول کو بھیج دے پھر وہ رسول اس کی آیات

مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ ۖ وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي

اس کی مشیت کے مطابق وحی پہنچا دے بشک وہ ہر ذیہ حکمت والا ہے اور اس طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے قرآن کی وحی کی آپ نہیں جانتے تھے کہ

كَانَ الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نُّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي

کیا ہے کتاب اور کیا ہے ایمان؟ اور لیکن ہم نے اسے نور بنا دیا ہے اس کے ذریعہ ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں اور بلاشبہ آپ

إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۚ صِرَاطَ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ

صراطِ مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہیں جو اللہ کا راستہ ہے جس کے لئے وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے خبردار

إِلَى اللَّهِ تَصْدِيرُ الْأُمُورِ ۚ

اللہ ہی کی طرف تمام امور لوٹتے ہیں۔

## بندے اللہ تعالیٰ سے کیسے ہمکلام ہو سکتے ہیں؟

**تفسیر:** معالم التزیل ج ۳/۱۳۲ میں لکھا ہے کہ یہودیوں نے رسول اللہ ﷺ سے کہا کہ اگر آپ نبی ﷺ ہیں تو آپ اللہ سے بات کیوں نہیں کرتے اور اللہ کو دیکھتے کیوں نہیں جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا آپ کی تائید میں یہ آیت نازل ہوئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی بشر کے لئے یہ بات حاصل نہیں کہ اللہ سے بات کرے۔ بجز تین طریقوں کے ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو الہام فرمادے یعنی قلب میں کوئی بات ڈال دے یا خواب میں کوئی بات بتا دے (مفسرین نے وحیا کا مصداق بتاتے ہوئے یہ دو صورتیں لکھی ہیں یا اللہ تعالیٰ پردہ کے پیچھے سے کلام فرمائے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ طور پر کلام فرمایا تھا) یا کسی فرشتہ کو بھیج دے جو اللہ کا پیغام لے کر آجائے اور اللہ کے حکم سے اللہ کی مشیت کے مطابق کسی رسول کو بطور وحی پیغام پہنچا دے یہ تین صورتیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ہمکلام ہونے کی ہیں۔

حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر خاتم النبیین ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے تھے اِنَّهُ عَلٰی حَكِيْمٍ (بے شک اللہ برتر ہے مخلوق کو اس سے بات کرنے کا معائنہ کے طور پر تحمل نہیں ہے اور وہ حکیم بھی ہے اپنی حکمت کے مطابق مذکورہ تین طریقوں میں سے اس نے جس طرح چاہا کلام فرمایا۔

**فائدہ نمبر ۱:-** وَحْيًا کی تفسیر منام اور الہام سے جو کی گئی ہے اس میں یہ تفصیل ہے کہ حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کا منام اور الہام تو قطعی ہے اور انبیائے کرام علیہم السلام کے علاوہ دوسروں کو جو خواب میں بتایا گیا یا بطور الہام دل میں ڈالا گیا ہو وہ ظنی ہے اور کسی کو اس پر شریعت کے خلاف عمل کرنا اور دوسروں سے عمل کرنا جائز نہیں ہے۔

**فائدہ نمبر ۲:-** آیت کریمہ میں جو امن و راء حجاب فرمایا ہے اس سے نورانی حجاب مراد ہے صحیح مسلم میں ہے۔ حجابہ النور (اس کا پردہ نور ہے) لو كشفه لا حرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه (مکھلوہ المصاحح ص ۲۱) (اگر وہ اسے کھول دے تو اس کے وجہ کریم کے انوار اس کی مخلوق کو وہاں تک جلا دیں جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے)

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پردہ کے پیچھے سے کلام کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کا تحمل نہیں دیا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں اور دیکھنے کی حالت میں بات چیت کر لیں جنت میں اللہ تعالیٰ شانہ قوت برداشت عطا فرمادے گا وہاں اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ اس کے بعد فرمایا وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ ذٰلِكَ وَحْيًا مُّزَكَّٰتًا اور جس طرح ہم نے آپ سے پہلے انبیاء کرام کی طرف

وحی بھیجی اسی طرح آپ کی طرف بھی روح یعنی نبوت کی وحی بھیجی بعض مفسرین نے روح سے نبوت اور بعض حضرات نے روح سے قرآن مراد لیا ہے مَا كُنْتُ تَذَوُّعِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ (آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے) یعنی نبوت ملنے سے پہلے آپ کو یہ پتہ نہ تھا کہ اللہ کی کتاب کیا ہے اور نہ آپ کو ایمانیات کا تفصیلی علم دیا گیا تھا جب آپ کو نبوت عطا کی گئی اللہ کی کتاب نازل ہوئی اور ایمان کی تفصیلات بتادی گئیں اس وقت آپ کو اللہ کی کتاب کا اور ایمانیات کا علم ہوا گوا جمالی ایمان پہلے سے حاصل تھا۔

قال القرطبي والصواب انهم معصومون قبل النبوة من الجهل بالله وصفاته والتشكك في شئ من ذلك وقد تعاضدت الاخبار والآثار على الانبياء بتنزيههم عن هذه النقيصة منذ ولدوا، ونشأتهم على التوحيد والایمان بل على اشراق انوار المعارف و نفعات الطاف السعادة ومن طالع سيرهم منذ صباهم الى مبعثهم حقق ذلك. (علامہ قرطبیؒ فرماتے ہیں اور صحیح بات یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام نبوت ملنے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں جہالت اور کسی قسم کے شک و شبہ سے پاک ہوتے ہیں۔ ولادت سے ہی اس قسم کی نقائص سے پاک ہونے کے بارے میں خود انبیائے کرام سے احادیث و آثار کثرت سے مروی ہیں۔ ان کی نشو و نما توحید و ایمان ہی پر ہوتی ہے بلکہ انوارات و معارف اور سعادت کے الطاف کے ساتھ ہوتی ہے جس نے ولادت سے نبوت تک ان کی سیرتوں کا مطالعہ کیا ہے اس پر یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے)

وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا (اور لیکن ہم نے آپ کو قرآن دیا اور اس قرآن کو ایک نور بنا دیا جس کے ذریعہ ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہیں ہدایت دیں) وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (اور بلاشبہ آپ سیدھے راستہ کی ہدایت بتاتے ہیں جس میں کوئی کمی نہیں ہے۔

صِرَاطَ الَّذِي أَنْزَلْنَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

(جو اللہ کا راستہ ہے جس کے لئے وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے یہ راستہ اسی کا تجویز کیا ہوا ہے اور وہ اس پر چلنے والوں سے راضی ہے لہذا اسی پر چلیں) اَلَّا إِلَى اللَّهِ تَقْصِدُ الْأُمُورُ (خبردار تمام امور اللہ ہی کی طرف لوٹیں گے) وہ اپنے علم اور حکمت کے مطابق جزایا سزا دے گا۔

ولقد تم تفسیر سورة الشوری بحمد الله تعالى وحسن توفيقه والحمد لله تعالى على التمام وحسن الختام والصلوة والسلام على سيد الانام وعلى اله وصحبه البررة الكرام.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورۃ زخرف مکہ معظمہ میں نازل ہوئی اس میں نو اسی آیات اور سات رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے﴾

حَمْدٌ ۝ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ۝ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝ وَإِنَّهُ فِي

حَمْدٍ ۝ قسم ہے واضح کتاب کی بلاشبہ ہم نے اس کو قرآن عربی بنایا ہے تاکہ تم سمجھو اور بلاشبہ وہ

أَمِ الْكِتَابِ لَدَيْنَا عَلَىٰ حَكِيمٍ ۝ أَفَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ ۝

ام الکتاب میں ہمارے پاس ہے بلند ہے حکمت والا ہے کیا ہم نصیحت کو تم سے اس وجہ سے ہٹالیں گے کہ تم حد سے بڑھ جانے والے ہو

وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيِّ فِي الْأَوَّلِينَ ۝ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيِّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۝

اور ہم نے پہلے لوگوں میں کتنے ہی نبی بھیجے اور ان کے پاس جو بھی کوئی نبی آتا تھا اس کا مذاق بناتے تھے پھر ہم نے ان میں سے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا

فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا ۖ وَمَنْ مِثْلُ الْأَوَّلِينَ ۝

جوز در آوری میں خوب بڑھ کر تھے اور پہلے لوگوں کی یہ حالت گزر چکی ہے۔

## قرآن کتاب مبین ہے عربی میں ہے نصیحت ہے انبیائے سابقین کی تکذیب کرنیوالوں کو ہلاک کر دیا گیا

تفسیر: اَوَّلًا..... قرآن ہی کی قسم کھا کر قرآن کی تعریف فرمائی ارشاد فرمایا کہ کتاب مبین کی قسم ہے ہم نے اپنی اسی

کتاب کو عربی زبان کا قرآن بنایا یعنی یہ قرآن عربی زبان میں ہے اس کے اولین مخاطبین عرب ہیں یہ لوگ قرآن کو پڑھیں

اور سمجھیں سمجھنا چاہیں گے تو سمجھ لیں گے اور ہدایت پالیں گے اس کے بعد قرآن کی برتری بیان فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ وہ

ہمارے پاس ام الکتاب یعنی لوح محفوظ میں محفوظ ہے وہ بلند بھی ہے اور حکمتوں سے پر ہے اور بعض حضرات نے حکیم کا ترجمہ

”محکم“ کیا ہے مطلب یہ ہے کہ لفظی اور معنوی اعتبار سے استحکام ہے یعنی اس میں کوئی اختلاف اور تناقض نہیں ہے سورۃ

الواقعة میں فرمایا إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ۖ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ۚ اور سورۃ البروج میں فرمایا بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ ۚ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ اس کے

بعد فرمایا کہ ہم جو قرآن نازل کر رہے ہیں جس میں تمہارے لئے نصیحت ہے یہ قرآن نازل ہوتا رہے گا تم یہ نہ سمجھنا کہ

چونکہ ہم قرآن کو نہیں مانتے اس لئے قرآن کا نازل ہونا بند ہو جائے گا تمہارا یہ خیال غلط ہے اس میں تمہارے لئے نصیحت

بھی ہے اور اس کے نازل ہونے میں تم پر جہت بھی قائم ہوتی ہے اور اہل ایمان کے لئے نافع اور مفید ہے۔



قال القرطبي وانتصب صفحاً على المصدر لان معنى افنضرب افنصفح وقيل التقدير افنضرب عنكم الذكر صافحين. (علامہ قرطبی نے فرمایا صفحا مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب ہے کیونکہ اَفْنَضِرْبُ کا معنی ہے اَفْنَضِّفُ بعض نے کہا اصل عبارت یوں ہے اَفْنَضِرْبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ صَافِحِينَ۔) اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے تم سے پہلے لوگوں میں کتنے ہی نبی بھیجے ہیں (لفظ کم تکثیر کے لئے ہے) مطلب یہ ہے کہ ہم نے کثیر تعداد میں نبی بھیجے لیکن امتوں کا طریقہ یہ رہا کہ جو بھی نبی بھیجا جاتا اس کا مذاق بناتے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں جو لوگ بہت زیادہ زور آور تھے موجودہ مخاطبین سے قوت میں بڑھ کر تھے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ان مخاطبین کی ان لوگوں کے سامنے کچھ حیثیت نہیں وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ اور پہلے لوگوں کی حالت گزر چکی ہے ان میں سے بعض کا انہیں علم بھی ہے پھر بھی قرآن کی تکذیب کر رہے ہیں اپنے انجام کی طرف نظر نہیں کرتے وھذا مثل قوله تعالیٰ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَّغُوا مَعْتَدًا مَا أَتَيْنَهُمْ فَكَذَّبُوا أَسْوَءَ كَلِمَةٍ كَانَتْ يَكْفِيكَ (اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے جھٹلایا اور انہیں ہم نے جو کچھ دیا تھا یہ لوگ اس کے دوسرے حصہ کو بھی نہیں پہنچے سو انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا سو کیا عذاب ہوا میرا)

وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ۝۱۰

اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو ضرور کہیں گے کہ انہیں عزیز علیم نے پیدا فرمایا

جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلْ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝۱۱ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنْ

جس نے تمہارے لئے زمین کو بچھونا بنا دیا اور تمہارے لئے اس نے راستے بنا دیئے تاکہ تم ہدایت پاؤ اور جس نے ایک انداز سے

السَّمَاءِ مَاءً يُقَدِّرُ فَأَنسُرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيِّتًا ۚ كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ۝۱۲ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ

آسمان سے پانی برسایا پھر ہم نے اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کر دیا۔ اسی طرح تم نکالے جاؤ گے اور جس نے تمام اقسام کو پیدا فرمایا

كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ۝۱۳ لَتَسْتَأْذِنَ عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ

اور تمہارے لئے کشتیاں اور جانوروں میں سے وہ چیزیں پیدا فرمائیں جن پر تم سوار ہوتے ہوتا کہ تم ان کی پشتوں پر بیٹھ جاؤ پھر

تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا

اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو جب تم اس پر بیٹھ جاؤ اور تم یوں کہو پاک ہے وہ ذات جس نے اس کو ہمارے لئے سخر فرمادیا اور ہم اس کو قابو میں کر لیا

كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ۝۱۴ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ۝۱۵

نہ تھے اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔

آسمان وزمین کی تخلیق زمین کو بچھونا بنانا کشتیوں اور چوپایوں کی نعمت عطا فرمانا تفسیر: ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی شان خالقیت اور مالکیت بیان فرمائی اور بندوں کے لئے جو نفع کی چیزیں پیدا فرمائی ہیں ان میں سے بعض چیزوں کا تذکرہ فرمایا ان سب چیزوں کو وجود بخشنے اور بندوں کے لئے مسخر کرنے میں توحید

کے دلائل ہیں ارشاد فرمایا کہ اگر آپ ان سے یہ دریافت کریں کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا فرمایا تو یہ لوگ خود ہی اقراری ہو گئے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے جو عزیز بھی ہے یعنی غالب اور زبردست ہے اور علیم بھی ہے جو سب کچھ جانتا ہے پھر فرمایا الَّذِیْ جَعَلَ لَکُمُ الْاَرْضَ مَعْدًا جس نے تمہارے لئے زمین کو فرش بنایا (جس پر آرام سے رہتے ہو اور بستے ہو) وَجَعَلَ لَکُمْ فِيْهَا سُبُلًا (اور اس نے تمہارے لئے اس میں راستے بنائے لَعَلَّکُمْ تَهْتَدُوْنَ تاکہ تم ہدایت پاؤ یعنی تم اپنے اسفار میں جاؤ تو ان راستوں سے گزرو اور اپنے مقاصد پورے کرو اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ تم فکر کرو اور ہدایت پاؤ اور توحید پر آؤ کہ جس ذات پاک نے یہ زمین پیدا فرمائی اور اس میں راستے بنائے وہ وحدہ لا شریک ہے۔

مزید فرمایا وَالَّذِیْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ (اور وہ ذات پاک ہے جس نے آسمان سے ایک خاص مقدار کے ساتھ پانی نازل فرمایا) فَانْشَرْنَا بِهٖ بَلَدًا بَدِیًّا (پھر ہم نے اس کے ذریعے زمین کے مردہ حصہ کو زندہ کر دیا کَذٰلِکَ لِنُخْرِجَہُمْ) (جیسے اس نے مردہ زمین کو زندگی بخشی خشک ہونے کے بعد سرسبز اور شاداب ہو گئی اسی طرح سے تم قبروں سے نکالے جاؤ گے یعنی قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے اس کا نمونہ تمہارے سامنے ہے زمین کی موت اور حیات کو دیکھ لو اور اس سے سمجھ لو کہ تمہارا زندہ فرمانا کوئی مشکل نہیں ہے۔

پھر فرمایا وَالَّذِیْ خَلَقَ الْاَنْوَاجَ کُلَّهَا (اور وہی ذات ہے جس نے مخلوق میں طرح طرح کے انواع و اقسام پیدا فرمادیئے مذکر بھی ہیں مونث بھی ہیں میٹھی چیزیں بھی ہیں اور کٹھی بھی سفید بھی ہیں اور سیاہ بھی اوپر بھی ہیں اور نیچے بھی دائیں جانب بھی ہیں اور بائیں جانب بھی وغیرہ وغیرہ۔

وَجَعَلَ لَکُم مِّنَ الْفُلْکِ وَالْاَنْعَامِ مَا تَرْکَبُوْنَ (اور اس نے کشتیاں اور سواریاں پیدا فرمائیں جن پر تم سوار ہوتے) لِتَسْبَحُوْا عَلٰی ظُہُوْرٍ تاکہ تم اچھی طرح ان کی پشتوں پر بیٹھ جاؤ جب خوب اچھی طرح جم کر جانوروں کی پشت پر بیٹھ جاتے ہیں تو اس کو ایڑہ مار کر چلاتے ہیں اور ان کی پشتوں پر بیٹھنے اور بٹھنے کے طریقے بھی اللہ تعالیٰ نے بتادیئے ہیں گھوڑے پر زین کتے ہیں اور اونٹ پر کجاہ باندھتے ہیں اس کے اٹھے ہوئے کو ہان کے باوجود اس کی کمر پر بیٹھتے ہیں اور اس پر سفر کرتے ہیں۔

وقوله تعالى ما ترکبون ما موصولہ والعائد محذوف والضمیر المجرور فی ظہورہ عائد الی لفظ ما وجمع الظہور رعاۃ للمعنی۔

(اللہ تعالیٰ کے ارشاد مَاتَرٰکَبُوْنَ میں ما موصولہ ہے اور اس کی طرف لوٹنے والی ضمیر محذوف ہے اور ظہورہ کی ضمیر مجرور لفظ ما کی طرف لوٹی ہے اور ظہور کو معنی کی رعایت کرتے ہوئے جمع لایا گیا ہے۔)

## سوار ہونے کی دعاء

لَعَلَّکُمْ تَرْکَبُوْنَ اِنْ شَآءَ اللہ تاکہ تم سوار ہو سکو (یہ یاد کرنا زبان سے اور دل دونوں سے ہونا چاہئے زبان سے یاد کرنے کی دعاء بھی بتادی فرمایا وَتَقُولُوْا اَسْبَحْنَ الَّذِیْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا کُنَّا لَہٗ مُقْرِنِیْنَ (اور تم یوں کہو پاک ہے وہ ذات جس نے اسے ہمارے لئے سخر کر دیا اور ہم اسے قابو میں کرنے والے نہ تھے وَآلَا اِلٰہَ اِلَّا الَّذِیْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا کُنَّا لَہٗ مُقْرِنِیْنَ

(اور بلاشبہ ہم اپنے رب کی طرف جانے والے ہیں) اس میں یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور ساتھ ہی اس بات کا بھی دھیان رکھیں اور بار بار مراقبہ کریں کہ اسی دنیا میں نہیں رہنا مرنا ہے اور یہاں سے جانا ہے زندگی کا اور نعمتوں کا حساب بھی ہونا ہے۔

جب جانور پر سوار ہو تو اس دعا کا اہتمام کرنا چاہئے سنن ترمذی (کتاب الدعوات) میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں سواری کے لئے جانور لایا گیا جب رکاب میں پاؤں رکھا تو بسم اللہ کہا پھر جب اس کی پشت پر بیٹھ گئے تو اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کہا پھر یہ آیت پڑھی: سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرْنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ (اللہ پاک ہے جس نے اس کو ہمارے قبضہ میں دے دیا اور اس کی قدرت کے بغیر ہم اسے قبضہ میں کرنے والے نہ تھے اور بلاشبہ ہم کو اپنے رب کی طرف جانا ہے) اس کے بعد تین بار اَلْحَمْدُ لِلّٰہ اور تین بار اللہ اکبر کہا پھر یہ دعا پڑھی: سُبْحَانَكَ اِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَانَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اَنْتَ (اے اللہ تو پاک ہے بے شک میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا تو مجھے بخش دے کیونکہ گناہوں کو صرف تو ہی بخشتا ہے) اس کے بعد آپ نے عرض کیا گیا امیر المؤمنین آپ کیوں بنے؟ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے ایسا ہی کیا جیسا میں نے کیا آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کس بات سے بنے؟ آپ نے فرمایا رب تعالیٰ شانہ کو اس بات سے خوشی ہوئی ہے جب بندہ رب غفر لی کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندہ کو معلوم ہے کہ میرے علاوہ گناہوں کو کوئی نہیں بخشتا۔ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۲۱۴)

## سَخَّرْنَا کی تشریح

سواری کی جو دعا قرآن وحدیث میں بتائی اس میں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ اے انسانو! اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے جو فائدہ اٹھاتے ہو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، جانور پیدا فرمائے..... پھر جانوروں کو تمہارے لئے مسخر کر دیا، یہ مستقل نعمت ہے ان پر سواری کرو سامان لا دو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاؤ، اگر اللہ تعالیٰ ان کو مسخر نہ فرماتا تو ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے (جب جانور بدک جاتا ہے قابو سے باہر ہو جاتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کی تسخیر کا پتہ چلتا ہے)

وَجَعَلُوْا لَهُ مِنْ عِبَادَةٍ جُزْءًا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ مُّبِيْنٌ ۝۱۰ اَمْ اَتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنِيْنَ

اور ان لوگوں نے اللہ کے لئے اس کے بندوں میں سے جزو شمر دیا بلاشبہ انسان واضح طور پر ناشکرا ہے کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں پسند کیں

وَاصْفَكُمْ بِالْبَنِيْنَ ۝۱۱ وَاِذَا ابْتِئْرَ اَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ

اور تمہیں بیٹوں کے ساتھ مخصوص کر دیا اور جب ان میں سے کسی ایک کو اس کی بشارت دی جاتی ہے جسے اس نے بطور رحمان کے لئے تجویز کیا ہے تو

مُسُوْدًا ۝۱۲ وَهُوَ كَظِيْمٌ ۝۱۳ اَوْ مَنْ يُّنْشَاْ فِي الْحُلِيِّۦ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِيْنٍ ۝۱۴ وَجَعَلُوْا

اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ دل میں گھٹتا ہے کیا جو زیور میں نشوونما پائے اور وہ مباحث میں واضح بیان نہ دے سکے اور ان لوگوں نے

اَلْمٰلِكَةِ الْذِيْنَ هُمْ عِبْدُ الرَّحْمٰنِ اِنَّا اَللّٰهُ شَهِدُوْا خَلَقْنٰهُمْ سَكْتًا ۝۱۵ شَہَادَتُهُمْ وَيَسْئَلُوْنَ ۝۱۶

فرشتوں کو عورتیں قرار دے دیا جو اللہ کے بندے ہیں کیا یہ ان کی پیدائش کے وقت موجود تھے ان کا یہ دعویٰ لکھ لیا جاتا ہے اور اُن سے باز پرس ہوگی۔

## اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد تجویز کرنے والوں کی تردید فرشتوں کو بیٹیاں بتانے والوں کی جہالت اور حماقت

**تفسیر:** مشرکین عرب اور دیگر مشرکین جو دنیا میں پھیلے ہوئے تھے اور اب بھی پائے جاتے ہیں جن میں نصاریٰ بھی ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد تجویز کر لی سب جانتے ہیں کہ اولاد اپنے باپ کا جوہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد تجویز کرنا اس کے لئے جزو تجویز کرنا ہوا اہل عرب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بتاتے تھے جیسا کہ نصاریٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ شانہ نے مشرکین کا یہ عقیدہ بیان فرما کر ارشاد فرمایا **إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُورٌ** (بلاشبہ انسان صریح ناشکر ہے) اس پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے لیکن وہ تو توحید کے خلاف بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ کیلئے اولاد تجویز کرتا ہے۔ یہ منہم حقیقی کی شکر گزاری کے تقاضوں کے خلاف ہے اور صریح ناشکری ہے۔

اس کے بعد فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بتانے والوں کی تردید کی اور بطور استفہام انکار ی ارشاد فرمایا کہ تم کیسی باتیں کرتے ہو کیا اس نے اپنے لئے اپنے مخلوقات میں سے اپنے بیٹیاں پسند کر لیں اور تمہیں بیٹوں کے ساتھ مخصوص کر دیا اس کے لئے اولاد ہونا عیب کی بات ہے وہ اس عیب سے پاک ہے لیکن تم اپنی بے وقوفی تو دیکھو کہ رحمان جل مجدہ کے لئے اولاد تجویز کرنے بیٹھے تو اس کے لئے بیٹیاں تجویز کر دیں اسی کو سورۃ النجم میں فرمایا **الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُ الْإِنْتِىٰ تِلْكَ إِذْ أَوْسَمَةٌ حِضْنٰی** (کیا تمہارے لئے بیٹے اور اس کے لئے بیٹیاں یہ تو اس حالت میں بے ڈھنگی تقسیم ہے۔

اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ان کا اپنا یہ حال ہے کہ جب انہیں خبر دی جاتی ہے کہ تمہارے ہاں لڑکی پیدا ہوئی تو اس خبر سے چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور غم میں گھٹنے لگتا ہے جس چیز کو اپنے لئے اتنا زیادہ مکروہ سمجھتے ہیں اس کو اللہ کے لئے تجویز کرتے ہیں اور یہ نہ سوچا کہ جو چیز زینت میں اور زیور میں نشوونما پاتی ہے یعنی لڑکی اور کسی سے جھگڑا ہو جائے تو ٹھیک طرح اپنا دعویٰ بھی بیان نہ کر سکے کیا ایسی چیز کو اللہ کی اولاد قرار دیتے ہیں؟ ایسی کمزور چیز کو اللہ کی اولاد تجویز کر بیٹھے حماقت پر حماقت کرتے چلے گئے۔

**أَشْهَدُ وَأَخْلَقُهُمْ** (کیا یہ اس وقت حاضر تھے جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا) یعنی یہ تو موجود نہیں تھے انہوں نے اللہ کی مخلوق کے بارے میں کیسے تجویز کر لیا کہ وہ عورتیں ہیں یہ ان کی جرأت جاہلانہ اور مشرکانہ ہے **سَتَكْتُبُ شَهَادَتَهُمْ** (ان کا جو یہ دعویٰ ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں لکھا جاتا ہے قیامت کے دن اسے اپنے اعمال نامہ میں پائیں گے **وَيُسْأَلُونَ** (اور ان سے سوال کیا جائے گا) کہ تم نے جو یہ بات کہی تھی اس کی کیا دلیل تھی۔ (والسین فی قوله تعالیٰ **سَتَكْتُبُ زَيْدَتِ لِّلنَّارِ** کما ذکرہ صاحب الروح ص ۷۲ ج ۲۵) اور **سَتَكْتُبُ** میں جو سین ہے یہ تاکید کیلئے زیادہ کی گئی ہے جیسا کہ صاحب روح المعانی نے ذکر کیا ہے)

**وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمٰنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ اِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ**

اور ان لوگوں نے کہا کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم غیر اللہ کی عبادت نہ کرتے انہیں اس بات کی کچھ بھی تحقیق نہیں وہ محض اٹکل سے بات کرتے ہیں

أَمَرْتَهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ۚ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ

کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے کتاب دی ہے جس سے وہ دلیل پکڑتے ہیں؟ بلکہ انہوں نے یوں کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک طریقہ پر پایا ہے

وَلَا نَا عَلَىٰ أَثَرِهِمْ فَهُمْ مُتَعَدُّونَ ۚ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ تَذِيرٍ إِلَّا

اور ہم ان کے طریقوں کے مطابق راہ یاب ہیں اور اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے جس کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا بھیجا تو اس کے خوشحال لوگوں نے

قَالَ مُتَرَفُّوهُمْ إِلَّا نَا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ ۚ وَإِنَّا عَلَىٰ أَثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ ۚ قُلْ أَوَلَوْ

یوں کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک طریقہ پر پایا ہے اور ہم ان کے طریقوں کا اقتداء کرنے والے ہیں ان کے پیغمبر نے کہا کیا اگرچہ میں تمہارے پاس اس سے بڑھ

حُتُّكُمْ يَأْهُدِي مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قُلْ كُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ۚ فَانْتَقِمْنَا

کرمایت وال چیز لایا ہوں جس پر تم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جس چیز کو بے کرم بھیجے ہو ہم اس کے مکر ہیں سو ہم نے ان سے انتقام

مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ۚ

لے لیا۔ سو دیکھ لیجئے جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔

## مشرکین کی ایک جاہلانہ بات کی تردید آباء اجداد کو پیشوا بنانے کی حماقت اور ضلالت

**تفسیر:** جب مشرکین کو متنبہ کیا جاتا اور بتایا جاتا تھا کہ تم جو شرک میں پڑے ہوئے ہو یہ گمراہی ہے اور تمہارا خالق اور مالک جل مجدہ اس سے راضی نہیں ہے تو کٹ جتنی کے طور پر یوں کہتے تھے کہ اگر ہمارے اس عمل سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے تو ہمیں اپنے علاوہ دوسروں کی عبادت کیوں کرنے دیتا ہے ان لوگوں کے نزدیک بت پرستی کا عمل صحیح ہونے کی یہ ایک بہت بڑی دلیل تھی اللہ جل شانہ نے فرمایا مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ (ان کو اس بات کی کچھ تحقیق نہیں لَنْ هُمْ إِلَّا عِزَّزُونَ) (یہ لوگ صرف اٹکل بچے باتیں کرتے ہیں) مشرکین کی یہ بات سورہ انعام کی آیت سَيَقُولُ الَّذِينَ أَكْفَرُوا لَوْلَا نُفِذَ إِلَيْنَا الْأَايَةُ اور سورہ نحل کی آیت وَقَالَ الَّذِينَ أَكْفَرُوا لَوْلَا نُفِذَ إِلَيْنَا الْأَايَةُ) میں گزر چکی ہے ان لوگوں کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا جب اس نے ہمیں غیر اللہ کی عبادت کا موقع دیا یعنی ہمیں جبراً اس عمل سے نہیں روکا تو معلوم ہو گیا کہ وہ ہمارے عمل سے راضی ہے یہ ان لوگوں (کی جاہلانہ اور احمقانہ دلیل ہے) کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو ابتلاء اور آزمائش کے لئے پیدا فرمایا ہے اور آزمائش جب ہی ہو سکتی ہے جب حق اور ناحق بیان کر دیا جائے اور اچھے برے اعمال بتا دیئے جائیں اور کرنے نہ کرنے کا اختیار دے دیا جائے اگر جبراً کوئی کام کروا لیا جائے تو اس میں امتحان نہیں ہوتا لہذا ان

لوگوں کا یہ کہنا کہ کفر و شرک کے اعمال پر ہم کو قدرت اور اختیار دے دینا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے اس عمل سے اللہ تعالیٰ راضی ہے یہ ان لوگوں کی جہالت کی بات ہے کیونکہ امتحان کے لئے قدرت دے دینا راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے یہ لوگ اپنے کفر و شرک کو جائز کرنے کے لئے اٹکل بچو باتیں کرتے ہیں اَفَرَأَيْتُمْ كَيْتَابًا قَدْ فَتَنَّا (کیا ہم نے انہیں اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب دی ہے جس سے وہ اس سے استدلال کرتے ہیں) یعنی مشرکین عرب کے پاس ہم نے قرآن مجید سے پہلے کوئی کتاب نازل نہیں کی اگر اس سے پہلے ان پر کوئی کتاب نازل کی جاتی اور اس میں شرک کی اجازت ہوتی تو اس کو دلیل میں پیش کرتے ان کے پاس باپ دادوں کی تقلید کے علاوہ کچھ نہیں ہے جب انہیں تنبیہ کی جاتی ہے کہ تم باطل پر ہو تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک طریقہ پر پایا ہے ہم انہیں کے پیچھے چل رہے ہیں اور اسی کو ہدایت سمجھ رہے ہیں۔ دلائل صحیحہ قاہرہ کو نہ ماننا اور باپ دادوں کا اتباع کرنا دنیا میں پرانی رسم ہے اسی کو فرمایا وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَوْمٍ مِّنْ قَبْلِهِ اور جس طرح یہ لوگ جواب دیتے ہیں یہی حال ان لوگوں کا تھا جن کی طرف ہم نے آپ سے پہلے ڈرانے والے بھیجے تھے ان کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک طریقہ پر پایا ہے اور انہیں کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں وہ ہمارے امام تھے اور ہم ان کے مقتدی ہیں۔

لوگوں کی یہ جاہلانہ بات سورۃ بقرہ اور سورۃ لقمان میں بھی ذکر فرمائی سورۃ بقرہ میں ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا ہے اُولَٰئِكَ كَانُوا لَكُم مِّنْ اٰیٰتٍ مَّا لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْئًا وَلَا يَحْتَدُوْنَ (کیا اپنے باپ دادوں کا اتباع کریں گے اگرچہ وہ سمجھ نہ رکھتے ہوں اور ہدایت پر نہ ہوں) اور سورۃ لقمان میں فرمایا اُولَٰئِكَ كَانُوا لَكُم مِّنْ اٰیٰتٍ مَّا لَا يَعْقِلُوْنَ (کیا اپنے باپ دادوں کا اتباع کریں گے اگرچہ شیطان انہیں دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا رہا ہو) خلاصہ یہ کہ باپ دادوں کی تقلید کوئی چیز نہیں ہاں اگر وہ ہدایت پر ہوں تو ان کا اتباع کیا جائے گراہی میں کسی کا بھی اتباع کرنا گراہی ہے، اتباع اس کا کرے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہو کما قال تعالیٰ وَاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اٰنَابَ اِلَيَّ۔

قُلْ اُولَٰئِكَ يَتْلُوْنَ اٰیٰتِیْہِمْ یَاْہُودَیْ (الایۃ) سابقہ امتوں کی طرف جو نذیر بھیجے گئے ان کے مالدار لوگوں نے جو انہیں جواب دیا کہ ہم اپنے باپ داد کے طریقے پر ہیں اسی کا اقتداء کرتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے حضرات نے سوال کیا کہ تم نے جن طریقوں پر اپنے دادوں کو پایا ہے اگر ہم اس سے بڑھ کر اور بہتر ہدایت لے کر آئے ہوں کیا پھر بھی تم اپنے باپ دادوں کا اتباع کرتے رہو گے اس پر ان لوگوں نے جواب دیا کہ تم جو کچھ لیکر آئے ہو ہم اسے نہیں مانتے جب ان لوگوں نے حق کو نہ مانا اور حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی تکذیب کر دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں مبتلا فرما دیا فَاتَّبِعْنَا مِنْهُم مَّا نَظَرْنَا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِیْنَ (سو ہم نے ان سے انتقام لے لیا سو دیکھ لیجئے جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا؟)

وَ اِذْ قَالَ اِبْرٰہِیْمُ لِاَبِیْہِ وَقَوِیْمَہٗ اِنِّیْۤ اِبْرٰہِیْمُ تَعْبُدُوْنَ ۝۱۶ اِلَّا الَّذِیْ فَطَرَنِیْ ۚ فَآلَہُ

اور جب ابراہیم نے اپنے باپ سے اٹھائی قوم سے کہا کہ بلاشبہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو اے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا فرمایا اس میں کوئی شک نہیں کہ

سِبْہِدِیْنَ ۝۱۷ وَ جَعَلَهَا کَلِمَۃً بَاقِیَۃً فِی عَیْقِبِہٖ لَعَلَّہُمْ یَرْجِعُوْنَ ۝۱۸ بَلْ مَتَّعْتُہٗمۡ هٰؤُلَآءِ

وہ مجھے ہدایت دیتا ہے اور اس نے اپنے بعد میں آنے والی اولاد میں باقی رہنے والا کلمہ چھوڑ دیا تاکہ وہ باز آئیں بلکہ میں نے انہیں اور ان کے

وَابَاءَهُمْ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿۵۳﴾ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا

باپ دادوں کو سامان دے دیا یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور رسول مبین آگیا اور جب ان کے پاس حق آیا تو کہنے لگے کہ یہ جادو ہے اور بے شک

یہ کُفْرُونَ ﴿۵۴﴾

ہم اس کے منکر ہیں۔

## حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شرک سے برأت کا اعلان فرمانا اور دعوت حق کا ان کی نسل میں باقی رہنا

**تفسیر:** حضرت ابراہیم علیہ السلام بائبل کے قریب مشرکین کے علاقے میں پیدا ہوئے تھے ان کے علاقہ کے لوگ بت پرست بھی تھے اور ستارہ پرست بھی، ان کا باپ بھی مشرک بت پرست تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کو توحید کی دعوت دی لیکن ان لوگوں نے نہ مانا اور حق کو قبول نہ کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واضح طور پر اعلان فرمادیا کہ میں تمہارے معبودوں سے بڑی اور بیزار ہوں، میں تو صرف اس ذات کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا اسی نے مجھے ہدایت دی اور مجھے ہدایت پر رکھے گا لفظ فطرنیٰ میں تعریض ہے کہ تم لوگ حماقت کے کام میں لگے ہوئے ہو تمہیں بھی اسی نے پیدا کیا جس نے مجھے پیدا کیا لہذا پیدا کرنے والے کی عبادت کرو۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرک سے بیزاری کا اعلان کر دیا اور اپنی بیوی کو لے کر فلسطین چلے گئے راستہ میں ایک اور بیوی بھی مل گئی (جس کی تفصیل سورۃ الانبیاء میں بھی گزر چکی ہے) دونوں بیویوں سے اولاد ہوئی بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل ان کی اولاد ہیں وہ جو انہوں نے کلمہ توحید کی دعوت دی اور شرک سے بیزاری کا اعلان کیا ان کی یہ بات ان کی اولاد میں بھی باقی رہی جسے یہاں وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً لِّقَوْمٍ عَقِيبٍ سے اور سورۃ بقرہ میں وَوَضَعْنَاهُمْ اٰيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ میں بیان فرمایا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلمہ توحید کی دعوت دی اور اسے اپنی نسل میں باقی رکھا تا کہ ان کی نسل کے لوگ شرک سے باز آئیں لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ میں یہ بات بتائی ہے۔

قریش مکہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور شرک اختیار کئے ہوئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو توحید پر جنم کی وصیت فرما کر اپنی ذمہ داری پوری فرمادی تھی لیکن اہل عرب اکثر مشرک ہو گئے تھے پھر جب نبی عربی سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ نے توحید کی دعوت دی تو برس ہا برس کی محنت کے بعد قریش مکہ نے شرک چھوڑا اور توحید پر آ گئے فصلى الله على خليفه وحيه.

اس کے بعد فرمایا اِنَّ مَكَّةَ هُوَ لَكَ (الایۃ) ان لوگوں کے پاس حق تو آگیا ہے لیکن قبول کرنے سے گریز کر رہے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ ان کو اور ان کے باپ دادوں کو میں نے دنیا کا سامان دے دیا یہ لوگ اس میں مشغول ہیں اس



مشغولی نے ان کو یہاں تک پہنچا دیا کہ جب ان کے پاس حق آگیا اور رسول مبین یعنی محمد رسول اللہ ﷺ تشریف لے آئے جنہوں نے واضح طور پر توحید کی دعوت دے دی جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بعد میں آنے والوں کے لئے باقی رکھا تھا تب بھی حق کو قبول کرنے سے اعراض کر رہے ہیں۔

وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ (اور جب ان کے پاس حق آگیا تو کہنے لگے یہ جادو ہے ہم اسے نہیں مانتے) قرآن کو ان لوگوں نے جادو بتا دیا اور اس کی دعوت حق کو ماننے سے منکر ہو گئے۔

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقُرَيْتَيْنِ عَظِيمٍ ۚ أَهُم يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ

اور ان لوگوں نے کہا کہ یہ قرآن دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ کیا وہ آپ کے رب کی رحمت

رَبِّكَ لَمْ يَخُنْ قَسَمَنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ

کو تقسیم کرتے ہیں۔ ہم نے ان کے درمیان دنیا والی زندگی میں ان کی معیشت تقسیم کر رکھی ہے اور ہم نے بعض کو بعض پر درجات کے اعتبار سے فوقیت دی ہے

لِيُخْذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرَ لَهَا وَرَحِمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۚ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ

تاکہ ان میں سے ایک دوسرے سے کام لیتا رہے اور آپ کے رب کی رحمت اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب

أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ لَّجَعَلْنَا الْإِنسَانَ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِيُوقِتَهُمْ سُفْقَاتٍ مِّنْ فَضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهِمْ لِيُظْهَرُونَ ۚ

لوگ ایک ہی طریقہ پر ہو جائیں گے تو ہم ان لوگوں کے لئے جو رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کے گھروں کی چھتوں کو چاندی کی کر دیتے

وَلِيُوقِتَهُمْ أَنْبَاءًا وَسُورًا عَلَيْهَا يُتَكَلَّمُونَ ۚ وَذُرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعَ الْحَيَاةِ

اور بڑے بھی جن پر وہ چڑھتے ہیں اور گھروں کیلئے دروازے بھی اور تخت بھی جن پر وہ نیک لگاتے ہیں اور سونے کے بھی اور یہ سب کچھ صرف دنیا والی

الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ۝

زندگی کا سامان ہے۔ اور آپ کے رب کے پاس آخرت متقیوں کیلئے بہتر ہے۔

مکہ والوں کا جاہلانہ اعتراض کہ مکہ یا طائف کے بڑے لوگوں میں سے نبی کیوں نہ آیا اہل دنیا کو دنیا ہی محبوب ہے، سونے چاندی کے اموال دنیا میں کام آتے ہیں اور آخرت متقیوں کیلئے ہے

تفسیر: دنیا دار دنیا ہی کو بڑی چیز سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیاوی مال و اسباب زیادہ ہوں یا چودھری قسم کا آدمی ہو کسی قسم کی سرداری اور بڑائی حاصل ہو یا کو بڑا آدمی سمجھتے ہیں خواہ کیسا ہی بڑا ظالم خائن، سود خور، کنبوس، کبھی چوس ہو، جب کسی بستی یا محلہ میں داخل ہو اور دریافت کرو کہ یہاں کا بڑا آدمی کون ہے تو وہاں کے رہنے والے کسی ایسے ہی شخص کی طرف

اشارہ کرتے ہیں جو مالدار اور صاحب اقتدار ہوا اخلاق فاضلہ والے انسان اللہ کے عبادت گزار بندے علوم و معارف کے حاملین کی بڑائی کی طرف لوگوں کا ذہن جاتا ہی نہیں، عموماً انسانوں کا یہی مزاج اور حال رہا ہے رسول اللہ ﷺ کی اخلاق فاضلہ اور خصال حمیدہ کے سب معتقد اور معترف تھے لیکن جب آپ نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کیا جہاں تکذیب اور انکار کے لئے لوگوں نے بہت سے بہانے ڈھونڈے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ آپ پیسے والے آدمی نہیں اور آپ کو دنیاوی اعتبار سے کوئی اقتدار بھی حاصل نہیں لہذا آپ کیسے نبی اور رسول ہو گئے؟ اگر اللہ کو رسول بھیجنا ہی تھا اور قرآن نازل کرنا ہی تھا تو شہر مکہ یا شہر طائف کے بڑے آدمیوں میں سے کسی شخص کو رسول بنانا چاہئے تھا وہی رسول ہوتا اسی پر قرآن نازل ہوتا اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے شخص کو رسول بنایا جو پیسہ کوڑی کے اعتبار سے برتر نہیں اور جسے کوئی اختیار اور اقتدار کی برتری بھی حاصل نہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی معاملہ التزمل میں لکھا ہے کہ ان لوگوں کا اشارہ ولید بن المغیرہ اور عروہ بن مسعود ثقفی کی طرف تھا پہلا شخص اہل مکہ میں سے اور دوسرا شخص اہل طائف میں سے تھا یہ دونوں دنیاوی اعتبار سے بڑے سمجھے تھے ان ناموں کی تعین میں اور بھی اقوال ہیں اللہ تعالیٰ شانہ نے ان لوگوں کی بات کی تردید فرمائی اور جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اَنَّهُمْ يَقِفُونَ رَحْمَتَكَ (کیا یہ لوگ آپ کے رب کی رحمت یعنی نبوت کو تقسیم کرتے ہیں) یہ استفہام انکاری ہے مطلب یہ ہے کہ انہیں کیا حق ہے کہ منصب نبوت کو اپنے طور پر کسی کیلئے تجویز کریں رسول بنانے کا اختیار انہیں کس نے دیا ہے کہ یہ جس کیلئے چاہیں عہدہ نبوت تجویز کریں اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے اپنے بندوں میں سے جسے چاہے نبوت و رسالت سے سرفراز فرمائے وہ جسے منصب نبوت عطا فرماتا ہے اسے ان اوصاف سے متصف فرمادیتا ہے۔ جن کا نبوت کیلئے ہونا ضروری ہے سورہ انعام میں فرمایا اللہ اَنَّهُمْ حَافِظُونَ رِسَالَتِكَ (اللہ خوب جاننے والا ہے اپنے پیغام کو جہاں بھیجے) ان لوگوں کو نہ کسی کو نبی بنانے کا اختیار ہے اور نہ نبی کے اوصاف تجویز کرنے کا..... پھر فرمایا مَن مِّنْكُمْ يَتَّبِعْهُ فَيُتَّبِعْهُ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا (ہم نے ان کے درمیان معیشت یعنی زندگی کا سامان دنیا والی زندگی میں بانٹ دیا) وَكَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ (اور درجات کے اعتبار سے ہم نے بعض کو بعض پر فوقیت دے دی کسی کو نبی بنایا کسی کو فقیر کسی کو مالک اور کسی کو مملوک لِيَكُنْ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَابِقًا (تا کہ بعض لوگوں کو بعض لوگوں کو اپنے کام میں لاتے رہیں) اگر کبھی برابر کے مالدار ہوتے تو کوئی کسی کا کام کیوں کرتا اب صورت حال یہ ہے کہ کم پیسے والے مالداروں کے باغوں اور کھیتوں اور کارخانوں میں کام کرتے ہیں اور طرح طرح کے کاموں کی خدمت انجام دیتے ہیں اس طرح سے عالم کا نظام قائم ہے مالدار کام لینے ہیں کم پیسے والے مزدوری لیتے ہیں دنیا اس طرح چل رہی ہے جب اللہ تعالیٰ شانہ نے دنیاوی معیشت کو انسانوں کی رائے پر نہیں رکھا جو ادنیٰ درجہ کی چیز ہے اور اپنی حکمت کے موافق بندوں کی مصلحتوں کی رعایت فرماتے ہوئے خود ہی مال تقسیم فرمادیا تو نبوت کا منصب کسی کو لوگوں کی رائے کے موافق کیسے دے دیا جاتا جو بہت ہی بلند بالا چیز ہے۔ قال القرطبي فاذا لم يكن امر الدنيا اليهم فكيف يفوض امر النبوة اليه، وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (علامہ قرطبی فرماتے ہیں جب دنیا کا معاملہ ان کے سپرد نہیں تو نبوت اس کے اختیار میں کیسے دی جاسکتی ہے) (اور آپ کے رب کی رحمت اس سے بہتر ہے جو یہ لوگ جمع کرتے ہیں) یعنی جن لوگوں کو دنیاوی چیزیں دی گئی ہیں وہ انہیں جمع کرنے سینے میں لگے ہوئے ہیں انہیں سمجھنا چاہئے کہ پروردگار اصل مجاہدہ کی رحمت یعنی جنت اور وہاں کی نعمتیں اس سے بہتر ہیں۔

وَلَوْلَا اَنْ يَكُوْنَ الْفَالْسُ (الایات الثلاث) ان تینوں آیتوں میں دنیا کی حقارت بیان فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ لوگ ایک ہی طریقہ اختیار کر لیں گے اور ایک ہی جماعت بن جائیں گے یعنی دنیا کی رغبت رکھنے کی وجہ سے عام طور سے لوگ کفر ہی اختیار کر لیں گے تو ہم کافروں کو اتنا سونا چاندی دیتے کہ ان کے گھروں کی چھتیں اور ان کے زینے اور سیڑھیاں جن کے ذریعے وہ اوپر چڑھتے ہیں اور ان کے گھروں کے دروازے اور ان کے تخت جن پر بیکہ لگا کر بیٹھتے ہیں ان سب کو سونے چاندی کا بنا دیتے (انسان کا مزاج چونکہ دنیا کی چیزوں کو ترجیح دیتا ہے اس لئے یہ دیکھ کر کہ کافر ہونے میں دولت ملتی ہے ایمان قبول نہ کرتے اور کفر کو اختیار کئے رہتے اس لئے ایسا نہیں کیا گیا کہ مال و دولت صرف کافروں ہی کو دیا جائے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام رکھا ہے کہ اہل ایمان بھی مالدار رکھے ہیں اور کافروں میں بھی اور دونوں جماعتوں میں تنگدست بھی ہیں اور فقیر بھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا بہت ہی زیادہ حقیر ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک مرتبہ بھیڑ کے ایک بچہ کے پاس سے گزرے جو مرا ہوا تھا اور اس کے کان بھی کٹے ہوئے تھے اس کو دیکھ کر آپ ﷺ نے حاضرین سے فرمایا کہ تم میں سے کون شخص یہ پسند کرتا ہے کہ ایک درہم کے عوض اس کو لے لے؟ حاضرین نے عرض کیا کہ اسے تو ہم مفت میں لینا بھی پسند نہیں کرتے! آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ کے نزدیک پوری دنیا اس سے زیادہ ذلیل ہے جتنا یہ (مرا ہوا بچہ) تمہارے نزدیک ذلیل ہے (رواہ مسلم) حضرت ہبل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا اگر دنیا اللہ کے نزدیک مجھ کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا۔ (رواہ احمد و الترمذی و ابن ماجہ کما فی المسکواۃ ص ۴۴۱)

اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا اتنی زیادہ ذلیل ہے اگر وہ اسے اپنے دشمنوں کو بھی دیدے تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے پھر کافر بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں انہیں آخرت میں کوئی نعمت نہیں ملنی لہذا انہیں دنیا میں بہت کچھ دے دیا جاتا ہے مومن بندوں کو کافروں کی دنیا دیکھ کر رال ٹپکانہ مومنانہ سمجھداری کے خلاف ہے۔

حضرت شہد ارضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اے لوگو! یہ بات بلا شک و شبہ ہے کہ دنیا ایک سامان ہے جو سب کے سامنے حاضر ہے اس میں سے نیک و بد سب کھاتے ہیں اور بلاشبہ آخرت کا وعدہ سچا ہے اس میں وہ بادشاہ فیصلہ کرے گا جو عادل ہے قادر ہے وہ حق ثابت فرمائے گا اور باطل کو باطل کر دے گا تم آخرت کے بیٹے بنو اور دنیا کے بیٹے مت بنو کیونکہ ہر ماں کا بچہ اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے۔ (مسکواۃ المصابیح ص ۴۴۵)

قوله تعالى ( وَنُحْرُفًا ) قال القرطبي الزخرف هنا الذهب والنتصب زُخْرُفًا على معنى وجعلنا لهم مع ذلك زخرفاً. وقيل بنزع الخافض والمعنى فجعلنا لهم سُقْفًا وابواباً وسرراً من فضة ومن ذهب فلما حذف "مِنْ" قال " وَنُحْرُفًا " فنصب. (اللہ تعالیٰ کا قول زُخْرُفًا کے بارے میں علامہ قرطبیؒ فرماتے ہیں یہاں زُخْرُف سے مراد سونا ہے اور زُخْرُف اس لئے منصوب ہے کہ معنی یہ بنے گا اور ہم نے ان کیلئے اس کے علاوہ سونا بنایا ہے۔ بعض نے کہا حرف جر کے محذوف ہونے کی وجہ سے منصوب ہے معنی اس طرح ہے کہ ہم نے ان کیلئے چھتیں، دروازے اور تخت چاندی و سونے کے بنائے (مِنْ ذَهَبٍ) جب مِنْ حذف کیا تو زُخْرُفًا کو نصب دیدی گئی)

وَلَاِنْ كُلُّ فُلٍ لَّمَّا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا (اور یہ سب دنیا والی زندگی کے سامان کے سوا کچھ نہیں دنیا حقیر ہے اور

فانی ہے یہ چیزیں بھی حقیر ہیں اور فانی ہیں۔

وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ (اور آخرت یعنی اس کی باقی رہنے والی نعمتیں آپ کے رب کے نزدیک متقین کے لئے ہیں وہ وہاں ان سے متمتع ہوں گے اور وہ نعمتیں دائمی ہوں گی)

وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ قَرِينٌ ۖ وَهُمْ لِيَصُدُّوهُمْ عَنْ

اور جو شخص رحمن کی نصیحت سے اندھا بن جائے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں سو وہ اس کے ساتھ رہتا ہے اور بلاشبہ وہ ان کو راستہ سے

السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّقْتَدُونَ ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدُ

روکتے ہیں اور یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں یہاں تک کہ جب ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا کہ اے کاش میرے اور تیرے درمیان

الْمُشْرِيقَيْنِ فَيُكْسِرُ الْقُرْءَانَ وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ۖ

مشرق اور مغرب والی دوری ہوتی سو تو برا سمجھی تھا اور جب تم نے ظلم کیا تو آج تمہیں یہ بات ہرگز نفع نہ دے گی کہ تم عذاب میں شریک ہو

أَفَأَنْتَ سَمِيعُ الصُّمِّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْى وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۖ فَإِنَّا نَذْهَبُ بِكَ

کیا آپ بہروں کو سنا دیں گے یا اندھوں کو ہدایت دے دیں گے اور ان لوگوں کو جو صرغ گراہی میں ہیں سو اگر ہم آپ کو لے جائیں تو

فَإِنَّا مِنهُمْ مُّقْتَدُونَ ۖ أَوُزِيرُكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّقْتَدِرُونَ ۖ فَاسْتَمْسِكْ

بھی ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں یا ہم آپ کو وہ چیز دکھادیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے سو بلاشبہ ہم ان پر قدرت رکھنے والے ہیں سو آپ کی

بِالَّذِي أَوْحَىٰ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۖ وَإِنَّ لَكَ لَرُكْزًا وَلِقَؤُوكَ ۖ وَسَوْفَ تَسْأَلُونَ ۖ

طرف جوئی کی لگی ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہئے بلاشبہ آپ صراطِ مستقیم پر ہیں اور بلاشبہ یہ قرآن شرف ہے آپ کے لئے اور آپ کی قوم کے لئے اور مغرب تم سے سوال کیا جائے گا

وَسَأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهًا يُعْبَدُونَ ۖ

اور اپنے رسولوں میں سے جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا ہے ان سے دریافت کر لیجئے کیا ہم نے رحمن کے سوا دوسرے معبود جو بڑے کئے ہیں جن کی عبادت کی جائے؟

جو رحمن کے ذکر سے غافل ہو اس پر شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے

قیامت کے دن اس سے کچھ فائدہ نہ پہنچے گا کہ دوسروں کو بھی تو

عذاب ہو رہا ہے آپ ﷺ کی زندگی میں بھی ان پر عذاب آ سکتا ہے

تفسیر: لفظ يَعْشُ عَشَى يَعْشُو سے يَذْغُو کے وزن پر مضارع کا صیغہ ہے من شرطیہ داخل ہونے کی وجہ سے مجزوم ہے جس کی وجہ سے واو حذف ہو گیا اس کا لغوی معنی یہ ہے کہ آنکھوں میں کوئی بیماری نہ ہو تب بھی نظر نہ آئے اور

بعض حضرات نے اس کا یہ معنی بتایا ہے کہ نظر کمزور ہو جائے جس سے اچھی طرح نظر نہ آئے آیت کا مطلب یہ ہے بہت سے لوگوں کے پاس حق آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت آئی یعنی انہوں نے قرآن کو سنا اور سمجھا لیکن قصد اور ارادۃ اس کی طرف اندھے بن گئے جو لوگ اس طریقے کو اختیار کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر ایک شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے اب یہی شیطان ان کا ساتھی بنا رہتا ہے اور ان کو حق قبول نہیں کرنے دیتا اور حق پر نہیں آنے دیتا یہ شیاطین جو اس قسم کے لوگوں کے ساتھی بن جاتے ہیں ان گمراہی اختیار کرنے والے لوگوں کو راہ حق سے روکتے رہتے ہیں اور یہ لوگ جن کے ساتھی شیاطین بن جاتے ہیں راہ حق سے ہٹ جاتے اور گمراہی میں پڑ جانے کے باوجود یہی سمجھتے رہتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں یہ شیطان اس قرین کے علاوہ ہے جس کا حدیث شریف میں ذکر ہے کہ تم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک قرین فرشتہ اور ایک قرین شیطان مقرر ہے۔ (رواہ مسلم)

ان گمراہوں کی دنیا میں تو شیاطین سے دوستی ہے لیکن جب قیامت کے دن حاضر ہوں گے تو گمراہ ہونے والا آدمی اپنے ساتھی یعنی شیطان سے کہے گا کہ تو نے میرا ناس کھویا کاش دنیا میں میرے اور تیرے درمیان اتنا بڑا فاصلہ ہوتا جتنا مغرب اور مشرق کے درمیان ہے تو میرا برا ساتھی تھا تو نے مجھے گمراہ کیا اور کفر و شرک اور برے اعمال کو اچھا کر کے بتایا۔ کما فی السورة حم السجده وَ قَبَضْنَا لَهُمْ قُرْآنًا فَذُكِّرُوا لَهُمْ وَأَبَيْنَ آيَاتِهِمْ وَمَا خَلَقْنَاهُمْ (اور ہم نے ان کے لئے کچھ ساتھ رہنے والے مقرر کر رکھے تھے سوائے ان کے اگلے پچھلے اعمال ان کی نظر میں اچھے بنا کر دکھا رکھے تھے)۔ دنیا میں تو گمراہوں کا دوستانہ تھا شیاطین بھی کافر تھے اور جن انسانوں کو بہکاتے تھے وہ بھی ان کے بہکانے کی وجہ سے کفر پر جبرے رہتے تھے پھر جب قیامت کے دن موجود ہوں گے تو سب کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا وہاں ایک دوسرے کو عذاب میں دیکھیں گے لیکن اس بات سے کسی کو کچھ نفع نہ ہوگا کہ سب دوزخ میں ہیں اور سب عذاب میں ہیں یعنی جس طرح دنیا میں ایک دوسرے کو مصیبت میں دیکھ کر تسلی ہو جاتی ہے کہ ہم تنہا مصیبت میں نہیں ہیں، دوسرے لوگ بھی اس مصیبت میں مبتلا ہیں جو ہم پر آتی ہے وہاں اس بات سے کسی کو کچھ نفع نہ ہوگا کہ سب عذاب میں شریک ہیں کیونکہ وہاں کا عذاب بہت سخت ہے۔

دنیا میں جو بہت سے لوگوں کو ایمان کی دعوت دی جاتی ہے تو حق جانتے اور پہچانتے ہوئے اسلام قبول نہیں کرتے اور نفس و شیطان ان کو یہ سمجھا دیتا ہے کہ اور بھی تو کروڑوں ایسے لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں جو ان کا حال ہوگا وہی ہمارا ہو جائے گا ایسے لوگوں کو بتا دیا کہ عذاب میں پڑنے والوں کے ساتھ عذاب میں جانا یہ کوئی سمجھداری نہیں ہے جب سب عذاب میں جائیں گے تو یہ دیکھ کر کچھ فائدہ نہ ہوگا کہ دوسرے لوگ بھی عذاب میں ہیں۔

بہت سے وہ لوگ جو مسلمان ہونے کے دعویدار ہیں ان کا بھی یہ طریقہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فرائض انجام دو حرام سے بچو اور گناہوں کو چھوڑ دو تو کہہ دیتے ہیں کہ اور کون شریعت پر چل رہا ہے جو ہم چلیں یہ جاہلانہ جواب ہے یہاں تو گناہگاروں کی جماعت میں شریک ہونا نفس کو اچھا لگ رہا ہے لیکن روز قیامت جب گناہگاروں کی صف میں کھڑے ہوں گے اور عذاب میں مبتلا ہوں گے اس وقت اس بات سے کسی کو کچھ فائدہ نہ ہوگا کہ ہم بھی عذاب میں ہیں تو کیا ہوا اور ہزاروں آدمی بھی تو عذاب میں ہیں اس بات کا خیال کرنے سے کسی کا عذاب ہلکا نہیں ہو جائے گا۔

أَفَأَنْتُمْ تُسْمِعُ الصُّمَّ (الآیہ) کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں یا اندھوں کو راہ پر لا سکتے ہیں جو صرغ گمراہی میں ہیں اس میں رسول اللہ ﷺ کو تسلی دی ہے کہ جو لوگ بہرے اور اندھے ہیں اور صرغ گمراہی میں ہیں آپ انہیں ہدایت پر نہیں لا سکتے یعنی ان کو ہدایت دینا آپ کے اختیار سے خارج ہے آپ اپنی دعوت کا کام جاری رکھیں آپ کی اتنی ہی ذمہ داری ہے۔  
فَأَنفَأَنْتُمْ هَبْنِي بِكَ (الآیہ) (سو اگر ہم آپ کو لے جائیں یعنی دنیا سے اٹھالیں (یا مکہ معظمہ سے نکال کر لے جائیں) تو ان لوگوں کا پھر بھی عذاب سے چھٹکارہ نہیں ہم ان سے انتقام لے لیں گے آپ کے سامنے ہو جسے ہم آپ کو دکھادیں یا آپ کے بعد ہو ہمیں سب پر قدرت ہے یعنی انہیں کفر کی سزا ضرور ملے گی بعض مفسرین نے فرمایا کہ غزوہ بدر میں جو مشرکین مکہ کو شکست ہوئی قتل بھی ہوئے قیدی بھی ہوئے آیت کریمہ میں اس انتقام کا تذکرہ ہے۔

فَأَسْتَمِمْكَ بِالَّذِي أَدْعَى إِلَيْكَ (سو جو وحی آپ کی طرف بھیجی ہے یعنی قرآن نازل کیا گیا اس پر آپ مضبوطی سے قائم رہیے آپ سیدھے راستے پر ہیں دعوت کے کام میں لگا رہنا اور ہمارا ہنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے اس میں اللہ کی رضا ہے کوئی مانے نہ مانے آپ اپنا کام کئے جائیں۔ (کذا فسرہ القرطبی)

وَلَا تَكُنْ لَكَ دُونُكَ وَلَا تَقُولُكَ (اور بلاشبہ یہ قرآن شرف ہے آپ کے لئے اور آپ کی قوم کے لئے) اس آیت میں اللہ جل شانہ نے امتنان فرمایا اور رسول اللہ ﷺ کو خطاب فرمایا ہے کہ یہ قرآن آپ کے لئے اور آپ کی قوم کے لئے باعث شرف ہے اللہ تعالیٰ شانہ مالک الملک ہے اور ملک الملوک ہے سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کا کسی سے خطاب فرمانا یہ بہت بڑا شرف ہے محمد رسول اللہ ﷺ پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب نازل فرمائی اور بار بار آپ کو مخاطب فرمایا اس میں آپ کے لئے بڑے شرف اور فخر کی بات ہے پھر آپ کے واسطے سے آپ کی قوم کو خطاب فرمایا اور ان کی زبان میں اور ان کی لغت میں قرآن مجید نازل فرمایا ان کے لئے بھی یہ بات بڑے شرف کی ہے بہت سوں نے اس کی قدر دانی نہ کی اور کفر پر مرم گئے اور بہت سوں نے قدر دانی کی اس پر ایمان لائے اس کی تلاوت کی اس کو پڑھا اور پڑھایا اور آگے بڑھایا یہ سب اہل عرب کے لئے بڑے شرف اور فخر کی چیز ہے نزول قرآن سے لے کر آج تک پورے عالم میں قرآن مجید پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے جتنے بھی پڑھانے والے ہیں سب کی سند حضرات صحابہ تک پہنچی ہے جنہوں نے قرآن کو سیکھا اور سکھایا اور اس کی قراءت اور روایات اور طرق ادا کو آگے بڑھایا قرآن مجید کی وجہ سے عربی زبان کی پوری دنیا میں اہمیت ہو گئی اس کے قواعد لکھے گئے بلاغت پر کتابیں تصنیف کی گئیں قرآن کی وجہ سے خود عرب بھی بلند ہو گئے ورنہ نزول قرآن سے پہلے دنیا میں ان کی کوئی حیثیت نہ تھی یمن میں کسری کا اقتدار تھا اور شام میں قیصر نصرانی کا اور مدینہ منورہ میں یہودی صاحب اقتدار بنے ہوئے تھے۔

لَقَوْلُكَ سے بعض حضرات نے قریش مکہ کو مراد لیا کیونکہ قرآن مجید ان کی لغت میں نازل ہوا اور بعض حضرات نے مطلقاً عربی بولنے والوں کو مراد لیا ہے یہ تفسیر اس صورت میں ہے جبکہ ذکر سے تذکرہ مراد لیا جائے جس کا حاصل ترجمہ شرف اور فخر کیا گیا۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے قَوْلُكَ سے عام مومنین مراد ہیں اور مطلب یہ ہے کہ قرآن آپ کے لئے ہے اور آپ کی قوم یعنی اہل ایمان کے لئے نصیحت ہے۔

وَسَوْفَ تَنصُرُونَ (اور تم لوگوں سے سوال ہوگا) کہ اس قرآن کا کیا حق ادا کیا اور اس پر کیا عمل کیا اور اس کی کیا قدر کی۔  
وَسُئِلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ نُسَلْنَا (اور جو رسول ہم نے آپ سے پہلے بھیجے ان سے دریافت کر لیجئے کیا ہم نے رحمان کے علاوہ معبود ٹھہرائے جن کی عبادت کی جائے) یعنی ایسا نہیں ہے اس میں بظاہر آپ کو خطاب ہے لیکن اصل مخاطب یہود اور نصاریٰ اور مشرکین ہیں اور انبیائے کرام علیہم السلام سے دریافت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کتابوں کے بعض حصے موجود ہیں انہیں دیکھ کر تحقیق کر لی جائے تحقیق کریں گے تو یہ واضح ہو جائے کہ کسی بھی نبی نے شرک کی تعلیم نہیں دی ہے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ توریت اور انجیل جاننے والوں میں سے جو حضرات ایمان لے آئے تھے ان سے سوال کرنا مراد ہے۔ کما ذکر القرطبی، وقال ایضاً والخطاب للنبی صلی اللہ علیہ وسلم والمراد أمته۔  
(جیسا کہ علامہ قرطبیؒ نے فرمایا اور یہ بھی کہ خطاب حضور ﷺ سے ہے اور مراد امت محمدیہ ہے)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمْ

اور یہ واقعی بات ہے کہ ہم نے موسیٰؑ کو فرعون اور اس کی قوم کے بڑے لوگوں کے پاس اپنی نشانیاں دے کر بھیجا لہذا موسیٰؑ نے کہا کہ ایک رب اللہ میں رسول ہوں سو جب وہ ان کے پاس

بِآيَاتِنَا إِذْ هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ ﴿۲﴾ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ

ہماری نشانیاں لے کر آئے تو یہ کہ ایک وہ ان نشانوں پر ہنسے لگے اور ہم انہیں جو بھی کوئی نشانی دیتے تھے وہ دوسری نشانی سے بڑھ کر ہوتی تھی اور ہم نے

بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿۳﴾ وَقَالُوا يَا كَيْدُ السَّحَرِ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ ﴿۴﴾

انہیں عذاب کے ساتھ پکڑا تا کہ وہ باز آجائیں اور انہوں نے کہا کہ کس جادوگر ہمارے لئے اپنے رب سے اس بات کی دعا کر جس کا اس نے تجھ سے عہد کیا ہے بلاشبہ ہم ایمان پانے والے بن جائیں گے

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِذْ هُمْ يُنْكثُونَ ﴿۵﴾ وَكَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يُقَوْمِر

سو جب ہم نے ان سے عذاب ہٹا دیا تو یہ کہ ایک وہ عہد کو توڑ رہے ہیں اور فرعون نے اپنی قوم میں منادی کرادی اس نے کہا کہ اسے میری قوم

أَكْسَىٰ لِي مُلْكٍ مِّصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿۶﴾ أَمَّا نَاخِدُ مِنْ

کیا میرے لئے مصر کا ملک نہیں ہے؟ اور یہ نہریں جاری ہیں میرے نیچے کیا تم نہیں دیکھتے بلکہ میں اس شخص سے بہتر ہوں

هَٰذَا الَّذِي هُوَ مِثْنُ ۙ وَلَا يَكَادُ يَبِينُ ﴿۷﴾ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ

جو ذلت والا ہے اور وہ واضح طور پر بات بھی نہیں کر سکتا سو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں ڈالے گئے یا اس کے ساتھ

الْمَلِكِ مُقْتَرِنِينَ ﴿۸﴾ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿۹﴾ فَلَمَّا

فرشتے آجائے لگا تار جماعتیں بنا کر سو اس نے اپنی قوم کو مغلوب کر لیا سو انہوں نے اس کی اطاعت کی بلاشبہ وہ لوگ فاسقین تھے سو جب

أَسْفَوْا النَّاقِبَتَا مِنْهُمْ فَاغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۱۰﴾ فَبَعَلْنَاهُمْ سُلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ ﴿۱۱﴾

انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لے لیا سو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا پھر ہم نے انہیں آئندہ آنے والوں کے لئے سلف اور نمونہ بنادیا۔



## حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قوم فرعون کے پاس پہنچنا اور ان لوگوں کا معجزات دیکھ کر تکذیب اور تضحیک کرنا، فرعون کا اپنے ملک پر فخر کرنا اور بالآخر اپنی قوم کے ساتھ غرق ہونا

**تفسیر:** ان آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت و رسالت اور فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں اور چوہدریوں کی تکذیب پھر ہلاکت اور تعذیب کا ذکر ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کے اشراف قوم کے پاس اللہ تعالیٰ کی نشانیاں یعنی معجزات لے کر پہنچے تو ان لوگوں نے ان کا مذاق بنایا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاشی کو ڈال دیا جس کی وجہ سے وہ اڑ دھا بن گئی تو فرعون اور اس کے درباریوں نے کہا کہ اچی یہ کیا معجزہ ہے یہ تو جادو کا کرشمہ ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے جادوگر بلائے ان سے مقابلہ کرایا جادوگروں نے اپنی لاشیاں اور رسیاں ڈالیں جو حاضرین کو دیکھنے میں دوڑتے ہوئے سانپ معلوم ہو رہی تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ ان کے بنائے ہوئے دھندے کو چٹ کرنے لگا اس پر جادوگر ہار مان ہو گئے جس کا واقعہ سورۃ الاعراف، سورۃ طہ اور سورۃ الشعراء میں مذکور ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دوسرا معجزہ یہ بیضا تھا اس کا مقابلہ کرنے کی تو ہمت ہی نہ ہوئی اور نہ ہو سکتی تھی، کیونکہ وہ امر غیر اختیاری تھا ان کے علاوہ اور بھی معجزات تھے جو فرعونوں کے لئے بھیجے گئے تھے جن کا ذکر سورۃ اعراف میں یوں بیان فرمایا ہے **وَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ** (یعنی ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈیاں اور جوئیں اور خون بھیج دیا تو صبح و شبح کیلئے آیت بالا کی تفسیر ملاحظہ کر لی جائے یہ چیزیں ان پر عذاب کے طور پر تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعدد معجزات تھے جب کوئی نشانی ظاہر ہوتی تھی تو وہ اپنی ساتھ والی دوسری نشانی سے بڑھ چڑھ کر ہوتی تھی عذاب آتا تھا تو کہتے تھے کہ ہم تو اسے جادو ہی سمجھ رہے ہیں تم کہتے ہو یہ میرے رب کی طرف سے ہے جو مجھے بطور معجزہ عطا کیا ہے اور تم یہ بھی کہتے ہو کہ اگر تم ایمان لے آؤ گے تو میرا رب تمہارے اس عذاب کو ہٹا دے گا ہماری سمجھ میں یہ بات آتی تو نہیں ہے ہم تو تمہیں جادوگر ہی سمجھ رہے ہیں لیکن اگر تمہارے رب نے ہمارا عذاب ہٹا دیا تو ہم ضرور راہ پر آجائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہٹا دیا جاتا تھا تو اپنا عہد توڑ دیتے تھے اور کافر کے کافر ہی رہتے تھے فرعون کو فکر لگی ہوئی تھی کہ یہ شخص بڑے بڑے معجزات دکھاتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری قوم کے لوگ اس بات کو قبول کر لیں اور میری حکومت اور سلطنت جاتی رہے اور یہی بڑا بین جائے لہذا اس نے اپنی قوم میں ایک منادی کرا دی اور اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لئے کہا کہ دیکھو میں مصر کا بادشاہ ہوں میرے نیچے نہریں بہتی ہیں میں اس شخص سے بہتر ہوں جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے یہ میرے مقابلے میں ذلت والا ہے اس کی مالی حیثیت بھی نہیں اور یہ اور اس کا بھائی اس قوم میں سے ہے جو ہمارے خدمت گزار ہیں **فَقَالُوا اَنْتُمْ لَكُمْ بَشَرَتَيْنِ مِثْلَيْنَا وَ قَوْمُهُمَا لَنَا عَدُوْنٌ** یہ اول تو دنیاوی اعتبار سے مجھ سے کم ہیں اس کی کچھ حیثیت نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اچھی طرح بیان بھی نہیں کر سکتا (حضرت موسیٰ

علیہ السلام کی زبان میں جو کثنت تھی اس کی طرف اشارہ کیا) اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر یہ شخص نبی ہے تو بہت بڑا مالدار ہونا چاہئے اگر نبی ہوتا تو اس پر سونے کے کنگن ڈالے جاتے اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس کی تائید کے لئے فرشتے آنے چاہئیں تھے جو لگاتار صفیں بنا کر آجاتے اس کی تائید اور مدد کرتے۔

ہر قوم کے چھوٹے لوگ بڑے لوگوں کی طرف دیکھا کرتے ہیں بڑے لوگ فرعون کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے ان کی دیکھا دیکھی قوم کے دوسرے لوگ بھی مغلوب ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے فرعون کی اطاعت کا دم بھرتے رہے اس کی قوم کے چھوٹے بڑے لوگ فاسق اور نافرمان تھے شرارت سے بھرے ہوئے تھے انہوں نے کفر پر رہنے کا فیصلہ کیا سمجھانے سے باز نہ آئے موسیٰ علیہ السلام کی اور معجزات کی بے ادبی کی اور معجزات کو جادو بتایا یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کا غضب نازل کرنے والی تھیں اللہ تعالیٰ نے ان سے بدلہ لے لیا اور ان سب کو ڈوب دیا غرق کرنے تک کا واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا **فَجَعَلْنَاهُمْ سُلَفًا** کہ ہم نے انہیں بعد میں آنے والوں کے لئے سلف یعنی پہلے گزر جانے والا نمونہ بنا دیا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ دنیا میں پہلے آئے سرکشی کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوئے ڈوب دیئے گئے بعد میں آنے والوں کے لئے ان کا واقعہ عبرت اور نصیحت ہے قصص الاولین مواظبا الاخرین پہلے لوگوں کے واقعات جنہیں سلف کہا جاتا ہے بعد میں آنے والوں کے لئے عبرت ہوتے ہیں اور اس بات کا نمونہ بن جاتے ہیں کہ جو قوم ان کی طرح اعمال کرے گی ان کے ساتھ پرانے لوگوں جیسا معاملہ کیا جائے گا۔

قوله تعالى انا خير قال ابو عبيدة ام بمعنى بل ليس بحرف عطف ، وقال الفراء ان شئت جعلتها من الاستفهام وان شئت جعلتها من النسق على قوله اليس لي ملك مصر ، وقيل هي زائدة وقوله مُفْتَرَيْنِ معناه قال ابن عباس رضى الله عنه يعاونونه على من خالفه وقال قتادة متابعين قال مجاهد يمشون معه والمعنى هل ضم اليه الملائكة التي يزعم أنها عند ربه حتى يتكثروهم ويصرفهم على امره ونهيه فيكون ذلك اهيـب في القلوب.

وقوله تعالى فاستخف قومه قال ابن الاعرابي المعنى فاستجهل قومه لنخفة احلامهم وقلة عقولهم ، وقيل استخف قومه قهرهم حتى اتبعوه يقال استخف خلف استشقة واستخف به اهانه.

قوله تعالى فَلَمَّا ابْتَفَوْنا عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ اى غاظونا واغضبونا والغضب من الله اما ارادة العقوبة فيكون من صفات الذات واما عين العقوبة فيكون من صفات الفعل. (من القرطبي ص ۱۰۱ ج ۱۶)  
(ارشاد الی ام انا خير، ابو عبیدہ نے کہا ام بل کے معنی میں ہے، حرف عطف نہیں ہے، فراء کہتے ہیں اگر چاہو تو استفہام کیلئے سمجھو چاہو تو ایس لی ملکہ مصر پر عطف مان لو، بعض نے کہا زائد ہے۔

”مُفْتَرَيْنِ“ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں: اس کا معنی ہے وہ مخالفوں کے خلاف اس کی مدد کرتے، قتادہ کہتے ہیں اس کا معنی ہے متتابعین یعنی اس کی پیروی کرتے، مجاہد کہتے ہیں اس کے ساتھ چلتے مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ فرشتے ہوئے جو اس بات کی دلیل ہوتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہاں تک کہ وہ ان فرشتوں سے کثرت حاصل کرتا اور امر و نہی کا ان پر تصرف کرتا تو اس سے دلوں میں رعب پڑتا۔

”فَاَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ“ ابن الاعرابی کہتے ہیں اس کا معنی ہے اس کی قوم کم عقلی و بے وقوفی کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ناسمجھ سمجھتی رہی، بعض نے کہا معنی یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے فرعونوں کے ظلم کو ہلکا سمجھا اور اس کی اطاعت میں لگے رہے کہا جاتا ہے مخالفت نے اسے ہلکا کر دیا، اور اس نے اس کی اہانت کی۔

”فَلَمَّا اَسْفَوْنَا“ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ اس کا معنی ہے انہوں نے ہمیں غضبناک کیا اور غصہ دلایا، اور اللہ تعالیٰ کے غصہ کا مطلب اگر سزا دینے کا ارادہ ہو تو یہ ذات الہی کی صفت ہے اگر مراد سزا ہے تو یہ فعل کی صفت ہے)

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ۝ وَقَالُوا الْهَيْئَتَا خَيْرٌ اَمْ هُوَ مَا

اور جب ان کے سامنے مریم کے خالق ایک عجیب مضمون بیان کیا گیا تو اہل آپ کی قوم کے لوگ اس کی وجہ سے بچ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کیا اہل معبود ہنر ہیں یا ان لوگوں نے یہ بات بجا آپ سے

ضَرْبُهُ لَكَ الْاَجْدَلُ اَبَلُ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ۝ اِنْ هُوَ اِلَّا عَبْدٌ اَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ

بیان کی ہے صرف جھگڑنے کے طور پر ہے بلکہ بات یہ ہے کہ یہ لوگ جھگڑا لو ہیں وہ نہیں ہے مگر ایک ایسا بندہ جس پر ہم نے انعام کیا اور ہم نے اسے

مَثَلًا لِّبَنِي اِسْرَءِیْلَ ۝ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلٰٓئِكَةً فِی الْاَرْضِ یَخْلُقُوْنَ ۝ وَاِنَّهٗ لَعِلْمٌ

بنی اسرائیل کے لئے ایک نمونہ بنادیا اور اگر ہم چاہتے تو زمین میں تم سے فرشتے پیدا کر دیتے جو یکے بعد دیگرے رہا کرتے اور بے شک

لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُوْنَ هٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیْمٌ ۝ وَلَا یَصُدُّكُمْ الشَّیْطٰنُ

وہ قیامت کے علم کا ذریعہ ہیں سو تم لوگ اس میں شک نہ کرو اور میرا اتباع کرو یہ سیدھا راستہ ہے اور شیطان تمہیں ہرگز نہ روک دے

اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِیْنٌ ۝ وَلَمَّا جَاءَ عِیْسٰی بِالْبَیِّنٰتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِاُبَیِّنَ لَكُمْ

بلاشبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور جب عیسیٰ واضح معجزات لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں اور تاکہ میں تمہارے لئے بعض

بَعْضَ الَّذِیْ تَخْتَلِفُوْنَ فِیْهِ فَاَتَّقُوا اللّٰهَ وَاطِیْعُوْنَ ۝ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ رَبِّیْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ

وہ باتیں بیان کروں جن میں تم اختلاف کرتے ہو سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو بلاشبہ اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے سو تم اس کی عبادت کرو

هٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیْمٌ ۝ فَاَخْتَلَفَ الْاَخْزَابُ مِنْ بَیْنِهِمْ قَوْلٌ لِّلَّذِیْنَ ظَلَمُوْا مِنْ

یہ سیدھا راستہ ہے سو جماعتوں نے آپس میں اپنے درمیان اختلاف کر لیا۔ سو جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے لئے ہلاکت ہے

عَذَابِ یَوْمِ الْیَوْمِ ۝ هَلْ یَنْظُرُوْنَ اِلَّا السَّاعَةَ اَنْ تَاْتِیَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا یَشْعُرُوْنَ ۝

اس دن کے عذاب سے جو دردناک ہوگا یہ لوگ بس قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان کے پاس اچانک آجائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔

اَلْاَخْلَآءُ یَوْمَیْذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِیْنَ ۝

جتنے دوست ہیں اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر جو لوگ ہیں ڈرنے والے

## قریش مکہ کی ایک جاہلانہ بات کی تردید حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات گرامی کا تعارف اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت ہی صراط مستقیم ہے

**تفسیر:** تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ قریش نے عبد اللہ بن زبعری سے کہا (اس وقت اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا کہ محمد ﷺ یہ سناتے ہیں۔ اِنَّا كُفْرًا وَمَا نَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصْبًا بَلَّاشَةً اور وہ جن کی اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو دوزخ کا ایندھن ہو) (یہ سورۃ الانبیاء کی آیت ہے) تو عبد اللہ بن زبعری یہ سن کر کہنے لگا کہ میں موجود ہوتا تو اس کی تردید کر دیتا قریش نے کہا کہ تو کیا کہتا اس پر عبد اللہ نے کہا کہ میں یوں کہتا کہ یہ مسیح (عیسیٰ علیہ السلام) ہیں جن کی نصاریٰ عبادت کرتے ہیں اور یہ عزیر ہیں جن کی یہود عبادت کرتے ہیں تو کیا یہ دونوں دوزخ کا ایندھن ہیں قریش کو یہ بات پسند آئی اور انہوں نے خیال کیا کہ یہ لا جواب کرنے والا سوال ہے یہ بات سن کر وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور خوشی کے مارے چیخنے لگے سورۃ الانبیاء میں ان لوگوں کا جواب گزر چکا ہے اِنَّ الَّذِیْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنٰی اُولٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ (بلاشبہ جن کے لئے ہماری طرف سے بھلائی مقدر ہو چکی ہے وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے)

اور ایک روایت میں یوں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک دن یوں فرمایا مَعْشَرَ قُرَیْشٍ لَا خَیْرَ فِیْ اَحَدٍ یُعْبَدُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ (اے قریش کی جماعت اس میں کوئی خیر نہیں ہے اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جاتی ہو) یہ سن کر قریش کہنے لگے کیا آپ یہ نہیں فرماتے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے اور عبد صالح تھے آپ کے کہنے مطابق وہ بھی دوزخ میں جانے والوں میں شمار ہوئے کیونکہ ایک جماعت نے ان کی عبادت کی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ کے سوا جن لوگوں کی عبادت کی گئی اگر وہ سب دوزخ میں ہوں گے تو ہم اس پر راضی ہیں کہ ہمارے معبود بھی عیسیٰ اور عزیر اور ملائکہ (علیہم السلام) کے ساتھ ہو جائیں یعنی ان حضرات کا جو انجام ہو گا وہی ہمارے معبودوں کا ہو جائے گا۔

ان لوگوں کا مقصد صرف جھگڑنا اور الزام دینا تھا حق اور حقیقت سے انہیں کچھ واسطہ نہ تھا یہ تو ایک سیدھی بات ہے کہ جو حضرات اللہ تعالیٰ کے محبوب مقرب ہیں وہ دوزخ میں کیوں جانے لگے؟ لیکن محض جھگڑے بازی کے لئے انہوں نے ایسی بات کہی اس کو سامنے رکھ کر پہلی دوا آیتوں کا مطلب سمجھ لیں وَلَقَدْ اٰخِذْنَا بِاَبْنِ مَرْیَمَ اور جب ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ایک اعتراض کرنے والے نے ایک عجیب مضمون بیان کیا یعنی یوں کہا کہ ہمارے معبود دوزخ میں ہوں گے اور عیسیٰ بھی دوزخ میں ہوں گے تو اس بات کو سن کر قریش مکہ خوشی میں چیخنے لگے اور حضرت رسول اکرم ﷺ سے کہنے لگے کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا عیسیٰ؟ ان کا مطلب یہ تھا کہ جب عیسیٰ خیر ہیں حالانکہ ان کی عبادت کی گئی تو ہمارے جو دوسرے معبود ہیں وہ خیر ہوں یہ کیوں نہیں ہو سکتا ان لوگوں کو چونکہ صرف جھگڑنا ہی مقصود تھا اسی لئے فرمایا مَا ضَرُّهُمْ بِذٰلِكَ اِلَّا جَدَلٌ کہ ان لوگوں نے جو آپ کے سامنے ابن مریم کی بات بیان کی ہے یہ محض جھگڑے کی غرض سے ہے بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ یعنی ان کا جھگڑنا کچھ اسی مضمون کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ یہ لوگ جھگڑالو ہیں ان کا طریقہ یہ ہے کہ حق باتوں میں جھگڑتے رہتے ہیں۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ہدات کے بعد جن لوگوں نے بھی گمراہی اختیار کی انہیں جھگڑے بازی دے دی گئی یعنی ان کا مزاج جھگڑے بازی کا بن گیا اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے یہ آیت ماضیہ لکھ کر اَلْجَدَلُ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ تلاوت فرمائی۔ (رواہ الترمذی)

اِنْ هُوَ اِلَّا عَبْدٌ اُنْعَمْنَا عَلَيْهِ (عیسیٰ بن مریم علیہ السلام محض ایک ایسے بندے ہیں جن پر ہم نے انعام کیا یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر ہم نے انعام کیا انہیں نبوت سے سرفراز کیا یہی تو اس لئے آتے تھے کہ وہ اللہ کی توحید کی دعوت دیں نہ یہ کہ وہ اپنی عبادت یا کسی بھی غیر اللہ کی طرف بلائیں جن لوگوں نے ان کی عبادت کی وہ ان کی حماقت ہے ان کے اعمال کی سزا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں ملنے لگی؟ جنہوں نے ان کی عبادت کی وہی دوزخ میں جانے والے ہیں اور جن بتوں کی عبادت کی گئی وہ بھی دوزخ میں داخل ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام دیگر انبیائے کرام علیہم السلام کی طرح اللہ کے نزدیک منعم و مکرم ہیں۔

وَجَعَلْنَاهُ مِثْلًا لِّبَنِي اِسْرَآئِیْلَ (اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کیلئے ایک نمونہ بنا دیا تھا) انہیں بغیر باپ کے پیدا کیا جس سے اللہ تعالیٰ شانہ کی قدرت کاملہ کا لوگوں کو علم ہو گیا وہ بغیر باپ کے بھی پیدا فرمانے پر قدرت رکھتا ہے قال القرطبی ای اية وعبرة يستدل بها على قدرة الله تعالى فان عيسى كان من غير اب.

اس کے بعد فرمایا وَلَوْ شَاءَ اَوْجَعْنَا لَمُتَّكُمُ الْاَيَةُ (اور اگر ہم چاہتے تو زمین میں تم سے فرشتے پیدا کر دیتے جو یکے بعد دیگرے زمین میں رہا کرتے) یعنی انسانوں سے فرشتے پیدا کر دیتے جو زمین میں رہتے ان کی پیدائش بھی آدمیوں کی طرح ہوتی اور موت بھی یعنی وہ دنیا میں آتے جاتے رہتے یہ الفاظ کا ظاہری ترجمہ ہے و هو قبول فی تفسیرہ اس کا دوسرا مطلب مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو فرشتوں کو زمین میں آباد کر دیتے اپنی مخلوق کو ہم جہاں چاہیں آباد کریں مخلوق مخلوق ہی ہے کہیں بھی رہے وہ عبادت کے لائق نہیں ہو سکتی فرشتوں کا آسمان میں ٹھہرنا کوئی ایسا شرف نہیں ہے کہ وہ معبود ہو گئے یا یہ کہ انہیں اللہ کی بیٹیاں کہا جائے و المعنى لو نشاء لا سكنا الارض المملوكة وليس في اسكاننا اياهم السماء شرف حتى يعبدوا او يقال لهم بنات الله. (معنی یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے تو ہم فرشتوں کو زمین میں ٹھہرا دیتے، ان کے آسمان میں ٹھہرانے میں کوئی ان کا ایسا شرف نہیں ہے کہ ان کی عبادت شروع کر دی جائے یا انہیں اللہ کی بیٹیاں قرار دیا جائے)

آیت بالا کا ایک مطلب معالم التنزيل ج ۴ ص ۱۴۳ میں یہ لکھا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو تمہیں ہلاک کر دیں اور تمہارے بدلہ زمین میں فرشتے پیدا کر دیں جو زمین کے آباد کرنے میں تمہارے خلیفہ ہو جائیں اور میری عبادت اور فرمانبرداری کریں فیکون لفظہ منکم بمعنی بدلا منکم قال القرطبی ناقلا عن الذہری ان من قد تکون للبدل بدلیل هذه الاية.

وَإِنَّكُمْ لَعِندَ رَبِّكُمُ لِلتَّاعَةِ (اور بلاشبہ وہ قیامت کے علم کا ذریعہ ہے)

بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اِنَّہ کی ضمیر قرآن کی طرف راجع ہے اور مراد یہ ہے کہ قرآن مجید قرب قیامت کی نشانی ہے (کیونکہ حضور اقدس ﷺ کا تشریف لانا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اب قیامت قریب ہے) کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت انا والساعة کھاتین (میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں جیسے یہ دونوں انگلیاں

قریب قریب ہے۔

اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اُنہ کی ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف رائج ہے اور مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آسمان سے نازل ہوں گے ان کا نزول قریب قیامت کی دلیل ہوگا (یا درہے کہ قرب اور بعد اُنموا راضا فی میں سے ہیں۔

اور بعض حضرات نے آیت کا مطلب یہ بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں مردوں کا زندہ کرنا بھی تھا جسے ان کے زمانہ کے لوگوں نے دیکھا یہ مردوں کا زندہ ہونا قیامت کے دن اموات کے زندہ ہونے کا نمونہ بن گیا۔

فَلَا تَتَذَكَّرْنَ بِهَا وَابْتَغُوا سَوْمَ قِيَامَتِ كَرُوْهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ یہ سیدھا راستہ ہے وَلَا يَصُدُّكُمْ الشَّيْطَانُ (اور تمہیں ہرگز شیطان صراط مستقیم سے نہ روک دے) اِنَّكُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے) صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ یہ رسول اللہ ﷺ کا قول ہے ابْتِغُوا سَوْمَ قِيَامَتِ سے پہلے لفظ قُلْ مقدر ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ (الایہ) (اور جب عیسیٰ واضح معجزات لے کر آئے تو کہا کہ میں تمہارے پاس حجت یعنی نبوت اور اللہ کی کتاب یعنی انجیل لے کر آیا ہوں اور اس لئے آیا ہوں کہ میں تمہارے لئے بعض ان چیزوں کو بیان کر دوں جن میں تم اختلاف کرتے ہو) یعنی امور شرعیہ دینیہ بیان کرتا ہوں جن کی تمہیں ضرورت ہے اور تم نے جو توریت شریف میں تحریف کر لی ہے اسے واضح کرتا ہوں۔ من روح المعانی

فَاتَّبَعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا سَوْمَ قِيَامَتِ (سوم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو) اِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ (بلاشبہ اللہ ہی تمہارا رب ہے اور میرا رب ہے سوم اسی کی عبادت کرو) هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ (یہ سیدھا راستہ ہے)

معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو معجزات ظاہر فرمائے تھے (جن میں مردوں کا زندہ کرنا اور مٹی کی جڑیا بنا کر اس میں پھونک کر اڑا دینا بھی تھا ان کی وجہ سے اندازہ فرمایا تھا کہ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد لوگ میرے معبود ہونے کا عقیدہ بنا سکتے ہیں لہذا انہوں نے پہلے ہی تردید کر دی نصاریٰ پر تعجب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرمان کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ ہی میرا اور تمہارا رب ہے اور تم اسی کی عبادت کرو پھر بھی ان کو معبود مانتے ہیں۔

فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ (آپس میں جماعتوں کے درمیان اختلاف ہو گیا) یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عقیدت رکھنے والوں نے ان کے بارے میں گروہ بندی کر دی اور مختلف جماعتیں بن گئیں ایک جماعت کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے اور ایک جماعت کہتی ہے کہ تین معبود ہیں (جیسا کہ سورۃ مائدہ میں ان کے قول نقل فرمائے ہیں) اور ان میں سے ایک جماعت کہتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں (جیسا کہ سورۃ التوبہ میں نصاریٰ کا یہ قول نقل فرمایا ہے) پھر جن لوگوں نے ان تینوں باتوں کو نہیں مانا انہوں نے بھی اس اعتبار سے کفر اختیار کر لیا کہ محمد رسول اللہ خاتم النبیین ﷺ تشریف لائے تو آپ کی رسالت کے منکر ہو گئے جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی وہ مسلمان ہو گئے جیسا کہ شاہ حبشہ نجاشی اور وہاں کے دوسرے افراد کا واقعہ مشہور ہے۔

قَوْلُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَدَا بَنِي إِسْرَءِيلَ (سوجن لوگوں نے ظلم کیا یعنی شرک اور کفر کو اختیار کیا ان کے لئے ہلاکت و بربادی ہے جو دردناک عذاب کی صورت میں ظاہر ہوگی یعنی قیامت کے دن عذاب میں جائیں گے

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ كَأَنَّهُمْ بَعْغَتْ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (بس یہ لوگ اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ انکے پاس اچانک قیامت آجائے اور انہیں اس کی خبر بھی نہ ہو) هَلْ يَنْظُرُونَ کی ضمیر مستتر کے بارے میں بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ از باب کی طرف راجع ہے اور مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو لوگ اختلاف رکھتے ہیں راہِ حق پر نہیں آتے حق کو قبول نہیں کرتے ان کا طریقہ کار ایسا ہے کہ انہیں قیامت کا انتظار ہے اچانک قیامت آجائے (جس کا انہیں پتہ بھی نہ ہو کیونکہ پہلے سے اس کی آمد کا وقت نہیں بتایا گیا) تو اس وقت توحید پر آئیں گے اور کفر و شرک چھوڑ دیں گے لیکن اس وقت ایمان لانا مفید نہ ہوگا۔

اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ فعل مضارع نظر و ن کی ضمیر قریش کی طرف راجع ہے ان کے سامنے توحید کے دلائل ہیں قرآن کا معجزہ سامنے ہے پھر بھی توحید پر نہیں آتے انہیں اس کا انتظار ہے کہ اچانک قیامت قائم ہو جائے اور انہیں پتہ بھی نہ ہو کہ وہ بھی اچانک آنے والی ہے چونکہ وہ لوگ وقوع قیامت کو مانتے ہی نہ تھے۔ صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ اس میں ان لوگوں کی کم فہمی بیان فرمائی جیسے کوئی شخص اس چیز کے انتظار میں ہو جو ضرور واقع ہونے والی ہو اور جب وہ واقع ہو جائے تو مصیبت بن جائے حالانکہ وہ اس کے وقوع کو اپنے لئے خیر سمجھتا رہا ہو۔

قوله تعالى اذا قُومُكَ مِنْهُ يَصُدُّونَ.

قال القرطبي ج ۱ ص ۱۰۳. قرأ نافع و ابن عامر و الكسائي "يَصُدُّونَ" (بضم الصاد) ومعناه يعرضون، قاله النخعي، وكسر الباقون، قال الكسائي: هما لغتان، مثل يَغْرشون، وَيَمْشُونَ وَيَمْشُونَ، ومعناه يَضْجُونَ، قال الجوهرى: وَضَدَ يَضِدُّ صديداً، أى ضَجَّ وَقِيلَ انه بالضم من الصدود وهو الاعراض، وبالكسر من الضجيج، قاله قُطْرُب، قال أبو عبيد: لو كانت من الصدود دَعْنِ الحق لكانت: اذا قومك عنه يصدون قال الفراء هما سواء، منه وعنه، ابن المسيب: يصدون يضجون، الضحاك يعجون، ابن عباس: يضحكون، أبو عبيدة: من ضَمَّ فمعناه يعدلون، فيكون المعنى: من أجل الميل يعدلون ولا يُعَدِّي "يصدون" بمن، ومن كسر فمعناه يضجون، "فمن" متصل به "يصدون" والمعنى يضجون منه، انتهى.

وقوله تعالى وَلَا يَبَيِّنْ لَكُمْ بِمَقْدَرٍ وَجْهَكُمْ لَا يَبَيِّنْ لَكُمْ (ذَكَرَهُ فِي الرُّوحِ)

يُعْبَادُ لَخَوْفِ عَلَيْهِمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ۝ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ۝

اس دن دوست آپس میں بعض بعض کے دشمن ہوں گے سوائے متقین کے کئے میرے بعد آج تم پر کوئی خوف نہیں اور نہ تم پر غیہ ہو گے جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لائے

ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَآزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ۝ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصَفَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَآكَوَابٍ

اور وہ فرما رہے تھے تم اور تمہاری بیویاں جنت میں خوشی خوشی داخل ہو جاؤ۔ ان پر سونے کی رکابیاں اور آنخوڑے لائے جائیں گے

وَفِيهَا مَا كُنْتُمْ حَافِظِينَ ۝ وَالْأَعْيُنُ ۝ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي

اور اس میں وہ چیزیں ہوں گی جنہیں تم نے نہ دیکھی تھی اور جن سے آنکھیں لذت پائیں گے اور تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو اور یہ جنت جس کے تم



أَوْ تَشْتَوْهَابًا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۵۵﴾ لَكُمْ فِيهَا فَاكُهُ لَشِيرَةٌ مِنْهَا تَاكُلُونَ ﴿۵۶﴾

دارت بنائے گئے ہوتہا ہر اعمال کے بدلہ میں ہے جو تم کرتے تھے تمہارے لئے اس میں بہت بڑے ہیں ان میں سے تم کھا رہے ہو۔

قیامت کے دن دنیا والے دوست آپس میں دشمن ہوں گے  
نیک بندوں کو کوئی خوف اور رنج لاحق نہ ہوگا انہیں جنت میں  
جی چاہی نعمتیں ملیں گی جن سے آنکھوں کو بھی لذت حاصل ہوگی

**تفسیر:** ان آیات میں قیامت کے دن کے بعض انعامات کا اور اہل جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں دوست تھے قیامت کے دن آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے ایک دوسرے پر لعنت کریں گے یَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا یہ جو دنیا میں دوستی ہے جس کی وجہ سے ایک دوسرے کو ایمان پر نہیں آنے دیتے قیامت کے دن وہاں بن جائے گی اور آپس کی دوستی کرنے والے ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے إِلَّا الْمُتَّقُونَ ہاں جو لوگ متقی تھے کفر و شرک سے بچتے تھے یعنی اہل ایمان تھے ان لوگوں کی دوستی قائم رہے گی خاص کر وہ متقی حضرات جو چھوٹے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے تھے وہ تو مسلمانوں کو بخشناؤں کی کوشش کریں گے اور ان کے لئے سفارش کریں گے مومنین قیامت کے دن حاضر ہوں گے اللہ تعالیٰ شانہ کا اپنے بندوں کیلئے مہربانی کا اعلان ہوگا کہ اے میرے بندوں آج تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں اور نہ تم رنجیدہ ہو گے نہ غمگین ہو گے آئندہ خوشی ہی خوشی ہے الَّذِينَ آمَنُوا بِالْآيَاتِ وَكَانُوا مُسْلِمِينَ (یہ وہ لوگ ہوں گے جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور فرمانبردار تھے) پھر فرمایا اَدْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَآزْوَاجُكُمْ تُغْبِغُونَ (یعنی فرمانبرداروں سے کہا جائے گا کہ تم اور تمہاری بیویاں خوشی خوشی جنت میں داخل ہو جاؤ وہاں داخل ہو کر جو بہت سے انعامات سے نوازے جائیں گے ان میں سے ایک یہ انعام بھی ہوگا کہ نہ عمر لڑ کے ان کے پاس ماکولات سے بھری ہوئی سونے کی رکابیاں (پلیٹیں) اور مشروبات سے بھرے ہوئے سونے کے آبخورے لیکر آتے جاتے رہیں گے یہ تو ایک جزوی نعمت ہوئی پھر ایک قاندہ کلیہ کے ارشاد فرمایا وَفِيهَا مَا كَشَفْنَا عَنْكَ غِثَاءَ الْإِنْسَانِ وَكَذَلِكَ الْآيَاتُ (اور جنت میں وہ سب کچھ ملے گا جس کی نفسوں کو خواہش ہو اور جس سے آنکھیں لذت پائیں) دنیا میں کوئی شخص کتنا بھی مالدار اور صاحب اقتدار ہو جائے اسے یہ بات حاصل نہیں ہو سکتی کہ جو بھی کوئی نفس چاہے وہ سب کچھ مل جائے بلکہ یہ لوگ تو مختلف احوال کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں ان کو کھانے پینے اور اوڑھنے بچانے کی چیزیں منگانی پڑتی ہیں جو بعض مرتبہ حاصل بھی نہیں ہوتیں اور حاصل ہو بھی جائیں تو صحت کی خرابی کی وجہ سے اچھی نہیں لگتی اور ہر خواہش کے پورا ہونے کا تو کسی کے لئے بھی دنیا میں موقعہ نہیں ہے یہاں سونے کی پلیٹوں اور پیالوں کا ذکر ہے اور سورۃ الدھر میں چاندی کے برتنوں کا بھی تذکرہ فرمایا ہے یہ سونا چاندی وہاں کا ہوگا یہاں کے حقیر سونے چاندی پر قیاس نہ کیا جائے جسے صاف کرنا اور مانجھنا پڑتا ہے دنیا میں مردوں اور عورتوں کے لئے سونے چاندی کے برتن استعمال کرنا حرام ہے جنت میں اہل ایمان کے لئے ماکولات اور مشروبات

سونے چاندی کے برتنوں میں پیش کئے جائیں گے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ سونے چاندی کے برتنوں میں مت پو اور نہ ان میں کھاؤ اور یہ بھی فرمایا ہے کہ جو شخص سونے چاندی کے برتن میں کھاتا پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ ہی بھرتا ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سونے چاندی کے برتن میں نہ کھاؤ پیو کیونکہ وہ کافروں کیلئے دنیا میں ہیں اور تمہارے لئے آخرت میں ہیں۔

اہل جنت کے انعامات بتاتے ہوئے وَتُكَلِّمُ الْأَعْيُنُ بھی فرمایا کہ جنت میں وہ سب کچھ ملے گا جس سے آنکھیں لذت حاصل کریں گی یعنی جنت میں ایسی کوئی چیز سامنے نہ آئیگی جس کا دیکھنا گوار ہو جو بھی کچھ ہوگا جس پر بھی نظر پڑے گی آنکھوں کو مزہ ہی آئیگا وہاں ایسے مواقع بھی نہ ہوں گے کہ کوئی چیز سامنے آئے اور اسکے دیکھنے سے روکا جائے یہ ابتلا اور امتحان دنیا ہی میں ہے وہاں بد نظری کا کوئی موقع نہ ہوگا بلکہ نظر ہی بدنہ ہوگی مزید فرمایا وَأَنْتُمْ فِيهَا أَخِلُّونَ (اور تم اس جنت میں ہمیشہ رہو گے۔

اہل جنت کے ایمان اور اعمال صالحہ کی قدر دانی کرتے ہوئے ارشاد ہوگا وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور یہ جنت ہے جو تمہیں تمہارے اعمال کے عوض دی گئی ہے)

آخر میں فرمایا لَكُمْ فِيهَا كُفْرٌ كُفْرًا تَمَّارًا تمہارے لئے جنت میں بہت سارے میوے ہیں مِنْهَا تَاكُلُونَ (جن میں سے تم کھا رہے ہو)

إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّتَخِلِفُونَ ۖ لَيُفْتَرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ۖ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ

بلاشبہ مجرم لوگ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے ان سے عذاب ہلکانا کیا جائے گا اور وہ اسی میں ناامید ہو کر پڑے ہیں گے اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا

وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ۖ وَنَادُوا إِلَىٰ سَلِكٍ لِّيَقْضِيَ عَلَيْهِمْ آتُكَ ۖ قَالَ إِنَّكُمْ مَا تُكَلِّمُونَ

لیکن وہ خود ہی ظالم تھے اور وہ پکاریں گے کہ اے مالک تمہارا پور دگر ہمارا کام تمام کر دے وہ جواب دیں گے کہ بے شک تم ہی میں رہو گے بلاشبہ ہم تمہارے پاس

لَقَدْ جِئْتَكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كِرْهُونَ ۖ أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ۖ أَمْ

حق لائے اور لیکن تم میں سے اکثر حق سے نفرت کرنے والے ہیں کیا انہوں نے کوئی مضبوط تدبیر کر لی ہے سو ہم مضبوط تدبیر اختیار کرنے والے ہیں کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں سننے

يَحْسَبُونَ أَنَّ اللَّهَ سَمِعُ بَرِّهِمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَىٰ ۖ وَرُسُلَنَا الَّذِينَ يَكْتُوبُونَ

ان کی چپکی باتوں کو اور ان کے خفیہ مشوروں کو سناں ہم ضرور سنتے ہیں اور ہمارے بھیجے ہوئے (فرستادے) ان کے پاس لکھتے ہیں۔

مجرمین ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے ان کا عذاب ہلکانہ کیا

جائے گا دوزخ کے داروغہ سے ان کا سوال و جواب

تفسیر: اہل ایمان کی نعمتیں بیان فرمانے کے بعد ان آیات میں کافروں کے عذاب کا تذکرہ فرمایا ہے ارشاد فرمایا کہ مجرمین یعنی کافر لوگ دوزخ کے عذاب میں پڑے ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے یہ عذاب بہت سخت ہوگا جیسا

کہ دوسری آیت میں ذکر فرمایا زادیر کو بھی ہلکا نہیں کیا جائے گا اور وہ اس میں ناامید ہو کر پڑے رہیں گے یہ مہسون کا ایک ترجمہ ہے اور بعض حضرات نے اس کا ترجمہ فرمایا ہے حزینون من شدہ الباس یعنی سخت عذاب کی وجہ سے رنجیدہ ہونگے۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ ہی ظلم کرنے والے تھے دنیا میں ان کے پاس حق آیا ایمان کی دعوت پیش کی گئی انہوں نے اسے قبول نہیں کیا اپنی جانوں کو انہوں نے خود ہی مبتلائے عذاب کیا۔

اس کے بعد انکی ایک درخواست کا ذکر ہے حضرت مالک علیہ السلام جو دوزخ کے خازن یعنی ذمہ دار ہیں ان سے عرض معروض کریں گے وَكَادُوا يُلْقُونَكَ لِيُقْضَىٰ عَلَيْكَ رَأْيُكَ اور اہل دوزخ پکار کر کہیں گے کہ اے مالک تمہارا پروردگار ہمارا کام ہی تمام کر دے گا یعنی ہمیں موت ہی دیدے تاکہ ہم اس عذاب سے چھوٹ جائیں وہ جواب دیں گے اِنْكُمْ مَا يَكُونُ (بلاشبہ تم کو اسی میں رہنا ہے)

سنن ترمذی میں ہے کہ اہل دوزخ آپس میں مشورہ کریں گے کہ داروغہ ہائے دوزخ سے عرض و معروض کریں لہذا وہ ان سے کہیں گے اذْعُوا رَبَّكُمْ خِفَافًا يَوْمَئِذٍ الْعَذَابُ (تم ہی اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ کسی ایک دن تو ہم سے عذاب ہلکا کر دے) وہ جواب دیں گے اَوْ كَفَرْتُمْ تَاللّٰهِ لَآ تَلْبِسُكُمْ بِالْظَالِمِينَ کیا تمہارے پاس تمہارے پیغمبر معجزات لے کر نہیں آتے رہے تھے اور دوزخ سے بچنے کا طریقہ نہیں بتلاتے تھے؟ اس پر دوزخی جواب دیں گے کہ جلی یعنی ہاں آتے تو تھے لیکن ہم نے ان کا کہنا نہ مانا فرشتے جواب میں کہیں گے فَادْعُوا وَمَا دَعَا الْكَافِرِينَ اَلَا فِيْ ضَلٰلٍ كَبِیْرٍ (ہم تمہارے لئے دعا نہیں کر سکتے تم ہی دعا کرو اور وہ بھی بے نتیجہ ہوگی کیونکہ کافروں کی دعا (آخرت میں) بالکل بے اثر ہے یٰۤاٰیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا عَلٰی نَارِ الْاٰتِیَّةِ اے مالک (تم دعا کرو کہ) تمہارا پروردگار (ہم کو موت دے کر) ہمارا کام تمام کر دے وہ جواب دیں گے اِنْ شِئْتُمْ اَكْفُرُوْا تم ہمیشہ اسی حال میں رہو گے (نہ نکلو گے نہ مرو گے)۔

حضرت اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے روایت پہنچی ہے کہ مالک علیہ السلام کے جواب میں اور دوزخیوں کی درخواست میں ہزار برس کی مدت کا فاصلہ ہوگا۔

(عزاه صاحب المشکوٰۃ الی الترمذی وقال قال عبد الله بن عبد الرحمن والناس لا یرفعون هذا الحدیث، قال علی القاری فی المرقاة ای یجعلون مرقوفاً علی ابی الدراء لکنہ فی حکم المرفوع فان امثال ذلک لیس مما یمکن ان یقال من قبل الراۃ ۱ھ)

لَقَدْ جِئْتُمْ بِالْحَقِّ وَلٰكِنْ اَكْثَرُهُمْ لَاحِقٌ لِّیُؤْمِنُوْا مشرکین کو خطاب ہے کہ ہم نے تمہارے پاس حق پہنچا دیا حق واضح کر دیا تو حید کی دعوت سامنے رکھ دی اس کے دلائل بیان کر دیئے لیکن تم نہیں ماننے تم میں سے اکثر لوگ حق کو برا جانتے ہیں اور اس سے نفرت کرتے ہیں یہ حق سے دور بھاگنا انہی حالات کا پیش خیمہ ہے جو اہل دوزخ کے احوال میں بیان کئے گئے ہیں۔

قریش مکہ رسول اللہ ﷺ کو تکلیف دینے کے مشورے کرتے رہتے تھے موقع ملنے پر تکلیف بھی پہنچاتے تھے آپ کو شہید کرنے کا بھی مشورہ کیا آپ کی دعوت انہیں بہت ہی ناگوار تھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَفَرَأٰی مِمَّا اُفْرَا (کیا انہوں نے کوئی مضبوط تدبیر کر لی ہے اور اس کے مطابق آپ کو تکلیف دینے کا پختہ مشورہ کر چکے ہیں) فَاِنَّا مُبْرِضُوْنَ (سو ہم

مضبوط تدبیر کرنے والے ہیں) یعنی ان لوگوں کو اپنی تدبیروں پر بھروسہ کرنا اور یہ خیال کرنا کہ ہم آپ کی مخالفت میں کامیاب ہو جائیں گے یا آپ کو شہید کر دیں گے یہ ان کی ناشکھی ہے بے وقوفی کی باتیں ہیں ہماری مدد آپ کیساتھ ہے ہمارے مقابلہ میں ان کی تدبیر کامیاب نہیں اس میں جہاں مشرکین کو تنبیہ ہے رسول اللہ ﷺ کو بھی تسلی ہے کہ ان کی تدبیر آپ کے مقابلہ میں کامیاب نہیں ہوگی سورۃ الطور میں بھی اس مضمون کو بیان فرمایا وہاں ارشاد فرمایا اَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا ۚ فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ الْمَكِيدُونَ کیا یہ لوگ تدبیر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں سو جن لوگوں نے کفر کیا وہی تدبیر میں گرفتار ہونے والے ہیں)

پھر فرمایا اَمْ يَحْسِبُونَ اَنْ اَلَا نَسْمَعُ رِيْثَهُمْ وَنَجْوَاهُمْ (کیا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی خفیہ باتیں اور وہ مشورے جو چپکے چپکے کرتے ہیں ہم نہیں سنتے) ان کا یہ سمجھا غلط ہے بلکہ ہم ان کی باتیں سنتے ہیں اور خفیہ باتوں کو اور سرگوشیوں کو جانتے ہیں وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُوْنَ (اور ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کے پاس موجود ہیں جو لکھ رہے ہیں لہذا ایسا خیال کرنا کہ چپکے چپکے جو باتیں کر لیں گے اس کا علم اللہ تعالیٰ کو نہیں یہ جہالت کی بات ہے اللہ تعالیٰ کو ظاہر کا اور باطن کا زور کی آواز کا اور آہستہ کی آواز کا سب کا علم ہے وہ اپنی حکمت کے موافق سزا دے گا۔

قُلْ اِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ فَاَنَا اَوَّلُ الْعٰبِدِيْنَ ۝ سُبْحٰنَ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبِّ

آپ فرمادیجئے کہ اگر رحمن کیلئے اولاد ہو تو میں سب سے پہلے عبادت کرنی والا ہوں آسمانوں اور زمین کا رب جو عرش کا بھی رب ہے

الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۝ فَذَرُهُمْ يُخَوْضُوْا وَيَلْعَبُوْا حَتّٰی يَلْتَقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِیْ یُوْعَدُوْنَ ۝

وہ ان باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں وہ آپ کو چھوڑے باتوں میں لگیں اور کھیل کریں یہاں تک کہ اس دن سے ملاقات کر لیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے

وَهُوَ الَّذِیْ فِی السَّمٰوٰتِ وَفِی الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْحَكِیْمُ الْعَلِیْمُ ۝ وَتَبٰرَكَ الَّذِیْ لَهٗ مُلْكُ

اور اللہ وہ ہے جو آسمان میں معبود ہے اور زمین میں معبود ہے اور وہ حکمت والا ہے اور علم والا ہے اور بابرکت ہے وہ ذات جس کیلئے ملک ہے

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَاِلَیْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝ وَلَا یَمْلِكُ الَّذِیْنَ

آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اور اسکے پاس قیامت کا علم ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے اور جن کو یہ لوگ

یَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِہٖ الشَّفَاعَۃَ اِلَّا مَنْ شَہِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ یَعْلَمُوْنَ ۝ وَلٰیْن سَاَلْتَهُمْ

اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے ہاں جنہوں نے حق کی گواہی دی اور وہ جانتے ہیں اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ

مَنْ خَلَقَهُمْ لَیَقُوْلَنَّ اللّٰهُ فَاَنْیَ یُفْکَرُوْنَ ۝ وَقِیْلَہٗ یٰرَبِّ اِنْ هٰؤُلَآءِ قَوْمٌ لَا یُؤْمِنُوْنَ ۝ قَاصِفٌ

انہیں کس نے پیدا کیا یہی کہیں گے کہ انہیں اللہ نے پیدا کیا سو یہ لوگ کھرا لے جا رہے ہیں اور اسے رسول کی اس بات کی خبر ہے کہ اسے میرے سب بلاشبہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ سو آپ ان سے

عَنۡہُمْ وَقُلْ سَلٰمْ فَاَسُوْفَ یَعْلَمُوْنَ ۝

اعراض کیجئے اور کہہ دیجئے کہ میرا سلام ہے سو وہ عنقریب جان لیں گے۔

## اللہ جل شانہ کی صفات جلیلہ کا بیان اور شرک سے بیزاری کا اعلان

**تفسیر:** چند آیات پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا اور اس سے پہلے یہ ذکر آیا تھا کہ مشرکین فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بتاتے ہیں ان لوگوں کی تردید وہیں کر دی گئی تھی یہاں مکرر تردید فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر رحمن جل شانہ کی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا رحمن جل شانہ کے لئے کوئی اولاد نہیں ہے اس لئے صرف رحمن جل مجدہ ہی کی عبادت کرتا ہوں اور اسی کی دعوت دیتا ہوں۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی تزیہہ بیان کی کہ وہ آسمانوں کا اور زمین کا اور عرش کا رب ہے وہ ان سب باتوں سے پاک ہے جو مشرکین اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔

پھر فرمایا کہ ان لوگوں کو آپ چھوڑ دیں یہ اپنی بیہودہ باتوں میں لگے رہیں اور دنیا میں کھیلنے رہیں دنیا میں ساری لہو و لعب ہے جیسا کہ سورۃ الحدید میں فرمایا اَلَمْ يَكُنِ الْغَيْبُ الَّذِي لَا يُبْصَرُ وَ لَمْ يَكُنِ الْغَيْبُ الَّذِي لَا يُبْصَرُ وَ لَمْ يَكُنِ الْغَيْبُ الَّذِي لَا يُبْصَرُ وَ لَمْ يَكُنِ الْغَيْبُ الَّذِي لَا يُبْصَرُ میں مشغول رہنا یہاں تک آگے بڑھتا رہے گا کہ یہ لوگ اس دن سے ملاقات کریں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے یعنی بعض حضرات نے موت کا دن اور بعض حضرات نے یوم بدر اور بعض حضرات نے یوم القیامت مراد لیا ہے۔

پھر فرمایا کہ اللہ آسمانوں میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے یعنی معبود حقیقی وہی ہے اور مستحق عبادت بھی وہی ہے جو لوگ اس کے علاوہ کسی کی عبادت کرتے ہیں وہ بے جگہ جہنم سائی کرتے ہیں اور غلط جگہ پیشانی کور کڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے یعنی بڑی حکمت والا ہے اور علیم بھی ہے یعنی بڑے علم والا ہے اس کے علاوہ کوئی ان صفات سے متصف نہیں اور اس کے علاوہ کوئی مستحق عبادت نہیں۔

پھر فرمایا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور وہ ذات عالی شان ہے جس کے لئے آسمانوں کی اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کی سلطنت ہے اور اس کے پاس قیامت کے یعنی اس کے وقت مقرر کا علم ہے اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے وہاں ایمان اور اعمال صالحہ کی جزا اور کفر و معاصی کی سزا سامنے آجائے گی۔

مشرکین سے جب یہ کہا جاتا تھا کہ شرک بری چیز ہے تو شیطان کے پٹی پڑھا دینے سے یوں کہہ دیتے تھے کہ ہم انکی عبادت اس لئے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے نزدیک ہمارے لئے سفارش کر دیں گے۔

یہ ان کا ایک بہانہ تھا اللہ تعالیٰ شانہ نے جن کو شفاعت کرنے کی اجازت نہیں دی وہ کیا سفارش کر سکتے ہیں اور بے جان کیسے سفارش کریں گے جس کی بارگاہ میں سفارش کی ضرورت ہوگی اس نے کب فرمایا کہ یہ میرے ہاں سفارشی بنیں گے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے صرف اپنی عبادت کا حکم دیا ہے اس کے نبیوں نے توحید کی دعوت دی اور شرک سے روکا ان کی بات نہ مانی مشرک بنے اور جواز شرک کا حیلہ بھی تراش لیا ان لوگوں کو واضح طور بتا دیا کہ جنہیں اللہ کے سوا پکارتے ہو اور اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو یہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی سفارش نہیں کر سکیں گے ہاں اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں وہ شفاعت کر سکیں

گے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت دی جائے گی لیکن وہ بھی ہر شخص کی سفارش نہیں کریں گے جس کے حق میں سفارش کرنے کی اجازت ہوگی اسی کی سفارش کریں گے اس مضمون کو یہاں سورۃ زخرف میں **إِلَّا مَنِ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ** اور سورۃ بقرہ میں **مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَ إِلَهِهِ** میں اور سورۃ انبیاء کی آیت **وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ** میں بیان فرمایا ہے۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ **إِلَّا مَنِ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ** سے حضرات ملائکہ اور حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر علیہ السلام اور ان جیسے حضرات مراد ہیں گو ان حضرات کی عبادت کی گئی لیکن اس میں ان کا کوئی دخل نہ تھا یہ حضرات شفاعت کر سکیں گے لیکن کافروں کے لئے شفاعت نہ کریں گے اور نہ ہی انہیں اس کی اجازت ہوگی۔

پھر فرمایا **وَلَكِنَّ سَأَلْتَهُمُ (الایۃ)** اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ ان کو کس نے پیدا کیا تو یہ لوگ یہی جواب دیں گے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس بات کے بھی اقراری ہیں کہ خالق صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے پھر اپنی حماقت سے غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اسی کو فرمایا **كَأَنِّي يُؤْفِكُونَ** سو یہ لوگ کہاں الٹے جا رہے ہیں پیدا کیا اللہ نے اور عبادت کریں غیر اللہ کی یہ تو عقل اور فہم سے بہت دور ہے۔

ختم سورت پر فرمایا **وَقِيلَ لَهُ يَرْبُّنَا إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ** اس میں لفظ قیلہ قول سے لیا گیا کہ یعنی قاف کے کسرہ کی وجہ سے واویا سے بدل گیا ہے حضرت امام عاصم کی قرأت میں قیلہ جر کے ساتھ ہے کہ ضمیر مجرور مضاف الیہ رسول اللہ ﷺ کی طرف راجع ہے صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ یہ **وَعِنْدَ مَا عَلِمُوا السَّاعَةَ** میں لفظ **السَّاعَةَ** (مضاف الیہ مجرور) ہے اس پر عطف ہے اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قیامت کے وقت کا بھی علم ہے اور وہ اپنے رسول کی اس بات کو بھی جانتا ہے کہ جو انہوں نے اپنے مخاطبین کا حال بتاتے ہوئے عرض کیا کہ اے میرے رب یہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔

اللہ تعالیٰ شانہ نے آپ کی درخواست کے جواب میں فرمایا **فَاصْبِرْ مَعَظْمُهُمْ** (سو آپ ان سے اعراض کیجئے) یعنی ان کے ایمان لانے کی امید نہ رکھیے (کمافی الروح) **وَقُلْ سَلَامٌ** اور آپ ان سے فرمائیے کہ میرا سلام ہے یہ سلام وہ نہیں جو ملاقات کے وقت دعا دینے کے لئے کیا جاتا ہے بلکہ سلام متارکت ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں اسی کو سورۃ القصص میں فرمایا **وَلَا تَجْعَلُوا الْغَوْلَ أَتْرَابًا** **وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالٌ وَأُولَئِكَ أَعْمَالُكُمْ** **سَلَامٌ عَلَيْكُمْ** **لَا تَنْتَفِعُوا بِالْهٰمِلِينَ** اور جب کوئی لغوبات سنتے ہیں تو اس کو ٹال جاتے ہیں۔ اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے لئے ہمارے اعمال ہیں تمہارے لئے تمہارے اعمال تم پر سلام ہو ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔

**فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ** سو یہ لوگ عنقریب جان لیں گے یعنی کفر و شرک کا عذاب ان کے سامنے آ جائے گا۔

ولقد تم تفسیر سورة الزخرف والحمد لله اولاً و آخراً  
والصلوة والسلام على من أرسل طيباً و طاهراً و على من تبعه باطناً و ظاهراً.

سُورَةُ الدِّخَانِ فَكَرِهْتُ أَنْ يَكُونَ فِيهَا آيَاتٌ مِّنْ آيَاتِ الْكِتَابِ

سورة الدخان مکہ معظمہ میں نازل ہوئی ہے اس میں آٹھ آیات اور تین رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے﴾

حَمْدُهُ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ۝ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَرَكَةٍ ۝ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ۝ فِيهَا يُفْرَقُ

حَمْدُ ۝ قسم ہے کتاب مبین کی بلاشبہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا ہے بلاشبہ ہم ڈرانے والے ہیں اس رات میں

كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٌ ۝ أَمَّا مِّنْ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۝ رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ ۝ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

ہر امر حکیم کا فیصلہ کیا جاتا ہے جو ہماری طرف سے بطور حکم کے صادر ہوتا ہے بلاشبہ ہم بھیجے والے ہیں آپ کے رب کی طرف سے رحمت کے طور پر بلاشبہ وہ شننے والا ہے جاننے والا ہے

رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۝ إِنَّا كُنَّا مُؤَقِّنِينَ ۝ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۝ رَبُّكُمْ وَرَبُّ

وہ آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کا رب ہے اگر تم یقین کرنے والے ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ زندہ فرماتا ہے اور موت دیتا ہے وہ تمہارا اور تم سے پہلے

أَبَاكُمْ ۝ الْأَوَّلِينَ ۝ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ ۝

جو تمہارے باپ دادا گزر گئے ان کا رب ہے بلکہ وہ لوگ شک میں پڑے ہوئے کھیل رہے ہیں۔

قرآن مجید مبارک رات میں نازل کیا گیا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں

وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے اگلے پچھلے تمام لوگوں کا رب ہے

تفسیر: اللہ تعالیٰ شانہ نے قرآن حکیم کی قسم کھا کر فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا مبارک

رات سے کون سی رات مراد ہے اس بارے میں محققین نے فرمایا ہے کہ اس سے شب قدر مراد ہے کیونکہ سورہ بقرہ میں فرمایا

ہے شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ اور سورہ قدر میں فرمایا ہے إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اور حضرت عمرؓ نے

فرمایا جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں کہ اس سے شعبان کی پندرہویں شب مراد ہے جسے لیلۃ البراءۃ کہا

جاتا ہے چونکہ بعض روایت حدیث میں شب برأت کے بارے میں یہ آیا ہے کہ اس میں آئندہ سال کے ارزاق و آجال لکھ

دیئے جاتے ہیں حدیث مرفوع صحیح نہیں ہے اس لئے بعض حضرات نے لیلۃ المبارکۃ کا مصداق شب برأت ہے یعنی

شعبان کی پندرہ تاریخ کو بتا دیا ہے لیکن کسی حدیث میں یہ وارد نہیں ہوا کہ قرآن مجید شب برأت میں نازل کیا گیا اور شب

برات میں ارزاق و آجال لکھے جانے کے بارے میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے۔

یہ جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن تو ۲۳ سال میں نجا نجا یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا پھر رمضان میں اور شب قدر



میں نازل ہونے کا کیا معنی؟ اس کا ایک جواب تو بعض علماء نے یہ دیا ہے کہ قرآن مجید نازل ہونے کی ابتداء شب قدر میں ہوئی اور اکثر حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ پورا قرآن مجید شب قدر میں لوح محفوظ سے سماء دنیا یعنی قریب والے آسمان میں نازل کی گیا اس کے بعد ۲۳ سال میں وقتاً فوقتاً حسب احوال نازل ہوتا رہا کیونکہ شب قدر خیرات اور برکات والی رات ہوتی ہے اس لئے اسے لیلۃ مبارکہ سے تعبیر فرمایا **إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ** بلاشبہ ہم ڈرنے والے ہیں یعنی رسول اور قرآن کے ذریعے اپنے بندوں کو اعمال صالحہ کی جزاء اور برے اعمال کی سزا سے آگاہ کرنے والے ہیں تاکہ خیر کو اختیار کریں اور شر سے بچیں۔

**فِيهَا يُفَرِّقُ كُلُّ أُنْفُثٍ كَيْفَ يُوحِي** اس رات میں ہر امر حکیم کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے صاحب معالم التنزیل نے حکیم کو محکم کے معنی میں لیا ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ شب قدر میں ام الکتاب (لوح محفوظ) سے وہ چیزیں علیحدہ کر کے لکھ دی جاتی ہیں جو آئندہ پورے سال میں وجود میں آئیں گی۔ خیر اور شر اور رزاق و آجال سب کچھ لکھ دیئے جاتے ہیں حتیٰ کہ یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں فلاح شخص حج کرے گا اور علیحدہ لکھ کر تقوین الہی کے مطابق کام کرنے والوں یعنی فرشتوں کے حوالہ کر دیا جاتا ہے۔

**أَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا** (یہ فیصلہ ہماری طرف سے امر کے طور پر صادر کیا جاتا ہے)

قال الفراء: نُصِبَ عَلَىٰ مَعْنَىٰ ”فِيهَا يُفَرِّقُ كُلُّ أُنْفُثٍ كَيْفَ يُوحِي“ فَرَقًا وَ أَمْرًا أَيْ نَامِرًا مَّا بَيَّنَّا ذَلِكَ (معالم التنزیل ج ۴ ص ۱۴۹) **إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ** بے شک ہم رسالت کے طور پر آپ کو اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام بھیجے والے تھے۔

**رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ** (یعنی اس قرآن کا نازل فرمانا آپ کے رب کی طرف سے رحمت فرمانے کی وجہ سے ہے اللہ تعالیٰ شانہ نے اپنی مخلوق پر رحم فرمایا ان کی ہدایت کے لئے اپنی کتاب نازل فرمائی فی معالم التنزیل ناقلاً عن الزجاج **أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مَبْرُكَةٍ** (انزال ہونے کی لیلۃ مبارکہ)

**إِنَّكَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ** (بلاشبہ وہ سننے والا جاننے والا ہے) **رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا** (وہ آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کا بھی رب ہے) **إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ** اگر تم یقین کرنے والے ہو تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا اور کتابوں کو نازل فرمایا۔

**لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ** (اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے) **وَكُنْتُمْ أَشْهُدَاءُ الْاَوَّلِينَ** وہ تمہارا رب ہے اور جو تم سے پہلے باپ دادے گزرے ہیں ان کا بھی رب ہیں۔

**بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ** بلکہ یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے کھیل رہے ہیں نہ آخرت کے فکر مند ہیں نہ دلائل میں غور کرتے ہیں اور نہ اپنی جان کو نقصان اور ضرر سے بچانے کا دھیان ہے بچوں کی طرح کھیل کود میں مصروف ہیں۔ انجام کی فکر نہیں۔

**فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ مُّبِينٍ ۚ يَخْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ رَبَّنَا اكشِفْ عَنَّا**

سواپس دن کا انتظار کیجئے جس دن آسمان کی طرف دیکھو گے کدواں طرح پر دھواں نکلے گا وہ لوگوں پر چھا جائے گا یہ دردناک عذاب ہے جسے ہم سب سے

**الْعَذَابِ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ۝ أَنَّىٰ لَهُمُ الذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ۝ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ**

عذاب کو دور کر دیجئے بلاشبہ ہم ایمان لے آئیں گے کہاں ہے ان کو نصیحت حالانکہ ان کے پاس رسول مبین آگیا پھر اس سے انہوں نے اعراض کیا

وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ ۖ إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ۖ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَاطِلَةَ

اور کہنے لگے کہ یہ شخص سکھایا ہوا دیوانہ ہے بلاشبہ ہم عذاب کو تھوڑے وقت کے لئے ہٹا دیں گے بے شک تم لوٹنے والے ہو جس روز ہم

الْكَذِبَىٰ إِنَّا مُنْتَقِمُونَ ﴿۵۵۹﴾

بڑی پکڑ کریں گے بلاشبہ ہم انتقام لینے والے ہیں۔

اس دن کا انتظار کیجئے جبکہ آسمان کی طرف سے لوگوں پر دھواں چھا جائے گا ہم بڑی پکڑ پکڑیں گے بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں

تفسیر: یہ سات آیات کا ترجمہ ہے پہلی آیت میں فرمایا آپ اس دن کا انتظار کیجئے جس میں آسمان کی طرف ایک دھواں نظر آئے گا جو لوگوں پر چھا جائے گا۔ اسے دخان مبین کہتے ہیں۔

### دخان سے کیا مراد ہے؟

اس بارے میں ایک قول یہ ہے کہ یہ دھواں قیامت کی نشانیوں میں سے ہوگا جب ظاہر ہوگا تو زمین میں چالیس دن رہے گا اور آسمان اور زمین کے درمیان کو بھر دے گا۔ اس کی وجہ سے اہل ایمان کی کیفیت زکام جیسی ہو جائیگی اور کفار اور فجار کی ناکوں میں گھس جائے گا اور سانس لینے میں انہیں سخت تکلیف ہوگی حضرت علی اور حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہؓ اور زید بن علی اور حسن اور ابن ابی ملیکہ کا یہی فرمانا ہے کہ دھواں اب تک ظاہر نہیں ہوا قیامت کے قریب ظاہر ہوگا صحیح مسلم میں دس نشانیوں کے ذیل میں دھوئیں کا تذکرہ موجود ہے جس کے راوی حضرت حذیفہ بن اسید غفاریؓ ہیں (صحیح مسلم ص ۳۹۲ ج ۲) ان جن حضرات نے فرمایا ہے کہ آیت مذکورہ بالا میں جس دھوئیں کا ذکر ہے وہ قیامت کے قریب ظاہر ہوگا ان حضرات کا استدلال اسی حدیث سے ہے۔

دوسرا قول حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے منقول ہے۔ جسے حضرت امام بخاریؒ نے اپنے صحیح میں نقل کیا ہے جب حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی خدمت میں بعض حضرات کا یہ قول نقل کیا گیا کہ مذکورہ دخان سے قرب قیامت کا دھواں مراد ہے تو حضرت ابن مسعودؓ کو یہ سن کر ناگواری ہوئی اور فرمایا کہ جسے علم ہو وہ علم کی بات بتا دے اور جسے علم نہ ہو وہ یوں کہہ دے کہ اللہ کو معلوم ہے کیونکہ نہ جاننے کا اقرار کرنا علم کی بات ہے اس کے بعد فرمایا جب قریش مکہ نے رسول کریم ﷺ کی نافرمانی کی تو آپ نے ان کو بددعا دی اَللّٰهُمَّ اَعْنِي عَلَيْهِمْ بِسَبْعِ كَسْبِ يَوْسُفَ (اے اللہ ان کے مقابلہ میں میری مدد فرما ان پر سات سال تک قحط بھیج دے جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط آیا تھا) اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی جب قحط پڑا اور قریش مصیبت میں مبتلا ہوئے تو ان کی ہر چیز ختم ہوگئی یہاں تک کہ وہ مردار اور ہڈیاں کھانے لگے بھوک کی مصیبت کی وجہ سے ان کا یہ حال ہو گیا کہ آسمان کی طرف دیکھتے تو دھواں نظر آتا تھا اسی کو اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمادیا تھا فَارْتَوَىٰ يَوْمَئِذٍ النَّاسُ إِلَىٰ غُيَّاتٍ يَخْتَلُونَ جب قریش مکہ عذاب میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے دعا کی

رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ اے ہمارے رب عذاب دور فرما دیجئے بلاشبہ ہم ایمان لے آئیں گے۔

حضرت عبداللہ نے اِنَّا کاشِفُوا الْعَذَابَ قَلِيلًا اِنْ کُمْ عَلٰی دَفْنٍ تک تلاوت کی پھر فرمایا کہ قیامت کے دن عذاب بھی دور کر دیا جائے گا؟ یعنی آیت کریمہ کے عذاب دور کرنے کا ذکر ہے اور قیامت کے دن کا عذاب دور نہیں کیا جائیگا لہذا معلوم ہوا کہ سورت الدخان میں دخان بین سے قیامت کے دن کا عذاب مراد نہیں اس کے آگے قصہ یہ ہے کہ جب قریش مکہ بہت زیادہ مصیبت میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے آپ کی خدمت میں ابوسفیان کو بھیجا وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے عرض کیا اے محمد آپ صلہ رحمی کا حکم کرتے ہیں اور آپ کی قوم ہلاک ہو رہی ہے آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اس عذاب کو ہٹا دے آپ نے دعا کر دی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش بھیج دی گئی وہ لوگ اچھی حالت میں ہو گئے لیکن کفر پر ہی باقی رہے جیسے اِنَّا کُمْ عَلٰی دَفْنٍ میں بیان فرمایا جب کفر پر ہی جے رہے تو آیت کریمہ یَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْاَكْبَرٰی اِنَّا کُمْ نَعْتَمِدُونَ نازل ہوئی جس دن ہم پکڑیں گے بڑی پکڑ بے شک ہم بدلہ لینے والے ہیں بڑی پکڑ سے غزوہ بدر مراد ہے ان لوگوں نے وعدہ تو کیا تھا کہ ہم عذاب دور ہونے پر مومن ہو جائیں گے لیکن عذاب ٹل جانے کے باوجود ایمان نہ لائے اس لئے فرمایا اِنِّیْ لَہُمْ الذِّکْرٰی وَ قَدْ جَاءَہُمْ رُسُلٌ مُّبِیْنٌ کہاں ہے ان کو نصیحت اور حال یہ ہے کہ ان کے پاس رسول آچکا ہے جس کی دعوت و دلائل سب واضح ہیں ثُمَّ کَوَّلُوْا عَنَّا (الآیۃ) پھر انہوں نے اس کی طرف سے روگردانی کی اور اعراض کیا۔ اور کہنے لگے کہ اس کو دوسروں نے سکھایا ہے اور یہ دیوانہ ہے یعنی رسول بین کی واضح دعوت اور دلائل سے اعراض کر چکے ہیں اور اس کے بارے میں کہہ چکے ہیں کہ دوسروں کا پڑھایا ہوا ہے اور دیوانہ ہے ان سے یہ امید کرنا کہ عذاب چلے جانے پر ایمان لے آئیں گے بے جا امید ہے۔

وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ۚ اَنْ اَدُّوْا اِلَیَّ عِبَادَ اللّٰهِ اِنِّیْ لَکُمْ

اور یہ بات واقعی ہے کہ ہم نے ان سے پہلے فرعون کی قوم کو آزمایا اور ان کے پاس رسول کریم آیا کہ تم اللہ کے بندوں کو میرے حوالہ کرو بلاشبہ میں تمہارے لئے

رَسُولٌ اَمِیْنٌ ۚ وَ اَنْ لَا تَعْلُوْا عَلٰی اللّٰهِ اِنِّیْ اَتِیْکُمْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِیْنٍ ۚ وَ اِنِّیْ عَزْتُ بِرَبِّیْ

رسول امین ہوں اور یہ کہ تم اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو بلاشبہ میں تمہارے پاس واضح دلیل لے کر آیا ہوں اور بلاشبہ میں اپنے رب سے

وَرَبِّکُمْ اَنْ تَرْجُمُوْهُ ۚ وَاِنْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا لِیْ فَاَعْتَزْلُوْیْ ۚ فَاَدْعٰ رَبِّہٖ اَنْ ہُوَ اَوْلٰی قَوْمٌ

اور تمہارے رب سے اس بات کی پناہ لیتا ہوں کہ تم مجھے سنگسار کرو اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے علیحدہ ہو پھر مومن نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ لوگ

تَجْرِمُوْهُ ۚ فَاسْرِیْ عِبَادِیْ لَیْسَ لَکُمْ مَّتَّبِعُوْنَ ۚ وَ اَتْرٰکَ الْبَحْرَ ۚ ہُوَ اِلَیْہُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُوْنَ ۚ

مجرم قوم ہیں سو تم میرے بندوں کو رات کو لے کر روانہ ہو جاؤ بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ اور سمندر کو سکون کی حالت میں چھوڑ دینا

کَمْ تَرٰکُمْ مِنْ جَدَّتٍ وَ عِیُوْنٍ ۚ وَ زُرُوْعٍ وَ مَقَامٍ کَرِیْمٍ ۚ وَ نَعْمَہٗ کَا نُوْا فِیْہَا فَاَکْرِہِیْنَ ۚ کَذٰلِکَ

بلاشبہ یہ لشکر غرق کر دیا جانے والا ہے ان لوگوں نے کتنے ہی باغ و چشمے اور کھیتیاں اور اچھے مکانات اور عیش کے سامان چھوڑ دیئے جن میں

وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ ﴿۵۶﴾ فَمَا بَكَتُ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ ﴿۵۷﴾ وَلَقَدْ

دو خوشی کی حالت میں رہا کرتے تھے اور ہم نے ان چیزوں کا دوسرے لوگوں کو وارث بنادیا سو نہ ان پر آسمان رو یا نہ زمین اور ان کو مہلت نہیں دی گئی اور یہ بات واقعی ہے

بَجَيْنًا بَنِي إِسْرَآئِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿۵۸﴾ مَنْ فِرْعَوْنُ إِنَّهُ كَانَ عَلِيًّا قَمَنَ الْمُشْرِفِينَ ﴿۵۹﴾

کہ ہم نے بنی اسرائیل کو ذلیل کرنے والے عذاب سے نجات دی جو فرعون کی طرف سے تھا بیشک وہ بڑا سرکش اور ہاتھ سے نکل جانے والوں میں سے تھا

وَلَقَدْ اخْتَرْتَهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿۶۰﴾ وَأَيْنَهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُهِينٌ ﴿۶۱﴾

اور یہ بات واقعی ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو اپنے علم کی رو سے جہاں والوں پر فوقیت دی اور ہم نے ان کو ایسی نشانیاں دیں جن میں انعام تھا و نافع طہ پر۔

قوم فرعون کے پاس اللہ تعالیٰ کا رسول آنا اور نافرمانی کی وجہ سے ان لوگوں کا غرق ہونا بنی اسرائیل کا فرعون سے نجات پانا اور انعامات ربانیہ سے نوازا جانا

**تفسیر:** ان آیات میں فرعون کی نافرمانی کا اور بطور سزا لشکروں سمیت سمندر میں ڈوب جانے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان سے یعنی قریش مکہ سے پہلے قوم فرعون کو آزمایا ان کے پاس رسول کریم یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکرم و معظم تھے انہوں نے فرعون سے اور اس کی جماعت سے کہا کہ بنی اسرائیل کو تم دکھ تکلیف دیتے ہو انہیں مصیبت میں مبتلا کر رکھا ہے ان اللہ کے بندوں کو تم میرے حوالے کر دو اور میرے ساتھ بھیج دو میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے میں اس کا رسول امین ہوں میں تم سے یہ بھی کہتا ہوں کہ سرکشی نہ کرو۔ اللہ کے مقابلے میں مت آؤ۔ اس کی اطاعت کرو میں تمہارے پاس واضح دلیل ہے یعنی معجزات کثیرہ لے کر آیا ہوں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی اور حق بات پہنچائی تو فرعون اور اس کی جماعت ان کے قتل کے مشورے شروع کر دیئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس سے اپنے رب کی پناہ لیتا ہوں کہ تم مجھے سنگسار کرو یعنی مجھے پتھروں سے مار کر ہلاک کرو مزید فرمایا کہ اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو کم از کم یہ کرو کہ مجھ سے دور رہو مجھے کسی قسم کی تکلیف مت پہنچاؤ کیونکہ اس سے تمہارا جرم اور زیادہ شدید ہو جائے گا وہ لوگ ہدایت پر نہ آئے اور سرکشی کرتے رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ لوگ مجرم ہیں ان کو سزا دی جائے اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر روانہ ہو جاؤ آبادی سے نکل جاؤ اور سمندر کی راہ لے لو جب تم روانہ ہو جاؤ گے تو تمہارا پیچھا کیا جائے گا یعنی فرعون اور اس کا لشکر تمہارے پیچھے آہنچے گا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر راتوں کے وقت روانہ ہو گئے فرعون کو پتہ چلا تو وہ بھی اپنے لشکروں کو لے کر ان کے پیچھے چل دیا اللہ تعالیٰ شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلے سے ہی ہدایت کر دی تھی کہ جب سمندر پر پہنچوں تو

سمندر میں اپنی لاشیں مار دینا اس کا معجزہ والا اثر یہ ہوگا کہ پانی رک جائے گا اور جگہ خشک ہو جائے گی اور اس میں راستے نکل آئیں گے تم اس سمندر کو اس کی حالت پر ٹھہرا چھوڑ کر پار ہو جانا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا کہ ٹھٹھے مارتے سمندر میں راستے بن گئے جگہ خشک ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کیساتھ ان راستوں میں داخل ہو گئے اور سمندر اپنی ہیئت اور حالت پر سکون کے ساتھ ٹھہرا ہوا رہ گیا پیچھے سے فرعون اپنے لشکر کو لے کر آیا اور بنی اسرائیل کے پیچھے اپنی فوجیں ڈال دیں بنی اسرائیل پار ہو گئے اور فرعون اپنے لشکروں سمیت ڈوب گیا سمندر راستے بن جانے کی وجہ سے جو قرار و سکون ہو گیا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اسے دور فرما دیا پانی آپس میں مل گیا جیسا کہ پہلے ہی فرما دیا تھا جو راستے بن گئے تھے وہ ختم ہو گئے اور فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا اسی کو فرمایا **وَالْبُحْرَیْهُمَا لَإِنَّهُمَا جُنْدٌ مُّغْرَقُونَ**۔

اہل دنیا کو اپنی دنیا اور دولت پر کھیتیوں پر باغوں پر مال و خزانوں پر بہت غرور اور گھمنڈ ہوتا ہے فرعونوں کو بھی بڑا گھمنڈ تھا جب ڈوب گئے تو سب کچھ دھرا رہ گیا فرمایا **کَمْ یَسْتَكْبِرُوا مِنْ جَلْدَتِیْ وَعیون اور وہ لوگ کتنے ہی باغ کتنے ہی چشمے اور کتنی ہی کھیتیاں اور کتنے ہی عمدہ مکانات اور کتنے ہی آرام کے سامان چھوڑ گئے جن میں وہ خوش ہو کر رہا کرتے تھے۔** **کَذَٰلِکَ** (یہ اسی طرح ہوا **وَأَوْرَثْنَاهَا لِبَنِیْهِ** اور ان چیزوں کا وارث دوسری قوموں کو بنا دیا دوسری قوم سے بنی اسرائیل مراد ہے جیسا کہ سورۃ الشعراء میں **وَأَوْرَثْنَا هَا بَنِیْهِ** اسرائیل فرمایا ہے کہ اس کے بارے میں ضروری بحث سورۃ شعراء کی آیات بالا کی تفسیر میں دیکھ لی جائے۔

پھر فرمایا **فَمَا أَكْبَرَتْ عَلَیْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِیْنَ** (سوان پر آسمان اور زمین کو رونہ آیا اور وہ مہلت دیئے جانے والے نہ تھے) یعنی اللہ تعالیٰ نے مغفوض اور مغضوب علیہم ہونے کی وجہ سے ہلاک فرما دیا اور یہ لوگ نہ صرف اللہ تعالیٰ کے مغفوض تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو بھی ان سے بغض تھا گو تکوینی طور پر یا مبرا الہی ان پر بارش بھی ہوتی تھی اور زمین بھی ان کا رزق لگاتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے عظیم (آسمان و زمین) ان سے راضی نہ تھے لہذا ان کے بیک وقت غرق ہونے پر انہیں ذرا بھی ترس نہ آیا اور ان کی ہلاکت کی وجہ سے وہ ذرا بھی نہ روئے۔

## مومن کی موت پر آسمان و زمین کا رونا

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا جو بھی کوئی مومن بندہ ہے اس کے لئے آسمان میں دو دروازے ہیں ایک دروازے سے اس کا عمل اوپر جاتا ہے اور ایک دروازے سے اس کا رزق نازل ہوتا ہے۔ جب اس کی موت ہو جاتی ہے تو دونوں دروازے اس پر رونے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسی کو فرمایا **فَمَا أَكْبَرَتْ عَلَیْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِیْنَ**۔ (رواہ الترمذی فی تفسیر سورۃ الدخان)

## بنی اسرائیل پر انعام اور امتنان

اس کے بعد بنی اسرائیل پر امتنان فرمایا اور فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو ذلیل کر نیوالے عذاب سے نجات دی یعنی فرعون سے اور یہ بھی فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو اپنے علم کی رو سے دنیا و جہان والوں پر فوقیت دی۔ یعنی ان کے زمانے میں جو لوگ تھے ان سب کے مقابلے میں انہیں برتری عطا فرمائی۔ (فی معالمت التنبیل علی عالمی زمانہم)

مزید فرمایا کہ ہم نے انہیں اپنی قدرت کی ایسی بڑی بڑی نشانیاں دیں جن میں صریح انعام تھا۔ یعنی وہ ایسی چیزیں تھیں جو ان کے لئے نعمت تھیں اور قدرت الہی کی بڑی نشانیاں تھیں۔ مثلاً انہیں فرعون کے چنگل سے نکالنا جو ان کے لڑکوں کو ذبح کر دیتا تھا اور ان کے لئے سمندر کو پھاڑ دینا اور بادلوں کا سایہ کرنا اور سن و سلویٰ نازل کرنا پھر انہیں زمین میں اقتدار بخشنا ان میں انبیاء اور ملوک پیدا فرمانا۔

إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ ۖ إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ ۖ فَاتُوا بِآيَاتِنَا

بلاشبہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بس یہی ہماری پہلی موت ہے اور ہم دوبارہ زندہ کئے جانے والے نہیں ہیں سو تم ہمارے باپ دادوں

إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۚ أَهَمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ ۚ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِبِينَ ۖ

کو لے آؤ اگر تم سچے ہو کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا تبع کی قوم اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے ہم نے ان کو ہلاک کیا بلاشبہ وہ مجرم تھے

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْنٍ ۚ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ

اور ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس طرح پیدا نہیں کیا کہ ہم قتل و بربادی کرنے والے ہوں ہم نے ان کو نہیں کیا مگر حق کے ساتھ اور ہم ان میں سے اکثر لوگ

لَا يَعْلَمُونَ ۖ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ۖ يَوْمَ لَا يَغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلَىٰ شَيْئًا وَلَا

نہیں جانتے بلاشبہ فیصلہ کا دن ان سب کا وقت مقرر ہے جس دن کوئی تعلق رکھنا والا کسی تعلق رکھنے والے کو کچھ بھی نفع نہ دے سکے گا اور نہ

هُمْ يُنصَرُونَ ۚ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

ان کی مدد کی جائیگی مگر جس پر اللہ رحم فرمائے بیشک وہ عزیز ہے رحیم ہے۔

## منکرین قیامت کی کٹ جتنی یہ لوگ

## قوم تبع سے بہتر نہیں ہیں جو ہلاک کر دیئے گئے

**تفسیر:** ان آیات میں اول تو منکرین بعث کا قول نقل فرمایا ہے پھر انکی بات کی تردید فرمائی ہے منکرین نے

یہ کہا کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ مرنا ہے اور مر کر پھر جی اٹھنا ہے اور حساب و کتاب ہے یہ ہم نہیں مانتے ہمارے نزدیک بس یہی بات طے شدہ ہے کہ ہم پہلی بار جو مریں گے تو بس مر گئے اسکے بعد دوبارہ زندہ ہونے والی بات نہیں مانتے ان لوگوں نے مزید یوں بھی کہا کہ تم دوبارہ زندہ ہونے کی خبر دیتے ہو چلو ہمارے باپ دادوں کو لا کر دکھا دو اگر تم اپنی بات میں سچے ہو (کہ دوبارہ اٹھنا ہے اور قیامت قائم ہونی ہے) ان کی تردید میں فرمایا اَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِبِينَ کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا تبع کی قوم بہتر تھی اور جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بہتر تھے ہم نے انہیں ہلاک کر دیا بلاشبہ وہ مجرم تھے یعنی یہ جو ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کی رسالت اور دعوت کے منکر ہیں اپنے کو دنیاوی طور پر بڑی قوت والا سمجھ رہے ہیں اور اسی بنیاد پر منکر ہو رہے ہیں یہ سوچنا

اور سمجھنا بالکل ہی غلط ہے ان کی کیا حیثیت ہے ان سے پہلے (یمن کے بادشاہ) تبع کی قوم گزر چکی ہے اور ان میں بھی بہت سی قومیں گزری ہیں جنہیں اپنی قوت اور شوکت پر بڑا گھمنڈ تھا رسولوں کی تکذیب کی وجہ سے جب ان پر عذاب آیا تو شوکت و قوت نے کچھ بھی کام نہ دیا سوہ سبا میں فرمایا وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَّغُوا مَعْتَابَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلَهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ (اور ان سے پہلے لوگوں نے جھٹلایا اور حال یہ ہے کہ یہ لوگ اس کے دسویں حصے کو بھی نہیں پہنچے جو ہم نے ان کو دیا تھا سو انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا سو کیسا تمہارا عذاب۔

## تبع کون تھے؟

یہ تبع کون تھا جس کی قوم کا تذکرہ فرمایا ہے اس کے بارے میں مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے صاحب معالم الشریعہ ص ۱۵۳ ج ۴ نے اس پر لمبا مضمون سپرد قلم فرمایا ہے اتنی بات تو تقریباً سبھی نے لکھی ہے کہ تبع یمن کے بادشاہ ہوں کا لقب تھا جیسے قیس و کسریٰ اور نجاشی اپنے اپنے علاقوں کے بادشاہوں کے القاب تھے اس طرح یمن کے بادشاہ کو تبع کہا جاتا تھا یہ کون سا تبع تھا جس کا آیت بالا میں ذکر ہے؟ اس کا نام اسعد بن ملیک اور کنیت ابو کرب لکھی ہے محمد بن اسحاق (صاحب السیرۃ) حضرت ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ یہ تبع مدینہ منورہ کے راستے سے گزر رہا تھا اس نے اہل مدینہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا جب اہل مدینہ کو اس کا پتہ چلا تو یہودیوں کے قبیلہ بنو قریظہ میں سے دو عالم لعب اور اسد نامی اس کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ اے بادشاہ تو ایسا نہ کر اگر تو ہماری بات نہیں مانتا تو تو جان ہمیں ڈر ہے کہ تجھ پر جلد ہی عذاب نازل ہو جائے گا کیونکہ یہ ایک نبی کا دار الحجرت ہے وہ قریش سے ہوں گے نام محمد ہو گا ان کی پیدائش مکہ میں ہوگی یہ سن کر وہ اپنے ارادہ سے باز آ گیا پھر ان دونوں عالموں نے اسے اپنے دین کی دعوت دی اس نے ان کا دین قبول کر لیا یعنی یہودیت کو اپنا دین بنالیا یعنی یہودیت کو اپنا دین بنالیا اس کے بعد وہ مدینہ منورہ سے چلا گیا اس کے ساتھ کچھ یہودی جن میں وہ دونوں عالم بھی تھے (جنہوں نے اسے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے سے روکا تھا) یمن جانے کے لئے روانہ ہو گئے راستے میں قبیلہ بنی ہذیل کے کچھ لوگ ملے انہوں نے تبع سے کہا کہ ہم تمہیں ایک ایسا گھر بتاتے ہیں جس میں موتی زبرجد اور چاندی کا خزانہ ہے اس نے سوال کیا کہ وہ کون سا گھر ہے انہوں نے بتایا کہ وہ گھر مکہ معظمہ میں ہے بنی ہذیل کا مقصد اس کی خیر خواہی نہ تھی بلکہ اسے ہلاک کروانا مقصود تھا وہ جانتے تھے کہ اس بیت پر جس نے بھی حملہ کا ارادہ کیا وہ ضرور ہلاک ہوا۔

تبع نے لوگوں کی بات سن کر انہیں یہودی علماء سے مشورہ لیا جو اس کے ساتھ تھے ان لوگوں نے کہا تو اس پر حملہ آور مت ہو ہمارے علم میں صرف یہی ایک گھر ہے جس کی اللہ کی طرف نسبت کی جاتی ہے تو وہاں نماز بھی پڑھ کر بانی بھی کر اور سر بھی مونڈ یہ لوگ تیری دشمنی کے لئے ایسا مشورہ دے رہے ہیں علماء یہود نے جب اسے ایسا مشورہ دیا تو اس نے بنی ہذیل کے چند لوگوں کو پکڑا اور ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیئے اور اندھا کرنے کے لئے ان کی آنکھوں میں گرم سلاکی پھیر دی اور انہیں سو لی پر چڑھا دیا۔ مکہ معظمہ پہنچ کر اس نے کعبہ شریف کو پردہ پہنایا اور وہاں جانور ذبح کئے وہاں چند دن قیام بھی کیا، طواف بھی کیا اور حلق بھی کیا جب تبع مکہ معظمہ سے جدا ہوا اور یمن کے قریب پہنچا تو قبیلہ بنی حمیر کے لوگ آڑے آ گئے تبع اسی قبیلہ سے تھا اور کہنے لگے کہ تو ہمارے پاس ہرگز نہیں آ سکتا کیونکہ تو ہمارے دین سے جدا ہو گیا، تبع نے انہیں اپنے



دین کی دعوت دی اور ان سے کہا کہ میں نے جو دین اختیار کیا ہے تمہارے دین سے بہتر ہے پھر انہوں نے آگ کو حکم یعنی فیصلہ کرنے والی چیز بنایا اس پر آگ نے اہل یمن کے بتوں کو اور جو کچھ انہوں نے بتوں پر چڑھاوے چڑھائے تھے ان سب کو جلا دیا اور یہودی علماء کو دیکھ کر آگ پیچھے ہٹ گئی یہاں سے یمن میں دین یہودیت پھیلنے کی ابتداء ہوئی شیخ نے نبی اکرم ﷺ پر آپ کی بعثت سے سات سو سال پہلے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے تقریباً ایک سو سال پہلے ایمان قبول کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھیں کہ شیخ کو برانہ کہو وہ نیک آدمی تھے اس کے بعد صاحب معالم التنزیل نے حضرت سہل بن سعد سے یہ حدیث نقل کی رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ شیخ کو برانہ کہو کیونکہ وہ مسلمان ہو گیا تھا یہ حدیث سند احمد ص ۳۴۰ جلد ۵ میں مذکور ہے۔ پھر بحوالہ مصنف عبدالرزاق حدیث نقل کی ہے کہ (جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ شیخ نبی تھے یا غیر نبی۔

ان روایات سے یہ تو ثابت ہوا کہ شیخ اچھے آدمی تھے لیکن ان کی قوم کب اور کیسے ہلاک ہوئی اس کا پتہ نہیں چلتا جب کہ سورہ ق میں اور سورہ دخان میں قوم شیخ کے ہلاک کئے جانے کی تصریح ہے اگر معالم التنزیل کے بیان سے یہ سمجھ لیا جائے کہ باوجود یہ کہ آگ نے فیصلہ کر دیا تھا پھر بھی شیخ کی قوم ایمان نہ لائی اور کفر پر جمی رہی اور اس کی وجہ سے ہلاک ہوئی تو یہ قرین قیاس ہے یہاں تک لکھنے کے بعد تفسیر ابن اکثیر میں دیکھا انہوں نے اس شیخ کا نام اسعد بتایا ہے اور کنیت ابو کرب لکھی ہے اور باپ کا نام ملیکہ لکھا ہے اور یہ بھی لکھا کہ اس نے ۳۲۶ سال تک حکومت کی اور یہ بھی لکھا ہے کہ اس کی قوم نے اس کی دعوت پر اسلام قبول کر لیا تھا لیکن جب اس کی وفات ہو گئی تو وہ لوگ مرتد ہو گئے آگ اور بتوں کی پوجا کرنے لگے لہذا اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب میں مبتلا فرما دیا جیسا کہ سورہ سبا میں مذکور ہے مفسر ابن کثیر کا فرمانا ہے کہ قوم شیخ اور سب ایک ہی قوم کا مصداق ہے۔

پھر فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعِجِينَ اور ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس طور پر پیدا نہیں کیا کہ ہم فعل عبث کرنے والے ہوں۔

مَا خَلَقْنَاهُمْ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (ہم نے ان دونوں کو حکمت ہی سے بنایا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے) ان کے بنانے میں جو حکمتیں ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لوگ اس سے ان کے پیدا کرنے والے کی قدرت کاملہ پر استدلال کریں سورہ یس میں فرمایا أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ کیا وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اس پر قادر نہیں ہے کہ ان کے جیسے پیدا فرما دے ہاں وہ قادر ہے اور بہت پیدا کرنے والا ہے بڑے علم والا ہے۔

## قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا

إِنَّ يَوْمَ الْفُصْلِ مِنْهَا لَأَمْعِجِينَ (بلاشبہ فیصلوں کا دن ان سب کا وقت مقرر ہے یہ یامیں یا نہ یامیں بہر حال قیامت اپنے مقررہ وقت پر آجائے گی اور حساب کتاب ہوگا۔ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْكَ قَوْلِي شَيْئًا اس دن کوئی تعلق والا کسی تعلق والے کو کچھ بھی نفع نہ دے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی) إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ ہاں مگر جس پر اللہ رحم فرمائے اہل ایمان کا تعلق ایک دوسرے کو نفع

دے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے گا آپس میں ایک دوسرے کی سفارش کر دیں گے إِنَّكَ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ بے شک وہ زبردست ہے اپنے دشمنوں سے انتقام لینے والا ہے الرَّحِيمُ وہ مومن بندوں پر رحم فرمانے والا ہے۔

لَفْظَ مَوْلٰی وَلٰی یَلٰی سے ماخوذ ہے آپس میں جن دو آدمیوں میں دوستی ہو ان میں سے ہر ایک دوسرے کا مولیٰ ہوتا ہے دنیاوی تعلقات قیامت کے دن ختم ہو جائیں گے کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا اور دوستی اور قریبی تعلق کچھ کام نہ دے گا ہاں اللہ کی رحمت جس پر ہو جائے گی اسی کے لئے خیر ہوگی اور وہ صرف اہل ایمان کے لئے مخصوص ہے اس دن کوئی کافر کسی کافر کو نفع نہیں پہنچا سکتا ساری دوستیاں ختم ہو جائیں گی اہل ایمان میں سے جسے اور جس کے لئے شفاعت کرنے کی اجازت ہوگی اس کو نفع پہنچ جائے گا۔

إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقْوِمِ طَعَامُ الْكَافِرِ ۖ كَالْهَمَلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ ۖ كَغَلِي الْحَمِيمِ ۖ خَذُوهُ

بلاشبہ زقوم کا درخت گنہگار کا کھانا ہوگا جو تیل کی تلھٹ کی طرح ہوگا وہ پیٹوں میں ایسا کھولے گا جیسے گرم پانی کھولتا ہے اس کو پکڑو

فَاَعْتَلُوهُ إِلَىٰ سَوَاءِ الْحَمِيمِ ۖ ثُمَّ صَبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ۖ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ

پھر اسے گھینٹے ہوئے دوزخ کے پتوں سچ تک لے جاؤ پھر اس کے سر پر گرم پانی کے عذاب سے ڈال دو تو چھ لے بے شک تو

الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ۖ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ

معزز و مکرم ہے۔ بیشک یہ وہی عذاب ہے جس کے بارے میں تم شک کیا کرتے تھے

## دوزخیوں کے لئے طرح طرح کا عذاب ہے

## زقوم ان کا کھانا ہوگا، سروں پر گرم پانی ڈالا جائے گا

**تفسیر:** گذشتہ آیات میں منکرین قیامت کا انکار ذکر فرمایا پھر قیامت کا اثبات فرمایا قیامت قائم ہونے پر جو کافروں کی دوزخ میں بد حالی ہوگی ان آیات میں اس کو بیان فرمایا دوزخیوں کو جہنم میں سخت بھوک لگے گی اور وہ کھانے کے لئے طلب کریں گے انہیں کھانے کے لئے جو چیزیں دی جائیں گی ان میں سے زقوم کا درخت بھی ہوگا سورۃ صافات میں بیان ہو چکا ہے کہ یہ درخت دوزخ کے درمیان میں سے نکلے گا اس کے گچھے ایسے ہوں جیسے ساپنوں کے پھن ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ کڑوا ہوگا جب ان کو کھانے کو دیا جائے گا تو تیل کی تلھٹ کی طرح ہوگا (کسی بوتل وغیرہ میں ایک عرصہ تک تیل رکھا جائے اور تیل میں دوسری کسی چیز کے ذرات تیل کے گاڑے حصے میں جم جائیں اسے تلھٹ کہتے ہیں) زقوم دیکھنے میں بھی بہت زیادہ بدنما ہوگا اور مزے میں بھی بہت زیادہ برا ہوگا لیکن بھوک کی مجبوری میں دوزخیوں کو کھانا ہی پڑے گا وہ پیٹ میں پہنچ جائے گا تو وہاں جا کر تیز گرم پانی کی طرح کھولے گا اس سب کے باوجود پیٹ بھر کر کھائیں گے جیسا کہ سورۃ الواقعة میں فرمایا فَمَا لُبُّونَ مِنْهَا الْبُطُونُ۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ ﷺ نے آیت کریمہ اَتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْاَوَّلِينَ اَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

تلاوت فرمائی پھر فرمایا کہ زقوم کا ایک قطرہ دنیا میں ٹپک جائے تو دنیا والوں کی کھانے کی چیزوں کو بگاڑ کر رکھ دے اب غور کر لو کہ اس کا کیا حال ہوگا جس کا کھانا زقوم ہوگا۔

(الترغیب والترہیب ج ۳ ص ۳۸۰)

اہل دوزخ کو دوزخ میں جو زقوم کھانے کو ملے گا وہ پیٹ میں جا کر گرم پانی کی طرح کھولے گا پھر اوپر سے ان کے سر پر گرم پانی ڈالنے کا حکم ہوگا یہ گرم پانی ڈالا جانا مستقل عذاب ہوگا یہاں فرمایا ہے لَتَصُوبُوا فَوْقَ رُءُوسِهِمْ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ اور سورہ حج میں فرمایا يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ يُصْهِرُ فِيهِمَا فِئَافِئَهُمْ وَالْجِلْدُ اَنْ كُتِبَ عَلَيْهِمْ مِنْ سِوَا ذَٰلِكَ مِنْ شَيْءٍ لَّا يَجِدُونَ لَهُمْ جَزَاءً إِلَّا ظَنُورًا اور ان کے چڑوں کو)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ اسے پڑلو پھر دوزخ کے بیچ والے حصے میں گھسیٹ کر لے جاؤ پھر اس کے سر پر گرم پانی کا عذاب ڈال دو یعنی گرم پانی ڈال دو جو سراپا عذاب ہے۔

قال القرطبي والعتل أن تأخذ بتلابيب الرجل فتعتله أي تجره اليك لتذهب به الى حبس أو بليّة. عتلت الرجل اعتلّه واعتلّه عتلاً إذا جذبتّه جذبا عنيّفا. (علامہ قرطبی کہتے ہیں عتّل کا معنی یہ ہے کہ تو کسی آدمی کو اس کے گریبان سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچے تاکہ اسے جیل میں یا آزمائش میں لے جائے، عتلت الرجل اعتلّه واعتلّه عتلاً جب تو اسے سختی کے ساتھ کھینچے)

## دنیا کی بڑائی کا انجام

دوزخی وہاں ایسے عذاب میں مبتلا ہوگا حالانکہ دنیا میں بڑا عزت والا سمجھا جاتا تھا اس کا بڑا نام تھا اور شہرت تھی بادشاہ تھا صدر تھا یا وزیر تھا بڑے بڑے القاب تھے وہ اپنے آپ کو بڑا آدمی سمجھتا تھا دوزخ میں سخت عذاب کی وجہ سے اس کا برا حال ہوگا اس کی دنیا والی حالت یاد دلانے کے لئے (جس کو بہت بڑی کامیابی سمجھتا تھا) کہا جائے گا دُفِيَ عَنكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ تو یہ عذاب چکھ لے دنیا میں تو بڑی عزت والا اور بڑے اکرام والا سمجھا جاتا تھا یہ چند دن کی بڑائی اور چہل پہل پر جو لوگ جان اور دل سے فدا ہیں وہ اس سے عبرت حاصل کریں۔

إِنَّ هَٰذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ (اہل دوزخ سے یہ بھی کہا جائے گا کہ یہ وہی عذاب ہے جس کے بارے میں تم شک کیا کرتے تھے)

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ۖ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۖ يَكْبَسُونَ مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ ۖ

بلاشبہ متقی لوگ امن والی جگہ میں ہوں گے باغوں میں اور چشموں میں ہوں گے وہ سندس اور استبرق کا لباس پہنے ہوں گے

مُتَقَبِّلِينَ ۖ كَذَٰلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ۖ يَدْخُلُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ ۖ

آئے سامنے پیشے ہوں گے یہ بات اسی طرح ہے اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی خندوں سے ان کا نکاح کر دیں گے وہ لوگ اس میں امن سے ہر قسم کے یوں لگا دیں گے

لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ ۖ وَوَقَّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ۖ فَضْلًا

پہلی موت جو انہیں دنیا میں آچکی تھی اس کے سوا موت کو نہ چکھیں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں دوزخ کے عذاب سے بچالے گا جو آپ کے

مَنْ رَزَقَكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝

رب کی طرف سے فضل ہوگا یہ بڑی کامیابی ہے

## مستقیوں کے انعامات، باغ اور چشمے، لباس اور ازواج، ہر قسم کے پھل اور حیات ابدی

**تفسیر:** دوزخیوں کے عذاب بتانے کے بعد اہل جنت کے بعض انعامات ذکر فرمائے۔ اولاً تو یہ فرمایا کہ متقی لوگ امن و امان کی جگہ میں ہوں گے یعنی جنت ایسی جگہ ہے کہ جہاں کسی قسم کا خوف و ہراس بے اطمینانی، بے چینی نہیں ہوگی اور ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے انہیں کبھی خوف یا غم نہ ہوگا نہ وہاں سے نکالے جانے کا خطرہ ہوگا۔ ثانیاً یہ فرمایا کہ یہ متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہونگے ثالثاً یہ فرمایا کہ سندس اور استبرق کا لباس پہنے گے سندس باریک ریشم کو اور استبرق مونے ریشم کو کہتے ہیں رابعاً یہ فرمایا کہ آپس میں مقابل ہو کر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے گے مفسرین نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا ہے لا یوی بعضہم قفا بعض یعنی اس ترتیب سے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے کہ کسی کی پشت کسی طرف نہ ہوگی خامساً یہ فرمایا کہ ہم حور عین سے ان کا نکاح کر دیں گے لفظ حور حورا کی جمع ہے (اگرچہ اردو استعمال میں حور کو مفرد سمجھا جاتا ہے حوراء گورے رنگ کی عورت کو کہتے ہیں جس کا رنگ خوب آنکھوں میں فح رہا ہو اور اچھا لگ رہا ہو اور عین عیناء کی جمع ہے اس کا معنی ہے بڑی آنکھوں والی عورت اللہ تعالیٰ حور عین کو اہل جنت کے نکاح میں دے دیں گے حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی عورتوں میں سے اگر کوئی عورت زمین کی طرف جھانک لے تو آسمان اور زمین کے درمیان کو روشن کر دے اور ان دونوں کے درمیان کو خوشبوؤں سے بھر دے اور فرمایا کہ یہ واقعی بات ہے کہ اس کے سر کا دوشہ دنیا سے اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سب سے بہتر ہے۔ (رواہ البخاری)

اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کا فرمان نقل کیا ہے کہ ہر جنتی کی (کم از کم ۷۰) بیویاں ہوگی ان میں سے ہر ایک ستر جوڑے پہنے ہوئے ہوگی اس کی پنڈلی کا گودا باہر سے نظر آئے گا (رواہ الترمذی) سادساً یہ فرمایا کہ اہل جنت ہر قسم کے میوے طلب کریں گے سابعاً یوں فرمایا کہ وہاں انہیں کبھی بھی موت نہیں آئے گی دنیا میں جو موت آگئی تھی اس کے بعد اور کسی موت پر خطرہ نہ ہوگا ثانیاً یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دوزخ سے بچالے گا عذاب دوزخ سے بچانا اور جنت میں داخل فرمانا یہ سب محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا (اللہ تعالیٰ کے ذمہ کسی کا کچھ واجب نہیں ہے یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے ایمان پر اور اعمال صالحہ پر جنت دینے کا اور دوزخ سے محفوظ فرمانے کا وعدہ فرمایا ہے۔

آخر میں فرمایا ہے ذَلِكْ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (یہ جو کچھ مذکور ہوا بڑی کامیابی ہے اس میں اہل دنیا کو تنبیہ ہے کہ تم جس چیز کو کامیابی سمجھ رہے ہو وہ فانی چیزیں ہیں جنت کی طرف رخ کرو اور اس کے اعمال میں لگو وہاں جو ملے گا وہ بڑی کامیابی ہے۔

فَاَنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝ فَارْتَقِبْ اِنَّهُمْ مَرْتَقِبُونَ ۝

سو بات بھی ہے کہ ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں سو آپ انتظار کیجئے بلاشبہ وہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں۔

۱۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ جو بات ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ ہر جنتی کیلئے کم از کم دو بیویاں ہوں گی۔

## ہم نے قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا ہے آپ انتظار کریں، یہ لوگ بھی منتظر ہیں

**تفسیر:** یہ سورة الدخان کی آخری دو آیتیں ہیں یہ سورت قرآن کریم کی قسم کھانے اور مبارک رات میں نازل فرمانے کے ذکر سے شروع ہوئی تھی آخری سورت میں پھر قرآن کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے اس کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا ہے آپ کی زبان عربی ہے یہ بھی عربی ہے آپ اسے پڑھیں اور ان کے سامنے بیان کریں تاکہ یہ لوگ فصیح حاصل کریں نیز یہ فرمایا کہ آپ انتظار فرمائیں یہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں یعنی اگر یہ لوگ فصیح قبول نہیں کرتے اور اس انتظار میں ہیں کہ آپ کو تکلیف پہنچ جائے تو آپ سمجھ لیں ان کے انتظار اور آرزو سے کچھ ہونے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا جیسا کہ سورة الطور میں فرمایا اَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَكِبُ بِهِ رَبِّ الْمُنُونِ قُلْ تَرَكِبُوا فِئَافِئًا مِّنَ الْمُنْتَرِبِينَ (بلکہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں ہم اس کے بارے میں موت کے حادثہ کا انتظار کر رہے ہیں آپ فرما دیجئے تم انتظار کرو سو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔

وهذا آخر ما وفق الله تعالى في تفسير سورة الدخان والحمد لله الرحمن المنان، والصلوة والسلام الايمان الاكملان على سيد ولد عدنان، وخير الانس والجان، وعلى اله وصحبه اصحاب العلوم والعرفان، ومن تبعهم باحسان الى ان يتناوب الملوان ويتعاقب النيران. (وكان ذلك في اليوم الرابع من الشهر الثالث من ۱۴۱۸ھ)



سُورَةُ الْبَاقِيَةِ وَهِيَ قَوْلُهَا يَا مَعْزُومُونَ

سورة الباقیہ مکہ معظمہ میں نازل ہوئی اس میں سینتیس آیات اور چار رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے﴾

حَمْدٌ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۝ إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝

حَمْدِ اتارنا ہے کتاب کا اللہ کی طرف سے جو عزیز ہے حکیم ہے بلاشبہ آسمانوں میں اور زمین میں نشانیاں ہیں مومنین کے لئے

وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُذُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ۝ وَاختِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ

اور تمہارے پیدا کرنے میں اور جو چائے اللہ تعالیٰ پھیلاتا ہے ان کے پیدا کرنے میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو یقین رکھتے ہیں اور رات اور دن کے پیچھے

اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَاهُ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيحِ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ

آنے میں اور جو رزق اللہ نے آسمان سے اتارا ہے پھر اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ فرمادیا اور ہواؤں کے پھیرنے میں نشانیاں

يُعَقِّلُونَ ۝ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ ۝

ہیں ان لوگوں کے لئے جو سمجھتے ہیں یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ پر حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں سو یہ لوگ اللہ کے اور اس کی آیات کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے

یہ کتاب عزیز و حکیم کی طرف سے ہے آسمان اور زمین  
انسان کی تخلیق، لیل و نہار کے اختلاف اور بارش کے نزول  
میں معرفت الہیہ کی نشانیاں ہیں

تفسیر: ان آیات میں اول تو یہ فرمایا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے وہ عزیز بھی ہے حکیم بھی ہے اس کے بعد توحید کی نشانیاں بیان فرمائی۔ ارشاد فرمایا کہ آسمانوں اور زمین میں اہل ایمان کے لئے بہت سی نشانیاں ہیں اہل ایمان ان کو دیکھتے ہیں اور متاثر ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ تمہارے پیدا کرنے میں اور جو چائے زمین میں پھیلا رکھے ہیں ان سب میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں اور دلائل ہیں جو لوگ یقین رکھتے ہیں اس طرح رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں اور اللہ تعالیٰ نے جو آسمانوں سے رزق نازل فرمایا یعنی بارش جس کے ذریعے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ فرمایا یعنی اس کی خشکی کو دور فرما کر اس میں اہلپاتی ہوئی کھیتیاں اور سبزیاں پیدا فرمادی اور ہوا کو بھیج کر جو مختلف کاموں میں لگایا جو کبھی پورب کو جاتی ہیں اور کبھی پچھم کو کبھی گرم ہیں، کبھی ٹھنڈی، کبھی نفع دینے والی ہے، کبھی ضرر

پہنچانے والی ان سب چیزوں میں عقل والوں کے لئے نشانیاں ہیں عقل والے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ سب امور قادر مطلق جل شانہ کی مشیت اور ارادہ سے وجود میں آتا ہے۔

اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ آیات جن کو ہم حق کے ساتھ آپ پر تلاوت کرتے ہیں جو وحی کے ذریعے آپ تک پہنچتی ہیں یہ آپ کو فرشتہ سنا رہا ہے پھر آپ کے ذریعے آپ کے مخاطبین کو پہنچتی ہیں لیکن یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ان آیات کو سننے کے بعد ان کو کیا انتظار ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل سامنے آگئے۔ اس کی آیات جو وحی کے ذریعے آپ تک پہنچیں آپ سے ان لوگوں نے نہیں ان پر وہ ایمان نہیں لائے اس سب کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے۔

وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ۚ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُكْلَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يُخْرِطُ مُسْتَكْبِرًا كَاَنَّ لَمْ يَسْمَعْهَا

بڑی خرابی ہے ہر جھوٹے کے لئے جو منافقان ہیں اللہ کی آیتوں کو سنا رہے ہیں جو اس کے بعد ہر دہریہ کی جاتی ہیں۔ پھر وہ تکبر کرتے ہوئے صراحت کرتے ہیں کہ کیا اس نے ان کو سنا ہی نہیں ہوا ہے شخص کو

فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۖ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَ هَاهُ وَوَادٍ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝

آپ دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے اور جب وہ ہمارے آیتوں میں سے کسی آیت کو جان لیتا ہے تو ان کا مذاق بناتا ہے ان لوگوں کے لئے ذلیل کرنے والا عذاب ہے

مِنْ وَّرَآئِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ تَاكْسِبُوشِيئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ

ان کے آگے دوزخ ہے انہوں نے دنیا میں جو کچھ کیا اور اللہ کے سوا انہوں نے جو کار ساز بنائے ان میں سے انہیں کوئی بھی کچھ نفع نہیں دے گا اور ان کے لئے

عَذَابٌ عَظِيمٌ ۚ هَٰذَا هُدًىٰ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزِ أَلِيمٍ ۝

بڑا عذاب ہے یہ ایک بڑی ہدایت ہے۔ اور جن لوگوں نے اپنے رب کی آیات کے ساتھ کفر کیا ان کے لئے عذاب ہے سختی والا دردناک۔

## ہر جھوٹے، گناہگار اور متکبر اور منکر کے لئے عذاب الیم ہے

**تفسیر:** قریش مکہ میں جو لوگ ایمان نہیں لائے ان میں بعض لوگ کفر و شرک کے سرغضب بنے ہوئے تھے جو اسلام قبول نہیں کرتے تھے اور دوسروں کو بھی قبول نہیں کرنے دیتے تھے ان میں سے ابو جہل بھی تھا اور نضر بن حارث تھا، معاملہ انقریل میں لکھا ہے کہ آیت کریمہ **وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ** نضر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی یہ عجیبوں کی باتیں (قصے کہانیاں) خرید کر لاتا تھا اور لوگوں کو سنا تا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ رسول اللہ ﷺ کے پاس نہ جائیں اور قرآن شریف نہ سنیں۔ جس کا کچھ بیان سورہ لقمان کے پہلے رکوع میں آیت کریمہ **وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ** کے ذیل میں گزر چکا ہے صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ شان نزول خواہ کسی ایک شخص کے بارے میں ہو لیکن الفاظ کا عموم ہر اس شخص کو شامل ہے جو اپنے عمل اور کردار سے آیت کے مفہوم کا مصداق ہو اور شاد فرمایا کہ ہر **أَفَّاكٍ** یعنی خوب جھوٹ بولنے والے اور ہر **أَثِيمٍ** یعنی بڑے گناہگار کے لئے ویل ہے یعنی خرابی اور بربادی اور ہلاکت ہے (جس شخص کے بارے میں آیت نازل ہوئی وہ چونکہ بہت جھوٹا اور بہت بڑا گناہگار تھا اس لئے یہ دونوں لفظ لائے گئے اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ تھوڑا جھوٹ اور تھوڑے گناہ جائز ہیں)



اس بڑے جموں اور بڑے گنہگار کی صفت بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ تُشْرِكُوْا (یہ اللہ کی آیات کو سننا ہے جو اس پر پڑھی جاتی ہیں) ثُمَّ یُحْیِیْہُمْ مُّسْکِنًا پھر وہ اپنے کفر پر اور شرارت پر اور گنہگاری پر اصرار کرتا ہے اس کا یہ اصرار تکبر کرنے کی حالت میں ہے کَانَ لَہُمْ سَعۡیَہُمَا (وہ تکبر کرتے ہوئے اس طرح بے رخی اختیار کر لیتا ہے کہ گویا اس نے اللہ کی آیات کو سنا ہی نہیں) فَبَشِّرْہُم بِعَذَابٍ اَلِیْمٍ سو آپ اسے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں یہ شخص یہ نہ سمجھے کہ دنیا میں بڑا ہوں سردار بنا ہوا ہو ہمیشہ اسی حال میں رہوں گا یہ دنیا فانی ہے تھوڑی سی ہے مرنا بھی ہے موت کے بعد اللہ کے رسول اور کتاب کو جھٹلانے والے دردناک عذاب میں داخل ہوں گے۔

اَقَالِہٖ اور اَکْبِہٖ (جس کا ذکر اوپر ہوا) اس کی مزید بے ہودگی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَآ اَعْلَیَہُمْ مِنْ اٰیٰتِنَا شَیْءٌ اَتَّخَذَہَا زُورًا (یعنی ہماری آیات میں سے کوئی آیت اس کے پاس پہنچ جاتی ہے تو وہ اس کا مذاق بناتا ہے یعنی تمسخر کرتا ہے) اُولٰٓئِکَ لَہُمْ عَذَابٌ مُّہِیْنٌ ان لوگوں کے لئے ذلیل کرنے والا عذاب ہے مِنْ وَّرَآءِہُمْ جَہَنَّمُ (ان کے آگے دوزخ ہے اپنے شرک کی وجہ سے اس میں داخل ہوں گے) وَلَا یُغْنِیْ عَنْہُمْ تَاکْسِبُوْا شَیْئًا وَّلَا اِنَّا اَتَّخَذْنَا مِنْ دُوْنِ اللّٰہِ اَوْلِیَآءَ اور انہوں نے جو بھی کچھ کمایا وہ انہیں کچھ بھی نفع نہ دے گا اور اللہ کے سوا جو انہوں نے اپنے خیال میں اولیاء یعنی کارساز بنا رکھے تھے وہ بھی کچھ نفع نہ دیں گے وَلَآ لَہُمْ عَزَآءٌ عَظِیْمٌ (اور ان کے لئے بڑا عذاب ہے)

ہٰذَا اٰھْدِیْ (یہ قرآن سراپا ہدایت ہے اس پر ایمان لانا اور عمل کرنا لازم ہے) مذکورہ صفات سے متصف ہونے والوں کے لئے تینوں طرح کا عذاب بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا وَالَّذِیْنَ کَفَرُوْا بِاٰیٰتِ رَبِّہِمْ (الایۃ) اور جن لوگوں نے اپنے رب کی آیات کے ساتھ کفر کیا ان کے لئے سخت عذاب کا بڑا حصہ ہوگا جو دردناک ہوگا وہاں کا عذاب الیم بھی ہے یعنی دردناک اور مُہِیْنٌ ہے یعنی ذلیل کرنے والا اور عظیم یعنی بڑا بھی ہے۔

اَللّٰہُ الَّذِیْ سَخَّرَ لَکُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِیَ الْفُلُکَ فِیْہِ بِاَمْرِہٖ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِہٖ وَلَعَلَّکُمْ

اللہ وہ ہے جس نے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں اور تاکہ تم اس کے فضل سے تلاش کرو اور تاکہ تم

تَشْكُرُوْنَ ۝ وَ سَخَّرَ لَکُمْ مَّا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا مِّنْہٗ اِنْ فِیْ ذٰلِکَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ

شکر کرو اور جو چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں ہیں ان سب کو اپنی طرف سے تمہارے لئے مسخر بنا دیا بلاشبہ اس میں نشانیاں ہیں اُن لوگوں کے لئے

یَتَفَكَّرُوْنَ ۝

جو فکر کرتے ہیں۔

تسخیر بحر اور تسخیر مافی السموات والارض میں فکر کرنیوالوں کیلئے نشانیاں ہیں

تفسیر: ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے انعامات اور دلائل توحید بیان فرماتے ہیں۔

اولاً سمندر کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کو تمہارے لئے مسخر فرمادیا یعنی تمہاری ضرورتوں میں کام آنے والا بنا دیا اس تسخیر کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلتی ہیں ان کشتیوں میں سفر کرتے ہو اور ایک جگہ سے دوسری

جگہ سامان بھی لے جاتے ہو اور اللہ کا فضل بھی تلاش کرتے ہو تجارت کے ذریعے فائدہ اٹھاتے ہو سمندر میں غوطے مارتے ہو موتی نکالتے ہو شکار پکڑتے ہو یہ سب اللہ کا فضل ہے تمہیں چاہئے کہ اللہ کا شکر ادا کرو ثانیاً یہ فرمایا کہ آسمانوں میں اور زمینوں میں جو چیزیں ہیں اللہ نے ان کو تمہارے کام میں لگا دیا یعنی ان چیزوں کو تمہارے کام میں آنے والا بنادیا یہ چیزیں اللہ کی طرف سے تمہارے لئے مسخر ہیں اللہ کی مشیت اور ارادہ کے مطابق تمہارے منافع کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں بعض منافع آخرت سے متعلق ہیں اور بعض دنیا سے متعلق ہیں آخر میں فرمایا کہ یہ جو سب کچھ مذکور ہوا اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں فکر کرنے والے لوگوں کے لئے (جو لوگ فکر کرتے ہیں وہ عبرت حاصل کرتے ہیں)

قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۱۰﴾

آپ ایمان والوں سے فرمادیجئے کہ ان لوگوں سے درگزر کریں جو اللہ کے ایام کی امید نہیں رکھتے تاکہ اللہ ہر قوم کو اس کی جزا دے جو کما تے ہیں

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿۱۱﴾

جو شخص نیک کام کرے سو وہ اسی کی جان کے لئے ہے اور جو شخص کوئی برا کام کرے اس کا وبال اسی کے نفس پر ہے پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔

آپ اہل ایمان سے فرمادیں کہ منکرین سے درگزر کریں ہر شخص کا نیک عمل اسی کے لئے ہے اور برے عمل کا وبال بھی عمل کرنے والے پر ہے

تفسیر: صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ یَغْفِرُوا جواب امر ہونے کی وجہ سے مجزوم ہے تقدیر عبارت یوں ہے قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا یعنی آپ اپنے ایمان والوں سے فرمادیں کہ درگزر کرو وہ اس پر عمل کرتے ہوئے ان لوگوں سے درگزر کریں جو اللہ کے دنوں کی امید نہیں کرتے یعنی کافر لوگ جنہیں اس خیال کا نہیں کہ اللہ تعالیٰ دنوں کو پلٹ دیتا ہے ہمیشہ یکساں زمانہ نہیں رہتا وہ دشمنوں سے انتقام لے لیتا ہے صاحب روح المعانی نے اس کی دوسری تفسیر حضرت مجاہد تابع رحمۃ اللہ علیہ سے یوں نقل کی ہے کہ ان لوگوں سے درگزر فرمائیں جنہیں ان اوقات کی امید نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے مومنین کو ثواب دینے کے لئے مقرر فرمائے ہیں جن میں مومنین کو کامیابی حاصل ہوگی یعنی وہ لوگ آخرت کو مانتے ہی نہیں ان سے درگزر کریں پھر بعض علماء کا یہ قول بھی لکھا ہے کہ یہ آیت قتال کا حکم نازل ہونے سے پہلے نازل ہوئی تھی جب جہاد کا حکم نازل ہوا تو یہ حکم منسوخ ہو گیا اور بعض علماء کا قول نقل کیا ہے کہ نسخ نہیں ہوا بلکہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو دشمنوں کی طرف سے ہوتی رہتی ہیں جن سے ایذا پہنچتی ہے یا وحشت ہوتی ہے ان باتوں سے درگزر کرنا مراد ہے۔

لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (یعنی آپ ایمان والوں کو درگزر کرنے کا حکم دیں وہ درگزر کریں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی انہیں جزا دے گا اور کافروں کے عمل کی کافروں کو سزا دے گا۔

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ (جو شخص نیک عمل کرے سو وہ اسی کی جان کے لئے ہے) وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا اور جس نے برے کام کئے ان کا وبال اسی پر ہوگا) ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ (پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے) اہل ایمان کو ایمان کا اعمال صالحہ اور اخلاق حسنہ کا ثواب ملے گا اور ان کے مخالفین کافرین اور مشرکین اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے عذاب کے مستحق ہوں گے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَآئِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ

اور یہ بات واقعی ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب دی اور حکم عطا کیا اور نبوت دی اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور جہانوں پر فضیلت دی

عَلَى الْعَالَمِينَ ۚ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ ۖ مَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا

اور ہم نے دین کے بارے میں انہیں کھلی کھلی دلیل عطا کیں سو انہوں نے آپس میں اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آگیا آپس کی ضد اضدی

بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝

کی وجہ سے بلاشبہ آپ کا رب قیامت کے دن ان امور میں ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا جن میں وہ آپس میں اختلاف کرتے تھے۔

## بنی اسرائیل پر طرح طرح کے انعامات کتاب حکم اور نبوت سے سرفراز فرمانا طیبات کا عطیہ اور جہانوں پر فضیلت

تفسیر: یہ دو آیات کا ترجمہ ہے پہلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب دی اور حکم دیا.....

بعض حضرات نے حکم کا ترجمہ فقہ فی الدین کیا ہے اور بعض حضرات نے اس سے حکمتیں مراد لی ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت بھی دی یعنی ان میں کثرت سے نبی بھیجے سورہ مائدہ میں فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يُقَوْمُوا لَكُمْ رَسُولًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۚ وَأَنَّ إِلَهُكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ فَإِنَّ اللَّهَ تَجَاسَّٰسٌ عَلِيمٌ ۚ وَأَنَّ اللَّهَ يَخْتُلِفُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝ (اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم تم اللہ کے انعام کو جو تم پر ہوا ہے یاد کرو جبکہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بہت سے پیغمبر بنائے اور تم کو صاحب ملک بنایا اور تم کو وہ چیزیں دیں جو دنیا جہانوں میں سے کسی کو نہیں دیں)

وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ (اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزیں دیں) یعنی عمدہ اور حلال اور لذت والی چیزیں عطا فرمائیں وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (اور ہم نے انہیں جہانوں پر فضیلت دی یعنی ان کے زمانہ میں جو لوگ تھے بنی اسرائیل کو ان پر فضیلت عطا فرمائی۔

وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ (اور ہم نے انہیں دین کے بارے میں کھلے ہوئے واضح دلائل عطا فرمائے) جن میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بھی تھے صاحب روح المعانی نے بعض حضرات کا قول نقل کیا ہے کہ اس سے رسول اللہ ﷺ کی بعثت کی نشانیاں مراد ہیں یہودیوں کو آپ کی بعثت کی نشانیاں معلوم تھیں لیکن جب آپ تشریف لائے تو یہ لوگ یہ جانتے ہوئے آپ کی بعثت اور رسالت کا یقین ہوتے ہوئے منکر ہو گئے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ كَانُوا كَافِرِينَ ۚ وَكَانُوا كَافِرِينَ ۚ وَكَانُوا كَافِرِينَ ۚ (جب وہ چیز آ پہنچی جس کو وہ پہچانتے ہیں اس کا انکار کر بیٹھے)

فَاخْتَلَفُوا إِلَّا مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ (سو انہوں نے آپس میں اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد ان کے پاس علم آگیا آپس کی ضد اضدی کی وجہ سے)

بغیاً کا ایک مطلب تو یہی ہے کہ آپس کی خداحسدی کی وجہ سے اختلافات میں لگ گئے دلائل واضح سامنے ہوئے حق سے منہ موڑ اور ریاست اور چوہدریہٹ کی وجہ سے اختلافات میں پڑ گئے اور ایک معنی یہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ پر حسد کرتے ہوئے آپس میں اختلاف کیا پہلے تو آپ کی آمد کے منتظر تھے۔ جب آپ تشریف لے آئے تو کہنے لگے کہ عرب میں سے کیسے کوئی شخص نبی ہو سکتا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ تم میں سے ہمیشہ نبی آتا رہے گا ان میں سے صرف چند ہی آدمی مسلمان ہوئے اور آج تک اسلام اور مسلمانوں کی خلاف ان کی سرگرمیاں جاری ہیں علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے دنیاوی ریاست اور چوہدریہٹ کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے بغاوت کی اور انبیاء کرام کو قتل کر دیا یہی حال آپ کے زمانہ کے مشرکین کا ہے ان کے پاس کھلی ہوئی دلیلیں آگئی ہیں لیکن دنیاوی ریاست کے چلے جانے کے ڈر سے اسلام قبول نہیں کرتے اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَمَنْ كَانُوا مِنْهُ يَخْتَلِفُونَ (بلاشبہ آپ کا رب قیامت کے دن ان امور میں فیصلہ فرمائے گا جن میں وہ آپس میں اختلاف کرتے تھے)۔

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا

بھرم نے آپ کو ایک خاص طریقہ پر کر دیا سو آپ اس کا اتباع کیجئے اور ان لوگوں کی خواہشوں کا اتباع نہ کیجئے جو نہیں جانتے بلاشبہ وہ لوگ اللہ کے مقابلہ میں

يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ ۖ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ ۚ هَذَا

آپ کو کچھ نفع نہیں دے سکتے اور بے شک ظلم کرنے والے ایک دوسرے کے دوست ہیں اور اللہ متقیوں کا دوست ہے یہ قرآن

بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْقَوْمِ ٱلْيَقِينِ ۚ

لوگوں کے لئے دانشمندیوں کا اور ہدایت کا ذریعہ ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لئے جو یقین رکھتے ہیں۔

ہم نے آپ کو مستقل شریعت دی ہے کفار آپ کو کچھ نفع نہیں پہنچا سکتے

وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں اور اللہ متقیوں کا ولی ہے

تفسیر: یہ تین آیات کا ترجمہ ہے پہلی آیت میں رسول اللہ ﷺ کو خطاب فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل کے

بعد ہم نے آپ کو ایک شریعت دی ہے جو دین سے متعلق ہے (قال القرطبی ای علی منہاج واضح من امر

الدین بشرع بک من الحق) (علامہ قرطبی فرماتے ہیں یعنی آپ کو دین حق کی جو شریعت (قانون) دی ہے

اس کے واضح راستہ پر (چلتے رہیں) سو آپ اس کا اتباع کریں اور ان لوگوں کا اتباع نہ کریں جو نہیں جانتے یعنی قریش

مکہ جو آپ کا دین قبول کرنے کے بجائے اپنے باپ داداؤں کا دین قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں ان کا اتباع نہ کیجئے۔

دوسری آیت میں فرمایا کہ یہ لوگ آپ کو اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتے یعنی اگر آپ نے ان کے

دین کا اتباع کر لیا اور اس پر اللہ کی طرف سے گرفت ہوگئی تو یہ لوگ ذرا بھی آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔

وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ (ظالم لوگ یعنی کفار مشرکین اور منافقین اور یہود و نصاریٰ ایک دوسرے کے

دوست ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کی نیت رکھتے ہیں۔ وَاللّٰهُ وَلِیُّ الْمُؤْمِنِیْنَ (اور اللہ متقیوں کا ولی ہے وہ دنیا میں بھی ان کی مدد فرماتا ہے اور آخرت میں بھی مدد فرمائے گا۔

تیسری آیت میں قرآن مجید کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگوں کے لئے دانشمندیوں کا ذریعہ ہے اس میں غور کریں تو بصیرت کی باتیں پائیں گے۔ مزید فرمایا کہ قرآن ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے ان لوگوں کے لئے جو یقین رکھتے ہیں۔

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ

جن لوگوں نے برے کام کئے کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم انہیں ان لوگوں کے برابر کر دیں گے جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کئے کہ ان کا مرنا

وَمِمَّا تَهْتُمُ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۚ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلَيُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ

اور جینا برابر ہو جائے یہ برا فیصلہ کرتے ہیں اور اللہ نے پیدا فرمایا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ اور تاکہ ہر جان کو

بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۚ

اس کے کئے ہوئے اعمال کا بدلہ دیا جائے اور ان لوگوں پر ظلم نہ کیا جائے گا۔

## کیا گناہگار یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں اہل ایمان اور اعمال صالحہ والوں کے برابر کر دیں گے

تفسیر: یہ دو آیات کا ترجمہ ہے پہلی آیت میں اہل باطل کے اس گمان کی تردید فرمائی کہ جن لوگوں نے اسلام

قبول کیا ہے ہم سے بڑھ کر درجہ والے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں مال دیا ہے آخرت میں بھی ہمیں نعمتیں دی جائیں گی جیسا کہ سورہ حم مجدہ میں بعض لوگوں کا قول نقل کیا ہے وَلَئِنْ يُجْعَلْ لِي رِزْقٌ إِنَّ لِي عِنْدَ الْكَافِرِينَ (اور اگر میں اپنے رب کی طرف واپس کر دیا گیا تو بلاشبہ میرے لئے اچھی حالت ہوگی۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مجرمین کفار مشرکین یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم میں اور ان لوگوں میں کوئی فرق نہیں جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کئے ان کا یہ خیال غلط ہے یہ بات نہیں سمجھتے کہ ہم دونوں فریق کی زندگی اور موت کو برابر کر دیں گے دنیا میں مومنین کی زندگی اور ہے وہ فرمانبردار ہیں اور موجد ہیں اللہ کے دین پر ہیں اگرچہ مال نہ ہو اور کافر مکر ہیں اپنے خالق کے باغی اور نافرمان ہیں پھر موت کے بعد مومن کو نعمتیں ملیں گی جنت میں داخل ہوں گے اور کافر عذاب میں مبتلا ہوں گے دوزخ میں جائیں گے لہذا نہ دونوں کی زندگی برابر ہے اور نہ دونوں کی موت برابر۔ مومن دنیا میں بھی کافر سے بہتر ہے اور آخرت میں بھی کافر سے بہتر ہوگا کافروں کا یہ خیال کرنا کہ موت کے بعد بھی ہم مومنین سے اچھی حالت میں رہیں گے یہ ان کی جہالت کی بات ہے جھوٹا اور غلط خیال ہے اسی کو فرمایا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (برا ہے وہ فیصلہ جو وہ کرتے ہیں) قَالَ صَاحِبُ الرُّوحِ قَوْلَهُ عَزَّوَجَلَّ سَوَاءٌ بَدَلٌ مِنَ الْكَافِ بِنَاءٍ عَلَىٰ أَنَّهُا بِمَعْنَىٰ مِثْلٍ وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ مَحْيَاهُمْ وَمِمَّا تَهْتُمُ فَاعِلٌ سَوَاءٌ أَجْرِي مَجْرَىٰ مُسْتَوْ كَمَا قَالُوا مَرُوثٌ بِرَجُلٍ سَوَاءٌ هُوَ وَالْعَدَمُ ۚ

(صاحب روح المعانی فرماتے ہیں سواء بدل ہے کاف سے اس بنیاد پر کہ کاف مثل کے معنی میں ہے۔ اور مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ، سواء کافاغل ہے جو کہ مُسْتَو کا قائم مقام ہے جیسا کہ کہتے ہیں مسرت برجل سواء هو والعدم میں ایسے آدمی کے پاس سے گذرنا کہ اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے) (دوسری آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمینوں کو حق (یعنی حکمت) کیساتھ پیدا فرمایا اور اس لئے پیدا فرمایا کہ انہیں دیکھنے والے یہ سمجھ لیں کہ ہر نفس کو اس کے اپنے کئے ہوئے اعمال کا بدلہ ملے گا کسی پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا۔

آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں جو حکمتیں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان کو دیکھنے والے پیدا کر نیوالے کی قدرت کاملہ پر استدلال کریں اور یہ بھی سمجھ لیں کہ جس ذات پاک نے ان کو پیدا فرمایا ہے وہ اس پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ فرمادے حساب کتاب کے لئے حاضر کر دے اور ان کے اعمال کی جزا سزا دیدے سورة الاحقاف میں فرمایا اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَمْ يَتَّخِذْ يَخْلُقِيْنَ يَقْدِرْ عَلٰى اَنْ يُخْرِجَ الْمَوْتٰى بِرَبِّهِ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (کیا ان لوگوں نے یہ نہ جانا کہ جس خدا نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے میں ذرا نہیں تھا وہ اس پر قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے) (کیوں نہیں بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے)۔

وقوله تعالى لتجزى كل نفس بما كسبت معطوف على لفظة بالحق اي خلقها ليدل سبحانه و تعالى بها على قدرته وليعلم الناس انه تعالى يجزى كل نفس بما كسبت فان الخالق جل مجده لم يخلق السموات والارض عبثا بلا حكمة ولا الانس والجان عبثا بل خلقهم ليجزىهم باعمالهم قال تعالى افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم لينا لا ترجعون۔

( لتجزى كل نفس بما كسبت، بالحق کے لفظ پر معطوف ہے۔ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس لئے پیدا کیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس سے اپنی قدرت کی دلیل دے اور تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ ہر نفس کو اس کے کئے کا بدلہ دے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو بے فائدہ اور بے حکمت پیدا نہیں فرمایا اور نہ انسان و جن بے کار پیدا ہوئے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس لئے پیدا کیا تاکہ ان کو ان کے اعمال کا صلہ دے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم لينا لا ترجعون۔

اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ الْاِلٰهَ هَوٰهُ وَاَضَلَّ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمِهِ وَاَخْتَمَ عَلٰى سَمْعِهٖ وَقَلْبِهٖ وَجَعَلَ

کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنالیا اور اللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہ کر دیا اور اس کے کانوں پر اور دل پر پھر لگادی اور اس کی

عَلٰى بَصَرِهٖ عَشُوَّةٌ فَمَنْ يَّمْهْدِيْهِ مِنْۢ بَعْدِ اللّٰهِ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۝ وَقَالُوا مَا هِيَ الْاَحْيَاۤئُتُنَا

آنکھوں پر پردہ ڈال دیا سو کون ہے جو اللہ کے بعد اس شخص کو ہدایت دے گا کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے اور ان لوگوں نے کہا کہ نہیں ہے یہ مگر ہماری

الدُّنْيَا مَمُوْتٌ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا اِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذٰلِكَ مِنْۢ عَلِيْمٍ اِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُوْنَ ۝

دنیا دوالی زندگی ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہمیں ہلاک نہیں کرے گا مگر زمانہ اور انہیں اس کا کچھ بھی علم نہیں یہ لوگ صرف گمان کرتے ہیں

وَإِذْ اتَّخَذْتُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَيْمَانَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۚ فَلَمَّا حَضَرُوا الْقَوْمَ عَصَوْا ۚ وَكَانُوا فَاعِلِينَ ۖ

اور جب ان کے اوپر ہماری کھلی کھلی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کی جھٹ اس کے سوا کچھ نہیں ہوتی کہ ہمارے باپ دادوں کو لے آؤ اگر تم سچے ہو

قُلِ اللَّهُ يُخَيِّبُكُمْ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ يُجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۖ

آپ فرمادیجئے اللہ تمہیں زندگی بخشا ہے پھر موت دیتا ہے پھر تمہیں قیامت کے دن جمع فرمائے گا جس میں کوئی شک نہیں اور لیکن بہت سے لوگ

لَا يَعْلَمُونَ ۖ

نہیں جانتے۔

اے مخاطب کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی

خواہش کو اپنا معبود بنا لیا اور اللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہ کر دیا

تفسیر: ان آیات میں مشرکین کی گمراہی بتائی کہ وہ غیر اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں اور وقوع قیامت کا بھی انکار

کرتے ہیں ان لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے نفس کی خواہش ہی کو معبود بنا رکھا ہے جس کی عبادت کرنے کو جی چاہتا ہے اسی کی عبادت کرنے لگ جاتے ہیں کبھی اس پتھر کے سامنے جھکے عاجزی کر رہے ہیں کبھی اس پتھر کو سجدہ کئے ہوئے نظر آتے ہیں علامہ قرطبی نے حضرت سعید بن جبیر سے نقل کیا ہے کہ عرب کے مشرکین کا یہ طریقہ تھا کہ کسی پتھر کو پوجنے لگتے تھے پھر جب اس سے اچھا پتھر نظر آ جاتا تھا تو پہلے پتھر کو پھینک دیتے تھے اور دوسرے پتھر کو پوجنے لگتے تھے یعنی ان کا معبود ان کی نفس کی خواہش کے مطابق ہوتا تھا۔

آیت کا دوسرا معنی مفسرین نے یہ بتایا ہے کہ آپ نے انہیں دیکھا جو اپنے نفس کے پابند ہیں؟ انہیں ہدایت سے کوئی محبت نہیں اور گمراہی سے کوئی نفرت نہیں جو نفس چاہتا ہے وہی کہتے ہیں اور وہی کرتے ہیں یہ تفسیر پہلے مفہوم کو بھی شامل ہے عربی میں ھوئی خواہش نفس کو کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں جگہ بھی ھوئی کا ذکر ہے مذمت کے ساتھ ہی ہے سورة القصص میں فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ يُغَيِّرْ هُدًى مِّنَ اللَّهِ (اور اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جس نے اللہ کی ہدایت کے بغیر اپنی خواہش نفس کا اتباع کیا)

اتباع ھوئی کے بارے میں ضروری تنبیہ

جیسا کہ نفس کی خواہش کفر پر جما کر رکھتی ہے اور اسلام قبول کرنے سے باز رکھتی ہے اسی طرح بہت سے مدعیان اسلام بھی نفس کے پابند ہونے کی وجہ سے بڑھ چڑھ کر گناہ کرتے ہیں جو نفس کی خواہش ہوتی ہے وہی کرتے ہیں نمازیں بھی چھوڑتے ہیں زکوٰۃ بھی حساب کر کے نہیں دیتے حرام مال بھی کماتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں دشمنوں کی طرح شکل و صورت بناتے ہیں اور ان کے جیسا لباس پہنتے ہیں اور طرح طرح کے گناہوں کے مرتکب رہتے ہیں اتباع ھوئی یعنی نفس



کی خواہش پر چلنا برباد کر دینے والی چیز ہے اور نفس کی مخالف کرنا کامیابی کا راستہ ہے سورة النازعات میں فرمایا  
وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ (اور لیکن جو شخص اپنے رب کے سامنے  
کھڑے ہونے سے ڈرے اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت اس کا ٹھکانہ ہے)

مومن بندہ پر لازم ہے کہ نفس کی خواہشوں سے خبردار رہے جائز اور حلال خواہش پوری کرنے کی اجازت ہے لیکن  
اگر نفس کی ہر خواہش پورا کرنے کے پیچھے بڑا تو نفس تباہ کر کے چھوڑے گا رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ ہوشیار وہ ہے کہ  
ہوشیار وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو کرے اور موت کے بعد کے لئے عمل کرے اور احق وہ ہے جس نے اپنے نفس کو اس کی  
خواہشوں کے پیچھے لگا دیا اور اللہ تعالیٰ سے امیدیں باندھتا رہا۔  
(مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۵۱)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں نجات دینے والی ہیں اور تین  
چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں نجات دینے والی یہ چیزیں ہیں۔

۱۔ پوشیدہ اور ظاہر طریقے پر اللہ کا تقویٰ اختیار کرنا

۲۔ رضامندی اور ناراضگی میں حق بولنا

۳۔ مالداری اور شکستگی میں میانہ روی اختیار کرنا۔

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں ہلاک کرنے والی یہ ہیں۔

۱۔ نفس کی خواہش جس کا اتباع کیا جائے

۲۔ کجروی جس کی اطاعت کی جائے۔

۳۔ انسان کا اپنے نفس پر اترانا اور یہ ان میں سب سے زیادہ سخت ہے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۴۴)

مومن پر لازم ہے کہ اپنے نفس کی خواہشوں کو رسول اللہ ﷺ کے لائے ہوئے دین کے تابع کر دے جیسا کہ  
حدیث شریف میں ارشاد ہے لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِّمَا جِئْتُ بِهِ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۰) (البتہ  
اس کے لئے محنت کرنی پڑتی ہے نفس کو دبانا پڑتا ہے اور اسے خیر کے لئے آمادہ کرنا پڑتا ہے۔

وَاضْلَلَهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِهِ (اور اسے اللہ نے علم والا ہوتے ہوئے گمراہ کر دیا) وَخَسِمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً  
یہ تینوں جملے پہلے جملہ پر معطوف ہیں چاروں جملوں کا ترجمہ یوں ہوا کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنا معبود اپنی  
خواہش کو بنالیا اور اللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہ فرما دیا اور اس کے کانوں پر اور دل پر پرہیزگاری اور اس کی آنکھوں پر پردہ  
ڈال دیا فَمَنْ يَهْدِيهِ اللَّهُ فَمَنْ يَهْدِيهِ اللَّهُ (سو اللہ کے گمراہ کرنے کے بعد اسے کون ہدایت دے گا) أَفَلَا تَذَكَّرُونَ کیا تم نصیحت  
حاصل نہیں کرتے) درحقیقت نفس کی خواہشوں کے پیچھے چلنا انسان کی بربادی کا سب سے بڑا سبب ہے اتباعِ ہوی  
کرتے کرتے اور جی چاہی زندگی پر چلتے چلتے قبولِ حق کی استعداد ختم ہو جاتی ہے پھر علم بھی کام نہیں دیتا جانتے اور سمجھتے  
ہوئے حق کو قبول نہیں کرتا کان بھی حق سننے کو تیار نہیں اور دل بھی قبول نہیں کرتا اور آنکھوں پر بھی پردہ پڑ جاتا ہے اتنی دور رک  
گمراہی میں پڑ جانے کے بعد ہدایت پر آنے کی کوئی بھی امید نہیں رہتی۔

قوله تعالى: 'عَلَىٰ عِلْمِهِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَالًا مِنَ الْفَاعِلِ أَيْ اضْلَلَهُ اللَّهُ عَالِمًا بِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الضَّلَالِ

فی سابق علمہ، ویجوز ان یكون حالا من المفعول اى اضله عالما بطریق الہدی.

(”علیٰ علم“ یہ بھی جائز ہے کہ یہ فاعل سے حال ہو یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے گمراہ کیا اپنے ازلی علم سے یہ جانتے ہوئے کہ یہ گمراہوں میں سے ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مفعول سے حال ہو یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے گمراہ کیا اس حال میں یہ ہدایت کا راستہ جانتا تھا۔ ”فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ“ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو گمراہ کرنے کے بعد اسے کون ہدایت دے سکتا ہے؟ بعض نے کہا اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ اسے کون ہدایت دے سکتا ہے)

وقوله تعالى: فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ اى من بعد اضلال الله اياه وقيل معناه فمن يهديه غير الله

## دہریوں کی جاہلانہ باتیں اور ان سے ضروری سوال

اس کے بعد مشرکین کے انکار قیامت کے کا تذکرہ فرمایا وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا ان لوگوں نے کہا کہ جس کا نام زندگی ہے وہ ہماری اس دنیا والی زندگی کے سوا کچھ نہیں ہے ہمیں ایک ہی باریہ زندگی ملی ہے مرنے کے بعد پھر جی اٹھنا نہیں مَوْتُ وَنَحْيًا موت و حیات کا یہ سلسلہ جاری ہے ہم مر جائیں گے اور ہماری اولاد اس دنیا میں پیچھے زندہ رہ جائے گی پھر وہ بھی مر جائیں گے اور ان کی اولاد زندہ رہ جائے گی یہ قیامت کا آنا اور حساب کتاب ہونا ہماری سمجھ میں نہیں آتا وَمَا لَهُمْ لَكُنَّا إِلَّا الدَّهْرُ اور ہمیں ہلاک نہیں کرے گا مگر زمانہ عموماً منکرین اسلام کا یہی عقیدہ ہے کہ زمانہ ہی سب کچھ کرتا ہے دنیا میں آتے ہیں مر جاتے ہیں قیامت اور حساب کتاب کچھ نہیں ان میں بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کے وجود کے بھی قائل ہیں لیکن موت اور حیات اور انقلابات اور حوادث اور مصائب کو زمانہ کی طرف منسوب کرتے ہیں جب تکلیف پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ زمانہ نے ایسا کیا اور زمانہ کو جو برا کہتے ہیں یہ برا کہنا اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچتا ہے کیونکہ سب کچھ حوادث اور انقلابات اسی کی مشیت اور ارادہ سے وجود میں آتے ہیں اور زمانہ خود اسی کی مخلوق ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود کو نہیں مانتے اور ہر شیب و فراز کو زمانہ کی طرف منسوب کرتے ہیں نہ عالم کی ابتداء کے قائل ہیں اور نہ انتہاء کے، ان کو عرف عام میں دہریہ کہا جاتا ہے ان لوگوں سے اگر بات کی جائے کہ زمانہ تو رات دن گزرنے کا نام ہے اس میں کوئی تاثیر نہیں پھر زمانہ میں تو خود تغیرات ہیں وہ فاعل مختار کیسے ہو سکتا ہے اور یہ جو مخلوق کی انواع و اقسام ہیں اور آپس میں امتیازات ہیں انسانوں میں قلب ہے اور جوارح ہیں اور درخت ہیں ان کے پھل مختلف ہیں مزے مختلف ہیں، جانور کی صورتیں اور ان کے اعمال مختلف ہیں اور اس طرح کے ہزاروں امتیازات ہیں یہ صرف رات دن کے گزرنے سے وجود میں آگئے، آم کا پھل بڑا اور جامن کا پھل چھوٹا کیوں ہے کھجور کا تالہ لمبا کیوں ہے اس کے پھل چھوٹے کیوں ہیں بڑے بڑے سمندروں کا پانی شور کیوں کرتا ہے میٹھا کیوں نہیں ہوتا، کسی کے اولاد ہوتی ہی نہیں کسی کے صرف لڑکے ہوتے ہیں کسی کے صرف لڑکیاں ہوتی ہیں تو ان سب باتوں کے جواب سے دہریہ عاجز رہ جاتے ہیں۔

وَاللَّهُمَّ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِهِ (اور انہوں نے یہ جو کچھ کہا ہے اس کے بارے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے) اِنْ هُمْ إِلَّا يَخُنُونَ بس انکل پچو باتیں کرتے ہیں) ان لوگوں کی ان باتوں کی وجہ سے قیامت رک نہ جائے گی وہ ضرور واقع ہوگی جو اس کے منکروں کے لئے عذاب شدید کا باعث بنے گی۔



الْيَوْمَ نُنَسِّكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَا وَكُمُ الثَّارُ وَمَا لَكُم مِّن تَصَرُّفٍ ۚ ذَلِكُمْ

کے آج ہم تمہیں بھولنے میں جیسا کہ تم آج کے دن کی ملاقات کو بھول گئے اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے اور تمہارے لئے کوئی مددگار نہیں یہ اس وجہ سے ہے

بِأَنكُمۡ اتَّخَذْتُمُ اللَّيْلَ هُزُوًا وَغَرَّكُمْ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرِجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ

کہ تم نے اللہ کی آیات کو مذاق کی چیز بنالیا اور دنیاوی زندگی نے تمہیں دھوکہ دیا سو آج وہ اس میں سے نہیں نکالے جائیں گے اور نہ ان سے یہاں کہا جائے گا کہ

يُسْتَعْتَبُونَ ۚ فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۚ وَلَهُ الْكِبَرُ يَٰۤاِیُّهَا

راضی کرو سو اللہ ہی کے لئے ہے سب تعریف جو رب ہے آسمانوں کا اور رب ہے زمینوں کا اور رب ہے سارے جہانوں کا اور اسی کے لئے بڑائی ہے

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ

آسمانوں میں اور زمین میں اور وہ عزیز ہے حکیم ہے۔

قیامت کے دن اہل باطل خسارہ میں ہوں گے ہر امت گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی اور اپنی اپنی کتاب کی طرف بلائی جائے گی اہل ایمان رحمت میں اور اہل کفر عذاب میں ہوں گے

تفسیر: یہ سورۃ الجاثیہ کے آخری رکوع کی آیات ہیں اول تو یہ فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کا ملک صرف اللہ ہی کے لئے ہے اسی نے سب کچھ پیدا فرمایا وہی خالق ہے اور مالک ہے اور ہاشادہ ہے ملک اور ملکوت سب اسی کا ہے پھر آخری دو آیتوں میں بھی اس مضمون کو دہرایا ہے درمیان میں قیامت کے احوال و احوال بیان فرمائے اور مومنین اور کافرین میں جو قیامت کے دن امتیاز ہوگا اس کا تذکرہ فرمایا اور مجرمین سے جو گفتگو ہوگی اس کو بتایا۔

ارشاد فرمایا وَيَوْمَ نَقُومُ السَّاعَةَ يُؤْمِنُ بَعْضُ النَّاسِ الْاٰلِ الْاُولٰٓئِیْنَ (اور جس دن قیامت قائم ہوگی باطل والے یعنی مجرمین منکرین مشرکین اور کافرین نقصان میں پڑ جائیں گے) ان لوگوں نے دنیا میں بہت کچھ کمایا مال حاصل کیا جاہ اور شہرت کے لئے کوششیں کیں اپنی دنیاوی اغراض کے لئے حضرت انبیائے کرام علیہم السلام کی تکذیب کی اور اس انداز سے زندگی گزاری جیسے ہمیشہ اسی دنیا میں رہیں گے جب قیامت کے دن حاضر ہوں گے تو تنہا ہوں گے نہ اولاد ہوگی نہ اصحاب ہوں گے نہ احباب ہوں گے جو جرم کئے تھے ان کی سزا ملے گی جو کچھ کمایا تھا وہ دنیا میں دھرا رہ گیا اب جرم ہی جرم ہے خسارہ ہی خسارہ ہے بربادی ہی بربادی ہے۔

وَتَوَلٰی كُلُّ اُمَّةٍ جَآئِیَةً (اور جو بھی امتیں دنیا میں گزریں ان میں سے ہر امت گھٹنوں کے بل پڑی ہوئی ہوگی یعنی ہر شخص خائف اور پریشان ہو کر مذکورہ صورت اور حالت میں ہوگا یہ جاثیہ کا لفظی ترجمہ ہے) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جاثیہ یعنی مُجْتَمَعَةٌ ہے یعنی سب امتیں جمع ہوں گی۔

كُلُّ اُمَّةٍ تُدْعٰى اِلٰى كِتٰبِهَا (ہر امت کو اس کی کتاب یعنی اعمال نامے کی طرف بلایا جائے گا جو پہلے سے فرشتوں نے لکھ رکھے ہوں گے) یہ بلانا ہر ایک کا اعمال نامہ ہاتھ میں دینے کے لئے ہوگا جس کے بعد حساب کتاب شروع ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمان ہوگا اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (آج تمہیں ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے تھے مزید ارشاد ہوگا هٰذَا كِتٰبُنَا يُطٰقُ عَلَيْهِ كُفْرُ الْبٰشِرِ (یہ ہماری کتاب ہے (یعنی تمہارے اعمال نامے ہیں) جو تمہارے اعمال کے بارے میں بالکل صحیح گواہی دے رہے ہیں اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْبِیْهُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (بے شک ہم لکھوا لیتے تھے جو تم کرتے تھے) جو فرشتے اعمال لکھنے پر مامور تھے بندوں کے اعمال لکھنا ان کے سپرد تھا یہ انہیں کے لکھے ہوئے اعمال نامے ہیں جو بالکل صحیح ہیں۔

فائدہ:- لفظ جاثیہ کا ترجمہ اگر مُجْتَمَعَةٌ ہو تو اس میں تو کوئی اشکال پیدا نہیں ہوتا اور اگر یہ معنی لئے جائیں کہ حساب کے وقت سب ادب سے دوزانوں بیٹھے ہوں گے تو اس پر بھی کوئی اشکال نہیں اگر یہ معنی لئے جائیں کہ حساب کے ذرا اور گھبراہٹ کی وجہ سے سب گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے اور حضرات انبیائے کرام علیہم السلام کی امتوں کے صالحین کو ان میں سے عام مخصوص منہ البعض کے طور پر مستثنیٰ مان لیا جائے تب بھی اشکال باقی نہیں رہتا اگر لفظ کُلُّ کا مصداق سب ہی کو لیا جائے تو یہ بظاہر وَهُمْ قٰرِئُوْنَ فَرٰغَ یَوْمَئِذٍ اَمْنُوْنَ کے معارض معلوم ہوتا ہے لیکن چونکہ اس کیفیت کی مدت اور مقدار بیان نہیں کی گئی اس لئے اگر ذرا دیر کو صالحین کی بھی یہ کیفیت ہو جائے تو یہ بھی معارض نہیں ہے۔

اس کے بعد اہل ایمان کی جزایمان فرمائی فَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا (جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے تو ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں یعنی جنت میں داخل فرمائے گا جہاں رحمت ہی رحمت ہوگی یہ جنت اور رحمت کھلی ہوئی کامیابی ہے پھر کافرین کی سزا کا تذکرہ فرمایا وَالَّذِیْنَ کَفَرُوْا (الایات) جن لوگوں نے کفر کیا قیامت کے دن عذاب میں داخل ہوں گے جب مصیبت میں گرفتار ہوں گے تو چھٹکارہ کے لئے معذرت کریں گے اس وقت ان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال کیا جائیگا اَفَلَمْ یَكُنْ اِلٰیہِیْ تَشْلٰی عَلَیْکُمْ کیا تمہارے اوپر میری آیات تلاوت نہیں کی جاتی تھیں؟ جب یہ آیات تمہارے پاس پہنچیں تو تم نے تکبر کیا اور حق قبول کرنے کو اپنی شان کے خلاف سمجھا، کفر پر قائم رہنے ہی میں تم اپنی بڑائی سمجھتے رہے وَکُنْتُمْ فَرٰغًا مُّخٰجِدِیْنَ (اور تم جرم کرنے والے لوگ تھے) تم نے تکبر کیا حق کو ٹھکرایا مجرمانہ زندگی اختیار کی آج تمہارے لئے اسی جرم کی سزا کا فیصلہ کیا گیا ہے ان سے مزید خطاب ہوگا کہ دنیا میں تمہارا یہ حال تھا کہ جب تم سے یہ کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ حق ہے قیامت ضرور آئے گی اس میں شک نہیں ہے تو جواب یوں دے دیتے تھے۔

مَا نَذَرٰہِیْ مَا السَّاعَةِ (ہم نہیں جانتے قیامت کیا چیز ہے) اِنْ تَطْلُقُ الْاَظْہٰکَ (ہم خیال نہیں کر تے مگر تھوڑا سا) مطلب یہ تھا کہ ہماری سمجھ میں تو نہیں آیا کہ قیامت قائم ہوگی تم لوگوں کے کہنے سے یوں ہی چلتا ہوا خیال دل میں آجاتا ہے وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَیْقِنِیْنَ (اور ہم یقین کرنے والے نہیں ہیں)

یہ لوگ قیامت کا صرف انکار ہی نہیں کرتے تھے۔ اس کا مذاق بھی بناتے تھے اسی لئے فرمایا وَبَدَا لَہُمْ سَیِّئَاتٌ مَا عَمِلُوْا (اور انہوں نے جو برے کام کئے تھے ان کے برے نتائج وہاں ان کے سامنے آجائیں گے) وَحَاقَ بِہُمْ مَّا کَانُوْا بِہِیْ سَیِّئُوْنَ

(اور ان پر وہ عذاب نازل ہو جائے گا جس کا استہزاء اور تمسخر کیا کرتے تھے) جب ان سے کہا جاتا تھا کہ قیامت پر ایمان لاؤ اور برے اعمال سے بچو تو حق کی دعوت کا مذاق بناتے تھے اس کا نتیجہ سامنے آگیا۔

وَقِيلَ الْيَوْمَ نَسُفُكُمُ (اور مجرمین سے کہا جائے گا کہ آج ہم تمہیں بھلا دیتے ہیں) یعنی تمہیں عذاب میں ڈال کر چھوڑ دیتے ہیں جیسے کوئی چیز بھول بھلیاں کر دی جاتی ہیں یہ نہ سمجھنا کہ کبھی عذاب سے چھٹکارہ ہو جائے گا) جیسے تم نے آج کے دن کو بھلایا ایسے ہی ہمیشہ کے لئے تمہیں رحمت سے محروم کر دیا گیا اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔

مجرمین سے مزید خطاب ہوگا کہ یہ جو کچھ نتیجہ (عذاب کی صورت میں) تمہارے سامنے ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کا مذاق بنایا تھا اور تمہیں دنیا والی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، آج جب یہاں دوزخ میں ڈال دیئے گئے تو نہ عذاب سے نکالے جاؤ گے اور نہ یہ موقعہ دیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو یہ موقعہ دنیا میں تھا وہاں توبہ کر سکتے تھے اور اپنے رب کو راضی کر سکتے تھے جب موت آگئی اور اس کے بعد میدان حشر میں پہنچ گئے تو کوئی طریقہ خالق و مالک جل مجدہ کے راضی کرنے کا نہیں رہا۔

## اللہ ہی کے لئے حمد ہے اور اسی کے لئے کبریا ہے

فَلِلَّهِ الْحَمْدُ (الیٰ اخیر السورة) (سو اللہ ہی کے لئے حمد ہے جو آسمانوں کا بھی رب ہے اور زمین کا بھی رب ہے اور سارے جہانوں کا رب ہے اور اسی کے لئے بڑائی ہے آسمانوں میں زمین میں اور وہ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے اس کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں)۔

وهذا آخر تفسير سورة الجاثية، والحمد لله رب كل راحة وما شية والسلام  
على من علم اعمالها أجور باقية و على اله واصحابه الذين جاهدوا كل باغية و طاغية.



سُورَةُ الْاِحْقَافِ بِكَتْمَةِ وَهُوَ خَمْسُونَ شَاكِلًا اِيْتَا وَارْجِعْ رُكُوعًا عَلَيْكَ

سورة الاحقاف مکہ معظمہ میں نازل ہوئی اس میں پینتیس (۳۵) آیات اور چار رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے﴾

حَمَّ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۝ مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا

حَمَّ یہ کتاب ہے اتاری ہوئی اللہ کی طرف سے جو عزیز ہے حکیم ہے ہم نے نہیں پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو

بَيْنَهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَتَا اَنْذِرُوهُمْ مَعْرِضُونَ ۝ قُلْ اَرَبَيْتُمْ

مکرتوں کے ساتھ اور ایک معاد میں ان کے لئے اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ اس چیز سے عراض کئے ہوئے ہیں جس سے ڈرائے گئے آپ فرما دیجئے کہ جن کو

تَاْتِدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَرُونِي مَا ذَا خَلَقُوا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ ۝

تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو ان کے بارے میں بتاؤ مجھے دکھا دو انہوں نے زمین کے اجزاء میں سے کیا پیدا کیا؟ کیا ان کے لئے آسمانوں میں

اَيُّوْنِي يَكْتِبُ مَنْ قَبْلَ هَذَا اَوْ اُخْرِقْ مَنْ عَلِمَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝ وَمَنْ اَضَلُّ

کوئی سا جھما ہے؟ لے آؤ میرے پاس کوئی کتاب جو اس سے پہلے ہو یا کوئی ایسا علم لے آؤ جو مقول ہو کر آیا ہو اگر تم سچے ہو اور اس سے

مِمَّنْ يَدْعُوْا مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَنْ لَا يَسْتَجِیْبُ لَهُ اِلٰی یَوْمِ الْقِيَمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَاۤیِهِمْ

بڑھ کر کون گمراہ ہو گا جو اللہ کے سوا اسے پکارتا ہو جو قیامت کے دن تک اس کا جواب نہ دے اور وہ ان کے پکارنے سے

غٰفِلُوْنَ ۝ وَاِذَا حُشِرَ النَّاسُ کَانُوْا لَهُمْ اَعْدَآءٌ وَكَانُوْا بِعِبَادَتِهِمْ کٰفِرِيْنَ ۝ وَاِذَا نُنْفِثُ عَلَیْهِمْ

غافل ہیں اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت سے منکر ہوں گے اور جب ان پر واضح

اٰیٰتِنَا یَنْتِ قَالَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا الْحَقُّ لَنَا جَآءَ هُمْ هٰذَا سِحْرٌ مُّبِیْنٌ ۝

آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ حق کے بارے میں کہتے ہیں جب ان کے پاس آ گیا کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے۔

مشرکین کے باطل معبودوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا وہ

جن کو پکارتے ہیں قیامت تک بھی جواب نہ دیں گے!

تفسیر: یہاں سے سورة الاحقاف شروع ہو رہی ہے اس سورت کے تیسرے رکوع میں احقاف کا ذکر ہے اس

لئے یہ سورت اس نام سے موصوف اور مشہور ہوئی اور جن آیات کا ترجمہ کیا گیا اس میں تنزیل قرآن اور آسمان اور زمین



اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ ان سب کو تخلیق حکمت کے ساتھ ہے اور اجل سبکی یعنی مقررہ وقت تک کے لئے ہے جب مقررہ معیار پوری ہو جائے تو یہ چیزیں فنا ہو جائیں گی قال فی معالم التنزیل یعنی یوم القیامۃ وهو الاجل الذی تنتهی الیہ السموات والارض ، وهو اشارة الی فناءھا (معالم التنزیل میں ہے ”یعنی قیامت کا دن ہی وہ مقررہ وقت ہے جس پر آسمان و زمین اپنی انتہاء کو پہنچ جائیں گے اور یہ ان کے فنا ہونے کا اشارہ ہے“) یہ سب کچھ توحید کے دلائل میں سے ہیں اس کے بعد مشرکین کی حماقت اور ضلالت بتائی کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر اس کی مخلوق میں سے ان چیزوں کو پکارتے ہیں جو قیامت تک ان کا جواب نہیں دے سکتیں بلکہ انہیں خبر بھی نہیں ہے کہ ہمیں کوئی پکار رہا ہے۔

جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں اور انہیں اپنی حاجات کے لئے پکارتے ہیں ان سے دریافت کیجئے کہ بتاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا؟ کیا زمین کا کوئی حصہ انہوں نے پیدا کیا ہے یا زمین میں جو چیزیں ہیں ان میں سے کوئی چیز پیدا کی ہے۔ آپ ان سے یہ بھی دریافت کریں کیا انکا آسمانوں میں کوئی سا جہا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نہ انہوں نے زمین میں کچھ پیدا کیا اور نہ آسمانوں میں ان کی شرکت ہے پھر وہ لائق عبادت کہاں سے ہو گئے؟ ان میں سے کوئی خالق نہیں اس کو تو تم بھی مانتے ہو اور خالق تعالیٰ شانہ کو چھوڑ کر مخلوق کی عبادت کرنا بہت بڑی حماقت ہے اس کو تو تمہاری عقل بھی تسلیم کرے گی اگر اسے کام میں لاؤ گے عقل کے علاوہ کسی بات کے ماننے کا دوسرا راستہ یہ ہے کہ تمہارے پاس کوئی کتاب ہو جو قرآن سے پہلے تمہارے پاس آئی ہو جس نے غیر اللہ کی عبادت کی تعلیم دی ہو یا تمہارے پاس کوئی بات اکابر و اسلاف سے نقل در نقل پہنچی ہو جس نے شرک کی تعلیم دی ہو ظاہر ہے کہ ان دونوں باتوں میں سے بھی کوئی بات نہیں ہے پھر شرک کرنا انتہاء درجہ کی گمراہی ہوئی یا نہیں۔ قوله تعالیٰ اَوَاثَارَ مَنْ عَلِمَ فِیْ مَعَالِمِ التَّنْزِیْلِ اِیْ بَقِیَّةِ مَنْ عَلِمَ یُوثِرُ عَنْ الْاَوَّلِیْنَ اِیْ یَسْنَدُ اِلَیْهِمْ قَالَ مُجَاهِدٌ وَعُکْرُمَةُ وَمُقَاتِلٌ رَوَاةٌ عَنْ الْاَنْبِیَاءِ وَقَالَ قَتَادَةُ خَاصَّةٌ مِنْ عَلَمٍ وَاَصْلُ الْكَلِمَةِ مِنَ الْاَثَرِ وَهُوَ الرِّوَايَةُ۔ (معالم التنزیل میں ہے ”یعنی باقی رہا ہو علم جو پہلے لوگوں سے روایت کیا جائے یعنی جس کی سند اولین تک پہنچتی ہو عکرمہ، مجاہد اور مقاتل نے کہا مراد ہے انبیاء کرام سے روایت، قتادہ کہتے ہیں مخصوص علم اور اس کلمہ کی اصل اثر سے ہے جو کہ روایت ہی کو کہتے ہیں)

اس کے بعد فرمایا اِذَا احْشَرَ النَّاسُ (الآیۃ) (اور جب قیامت کے دن لوگ جمع کئے جائیں گے تو یہ عبادت کرنے والے اپنے معبودوں کے دشمن ہو جائیں گے یہ مفہوم اس صورت میں ہے جبکہ کافروا کی ضمیر مرفوع غائبین کی طرف اور لھم کی ضمیر معبودین کی طرف راجع ہو اور یہ بھی بعید نہیں ہے کہ اس کا عکس مراد ہو اور مطلب یہ کہ معبودین اپنے عابدوں کے دشمن ہو جائیں گے جیسا کہ سورۃ قصص میں ہے۔ تَبٰرَکَ اَنَّا اِلَیْكَ مَآکُلُوْنَا اَنَّا لَا یَعْبُدُوْنَ۔

## منکرین قرآن کی ایک جاہلانہ بات

اس کے بعد منکرین قرآن کی ایک جاہلانہ بات نقل فرمائی اور وہ یہ کہ جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو قرآن کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے جب دلیل کا جواب دلیل سے نہ دے سکے اور قرآن کے بارے



فرماتے ہیں درحقیقت ان کا جواب محذوف ہے اور وہ کہا جلتی ہے اور جو مذکور ہے وہ اسکا سبب ہے جسے محذوف کا قائم مقام بنایا گیا ہے یا اس مذکور کی وجہ سے محذوف سے صرف نظر کیا ہے)

هُوَ اَعْلَمُ بِمَا تُفْعِلُونَ فِيهِ (وہ ان باتوں کو خوب جانتا ہے جن میں تم لگے رہتے ہو) یعنی اللہ کی وحی کے بارے میں جو تم باتیں بناتے ہو کبھی اسے جا دو بتاتے ہو کبھی افتراء سے تعبیر کرتے ہو ان سب باتوں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے یہ نہ سمجھو کہ یہ صرف باتیں ہیں خوب سمجھ لو کہ ان کا بدلہ لے گا اور سزا دی جائے گی۔

كُفِّي بِهِ شَهِيدًا بَنِي وَبَيْنَكُمْ (میرے اور تمہارے درمیان اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے وہ میرے بارے میں اس بات کا گواہ ہے کہ میں اس کا رسول ہوں اور اس کی کتاب لایا ہوں اور تمہارے بارے میں اسکا گواہ ہے کہ تم حق کو جھٹلا رہے ہو اور اس کے قبول کرنے سے انکاری ہو میرے امر کا بدلہ مجھے ملے گا اور تمہاری تکذیب کی سزا تمہیں ملے گی وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی) تم توبہ کرو ایمان لاؤ وہ بخش دے گا یہ جو کفر کے ساتھ تمہیں رزق مل رہا ہے اور زندگی گزر رہی ہے یہ اس کی رحمت ہے اگر وہ رحم نہ فرماتا تو تمہیں وہ جلد ہی سزا دے دیتا۔

قُلْ مَا كُنْتُ بِذَٰلِكَ الرُّسُلَ (آپ فرمادیجئے کہ میں رسولوں میں سے انوکھا رسول نہیں ہوں) مجھ سے پہلے بھی رسول آئے جن کے بارے میں تمہیں علم ہے اور تو اتر کے ساتھ ان کی خبریں پہنچی ہیں توحید کی جو دعوت انبیاء سابقین علیہم الصلوٰۃ والسلام نے دی ہیں وہی دعوت میں تمہیں دیتا ہوں ان سے بھی معجزات ظاہر ہوئے تم نے بھی میرے معجزات دیکھ لئے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائے ہندوں کے تجویز کردہ معجزات کا ظہور ہونا نہ ان کے نبی ہونے کے لئے شرط تھا نہ میری نبوت کے لئے ثبوت شرط ہے اگر تم غیب کی خبریں پوچھنا چاہتے ہو تو میں غیب دانی کا مدعی نہیں ہوں اور نہ غیب جانا نبوت اور رسالت کے لئے شرط ہے وَمَا اَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ اور چونکہ میں غیب نہیں جانتا اس لئے مجھے یہ علم نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا یعنی دنیا میں کیا حالات پیش آئیں گے اور میں نہیں جانتا کہ میری تکذیب کرنے کی وجہ سے تمہارا کیا حال ہوگا گذشتہ امتیں مختلف غذاہوں کے ذریعے ہلاک کی گئیں اگر تم میری مخالفت پر قائم رہے ایمان نہ لائے تو تمہیں دنیا میں کیا سزا ملے گی میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا اِنَّ اَصْحٰبَ الْاِمَامِ يُؤْتَوْنَ اَلْحٰقَ میں توبہ اس کا اتباع کرتا ہوں جس کی میری طرف وحی کی جاتی ہے) وَمَا اَنَا بِالْمُرْسِلِ اور میں تو صرف واضح طور پر ڈرانے والا ہوں میں نے حق واضح کر دیا دلائل پیش کر دیئے اب نہ مانو تو تم جانو۔

قُلْ اَرَبَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنَ عِنْدِ اللّٰهِ (آپ فرمادیجئے کہ تم یہ بتاؤ کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو اور تم اس کے منکر ہو اور بنی اسرائیل میں سے کوئی گواہ اس جیسی کتاب کے صدق پر گواہی دے کر ایمان لے آئے اور تم تکبر ہی میں رہو بلاشبہ اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا اس آیت میں مشرکین مکہ سے ایک سوال فرمایا اگر وہ اس میں غور کرتے اور جواب کے فکر مند ہوتے تو انہیں ایمان لانے کا راستہ مل جاتا اور کفر پر نہ جبرے رہتے اس آیت سے پہلے گزر چکا ہے کہ مشرکین یوں کہتے تھے کہ یہ قرآن انہوں نے خود بنالیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی نسبت کر دی ہے اس آیت میں ان کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ تم اس قرآن کے منکر ہو رہے ہو اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ نے اس کی گواہی دے دی کہ اس جیسی کتاب اللہ ہی کی طرف سے ہو سکتی ہے اور وہ ایمان بھی لے آیا اور تم تکبر میں مبتلا ہونے کی وجہ سے کفر پر ہی اڑے

رہے تو کیا یہ گمراہی نہیں ہے گمراہی پر جے رہنا اور بڑی گمراہی ہے۔ اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا اور تم اپنے انکار تکذیب کی وجہ سے عذاب کے مستحق ہو عذاب آجائے گا تو کچھ نہ کر سکو گے لہذا سوچو اور غور کرو اور ایمان لے آؤ مزید تشریح یہ ہے کہ اے منکر و تمہارے سامنے محمد رسول ﷺ کی نبوت کے ثابت کرنے اور قرآن کے اللہ کی کتاب ہونے کی بہت سی دلیلیں آچکی ہیں..... اب ایک اور بات تمہارے سامنے پیش کی جا رہی ہے اور وہ یہ کہ بنی اسرائیل یعنی یہودی توریت شریف کے حامل تھے توریت شریف کو گم کرنے کے باوجود اس کے منتظر تھے کہ عرب میں سے ایک نبی تشریف لائیں گے ان میں سے کئی آدمی ایمان لا چکے ہیں اور وہ گواہی دے رہے ہیں کہ قرآن جیسی کتاب اللہ ہی کی طرف سے ہو سکتی ہے اپنی اس معرفت کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول کیا تم مانتے ہو کہ یہودی اہل علم ہے اور ان سے پوچھ کر سوالات بھی کر چکے ہو مثلاً یہ کہ روح کیا ہے اور اصحاب کہف کون تھے اور ذوالقرنین کون تھے تمہیں ان سوالات کے جوابات بھی مل گئے بنی اسرائیل میں سے جو لوگ ایمان نہ لائے انہوں نے بھی جوابوں کی تصدیق کی اب تمہیں ایمان سے روکنے والی کیا چیز ہے یہ روکنے والی چیز تکبر ہے جو تمہارے دلوں میں گھسا ہوا ہے اس تکبر کو چھوڑ دو ایمان قبول کرو ورنہ تمہارا انجام ہوگا جب حق سامنے آ گیا تو بنی اسرائیل کے نیک دل افراد نے اسلام قبول کر لیا تمہیں بھی قبول کرنا لازم ہے اگر کفر پر جے رہے حق کو نہ مانتا تو اسی پر مر جاؤ گے اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر نہ آئے تو گمراہی کی سزا ملے گی۔

قال صاحب الروح: ای وشهد شاهد عظیم الشان من بنی اسرائیل الواقفین علی شئون اللہ تعالیٰ واسرار الوحی بما أوتوا من التوراة علی مثل القرآن من المعانی المنطوية فی التوراة من التوحید والوعد والوعید وغیر ذلک فانها فی الحقيقة عین ما فیہ كما یعرب عنه قوله تعالیٰ (وانه لفسی زبر الاولین) علی وجه وکذا قوله سبحانه: (ان هذا لفی الصحف الاولی) (صاحب روح المعانی نے کہا ہے: یعنی بنی اسرائیل میں سے عظیم الشان گواہ نے گواہی دی، بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی سنتوں اور وحی کے اسرار سے توراة ملنے کی وجہ سے واقف تھے توراة میں قرآن کریم جیسے مضامین تھے مثلاً توحید، وعد و وعید وغیرہ بلکہ توراة کے مضامین بعینہ قرآن کریم کے مضامین میں تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد نے بھی اسے بیان فرمایا کہ **وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ** جیسا کہ یہ ارشاد الہی ہے کہ **ان هذا لفی الصحف الاولی**)

علیٰ مثلیہ کے بارے میں صاحب معالم التنزیل نے لکھا ہے کہ لفظ مثل زائد ہے اور مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ نے گواہی دے دی کہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے اور ان کا من عند اللہ کے بارے میں فرمایا کہ اس کی جزاء محذوف ہے وہو الیس قد ظلمتم یدل علیٰ هذا المحذوف قوله ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین۔ (اور وہ آئیس قد ظلمتم ہے اس پر **إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ** دلالت کرتی ہے) اس کے بعد حضرت حسن سے نقل کیا ہے کہ اس کی جزاء محذوف ہے اور وہ **فَمَنْ أَضَلُّ مِنْكُمْ** ہے جیسا کہ سورہ حم سجدہ کی آخری دو آیتوں سے پہلے فرمایا ہے۔

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنَ عَدُوِّ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مِنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقِ بَيْدٍ (آپ فرما دیجئے کہ یہ بتاؤ کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو پھر تم نے اس کا انکار کیا تو کیا اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو دور دراز کی مخالفت میں پڑ گیا ہو)

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ

اے کافروں نے ایمان والوں کے بارے میں یہ کہا کہ اگر یہ ایمان والا کوئی اچھی بات ہوتی تو یہ لوگ ہم سے آگے کیل بڑھ جاتے مگر جب قرآن کے ذریعہ انہوں نے ہدایت نہ پائی تو یہ کہیں گے

هَذَا آفَاكُ قَدِيمٌ وَمَنْ قَبْلَهُ كَتَبَ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِّسَانًا

کہ یہ پرانا جھوٹ ہے اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب ہے جو پیشوا تھی اور رحمت تھی اور یہ کتاب ہے جو تصدیق کرنے والی ہے

عَرَبِيًّا لِّيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَتُبَشِّرَ الْمُحْسِنِينَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا

عربی زبان میں ہے تاکہ ظالموں کو ڈرامے اور خوشخبری پہنچائے تاکہ ان کے لئے بلاشبہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر سچے رہے

فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً

تو ان پر کوئی خوف نہیں ہے اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے یہ جنت والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ان کاموں کی عوض

بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

جو وہ کیا کرتے تھے۔

کافروں کی کٹ جتنی کی تردید تو ریت شریف کا امام اور رحمت ہونا

اہل ایمان اور اہل استقامت کا انعام الہیہ سے سرفراز ہونا

**تفسیر:** انسانوں میں چھوٹائی بڑائی کو دیکھنے کا مزاج ہے مالدار لوگ اپنے کو غریبوں سے بہتر اور زیادہ سمجھدار سمجھتے ہیں اسی طرح بعض قبائل اپنے قبیلے کو دوسرے قبیلے سے برتر جانتے ہیں اسی سلسلہ کی ایک بات اللہ تعالیٰ نے یہاں نقل فرمائی ہے اور وہ یہ کہ رسول اللہ ﷺ کی دعوت تو حید پر جب کچھ لوگ ایمان لے آئے تو جو لوگ کفر پر جمے رہے تو انہوں نے کہا کہ عقل و فہم اور احوال دنیاویہ کے اعتبار سے ہم ان لوگوں سے بہتر ہیں ہم ہر خیر کے مستحق ہیں اگر یہ دین بہتر ہوتا تو جو محمد رسول اللہ ﷺ پیش کرتے ہیں تو ہم اس کی طرف سبقت کرتے جب ہم اس کی طرف آگے نہ بڑھے اور یہ لوگ آگے بڑھ گئے جو دنیاوی احوال کے اعتبار سے پچھڑی ہیں اور ہم سے پیچھے ہیں تو معلوم ہوا کہ جس دین کو ان لوگوں نے قبول کیا ہے وہ بہتر نہیں ہے کوئی شخص ہم سے خیر میں آگے بڑھ جائے اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا جن کافروں نے یہ بات کہی انہوں نے اپنی جانوں کو بہت بڑا سمجھا، تکبر نے ان کا ناس کھو دیا اور ہدایت پر نہ آنے دیا اپنی جہالت اور حماقت سے کفر پر ہی جمے رہے اور ایمان قبول کرنے والوں کو حقیر سمجھا جب قرآن کے ذریعے ہدایت کا راستہ نہ پایا تو قرآن کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ پرانا جھوٹ ہے وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ پرانے لوگوں کی باتیں ہیں جو محمد رسول اللہ ﷺ نے نکھولی ہیں۔

یہ سب کچھ عناد کے طور پر تھا۔ قرآن کے چیلنج کا جواب تو نہ دے سکے البتہ اسے اسکا طعن الاقلین کہ کفر میں مزید ترقی کر لی دوسری آیت میں تو ریت شریف کا تذکرہ فرمایا کہ قرآن سے پہلے موسیٰ علیہ

السلام کو کتاب دی گئی تھی جسے اللہ تعالیٰ نے مخاطبین کے لئے امام یعنی پیشوا اور رحمت بنایا تھا یہ کتاب یعنی قرآن گذشتہ کتب الہیہ کی تصدیق کرنے والا ہے عربی زبان میں ہے تاکہ یہ قرآن ظالموں کو یعنی مکہ معظمہ کے مشرکوں کو ذرا سنے نیز اچھے کام کرنے والوں کے لئے بشارت ہے صاحب روح المعانی نے اس آیت کریمہ کا مطلب لکھا ہے کہ تم جو کہتے ہو کہ یہ قرآن پرانا جھوٹ ہے تمہارا یہ قول کیسے صحیح ہو سکتا ہے جبکہ تم یہ مان چکے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی اور قرآن اس کی تصدیق کرنا والا ہے دونوں کے مضامین متحد ہیں جیسے توریت شریف اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی قرآن بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا اللہ تعالیٰ کی کتاب تسلیم کرنے سے کیا چیز مانے ہے جبکہ وہ عربی زبان میں ہے اس کے مضامین کو سمجھتے ہو اس جیسا بنا کر لانے سے عاجز ہو چکے ہو۔ (انتہی مع زیادة شرح من هذا العبد الفقیر)

یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ اس میں رسول اللہ ﷺ کو تسلی دی گئی اور یہ مطلب ہو کہ اس کتاب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر بھی کتاب نازل ہوئی تھی وہ پیشوا تھی اور رحمت تھی اسکو ماننے والے بھی تھے اور عمل کرنے والے بھی تھے اور ان کے مخالفین بھی تھے اسی طرح آپ پر جو کتاب نازل کی گئی اس کے ماننے والے بھی ہیں اور منکرین بھی پس منکرین و مکذبین کی طرف سے جو ایذا پہنچے مثلاً اس کتاب کو پرانا جھوٹ بتائیں تو آپ صبر کریں جیسے موسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا۔

اس کے بعد اصحاب استقامت کے بارے میں فرمایا کہ جن لوگوں نے دُئنا اللہ کہا اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کا اقرار کیا اور یہ اقرار زبانی نہیں تھا دل سے تھا اور شخص وقتی طور پر نہ تھا اس پر وہ استقامت کے ساتھ جبرے رہے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرتے رہے ان لوگوں کے لئے وعدہ ہے کہ انہیں کوئی خوف لاحق نہ ہوگا اور رنجیدہ بھی نہ ہوں گے درحقیقت استقامت بہت بڑی چیز ہے حضرت سفیان بن عبد اللہ ثقفی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اسلام کے احکام تو بہت ہیں مجھے آپ ایک بتادیں جسے میں مضبوطی سے تھامے رہوں آپ نے فرمایا قُلْ اَمْسُتْ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ کہ تم اَمْسُتْ بِاللّٰهِ (میں اللہ پر ایمان لایا) کہہ دو (پھر اس پر جبرے رہو)۔

ان حضرات کو بشارت دیتے ہوئے مزید ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ جنت والے ہیں اس میں ہمیشہ رہیں گے دنیا میں جو نیک اعمال کرتے ہیں انہیں ان کا بدلہ دیا جائے گا۔

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ

اور ہم نے انسان کا ایک کیلے کا اپنے باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے اس کی ماں نے اسے مشقت کے ساتھ پیٹ میں رکھا اور مشقت کے ساتھ اس کو جنما کھاس کا حل میں دیا اور

تَلْثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ اَشْدَدَ وَبَلَغَ اَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْ اَنْ

چھڑاتا میں ہا کی مدت میں ہے یہاں تک کہ وہ جب اپنی جوانی کو پہنچ گیا اور چالیس سال کی عمر کو پہنچا تو کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے اس بات پر قائم رکھیے کہ میں آپ کی

اَشْكُرْ نِعْمَتَكَ الَّتِيْ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى الْوَالِدَيْنِ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ

نعمت کا شکر ادا کروں جس کا آپ نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام فرمایا ہے اور اس بات پر بھی مجھے قائم رکھیے کہ میں نیک عمل کروں جس سے آپ راضی ہوں

وَاَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ ۖ اِنِّيْ تَوَكَّلْتُ عَلَىكَ وَارْتَمَيْتُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۝۱۰ اُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ

اور میری اولاد میں بھی میرے لئے صلاحیت پیدا فرما دیجئے اے نیک میں آپ کے حضور میں توبہ کرتا ہوں اور بلاشبہ میں فرما رہا ہوں کہ میں سے ہوں یہ وہ لوگ ہیں





چیزوں کا اہتمام کرتا ہے مال کما کر لاتا ہے یہ دن بھی ماں باپ کے مشقت اور تکلیف سے گزرتے ہیں۔

اس کے بعد ان انسانوں کا حال بیان فرمایا جو اہل ایمان ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بھی احساس ہے اور ماں باپ کے خدمتوں کا بھی ان کے بارے میں فرمایا کہ جب یہ اپنی جوانی کو پہنچ جاتے ہیں اور جوانی سے آگے بڑھ کر چالیس سال عمر ہو جاتی ہے (جو ہوش گوش سمجھ کے اعتبار سے بہت اچھی عمر ہوتی ہے نہ اس میں جوانی کی بہکانے والی انگلیں ہوتی ہیں اور نہ بڑھاپے والا ضعف ہوتا ہے) اپنے نیک آدمی کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کرتا ہے کہ اے میرے رب مجھے اس بات کا پابند رکھئے اور استقامت دیجئے کہ میں آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کروں جن سے آپ نے مجھے بھی نوازا ہے اور میرے والدین کو بھی (والدین کے نوازانے سے ظاہری اسباب کے طور پر میں وجود میں آیا) اور مجھے یہ بھی توفیق دیجئے اور اس پر قائم رکھئے کہ میں ایسے عمل کروں جن سے آپ راضی ہوں اور یہ نیک عمل کرنا جن میں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی ہے مجھ ہی تک محدود نہ رہے میری ذریت میں بھی میرے نفع کے لئے صلاحیت پیدا فرما دیجئے (اس میں اولاد کے لئے دنیا اور آخرت کی خیر کی دعا ہے اولاد میں صلاحیت ہوگی تو نیک عمل کریں گے جن سے ماں باپ کی خوشی ہوگی اور ماں باپ کی جو خدمت کریں گے اس سے انہیں راحت ہوگی) اولاد مومن نیک صالح ہوگی (جن کے نیک بنانے میں ماں باپ کو بھی دخل ہوگا) تو آخرت میں بھی ان کے اعمال کا ثواب ماں باپ کو ملے گا (جبکہ اولاد کے ثواب میں کچھ کمی نہ آئے گی) نیز صالح اولاد ماں باپ کے لئے نیک دعا بھی کرتی ہے والدین کو اس کا نفع بھی پہنچے گا لفظ اُصْلِح لئی میں لام ہے اس کے معنی کی طرف یہ تھوڑا سا اشارہ کیا ہے نیک انسان اللہ تعالیٰ سے نیک عمل کی بھی دعا کرتا ہے اور نیک اولاد کی بھی اور اللہ کے حضور میں توبہ بھی کرتا رہتا ہے نیز اپنی فرمانبرداری کا بھی اقرار کرتا رہتا ہے۔ اسی کو ان الفاظ میں نقل فرمایا اِنِّیْ تُبْتُ اِلَیْکَ وَلَیْتُ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ (اے رب بے شک میں آپ کے حضور میں توبہ کرتا ہوں اور بے شک میں فرمانبرداروں میں سے ہوں)۔

جن مومن بندوں کا اوپر تذکرہ ہوا ان کو خوشخبری دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اُولَئِکَ الَّذِیْنَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا (یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اچھے کاموں کو ہم قبول کریں گے) وَنَجْعَلْ اَوْرُثَتَهُمْ سَیِّدَاتٍ (اور ہم ان کی برائیوں سے درگزر کر دیں گے) فِیْ اَرْضٍ مُّبَارَکَةٍ (یہ لوگ جنت والوں میں شمار ہوں گے)۔

قال صاحب الروح: کائنات فی عدادهم منتظمین فی سلکهم، (صاحب روح المعانی فرماتے ہیں اہل جنت کے شمار میں ہوں گے اور انہیں کے نظم سے وابستہ ہوں گے) وَغَدَّ الصَّدَقَ الَّذِیْ کَانُوا یُعَدُّوْنَ (ان کا یہ جنت کا داخلہ اس وعدہ کے مطابق و موافق ہوگا جو وعدہ ان سے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی زبانی کیا جاتا تھا یہ وعدہ اللہ کی طرف سے تھا۔ سچا تھا پورا ہونا ہی تھا۔

## فائدہ اولیٰ

آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ انسان کو اپنی جوانی میں اور خاص کر جب چالیس سال کی عمر کو پہنچ جائے خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر کی طرف متوجہ ہونا چاہئے یوں تو ہمیشہ ہی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر واجب ہے لیکن ہوش گوش

اور وقت وطاقت کے زمانہ میں اس طرف توجہ کرنا اور زیادہ ضروری ہے جو نعمت اپنی ذات پر ہے اور جو نعمت والدین پر ہے اس کا بھی شکر ادا کرے اور اپنی اولاد اور صلاح اور فلاح کے بارے میں فکر مند ہو اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے لئے دعا گو رہے۔

## فائدہ ثانیہ

آیت کریمہ میں مدت حمل اور مدت رضاع (یعنی دودھ پلانے کا زمانہ) تیس ماہ بتایا ہے عامۃ الفقہاء نے اس کا یہ مطلب لیا ہے کہ اس میں چھ ماہ حمل کے اور چوبیس ماہ دودھ پلانے کے زمانے کے ہیں لہذا حمل کی کم سے کم مدت چھ مہینہ اور دودھ پلانے کی مدت زیادہ سے زیادہ چوبیس ماہ یعنی دو سال ہوئی دودھ پلانے کی مدت دو سال ہے اس کے بارے میں سورة البقرہ میں فرمایا ہے۔

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَ (اور مائیں اپنی اولاد کو دو سال پورے دودھ پلائیں (یہ) اس کے لئے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے) نیز سورة لقمان میں فرمایا ہے سَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصْلُہُ فِي عَامَيْنِ اس کی مائے ضعیف پر ضعیف اٹھا کر اس کو پیٹ میں رکھا اور دو برس میں اس کا دودھ چھوٹا ہے) اس میں بھی یہ بتادیا کہ دودھ پلانے کا زمانہ دو سال ہے۔

قرآن حکیم میں حمل کی اکثر مدت نہیں بتائی صاحب ہدایہ نے فرمایا ہے حمل کی مدت زیادہ سے زیادہ دو سال ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قول سے استدلال کیا ہے کہ بچہ پیٹ میں دو سال سے زیادہ نہیں رہتا اگرچہ تنکھ کے سایہ کے برابر ہو حضرت عائشہ کا یہ قول امام دارقطنی نے روایت کیا ہے لیکن جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے اس کا ذکر آیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ بات کون کہتا ہے؟ یہ ہماری پڑوس ہے اس کا ہر بچہ چار سال میں پیدا ہوتا ہے خود حضرت امام مالک کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اپنی والدہ کے پیٹ میں تین سال رہے وہیں ان کے دانت نکل آئے تھے چونکہ اس پر عامۃ الورود مسائل میں سے کوئی مسئلہ موقوف نہیں ہے اس لئے زیادہ بحث میں پڑنے کی ضرورت بھی نہیں۔

مدت حمل جو چھ ماہ بتائی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چھ ماہ سے زیادہ حمل نہیں رہ سکتا بلکہ مطلب یہ ہے کہ چھ ماہ پورا ہونا تو ضروری ہی ہے اس سے زیادہ بھی حمل کی مدت ہو سکتی ہے جیسا کہ عام طور پر نو ماہ میں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ حمل کی کم سے کم مدت چھ ماہ ہے اس پر یہ مسئلہ مستقر ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا اور تاریخ نکاح سے (چاند کے حساب سے) چھ ماہ پورے ہونے سے پہلے اس عورت کے بچہ پیدا ہو گیا تو یہ بچہ اس مرد کا نہیں مانا جائے گا اور اس شخص کی میراث کا مستحق نہیں ہوگا۔

## فائدہ ثالثہ

كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا (کہ ماں نے مشقت کے ساتھ پیٹ میں رکھا اور مشقت کے ساتھ جنا) پھر اس کے بعد دودھ پلانے کا ذکر فرمایا وَحَلَلَهُ وَفِصْلُہُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا دودھ پلانا اور اس زمانے میں بچہ کی خدمت کرنا یہ بھی ماں پر پڑتا ہے باپ کا کام اتنا ہے کہ پیسے کما کر لے آئے اور تھوڑی بہت بچے کی دیکھ بھال کر لیا کرے اور ماں کو بہت دیکھنا سنبھالنا

پڑتا ہے اسی لئے حدیث شریف میں ماں کی خدمت کرنے کی زیادہ تاکید فرمائی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے میری حسن مصاحبت (اور خدمت) کے اعتبار سے سب سے زیادہ کون مستحق ہے آپ نے فرمایا تیری والدہ! اس نے کہا پھر کون؟ فرمایا تیری والدہ! اسئل نے کہا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تیرا باپ۔ (صحیح البخاری ص ۸۸۳)

علماء کرام نے فرمایا کہ تین بار ماں کا حق اس لئے بیان فرمایا کہ وہ تین تکلیفیں اٹھاتی ہے۔ جن کا اوپر ذکر ہوا اور یہ بھی فرمایا کہ مال خرچ کرنے میں والدہ کا زیادہ خیال رکھنا لازم ہے

نیک بندوں کا جو اپنے والدین سے حسن تعلق ہونا چاہئے اس کا تذکرہ کرنے کے بعد ان لوگوں کا ذکر کیا جن میں بغاوت کی شان ہوتی ہے بعض ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو نہ صرف یہ کہ والدین کی نافرمانی کرتے ہیں بلکہ ایمان ہی نہیں لاتے جب والدین ان میں سے کسی سے کہتے ہیں کہ تو اللہ پر اور قیامت کے قائم ہونے پر ایمان لا تو وہ برے انداز میں انہیں جواب دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تف ہے تم دونوں پر کیا باتیں کرتے ہو تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ میں قیامت کے دن قبروں سے نکالا جاؤں گا یہ بھی کوئی ماننے والی بات ہے مجھ سے پہلے کتنی امتیں گزر چکی ہیں ان کو بھی تمہارے جیسے لوگوں نے یہی کہا تھا کہ مرکز زندہ ہو جاؤ گے آج تک تو ان میں سے کوئی زندہ ہوا نہیں میرے نزدیک تو یہ صرف باتیں ہی باتیں ہیں اس کی یہ بات سن کر ماں باپ اللہ سے فریاد کرتے ہیں کہ اسے ایمان کی توفیق دے اور اس سے کہتے ہیں **وَلَيْكَ اٰمِنْ** (تیرے لئے ہلاکت ہے ایمان لے آ) یعنی ان باتوں سے تو ہلاکت کے دھانہ پر کھڑا ہے ایمان لے آ تاکہ ہلاکت سے بچ جائے۔

**اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ** (بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے) اس نے جو بتایا ہے اور پیشگی خبر دی ہے کہ مردے زندہ ہوں گے قبروں سے انھیں گے یہ وعدہ حق ہے ضرور پورا ہوگا قیامت ضرور آئے گی قبروں سے نکلنا ہوگا پیشی ہوگی حساب ہوگا یہ جو تو کہتا ہے کہ بہت سی امتیں گزر گئیں کوئی زندہ ہو کر نہیں آیا یہ اس کی دلیل نہیں ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ شانہ نے اس کا جو وقت مقرر فرمایا ہے وہ اسی وقت آئے گی اس کے واقع ہونے میں دیر لگنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ آتی ہی نہیں ہے یہ بات سن کر وہ شخص کہتا ہے کہ یہ دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت قائم ہونے کی باتیں پرانے لوگوں کی باتیں ہیں نقل در نقل ہوتی چلی آ رہی ہیں سچائی سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے (العیاذ باللہ) ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا **اُولٰٓئِكَ الَّذِیْنَ حَقَّ عَلَیْهِمُ الْقَوْلُ** (یہ وہ لوگ جن پر اللہ کی بات ثابت ہو گئی) یعنی ان کا عذاب میں مبتلا ہونا لازم ہو گیا **فِیْ اَمَمٍ قَدْ خَلَفَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ صِنْدًا** (یہ لوگ جنات ہیں اور انسانوں کی اس جماعت میں شامل ہیں جن کو عذاب میں مبتلا ہونا ہے) **اِنَّهُمْ كَانُوْا اٰخِیْرَیْنَ** (بلاشبہ یہ لوگ خسارہ والے ہیں) ایمان لاتے تو جنت میں جاتے اور نعمتیں ملتیں اور کامیابی کی زندگی گزارتے جب ایمان نہ لائے تو عذابِ نار کے مستحق ہوئے ان کے لئے خسارہ ہی خسارہ ہے۔

پھر فرمایا **وَلِیْجَلَ دَرَجَتٌ فِیْمَا كُنْتُمْ** (اور ہر ایک کے لئے درجات ہیں اہل ایمان کو ایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ سے جنت عالیہ میں درجات ملیں گے اور اہل کفر کو دوزخ کے طبقات سافلہ میں جانا ہوگا۔

قال فی الجلالین فدرجات المؤمن فی الجنة عالیہ ودرجات الکافر فی النار سافله **وَلِیُؤْتِیَهُمْ اَعْمَالُہُمْ** (تفسیر جلالین میں ہے کہ جنت میں مؤمن کے درجات اوپر سے اوپر کو ہوں گے اور جہنم میں کافر کے

درجات نیچے سے نیچے ہوں گے) (اور ان کے لئے درجات اس لئے مقدر اور مقرر کر دیئے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کی جزا پوری پوری دیدے) وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (اور ان پر ذرا سا بھی ظلم نہ کیا جائے گا) نہ کسی مومن کی نیکی ضائع جائے گی اور نہ کسی غیر مجرم کو سزا دی جائے گی۔

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلْهَبْتُمْ طِبْتَٰكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ

اور جس دن کافروں کو آگ پر پیش کیا جائے گا ان سے کہا جائے گا کہ تم نے اپنی لذتوں کو اپنی دنیا والی زندگی میں ختم کر لیا اور ان سے

بِهَآءِ الْيَوْمِ يُعْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ

نفع حاصل کر لیا سو آج تمہیں سزا کے طور پر ذلت کا عذاب دیا جائے گا اس سبب سے کہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے

وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ ﴿٥٩﴾

اور اس سبب سے کہ تم نافرمانی کرتے تھے۔

## کافروں سے کہا جائے گا کہ تم نے اپنی لذت کی چیزیں دنیا میں ختم کر دیں آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا

**تفسیر:** اس آیت میں یہ بیان فرمایا کہ قیامت کے دن جب کافروں کو آگ پر پیش کیا جائے گا یعنی دوزخ میں داخل کرنے کے لئے آگ کے سامنے لائے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ اب تمہارے لئے عذاب ہی عذاب ہے تمہیں یہاں آنے کا یقین نہیں تھا دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے تھے دنیا ہی کے لئے جئے اسی کے لئے مرے لذت کی چیزوں کے پیچھے پڑے انہیں کو سب کچھ سمجھا، حلال سے حرام سے نفس کی ہر لذت پوری کی اب تمہارے لئے لذت کی چیزوں میں سے کچھ نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ کے رسول ﷺ ایمان کی دعوت دیتے تھے اور قیامت پر ایمان لانے کو فرماتے تھے تو تم ایمان لانے کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے اور برابر نافرمانی کرتے چلے جاتے تھے زمین میں ناحق تکبر کرنے اور نافرمانیوں میں بڑھتے چلے جانے کی وجہ سے آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا دنیا میں کفر پر جے رہنے میں اپنی عزت سمجھی۔ آج اس کے عوض تمہارے لئے ذلت کا عذاب ہے۔

علامہ بغویؒ معالم التنزیل میں لکھتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی توبیخ فرمائی کہ انہوں نے دنیا میں لذتوں سے استمتاع کیا اس لئے رسول اللہ ﷺ نے اور آپ کے صحابہؓ نے اور دیگر نیک بندوں نے دنیا کی لذتوں سے بچنے ہی کو ترجیح دی تا کہ آخرت میں ثواب ملے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت آپ ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے اس پر کوئی بستر نہ تھا آپ کے جسم مبارک میں چٹائی کے نشان پڑ گئے تھے اور آپ چمڑے کے ٹکے پر ٹیک لگائے تھے جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے تاکہ آپ کی امت کو وسعت دیدے۔

فارسی اور روم کے لوگوں کو مالی وسعت دی گئی ہے حالانکہ وہ اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے یہ سن کر آپ ﷺ نے

فرمایا اے ابن خطاب کیا تم اب تک اسی میں ہو؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی مزرے کی چیزیں دنیا ہی میں دے دی گئی ہیں اور یہ بھی فرمایا کیا تو اس پر راضی نہیں ہے کہ ان کو دنیا مل جائے اور ہمیں آخرت مل جائے۔ (رواہ البخاری و مسلم کافی مشکوٰۃ ص ۴۳۷)

حضرت زید بن اسلمؓ سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پینے کے لئے کچھ طلب کیا لہذا آپ کی خدمت میں پانی پیش کیا گیا جس میں شہد ملا ہوا تھا حضرت عمرؓ نے اسے دیکھ کر فرمایا یہ ہے تو عمدہ چیز لیکن میں اسے پیوں گا نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ شانہ نے خواہشیں پوری کرنے والے قوم کی خواہشوں کا برا انجام بتا دیا ہے ان سے کہا جائے گا اَذْهَبْتُكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا (تم نے اپنی مزرے کی چیزوں کو دنیا میں ختم کر دیا اور ان سے نفع حاصل کر لیا) لہذا میں لذت کی چیزیں استعمال کرنے سے ڈرتا ہوں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں دنیا ہی میں دے دی جائیں یہ فرمایا اور اس شہد کے ملے ہوئے پانی کو نہیں پیا۔

(مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۳۹)

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے ہاتھ میں گوشت دیکھا تو فرمایا اے جابر یہ کیا ہے میں نے عرض کیا گوشت کھانے کی خواہش ہوئی تھی لہذا میں نے گوشت خریدا ہے حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ وہ ہر چیز خرید لو گے جس کے لئے جی چاہے گا کیا تم اس آیت سے نہیں ڈرتے۔ اَذْهَبْتُكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَمَعَالِهَا مَتْرُكًا

وَ اذْ كُرْ اَخَاعَادِ اِذْ اَنْذَرَكُمْ قَوْمَهُ بِالْاَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتْ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ

اور قوم عاد کے بھائی کا ذکر کیجئے جبکہ اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا اور حال یہ ہے کہ ان سے پہلے اور پیچھے ڈرانے والے گزر چکے ہیں

خَلْفَهُ اَلَا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ اِنِّىْۤ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ۝۱۰۱ قَالُوا۟ اِحْتَسِبْنَا اِنَّا فُكِّنَا

یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو بیشک میں تم پر بڑے عذاب کا اندیشہ کرتا ہوں وہ لوگ کہنے لگے کیا تو ہمارے پاس اس لئے آیا کہ ہمیں ہمارے مجبوروں سے ہٹا دے

عَنِ الْيَتٰمٰٓئِۤنَ اَفَا تَكْلِمٰٓتَا تَعْدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝۱۰۲ قَالِ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاُبَلِّغُكُمْ

سو تو جس کا ہم سے وعدہ کرتا ہے اسے لے آ اگرچہ تو اس میں سے ہے انہوں نے جواب میں فرمایا کہ علم اللہ ہی کے پاس ہے اور میں تمہیں

مَّا اُرْسِلْتُ بِهٖ وَلٰكِنِّىْۤ اَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ۝۱۰۳ فَلَمَّا رَاُوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ اَوْدِيَّتِهِمْ لَا

وہ بات پہنچاتا ہوں جو میں دیکھ رہا ہوں اور لیکن میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تمہاری باتیں کر رہے ہو سو جب انہوں نے بادل کی صورت میں اسے اپنی وادیوں کے سامنے آتا ہوا دیکھا

قَالُوْا هٰذَا عَارِضٌ مُّبْطِنٌۭ اَبَلْ هُوَ اَمْ اسْتَعْجَلْتُمْ بِهٖۤ رِيْحٌ فِیْہَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝۱۰۴ تَدْمُرُوْ

تو کہنے لگے کہ یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برساے گا بلکہ یہ وہی چیز ہے جس کی تم جلدی بچا رہے تھے ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہے وہ اپنے رب کے حکم سے

کُلَّ شَیْءٍ بِاَمْرِ رَبِّہَاۤ اَصْبَحُوْا لَا یُرٰی اِلَّا مَسٰکِنُهُمْ کَذٰلِکَ نَجْزِی الْقَوْمَ الْمُجْرِمِیْنَ ۝۱۰۵

ہر چیز کو ہلاک کر دے گی سو وہ اس حال میں ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا کوئی دکھائی نہ دیتا تھا ہم ایسے ہی مجرم قوم کو سزا دیا کرتے ہیں

وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِیْہَا اِنْ مَّكَّنَّا لَہُمْ سَمْعًا وَّاَبْصَارًا وَاَفِیْہَا

اور ہم نے انہیں ان چیزوں میں قدرت دی تھی جن میں تمہیں قدرت نہیں دی اور ہم نے ان کو سننے کی قوت دی اور آنکھیں بھی اور دل بھی سوانہیں

اَغْنٰ عَنْهُمْ سَمْعَهُمْ وَلَا اَبْصَارَهُمْ وَلَا اَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ ؕ اِذْ كَانُوا يَمْجِدُوْنَ بِاٰيَاتِ

فائدہ نہ دیا ان کے کانوں نے اور ان کی آنکھوں نے اور ان کے دلوں نے کچھ بھی اس لئے کہ وہ اللہ کی آیت کا انکار کرتے تھے

اللّٰهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ؕ وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا مَا خَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرٰى

اور انہیں اسی چیز نے آگھیرا جس کا وہ مذاق کرتے تھے اور یہ بات واقعی ہے کہ ہم نے ان بستیوں کو ہلاک کر دیا جو تمہارے آس پاس تھیں

وَصَرَفْنَا الْاٰيٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ؕ فَاُولٰٓئِكَ نَصْرُهُمُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

اور ہم نے بار بار اپنی نشانیاں بیان کر دیں تاکہ وہ باز آ جائیں سو اللہ کے سوا ان لوگوں کی انہوں نے کیوں مدد نہیں کی جنہیں انہوں نے

قُرْبٰٓآاِلهٖٓ تَبْلُغْ صَلُّوْا عَنْهُمْ وَذٰلِكَ اِفْكَهُمُ وَمَا كَانُوا يَفْقَرُوْنَ ؕ

تقریب حاصل کرنے کے لئے سمجھو انہیں کو ہلاک ہو گیا اور یہ ان کی تراشی ہوئی بات ہے اور وہ بات ہے جس کو وہ جھوٹ مانتے ہیں۔

## قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کی بعثت قوم کا انکار اور تکذیب پھر ہلاکت اور تعذیب

**تفسیر:** یہ پورے ایک رکوع کا ترجمہ ہے اس میں قوم عاد کے کفر و عناد کا اور حضرت ہود علیہ السلام کے تبلیغ کرنے کا پھر قوم عاد کے ہلاک ہونے کا تذکرہ ہے اس قوم کے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام تھے جن کو یہاں اخاعاد کے عنوان سے ذکر ہے چونکہ حضرت ہود علیہ السلام عاد ہی کے قوم میں سے تھے اس لئے اخاعاد فرمایا ”لفظ“ الا خفاف حَقَّق کی جمع ہے۔ قوم عاد کا رہنا سہنا اور بود و باش یمن میں تھی جس علاقہ میں یہ لوگ رہتے تھے وہاں ریت کے پہاڑ تھے اس لئے اسے احقاف سے تعبیر فرمایا۔ ہفت اس پہاڑی کو کہتے ہیں جو گولائی لئے ہوئے اور نیچے جھکی ہوئی ہو ریت کی پہاڑیاں ایسی ہی ہوتی ہیں چونکہ ریت میں مضبوطی سے ٹھہرنے اور قرار پانے کی صلاحیت نہیں ہوتی اس لئے ڈھلتا چلا جاتا ہے۔

اِذْ اَنْذَرْتَهُمْ بِالْاَخْقَافِ جبکہ ہود علیہ السلام نے احقاف کے علاقہ میں اپنی قوم کو ڈرایا اور انہیں سمجھایا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ان سے پہلے بھی اللہ کی طرف سے پیغمبر آئے تھے جنہوں نے اپنی قوموں کو تبلیغ کی تو حید کی دعوت دی اور انکار پر عذاب کی وعید سنائی حضرت ہود علیہ السلام کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچائے اسی کو وَقَدْ خَلَتْ اِلَيْهِ الدُّرُجُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ سے تعبیر فرمایا۔

حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ (میں تم سے بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ کرتا ہوں) یعنی اگر تم نے حق کو قبول نہ کیا تو تم پر بڑا عذاب آئے گا۔

قَالُوْا اَحِثُّنَا لِهٰذَا اَلَمْ نَكُنْ اَعْنِ الْاٰلِهٰتِنَا (کیا تم اس لئے آئے ہو کہ ہمارے جو معبود ہیں ہم ان کی عبادت کرنا چھوڑ دیں اور تم ہمیں ان کی عبادت سے ہٹا دو تم ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہو کہ میری دعوت پر عمل نہ کیا تو عذاب آجائے گا تم نے عذاب کی بڑی

رٹ لگالی اگر تمہارا یہ ڈرانا صحیح ہے اور واقعی تمہاری بات ہے کہ نہ ماننے پر ہم عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے تو بس لے آؤ..... اگر قول سچا ہے تو دیر کی کیا ضرورت ہے؟

قَالَ اِنَّكَ الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے وہی جانتا ہے کہ کسی قوم پر کب عذاب آئے گا اور کب ہلاک ہوگی میرا کام عذاب لانا نہیں ہے مجھے اللہ نے جو پیغام دے کر بھیجا ہے میں تو اس کے پہنچانے کا پابند ہوں اور تمہیں اسی کی تبلیغ کرتا ہوں میں تو تمہیں حق کی دعوت دیتا ہوں اور تم جہالت کی باتیں کرتے ہو۔

فَلَمَّا رَاَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ اَوْدِيَّتِهِمْ (الآیۃ) (ان لوگوں پر عذاب آنے کی یہ صورت ہوئی کہ سخت گرمی کی وجہ سے گھروں کو چھوڑ کر باہر میدان میں آگئے اسی حال میں انہیں ایک بادل آتا ہوا نظر آیا اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ بادل تو ہم پر پانی برسائے گا وہ پانی برسانے والا بادل کہاں تھا وہ تو وہی عذاب تھا جسکی جلدی بچار ہے تھے وہ عذاب ہوا کی صورت میں آگیا یہ ہوا بہت سخت تھی جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو ہلاک کرتی جا رہی تھی۔

سورة ذاریات میں فرمایا مَا تَذَكَّرُ مِنْ شَيْءٍ اَنْتَ عَلَيْهِ لَاجِلٌ وَّلَا اَجَلُكَ كَالَّذِي هُمْ (وہ ہوا جس چیز پر پہنچتی تھی اسے ایسا بنا کر رکھ دیتی تھی جیسے چورا ہو) سورة الحاقة میں فرمایا وَاَفَاغْلَا فَاَهْلَكُوْا بِرَبِّكُمْ صَرَصَتْ عَلٰی سَعْدٍ عَلٰی سَعْدٍ لَّيَالٍ وَنُجُومٍ اَيَّاهُمْ حُسُوْمًا فَتَرٰى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرَغٰى كَالْهَمِّ اَعْمَازُ مُخْلِ خَاوِيَةً فَهَلْ تَرٰى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ (اور لیکن عادی ہلاک کے گئے تیر ہوا کے ذریعہ اللہ نے ان پر اس ہوا کو سات دن اور آٹھ رات لگا کر مخر فرمادیا اسے مخاطب! تو دیکھے قوم کو اس ہوا میں چھاڑے ہوئے بڑے ہیں گویا کہ وہ گرمی ہوئی کھجوروں کے کھوکھلے تنے ہیں کیا تو ان میں دیکھتا ہے کوئی باقی رہا) فَاَصْبَحُوا لَا يُرٰى اِلَّا سَكَنٌ لَّهُمْ نَتِجَہُ یہ ہوا کہ وہ لوگ اس حال میں ہوئے کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ بھی نظر نہ آتا تھا۔

كَذٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ (ہم اسی طرح مجرم قوم کو سزا دیا کرتے ہیں) حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ جب آسمان میں کوئی بادل دیکھتے تھے تو آپ کا رنگ بدل جاتا تھا اور آپ کبھی اندر جاتے اور کبھی باہر آتے جب بارش ہو جاتی تو آپ کی یہ کیفیت جاتی رہتی تھی میں نے اس بات کو پہچان لیا اور اس بارے میں آپ سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا اے عائشہ! میں ڈرتا ہوں ایسا نہ ہو جیسا قوم عاد نے بادل کو دیکھ کر کہا جو ان کی وادیوں کی طرف آ رہا تھا کہ یہ بارش برسانے والا ہے (لیکن بارش برسانے والا بادل نہ تھا) بلکہ ہوا کی صورت میں عذاب تھا جو ان پر نازل ہوا۔ (رواہ مسلم ص ۲۹۴/۲۹۵ ج ۱۷)

قوم عاد کی ہلاکت کا تذکرہ کرنے کے بعد اہل مکہ کو توجہ دلائی وَلَقَدْ مَكَنْتُمْ (الآیۃ) اور ہم نے قوم عاد کو ان چیزوں کی قوت دی تھی جن کی قوت و قدرت تمہیں نہیں دی ان کے پاس جو مالی و جسمانی قوتیں تھیں وہ تم سے کہیں زیادہ تھی جب وہ کفر پر جے رہنے کی وجہ سے ہلاک کر دیئے گئے تو تمہاری کیا حیثیت ہے.....؟ وہ لوگ نہ تو بہرے تھے نہ اندھے تھے نہ باولے بے وقوف تھے ہم نے انہیں کان بھی دیئے تھے اور آنکھیں بھی اور دل بھی لیکن جب ان پر عذاب آیا ان میں سے کوئی چیز بھی ان کے کام نہ آئی نہ ان کے حواس ظاہرہ بچا سکے اور نہ کسی تدبیر سے عذاب سے محفوظ ہو سکے جس کا دل اور دماغ سے ادراک ہوتا ہے یہ عذاب کا ابتلاء اور عدم اغواء الجوارح والا معاملہ اس لئے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے (کوئی دنیاوی مصیبت عام حالات میں آجائے تو کچھ حواس ظاہرہ سے اور کچھ عقل و فہم کے ذریعہ سوچ بچار کر



کے اور کوئی تدبیر نکال کر بھی کبھی کبھار مصیبت سے نکلنے کا کچھ راستہ نکل آتا ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنے کی وجہ سے عذاب آتا ہے تو آنکھ کاں سوچ سمجھ کچھ چیز فائدہ نہیں دیتی۔

وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ (اور ان پر وہ عذاب نازل ہو گیا جس کا مذاق بناتے تھے) یعنی اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام سے جو ٹھٹھہ کرتے تھے اور کہتے تھے کیا عذاب عذاب کی رٹ لگاتے ہو عذاب آنا ہے تو لے آؤ اپنی اس بات کا انہوں نے نتیجہ دیکھ لیا عذاب میں مبتلا ہوئے اور بالکل برباد ہو گئے۔

اس کے بعد اہل مکہ سے مزید خطاب کرتے ہوئے فرمایا: **لَقَدْ اٰهَلْنَاكُمْ مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى** (ہم نے تمہارے چاروں طرف کی بستیوں ہلاک کر دیں) اس سے یمن اور شام کی بستیاں مراد ہیں یمن کی بستیاں تو وہی قوم عاد والی بستیاں تھیں، اور جب اہل مکہ تجارت کیلئے ملک شام جاتے تھے تو قوم شمود کی بستیوں پر اور حضرت لوط علیہ السلام کی بستیوں کو دیکھا کرتے تھے ان کی تباہی و بربادی سے عبرت حاصل کرنا ضروری تھا لیکن عبرت نہیں لیتے تھے۔

وَصَرَفْنَا إِلَيْنَا لَعْنَهُمْ يَدُكَ غُرُونُ (اور ہم نے انہیں بار بار نشانیاں بتادی تھیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں) لیکن وہ باز نہ آئے بالآخر وہ ہلاک ہو گئے یہ ہلاک ہونے والے مشرک تھے اللہ کے سوا انہوں نے معبود بنا رکھے تھے اور ان کے تقرب کو اپنی مشکلات دور ہونے کا ذریعہ سمجھتے تھے جب عذاب آیا تو انہوں نے ذرا بھی مدد نہ کی بلکہ ان سے غائب ہو گئے ان لوگوں کی یہ بات کہ یہ معبود ہیں ان سے ہمیں فائدہ پہنچے گا جھوٹ تھی اپنی تراشی ہوئی تھی جھوٹ سے کچھ فائدہ نہ پہنچا اسی کو فرمایا قُلُوا لَا تَعْبُدُوهُمْ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةٍ سَوَاءٌ لَكَ سِوَا اللَّهِ مِنْ جِنِّ حِزْبٍ لَدُنْ جِبْرِيلَ عَنِ انبِيَاءِ انہوں نے تقرب حاصل کرنے کے لئے اپنا معبود بنا رکھا تھا انہوں نے ان کی کیوں مدد نہ کی بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكُمْ فَكْرُهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْتَرِفُونَ (بلکہ وہ سب ان سے غائب ہو گئے اور وہ محض ان کی تراشی ہوئی اور گھڑی ہوئی بات تھی)

وَلَذُصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا

اور جب ہم نے آپ کی طرف جنات کی ایک جماعت کو پھیر دیا تو قرآن سننے لگے سو جب یہ لوگ قرآن کے پاس حاضر ہوئے تو کہنے لگے کہ چپ رہو پھر جب

قُضِيَ وَلَوْ إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ ﴿٦٠﴾ قَالُوا يَاقَوْمُنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ

قرآن پڑھا جا چکا تو اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر چلے گئے کہنے لگے اے ہماری قوم بے شک ہم نے ایسی کتاب سنی ہے جو

مُوسَى مُصَدِّقَ الْبَاطِنِ. يَدِّدُهُ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، وَ إِلَى طَرِيقِ مُسْتَقْدَمِهِ. يَقُومُ بِأَ

موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے وہ ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے تھیں وہ حق کی طرف اور سیدھے راستہ کی طرف ہدایت دینے والی ہے ہمارے ہمارے قوم

أَجِبُوا دَعَائِي اللَّهُ وَامْنُوهَ تَغْفِرْ لَكُمْ مِمَّنْ دُونَكُمْ وَمَنْ يَكُ مُمِنًا ۖ ابْنِ الْبَنَةِ ۝

اللہ کی طرف بلانے والے کی بات مان لو اور اس پر ایمان لے آؤ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیگا اور تمہیں سخت عذاب سے بچا دے گا۔

وَمَنْ لَا يُحِبَّ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَسْهُ بِبُغْعٍ فِي الْأَرْضِ وَلَسْهُ أَهْلُ مَذْهَبٍ دُونَ ذَاكَ آدَمُ

أُولَٰئِكَ فِي ضَلٰلٍ مُّبِينٍ ۖ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ

یہ لوگ کمل ہوئی گراہی میں ہیں کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا وہ ان

يَعْبُدُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۖ وَيَوْمَ

کو پیدا کرنے سے نہیں تھا وہ اس پر قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کرے ہاں اسے ضرورت قدرت ہے بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے اور جس روز

يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ طَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا

کافر لوگ آگ پر پیش کئے جائیں گے کیا یہ حق نہیں ہے؟ کہیں گے کہ قسم ہے ہمارے رب کی یہ ضرور امر واقعی ہے! ارشاد ہوگا تو کچھ لو

الْعَذَابِ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۖ

عذاب اس سبب سے کہ تم کفر کرتے تھے۔

جنات کا رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہونا

پھر واپس جا کر اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دینا!

تفسیر: رسول اللہ ﷺ رسول الثقلین تھے یعنی آپ انسانوں کی طرف مبعوث ہوئے تھے اور جنات کی طرف

بھی یہاں سورۃ الاحقاف میں اور سورۃ الجن میں جنات کا خدمت عالی میں حاضر ہونا اور آپ سے قرآن مجید سننا مذکور ہے علمائے حدیث نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ جنات کی آبادی میں تشریف لے گئے اور انہیں احکام دینیہ کی تبلیغ فرمائی محدثین کی اصطلاح میں اس کو لیلۃ الجن کہتے ہیں حضرات محدثین کرام نے فرمایا ہے کہ لیلۃ الجن کا واقعہ چھ مرتبہ پیش آیا معاملہ المتزیل میں لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ جنات کو تبلیغ کریں انہیں ایمان لانے کی دعوت دیں اور قرآن سنائیں پھر اللہ تعالیٰ نے نبیو اہستی کے رہنے والے جنات میں سے ایک جماعت کو آپ کے پاس بھیج دیا آپ تشریف لے جانے لگے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ چلے گئے یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم چلتے چلتے شعب النجون پہنچ گئے (اسمعی کے علاقے کا پرانا نام النجون ہے) وہاں پہنچ کر رسول اللہ ﷺ نے خط کھینچ کر میرے لئے جگہ تجویز فرمادی اور ارشاد فرمایا کہ میرے واپس آنے تک اسی جگہ رہنا آپ مجھے چھوڑ کر آگے تشریف لے گئے وہاں قرآن کریم پڑھنا شروع کیا، آپ کے آس پاس گدھوں جیسی چیزیں جمع ہو گئیں اور میں نے طرح طرح کی سخت آوازیں سنیں یہاں تک کہ مجھے آپ کی جان کا خطرہ ہو گیا آپ کی آواز بھی مجھ سے اوجھل ہو گئی پھر میں نے دیکھا کہ وہ لوگ بادلوں کے ٹکڑوں کی طرح واپس جا رہے ہیں رسول اللہ ﷺ ان سے فارغ ہو کر فجر کے بعد تشریف لائے اور فرمایا کیا تمہیں نیند آگئی تھی میں نے عرض کیا کہ مجھے نیند کیا آتی مجھے تو آپ کی جان عزیز کا خیال آ رہا تھا بار بار خیال ہوا کہ میں لوگوں کو بلاؤں تاکہ آپ کا حال معلوم کریں فرمایا اگر تم اپنی جگہ سے

چلے جاتے تو اس کا کچھ اطمینان نہیں تھا کہ ان میں سے تمہیں کوئی اچک لیتا، پھر فرمایا کیا تم نے کچھ دیکھا عرض کیا کہ میں نے کالے رنگ کے لوگوں کو دیکھا جو سفید کپڑے لپیٹے ہوئے تھے آپ نے فرمایا کہ یہ شہر نصیبین کے جنات تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہمارے لئے کچھ بطور خوراک تجویز فرما دیجئے لہذا میں نے ان کے لئے ہڈی اور گھوڑے وغیرے کی لید نیز اونٹ اور بکری وغیرہ کی بیگنی تجویز کر دی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان چیزوں سے ان کا کیا کام چلے گا؟ فرمایا وہ جو بھی کوئی ہڈی پائیں اس پر اتنا ہی گوشت ملے گا جتنا اس دن تھا جس دن اس سے گوشت چھڑایا گیا اور جو بھی لید پائیں گے انہیں اس پر وہ دانے ملیں گے جو جانوروں نے کھائے تھے (جن کی لید بن گئی تھی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے سخت آوازیں سنیں یہ کیا بات تھی؟ فرمایا جنات میں ایک قتل ہو گیا تھا وہ اسے ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے وہ میرے پاس فیصلہ کرانے کے لئے آئے تھے میں نے ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا۔

بعض روایات میں ہے کہ ہڈی کو جنات کی خوراک اور بیگنی کو ان کے جانوروں کی خوراک تجویز کیا اور اس کی وجہ سے ان سے استنجا کرنے کی ممانعت فرمادی۔

ایک روایت میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان یوں بھی نقل کیا گیا ہے کہ لیلۃ الجن کی صبح کو رسول اللہ ﷺ غار حرا کی طرف سے تشریف لائے ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم رات بھر آپ کو ڈھونڈتے پھرے آپ سے ملاقات نہ ہو سکی، فکر اور غم میں ہم نے پوری رات گزاری آپ نے فرمایا کہ جنات کی طرف سے ایک بلانے والا میری طرف آیا تھا میں اس کے ساتھ چلا گیا تھا۔ اور ان کو قرآن مجید سنایا۔

جنات نے قرآن مجید سنا تو آپس میں کہنے لگے کہ خاموش رہو دھیان سے سنو جب آپ نے تلاوت ختم فرمادی تو جنات واپس ہو گئے اور ساتھ ہی مبلغ اور داعی بھی بن گئے واپس ہو کر انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم نے ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے یہ کتاب واقعی اللہ کی کتاب ہے جو کتابیں اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئیں ان کی تصدیق کرنے والی اور حق کی طرف اور راہ مستقیم کی طرف ہدایت دیتی ہے اس سے بعض مفسرین نے یہ بات ثابت کی کہ یہ جنات جنہوں نے آپ سے قرآن مجید سنا پھر واپس ہو کر اپنی قوم کو دین اسلام کی دعوت دی یہ لوگ یہودی تھے (جنات کی مذکورہ بالا کی جماعت نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے مزید کہا کہ اللہ کے داعی یعنی سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ کی بات مانو ان پر ایمان لاؤ جب ایمان لے آؤ گے اللہ تمہارے گناہ معاف فرمادے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا دے گا جو جنات ایمان لے آئے ان کا اجر و ثواب یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف فرمادے گا اور عذاب سے محفوظ فرمادے گا اس میں داخلہ جنت کا ذکر نہیں ہے چونکہ مومن جنات کے جنت میں داخل ہونے کا کسی آیت کریمہ میں واضح اور صریح تذکرہ نہیں ہے اور کوئی حدیث مرفوعہ صحیح صریح بھی اس بارے میں نہیں ملتی اس لئے مسئلہ اختلافی ہو گیا ہے بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کے ایمان کا صلہ بس یہی ہے کہ دوزخ سے محفوظ کر دیے جائیں اور ان سے کہہ دیا جائے گا کہ مٹی ہو جاؤ جیسا کہ جانوروں کے لئے یہی ارشاد ہوگا لہذا وہ مٹی ہو جائیں گے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے اس میں توقف فرمایا ہے جنت میں داخل ہونے نہ ہونے کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ (الآیہ) (یہ جنات کے کلام کا ترجمہ ہے یا جملہ مستأنفہ ہے؟ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں اس میں یہ اعلان فرما دیا کہ جو کوئی شخص اللہ کے داعی کی بات نہ مانے یعنی ایمان نہ لائے تو وہ اپنا ہی نقصان کریگا اور عذاب میں گرفتار ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف جب گرفت ہوگی تو کہیں بھاگ کر نہیں جاسکے گا اور اللہ کے سوا کوئی مدد نہ کر سکے گا جس نے اللہ کے داعی کی نافرمانی کی وہ واضح گمراہی میں ہے۔

جو لوگ توحید کے منکر ہوتے ہیں وقوع قیامت کے بھی قائل نہیں ہوتے لہذا دعوت توحید کے بعد وقوع قیامت کا بھی تذکرہ فرمایا اور منکرین کا استبعاد دور کرتے ہوئے فرمایا کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا اس کو تو تم مانتے ہو اتنی بڑی بڑی چیزوں کو پیدا فرمایا اور اسے ذرا بھی تھکن نہیں ہوئی جس نے ان کو پیدا فرما دیا کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ انسانوں کو اور دوسری چیزوں کو موت دے کر دوبارہ زندہ فرمائے؟ تم تو غور ہی نہیں کرتے اگر غور کرو گے تو یہ بات بآسانی سمجھ میں آجائے گی بلیٰ وہ ضرور دوبارہ پیدا کر سکتا ہے مردوں کو زندہ کر سکتا ہے إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے)۔

اس کے بعد کافروں کو یاد دہانی فرمائی کہ قیامت کے دن جب اہل کفر آگ پر پیش کئے جائیں گے یعنی اس میں داخل ہونے لگیں گے تو ان سے کہا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ (دنیا میں جب تم سے کہا جاتا تھا کہ کفر کی سزا دوزخ ہے تو تم اسے نہیں مانتے تھے اور جو حضرات اس بات کی خبر دیتے تھے تم اس کا مذاق بناتے تھے اب بولو کیا کہتے ہو کیا یہ آگ جو تمہارے سامنے ہے اس کا سامنے ہونا اور تمہارا اس میں داخل ہونا حق ہے یا نہیں قَالُوا بَلٰی وَكُنَّا لَهُمْ نَاصِرُونَ اس پر کہیں گے کہ ہاں واقعی حق ہے ہم مانتے ہیں تصدیق کرتے ہیں وہ اس بات کو قسم کھا کر کہیں گے لیکن اس وقت اقرار اور قسم سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ارشاد ربانی ہوگا کہ اپنے کفر کی وجہ سے عذاب چکھ لو۔

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا

يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ بَلَاغٌ ۚ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ ؕ

وعدہ کی چیز کو دیکھیں گے گویا صرف دن کی ایک گھڑی ٹھہرے تھے یہ پہنچا دینا ہے سو ہلاک نہیں ہوں گے مگر نافرمانی کرنے والے ہیں۔

## رسول اللہ ﷺ کو تسلی اور صبر کی تلقین

تفسیر: رسول اللہ ﷺ کی دعوت اور محنت اور جدوجہد برابر جاری رہی آپ کے مخالفین انکار و عناد پر تلے ہوئے تھے اس سے آپ کو رنج ہوتا تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دینے اور صبر کی تلقین کرنے کے لئے فرمایا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ (سو آپ صبر کیجئے جیسے ہمت والے پیغمبروں نے صبر کیا) وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ (ان لوگوں کے لئے جلدی نہ کیجئے) یعنی ان پر جلدی عذاب آجائے اس فکر میں نہ پڑیے كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ (جس دن یہ لوگ وعدہ کی چیز کو دیکھیں گے گویا کہ دن کی ایک گھڑی سے زیادہ نہیں ٹھہرے یعنی عذاب میں جو دیر لگ رہی ہے وہ اس کی وجہ سے یہ سمجھ

رہے ہیں کہ عذاب نہیں آئے گا لیکن جب عذاب آجائے گا تو وہ یوں سمجھیں گے کہ دنیا میں جو زندگی گزاری وہ صرف ایک گھڑی ہی تھی دنیا کی لمبی زندگی کو جس میں خوب مزے کئے اسے شدت عذاب کی وجہ سے بھول جائیں گے بلکہ یہ مبتداء مخدوف کی خبر ہے یعنی یہ جو کچھ تمہیں بتایا گیا سنایا گیا نصیحت اور موعظت کے اعتبار سے کافی ہے، بعض حضرات نے فرمایا کہ طحا جوحذوف ہے اس کا مشار الیہ قرآن مجید ہے، مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم نے اللہ کی طرف سے تمہیں حق پہنچا دیا ثواب کی چیزیں بھی بتا دیں گناہ کے کاموں سے بھی آگاہ کر دیا تبلیغ کا حق ادا کر دیا اب عمل نہ کرو گے تو عذاب میں گرفتار ہو گے۔

فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ (سو عذاب کے ذریعہ فاسق لوگ ہی ہلاک ہوں گے) جو اللہ کے باغی ہیں اس کی فرماں برداری سے دور ہیں۔

فائدہ: آیت کریمہ میں جو اولوا العزم من الرسل فرمایا ہے بعض حضرات کے نزدیک من بیان یہ ہے اور ان حضرات کے نزدیک آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام رسول اولوا العزم یعنی ہمت اور حوصلہ والے تھے جیسے ان حضرات نے صبر کیا آپ بھی صبر کیجئے اس کی تفسیر کی بناء پر تمام انبیاء کرام اور رسل عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام اولوا العزم کی صفت سے متصف تھے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ من تعبیضہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رسول بھیجے تھے ان میں جو اولوا العزم تھے آپ ان کا اتباع کیجئے جب یہ تفسیر کر دی گئی تو یہ سمجھنے کی ضرورت محسوس ہوئی کہ ان حضرات میں کون کون اولوا العزم تھے پھر ان حضرات کے نام تجویز کئے گئے کسی نے صرف حضرت یونس علیہ السلام کا استثناء کیا اور کہا کہ وہ اہل عزم نہیں تھے کیونکہ انہوں نے اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے جانے میں جلدی کی تھی اور اللہ تعالیٰ شانہ نے نبی اکرم ﷺ کو خطاب کرتے ہوئے وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْخُوْتِ فرمایا ہے (اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اولوا العزم سے وہ حضرات مراد ہیں جو سورہ انعام کی آیات وَلِلّٰكَ مُجْتَنِبَاتٌ مِّنْ ذٰلِكَ مَذْكُورٌ ہوں اور یہ اٹھارہ ہیں ان کا ذکر فرما کر اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدٰى اللّٰهُ فَمِنْهُمْ اَقْتَدٰى اللّٰهُ تَعَالٰى نے ان کو ہدایت دی سو آپ ان کی ہدایت کا اتباع کیجئے اور حضرت ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ اولوا العزم سے وہ حضرات مراد ہیں جو اصحاب شرائع تھے یعنی حضرت نوح اور حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام یہ چار ہیں پانچویں صاحب شریعت سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

قال العبد الفقير ان القول الاول اصح لان سياق الكلام يدل على كثرتهم لا على عدد قليل فتدبر.  
(بندہ عاجز کہتا ہے کہ پہلا قول زیادہ صحیح ہے کیونکہ سیاق کلام ان کی کثرت پر دلالت کرتا ہے نہ کہ قلت پر، بس غور کرنا چاہئے)

وهذا آخر تفسير سورة الاحقاف انعم الله بتمامه وحسن ختامه وصلى الله تعالى  
على سيد رسله محمد المصطفى وعلى آله وصحبه اولي الاحلام والنهي.

سُورَةُ مُحَمَّدٍ مَكِّيَّةٌ بِمِائَةِ وَثَلَاثِينَ آيَةً رَتَّبَهَا اللَّهُ

سورۃ محمد (ﷺ) جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی جس میں اڑتیس آیات اور چار رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے﴾

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع فرمادیا اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے

الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ

اور جو کچھ محمد پر نازل ہوا اس پر ایمان لائے اور وہ ان کے رب کی طرف سے امر و نفی ہے اللہ ان کے گناہوں کا کفارہ فرمادے گا اور ان کے حال کو درست

بِأَلْفِهِمْ ۝ ذَٰلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ

فرمادے گا یہ اس وجہ سے کہ کافروں نے باطل کا اتباع کیا اور بے شک جو لوگ ایمان لائے انہوں نے حق کا اتباع کیا جو ان کے

رَبِّهِمْ ۝ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ ۝

رب کی طرف سے ہے اسی طرح اللہ لوگوں کے لئے ان کے احوال بیان فرماتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنے والوں کی بربادی اور اہل حق پر انعام کا اعلان

تفسیر: یہاں سے سورۃ محمد ﷺ شروع ہو رہی ہے۔

آیات مذکورہ بالا میں اہل کفر اور اہل ایمان کے درمیان فرق واضح فرمایا ہے اور اہل کفر کی سزا اور اہل ایمان کی جزا بیان فرمائی ہے۔ اول تو یہ فرمایا کہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیئے کفر و شرک پر تو کسی خیر کی امید رکھنے کا کوئی سوال ہی نہیں اہل کفر جو بعض مرتبہ صلہ رحمی یا خدمت خلق کے کام کرتے ہیں آخرت میں ان چیزوں کا بھی کچھ نہیں ملے گا اعمال ضائع کرنے کا سبب کفر ہی بہت ہے پھر اوپر سے جنہوں نے اللہ کے راستے روکنے کا جو کام کیا یہ ان کے اعمال ضائع ہونے کا ایک مزید سبب بن گیا مومنین کے بارے میں فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے اللہ ان کے گناہوں کا کفارہ فرمادے گا اور ان کے احوال کی اصلاح فرمادے گا آیت کریمہ میں ایمان کی تعریف فرماتے ہوئے وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ فرمایا اس میں یہ بتادیا کہ محمد رسول اللہ ﷺ کے تشریف لانے کے بعد کسی کا ایمان اس وقت تک معتبر نہیں جب تک کہ محمد ﷺ پر ایمان نہ لائے اور ساتھ ہی وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ فرمایا جس میں محمد رسول اللہ ﷺ کے رسول ہونے کی اور جو کچھ آپ پر نازل ہوا ہے اللہ کی طرف سے اس کے اتارے جانے کی توثیق اور تصدیق فرمائی اور یہ بتادیا کہ آپ کا دعویٰ رسالت اور دعویٰ نزول کتاب من اللہ حق ہے اور صحیح ہے۔

پھر ارشاد فرمایا کہ یہ جو اہل کفر کی بد حالی ہوگی اور اہل ایمان کے حال کو اللہ تعالیٰ سدھار دے گا یہ اس وجہ سے ہے کہ

کافروں نے باطل کا اتباع کیا اور اہل ایمان نے حق کا اتباع کیا، اتباع الحق کے ساتھ لفظ مِنْ تَعِيَهُمْ بھی فرمایا اس میں یہ بتا دیا کہ حق وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو (اس نکتہ کو یاد رکھنا چاہئے)

كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ (اللہ تعالیٰ اسی طرح لوگوں کے لئے امثال بیان فرماتا ہے) صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ امثال سے احوال مراد ہیں یعنی اللہ تعالیٰ مومنین اور کافرین کے احوال بیان فرماتا ہے مومنین کو حق پر بتاتا ہے اور ان کے نتیجے میں فلاح اور فوز کی بشارت دیتا ہے اور کافروں کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ باطل کا اتباع کرتے ہیں جس کا نتیجہ خبیثت اور خسران ہے۔

وَإِذْ الْوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا فُضِّبَ الرِّقَابُ حَتَّىٰ إِذَا أَخْنَضْتُهُمْ فَشُدُّوا لُؤْلُؤًا ۖ فَأَمَّا

سوجب کافروں سے تمہاری ٹہریں بٹھیر ہو جائے تو ان کی گردنیں مار دیں یہاں تک کہ جب تم چھی طرح سے ان کی خوں ریزی کرو تو خوب مضبوط باندھ دو پھر

مَتَابَعْدُ ۖ وَأَمَّا فِدَاءٌ حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهُآ ذٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرْتُمْ مِنْهُمْ ۖ

اس کے بعد یا تو بلا معاوضہ چھوڑ دو یا ان کی جانوں کا بدلہ لے کر چھوڑ دو جب تک کہ لڑائی اپنے ہتھیاروں کو نہ کھدے یہی طرح ہے اور اگر اللہ چاہے تو ان سے انتقام لے لے

وَلٰكِنْ لِّيَبْلُوْا بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ۗ وَالَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُّغْفَلَ عَنْهُمْ ۖ

اور لیکن تاکہ تم میں بعض کا بعض کے ذریعہ امتحان فرمائے اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کئے گئے سوا اگر ہرگز ان کے اعمال ضائع نہ فرمائے گا

سَيَهْدِيْهُمْ وَيُصْلِحْ بِالْهَمِّ ۖ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَفَهَا لَهُمْ ۖ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ

وہ انہیں عنقریب مقصود تک پہنچا دے گا اور ان کا حال درست فرما دے گا اور انہیں جنت میں داخل فرما دے گا جس کی انہیں پہچان کر ا دے گا۔ اے ایمان والو!

تَنْصُرُوْا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُخْرِجْكُمْ مِّنْ اَيْدِيْكُمْ ۖ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَتَعَسَّآ لَهُمْ ۖ وَاضْلَآ اَعْمٰی لَهُمْ ۖ

اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا اور جن لوگوں نے کفر کیا سو ان کے لئے ہلاکت ہے اور اللہ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَرِهُوْا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ ۖ اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ

یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اس چیز کو کھردھا جانا جو اللہ نے نازل فرمائی سو اس نے ان کے اعمال کو کارت کر دیا۔ کیا یہ لوگ زمین میں نہیں چلے پھرے سو انہوں نے

كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ دُمِّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِيْنَ اَمْثَالُهَا ۖ ذٰلِكَ يٰۤاَيُّهَا اللّٰهُ مَوْلٰی

نہیں دیکھا کیا ہوا ان کا انجام جو ان سے پہلے تھے اللہ نے ان پر جہاں ہی ڈال دی اور کافروں کے لئے اسی قسم کی چیزیں ہیں یہ اس وجہ سے کہ اللہ ایمان والوں

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاَنَّ الْكَافِرِيْنَ لَا مَوْلٰی لَهُمْ ۖ اِنَّ اللّٰهَ يَدْخُلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا

کا مولیٰ ہے اور بے شک کافروں کے لئے کوئی بھی مولیٰ نہیں ہے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کئے اللہ انہیں

الصّٰلِحٰتِ جَنَّتْ تَجْرٰی مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۖ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَتَسَوَّوْنَ وَيَاْكُلُوْنَ كَمَا

ایسے بانوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور جو لوگ کافر ہیں وہ عیش کر رہے ہیں اور اس طرح کھاتے ہیں جس طرح چوہائے



تَأْكُلُ الْإِنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ ۝ وَكَالَيْنِ مِّنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي

کھاتے ہیں اور جہنم انکا ٹھکانہ ہے اور بہت سی بستیوں میں جن کے رہنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا یہ بستیوں آپ کی بستی سے زیادہ سخت تھیں جنہوں نے

أَخْرَجَتْكَ أَهْلُكُم مِّنْهَا فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ۝ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ كَمَن زُرَّ لَهُ سُوءُ

آپ کو نکال دیا ان بستیوں کا کوئی مددگار نہ ہوا جو لوگ اپنے پروردگار کے واضح راستہ پر ہوں کیا وہ ان شخصوں کی طرح ہو سکتے ہیں جن کی

عَمَلُهُ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ۝

بد عملی ان کو اچھی چیز بتائی گئی اور جو اپنی نفسانی خواہشوں پر چلتے ہوں۔

## جہاد و قتال کی ترغیب قیدیوں کے احکام مجاہدین اور مقتولین کی فضیلت

**تفسیر:** یہ آیات متعدد مضامین پر مشتمل ہیں جہاد اور قتال کے بعض مسائل بتائے ہیں اور فی سبیل اللہ جہاد کرنے والوں کی فضیلت ظاہر فرمائی ہے اور کافروں کی بد حالی اور بربادی کا تذکرہ فرمایا ہے ارشاد فرمایا ہے کہ جب کافروں سے تمہارا مقابلہ ہو جائے اور قتل و قتال کی نوبت ہو جائے تو دشمنان اسلام کے قتل کرنے میں کوئی کوتاہی نہ کرو ان میں سے جو قتل ہو جائیں ان کے علاوہ جو زندہ ہوں ان کو قید کر لو اور اچھی طرح کس کے ان کو باندھو اس کے بعد ان کو احسان کے طور پر یا اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے بدلہ ان کو چھوڑ دو۔

اس کی تشریح اور تفسیر یہ ہے کہ جب دو قوموں میں جنگ ہوتی ہے تو جنگ کرنے والے مقتول بھی ہوئے ہیں اور ایک فریق دوسرے فریق کے افراد کو قید بھی کر لیتا ہے مجاہدین اسلام دشمن کے افراد کو قید کر لیں تو ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے اس کے بارے میں یہاں سورہ محمد (ﷺ) میں دو حکم بیان فرمائے ہیں اول یہ کہ ان پر احسان کر دیا جائے یعنی بغیر کسی معاوضہ کے چھوڑ دیا جائے یا دوم یہ کہ اپنے قیدیوں کے بدلہ میں انہیں چھوڑ دیں یعنی امیر المؤمنین اپنے قیدی ان سے واپس لے لے اور ان کے بدلہ کافر قیدیوں کو واپس کر دے تیسری صورت یہ ہے کہ مالی عوض لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے غزوہ بدر کے قیدیوں کے ساتھ یہی معاملہ کیا تھا اور چوتھی صورت یہ کہ انہیں قتل کر دیا جائے قتل کرنا اور فدیہ لے کر چھوڑ دینا سورہ انفال میں مذکور ہے۔

اور پانچویں صورت یہ ہے کہ انہیں غلام باندی بنا کر مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے اور ایک صوت یہ ہے کہ ان قیدیوں کو ذمی بنا کر دارالاسلام میں رکھ لیا جائے۔

حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک بالکل ہی بطور احسان کے چھوڑ دینا کہ نہ قیدیوں کا تبادلہ ہو اور نہ مال لیا جائے اور نہ ذمی بنایا جائے یہ جائز نہیں ہے۔

علامہ ابوبکر جصاص احکام القرآن جلد دوم ص ۳۹۲ میں لکھتے ہیں کہ سورہ انفال سورہ (محمد ﷺ) کے بعد نازل ہوئی سورہ محمد میں جو من اور فداء کی اجازت ہے اس کو سورہ برأت کی آیات قَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ اور قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ نے منسوخ کر دیا لہذا فداء اور من کی اجازت نہیں رہی فوج جب ان

يَكُونُ الْحَكَمُ الْمَذْكُورُ فِيهَا نَاسِخًا لِلْفِدَاءِ الْمَذْكُورِ فِي غَيْرِهَا اه (پس ضروری ہے کہ اس میں مذکور حکم فدیہ کے اس حکم کیلئے ناسخ ہو جو دوسری جگہ مذکور ہے) کافر قیدیوں کو بلا عوض مالی یا مسلمان قیدیوں کو چھڑانے کے لئے بطور مبادلہ چھوڑ دیا جائے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جائز قرار نہیں دیا اور حضرات صاحبین اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسا کرنا درست ہے رہی یہ بات کہ کافر قیدیوں کو مال لیکر چھوڑ دینا جائز ہے یا نہیں اس کے بارے میں حنفیہ کا مشہور قول یہ ہے کہ یہ بھی جائز نہیں ہے البتہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے سیر کبیر میں لکھا ہے کہ اگر مسلمانوں کو مال کی حاجت ہو تو ایسا بھی کر سکتے ہیں۔

اس کے بعد فرمایا ہے وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرْنَا بِهِمْ (اور اگر اللہ چاہے تو کافروں سے انتقام لے) یعنی کسی طرح کا کوئی بھی عذاب دے کر ہلاک فرمادے وَلَكِنْ لِّيَبْلُوَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ اور لیکن تاکہ تم میں سے بعض کا بعض کے ذریعے امتحان فرمائے یعنی تمہیں جو جہاد کا حکم دیا اس میں تمہارا امتحان ہے کہ وہ کون ہے جو جانتے ہوئے بھی کہ مقتول بھی ہو سکتا ہوں اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتا ہے اور جہاد کے لئے نکل کھڑا ہوتا ہے اور اس میں کافروں کا بھی امتحان ہے کہ مسلمانوں کے مقابلہ میں آ کر مقتول ہونے اور شکست کھانے اور مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد کا معاملہ دیکھ کر حق کو قبول کرتے ہیں یا نہیں۔

پھر فرمایا وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَكَانُوا مُضِلًّا لِّبَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ (اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کئے گئے اللہ ہرگز ان کے اعمال ضائع نہ فرمائے گا) اس میں یہ بتا دیا کہ جہاد میں امتحان کی حکمت کے ساتھ ساتھ تمہارا فائدہ بھی ہے اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤ گے تو یہ صرف امتحان کی کامیابی تک محدود نہیں رہے گا بلکہ تمہارے اعمال کے عوض بڑے بڑے انعامات ملیں گے (شہادت کا درجہ عطا کیا جائے گا۔

سَيَدْخُلُونَ فِيهِمْ وَيُصَلِّیْهِمْ بِاللَّيْلِ (اللہ انہیں منزل مقصود تک پہنچا دے گا اور ان کا حال درست فرمادے گا) قبر حشر اور تمام مواقع میں ان کا حال درست فرمادے گا وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ اور انہیں جنت میں داخل فرمادے گا جو ان کی منزل مقصود ہے عَزَّوَجَلَّ (اللہ نے انہیں جنت کی پہچان کرادی) یعنی دنیا میں اپنی کتابوں اور رسولوں کے ذریعہ انہیں اس کی پہچان کرادی ہے جنت کی پہچان کرانے کا یہ مطلب بھی لیا جاسکتا ہے کہ جب جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو اپنے اپنے مقرر کردہ مقام کو وہ اس طرح جانتے ہوں گے جیسے اپنے دنیا والے گھروں میں اس کو پہچانتے تھے بلکہ ان سے زیادہ اپنی جنت والی مقررہ جگہ کے راستے کو پہچانتے ہوں گے۔ (کما ورد فی الحدیث)

اس کے بعد مسلمانوں سے مدد کا وعدہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُخْرِجْكُمْ أَقْدَامَكُمْ اس میں یہ بتا دیا کہ تم اللہ کی مدد کرو گے یعنی اس کے دین کی بلندی کے لئے کوششوں میں لگو گے (جس کا وہ محتاج نہیں ہے) تو وہ تمہاری مدد فرمائے گا اور ثابت قدم رکھے گا۔

مومنین کا انعام بیان کرنے کے بعد کافروں کی بد حالی بیان فرمائی وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ اللَّهُ عَنْهُمْ (اور جن لوگوں نے کفر کیا ہلاکت ہے ان کے لئے اور اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے) دنیا میں بھی مومنین کے ہاتھوں ان کی تباہی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لئے ہلاکت یعنی عذاب شدید اور دائمی ہے فَلَا يَرْجُوا لَهُمْ نَجْوًا مَّا أُنْزِلَ اللَّهُ فَالْكَبِيرُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ مُحِيطًا بِمَا يَعْمَلُونَ (ان لوگوں کی یہ ہلاکت اور اعمال کا حیطہ ہونا اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اس کو ناپسند کیا جو کچھ اللہ نے نازل کیا لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال حیطہ فرمادیئے)

## دنیا میں چل پھر کر عبرت حاصل کریں

اس کے بعد مکررین کو تنبیہ فرمائی کہ اپنی دنیا اور ساز و سامان اور عمارت سے دھوکہ نہ کھائیں ان سے پہلے بھی تو میں گزر چکی ہیں جو ہلاکت و بربادی کا منہ دیکھ چکی ہیں ارشاد فرمایا اَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ (کیا یہ لوگ زمین میں نہیں چلے پھرے سوان لوگوں کا انجام دیکھ لیتے جو ان سے پہلے تھے) دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ (اللہ نے ان کو ہلاک فرمادیا) وَلِلْكَافِرِينَ أَعْثَابُهَا (اور کافروں کے لئے ایسی کئی چیزیں ہیں) یعنی موجودہ جو کفار ہیں اور ان کے بعد جو بھی کافر بھی ہوں گے ان کے لئے دنیا میں اسی طرح عذاب ہوگا اور ہلاک کر دیئے جائیں گے اور آخرت میں شدید اور دائمی عذاب میں مبتلا ہوں گے۔

## اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا مولیٰ ہے

ذَٰلِكَ يَدْعُ اللَّهُ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا (یہ جو کچھ مذکور ہوا یعنی اہل ایمان کا جنت میں داخل ہونا اور اہل کفر کا دنیا و آخرت میں برباد ہونا اس وجہ سے ہے کہ اللہ ایمان والوں کا مولیٰ ہے یعنی ان کا ولی ہے مددگار ہے کار ساز ہے) وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ (اور کافروں کا کوئی کار ساز مددگار نہیں)۔

## اہل ایمان کا انعام اور کفار کی بد حالی

اس کے بعد اہل ایمان کا انعام اور کافروں کی طرز زندگی (دنیا میں) اور ان کا عذاب بیان فرمایا جو آخرت میں ان کے لئے تیار کیا گیا ہے فرمایا إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ (بلاشبہ اللہ داخل فرمائے گا ایمان والوں کو اور جنہوں نے نیک عمل کئے ایسے باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی) وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ (اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ نفع حاصل کرتے ہیں اور کھاتے ہیں جیسے چوپائے کھاتے ہیں یہ ان کا دنیاوی حال ہے) وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَهُمْ (اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے) اہل کفر کے سامنے دنیا ہی ہے اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اس لئے کسی بھی طرح کی دنیاوی لذت اور دنیاوی طمع اور دنیاوی ترقی اور دنیاوی مال حاصل کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے کیونکہ انہیں صرف دنیا ہی مطلوب ہے اس لئے کمانے اور کھانے پینے میں ہر طرح کی لذت حاصل کرنے میں کوئی حیا اور شرم انسانیت و مروت ان کے لئے رکاوٹ نہیں بنتی جس طرح جانور اور چوپائے کھانے پینے میں ہر جگہ منہ مار لیتے ہیں اور جنسی لذت حاصل کرنے کے لئے سب کے سامنے سب کچھ کر لیتے ہیں اسی طرح یہ دنیاوی لذتوں کے متوالے سب کچھ کر گزرتے ہیں یورپ اور امریکہ میں دیکھو قانونی طور پر عورت اور مرد کے میل ملاپ کے لئے نکاح کی شرط کو ختم کر دیا ہے اور دوستانہ زندگی کا رواج ہو گیا ہے عورت اور مرد دوست (فرینڈ) بن کر گھومتے پھرتے ہیں کبھی اس سے جوڑ بیٹھ گیا کبھی دوسرے سے دوستی ہو گئی پارکوں میں اور ہوٹلوں میں بلکہ

سڑکوں پر مرد و عورت آپس میں لطف اندوز ہوتے ہیں حرام حلال کا شرم و حیا کا کوئی دھیان نہیں اور اب تو قانونی طور پر ان کی بعض حکومتوں نے مرد کا مرد سے استماع اور اسٹلڈ اذ جائز قرار دے دیا ہے اب یہ لوگ یہاں تک اتر آئے کہ آدمیت اور انسانیت باقی نہ رہی تو کیا حرج ہے مزہ قول رہا ہے انسانیت اور شرافت کو دیکھیں تو بہت سی لذتوں سے محروم ہونا پڑتا ہے لہذا وہ ایسی انسانیت سے بھرپائے جس سے مزہ میں فرق آئے اور لذت کو بندہ لگے یہ یورپ اور امریکہ کے کافروں کے احساسات ہیں! ایشیاء والوں نے بھی ان کی راہ اختیار کرنا شروع کر دیا ہے۔

جس طرح جنسی لذت کے لئے کافر لوگ دیوانے ہو رہے ہیں اس طرح مال کمانے اور کھانے پینے میں جانوروں کی راہ اختیار کئے ہوئے ہیں حلال و حرام سے کوئی بحث نہیں جو ملا کھا لیا جو چاہا کھا لیا سو راہ شراب تو ان کی روزانہ کی غذا ہے قرآن کریم میں ان کی اس دنیا والی زندگی کو **يَا كَاكِبُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَكْنَامُ** سے تعبیر فرمایا اور ساتھ ہی یہ بھی فرمادیا کہ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اس مضمون کو سورہ زمر میں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے **فَلْيَتَنَزَّلِ الْكُفْرُ كَمَا نَزَّلَ الْأَنْكَارُ مِنَ الْأَخْطَابِ** (آپ فرمادیجئے کہ تو اپنے کفر سے تھوڑا سا نفع حاصل کر لے بے شک تو دوزخ والوں میں سے ہے)

### اہل مکہ کو تنبیہ

اس کے بعد اہل مکہ کو تنبیہ فرمائی اس میں خطاب تو رسول اللہ ﷺ کو ہے کیونکہ آپ کو اس میں تسلی دی ہے اور سنانا منکرین کو بھی ہے تاکہ وہ عبرت حاصل کریں ارشاد فرمایا **وَكَاكِبُونَ مِنْ قُرَيْشٍ** اور کتنی ہی بستیاں تھیں جن کے رہنے والے آپ کی اس بستی کے رہنے والوں سے قوت میں زیادہ سخت تھے جس نے آپ کو نکال دیا ہے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا کوئی بھی ان کا مددگار نہ تھا ان کو بھی اپنی قوت اور طاقت پر غرور کرنے کا کوئی مقام نہیں۔

### اہل ایمان اور اہل کفر برابر نہیں ہو سکتے

پھر فرمایا **أَلَمْ يَكُنْ كَانَ عَلَى بَيْتِنَا قُرَيْشٌ** (الآیہ) جو شخص اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوگا کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کا بلا عمل اس کے لئے مزین کر دیا گیا ہے (اس نے کفر کو اچھا سمجھا اور ایمان سے دور بھاگا اور جن لوگوں نے اپنی خواہشوں کا اتباع کیا یعنی توحید کو چھوڑا اور شرک کو اختیار کیا یہ استفہام انکاری ہے مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان جن کے پاس ان کے رب کی طرف سے دلیل موجود ہے اور کافر لوگ جن کے برے اعمال کفر اور معاصی انہیں اچھے لگتے ہیں اور اپنی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں یہ دونوں فریق یعنی مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے۔

**مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ**

جس جنت کا متقین سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس میں بہت سی نہریں ایسے پانی کی ہیں جن میں ذرا تغیر نہ ہوگا اور بہت سی نہریں سورہ کی ہیں جن کا ذائقہ دابلا

**طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ**

ہوانہ ہوگا اور بہت سی نہریں شراب کی ہیں جو پینے والوں کو بہت لذیذ معلوم ہوگی اور بہت سی نہریں شہد کی ہیں جو بالکل صاف ہوگا اور ان کے لئے وہاں

كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ﴿١٥﴾

ہر قسم کے پھل ہوں گے مگر ان کے بک طرف سے بخشش ہوگی، کیا یہ لوگ مجھے دیکھتے ہیں، جو ہمیشہ غریبوں میں گمراہ کھاتا، وہاں بلیاں بکھڑا دیتا، جسے وہ لوگ ہاتھوں سے کھاتے تھے۔

اہل جنت کے مشروبات طیبہ اور اہل نار کا مشروب ماء جمیم

**تفسیر:** اس آیت میں بھی مومنین کے انعامات اور کافروں کی سزایمان فرمائی ہے اول تو جنت کا حال بیان فرمایا جس کا متقیوں سے وعدہ ہے جنت میں بہت سی نعمتیں ہیں ان میں نہرں بھی ہیں ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایسے پانی کی نہرں ہیں جو متغیر نہ ہوگا اور دودھ کی نہرں ہیں جن کا مزہ بدلہ ہوا نہ ہوگا اور شراب کی نہرں ہیں جو پینے والوں کے لئے سراپالذت ہوگی اور بالکل صاف شہد کی نہرں ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ جنت میں سو درجے ہیں جنہیں اللہ نے فی سبیل اللہ جہاد کرنے والوں کے لئے تیار فرمایا ہر دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ جتنا آسمان و زمین کے درمیان ہے سو جب تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو کیونکہ وہ جنت کا سب سے افضل اور اعلیٰ درجہ ہے اور اسی کے اوپر رحمن کا عرش ہے اور اسی سے نہریں جاری ہیں۔ (صحیح البخاری ص ۳۹۱)

یہ حدیث حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے اس میں یوں ہے منها تفجروا انهار الجنة الاربعة  
یعنی جنت الفردوس سے چاروں نہریں جاری ہیں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقاۃ المفاتیح شرح مشکوٰۃ المصابیح میں لکھتے ہیں  
یہی وہ چار نہریں ہیں جو قرآن مجید میں مذکورہ ہیں یعنی پانی اور دودھ اور شراب اور شہد کی نہریں حدیث شریف کے بیان سے  
یہ معلوم ہوا کہ جنت الفردوس سے چار نہریں نکلتی ہیں ان کا منبع اور مرکز جنت الفردوس ہے (پھر ان کی شاخیں پھوٹی ہوئی  
دوسری جنتوں میں پہنچتی ہیں اس میں جو شراب کی نہریں بتائی ہیں ان کے ساتھ لَذَّةٌ لِلشَّيْبَانِ بھی فرمادیا یعنی یہ بتادیا  
کہ یہ شراب سراپا لذت ہوگی اسکو پینے سے نشہ نہ آئے گا اور نہ کوئی تکلیف ہوگی سورۃ الصافات میں فرمایا  
يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكُلِّ فِرْعَانٍ مِّنْ مَّوْبِئٍ يَّخْلُقُ أَكْذَٰبَ الشَّيْبَانِ لِأَفْئِنَّا غَوِيَ لَآ لَهْوَ عَنْهُمْ لَذَّةٌ تُنْفُونَ (ان کے پاس ایسا جام شراب لایا جائے  
گا جو بہتی ہوئی شراب سے بھرا جائے گا سفید ہوگی، پینے والوں کو لذت معلوم ہوگی نہ اس میں درد سر ہوگا اور نہ اس سے عقل میں  
فتور آئے گا) اور سورۃ الواقعہ میں فرمایا يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّغْتَدِّوْنَ بِالْكَوْكِبِ وَأَكْلًا مِنْ مَّوْبِئٍ مِّنْ مَّوْبِئٍ لَّا يَصَدَّقُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْفُونَ  
(ان کے پاس ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے یہ چیزیں لے کر آمد و رفت کیا کریں گے آنچورے اور آفتاب اور ایسا  
جام شراب جو بہتی ہوئی شراب سے بھرا جائے گا نہ اس سے ان کو درد سر ہوگا اور نہ اس سے عقل میں فتور آئے گا)

ان آیات سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ جنت میں جو کچھ پیئے پلانے کے لئے دیا جائے گا اس میں لذت ہی لذت ہوگی نہ عقل میں فتور آئے گا نہ نشہ ہوگا، نہروں کا تذکرہ فرمانے کے بعد فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ اور ان کے لئے ہر قسم کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہوگی)

اس کے بعد فرمایا کَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ (الایہ) یہاں عبارت حذف ہے یعنی من کان فی هذا النعیم کمن

هو خالد فی النار جو شخص ان مذکورہ بالائنسوں میں ہوگا کیا ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو ہمیشہ دوزخ کی آگ میں رہیں گے اور جنہیں کھولتا ہوا گرم پانی پلایا جائے جو ان کی آنتوں کو کاٹ ڈالے گا)

حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول خدا ﷺ سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا دوزخیوں کو اتنی زبردست بھوک لگادی جائے گی جو اکیلی ہی اس عذاب کے برابر ہوگی جو ان کو بھوک کے علاوہ ہورہا ہوگا لہذا وہ کھانے کے لئے فریاد کریں گے اس پر ان کو ضریح کا کھانا دیا جائے گا جو نہ موٹا کرے گا نہ بھوک دفع کرے۔ پھر دوبارہ کھانا طلب کریں گے تو ان کو طعمام ذی غصۃ گلے میں اٹکنے والا کھانا دیا جائے گا جو گلوں میں اٹک جائے گا اس کے اتارنے کے لئے تدبیریں سوچیں گے تو یاد کریں گے کہ دنیا میں تھے تو گلے میں اٹک جانے والی چیزوں کے اتارنے کے لئے پیٹنے کی چیز بیا کرتے تھے لہذا پیٹنے کی چیز طلب کریں گے، چنانچہ کھولتا ہوا پانی لوہے کے سنڈاسیوں کے ذریعہ ان کے سامنے کر دیا جائے گا۔ وہ سنڈاسیاں جب ان کے چہروں کے قریب ہوں گی تو ان کے چہروں کو بھون ڈالیں گے پھر جب پانی پیٹوں میں پہنچے گا تو پیٹ کے اندر کی چیزوں (یعنی آنتوں وغیرہ) کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا (مشکوٰۃ المصابیح ص ۵۰۳ الترمذی) حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے وَیُسْقٰی مِنْ مَّاءٍ صَدِیدٍ کے بارے میں فرمایا کہ ماء صدید (پہپ کا پانی) جب دوزخی کے منہ کے قریب کیا جائے گا تو وہ اس سے نفرت کرے گا پھر اور قریب کیا جائے گا تو چہرے کو بھون ڈالے گا اور بالآخر پاخانے کے مقام سے باہر نکل جائے گا۔

اس کے بعد رسول خدا ﷺ نے یہ آیات تلاوت فرمائی (اول آیت سورہ عمر ﷺ یعنی) وَسُقُوا مَاءً حَیْثُ فَفَقَطُّہُمْ اَمَّا ہُمْ دوسری سورہ کہف کی آیت یعنی اِنْ یَسْتَعْیِفُوْا یَغْفِرْ لَہُمْ اَمَّا یَسْتَعْیِفُوْا بِمَاءٍ کَالْمُهْلِ یَشْوٰی الْوُجُوْہَ بِمَسِّ الشَّرَابِ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۵۰۳ الترمذی)

وَمِنْهُمْ مَّنْ یَسْتَمِعُ اِلَیْكَ حَتّٰی اِذَا خَرَجُوْا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوْا الَّذِیْنَ اُوتُوْا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ

اور بعض آدمی ایسے ہیں کہ وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں یہاں تک کہ جب دلوگ آپ کے پاس سے باہر جاتے ہیں تو اہل علم سے کہتے ہیں کہ حضرت نے انہی کی بات

اِنْفًا اُولٰٓئِکَ الَّذِیْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰی قُلُوْبِہُمْ وَاَتَّبَعُوْا اَهْوَاءَہُمْ ۝ وَالَّذِیْنَ اٰتٰہُمْ هٰذٰہِمْ هٰدِی

فرمائی تھی؟ یہ دلوگ ہیں کہ حق تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگادی ہے اور وہ اپنی نفسانی خواہشوں پر چلتے ہیں اور جو لوگ صحیح راہ پر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے

وَاَتٰہُمْ تَقْوٰیہُمْ ۝ فَہَلْ یَنْظُرُوْنَ اِلَّا السَّاعَۃَ اَنْ تَاْتِیَہُمْ بَغْتًا ۚ فَقَدْ جَاءَ اَشْرَاطُہَا فَاَنّٰی

اور ان کو ان کے تقویٰ کی تلقین دیتا ہے سو یہ لوگ کس قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ ان پر ہفتہ آہرنے والوں کی علامتیں تو آچکی ہیں مگر قیامت ان کے سامنے آنے لگی ہوئی اس وقت

لَہُمْ اِذَا جَآءَتْہُمْ ذُکْرُہُمْ ۝ فَاَعْلَمُوْا اَنْ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِکَ وَلِلْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ

ان کو کھانا کھلے گا تو آپ اس کا یقین رکھیے کہ جو اللہ کے اور کوئی لائق عبادت نہیں اور آپ اپنی خطا کی معافی مانگتے رہیں اور سب مسلمان مردوں اور سب مسلمان عورتوں کے لئے یعنی

وَاللّٰهُ یَعْلَمُ مُتَقَلَّبُکُمْ وَمَثْوٰیکُمْ ۝

اور اللہ تمہارے چلنے پھرنے اور رہنے کی خبر رکھتا ہے۔

## منافقین کی بعض حرکتیں ان کے قلوب پر مہر ہے یہ لوگ اپنی خواہشوں کے پابند ہیں

**تفسیر:** یہ چار آیات کا ترجمہ ہے پہلی آیت میں منافقین کی ایک خصلت بدکارہ فرمایا ہے منافقین ظاہر میں اپنا مسلمان ہونا ظاہر کرتے تھے اور اندر سے کافر تھے جس کسی کا ظاہر و باطن یکساں نہ ہو اس کے رنگ ڈھنگ خدو خال اور چال و حال سے اس کے دورنگی معلوم ہو جاتی ہے اسی سلسلے کی یہ ایک کڑی ہے کہ منافقین جب رسول اللہ ﷺ کی مجلس مبارک میں حاضر ہوتے تھے تو آپ کی باتوں کی طرف بظاہر کان لگا کر ایسے بیٹھتے تھے جیسے بڑے دھیان سے سن رہے ہیں یہ طریقہ صرف دھوکہ دینے کے لئے تھا دلوں سے بالکل متوجہ نہیں ہوتے تھے جب مجلس سے باہر آتے تو دوسرے حضرات یعنی اہل علم صحابہ سے کہتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے ابھی ابھی کیا فرمایا؟ پہلی منافقت تو یہ تھی کہ جھوٹ موٹ کان لگا کر بیٹھے اور دھیان سے باتیں نہ سنیں اور دوسری منافقت یہ تھی کہ مسلمانوں پر یہ ظاہر کرنے کے لئے ہمیں آنحضرت ﷺ کی باتیں سننے کا اشتیاق ہے یہ معلوم کرتے تھے کہ آپ نے ابھی ابھی کیا فرمایا اللہ تعالیٰ شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور یہ اپنی خواہشوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں انہیں راہ حق پر آنا نہیں ہے۔

دوسری آیت میں اہل ایمان کے انعام کا تذکرہ فرمایا کہ جن لوگوں نے ہدایت پائی اللہ تعالیٰ ان کو مزید ہدایت دیتا ہے (جیسے جیسے احکام نازل ہوتے ہیں وہ ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور عمل کرتے جاتے ہیں) اور اللہ ان کو ان کا تقویٰ نصیب فرماتا ہے (احکام پر بھی عمل کرتے ہیں اور جن افعال و اعمال سے منع فرمایا ہے ان سے بھی بچتے ہیں)

تیسری آیت میں منکرین اور منافقین کو تیغ فرمائی کہ ان لوگوں کا طور طریقہ ایسا ہے کہ بس قیامت ہی کا انتظار کر رہے ہیں (نہ ایمان لاتے ہیں نہ اعمال خیر میں مشغول ہوتے ہیں نہ گناہوں سے بچتے ہیں اور نہ انداز و تبشیر ان کے حق میں مفید ہوتا ہے نہ عذاب کی وعید سے متاثر ہوتے ہیں نہ جنت کی بشارت کا یقین کرتے ہیں اب کیا رہ گیا؟ بس قیامت کا آنا باقی ہے اس کے انتظار میں ہیں کہ وہ اچانک آجائے اور قیامت آجائے تو نصیحت حاصل کریں سو قیامت کی علامتیں آچکی ہیں خود نبی کریم ﷺ کا مبعوث ہونا بھی علامات قیامت میں سے ہے اور معجزہ شق القمر بھی علامت قیامت میں سے ہے جسے سورۃ القمر کی پہلی آیت میں بیان فرمایا اِقْرَأْ بِالسَّاعَةِ وَاَنْشِقِ الْقَمَرُ جب قیامت آجائے گی تو اس وقت سمجھنے اور نصیحت حاصل کرنے کا نہ موقع ہوگا نہ اس سے کچھ فائدہ ہوگا اس مضمون کو فَاٰلِیْہُمْ ذٰلِکَ اَمْ یَنْہٰیہُمْ ذٰلِکَ لَمْ یَنْہٰیہُمْ میں بیان فرمایا یہ مضمون سورۃ الفجر کی آیت کریمہ وَجَآئِیْہُ یَوْمَیْذِیْہِمْ جَعَلَتْہُمْ یَوْمَیْذِیْہُمْ ذٰلِکَ الْاِنْسَانُ وَاَنْتَ الْاِنْسَانُ کی آیت میں بھی بیان فرمایا ہے اس دن جہنم کو لایا جائے گا اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا اور اب کہاں ہے نصیحت حاصل کرنا یعنی اب اس کا فائدہ کچھ نہیں۔

## توحید پر جبر رہنے اور استغفار کرنے کی تلقین

چوتھی آیت میں ارشاد فرمایا کہ اپنے اس علم اور یقین پر جبر رہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اپنے گناہوں کے



لئے استغفار کریں اس میں آنحضرت ﷺ کو خطاب ہے اور آپ کے توسط سے دیگر اہل ایمان کو بھی خلاف شان نبوت جو کوئی امر آپ سے صادر ہو گیا اسے لَذَنْبِک سے تعبیر فرمایا جیسا کہ خطا اجتہادی سے کبھی ایسا واقع ہوا 'معصیت حقیقت کا صدور انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سے نہیں ہو سکتا۔

صاحب معالم التنزیل لکھتے ہیں امر بالاستغفار مع انہ مغفور لہ لیستن بہ امتہ (یعنی آپ کو استغفار کا حکم دیا گیا حالانکہ آپ کا سب کچھ بخشا جا چکا ہے تاکہ امت آپ کا اتباع کرے) آپ نے فرمایا ہے کہ بیشک میرے دل پر میل سا آتا ہے اور بیشک میں اللہ سے روانہ سو دفعہ استغفار کرتا ہوں اور بعض روایت میں ہے کہ آپ ہر مجلس میں سو مرتبہ استغفار فرماتے ہیں۔

صاحب معالم التنزیل مزید لکھتے ہیں هذا اکرام من اللہ تعالیٰ لهذه الامۃ حیث امر نبیہم ان یستغفروا الذنوبہم وهو الشفیع المجاب فیہ (یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کا اکرام ہے کہ ان کے نبی کو حکم فرمایا کہ ان کے گناہوں کے لئے استغفار کریں آپ کی ذات گرامی کو اللہ نے شفاعت کرنے والا بھی بنایا اور شفاعت قبول کرنے کا وعدہ بھی فرمایا۔)

(معالم التنزیل ص ۱۸۳ ج ۴)

## مُتَقَلِّبُکُمْ وَمُتَوَلِّکُمْ کی تفسیر

مفسرین کرام نے اس کے متعدد معنی بیان کئے ہیں پہلے ترجمہ غور سے پڑھیے (اور اللہ تعالیٰ تمہارے چلنے پھرنے اور رہنے سہنے کی خبر رکھتا ہے) یہ ترجمہ مفسر ابن جریر کے قول کے مطابق ہے جسے علامہ بغوی نے معالم التنزیل میں نقل کیا ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ مُتَقَلِّبُکُمْ سے دنیاوی اعمال میں مشغول رہنا اور اس میں چلنا پھرنا مراد ہے اور مُتَوَلِّکُمْ سے ہر ایک کا آخرت کا ٹھکانہ مراد ہے اور حضرت عکرمہؓ نے فرمایا کہ مُتَقَلِّبُکُمْ سے ارحام الامہات کی طرف منتقل ہونا اور مُتَوَلِّکُمْ سے زمین میں ٹھہرنا مراد ہے اور ابن کسان سے نقل کیا ہے مُتَقَلِّبُکُمْ سے لیٹے وقت پلٹیاں کھانا اور مُتَوَلِّکُمْ سے قبروں میں ٹھہرنا مراد ہے (واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب)

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ ۖ

اور جو لوگ ایمان والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی سورت کیوں نہ نازل ہوئی سو جس وقت کوئی حکم سورت نازل ہوتی ہے اور اس میں جہاد کا ذکر ہوتا ہے

رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ يُعْطَرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْبَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَٰئِكَ

تو جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے کسی پر موت کی بے ہوشی طاری ہو گئی ہو

لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ ۚ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ فَهَلْ

سوغرب کی کئی کم ہمتی آنے والی ہے ان کی اطاعت اور بات چیت معلوم ہے مگر جب مضبوطی کے ساتھ حکم آیا تو اگر یہ لوگ اللہ سے سچا وعدہ کرتے تو ان کے لئے بہت ہی بہتر ہوتا سا کرتا

عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ

والی بن جاؤ تو آیا تم کو یہ احتمال بھی ہے کہ دنیا میں فساد پھارو اور آپس میں قطع رحمی کر دو یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا

فَأَصْبَحُوا عَمَىٰ أَبْصَارُهُمْ ۖ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ ۚ الْقُرْآنَ أَمْرًا عَلَىٰ قُلُوبٍ أَفْعَالُهَا ۝

پھر ان کو بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا سو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر ان کے نقل ہیں۔

## منافقین کی بد حالی اور نافرمانی

**تفسیر:** ان آیات میں اہل ایمان کا شوق جہاد منافقین کا حکم جہاد سن کر گھبراہٹ اور پریشانی میں پڑنے کا تذکرہ فرمایا ہے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی نئی سورت کیوں نازل نہ ہوئی یہ احکام جدیدہ کے نازل ہونے اور ان پر عمل کرنے کے اشتیاق میں کہہ دیتے تھے جب کوئی بھی سورت نازل ہوتی تو ایمان والے خوش ہو جاتے تھے لیکن جو منافقین تھے وہ نزول احکام سے ڈرتے رہتے خصوصاً جب کسی سورت میں قتال کا حکم نازل ہوتا تو بس ان کا برا حال ہو جاتا تھا ان کے دلوں میں مرض یعنی نفاق تھا نہ سچے دل سے رسول اللہ ﷺ کو اللہ کا رسول مانتے تھے نہ قرآن کو مانتے تھے نہ وقوع قیامت کا یقین رکھتے تھے لہذا جہاد والی سورت کا مضمون سن کر گھبراہٹتے تھے اور ان کا اثر ان کے چہروں سے ظاہر ہو جاتا تھا رسول اللہ ﷺ کو بھی انک نظر سے اس طرح دیکھتے تھے جیسے کسی پر موت کی غشی طاری ہو جائے یہ لوگ سمجھتے تھے اب رکھ رکھاؤ کے لئے جہاد میں جانا ہی پڑے گا دل چاہتا نہیں لیکن شریک ہونا ہی ہے بددلی کی شرکت تو مستقل عذاب ہے اور اگر میدان جہاد میں مقتول ہو تو یہ اس سے بڑا عذاب ہو گیا اسی کو فرمایا فَاُولَٰئِكَ لَهٗمْ کہ غمغریب ان کی کم بختی آنے والی ہے۔ صاحب معالم التنزیل رحمۃ اللہ لکھتے ہیں اولیٰ لک ای ولیک وقاربک ماتکرمہ۔ (یہ ”اولیٰ ہم“ کا ایک مطلب ہے اس صورت میں طاعہ و قول معروف علیحدہ جملہ ہوگا اور ایک صورت یہ ہے کہ اولیٰ ہم مبتدا ہو اور طاعہ اس کی خبر ہوگی کما ذکر البغوی، فلیجد بر)

طَاعَةُ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ (یعنی منافقین کو چاہئے کہ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نازل ہو تو تنگ دل ہونے کی بجائے کہیں کہ ہمارا کام تو فرمانبرداری کرنا اور اچھی بات کہنا یعنی دل سے اور زبان سے تسلیم کرنا ہے۔ قال صاحب معالم التنزیل ای لو اطاعوا وقالوا قولاً معروفاً کان امثلاً واحسن، ثم قال وقیل هو متصل بما قبله واللام بمعنى الباء فاولیٰ بهم طاعة الله ورسوله و قول معروف بالا جابة وهذا قول ابن عباس فی رواية عطاء (صاحب معالم التنزیل فرماتے ہیں یعنی اگر وہ اطاعت کرتے اور اچھی بات کہتے تو بہت ہی درست اور بہتر ہوتا پھر کہا کہ بعض نے کہا ہے یہ جملہ ماقبل سے متصل ہے اور لام باء کے معنی میں ہے یعنی ان کے لائق یہی تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے اور قبول کر کے اچھی بات کہتے اور یہ عطاء کی روایت کے مطابق حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے۔)

وَإِذْ أَعَزَمَ الْأَمْرَ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ (پھر جب مضبوطی کے ساتھ حکم آگیا، یعنی جہاد کرنے کا واقعی حکم ہو گیا تو اس وقت یہ لوگ اپنے دعویٰ ایمان اور دعویٰ فرمانبرداری میں سچے ثابت ہوتے تو یہ ان کے لئے بہتر تھا۔

فَمَنْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفِشُوا فِي الْأَرْضِ وَتُفْعِلُوا الْإِنْسَامَكُمْ (سو کیا یہ صورت حال پیش آنے والی ہے کہ اگر تم والی بن جاؤ تو زمین میں فساد کرو اور آپس میں قرابت کے تعلقات کو قطع کر دو)

صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ یہ منافقین کو خطاب ہے جسے استفہام کی صورت میں لایا گیا ہے اس میں ان کو توبخ ہے اور مطلب یہ ہے کہ تمہارے جو احوال معلوم ہیں یعنی دنیا پر حرص کرنا اور جہاد کی بات سے گھبرانا اور شرکت جہاد سے کترانا اس بات کو جاننے کے بعد کیا کوئی شخص تم سے سوال کر سکتا ہے کہ اگر تمہیں ولایت فی الارض مل جائے یعنی عامۃ الناس کے والی اور متولی بنادینے جاؤ اور تمہیں اقتدار سپرد کر دیا جائے تو تم زمین میں فساد کرو گے اور رشتہ داریوں کو کاٹ پیٹ کر رکھ دو گے یعنی تمہارا یہ فساد اتنا آگے بڑھے گا کہ تمہیں رشتہ داریوں کی پاسداری بھی نہ رہے گی اور آپس کے تعلقات کو ختم کر ڈالو گے یعنی تم سے یہ سوال کیا جاسکتا ہے اور سائل کا یہ سوال کرنا درست ہے۔

قال صاحب الروح: فالمعنى انکم لما عهد منکم من الاحوال الدالة على الحرص على الدنيا حيث امرتم بالجهاد الذى هو وسيلة الى ثواب الله تعالى العظيم كرهتموه وظهر علیکم ما ظهر حقاً بان يقول لکم کل من ذاقکم وعرف حالکم باهتولاء ماترون هل يتوقع منکم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض الخ. (صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ مطلب یہ ہے دنیا پر تمہاری حرص کے جو حالات ظاہر ہو چکے ہیں کہ تمہیں جہاد کا حکم ہو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب عظیم کا ذریعہ ہے تو تم نے اسے ناپسند کیا اور تمہاری جو حالت ہوئی سو ہوئی لہذا جو آدمی تمہیں جانتا ہو اور تمہارے حالات سے آگاہ ہو تو وہ تمہیں کہہ سکتا ہے کہ اے لوگو! تمہارا کیا خیال ہے اگر تمہیں والی بنایا جائے تو تم زمین میں فساد کرو گے۔)

یہ ترجمہ اور تفسیر اس صورت میں ہے جبکہ تو تسلیم کا ترجمہ والی اور صاحب اقتدار ہونے کا لیا جائے اور بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ اَعْرَضْتُمْ لیا ہے صاحب بیان القرآن نے اسی کو اختیار کیا ہے انہوں نے اس کو استفہام تقریری قرار دیا ہے اور مطلب یہ لکھا ہے کہ اگر تم جہاد سے کنارہ کش رہو تو تم کو یہ احتمال بھی چاہئے کہ تم دنیا میں فساد مچا دو گے اور آپس میں قطع قربت کر دو گے یعنی اگر جہاد کو چھوڑ دیا جائے تو مفسدین کا غلبہ ہو جائے گا اور کوئی انتظام باقی نہ رہے گا جس میں تمام مصلحتوں کی رعایت ہو اور ایسا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے فساد ہوگا اور حقوق کی اضاعت ہوگی۔

پھر فرمایا: اُولَئِكَ الَّذِیْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَاصْلَهُمْ وَاَعْلٰی اَصْلَهُمْ (یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے رحمت سے دور فرما دیا سو انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا لہذا ان سے قبول حق کی اور راہ حق پر چلنے کی کوئی امید نہ کی جائے۔)

## تدبر قرآن کی اہمیت اور ضرورت

اَفَلَا یَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ (کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے) اَفْزَعُ قُلُوبٍ اَفْزَعُهَا یا ان کے دلوں پر قفل ہیں اس میں توبخ ہے اور منافقوں کے حال کا بیان ہے مطلب یہ ہے کہ انہیں قرآن میں تدبر کرنا چاہئے تھا قرآن کے اعجاز اور معانی اور دعوت حق کے بارے غور کرتے تو نہ تو منافق ہوتے اور نہ وہ حرکتیں کرتے جو ان سے صادر ہوتی رہی ہیں ان کے تدبر نہ کرنے کا انداز یہ ہے کہ جیسے ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں۔

قال صاحب الروح: واصله الاقوال الیہا للدلالة على انها اقوال مخصوصة بها مناسبة لها

غیر مجانسة لسان الاقفال المعهودة. (صاحب روح المعانی فرماتے ہیں اقبال کی ان کی طرف اضافت اس بات پر دلالت کرنے کے لئے ہے کہ یہ مخصوص تالے ہیں جو انہیں کے مناسب ہیں مشہور و معروف تالوں کی طرح ہیں۔)

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَنَلَىٰ

بے شک جو لوگ پشت پھیر کر پلٹ گئے اس کے بعد کد ان کے لئے ہدایت ظاہر ہو گئی تھی شیطان نے ان کے سامنے مزین کر دیا اور انہیں تاخیر والی باتیں

لَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ يَأْتُهُمُ قَالُوا الَّذِينَ كُفَرُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأُمْرِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ

سجھا دیں یہاں جہ سے کہ انہوں نے ان لوگوں سے کہا جنہوں نے اللہ کے نازل کئے ہوئے فرمان کو ناپسند کیا کہ ہم بعض کاموں میں تمہاری اطاعت کریں گے اور اللہ ان کے

إِسْرَارُهُمْ ۖ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يُضْرَبُونَ ۖ وَجُوهُهُمْ وَأَدْبَارُهُمْ ۚ ذَٰلِكَ يَأْتُهُمُ اتَّبِعُوا

غیبہ باتیں کرنے کو جانتا ہے سنان کا کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی جانوں کو قبض کرتے ہوئے ان کے چہرہ اور ان کے پشتوں پر مار رہے ہوں گے یہ اس جہ سے کہ انہوں نے اس چیز کا اتباع کیا

مَا اسْتَخَطَّ اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَاُحْبِطَ أَعْمَالُهُمْ ۚ

جس نے اللہ کو ناراض کر دیا اور انہوں نے اللہ کی خوشی کو ناپسند کیا پھر اس نے ان کے اعمال کو روک دیا

## مرتدین کیلئے شیطان کی تسویل اور موت کے وقت ان کی تعذیب

**تفسیر:** حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان آیات میں بھی منافقین کا ذکر ہے ان سے جو مخالفانہ اور باغیانہ حرکتیں ظاہر ہوئیں ان کی وجہ سے ان کے لئے دعوائے اسلام پر باقی رہنے کا بھی کوئی راستہ نہ رہا اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے اہل کتاب مراد ہیں جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کو آپ کے ان اوصاف کو دیکھ کر پہچان لیا جو اپنی کتابوں میں پاتے تھے پھر بھی کفر پر جبر ہے (اس کو ارتدو اعلیٰ ادبار ہم سے تعبیر فرمایا کیونکہ آں حضرت ﷺ کی تشریف آوری سے پہلے دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم ضرور اتباع کریں گے اس دعوے کے مطابق جو کچھ کرنا تھا اس سے پھر گئے) آیات کا نزول جن لوگوں کے بارے میں بھی ہوا الفاظ کا عموم ہر طرح کے مرتدین کو شامل ہے ارشاد فرمایا کہ بے شک جو لوگ پشت پھیر کر دین حق سے پھر گئے حالانکہ ان پر ہدایت واضح ہو گئی تھی شیطان نے ان کا ناس کھویا اس نے کفر اور ارتد کو اور برے اعمال کو ان کے سامنے اچھا کر کے پیش کیا حق اور حقیقت کو جانتے ہوئے دنیا کی ظاہری زینت کو انہوں نے ترجیح دی شیطان نے مزید یہ کیا کہ ان کو یہ بتایا کہ دیکھو کہ ابھی دنیا میں تمہیں بہت رہنا ہے اور زیادہ دن جینا ہے اسلام قبول کر کے یہ لمبی زندگی آرام سے کیسے گزارو گے؟ دیکھو جو لوگ اسلام قبول کر لیتے تھے کتنی تکلیفوں میں پڑ جاتے ہیں۔

ذَٰلِكَ يَأْتُهُمُ قَالُوا الَّذِينَ كُفَرُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأُمْرِ ۚ اس میں ذَٰلِكَ کا مشار الیہ اور أَنَّهُمْ کی ضمیر کا مرجع کیا ہے اور الَّذِينَ كُفَرُوا سے کون لوگ مراد ہیں اور بَعْضِ الْأُمْرِ سے کیا مراد ہے اس بارے میں مفسرین نے متعدد اقوال لکھے ہیں بسَّائِهِمْ کی باکوسیہ لینے کی صورت میں وہی قول قرین قیاس ہوگا جس سے ذَٰلِكَ کا مشار الیہ مسبب اور باکا

مداخل سبب بن سکتا ہو علامہ قرطبی نے ذلک کا اشارہ الیہ اَمَلٰی لَہُمْ کو قرار دیا ہے اور مطلب یہ بتایا ہے کہ شیطان کا انہیں لمبی عمر والی باتیں سمجھانا اس سبب سے ہے کہ انہوں یعنی منافقوں اور یہودیوں نے مشرکین سے کہا جن کو اللہ کا نازل فرمودہ ناگوار ہے کہ ہم بعض امور میں تمہاری اطاعت کر لیں گے یعنی محمد رسول اللہ ﷺ کی مخالفت میں (مثلاً) آپ سے دشمنی رکھنے میں اور جہاد میں شرکت نہ کرنے میں اور دین اسلام کو کمزور کرنے میں ہم تمہاری بات مان لیں گے تمہاری سب باتوں کی اطاعت کا وعدہ نہیں کرتے یہ لوگ کافر تو پہلے ہی سے تھے مزید صفات کفریہ کا اظہار اور اعلان بھی کر دیا اس لئے شیطان کو انہیں ڈھیل دینے اور کفر میں آگے بڑھانے کا موقع مل گیا (تفسیر قرطبی ۱۶ ج ۲۵۰)

معالم المتزیل میں بھی یہ تفسیر لکھی ہے لیکن ذلک کا اشارہ الیہ متعین نہیں کیا صاحب روح المعانی اس سے متفق نہیں ذلک کا اشارہ اَمَلٰی لَہُمْ ہے لیکن احقر کے نزدیک تمام احتمالات میں یہی رائج ہے صاحب بیان القرآن نے ذلک کا اشارہ الیہ ارداعلی الادبار کو لیا ہے اور سَطِیغُکُمْ فِی بَعْضِ الْأَمْرِ کا یہ مطلب لیا ہے کہ منافقین نے رؤسایہود سے کہا کہ ہم عدم اتباع ظاہر کرنے کے بارے میں تمہارا حکم نہیں مانیں گے کیونکہ وہ ہماری مصلحت کے خلاف اور عدم اتباع باطن کا جو حکم دیتے ہو ہم اس میں تمہارا اتباع کر لیں گے کیونکہ ہم اس میں تمہارے ساتھ ہی ہیں۔

## موت کے وقت کافر کی مار پیٹ

پھر فرمایا فَکَيْفَ إِذَا تَوَفَّيْتُمُ الْمُتَنَبِّئِينَ (الآیۃ) اس میں منافقین کی موت کے وقت کی بد حالی کا بیان ہے مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا میں ان کو عذاب نہ ہوا تو یہ نہ سمجھیں کہ وہ عذاب سے محفوظ ہو گئے ہر کافر کو عذاب ہونا ہی ہے جو موت کے وقت سے ہی شروع ہو جاتا ہے ارشاد فرمایا کہ ان منافقین کا کیا حال ہو گا جب فرشتے ان کی روح قبض کر رہے ہوں گے اور ان کے چہروں اور پشتوں کو مار رہے ہوں گے صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ دنیا میں یہ لوگ جہاد سے بچ رہے ہیں ان کا یہ بچاؤ کتنے دن چلے گا بالآخر مر س گے اور موت کے وقت سے ہی ان کی پٹائی شروع ہو جائے گی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ جو کوئی بھی شخص گناہگاری کی حالت میں مرتا ہے فرشتے اس کی موت کے وقت اس کے چہرے پر اور پچھلے حصہ پر مارتے رہتے ہیں اس مار پیٹ کو حاضرین محسوس نہیں کرتے مگر ایسا ہوتا ضرور ہے جیسا کہ برزخ کے احوال مرنے والے پر گزرتے ہیں اور دیکھنے والوں کو نظر نہیں آتے سورۃ الانفال میں فرمایا۔

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِیۡنَا نَکَّرُوا الْمَلَائِکَۃَ یُضْرِبُونَ وُجُوۡہَہُمۡ وَاَذۡبَاحُہُمۡ وَذُوقُوا عَذَابَ الْعَوۡثِیِّ ذٰلِکَ بِمَا قَدَّمَتۡ اَیۡدِیۡکُمۡ وَاَنَّ اللّٰہَ لَیۡسَ بِظَٰلِمٍ لِّعٰلَمِیۡنٍ (اور اگر آپ دیکھیں جب کہ فرشتے کافروں کی جان قبض کرتے ہوئے ان کے مونہوں پر اور ان کی پشتوں پر مارتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ جلنے کا عذاب چکھ لو یہ ان اعمال کی وجہ سے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے)

ذٰلِکَ بِمَا کُنتُمۡ تَبۡعُوۡا اِن کی یہ سزا اس لئے ہے کہ انہوں نے اس چیز کا اتباع کیا جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے اور اس کی رضا مندی کو اچھا نہ جانا سوا اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیئے (یعنی انہوں نے کفر کو اختیار کیا) جو اللہ

تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے) اور ایمان قبول نہ کیا (جو اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کا سبب ہے) اللہ کو راضی کرنے والے عمل سے ان کو نفرت اور کراہت تھی ان کے موت کے وقت یہ سزا ملے گی اور اس کے بعد بھی برا عذاب ہی عذاب ہے اور انہوں نے دنیا میں جو کوئی عمل ایسا کیا تھا جس پر ثواب دیا جاسکے ان اعمال کو بھی اللہ نے اکارت کر دیا یعنی آخرت میں ان اعمال کا کوئی فائدہ نہ پہنچے گا۔

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ ۖ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ

کیا ان لوگوں نے خیال کیا ہے جن کے دلوں میں مرض ہے کہ اللہ ان کے کیوں کو نہ نکالے گا اور اگر ہم چاہتے تو آپ کو انہیں دکھا دیتے

فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ ۖ وَتَعَرَّفْتَهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ۖ وَلَكِن لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ

سو آپ انہیں ان کی نشانی سے پہچان لیتے اور آپ انہیں ضرور بالضرورات کرنے کے ڈھنگ سے پہچان لیں گے اور اللہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے اور بلاشبہ ہم ضرور تم کا دکھائیں گے

حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجْهِدِينَ مِنْكُمْ وَالضَّيِّدِينَ ۖ وَلَيُبْلَوَنَّ أَهْبَارُكُمْ

تاکہ ہم تم میں سے مجاہدین کو اور مہر کرنے والوں کو جان لیں اور تاکہ ہم تمہارے اعمال کو جانچ لیں۔

**منافقین کے دلوں میں مرض ہے طرز کلام سے ان کا نفاق پہنچانا جاتا ہے!**

**تفسیر:** جو لوگ منافقین تھے انہیں اسلام سے اور مسلمانوں سے دشمنی تھی بظاہر دوست بنے ہوئے تھے اور اندر سے دشمن تھے اس دشمنی کا کسی نہ کسی طرح ظہور ہوتا رہتا تھا لیکن ان کا دعویٰ یہی تھا کہ ہم مسلمان ہیں یہ لوگ قسمیں کھا کھا کر مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور تم میں سے ہیں اور یوں سمجھتے تھے کہ ہمارا باطن پوشیدہ رہے گا اور اسی طرح اپنے کفر کو چھپا کر مسلمانوں کے ساتھ چلتے رہیں گے اور ان سے جو منافع متعلق ہیں حاصل کرتے رہیں گے یہ ان کا خیال تھا منافق اپنے نفاق کو چھپاتا ہے اور یوں سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہوشیار اور چالاک ہوں اللہ تعالیٰ شانہ نے ایک عرصہ تک اشتیاق کی تعین کر کے ان کی پہچان نہیں کرائی ہاں ان کے احوال اور اعمال بیان فرمادیئے سورۃ برأت میں ان کے تفصیلی احوال بیان فرمائے ہیں اسی لئے اس سورت کا ایک نام فاضحہ..... (یعنی رسوا کرنے والی بھی ہے بعض دوسری سورتوں میں بھی ان کی حرکتیں اور ان کے اعمال بیان فرمائے ہیں وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَاعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ ۖ وَتَعَرَّفْتَهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ

(اور اگر ہم چاہیں آپ کو واضح طور پر ان منافقین میں سے ہر ایک کی الگ الگ پہچان کر ادیں مگر اس کی ضرورت نہیں ہے) آپ ان کے رنگ و ڈھنگ سے انہیں پہچان لیں گے ان کا لب و لہجہ اور بات کرنے کا ڈھنگ بتا دے گا کہ یہ منافق ہیں اندر سے مومن نہیں ہیں کیونکہ غیر مخلص کا طریقہ کار اور طرز زندگی اور میل جول اور بول چال کا ڈھنگ مخلصین سے مختلف ہوتا ہے بلاوجہ قسمیں کھانا رک رک بات کرنا سوچ سوچ کر جواب دینا تاکہ الفاظ اور طرز گفتگو سے مخاطب کو بدعقیدگی کا پتہ نہ چل جائے یہ منافقین کے ڈھنگ ہوتے ہیں ایک عرصہ تک تو ایسا ہی رہا پھر بالآخر ایک دن وہ آیا کہ یہ لوگ سختی اور ذلت کے ساتھ مسجد نبوی ﷺ سے نکال دیئے گئے جس کی تفصیل سیرت ابن ہشام کے جلد ثانی کے اوائل میں مذکور ہے۔

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ (اور اللہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے) اسے اہل ایمان کے اخلاص کا اور اہل نفاق کی منافقت اور مکر و فریب کا علم ہے منافقین یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم مسلمانوں سے اپنی منافقت کو چھپا کر اپنے ارادوں میں کامیاب ہوں گے اگر مومنین مخلصین کو پتہ نہ چلا تو اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ علم ہے اس کے عذاب اور عقاب سے کیسے مطمئن ہو گئے؟

وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ لَا يَرْجُونَ (یعنی اعمال شرعیہ جہاد وغیرہ کے جو احکام نافذ کئے جاتے ہیں ان کے ذریعہ تمہاری آزمائش کی جاتی ہے ہم ضرور ضرور تمہاری آزمائش کریں گے تاکہ مخلص مجاہدین اور صابریں کا ظاہری طور پر علم ہو جائے وَنَبْلُوْا خُبَارَكُمْ (اور تاکہ ہم تمہارے احوال کو جانچ لیں)۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ

بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستہ سے روکا اور رسول کی مخالفت کی اس کے بعد کہ ان کے لئے ہدایت ظاہر ہو گئی

لَنْ يَضُرَّوْا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحِطُّ أَعْمَالُهُمْ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

یہ لوگ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکیں گے اور وہ عقرب ان کے اعمال کو اکارت کر دے گا اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی

وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ

اور اپنے اعمال کو باطل نہ کر دے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستہ سے روکا پھر وہ اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر تھے تو ہرگز اللہ ان کی

يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۚ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ وَأَنْتُمْ لَا عَلَوْنَ ۗ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَبْرِكُمْ

مغفرت نہ فرمائے گا سو تم سست نہ بنو اور صلح کی طرف مت بلاؤ اور تم غالب رہو گے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہارے

أَعْمَالَكُمْ ۚ

اعمال میں ہرگز کمی نہ کرے گا۔

کافر لوگ اللہ تعالیٰ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، ان کے اعمال جبط کئے جائیں گے

تفسیر: اوپر چار آیات کا ترجمہ کیا گیا ہے پہلی آیت میں فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا اور رسول کی مخالفت کی اور ہدایت ظاہر ہونے کے بعد اس سے پھر گئے ایسے لوگ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے (یہ لوگ اپنی ہی جانوں کو نقصان پہنچائیں گے اور انہیں قیامت کے دن بربادی کا سامنا ہوگا) دنیا میں انہوں نے جو کوئی عمل ایسا کیا تھا جس پر اللہ کی طرف سے اہل ایمان کو ثواب ملتا ہے قیامت کے دن کافروں کو اس کا کچھ بھی ثواب نہ ملے گا یہ اعمال بالکل اکارت چلے جائیں گے۔

دوسری آیت میں یہ حکم فرمایا کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو اعمال صالحہ



سابقہ ایمان میں شک کرنے اور کفر و شرک اختیار کرنے اور بعض کبیرہ گناہوں کی وجہ سے باطل ہو جاتے ہیں یعنی ان کا ثواب ختم ہو جاتا ہے صاحب روح المعانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ لا تبطلوا بالربا والسمعة (کریا کاری اور شہرت کی طلب کے ذریعہ اپنے اعمال کو باطل نہ کرو) آیت عام ہے اس کے مفہوم میں ہر وہ چیز داخل ہے جس سے اعمال باطل ہو جاتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان فرمایا کہ ہم یعنی صحابہ کرام یہ سمجھتے تھے کہ ہر نیکی ضرور مقبول ہوتی ہے جب آیت کریمہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم نازل ہوئی تو ہم نے کہا کہ وہ کیا چیز ہے جو ہمارے اعمال کو باطل کرے گی پھر ہم نے سمجھ لیا کہ اسی سے کبیرہ گناہ اور فواحش مراد ہیں یعنی ان سے اعمال صالحہ باطل ہو سکتے ہیں اس کے بعد جب ہم کسی کو دیکھتے تھے کہ کوئی گناہ یا فحش کام اس سے سرزد ہو گیا تو ہم کہتے تھے کہ یہ شخص تو ہلاک ہو گیا یہاں تک کہ آیت ان الله لا یغفر الذنوب الا لیمن بآیہہ و یغفر ما دُونَ ذلک لمن یشاء نازل ہوئی تو اس کے بعد ہمارا طریقہ یہ ہوا کہ جب کوئی شخص کبیرہ گناہ کر لیتا تھا تو اس کے بارے میں مواخذہ کا خوف رکھتے تھے (یعنی اس کا مواخذہ یقینی جانتے تھے) اور جس سے کبیرہ گناہ سرزد نہ ہوتا اس کے بارے میں بخشش کی امید رکھتے تھے۔ (ذکرہ صاحب الروح ص ۷۹ ج ۲۶)

تیسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستہ سے روکا پھر حالت کفر میں مر گئے اللہ تعالیٰ ہر گز ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا ہاں اگر کسی کا کفر نے اسلام کی مخالفت کی اور اللہ کے دین سے روکتا رہا پھر توبہ کر لی یعنی اسلام قبول کر لیا پھر حالت اسلام ہی میں مر گیا تو اس کے زمانہ کفر کا سب کچھ معاف ہو جائے گا اسی بات کو بیان کرتے ہوئے رسول اللہ ﷺ نے حضرت عمرو بن عاص کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا اما علمت یا عمرو ان الاسلام یهدم ما کان قبلہ مکذوبة المصالح ص ۱۱۲ از مسلم (اے عمرو کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام اپنے سے پہلے کے تمام گناہوں کو) جو زمانہ کفر میں کئے ختم کر دیتا ہے

## نفل نماز روزہ فاسد کرنے کے بعد قضاء واجب ہونا

حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نفل نماز یا نفل روزہ شروع کر کے توڑ دے تو اس کی قضاء واجب ہے اس کے دلائل بھی لکھے ہیں ان میں سے آیت بالا کو بھی دلیل میں پیش کیا ہے تشریح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے اعمال کو باطل نہ کرو جب کسی نے ایک رکعت پڑھ لی یا گھنٹہ دو گھنٹہ روزہ رکھ لیا پھر توڑ دیا تو اس سے وہ عبادت بیچ میں رہ گئی جس کو شروع کیا تھا پوری عبادت کر کے کسی عمل سے باطل کر دے یا پوری کرنے سے پہلے ہی باطل کر دے دونوں طرح سے ابطال کی ممانعت پر آیت کریمہ کی دلالت ہوتی ہے شیخ ابن ہمام رحمہ اللہ القدر میں لکھتے ہیں قال تعالیٰ ولا تبطلوا اعمالکم و ہوا عم من ابطالها قبل اتمامها بالافساد و بعدہ بفعل ما یحبطہ و نحوہ۔

## کمزور نہ بنو اور دشمنوں کو صلح کی دعوت نہ دو

چوتھی آیت میں فرمایا فلا یغنیوا ولا تدعوا الی السلمہ (اے مسلمانو! تم ہمت مت ہارو اور اپنے دشمنوں کو صلح کی طرف مت بلاؤ) اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ جب کافروں سے جنگ ٹھن جائے تو تم جنگ پر آمادہ رہو اور جہاد فی سبیل اللہ میں کوئی

کمزوری نہ کھاؤ کمزور پڑ جانے میں یہ بھی داخل ہے کہ خود سے دشمنوں کو صلح کی دعوت دی جائے اگر دشمن صلح کی بات اٹھائیں تو بعض احوال میں صلح کر لینا جائز ہے جس میں اسلام اور مسلمانوں کا نفع ہو جیسا کہ سورۃ انفال میں فرمایا **وَإِنْ جَسَدًا لِّلسَّلَامِ فَاجْنَبْهُ** لہذا توکل علی اللہ مزید توضیح کے لئے سورۃ انفال کی مذکورہ بالا آیت کی تفسیر دیکھ لی جائے۔

## تم ہی بلند رہو گے اگر مومن ہو

پھر فرمایا **وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ** یہاں صرف یہی الفاظ ہیں اور سورۃ آل عمران میں فرمایا ہے **وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ** اس میں یہ وعدہ فرمایا کہ تم غالب رہو گے اگر تم مومن ہو لہذا صفات ایمان تقویٰ جب آخرت اور فکر آخرت امانت داری ادائے فرائض و واجبات ترک معاصی کی صفات سے متصف رہیں اگر ایسا ہوگا تو مسلمان ہی غالب رہیں گے اگر ایمانی صفات کھو بیٹھیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دشمنوں پر غلبہ پانے کا وعدہ نہیں بعض حالات میں قلت عدد کی وجہ سے جو ترک قتال کی اجازت ہے وہ اس کے معارض نہیں اس بات کے سمجھنے کے لئے آیت کریمہ **الَّذِينَ خَفَعَتِ اللَّهُ عَنْكَ رِجْلَهُ وَاعْلَمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا** کی تفسیر دیکھ لی جائے۔

پھر فرمایا **وَاللَّهُ مَعَكُمْ** اور اللہ تمہارے ساتھ ہے لہذا جم کر پوری قوت کے ساتھ دشمنوں سے مقابلہ کریں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں اور اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین کی مدد کرنے کی نیت سے قتال کریں اسی سورت کے پہلے رکوع میں گزر چکا ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَصُورُوا اللَّهَ يَصْخَرُ كَمَا يَصْخَرُ الَّذِينَ أَقْدَمُ** (اے ایمان والو اگر تم اللہ کی یعنی اس کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے قدموں کو جمادے گا۔

پھر فرمایا **وَلَنْ يَتْرَكَنَّكُمْ أَغْمَاكُمْ** (اور وہ تمہارے اعمال میں ہرگز کمی نہ کرے گا) وہ ہر عمل صالح کا ثواب دے گا بشرطیکہ اسے باطل نہ کر دیا ہو اللہ تعالیٰ نے اعمال صالحہ پر وعدہ فرمایا ہے کہ ایک عمل کا ثواب کم از کم دس گنا دیا جائے گا اور اس سے زیادہ جتنا چاہے اپنے فضل و رحمت سے عطا فرمائے گا۔ **فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا**

قال القرطبي في تفسيره **وَلَنْ يَتْرَكَنَّكُمْ أَغْمَاكُمْ** ای لن ينقصكم، عن ابن عباس وغيره ومنه الموتور الذي قتل له قتيل فلم يدرک بدمه، تقول منه وتره يتره وتره وتره ومنه قوله عليه السلام "من فاتته صلاة العصر فكانما وتره اهله وماله" ای ذهب بهما. (علامہ قرطبی اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں وَلَنْ يَتْرَكَنَّكُمْ أَغْمَاكُمْ یعنی تمہارے اعمال میں کمی نہ ہوگی حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے اور اس سے موتور ہے وہ شخص جس کا کوئی آدمی قتل ہو گیا اور اس کا خون بہا اسے نہ ملا ہو تم کہتے ہو وتر میتر، وتر آخرۃ اور اسی سے حضور ﷺ کا ارشاد ہے جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی گویا اس کا اہلاد و مال (وتر) ہلاک ہو گیا۔)

**إِنَّمَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَ وَإِنْ تُوْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ**

دنیا دلی زندگی بس لہو و لعب ہے اور اگر تم ایمان پر جسے اور تم نے تقویٰ اختیار کیا تو وہ تمہیں تمہارے اجور عطا فرمادے گا اور وہ تم سے

**أَمْوَالَكُمْ إِنْ يَسْأَلْكُمْوهَا فَيُخَفِّكُمْ تَبَخَّلُوا وَبُخْلُكُمْ هَآءُنْتُمْ هَؤُلَاءِ**

تمہارے مال طلب نہ فرمائے گا اگر وہ تم سے مال طلب کرے پھر انتہاء درجہ تک طلب فرمائے تو تم بخل کرنے لگو گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی

تُدْعُونَ لِتُقْفُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبِكُمْ مَنِ يَبْخُلُ وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلْ

ناگواری کو ظاہر فرماوے گا خبردار تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی دعوت دی جاتی ہے سو تم میں سے بعض لوگ بخل کرتے ہیں اور جو شخص بخل کرتا ہے تو وہ

عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا

اپنی جان کی طرف سے بخل کرتا ہے اور اللہ غنی ہے تم محتاج ہو اور اگر تم روگردانی کرو گے تو اللہ تمہارے بدلہ دوسری قوم کو لے آئے گا پھر

يَكُونُوا أَمْنًا لَكُمْ

وہ تمہارے جیسے نہ ہوں گے۔

## دنیاوی زندگی لہو و لعب ہے، کنجوسی کا وبال بخل کر نیوالے پر ہی ہے اللہ غنی ہے اور تم فقراء ہو!

**تفسیر:** گزشتہ آیت میں مومنین سے خطاب تھا کہ تم ست نہ بنو اور کافروں سے صلح کرنے کی طرف نہ جھکو اللہ

تمہارے ساتھ ہے وہ تمہارے اعمال کو ضائع نہ فرمائے گا ان آیات میں مسلمانوں کو چند تنبیہات فرمائی ہیں کچھ عام احوال سے اور کچھ فی سبیل اللہ اموال خرچ کرنے سے متعلق ہیں اول تو یہ فرمایا کہ دنیا کھیل ہے نفوس کو بہلانے والی چیز ہے سورۃ العنکبوت میں بھی یہ مضمون ہے وہاں یہ بھی فرمایا ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِیَ الْحَیْوَانُ (اور بلاشبہ آخرت والا گھر ہی زندگی ہے) کھیل کود سے مقاصد حقیقیہ حاصل نہیں ہوتے مقصد حقیقی یعنی ہمیشہ نعمتوں اور فرحتوں اور لذتوں میں رہنا یہ

موت کے بعد دار آخرت ہی میں نصیب ہو گا اسی کے لئے کوشش کرنا لازم ہے انہیں اعمال میں مشغول ہو جو وہاں کام آئیں پھر فرمایا وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجْرًا كَثِيرًا اور اگر تم ایمان پر جمے رہے اور تقویٰ اختیار کیا (جس میں فرائض اور واجبات کی ادائیگی اور ترک معاصی سب داخل ہے) تو اللہ تمہارے اعمال کے اجور عطاء فرمائے گا مفسر قرطبی نے اس

کے کئی معنی لکھے ہیں اول یہ کہ اللہ تمہیں یہ حکم نہیں دے گا کہ پورے اموال زکوٰۃ میں دے دو، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اموال کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے اس کا ثواب تمہیں کو مل جائے گا اور ایک یہ مطلب لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کسی جگہ مال خرچ کرنے کا حکم ہوتا ہے تو وہ تمہارے اموال کا سوال نہیں ہے وہ تو اسی کا مال ہے اسی نے تم کو عطاء فرمایا وہی مالک حقیقی ہے اپنی رضا کے لئے جو مال بھی خرچ کرنے کا حکم فرمائے اس پر راضی رہنا چاہئے

کیونکہ اس نے اپنا مال طلب فرمایا۔ (لا یسئلكم اموالک کا ترتب ان تؤمنوا پر جیسا کہ اس کے جزا ہونے کا مقتضا ہے بایں معنی نہیں ہے کہ اگر ایمان نہ لاؤ تو تمہارا مال لے لے گا بلکہ بایں معنی ہے کہ ایمان نہ لانے والے سے تو ہماری کوئی خصوصیت ہی نہیں اس میں تو سوال اموال کا احتمال ہی نہیں، البتہ شاید ایمان لانے کی صورت میں ڈرتا کہ کہیں دوستی میں فرمائش نہ ہونے لگیں جیسا کہ اکثر اہل دنیا میں مشاہدہ کیا جاتا ہے)

إِنْ يَسْئَلْكُمُوهَا فَيُحْسِنُوا كَلِمَتَكُمْ فَيَنْعَمُوا وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْ أَنْ يُعْطَوْا فَذَلِكُمْ (اگر وہ تم سے تمہارے مال طلب کرے اور انتہاء درجہ تک طلب

فرمائے تو تم بخل کرو گے اور اللہ تعالیٰ تمہاری ناگواری کو ظاہر فرمادے گا یعنی تم اس صورت میں مال خرچ نہ کرو گے اور خرچ کرنے کا حکم ہوتے ہوئے خرچ نہ کرنے کی ظاہری بے عملی سے تمہارے اندر کی ناگواری ظاہر ہو جائے گی اور یہ بات ظاہر ہو جائے گی کہ حکم کے مطابق عمل کرنے پر دل سے راضی نہیں ہو (مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے طور پر 1/40 خرچ کرنے کا حکم ہوا ہے اسے خرچ کرنے سے بھی جان چراتے ہیں دینداری کے دعویدار بھی پورا حساب کر کے پوری زکوٰۃ دیتے کو تیار نہیں اگر پورے اموال کا خرچ کرنے کا حکم ہوتا تو کیا حال ہوتا خوب سمجھ لیا جائے اس مضمون کو بعد والی آیت میں بیان فرمایا ارشاد ہے **هَآءِذْ تُفَكِّهَوْلَآءِ لِنُفِیْهُنَّ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ فَبِئْسَ لَکُمْ مِّنْ یَّحْسِلُ** (خبردار تم ایسے لوگ ہو کہ تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی دعوت دی جاتی ہے تو تم میں سے بعض وہ ہیں جو تجوی کرتے ہیں) **وَمَنْ یَّحْسِلْ فَانَّمَا یَحْسِلُ عَنْ نَفْسِہٖ** (اور جو شخص بخل اختیار کرے گا کنجوس بنے گا تو وہ خود اپنے ہی سے بخل کرتا ہے یعنی اپنی ہی جان کو خرچ کرنے کے منافع سے محروم رکھتا ہے خرچ نہ کرنے کا ضرر خود اسی کو پہنچتا ہے۔

**وَاللّٰهُ الْغَنِیُّ وَانْتُمْ الْفُقَرَاءُ** (اور اللہ غنی ہے اور تم محتاج ہو) اللہ تعالیٰ تمہیں عطاء فرماتا ہے اسے نہ حاجت ہے نہ ضرورت ہے وہ بے نیاز ہے تم سب اس کے محتاج ہو اس غلط فہمی میں کوئی نہ رہے کہ شرعی قوانین کے مطابق جو اموال خرچ کرنے کا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی نفع ہے (العیاذ باللہ)

## اگر تم دین سے پھر جاؤ تو اللہ دوسری قوم کو لے آئے گا

آخر میں فرمایا **وَإِنْ تَوَلَّوْا یَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَیْرُکُمْ** (اور اگر تم روگردانی کرو دین اسلام کی طرف سے بے رخی اختیار کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہارے بدلہ دوسری قوم کو لے آئے گا)

**لَهُمْ لَا یُکَلِّفُوا اَنْفُسَکُمْ** (پھر وہ تمہارے جیسے نہ ہوں گے) اس میں ان مسلمانوں کو جو نزول آیت کے وقت موجود تھے خصوصاً اور تمام بعد آنے والے مسلمانوں کو عموماً تنبیہ فرمادی کہ کوئی شخص یہ نہ سمجھ لے کہ دین اسلام کی نصرت اور اس کے اعمال انفاق مال اور جہاد فی سبیل اللہ وغیرہ۔

مجھ پر یا میری قوم پر موقوف ہے اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے وہ خالق اور مالک بھی ہے غنی بھی ہے قادر مطلق بھی ہے جس کو چاہے جس کام میں چاہے استعمال فرما سکتا ہے۔

## عجمی اقوام کی دینی خدمات

سنن ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ کون لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اگر ہم لوگ روگردانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے بدلہ ان کو اختیار فرمائے گا پھر وہ ہمارے جیسے نہ ہوں گے اس وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ موجود تھے آپ نے فرمایا حضرت سلمان فارسی کے موٹے پر اور ایک روایت میں ہے کہ ان کی ران پر ہاتھ مار کر فرمایا کہ یہ شخص اور اس کی قوم اور ایک روایت میں ہے کہ یہ اور ان کے اصحاب قسم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر ایمان ثریا (ستاروں) پر

بھی لٹکا ہوا تو فارس کے بہت سے لوگ اس کو حاصل کر لیں گے۔ (سنن ترمذی ابواب تفسیر سورۃ محمد ﷺ)

درحقیقت ایسا ہی ہوا جب اہل عرب کو اسلامی خدمات کی طرف توجہ نہ رہی تو اللہ جل شانہ نے فارس کے شہروں اور بستیوں سے ایسے افراد پیدا فرمائے جنہوں نے خوب پڑھ کر علوم اسلامیہ کی خدمت کی حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہی کو لے لو جن کا علم اور تقویٰ اور شان تفقہ عوام اور خواص سب کو معلوم ہے پھر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پڑھ لو اور مکی بن ابراہیم بلخی کا ترجمہ بھی پڑھ لو جو امام ابوحنیفہ کے شاگرد تھے ان سے امام بخاری نے گیارہ ثلاثیات کی روایت کی ہے ابو عبیدہ قاسم بن سلام ہروی، نعیم بن حماد مروزی، اسحق بن ابراہیم مروزی، زہیر بن حرب قہیبہ بن سعید بلخی، ابو جعفر محمد بن مہران رازی، ابو زکریا بلخی بن موسیٰ انجلی السجستانی، حافظ زکریا بن یحییٰ بلخی، امام ابو زرہ رازی، امام ابو حاتم الرازی، امام ابو داؤد، (صاحب السنن) سلیمان بن اشعث السجستانی، صاحب السنن امام ترمذی ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ، امام ابو عبد اللہ محمد بن یزید القزوینی ابن ماجہ، صاحب السنن امام احمد بن شعیب النسائی، امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری الحافظ الکبیر محمد بن اسحق بن خزیمہ النیساپوری الحافظ ابو عبد اللہ محمد بن یحییٰ بن مندہ الاصہبانی بلاد فارس کے رہنے والے تھے، حضرت امام مسلم بن الحجاج (صاحب اسح) بھی نیساپوری تھے ان کو قشیری بھی کہا جاتا ہے تہذیب الاسماء واللغات میں لکھا ہے کہ یہ قبیلہ بنی قشیر کی طرف منسوب ہے جو عرب کا ایک قبیلہ تھا اگر وطن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اہل عجم کی فہرست میں ان کا اسم گرامی بھی ذکر کیا جاسکتا ہے۔

یہ چند اسماء محدثین کرام کے ہم نے حافظ ذہبیؒ کی تذکرۃ الحفاظ سے منتخب کر کے لکھے ہیں مزید مطالعہ کیا جائے تو فارس کے محدثین کی بڑی تعداد سامنے آجائے گی حافظ جلال الدین سیوطیؒ نے جو تذکرۃ الحفاظ کا مکملہ لحظہ الاحاطہ کے نام سے لکھا ہے اس سے بھی انتخاب کر لیا جائے حافظ ابوالقاسم طبرانی، صاحب المعاجم اور حافظ ابو حاتم محمد بن حبان البستی اور ابن السنی ابو بکر دینوری اور حافظ ابو نعیم اصہبانی اور صاحب السنن امام بیہقی کا اضافہ تو کر ہی لیں۔

یہ ہم نے چند محدثین کرام کے اسماء گرامی لکھے ہیں جو بلاد فارس کے رہنے والے تھے دوسرے بلاد عجم کے محدثین ان کے علاوہ ہیں اہل مغرب کے جن حضرات نے کتاب و سنت کی خدمت کی ہے ان کو بھی فہرست میں لے لیا جائے، حضرت امام ابو عمرو دانی، امام شاطبی، امام ابن الجوزی کے اسماء گرامی کو بھی فہرست میں لکھ لیں مفسرین عظام اور فقہائے کرام کا تذکرہ باقی ہے ان کی بھی فہرست بنائی جائے امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ کے فقہ کو آگے بڑھانے والے تو اہل فارس ہی تھے جنہیں علمائے ماوراءالنہر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

اسلام قبول کرنے کے بعد تاتاریوں نے جو اسلام کی خدمت انجام دی ہیں اور ترکوں نے جو صلیبی جنگیں لڑی ہیں ان کو بھی ذہن میں رکھنا چاہئے یَسْتَبْدِلُونَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ کے عموم میں تمام عجمی اقوام آجاتی ہیں رسول اللہ ﷺ نے بطور مثال فارس کا تذکرہ فرمایا ہے۔

وَهَذَا آخِرُ الْكَلَامِ فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الْبَرَّةِ الْكَرَامِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى التَّمَامِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورۃ الفتح مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اس میں اٹیس آیات اور چار رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے﴾

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ۚ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ

ہے شک ہم نے آپ کو مکمل ہوئی فتح دی تاکہ اللہ آپ کی اگلی کچھلی سب خطائیں معاف فرمادے اور آپ پر اپنی نعمت

عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۚ وَيُنْصِرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ۚ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ

پوری کر دے اور آپ کو صراط مستقیم پر چلائے اور اللہ آپ کی ایسی مدد فرمائے جو بڑی درست ہو اللہ وہی ہے جس نے مومنین کے دلوں میں سکون نازل فرمایا

فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيُزَادَوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ ۚ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَكَانَ

تاکہ ایمان کے ساتھ ان کا ایمان اور زیادہ ہو جائے اور اللہ ہی کے لئے ہیں لشکر آسمانوں کے اور زمین کے اور

اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۚ لِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ

اللہ عظیم ہے حکیم ہے تاکہ اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسی جنتوں میں داخل فرمائے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے

فِيهَا وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ۚ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ۚ وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ

تاکہ ان کے گناہوں کا کفارہ فرمادے۔ اور یہ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے اور تاکہ اللہ منافق مردوں

وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظَنَ السَّوءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوءِ

اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو ایسی جہنم کے بارے میں براگمان رکھنے والے ہیں ان پر برائی کی مصیبت پڑنے والی ہے

وَعَصَبَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۚ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ

اور اللہ ان پر غصہ ہوا اور ان پر لعنت کر دی اور ان کے لئے جہنم تیار کر دیا اور وہ برا گناہ کا ہے اور اللہ ہی کے لئے ہیں لشکر آسمانوں کے

وَالْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۚ

اور زمین کے اور اللہ عزیز ہے حکیم ہے۔

فتح مبین کا تذکرہ نصر عزیز اور غفران عظیم کا وعدہ

تفسیر: یہ سورۃ الفتح کی ابتدائی آیات کا ترجمہ کیا گیا ہے اس سورت میں فتح مبین کا اور صلح حدیبیہ کا اور فتح خیبر کا

تذکرہ ہے اور آخر میں رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی توصیف اور تعریف ہے اس سورت کا ابتدائی حصہ سفر میں نازل ہوا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ ﷺ صلح حدیبیہ کے بعد واپس مدینہ منورہ کے لئے تشریف لا رہے تھے اور حضرات صحابہؓ کے دلوں میں اس بات کا رنج تھا کہ عمرہ نہ کر سکے اس وقت سورۃ الفتح نازل ہوئی رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے جو مجھے ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے۔ جب آپ نے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ پڑھ کر سنائی تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مبارک ہو اس میں تو آپ کے بارے میں فرمایا کہ ایسا ایسا ہوگا سوال یہ ہے کہ ہمارا کیا بنے گا اس کا بھی پتہ چلنا چاہیے اس پر آیت کریمہ یٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا عَلٰی الْاَمْرِ شَيْْئًا سَوْفَ يَكُوْنُ لَكُمْ اَمْرٌ (ذکرہ بغوی معالم التنزیل ص ۱۸۸ ج ۴، صوفی صحیح البخاری مختصر ص ۶۰۰ ج ۲)

حضرت زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سفر میں تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ چل رہے تھے ایک روز رات کے وقت ایسا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ سے کچھ سوال کیا آپ نے جواب نہ دیا پھر سوال کیا آپ نے پھر خاموشی اختیار فرمائی پھر تیسری بار بھی ایسا ہی ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے اپنے نفس سے کہا تیری ماں تجھے گم کرے پریشانی کے وقت اہل عرب اپنے بارے میں یہ کلمات بول دیا کرتے تھے تو نے تین بار سوال کر کے رسول اللہ ﷺ کو تکلیف میں ڈالا تین بار سوال کیا آپ نے جواب نہیں دیا یہ سوچتے ہوئے میں جلدی سے اپنے اونٹ کو حرکت دے کر سب مسلمانوں سے آگے بڑھ گیا اور میں اس بات سے ڈرنے لگا کہ میرے بارے میں قرآن مجید کی کوئی آیات نازل نہ ہو جائے تھوڑی دیر میں ایک آواز سنی ایک شخص زور سے پکار کر کہہ رہا ہے عمر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ میں ڈرا کہ واقعہ میرے بارے میں قرآن مجید کی کوئی آیت نازل ہوئی ہے میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو سلام کیا آپ نے فرمایا کہ اس رات میں مجھ پر ایک ایسی سورت نازل ہوئی ہے جو مجھے ان سب چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج ٹکلتا ہے پھر آپ نے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا تلاوت فرمائی۔ (صحیح البخاری ص ۶۰۰ ج ۲)

## صلح حدیبیہ کا مفصل واقعہ

رسول اللہ ﷺ کو قریش مکہ نے بہت زیادہ تکلیفیں دی تھیں حتیٰ کہ آپ کو اور آپ کے اصحاب کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا ذی قعدہ ۶ء میں رسول اللہ ﷺ عمرہ کرنے کے لئے اپنے پیچھے نمیلہ بن عبد اللہ لیشی رضی اللہ عنہ کو امیر بنا کر روانہ ہو گئے مدینہ منورہ کے رہنے والے اور آس پاس کے دیہات کے باشندوں کو بھی سفر میں ساتھ چلنے کے لئے فرمایا آپ نے عمرہ کا احرام باندھ لیا اور حضرات صحابہؓ نے بھی تاکہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ آپ کا مقصد جنگ کرنا نہیں ہے صرف بیت اللہ کی زیارت کرنا مقصود ہے آپ اپنے ساتھ ہدی کے جانور بھی لے گئے تھے (جوج وعمرہ میں حرم مکہ میں ذبح کئے جاتے ہیں) جب آپ مقام عسفان میں پہنچے تو بشر بن سفیان کنعنی سے ملاقات ہوئی اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ قریش مکہ کو آپ کی روادگی کا پتہ چل گیا ہے وہ مقام ذی طویٰ میں جمع ہو گئے ہیں اور تمہیں کھا کھا کر یہ عہد کر رہے ہیں کہ آپ کو مکہ میں داخل نہ ہونے دیں گے اور خالد بن ولید (جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے) اپنے بیواؤں کو لیکر کراع النعم (ایک مقام کا



نام ہے) میں پہنچ چکے ہیں آپ نے یہ سن کر راستہ بدل دیا اور اڑنی ہاتھ کی طرف روانہ ہو گئے یہ باقاعدہ راستہ نہیں تھا گھانٹیاں تھیں دشوار گزار مقامات سے گزرتا پڑا یہاں تک کہ نرم زمین میں پہنچ گئے اور مقام حدیبیہ کے راستہ پر پڑ گئے حدیبیہ مکہ اور جدہ کے درمیان ہے حرم کے حدود وہاں ختم ہو جاتے ہیں (عسفان سے مکہ معظمہ جاتے ہوئے حدیبیہ واقع نہیں ہوتا لیکن چونکہ قریش کے آڑے جانے کا امکان تھا اس لئے آپ راستہ بدل کر حدیبیہ پہنچ گئے۔

جب قریش کے سواروں کو پتہ چلا کہ اپنے راستہ بدل دیا ہے تو واپس قریش کے پاس مکہ معظمہ چلے گئے ادھر رسول اللہ ﷺ اپنے اصحاب کے ساتھ مقام حدیبیہ میں پہنچ گئے وہاں پہنچے تو آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی صحابہ نے کہا یہ تو آگے بڑھنے سے ہٹ کرنے لگی آپ نے فرمایا ہٹ کرنا اسکی عادت نہیں ہے اسے اسی ذات پاک نے روک دیا جس نے ہاتھی والوں کو مکہ معظمہ میں داخل ہونے سے روک دیا تھا کیونکہ قریش مکہ کے آڑے آ جانے اور مکہ معظمہ کے داخلہ میں رکاوٹ ڈالنے کا گمان تھا اس لئے آپ نے فرمایا کہ اگر آج قریش نے مجھ سے کسی ایسی بات کا سوال کیا جو صلہ رحمی کی بنیاد پر ہو تو میں اس میں اسکی موافقت کر لوں گا اور بعض روایات میں یوں بھی ہے کہ اگر مجھے کسی ایسی بات کی دعوت دیں گے جس میں ان چیزوں کی حرمت کا مطالبہ ہو جنہیں اللہ تعالیٰ نے معظم قرار دیا ہے تو ان کی بات مان لوں گا۔

حدیبیہ میں قیام تو فرمایا لیکن وہاں پانی بہت ہی کم تھا حضرات صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہاں تو پانی نہیں ہے نہ وضو کر سکتے ہیں نہ پینے کا انتظام ہے بس یہی تھوڑا سا پانی ہے جو آپ کے پیالہ میں ہے آپ نے اپنا دست مبارک اس پیالہ میں رکھ دیا آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے جھٹے جاری ہو گئے راوی حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے پانی پیا وضو کیا کسی نے دریافت کیا کہ آپ حضرات کی کتنی تعداد تھی تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم لوگ پندرہ سو تھے اگر ایک لاکھ بھی ہوتے تو وہ پانی سب کے لئے کافی ہو جاتا۔

اور حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ (آیت کریمہ میں جو فتح کا ذکر ہے آپ لوگ اس سے فتح مکہ مراد لیتے ہیں اور ہم بیعت رضوان کو فتح کا مصداق شمار کرتے تھے جو حدیبیہ کے موقعہ پر ہوئی ہم تعداد میں چودہ سو یا کچھ زیادہ تھے حدیبیہ کے ایک کنوئیں میں تھوڑا سا پانی تھا ہم نے سارا پانی کھینچ کر استعمال کر لیا اور اس میں ایک قطرہ بھی نہ چھوڑا رسول اللہ ﷺ کو اس کا علم ہوا تو آپ تشریف لائے اور اس کنوئیں کے کنارے پر بیٹھ گئے پھر فرمایا کہ اس میں سے نکالا ہوا ایک ڈول پانی لاؤ وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا آپ نے اس میں اپنا لعاب مبارک ڈال دیا اور ایک روایت میں ہے کہ وضو فرمایا اور کئی کی اور اس کنوئیں میں پانی ڈالا پھر فرمایا اسے کچھ دیر چھوڑ دو کچھ دیر کے بعد اس میں پانی لینا شروع کیا اور تمام حاضرین اپنی سواریاں سمیت سیراب ہو گئے) اس میں اختلاف کی بات نہیں ہے چودہ سو سے اوپر جو افراد تھے ان کو بعض صحابہ نے پندرہ سو بتا دیا اور بعض نے چودہ سو بتا دیا کسر کا اعتبار نہیں کیا اور اس میں بھی کوئی تعارض نہیں کہ پیالہ میں دست مبارک رکھنے سے جھٹے جاری ہو گئے اور کنوئیں میں بھی آپ نے لعاب مبارک ڈال دیا..... جب آنحضرت ﷺ نے حدیبیہ میں قیام فرمایا تو قریش مکہ نے یکے بعد دیگرے بڈیل بن ورقاء اور مرکز بن حفص اور حلیس بن علقمہ اور عروہ بن مسعود ثقفی کو اس حضرت ﷺ کی خدمت میں بھیجا آپ نے ان لوگوں کو جواب دیا کہ ہم عمرہ کرنے کے لئے آئے لڑائی لڑنا ہمارا مقصد نہیں ہے۔

## حضرات صحابہ کی محبت اور جانثاری

عروہ بن مسعود حاضر خدمت ہوئے تو انہوں نے عجیب منظر دیکھا حضرات صحابہ کی محبت اور جانثاری دیکھ کر آنکھیں پٹی رہ گئیں رسول اللہ ﷺ وضو فرماتے تھے تو جو پانی آپ کے اعضاء سے جدا ہوتا حضرات صحابہ سے گرنے نہ دیتے تھے اور فوراً ہی اپنے ہاتھوں میں لے لیتے تھے جب آپ ناک کی ریش ڈالتے تھے اسے بھی جلدی سے اپنے ہاتھوں میں لے لیتے تھے اور آپ کا اگر کوئی بال گرنا تھا تو اسے بھی گرنے سے پہلے ہی اچک لیتے تھے۔

عروہ بن مسعود ثقفی نے واپس ہو کر قریش مکہ سے کہا کہ دیکھو میں کئی بار کسری قیصر اور نجاشی کے پاس گیا ہوں (یہ تینوں بادشاہ تھے) میں نے کسی بادشاہ کے ایسے فرمانبردار نہیں دیکھے جیسے محمد رسول اللہ ﷺ کے ساتھی ہیں اگر تم نے جنگ کی تو یہ لوگ کبھی بھی انہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے اب دیکھ لو تمہاری کیا رائے ہے؟ اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے حضرت عمر بن خطاب سے فرمایا کہ تم مکہ معظمہ جاؤ وہاں قریش کو بتادو کہ ہم جنگ کرنے کے لئے نہیں آئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے معذرت پیش کر دی کہ قریش کو معلوم ہے کہ میں ان کا کتنا بڑا دشمن ہوں اور میرے قبیلہ بنی عدی میں سے وہاں ایسے افراد نہیں ہیں جو میری حفاظت کر سکیں میں آپ کو رائے دیتا ہوں کہ آپ عثمان بن عفانؓ کو بھیج دیں قریش کے نزدیک وہ مجھ سے زیادہ معزز ہیں چنانچہ آپ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو ابوسفیان اور دیگر اشراف قریش کے پاس بطور نمائندہ بھیج دیا تاکہ وہ قریش کو بتا دیں کہ آپ جنگ کے ارادہ سے تشریف نہیں لائے بلکہ صرف بیت اللہ کی زیارت کے لئے تشریف لائے ہیں جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ کو پیغام دیا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم یہ بات ماننے کو تیار نہیں کہ محمد رسول اللہ ﷺ کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت دیں البتہ تم چاہو تو طواف کر سکتے ہو انہوں نے جواب دیا کہ میں تنہا طواف نہیں کر سکتا رسول اللہ ﷺ طواف کریں گے تو میں بھی کروں گا حضرت عثمان کو قریش مکہ نے روک لیا اور ادھر رسول اللہ ﷺ کو یہ خبر پہنچ گئی کہ عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے۔

## بیعت رضوان کا واقعہ

جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ اب ہم تو یہاں سے نہیں ہٹیں گے جب تک قریش سے جنگ نہ کر لی جائے چونکہ بظاہر جنگ لڑنے کی فضا بن گئی تھی اس لئے رسول اللہ ﷺ نے حضرات صحابہ سے بیعت لینا شروع کیا اور ایک شخص کے علاوہ آپ کے تمام اصحاب نے اس بات پر بیعت کر لی کہ ہم جم کر جنگ میں ساتھ دیں گے اور راہ فرار اختیار نہ کریں گے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چونکہ مکہ معظمہ گئے ہوئے تھے اس لئے آنحضرت ﷺ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے خود ہی بیعت کر لی اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے ملایا اور فرمایا کہ یہ بیعت عثمان کی طرف سے ہے (یہ بیعت ایک درخت کے نیچے ہوئی تھی جو مقام حدیبیہ میں تھا اور اس کے بارے میں آیت کریمہ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ نازل ہوئی اس لئے اس بیعت کا نام بیعت الرضوان معروف ہو گیا اور بیعت کرنے والوں کو اصحاب الشجرہ کہا جانے لگا) شجرہ عربی میں درخت کو کہتے ہیں) اس کے بعد معلوم ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر غلط ہے لیکن اس خبر کی وجہ سے جو

حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے بیعت کی اس کا ثواب بھی مل گیا اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کا تمغہ بھی نصیب ہو گیا جس کا قرآن مجید میں اعلان ہو گیا جو رہتی دنیا تک برابر پڑھا جاتا رہے گا۔

اس کے بعد قریش نے سہیل بن عمرو کو گفتگو کرنے کے لئے بھیجا اور یوں کہا کہ محمد علیہ السلام کے پاس جاؤ اور ان سے صلح کی گفتگو کرو لیکن صلح میں اس سال عمرہ کرنے کی بات نہ آئے اگر ہم اس سال انہیں عمرہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں تو عرب میں ہماری بدنامی ہوگی اور اہل عرب یوں کہیں گے کہ دیکھ لو محمد رسول اللہ ﷺ اپنی قوت اور زور سے مکہ میں داخل ہو گئے سہیل ابن عمرو نے خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر لمبی گفتگو کی پھر آپس میں صلح کی شرطیں طے ہو گئیں (صحیح بخاری باب الشرط فی الجہاد ص ۷۷ ج ۳ اور جامع معالم التنزیل ص ۱۹۹ ج ۴ ص ۲۰۳) جو انشاء اللہ تعالیٰ عنقریب ذکر کی جائیں گی۔

### صلح حدیبیہ کا متن اور مندرجہ شرائط

صحیح بخاری ۳۸۲۳ ج ۲ اور صحیح مسلم ۱۰۲ ج ۲ میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح نامہ لکھنے لگے تو اس میں انہوں نے بطور عنوان لکھ دیا ہذا ما قضی علیہ محمد رسول اللہ ﷺ اس پر سہیل بن عمرو اور اس کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم تو آپ کے رسول اللہ ہونے کا اقرار ہی نہیں کرتے اگر ہم اس کو مانتے ہوتے تو آپ کو عمرہ کرنے سے کیوں روکتے؟ آپ محمد بن عبد اللہ لکھیے آپ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ بھی ہوں محمد بن عبد اللہ بھی ہوں پھر حضرت علی سے فرمایا کہ لفظ رسول اللہ کو مٹا دو حضرت علی نے عرض کیا کہ میں تو کبھی بھی آپ کی اس صفت کو نہیں مٹاؤں گا (یہ نافرمانی کی قسم نہیں ہے ناز و انداز کی بات ہے) اس کے بعد صلح نامہ کے شروع میں ”ہذا ما قاضی علیہ محمد بن عبد اللہ“ لکھا گیا۔

صحیح مسلم ۱۰۵ ج ۲ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی سے فرمایا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پر سہیل بن عمرو نے کہا کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے ہم اس کو نہیں جانتے بلکہ وہ لکھو جو ہم پہچانتے ہیں اور وہ بسمک اللہم ہے (آپ نے اس کو بھی منظور فرمایا کما ذکرہ النوری)

البدایہ والنہایہ ۱۶۸ ج ۴ میں صلح نامہ کا متن جو نقل کیا ہے وہ ذیل میں درج ہے

هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو، اصطلاحاً على وضع الحرب عن الناس عشر سنين يأمن فيهن الناس ويكف بعضهم عن بعض، وعلی انه من اتى محمداً من قريش بغير اذن وليه رده عليهم، ومن جاء قريشاً ممن مع محمد لم يردوه عليه، وان بيننا عيبة مكفوفة، وانه لا اسلار ولا اغلال، وانه من احب ان يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه، ومن احب ان يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه، وانك ترجع عامك هذا فلا تدخل علينا مكة، وانه اذا كان عام قابل خرجنا عنك فدخلتها باصحابك فاقمت بها ثلاثاً معك سلاح الراكب السيوف في القرب لا تدخلها لغيرها.

ترجمہ: یہ وہ صلح نامہ ہے جس کی محمد بن عبد اللہ نے سہیل بن عمرو سے صلح کی ان باتوں پر صلح کی گئی۔

۱۔ دس سال تک آپس میں جنگ نہیں کریں گے، ان دس سالوں میں لوگ امن و امان سے رہیں گے اور ایک دوسرے

(پر حملہ کرنے) سے رکے رہیں گے۔

۲۔ قریش میں سے جو شخص اپنے ولی کی اجازت کے بغیر محمد علیہ السلام کے پاس آجائے گا اسے واپس کرنا ہوگا۔

۳۔ اور محمد علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے جو شخص قریش کے پاس آجائے گا وہ اسے واپس نہیں کریں گے۔

۴۔ اور ایک یہ بات ہے کہ ہمارے درمیان گھڑی بند رہے گی (یعنی آپس میں جنگ نہ کریں گے) لڑائی والی بات کو گھڑی کی طرح باندھ کر ڈال دیں گے اور بعض حضرات نے گھڑی بند رکھنے کا یہ معنی بتایا ہے جو کچھ ہم نے صلح کی ہے یہ سچے دل سے ہے دل گھڑیوں کی طرح ہیں جن میں راز کی چیزیں رکھی جاتی ہیں لہذا ہماری یہ گھڑی نہ کھلے گی اور کوئی فریق دھوکہ یا خیانت کا کام نہ کرے گا۔

۵۔ نہ کوئی ظاہری طور پر چوری کرے گا اور نہ خیانت کے طور پر کسی کو تکلیف دے گا (ظاہر اور باطن کے اعتبار سے ہر شرط کی پابندی کی جائے گی)

۶۔ اور جو شخص محمد علیہ السلام کے ساتھ کوئی معاہدہ اور معاہدہ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔

۷۔ اور جو جماعت قریش سے کوئی معاہدہ و معاہدہ کرنا چاہے اسے اس کا اختیار ہے۔

۸۔ آپ اس سال واپس ہو جائیں مکہ معظمہ میں داخل نہ ہوں۔

۹۔ اور آئندہ سال اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کے لئے آئیں اس وقت مکہ معظمہ میں داخل ہوں اور صرف تین دن رہیں۔

۱۰۔ اس وقت جب عمرہ کے لئے آئیں تو آپ کے ساتھ مختصر سے ہتھیار ہوں جنہیں مسافر ساتھ لے کر چلتا ہے نکواریں نیاموں میں ہوں گی اس کا لحاظ کرتے ہوئے داخل ہو سکیں گے۔

جب یہ شرطیں لکھی گئیں تو شرط نمبر ۴ کے مطابق بنو خزاعہ نے اعلان کر دیا کہ ہم محمد رسول اللہ ﷺ کے عہد میں ہیں اور بنو بکر نے اعلان کر دیا کہ ہم قریش میں ہیں پھر یہی معاہدہ فتح مکہ کا سبب بن گیا کیونکہ قریش مکہ نے بنو بکر کی مدد کر دی جب بنو خزاعہ سے ان کی جنگ چھڑی (معاہدہ کی جو شرطیں اوپر مذکور ہوئیں ان میں سے بعض صحیح بخاری (صحیح بخاری باب الشروط فی الجہاد ص ۳۳ ج ۳ اور جامع معالم التنزیل ص ۱۹۹ ج ۲ ص ۴) میں اور بعض صحیح مسلم میں مذکور ہیں اور بعض سنن ابی داؤد میں بھی مروی ہیں۔

## حضرت عمرؓ کا تردد اور سوال و جواب

کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعض شرطوں کا قبول کرنا ناگوار ہوا وہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور کیا قریش مکہ باطل پر نہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا ہاں ہم حق پر ہیں اور وہ باطل پر ہیں! پھر سوال کیا کیا ہمارے مقتولین جنت میں نہیں ہیں اور کیا ان کے مقتولین دوزخ میں ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں ہمارے مقتولین جنت میں ہیں اور ان کے مقتولین دوزخ میں ہیں عرض کیا پھر کیوں ہم اپنے دین میں ذلت گوارا کریں اور ہم کیوں اللہ کے فیصلے کے بغیر جو ہمارے ان کے درمیان (قتال کے ذریعہ) ہو واپس ہو جائیں؟ یہ سن کر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اس کی نافرمانی نہیں کرتا ہوں وہ میری مدد فرمائے گا حضرت عمر نے عرض کیا کیا

آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم بیت اللہ جائیں گے اور طواف کریں گے؟ آپ نے فرمایا کیا میں نے اسی سال کے بارے میں کہا تھا؟ اس کے بعد حضرت ابو بکر سے بھی ان کا یہی سوال وجواب ہوا جب رسول اللہ ﷺ نے صلح کر لی اور پورا صلح نامہ لکھ دیا گیا ابو جندل نے مسلمانوں سے کہا کہ دیکھو میں مسلمان ہو کر آیا ہوں مشرکین کی طرف واپس کیا جا رہا ہوں مجھے بڑی بڑی تکلیفیں دی گئی ہیں مجھے اپنے ساتھ لے چلو لیکن مسلمان رسول اللہ ﷺ کے سامنے کچھ نہیں کر سکتے تھے صلح کی جو شرطیں آپ نے منظور فرمائی تھیں سب کے مطابق عمل کرنا لازم تھا بالآخر ابو جندل کو وہیں چھوڑ دیا اور رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہمارا بن کر ہم کو چھوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہم سے دور فرما دے گا اس کی ہمیں ضرورت نہیں) اور جو شخص ان میں سے ہوگا اور ہمارا بن کر آئے گا (پھر ہم شرط کے مطابق اسے واپس کر دیں گے تو) اللہ تعالیٰ اس کے لئے کوئی راستہ نکال دے گا۔

(صحیح مسلم ص ۱۰۵ ج ۱)

## حلق رؤس اور ذبح ہدایا

جب صلح نامہ لکھا جا چکا تو آنحضرت سرور عالم ﷺ نے صحابہ کو حکم دیا کہ اپنے ہدایا کو ذبح کرو اور سر منڈا لویہ بات سن کر کوئی بھی کھڑا نہ ہوا کیونکہ حضرت صحابہ اس امید میں تھے کہ شاید کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ وقت سے پہلے احرام کھولنا نہ پڑے اور عمرہ کرنے کا موقع مل ہی جائے) آپ کے تین بار ارشاد فرمانے کے بعد بھی جب کوئی کھڑا نہ ہوا تو آپ اپنی اہلیہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے پوری صورت حال بیان کی (کہ میں ہدایا کے ذبح کرنے کا اور سر موٹہ کرنے کا حکم دے چکا ہوں لیکن صحابہ اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں) حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ ذبح اور حلق والا کام کر گزریں تو آپ باہر تشریف لے جا کر کسی سے بات کہئے بغیر اپنے اونٹوں کو ذبح فرمادیں اور بال موٹہ کرنے والے کو بلا کر اپنے سر کے بال منڈا دیں آپ باہر تشریف لائے اور ایسا ہی کیا جب آپ کو حضرات صحابہ نے دیکھا کہ آپ ہدایا ذبح فرما رہے ہیں اور حلق کر دیا ہے تو سب اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے ہدایا کو ذبح کر دیا اور ایک دوسرے کا سر موٹہ کرنے لگے۔

(صحیح بخاری ص ۲۸۰)

## حضرت ابو بصیر اور ان کے ساتھیوں کا واقعہ

وہ جو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا کہ اہل مکہ میں سے جو شخص ہمارے پاس آئے گا اور اسے شرط کے مطابق واپس کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے کوئی راستہ نکال دے گا اس کے مطابق اس کا حل یہ نکلا حضرت ابو بصیر ایک صحابی مسلمان ہو کر مکہ سے مدینہ منورہ پہنچ گئے مکہ والوں نے ان کو واپس کرنے کے لئے دو آدمی بھیجے رسول اللہ ﷺ نے شرط کے مطابق ان کو واپس کر دیا واپسی میں جب ذوالحلیفہ پہنچے تو حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے ان دو آدمیوں میں سے جو انہیں لینے آئے تھے ایک کو قتل کر دیا اور دوسرا بھاگ کر مدینہ منورہ میں آ کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ ضرور اسے کوئی خوفناک بات پیش آئی ہے اس نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرا ساتھی تو قتل کیا جا چکا ہے اور میں بھی قتل ہونے والا ہوں پیچھے سے حضرت ابو بصیر بھی حاضر خدمت ہو گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ

کی جو ذمہ داری تھی وہ تو اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی ہے آپ نے مجھے واپس کر دیا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے نجات دے دی ہے آپ نے فرمایا کہ یہ لڑائی کو بھڑکانے والا ہے کاش اسے کوئی سمجھانے والا ہوتا یہ سن کر ابوبصیرؓ نے سمجھ لیا کہ آپ مجھے پھر واپس کر دیں گے لہذا وہ مدینہ منورہ سے نکل گئے اور سمندر کے کنارے پر پڑاؤ ڈال لیا۔ جب ابوجندل کو اس کا پتہ چلا تو وہ بھی ابوبصیرؓ کے پاس پہنچ گئے اور اب بھی کوئی شخص قریش مکہ میں سے مسلمان ہوتا ابوبصیر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ جاتا یہاں تک کہ وہاں کے سمندر کے کنارے ایک جماعت اکٹھی ہو گئی قریش کا جو بھی قافلہ شام کی طرف جاتا تھا یہ لوگ اسے روک لیتے اور قافلے کے آدمیوں کو قتل کر دیتے اور ان کے اموال چھین لیتے تھے جب یہ صورت حال سامنے آئی تو قریش مکہ نے رسول اللہ ﷺ کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ ان لوگوں کو بلا لیں اور اب ہم اس شرط کو واپس لیتے ہیں کہ ہمارا کوئی شخص آپ کے پاس جائے گا تو اسے واپس کرنا ہوگا جو بھی شخص ہم میں سے آپ کے پاس پہنچے گا اسے واپس کرنے کی ذمہ داری آپ پر نہ ہوگی اس پر رسول اللہ ﷺ نے ان لوگوں کو پیغام بھیج دیا کہ واپس آ جائیں۔ (صحیح البخاری ص ۳۸۰، ۳۸۱ ج ۱)

رسول اللہ ﷺ نے ابوبصیر کے نام خط لکھ دیا کہ مدینہ منورہ آ جائیں جب گرامی نامہ پہنچا تو وہ سیاق موت میں تھے ان کی موت اس حالت میں ہوئی کہ رسول اللہ ﷺ کا مکتوب گرامی ان کے ہاتھ میں تھا حضرت ابوجندل نے انہیں دفن کر دیا اور وہاں ایک مسجد بنادی اور پھر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مدینہ منورہ میں حاضر ہو گئے اور برابر وہیں رہتے رہے حتیٰ کہ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں شام کی طرف چلے گئے اور وہیں جہاد میں شہید ہو گئے۔ (فتح الباری ص ۳۵۱ ج ۵)

صلح حدیبیہ کی مذکورہ تفصیل کے بعد اب آیات بالا کا ترجمہ دوبارہ پڑھ لیجئے ان میں فتح مبین کی خوشخبری ہے اور رسول اللہ ﷺ کی اگلی چھٹی تمام لغزشوں کی معافی کا اور تکمیل نعمت کا اور صراطِ مستقیم پر چلانے کا اور نصر عزیز کا اعلان ہے۔

## اہل ایمان پر انعام کا اعلان اور اہل نفاق اور اہل شرک کی بد حالی اور تعذیب کا بیان

اللہ تعالیٰ نے مومنین کے دل میں سکون و اطمینان نازل فرمادیا تاکہ ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ جائے اور یہ بھی فرمادیا کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی برکت سے اہل ایمان کو مردہوں یا عورت ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کا کفارہ فرمادے گا اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے گا ان کے بارے میں پانچ باتیں بتائیں اول الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظَنُّوا (کہ یہ لوگ اللہ کے ساتھ برا گمان رکھتے ہیں اس برے گمان میں یہ بھی داخل ہے یہ لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں اور اس کے رسول کی تکذیب نہیں کرتے ہیں کہ مومنین مغلوب ہوں گے اور کافروں کے حملے سے محفوظ ہو کر واپس مدینہ نہ آئیں گے چونکہ اپنے قلبی جذبات میں اور اعتقادات میں منافق عورتیں اور مشرک عورتیں بھی اپنے مردوں کے ساتھ ہوتیں ہیں اس لئے انہیں بھی وعید میں شریک کر لیا گیا۔

دوسری بات یہ بتائی کہ عَلَیْہُمْ ذُوقُوا الْعَذَابَ کہ ان پر برائی کی چکی کھونسنے والی ہے یعنی دنیا میں مقتول اور ماخوذ ہوں گے اور اسلام کی ترقی ان کے قلبی احساسات کے لئے سوہان روح بنی رہے گی۔

تیسری اور چوتھی بات بتائی وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ اور اللہ ان پر غصہ ہوا اور ان پر لعنت کر دی اور پانچویں بات بتائی وَاعَدَ اللَّهُ جَهَنَّمَ کہ ان کے لئے جہنم تیار کر دیا اور آخر میں اس مضمون کو وَسَاءَتْ مَصِيرًا پر ختم فرمایا کہ جہنم برا ٹھکانہ ہے۔

پھر فرمایا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اور اللہ ہی کے لئے ہے آسمانوں کے اور زمینوں کے لشکر ان آیات میں یہ مضمون دوسرے بیان فرمایا ہے اس میں یہ بتا دیا کہ آسمان اور زمین میں اللہ تعالیٰ کے بہت سے لشکر ہیں وہ جس سے چاہے کام لے سکتا ہے ان میں کافروں کو بھی تنبیہ ہے کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ مسلمان تھوڑے سے ہیں ہم انہیں دبا لیں گے چونکہ ان کے علاوہ بھی اللہ کے لشکر ہیں اس لئے ان کی تعداد کو نہ دیکھیں اللہ اپنے دوسرے لشکروں سے بھی کام لے سکتا ہے اور اس میں مسلمانوں کے لئے بھی تذکیر ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو اللہ تعالیٰ کے بہت سے لشکر ہیں وہ تمہاری تائید کے لئے اور کافروں کو زک دینے کے لئے اپنی دوسری مخلوق کو بھی استعمال فرما سکتا ہے۔

فائدہ: ان آیات میں ایک جگہ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ حَٰكِمًا اور ایک جگہ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَٰكِمًا فرمایا ہے اس میں یہ بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے اسے اپنے دوستوں کا بھی علم ہے اور دشمنوں کا بھی وہ سب کے ظاہر و باطن کو جانتا ہے وہ عزیز بھی ہے یعنی وہ زبردست ہے اس کے فیصلے اور ارادے کوئی پلٹ نہیں سکتا اور وہ حکیم بھی ہے اپنی حکمت کے مطابق جسے چاہتا ہے انعام دیتا ہے جسے چاہتا ہے عقاب و عذاب میں مبتلا فرما دیتا ہے۔

فائدہ: آیت کریمہ میں جو لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ فرمایا ہے باجماع امت اس سے گناہ حقیقی واقعی مراد نہیں ہے کیونکہ حضرت انبیاء علیہم السلام سے گناہوں کا صدور نہیں ہو سکتا بلکہ بعض وہ امور مراد ہیں جن میں خطاء اجتہادی ہو گئی اور اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو متنبہ فرمایا جیسا کہ بدر کے قیدیوں سے فدیہ لینے میں آپ نے فدیہ لینے والوں کی رائے سے موافقت فرمائی اور جیسا کہ بعض منافقین نے جہاد میں نہ جانے کی اجازت مانگی تو آپ نے اجازت فرمادی جیسے عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذْنَبْتَ لَهُمْ میں بیان فرمایا اور جیسا کہ حضرت ابن ام مکتوم نابینا صحابی کے آنے پر آپ کو خیال ہوا کہ اس وقت نہ آتے تو اچھا تھا اور اس کا اثر آپ کے چہرہ انوار پر ظاہر ہو گیا کیونکہ آپ اس وقت کافروں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے اس پر عَبَسَ وَقَوْلِي نَازِلَ هُوَ اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے آپ کا سب کچھ معاف فرمایا پھر بھی آپ بہت زیادہ عبادت کرتے تھے آپ رات کو نماز تہجد میں لمبا قیام کرتے تھے یہاں تک کہ آپ کے قدم مبارک پر درم آ گیا تھا اور ایک روایت میں ہے کہ پاؤں پھٹنے لگے تھے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں حالانکہ اللہ نے آپ کا سب کچھ معاف فرمادیا؟ آپ نے فرمایا کہ تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ (صحیح البخاری ص ۱۵۰ ج ۱ ص ۱۶ جلد دوم)

مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اتنا بڑا کرم فرمایا تو اس کا تقاضا یہ تو نہیں ہے کہ عبادت کم کر دوں احسان مندی کا تقاضا تو یہی ہے کہ اور زیادہ عبادت میں لگ جاؤں۔

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَٰهِدًا وَأَوْمَبِيرًا ۚ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ وَنُورًا وَتُورَةً

بلاشبہ ہم نے آپ کو شاہد اور مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا تا کہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو

وَسَبِّحْهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝

اور اس کی تعظیم کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو۔



## رسول اللہ ﷺ شاہد اور مبشر اور نذیر ہیں

**تفسیر:** اس آیت میں رسول اللہ ﷺ کی تین بڑی صفات بیان فرمائی اول شاہد ہونا دوسرے مبشر ہونا تیسرے نذیر ہونا عربی میں شاہد گواہ کو کہتے ہیں قیامت کے دن آپ اپنی امت کے عادل ہونے کی گواہی دیں گے جیسا کہ سورہ بقرہ وَیَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور سورہ الحج لَیَكُونَنَّ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ میں بیان فرمایا ہے دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ آپ مبشر ہیں جس کا معنی ہے بشارت دینے والا اور تیسری صفت یہ بیان فرمائی کہ آپ نذیر ہیں یعنی ڈرانے والے ہیں تبشیر یعنی ایمان اور اعمال صالحہ پر اللہ کی رضا اور اللہ کے انعامات کی بشارت دینا اور کفر پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور عذاب سے ڈرانا یہ حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کا کام تھا خاتم الانبیاء ﷺ نے بھی اسے پورے اہتمام کے ساتھ انجام دیا احادیث شریفہ میں آپ کے انداز اور تبشیر کی سینکڑوں روایات موجود ہیں اور الترغیب والترہیب کے عنوان سے علماء امت نے بڑی بڑی کتابیں تالیف کی ہیں۔

صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی یہ صفات توریت شریف میں بھی مذکور ہیں آنحضرت سرور عالم ﷺ کی مذکورہ صفات بیان فرمانے کے بعد اہل ایمان سے خطاب فرمایا اَلَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَیَعْمَلُوا الصَّالٰتِ وَیُؤْتُوا الزَّكٰوٰتِ وَیَحْمِلُوْنَ وِجْرَتَ اللّٰهِ اُولٰٓئِکَ سَیَرْحَمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ انہوں نے ان کو اس لئے رسول بنا کر بھیجا کہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کے دین کی مدد کرو اس کی تعظیم کرو اس کے موصوف بالکمالات ہونے کا عقیدہ رکھو اور صبح شام اس کی تسبیح بیان کرو عقیدہ تعظیم کے ساتھ عیوب اور نقائص سے اس کی تسبیح اور تقدیس میں لگے رہو۔

اِنَّ الَّذِیْنَ یُبَاۤءِعُوْنَكَ اِنَّمَا یُبَاۤءِعُوْنَ اللّٰهَ یَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَیْدِیْهِمْ فَمَنْ تَرَكَ فَاِنَّمَا یُتْرَکُ

بلاشبہ جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے سو جو شخص عہد توڑ دے گا اس کا

عَلٰی نَفْسِهٖ وَمَنْ اَوْفٰی بِمَا عٰهَدَ عَلَیْهِ اللّٰهُ فَسَیُؤْتِیْهِ اَجْرًا عَظِیْمًا

توڑنا اسی کی جان پر ہوگا اور جو شخص اس عہد کو پورا کر دے جو اس نے اللہ سے کیا ہے سو وہ اسے بڑا اجر عطا فرمائے گا۔

## رسول اللہ ﷺ سے بیعت کرنا اللہ ہی سے بیعت کرنا ہے

**تفسیر:** جس وقت مقام حدیبیہ میں رسول اللہ ﷺ کا مقام حدیبیہ میں قیام تھا اور حضرات صحابہؓ آپ کے ساتھ تھے اس وقت مکہ والوں کے آڑے آجانے کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی وفات کی خبر سے کچھ ایسی فضاء بن گئی تھی کہ جیسے جنگ کی ضرورت پڑ سکتی ہے اس موقع پر رسول اللہ ﷺ نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم سے بیعت لی جس میں یہ تھا کہ ہم کر جہاد کریں گے پشت پھیر کر نہ بھاگیں گے بیعت کرنے والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ آپ سے جو بیعت کر رہے ہیں ان کی یہ بیعت اللہ تعالیٰ ہی سے ہے آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے ہیں اور دعوت قبول کرنے والوں کو خود بھی اللہ کے دین پر چلا تے ہیں جو آپ کی فرمانبرداری کرتا ہے وہ اللہ کی فرمانبرداری کرتا ہے۔

اس بیعت میں اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کا اقرار بھی آجاتا ہے اور رسول اللہ ﷺ کی فرمانبرداری کا بھی قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول ﷺ کی اطاعت کا بھی ذکر ہے سورۃ النساء میں واضح طور پر فرمایا مَنِ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ -

بیعت کے لئے ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر ہی ہوزبانی اقرار عہد و پیمان بھی بیعت ہے لیکن چونکہ حدیبیہ کے موقع پر آپ نے ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت فرمائی اور بیعت اسی طرح مروج تھی (اور اب بھی اسی طرح مروج ہے) اس لئے ارشاد فرمایا يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَتَيْدُوْهُمۡ کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے (اللہ تعالیٰ شانہ اعضا اور جوارح سے تو پاک ہے لیکن بیعت کی ذمہ داری کو واضح فرمانے کے لئے اور اس بات کو نوکد کرنے کے لئے جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَتَيْدُوْهُمۡ فرمایا۔

چونکہ بیعت کرنے والے کی اندرونی حالت کو وہ شخص نہیں جانتا جس سے بیعت کی جارہی ہو اس لئے بیعت کرنے والے کی ذمہ داری بتانے کے لئے فرمایا فَمَنْ نَّكَثَ اٰمَانًا يَنْكُثْ عَلٰی نَفْسِهٖ (کہ جو شخص بیعت کو توڑ دے اس کے توڑنے کا وبال اسی پر پڑے گا) معاہدہ کر کے توڑ دینا تو ویسے بھی گناہ کبیرہ ہے پھر جبکہ معاہدہ کو بیعت کی صورت میں مضبوط اور موکد کر دے تو اور زیادہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے جب اللہ کے رسول سے بیعت کر لی تو اس کو پورا کرنا ہی کرنا ہے۔

وَمَنْ اَوْفٰی بِمَا عٰمَدَ عَلَیْهِ اللّٰهُ فَسَيُؤْتِیْهِ اَجْرًا عَظِیْمًا (اور جو شخص اس عہد کو پورا کر دے جو اس نے اللہ سے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا)

فائدہ۔ ۱۔ اصحاب طریقت کے یہاں جو سلسلہ جاری ہے یہ مبارک و تبرک ہے اگر کسی متبع سنت شیخ سے مرید ہو جائے تو برابر تعلق باقی رکھے لیکن اگر شیخ خلاف شریعت کسی کام کا حکم دے تو اس پر عمل کرنا گناہ ہے اگر کسی فاسق یا بدعتی پیر سے بیعت ہو جائے تو اس بیعت کو توڑنا واجب ہے۔

سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ

عقرب دیہات کے لوگ جو پیچھے ڈل گئے آپ سے کہیں گے کہ ہمارے اہل و عیال نے ہمیں مشغول کر دیا سو آپ ہمارے لئے استغفار کیجئے وہ اپنی زبانوں سے کہتے ہیں

يٰۤاَلْسِنَتُهُمْ تَالَيْسَ فِي قُلُوْبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا اِنْ اَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا

جوان کے دلوں میں نہیں ہے آپ فرما دیجئے سو وہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچانے کے لئے کسی بھی چیز کا اختیار رکھتا ہو اگر وہ تمہیں کوئی نقصان

اَوْ اَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللّٰهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝ بَلْ ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ يَتَّقِلَبَ الرَّسُوْلُ

یا نفع پہنچانا چاہے بلکہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے کاموں کی سب خبر ہے بلکہ بات یہ ہے کہ تمہارا خیال تھا کہ رسول

وَالْمُؤْمِنُوْنَ اِلٰى اٰهْلِيْهِمْ اَبَدًا وَّزَيْنَ ذٰلِكَ فِي قُلُوْبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا

اور مومنین کسی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے اور یہ بات تمہارے دلوں میں مزین کردی گئی اور تم نے برا گمان کیا اور تم ہلاک ہونے

بُورًا ۝ وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ۝ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ

والے لوگ ہو اور جو شخص اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو ہم نے کافروں کے لئے دوزخ تیار کر رکھا ہے اور اللہ ہی کے لئے ہے ملک آسمانوں کا

وَالْأَرْضِ يُغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

اور زمین کا وہ بخش دے جسے چاہے اور عذاب دے جسے چاہے اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے۔

## آپ ﷺ کے ساتھ سفر میں نہ جانے والے دیہاتیوں کی بدگمانی اور حیلہ بازی کا تذکرہ

**تفسیر:** معالم التنزیل ۱۹۱ ج ۴ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ جس سال صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا رسول اللہ ﷺ نے مدینہ منورہ کے آس پاس دیہاتوں میں یہ منادی کرادی کہ ہم عمرہ کے لئے روانہ ہو رہے ہیں، مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ بھی عمرہ کر لیں اور قریش مکہ کی طرف سے کوئی جنگ کی صورت پیدا ہو جائے یا وہ بیت اللہ سے روکنے لگیں تو ان سے نمٹ لیا جائے آپ نے عمرہ کا احرام باندھا اور ہدی بھی ساتھ لی تاکہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ آپ جنگ کے ارادہ سے روانہ نہیں ہو رہے اس وقت ایک بڑی جماعت آپ کے ساتھ روانہ ہو گئی (جن کی تعداد چودہ سو یا اس سے کچھ زیادہ تھی) اس موقع پر دیہات میں رہنے والوں میں بہت سے لوگ پیچھے رہ گئے اور آپ کے ساتھ سفر میں نہ گئے ابھی رسول اللہ ﷺ مدینہ منورہ واپس نہیں پہنچے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں پہلے سے آپ کو خبر دے دی اور فرمایا سَيَكُونُ لَكَ الْكَافِرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَعْلَتًا أَمْوَالًا وَأَهْلًا ۖ فَكَانَ مَعَهُمْ يَوْمَئِذٍ أَرْبَعُونَ نَجْرًا ۚ وَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَهُمُ الْآلِهَةُ الْغَوِيَّةُ ۚ فَاذْهَبْ أَفْوَاجًا ۚ وَذَكَرَ اللَّهُ عَمَّا يُصْنَعُونَ (جن کی شرکت اللہ تعالیٰ کو منظور نہ تھی) وہ شرکت نہ کرنے کا عذر بیان کرتے ہوئے یوں کہیں گے کہ ہمارے مالوں اور ہمارے اہل و عیال نے ہمیں مشغول رکھا ہم ان کی ضروریات میں لگے رہے پیچھے گھروں میں چھوڑنے کے لئے بھی کوئی نہ تھا لہذا آپ ہمارے لئے اللہ سے درخواست کر دیجئے کہ وہ ہماری مغفرت فرمادے جب آنحضرت سرور عالم مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے تو یہ لوگ حاضر خدمت ہو گئے اور انہوں نے ساتھ نہ جانے کا وہی عذر بیان کر دیا کہ ہمیں بال بچوں سے متعلق کام کاج کی مشغولیتوں نے آپ کے ساتھ جانے نہ دیا اب آپ ہمارے لئے استغفار کر دیں اللہ جل شانہ نے ان کی تکذیب کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہہ رہے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے یعنی ان کا یہ کہنا کہ ہمارا شریک ہونے کا ارادہ تو تھا لیکن گھربار کی مشغولیت کی وجہ سے نہ جاسکے اور یہ کہنا کہ آپ ہمارے لئے استغفار کر دیں یہ ان کی زبانی باتیں ہیں جو ان کے قلبی جذبات اور اعتقادات کے خلاف ہیں نہ ان کا شریک ہونے کا ارادہ تھا اور نہ استغفار کی ان کے نزدیک کوئی حیثیت ہے یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہی نہیں لائے پھر گناہ اور ثواب اور استغفار کی باتوں کا کیا موقع ہے؟

پھر ان لوگوں کو تنبیہ فرمائی جو جھوٹی عذرخواہی اور حیلہ بازی کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی ضرر یا نفع پہنچانا چاہے تو وہ کون ہے جو اللہ کی طرف سے آنے والے کسی فیصلے کے بارے میں کچھ بھی اختیار رکھتا ہو جب اللہ کے رسول ﷺ کے

ساتھ چلنے کے لئے حکم ہو گیا تو ساتھ جانا ضروری تھا آپ کے ساتھ نہ جانے کی صورت میں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرر پہنچ جائے تو اس کو کوئی بھی دفع نہیں کر سکتا بات وہ نہیں ہے جو بطور معذرت پیش کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال کی سب خبر ہے تم تو یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول ﷺ اور ان کے ساتھی اہل ایمان جو سفر میں جا رہے ہیں یہ کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے دشمن ان کو بالکل ختم کر دیں گے یہ بات تمہارے لئے شیطان نے مزین کر دی اور تمہارے دلوں میں بیٹھ گئی اور تم نے برا خیال کر لیا کہ یہ لوگ ہلاکت کی راہ پر جا رہے ہیں اگر کسی کے جانے کا ارادہ بھی تھا تو تم نے اسے یہ کہہ کر روک دیا کہ کہاں جا رہے ہو ذرا انتظار کرو دیکھو ان کا کیا ہوتا ہے؟

وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا اور تم اپنے اس گمان کی وجہ سے اور ساتھ نہ جانے کی وجہ سے بالکل تباہ و برباد ہو گئے۔ (معالم انجیل)

قوله تعالى وكنتم قوما بورا قال صاحب الروح ای هالکین لفساد عقیدتکم وسوء نیتکم مستوجبین سخطه تعالى وعقابه جل شأنه وقيل ای فاسدين فی انفسکم وقلوبکم ونیاتکم اه يقال قوم "بور" هلكی وهو جمع بانر مثل حائل وحول وقديار فلان ای هلك وأباره الله ای اهلكه ومنه قوله تعالى تجارة لن تبور وقوله تعالى واحلوا قومهم دار البوار (راجع مفردات الراغب و تفسیر القرطبی) (صاحب روح المعانی لکھتے ہیں قومًا بُورًا کا مطلب ہے تم ہلاک ہونے والے تھے اپنے عقیدے کے فاسد ہونے اور اپنی نیتوں کے بد ہونے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور عتاب کے مستحق تھے بعض نے کہا تم اپنے نفوس اور دلوں میں فاسد تھے، کہا جاتا ہے "قوم بور" یعنی ہلاک شدہ، بُور جمع ہے بَار کی جیسے حائل کی جمع حول ہے بَار فُلاق کا معنی ہے ہلاک ہو گیا اور اُبارہ اللہ کا معنی ہے اللہ اسے ہلاک کرے اور اسی سے ہے اللہ تعالیٰ کا قول وَتَجَارَةٌ لَّنْ تَبُورَ اور وَاحْلُوا قَوْمَهُمْ ذَارَ الْبُورِ )

اس کے بعد کافروں کے لئے وعید بیان فرمائی وَمَنْ لَّمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا اور جو شخص اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان نہ لائے سو ہم نے کافروں کے لئے دوزخ تیار کیا ہے۔)

اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی شان مالکیت اور مغفرت اور مواخذہ کا تذکرہ فرمایا وَلِلَّهِ الْمُلْكُ وَلِلَّهِ السُّلْطَانُ وَالَّذِينَ هِيَ کے لئے ہے ملک آسمانوں کا اور زمین کا) يَفْقَهُ لَعْنُ رَبِّكَ أَوْ يَعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ (وہ مغفرت فرمائے جس کی چاہے اور عذاب دے جس کو چاہے) وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے) جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کی اور کفر پر جبرے رہے اور جھوٹے منہ کہتے ہیں کہ ہمارے لئے استغفار کیجئے اگر یہ لوگ توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ مغفرت فرمادے گا کافر کی توبہ بغیر ایمان کے قبول نہیں ہوتی۔

سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَائِمٍ لِتَأْخُذُوا هَٰذِرُونَ أَنَّا نَبْعَثُكُمْ فِرْيَدُونَ أَنَّا يُبَكِّلُونَ

جب تم اموال غنیمت لینے کے لئے چلو گے تو وہ لوگ کہیں گے جو پیچھے ڈال دیئے گئے کہ ہمیں چھوڑ دو تمہارے پیچھے چلیں وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے

كَلَّمَ اللَّهُ قُلُوبَ الَّذِينَ تَبْعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ

کلام کو بدل دیں آپ فرمادیجئے کہ تم ہرگز ہمارے پیچھے نہ چلو اللہ نے پہلے سے یہی فرمایا ہے سو وہ لوگ کہیں گے بلکہ

## كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا

تم ہم سے حسد کرتے ہو بلکہ بات یہ ہے کہ وہ نہیں سمجھتے مگر تھوڑا سا۔

### جولوگ حدیبیہ والے سفر میں ساتھ نہ گئے تھے ان کی مزید بد حالی کا بیان!

**تفسیر:** صلح حدیبیہ کے بعد تھوڑی ہی سی مدت کے بغیر خیبر فتح ہو گیا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ عنقریب شرکاء حدیبیہ کو اموال غنیمت ملیں گے رسول اللہ ﷺ نے خیبر کے اموال غنیمت شرکاء حدیبیہ کے لئے مخصوص فرمادیئے تھے تاکہ ان اموال کی محرومی کی تلانی ہو جائے جو انہیں اہل مکہ سے جنگ کر کے بطور غنیمت حاصل ہو سکتے تھے اللہ تعالیٰ شانہ نے پہلے سے خبر دیدی کہ جب تم لوگ مغام خیر کے لئے چلو گے یعنی جنگ خیبر کے لئے روانہ ہونے لگو گے جس کا نتیجہ فتح اور اموال غنیمت حاصل ہونے کی صورت میں کچھ قتال ظاہر ہوگا تو یہ لوگ جو صلح حدیبیہ کی شرکت سے قصد ارہ گئے تھے یوں کہیں گے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں کچھ قتال میں حصہ لے لیں گے اور اموال غنیمت میں بھی شریک ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ان سے فرما دیں تم ہرگز ہمارے ساتھ نہ جاؤ گے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے یہ حکم فرمادیا ہے درمیان میں یہ بھی فرمایا یُوْنٰیذُوْنَ اَنْ یَّکُوْنُوْا کَلْمَہُ اللّٰہِ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو بدل دیں یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے کہ مخلصین کو ساتھ نہ لیں اس کو بدلنا چاہتے ہیں اور بعض حضرات نے اس کا یہ مطلب بتایا ہے کہ مغام خیر جو صرف اہل حدیبیہ کے لئے مخصوص کر دیئے گئے تھے اس حکم کو بدلنا چاہتے ہیں۔

چونکہ ان لوگوں کا مقصد مال حاصل کرنا تھا اور یہ سمجھ رہے تھے کہ ذرا سی محنت سے اموال غنیمت حاصل ہو جائیں گے اس لئے سفر خیبر میں ساتھ لگنے کی خواہش ظاہر کر رہے تھے۔

قُلْ لَنْ تَنۡفَعُوْۤاۤ اِیۡہِ خَیۡرَ مَعۡنٰی اَلٰہِیؕ ہے اور مطلب یہ ہے کہ تم لوگ سفر خیبر میں ہرگز ہمارے ساتھ نہ جاؤ گے یعنی ہم تمہیں ساتھ نہ لیں گے۔

پھر فرمایا فَمَیۡسُوۡۤنَ بَلۡ تَحۡسُدُوۡۤاؕ کہ جب تم ان سے یوں کہو گے کہ تم ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے تو یوں کہیں گے کہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں ہے بلکہ تم یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں اموال غنیمت میں شریک کرو تمہارا یہ جذبہ اور قول و فعل حسد پڑتی ہے تم ہم سے حسد کرتے ہو اسی لئے یہ بات کر رہے ہو۔

بَلۡ کَانُوۡا لَا یَفْقَهُوۡۤنَ اِلَّا قَلِیۡلًا (اے مسلمانوں بات یہ نہیں ہے کہ تم حسد کر رہے ہو بلکہ بات یہ ہے کہ وہ بس تھوڑی سی سمجھ رکھتے ہیں صرف دنیاوی امور کو سمجھتے ہیں نصرت دین اور فکر آخرت سے ان کے قلوب خالی ہیں۔

یہاں یہ جواشکال پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے خیبر کے اموال غنیمت میں سے بعض مجاہدین حبشہ کو بھی اموال عطا فرمائے تھے پھر اہل حدیبیہ کے استحقاق اور اختصاص کہاں رہا؟ حضرات مفسرین کرام نے اس کے دو جواب دیئے ہیں اول یہ کہ آنحضرت سرور عالم ﷺ نے انہیں خمس یعنی 1/5 میں سے دیا تھا جس میں مجاہدین غانمین کا حق نہیں ہوتا وہ ۴/۵ کے مستحق ہوتے ہیں اور دوسرا جواب یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے غانمین سے اجازت لے کر ان حضرات کو اپنی صوابدید کے مطابق کچھ مال عطا فرمادیا۔

(راجع معالم التنزیل ۱۹۲ ج ۳ و روح المعانی ص ۱۰۱ ج ۲۶)

قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعُونَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ

آپ ان دیہاتیوں سے فرمائیے جو پیچھے ڈال دیئے گئے تھے کہ تمہیں ایک ایسی قوم کی طرف بلایا جائے گا جو سخت قوت والے ہوں گے تم ان سے قتال کرو گے یا

يُسَلِّمُونَ فَإِنْ تَطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ

و مسلمان ہو جائیں گے سوا کرتے رہنا برداری کرو گے تو اللہ تمہیں اچھا عوض عطا فرمائے گا اور اگر تم نے روگردانی کی جیسا اس سے پہلے روگردانی کر چکے ہو تو اللہ تمہیں

عَذَابًا أَلِيمًا

دردناک عذاب دے گا۔

## حدیبیہ کی شرکت سے بچھڑ جانیا والے دیہاتیوں سے مزید خطاب

تفسیر: اس آیت میں اللہ جل شانہ نے بطور پیش گوئی ان دیہاتیوں کو بتایا ہے جو حدیبیہ کی شرکت سے پیچھے رہ گئے تھے کہ عنقریب ایسی قوم سے جنگ کرنے کے لئے تمہیں بلایا جائے گا جو بڑی قوت والے ہوں گے سخت جنگ جو ہوں گے (خیبر کی جنگ میں تمہیں نہ لے جایا گیا جو حدیبیہ میں شریک نہ ہونے کی وجہ سے تمہارے لئے ایک قسم کی سزا ہے) جنگ لڑنے کے اور بھی مواقع آئیں گے آنے والی قوموں سے تم لڑتے رہو گے یا وہ فرمانبردار ہو جائیں گے جب تمہیں ان سے مقابلہ اور مقاتلہ کے لئے بلایا جائے گا تو اس وقت اطاعت کرو گے (یعنی دعوت دینے والے امیر کی فرمانبرداری کرو گے) اللہ تعالیٰ تمہیں اجر حسن یعنی نیک عوض عطا فرمادے گا اور اگر تم نے اس وقت روگردانی کی جہاد سے پشت پھیری جیسا کہ حدیبیہ کے موقع پر پیچھے رہ چکے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔

جن مواقع میں اعراب مذکورین کو قتال کے لئے دعوت دی گئی یہ مواقع کب پیش آئے اور جس قوم سے جنگ کرنے کے لئے حکم دیا گیا وہ کون سی قوم تھی؟ اس بارے میں حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم اس آیت کو پڑھتے تو تھے لیکن یہ پتہ نہ تھا کہ اس سے کون لوگ مراد ہیں جب قبیلہ بنو حنیفہ سے جنگ کرنے کے لئے حضرت ابوبکر صدیقؓ نے دعوت دی تو سمجھ میں آ گیا کہ آیت کا مصداق یہی بنو حنیفہ سے جنگ کرنا ہے بنو حنیفہ یمامہ کے رہنے والے تھے اور مسیلہ کذاب کے ساتھی تھے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس قوم سے فارس اور روم مراد ہیں جن سے جنگ کرنے کے لئے حضرت عمرؓ نے دعوت دی تھی اور لشکر بھیجے تھے۔

ایک قول یہ بھی ہے کہ بنی ہوازن مراد ہیں جن سے غزوہ حنین میں جہاد ہوا اور ایک قول یہ کہ اس سے رومی کفار مراد ہیں جن کے حملہ کرنے کی خبر سن کر رسول اللہ ﷺ تبوک تشریف لے گئے تھے صاحب روح المعانی نے یہ اقوال لکھے ہیں ان میں سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی دعوت مراد ہونا اقرب ہے کیونکہ انہوں نے جو قتال بنو حنیفہ کے لئے دعوت دی تھی وہ امیر المؤمنین ہونے کی حیثیت سے تھی اور امیر المؤمنین کی اطاعت نہ کرنے پر عذاب کی وعید دی گئی ہے اور ساتھ ہی تَقَاتِلُوهُمْ أَوْ فَتِنُوهُمْ بھی اس پر صادق آتا ہے کیونکہ مسیلہ کذاب کے ساتھیوں سے جنگ ہوئی تو اس کے ساتھیوں میں سے بہت سوں نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا (وہذا علی ان تكون لفظه او للتبوع والحصص كما هو الظاهر)

(اور یہ اس وقت ہے جبکہ لفظ اَوْ تنويع کے لئے ہوا اور حصر کیلئے ہو جیسا کہ ظاہر ہے)

قبیلہ بنی ہوازن سے جنگ کرنے کے لئے مدینہ منورہ میں دعوت نہیں دی گئی فتح مکہ کے بعد رسول اللہ ﷺ تشریف لے گئے تھے جہاں بنی ہوازن مقابلہ کے لئے جمع ہوئے تھے اور غزوہ تبوک کی شرکت بھی مراد نہیں لی جاسکتی کیونکہ وہاں قتال نہیں ہوا اور نہ رومی مسلمان ہوئے۔ کیونکہ وہ سامنے ہی نہیں آئے اور حضرت عمرؓ نے جو فارس اور روم کے جہادوں کے لئے دعوت دی تھی چونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں کہ وہ جہاد فرض عین تھا۔ اس لئے اس کو ترک و عید کا مصداق نہیں بنایا جاسکتا امیر کا جو حکم جہاد فرض کفایہ کے لئے ہو وہ ایجابی نہیں ہوتا یا در ہے کہ اَوْفِيهِمْ لُفُؤُن کا ایک ترجمہ تو یہ کیا گیا ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیں گے اور ایک ترجمہ یہ ہے کہ وہ فرمانبردار ہو جائیں گے۔ یعنی جزیہ دے کر جھک جائیں گے اگر قتال بنی حنیفہ مراد لیا جائے تو پہلا معنی اقرب الی السیاق ہے کیونکہ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں بنی حنیفہ کے قتال کے تذکرے کے بعد لکھا ہے کہ بنی حنیفہ میں سے دس گیارہ ہزار آدمی مارے گئے اور بہت سوں نے حضرت خالد بن ولید کے دعوت دینے پر اسلام قبول کر لیا اور لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھی حاضر ہو گئے۔ (البدایہ والنہایہ ص ۳۶۵ ج ۶) واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب والیہ المرجع والمآب۔

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرْيُومِ حَرْجٌ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ

ناپیدا پر کوئی گناہ نہیں اور لنگڑے پر کوئی گناہ نہیں بیمار پر کوئی گناہ نہیں اور جو شخص اللہ

وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يَْعَذَّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے وہ ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور جو شخص روگردانی کرے وہ اسے دردناک عذاب دے گا۔

معذوروں سے کوئی مواخذہ نہیں فرمانبرداروں کے لئے جنت اور روگردانی کرنے والوں کے لئے دردناک عذاب ہے

تفسیر: تفسیر قرطبی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ جب آیت کریمہ وَلَنْ تَتَوَلَّوْا کُنَّا تَوَكَّلْتُكُمْ مِنْ قَبْلِ يَوْمِ بَيْتِ الْمُؤَدَّةِ اَبَا الْيَمَانِ نازل ہوئی (جس میں حکم جہاد سن کر روگردانی کرنے والوں کے لئے عذاب کی وعید ہے) تو جو لوگ اپنا حق سمجھنے کے تھے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارا کیا بنے گا ہم تو جہاد میں شرکت نہیں کر سکتے اس پر آیت کریمہ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ (آخر تک) نازل ہوئی جس میں یہ بتا دیا کہ جو لوگ مجبوری کی وجہ سے جہاد میں نہ جاسکے مثلاً نابینا ہوں یا لنگڑے ہوں یا بیمار ہوں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے یہ مضمون سورۃ التوبہ میں بھی گزرا ہے وہاں فرمایا ہے لَيْسَ عَلَى الضَّعْفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرْجٌ اِذَا اَنْصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ۔ (دیکھو انوار البیان ص ۳۲۳ ج ۳) اس کے بعد ایک قاعدہ کلیہ بیان فرمادیا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی فرمانبرداری کرے گا اللہ اسے جنت میں داخل فرمادے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ سے روگردانی کرے گا یعنی بے گناہ اور بچے گا اللہ تعالیٰ اسے دردناک عذاب دے گا۔



لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ

باتحقیق اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے راضی ہوا جبکہ وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے سوان کے دلوں میں جو کچھ تھا اللہ کو معلوم تھا

فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ۖ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا

اور اللہ تعالیٰ نے ان پر اطمینان نازل فرما دیا اور ان کو لگتے ہاتھ ایک فتح دی اور بہت سی غنیمتیں بھی جن کو یہ لوگ لے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ بڑا عزیز و رحیم

حَكِيمًا ۚ وَعَدَ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا فَعَجَلَ لَكُمْ هَذِهِ ۚ وَكَفَتْ أَيْدِيَ النَّاسِ

بڑا حکمت والا ہے اللہ تعالیٰ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کر رکھا ہے جن کو تم لوگ سو مسرت تم کو یہ دی ہے اور لوگوں کے ہاتھ تم سے

عَنْكُمْ وَلَيَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۚ وَآخِرَى لَكُمْ يُقَدِّرُ اللَّهُ عَلَيْهَا قَدْ

روک دیئے اور تاکہ یہ الایمان کے لئے نمونہ ہو جائے اور تاکہ تم کو ایک سیدھی راہ پر ڈال دے اور ایک فتح اور بھی ہے جو تمہارے قابو میں نہیں آئی خدا تعالیٰ اس کو

أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ۚ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوْا الْأَدْبَارَ

احاطہ علمی میں لئے ہوئے ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اگر کافر لوگ تم سے جنگ کرتے ہیں تو پشت پھیر لیتے

ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِ وَلَكِنْ تَجِدُ لِسُنَّةِ

پھر نہ کوئی کارساز پائے اور نہ کوئی مددگار یہ پہلے سے اللہ کا دستور رہا ہے اور اے مخاطب تو اس کے دستور میں

اللَّهُ تَبْدِيلًا

تبدیل نہ پائے گا۔

بیعت رضوان والوں کی فضیلت ان سے فتح و نصرت اور اموال غنیمت کا وعدہ

تفسیر: ان آیات میں بیعت رضوان کا ذکر ہے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے رسول اللہ ﷺ نے

اس بات پر ملی تھی کہ جنگ ہونے کی صورت میں ہم ہر طرح سے آپ کا ساتھ دیں گے پیچھے نہیں ہٹیں گے جم کر لڑیں گے اللہ جل شانہ نے اعلان فرما دیا کہ جن مومنین نے درخت کے نیچے آپ سے بیعت کی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ ان حضرات کے لئے اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کا تمغہ مل گیا رہتی دنیا تک کے لئے قرآن پڑھنے والے تمام اشخاص و افراد کے سامنے بار بار اعلان سامنے آتا رہے گا کہ اللہ تعالیٰ ان تمام بیعت کرنے والوں سے راضی ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ان شاء اللہ دوزخ میں ان لوگوں سے کوئی بھی داخل نہ ہوگا جنہوں نے حدیبیہ میں بیعت کی۔

رضا مندی کا اعلان فرماتے ہوئے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاص کی حالت کو جان

لیا جس سے ان کے قلوب معمور تھے پھر اپنی مزید نعمت کا اظہار فرمایا فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینہ

نازل فرمادی ان کے قلوب کو پوری طرح اطمینان ہو گیا کہ رسول اللہ ﷺ نے جو کچھ مصالحت کی ہے اور قریش مکہ سے جو معاہدہ فرمایا ہے یہ بالکل صحیح ہے درست ہے اہل ایمان کے لئے باعث خیر ہے اور مبارک ہے پھر فتح قریب کی بشارت دی مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ اس سے خیبر کی فتح مراد ہے ۶ھ میں صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا اور اس کے دو ماہ بعد خیبر فتح ہو گیا جہاں یہودی بنی نضیر مدینہ منورہ سے جلاوطن کئے جانے کے بعد آباد ہو گئے تھے وہاں بھی انہوں نے شرارتیں جاری رکھیں لہذا رسول اللہ ﷺ اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو لے کر تشریف لے گئے خیبر فتح ہو گیا اور یہود کے اموال بھی غنیمت کی صورت میں حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو مل گئے۔

اس مضمون کے ختم پر ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غلبہ والا ہے وہ سب پر غالب ہے وہ جس کو چاہتا ہے غلبہ دیتا ہے اور حکمت والا بھی ہے (اس کا ہر فیصلہ جلدی ہو یا دیر سے ہو سب کچھ حکمت کے مطابق ہوتا ہے) اس کے بعد فرمایا ﴿وَعَدَ اللَّهُ لَكُمْ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُ وَنَهَا﴾ (اللہ نے تم سے بہت سے اموال غنیمت کا وعدہ فرمایا ہے) ﴿فَعَجَلْ لَكُمْ هَذِهِ﴾ (سو یہ اموال غنیمت جو تمہیں خیبر سے ملے ان کو جلدی عطا فرمادیا) (اور ان کے علاوہ اور بہت سے مال غنیمت ملیں گے)۔

﴿وَكَلَّتْ أَيْدِي النَّاسِ عَنْكُمْ﴾ (اور لوگوں کے ہاتھوں کو تمہاری جانب سے روک دیا یعنی جن لوگوں نے تم پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تھا ان کی دست درازی سے تمہیں محفوظ فرمادیا جب رسول اللہ ﷺ خیبر تشریف لے گئے اور وہاں اہل خیبر کا محاصرہ فرمایا تو یہاں قبیلہ بنی اسد اور قبیلہ بنی غطفان کے لوگوں نے مشورہ کیا کہ اس وقت مدینہ منورہ میں مسلمان تھوڑے سے ہیں اکثر غزوہ خیبر کے لئے گئے ہیں لہذا مدینہ منورہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کے اہل و عیال اور بال بچوں کو لوٹ لیا جائے اللہ تعالیٰ نے ان کے ارادہ کو ارادہ تک ہی رکھا ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا جس کی وجہ سے مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لئے نہ آ سکے۔

(معالم التنزیل)

روح المعانی ج ۱۰ ص ۲۶ میں یوں لکھا ہے کہ یہودی لوگ مسلمانوں کے پیچھے ان کے اہل و عیال پر حملہ کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں باز رکھا اور ارادہ کے باوجود وہ حملہ نہ کر سکے ایک قول یہ بھی ہے کہ بنی اسد اور بنی غطفان اہل خیبر کی مدد کے لئے نکلے تھے پھر واپس ہو گئے اور حضرت مجاہد تابعی نے ﴿وَكَلَّتْ أَيْدِي النَّاسِ عَنْكُمْ﴾ کا مطلب یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صلح کی صورت پیدا فرما کر اہل مکہ کے ہاتھوں کو روک لیا جو اہل ایمان سے جنگ کرنے کے لئے تیار تھے۔

﴿وَلَيَكُونَنَّ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ اموال غنیمت عطا فرمادیے تاکہ تم اس سے نفع حاصل کرو اور تاکہ یہ اموال مومنین کی اثبات کی نشانی بن جائیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہے اور اس سے ایمان مزید موکد ہو جائے۔

﴿وَيَهْدِيَكُمْ إِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ اور تاکہ تمہیں صراط مستقیم پر چلائے یعنی ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھنے والے بنادے قال فی الروح ای فعجل لكم هذه وكف ايدي الناس عنكم لتتفخوا بذلك ولتكون آية (وفيه ايضاً) والآية

الامارة ای ولتكون اماره للمؤمنين يعرفون بها انهم من الله تعالى بمكان او يعرفون بها صدق الرسول في وعده ايهم فتح خيبر وما ذكر من المغانم وفتح مكة ودخول المسجد الحرام. (روح المعانی میں ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ جلدی دیدی اور لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روک لیا تاکہ تم اس صورت حال سے نفع حاصل کرو اور یہ نشانی

بنے اور اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ آیت کہتے انمارۃ کو یعنی یہ مؤمنین کیلئے نشانی ہے اس سے انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایک مقام پر فائز ہیں اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فتح خیر غنیمت اور فتح مکہ اور مسجد حرام میں داخلہ کے بارے میں حضور ﷺ کا ان سے وعدہ سچا تھا۔

و یہدیکم صراطاً مستقیماً، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے صحیح راہ نما ہے اور ہر کام کے کرنے یا چھوڑنے میں اسی پر ہی اعتماد ہے)

و یُفْضِلُ لَکُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِیْمًا ۝ هُوَ الثَّقَةُ بِفَضْلِ اللَّهِ تَعَالٰی ۝ وَ التَّوَكُّلُ عَلَیْهِ فِی کُلِّ مَا تَأْتُونَ وَ تَذَرُونَ ۝  
وَاٰخَرٰی لَکُمْ تَقْدِرٌ وَّ عَلَیْکُمْ اَنَّ اَحَاطَ اللّٰهُ بِهَا ۝ اور ان کے علاوہ بھی فتوحات ہوگی جن پر تم ابھی قادر نہیں ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے وہ فتوحات مراد ہیں جو رسول اللہ ﷺ کے بعد مسلمانوں کو نصیب ہوئیں مثلاً فارس اور روم فتح ہوئے اور ان کے علاوہ بھی بہت سے علاقے اور ممالک ان کے قبضے میں آئے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس سے فتح مکہ مراد ہے اور حضرت عکرمہ کا قول ہے کہ اس سے فتح حنین مراد ہے اور حضرت مجاہد نے فرمایا کہ قیامت تک مسلمانوں کو جو بھی فتوحات نصیب ہوں گی وہ سب مراد ہیں یہ اقوال مفسر قرطبی نے لکھے ہیں۔

لَکُمْ تَقْدِرٌ وَّ عَلَیْکُمْ (ظاہری معنی تو یہ ہے کہ اس وقت تو تم کو ان پر قدرت حاصل نہیں ہوئی اور بعض حضرات نے یوں ترجمہ کیا ہے کہ لن نکونو نرجوا انها کہ تمہیں ان کے فتح ہونے کی امید نہ تھی بعض حضرات نے اسی کا اردو ترجمہ یوں کیا ہے کہ وہ فتوحات تمہارے خواب و خیال میں بھی نہ تھیں۔

فَ اَنَّ اَحَاطَ اللّٰهُ بِهَا اللّٰهُ تَعَالٰی کے علم میں ہے کہ تم انہیں فتح کرو گے اس نے مقدر فرمادیا ہے کہ ان پر تمہارا قبضہ ہوگا۔  
وَ کَانَ اللّٰهُ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرًا ۝ اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ جب چاہے جسے چاہے جو ملک اور مملکت نصیب فرمائے۔  
اس کے بعد فرمایا وَلَوْ کَانَ کُلُّ الذِّیْنِ کُفَرًا ۝ وَلَوْ کَانَ کُلُّ الْاَدْبَارِ ۝ اور اگر کفار تم سے جنگ کرتے تو پشت پھیر کر چلے جاتے) حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اس سے کفار قریش مراد ہیں اور بعض حضرات نے فرمایا کہ نبی غطفان اور نبی اسد مراد ہیں جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کے خیر تشریف لے جانے کے بعد مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔

لَکُمْ لَا یُجِزُّوْنَ وَّلَیْکُمْ لَا یُصِیْرُ (پھر وہ کوئی اپنا دوست اور مددگار نہ پاتے)

سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِیْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِ (یہ پہلے سے اللہ کی عادت رہی ہے کہ کار خیر کے ساتھ انجام حضرات انبیاء اکرام علیہم الصلوٰۃ کے حق میں رہا ہے اپنے اولیا کی اس نے مدد فرمائی ہے اور دشمنوں کو مغلوب کیا ہے) وَلَکِنْ یَحْدِلُ سُنَّةَ اللّٰهِ تَبْدِیْلًا ۝ اور تم اللہ کی عادت میں تبدیلی نہ پاؤ گے) صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ آیت کا یہ مطلب معلوم ہوتا ہے کہ اچھا انجام ہمیشہ حضرات انبیاء کے حق میں ہی ہوا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب کبھی بھی کافروں سے قتال ہوا تو کافروں پر غلبہ ہوا ہو، وَلَعَلَّ الْمُرَادَ اَنَّ تَكُوْنُ الْعَاقِبَةُ لِلْاَنْبِیَاءِ عَلَیْهِمُ السَّلَامُ لَا اَنْهُمْ کَلِمًا قَاتَلُوا الْکُفَرَ غَلِبُوْهُمُ وَ هَزَمُوْهُمُ ۝ ۱ ھ۔ (شاید مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ انجام کار فتح انبیاء کی ہوتی ہے یہ مطلب نہیں کہ جب بھی کفار سے لڑائی ہو تو یہ ان پر غالب آجائیں اور انہیں شکست دیدیں)

وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ

اور اللہ وہ ہے جس نے ان کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے مکہ میں ہوتے ہوئے روک دیا اس کے بعد کہ تمہیں

عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿۶۳۵﴾

ان پر قابو دے دیا تھا اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھنے والا ہے۔

**اللہ تعالیٰ نے مومنوں اور کافروں کو ایک دوسرے پر حملہ کرنے سے باز رکھا**

**تفسیر:** علامہ قرطبی نے اپنی تفسیر میں آیت بالا کا سبب نزول بتاتے ہوئے متعدد اقوال لکھے ہیں صحیح مسلم میں ایک واقعہ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے اور دوسرا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور دونوں کو آیت بالا کا سبب نزول بتایا ہے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب ہمارے اور اہل مکہ کے درمیان صلح ہو گئی تو میں ایک درخت کے نیچے کانٹے ہٹا کر لیٹ گیا اس وقت اہل مکہ میں سے چار مشرکین وہاں پہنچ گئے جو رسول اللہ ﷺ کے بارے میں ناشائستہ کلمہ کہنے لگے مجھے برا لگا اور میں جگہ چھوڑ کر دوسرے درخت کے نیچے چلا گیا ان لوگوں نے اپنے ہتھیار لٹکا دیئے اور لیٹ گئے میں نے اپنی تلوار لی اور ان چاروں آدمیوں کے ہتھیاروں پر قبضہ کر لیا اور ان سے کہا کہ دیکھو قسم اس ذات کی جس نے محمد ﷺ کو عزت بخشی ہے اگر تم میں سے کوئی شخص سر اٹھائے گا اس کا سرتن سے جدا کر دوں گا اس کے بعد میں انہیں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں لے آیا اور میرے چچا ستر آدمی قید کر کے لائے جن کا نام عامر تھا ان کے گرفتار کردہ لوگوں میں مرکز نامی بھی ایک شخص تھا اس کے ساتھ اور افراد بھی تھے جو مشرکین میں سے تھے جن کی تعداد ستر افراد تھی آپ نے ان کو معاف کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ (الایۃ) نازل فرمائی صحیح مسلم۔

اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں روایت ہے کہ اہل مکہ میں سے اسی ۸۰ آدمی جہلِ معیم سے اتر کر آ گئے یہ لوگ ہتھیار پہنے ہوئے تھے ان کا ارادہ یہ تھا کہ غفلت کا موقع پا کر رسول اللہ ﷺ اور آپ کے صحابہ پر حملہ کر دیں آپ نے ان لوگوں کو پکڑ لیا وہ لوگ قابو میں آ گئے تو اپنی جانوں کو سپرد کر دیا آپ نے ان کو زندہ چھوڑ دیا اس پر اللہ تعالیٰ شانہ نے آیت مذکورہ بالا نازل فرمائی (صحیح مسلم ۱۱۶ ج ۲) مفسر ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ شانہ نے اپنے مومن بندوں پر احسان جنمایا ہے کہ اس نے مشرکین کے ہاتھوں سے تمہیں محفوظ رکھا اور ان کی طرف سے کوئی تکلیف نہ پہنچنے دی اور مومنین کے ہاتھوں کو بھی مشرکین تک نہ پہنچنے دیا۔

اس کے بعد آیت کا ترجمہ دوبارہ پڑھ لیجئے اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں کہ کس کی کس طرح حفاظت فرمائے اور مخالف کے قبضہ ہونے کے بعد اس کے حملہ سے کس طرح بچائے اور قلوب کو جس طرح چاہے پلٹ دے رسول اللہ ﷺ نے جن لوگوں سے نرمی کا معاملہ فرمایا اور معاف کر دیا عموماً وہ لوگ بعد میں مسلمان ہی ہو گئے۔

هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ حِجْلَهُ

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے جانور کو روک دیا جو رکا ہوا رہ گیا اس کے موقع میں پہنچنے سے روکا

وَأُولَٰئِكَ جُلُودُهُمْ مُّوَسَّسَةٌ وَنِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ لَمْ تَغْلِبُوهُمْ أَنْ تَطُوعُهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ

اور اگر بہت سے مسلمان مرد اور بہت سی مسلمان عورتیں نہ ہوتیں جن کی تم کو غیر مذہبی لڑکیوں کے پس جانے کا احتمال نہ ہوتا جس پر ان کی وجہ سے تم کو بے خبری میں

مَعَرَّةٌ لِّغَيْرِكُمْ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَرَبَّأُوا الْعَدُوَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَامْنَهُمْ

ضرر پہنچ جاتا تو سب قصہ طے کر دیا جاتا تا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کرے۔ یہ مسلمان مرد و عورت جدا ہو جاتے تو ہم ان کو

عَذَابًا أَلِيمًا ۚ اذْجَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ

دردناک عذاب دینے جو اہل مکہ میں سے کافر تھے۔ جب کہ ان کافروں نے اپنے دلوں میں عار کو جگہ دی اور عار بھی جاہلیت کی تھی سو اللہ تعالیٰ

سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا

نے اپنے رسول کو اور مومنین کو اپنی طرف سے محل عطا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تقویٰ کی بات پر جمائے رکھا اور وہ اس کے زیادہ مستحق ہیں

وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

اور اس کے اہل ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔

کافروں نے مسلمانوں کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکا

ان پر حمیت جاہلیہ سوار ہو گئی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر سکینہ

نازل فرمائی اور انہیں تقویٰ کی بات پر جمادیا!

تفسیر: ان آیات میں چند امور بیان فرمائے اول مشرکین کی مذمت فرمائی کہ انہوں نے مسلمانوں کو مسجد حرام

تک پہنچنے سے روک دیا اور وہ جو قربانی کے جانور ساتھ لائے تھے ان کو ان کے موقع ذبح میں نہ جانے دیا (ان کی حرکتوں کا تقاضا یہ تھا کہ ان سے جنگ کی جاتی اور انہیں سزا دے دی جاتی)

تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ ہدی کے جانور جو رسول اللہ ﷺ اپنے ساتھ لے گئے تھے ان کی تعداد ستر تھی عمرہ کر کے انہیں مکہ معظمہ میں ذبح کیا جانا تھا قریش آڑے آئے لہذا احد بیبیہ ہی میں حلق کرنا پڑا اور ہدی کے جانور وہیں ذبح فرما دیئے دوسرے یہ فرمایا کہ مکہ معظمہ میں ایسے مومن مرد اور مومن عورتیں موجود تھیں جن کا تمہیں علم نہ تھا ہو سکتا تھا کہ تم بے علمی میں اپنے قدموں سے انہیں روند ڈالتے اور اس کی وجہ سے تم کو ضرر پہنچ جاتا اللہ تعالیٰ شانہ نے ضعیف مومنین اور مومنات کی وجہ سے صلح کی صورت پیدا فرمادی اگرچہ قریش مکہ کی حرکت ایسی تھی کہ ان سے جنگ کی جاتی صاحب روح المعانی فرماتے ہیں

کر لولا کا جواب محذوف ہے۔

وجواب لولا محذوف لدلالة الکلام علیه، والمعنى على ما سمعت اولولا کراهة ان تهلكوا انا سامؤنین بین ظهرانى الکفار جاهلین بهم فیصیبکم باهلاکم مکروه لما کف ایدیکم عنهم، وحاصله انه تعالى ولولم یکف ایدیکم عنهم لانجر الامر الی اهلاک مؤمنین بین ظهور انهم فیصیبکم من ذلک مکروه وهو عز وجل یکره ذلک، (لولا کا جواب محذوف ہے۔ اس بناء پر معنی یہ ہے کہ اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ ان جانے میں تم کافروں کے درمیان مؤمن لوگوں کو قتل کرو گے اور ان کی ہلاکت سے تمہیں تکلیف ہوگی تو ان سے تمہارے ہاتھ نہ روکے جاتے حاصل یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان سے تمہارے ہاتھ نہ روکتا تو معاملہ کا نتیجہ یہ ہوتا کہ کافروں کے درمیان رہنے والے مؤمن ہلاک ہوتے اور اس سے تمہیں تکلیف ہوتی اور اللہ تعالیٰ بھی اس بات کو ناپسند کرتے ہیں)

فَصِيبُكُمْ مَعَهُمْ مَعْرَةٌ لَكُمْ فَعِظُوا عِلْمِهِ جوفرمایا اس میں لفظ مَعْرَةٌ وارد ہوا ہے اس کا ترجمہ ضرر اور مکروہ اور مشقت اور گناہ کیا گیا ہے بعض حضرات نے اس کی تشریح کرتے ہوئے یوں فرمایا ہے کہ اگر جنگ ہوتی تو مؤمن مرد اور عورتیں اس کی زد میں آجاتے تو اہل ایمان کو رنج پہنچتا اور دکھ ہوتا اور کافروں کو یوں کہنے کا موقع مل جاتا کہ دیکھو مسلمانوں نے اپنے اہل دین ہی کو قتل کر دیا بعض حضرات نے یہ مطلب بتایا ہے کہ ان کے قتل کرنے سے گناہ میں مبتلا ہو جاتے اور بعض حضرات کا قول ہے کہ دیت واجب ہو جاتی لیکن صاحب روح المعانی نے ابن عطیہ سے نقل کیا ہے کہ یہ دونوں قول ضعیف ہیں طبری کا قول ہے کہ اس سے قتل خطا کا کفارہ مراد ہے صاحب روح المعانی نے اس پر کلام کیا ہے اور بعض حضرات کا تعقب نقل کیا ہے۔ (فرہہ ان شمت)

تیسرے لُیْدَ خَلَّ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ فرمایا یعنی اللہ شانہ نے اہل ایمان کو جنگ کرنے سے بچا دیا تا کہ وہ اس کے ذریعہ جنگ کے بغیر جیسے چاہے اپنی رحمت میں داخل فرما دے یعنی اس نے اہل ایمان کو جنگ سے بھی بچالیا اور انہیں اپنی رحمت میں بھی داخل فرما دیا جو ضعیف مؤمن اور مومنات مکہ میں تھے ان کے پر اس رہنے کی بھی صورت نکل آئی اور مشرکین کی طرف سے جو انہیں ضعیف سمجھ کر تکلیفیں دی جاتی تھیں ان سے بھی چھٹکارہ حاصل ہو گیا اور پوری طرح عبادت کرنے کے مواقع بھی نکل آئے بعض حضرات نے فرمایا کہ مَنْ يَشَاءُ سے اہل ایمان بھی مراد ہیں جنہیں اللہ کی رحمت شامل حال ہوگئی اور مشرکین بھی مراد ہیں کیونکہ انہیں سوچنے اور سمجھنے اور اسلام قبول کرنے کا موقعہ دے دیا گیا (راجع روح المعانی ص ۱۱۵ ج ۲)

چوتھے یہ فرمایا لَوْ تَوَزَّيْنَا الْعَدُوَّ بِنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابُ الْآلِيمَا اگر وہ مومنین اور مومنات کافروں سے علیحدہ ہو جاتے جو مکہ معظمہ میں موجود تھے اور ضعف کی وجہ سے ہجرت نہیں کر سکتے تھے تو ہم کافروں کو دردناک عذاب دے دیتے یعنی کافر مقتول ہوتے اور قیدی بنائے جاتے۔

صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ جو مؤمن مرد و عورت مکہ معظمہ میں موجود تھے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مومنین کو جنگ سے محفوظ رکھا یہ نو افراد تھے جن میں سات مرد اور دو عورتیں تھیں۔

پھر فرمایا اِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا (الآیہ) کہ ان لوگوں نے تمہیں ایسے وقت میں روکا جبکہ اپنے دلوں میں انہوں نے حمیت کو جگہ دے دی یہ جاہلیت کی حمیت تھی جس کسی چیز کو انسان اپنے لئے عار اور عیب سمجھے پھر اس کی بنیاد پر اپنی جان کو بچانے کے لئے کوئی حرکت یا کوئی بات کرے۔ اسے حمیت کہا جاتا ہے جب رسول اللہ ﷺ اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم

اجتہاد کے ساتھ عمرہ کرنے کی نیت سے روانہ ہوئے اور قریش مکہ کو اس کا پتہ چل گیا تو ان پر جہالت سوار ہو گئی اور حمیت جاہلیہ کو سامنے رکھ کر انہوں نے طے کر لیا کہ آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے ورنہ عرب میں یہ مشہور ہو جائے گا کہ محمد ﷺ مکہ والوں کی رضا مندی کے بغیر زبردستی مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے اس طرح سے اہل عرب ہمیں طعنہ دیں گے ان لوگوں نے حمیت جاہلیہ کی وجہ سے صلح نامہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھنے دیا اور محمد رسول اللہ جو لکھ دیا گیا تھا اس کی جگہ محمد بن عبد اللہ لکھوانے کی ضد کی۔

فَاَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ (سواللہ نے اپنے رسول پر اور مومنین پر اطمینان نازل فرما دیا اور انہوں نے لڑائی لڑنے پر اور اسی سال عمرہ کرنے پر ضد نہ کی۔ وَالزَّمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا) (اور اللہ نے تقویٰ کا کلمہ ان کے ساتھ لازم فرما دیا وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا اور یہ لوگ کلمہ تقویٰ کے زیادہ حق دار تھے اور اس کے اہل تھے وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا) (اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے کلمہ التقویٰ سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں امام ترمذی نے بروایت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد نقل کیا ہے کہ اس سے کلمہ لا الہ الا اللہ مراد ہے اس کو تقویٰ کا کلمہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ شرک سے کفر سے اور گناہوں سے بچاتا ہے مطلب یہ ہے کہ ان حضرات نے اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے کلمہ کو اپنا لیا اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لئے اسے ان کا ساتھی بنا دیا اور اب یہ اس کے ذریعہ اللہ کو بھی یاد کرتے ہیں اور اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرتے ہیں اور یہ جو فرمایا کہ یہ لوگ اس کلمہ کے احق تھے اور اہل تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ تھا کہ یہ لوگ کلمہ قبول کریں گے اور اس کے تقاضوں پر چلیں گے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے ان کا مزاج قبول حق کا بنا دیا تھا اسی مزاج اور طبعیت کے مطابق وہ اسی کی طرف آگے بڑھے وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا) (اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے) وہ اپنی حکمت کے مطابق جسے چاہتا ہے اہل بناتا ہے اور پھر اہلیت کے مطابق محض اپنے فضل سے خیر اور رشد و ہدایت پر جما کر رکھتا ہے۔

لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

بے شک اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا جو واقع کے مطابق ہے ان شاء اللہ تم ضرور مسجد حرام میں امن و امان کے ساتھ داخل ہو گے

أَمِينٍ مُّخْلِقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ

اپنے سرؤں کو مٹانے والے ہو گے اور اپنے بالوں کو کھڑوانے والے ہو گے تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا سواللہ نے جان لیا جو تم نے نہیں جانا سو اس سے پہلے

ذَلِكَ فَتَنَّا قُورَيْبًا ۖ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ

عنقریب ہی ایک فتنہ نصیب فرمادی اللہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا کہ اسے تمام دینیوں پر غالب کر دے

وَكُفِيَ بِاللَّهِ شَهِيدًا

اور اللہ کافی گواہ ہے۔



## اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا اس نے آپ ﷺ کو ہدایت اور حق کے ساتھ بھیجا

**تفسیر:** مفسرین نے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو حدیبیہ والے سفر میں روانہ ہونے سے پہلے ہی مدینہ منورہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خواب دکھادیا گیا تھا کہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ امن وامان سے مسجد حرام میں داخل ہوں گے اور وہاں کچھ لوگ سر موٹیں گے اور کچھ لوگ بال کتر وائیں گے آپ نے یہ خواب صحابہ کو بتادیا تھا خواب سن کر سب بہت خوش ہوئے اور اس امید پر روانہ ہو گئے کہ اس سال مکہ مکرمہ میں داخل ہوں گے اور عمرہ نصیب ہوگا جب حدیبیہ میں پہنچے اور مشرکین مکہ آڑے آگئے جس کی وجہ سے صلح کر لی گئی اور مکہ معظمہ میں داخل ہوئے بغیر واپس آگئے تو رسول اللہ ﷺ کے صلح کرنے کو حق جانتے اور مانتے ہوئے طبعی طور پر اس بات سے صحابہ کو رنج ہو رہا تھا کہ ہم مکہ مکرمہ میں داخل نہ ہو سکے بلکہ صلح کے وقت ہی حضرت عمرؓ نے سوال کر لیا تھا کہ آپ تو یہ خبر دی تھی کہ مکہ معظمہ میں داخل ہوں گے یہ تو اس کے خلاف ہے رسول اللہ ﷺ نے اسی وقت اس کا جواب دے دیا تھا اس جواب سے حضرت عمرؓ مطمئن ہو گئے تھے (کمانی صحیح مسلم خطابت نمبر ۱۰۶ ص ۲۶) اطمینان عقلی کے ہوتے ہوئے طبعی طور پر جو رنج تھا اس کو دور فرمانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے آیت بالا نازل فرمائی جس میں یہ بتادیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو خواب دکھایا تھا تم انشاء اللہ مسجد حرام میں امن کے ساتھ داخل ہو گے وہاں کوئی بال کتر وائے گا اور کوئی بال کتر وائے گا اور کسی کو کسی کا ڈر نہیں ہوگا یہ خواب اللہ تعالیٰ نے صحیح دکھایا تھا۔ واقعہ کے مطابق تھا جس کا آئندہ سال مظاہرہ ہوا اور چونکہ خواب میں اسی سال داخل ہونے کی خبر نہیں دی گئی تھی اسی لئے خواب کے سچا ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑا اس میں جو لفظ انشاء اللہ فرمایا ہے یہ شک کے لئے نہیں ہے بلکہ تحقیق اور تاکید کے لئے ہے۔ اور ابو عبیدہ کا قول ہے کہ ان یہاں اذ کے معنی میں ہیں جس کا معنی یہ ہے کہ جب اللہ چاہے داخل ہو جاؤ گے۔

اور یہ جو فرمایا **فَعَلِمُوا مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا** (سو اللہ نے جان لیا جو تم نے نہیں جانا) اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ مکہ معظمہ کے داخل ہونے میں جو تاخیر کی گئی اس میں جو اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی جس کا تمہیں علم نہ تھا بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر اسی سال عمرہ کرنے کی ضد کرتے اور مشرکین مکہ سے قتل و قتل کیا جاتا اور صلح نہ ہوتی تو دو ڈھائی مہینے بعد جو خیر فتح ہوا اس کے لئے سفر کرنا مشکل ہو جاتا اور اگر سفر میں چلے جاتے تو یہ خطرہ رہتا کہ اہل مکہ کہیں پیچھے سے حملہ نہ کر دیں پس صلح کرنے میں اور دخول مکہ کی تاخیر میں جو فائدہ پہنچا اس کا تمہیں علم نہیں تھا **فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا** (سو اللہ نے مکہ معظمہ کے داخل ہونے سے پہلے عنقریب ہی ایک فتح دے دی) یعنی خیر کو فتح فرمادیا اور وہاں کے اموال غنیمت شرکاء حدیبیہ کو مل گئے۔

اس کے بعد رسول اللہ ﷺ کی بعثت کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا تا کہ وہ اس دین کو دوسرے تمام دینوں پر غالب کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ پورا فرمادیا اس مضمون کی آیت سورۃ التوبہ میں بھی گزر چکی ہے وہاں تفسیر اور تشریح دیکھ لی جائے۔

وَكُنِيَ بِاللَّهِ قُبَيْلًا (اور محمد رسول اللہ ﷺ کی نبوت پر اللہ تعالیٰ کا گواہ ہونا کافی ہے) مشرکین نے صلح نامہ میں جو ہذا ما صالح علیہ محمد رسول اللہ لکھنے سے انحراف کیا تو اس کی وجہ سے آپ کی نبوت و رسالت کے بارے میں کوئی فرق نہیں آتا۔

(تفسیر قرطبی ۲۹۲ ج ۱۶)

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكْعًا سَجْدًا ابْتِغَاءَ

محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں آپس میں مہربان ہیں اے مخاطب تو انہیں اس حال میں دیکھے گا کہ وہ کبھی رکوع میں ہیں کبھی سجدہ میں ہیں

فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ

وہ اللہ کے فضل اور رضامندی کو تلاش کرتے ہیں ان کی شان یہ ہے کہ ان کے چہروں میں سجدوں کے نشان ہیں ان کی یہ مثال توریت

وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطَاةً فَازَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ

میں ہے انجیل میں ان کا یہ صنف ہے کہ جیسی بھٹی ہو اس نے اپنی سوئی نکالی پھر اس نے سے قوی کیا پھر وہ بھٹی موٹی ہو گئی پھر اپنے تپہ سیدی کھڑی ہو گئی

الزَّرَّاءِ لِيَغْضِبَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً

جو کسانوں کو بھلی معلوم ہونے لگی تاکہ اللہ ان کے ذریعے کافروں کے دلوں کو جلائے اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کئے مغفرت

وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٦٥﴾

اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔

## حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور منقبت

**تفسیر:** اس سورت میں جگہ جگہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تعریف بیان فرمائی ہے پھر یہاں سورت کے ختم پر ان کی مزید توصیف و تعریف فرمائی ہے اولاً ارشاد فرمایا کہ محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہیں اس مضمون کو سورہ مائدہ میں اُولَٰئِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اَعْدَاءٌ عَلَى الْكُفْرَيْنِ میں بھی بیان کیا ہے اہل ایمان کی یہ شان ہے کہ کافروں کے مقابلہ میں سخت رہیں اور آپس میں ایک دوسرے پر رحم کریں یہ صفت حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں بہت زیادہ نمایاں تھی آج کل دیکھا جاتا ہے کہ مسلمان دشمنان اسلام کے آگے بچھے جاتے ہیں اور ان سے ڈرتے ہیں ان سے نرمی کا برتاؤ کرتے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ سختی کرتے ہیں ان پر رحم نہیں کرتے دنیاوی محبت نے اس پر آمادہ کر رکھا ہے۔

حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی دوسری صفت یہ بیان فرمائی تَرَاهُمْ رُكْعًا سَجْدًا اے مخاطب تو انکو اس حال میں دیکھے گا کہ کبھی رکوع کئے ہوئے ہیں کبھی سجدہ کئے ہوئے اس میں کثرت سے نماز پڑھنا اور نمازوں پر مداومت کرنا نوافل کا اہتمام کرنا راتوں کو نمازوں میں کھڑا ہونا سب داخل ہے۔

تیسری صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا یَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا یہ حضرات اللہ کا فضل اور اسکی رضا مندی تلاش کرتے ہیں (جو اعمال اختیار کرتے ہیں ان کے ذریعہ کوئی دنیاوی مقصد سامنے نہیں ہے ان کے اعمال اللہ کا فضل تلاش کرنے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے ہیں۔

چوتھی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا سِيمَاهُمْ فِي دُجُوهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ اس کا مطلب بتاتے ہوئے صاحب معالم التنزیل نے بہت سے اقوال نقل کئے ہیں جن میں سے ایک یہ بھی ہے جو ظاہری لفظوں سے سمجھ میں آرہا ہے کہ مٹی پر سجدہ کرنے کی وجہ سے ان کے ماتھوں پر کچھ مٹی لگ جاتی ہے اور بعض حضرات سے یہ نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن ان لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے ان کے ذریعہ پہچانے جائیں گے کہ یہ لوگ نماز پڑھنے میں زیادہ مشغول رہتے تھے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے اچھی عادت اور خصلت اور خشوع و تواضع مراد ہے جو لوگ کثرت سے نماز پڑھتے ہیں انہیں جو نماز کی برکات حاصل ہوتی ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی صفت خوش خلقی اور تواضع بھی ہے ان کے چہروں سے ان کی یہ صفت واضح ہو جاتی ہے۔

پھر فرمایا ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ (ان کی مذکورہ صفت توریت میں بھی بیان کی گئی ہے) پھر انجیل میں جو ان کی صفت بیان کی گئی اس کو بیان فرمایا ارشاد ہے وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ شَكْرٌ ذَرِيَّةٍ آخِرَةٍ (الہی آخرہ) کہ انجیل میں ان لوگوں کی مثال یہ ہے کہ جیسے کسان نے نرم زمین میں بیج ڈالا اس زمین سے کھیتی کی سوئی نکلی یعنی ہلکا بہت پتلاتا ظاہر ہوا پھر یہ آگے بڑھا تو اس میں قوت آگئی پھر اور آگے بڑھا تو موٹا ہو گیا ان حالتوں سے گزر کر اب وہ ٹھیک طریقے سے اپنی پنڈلی پر اچھی طرح کھڑا ہو گیا اب یہ ہرا بھرا بھی ہے اندر سے نکل کر بڑھ بھی چکا ہے اور اس کا تنا اپنی جڑ پر کھڑا ہے کسان لوگ اسے دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں اس مثال میں یہ بتا دیا کہ محمد رسول اللہ ﷺ کے صحابہ اولاً تو ٹھوڑے سے ہوں گے پھر بڑھتے رہیں گے اور کثیر ہو جائیں گے اور مجموعی حیثیت سے وہ ایک بڑی قوت بن جائیں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پہلے ٹھوڑے سے تھے پھر بڑھتے رہے بڑھتے ہزاروں ہو گئے زمانہ نبوت ہی میں ایک لاکھ سے زیادہ ان کی تعداد ہو گئی پھر انہوں نے دین اسلام کو خوب پھیلا یا قیصر و کسریٰ کے تحت الٹ دیئے ان کے مقابلہ میں کوئی جماعت جم نہیں سکتی تھی۔

لِيُغْضِبَهُمُ الْكَافِرُ یعنی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو بڑھایا چڑھایا قوت و طاقت سے نوازا تا کہ ان کے ذریعہ کافروں کے دلوں کو جلا دے کافروں کو یہ گورا نہیں تھا اور نہ اب گورا ہے کہ اسلام اور مسلمان پھیلیں پھولیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بھی بڑھا دیا اور مسلمانوں کو بھی قوت دے دی جیسا کہ سورۃ الصف میں فرمایا يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔

(یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے مونہوں سے بجھا دیں اور اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے اگرچہ کافروں کو ناگوار ہو اللہ وہی ہے جس نے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تا کہ اسے سب پر غالب فرما دے اگرچہ مشرکوں کو

ناگوار ہو) یہ دوسری آیت ہُوَ الَّذِي أَرْسَلَ سُوْرَةَ تُوْبَةِ اور سُوْرَةَ الْفَتْحِ میں بھی ہے جس کا ترجمہ گزر چکا ہے۔

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّ اَجْرًا عَظِيْمًا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے ان کی مغفرت ہوگی اور انہیں اجر عظیم دیا جائے گا) یہ بات بطور قاعدہ کلیہ بیان فرمائی ہے لفظوں کا عموم حضرات صحابہ کو بھی شامل ہے اور ان کے بعد آنے والے اعمال صالحہ والے مومنین کو بھی۔

فائدہ: سورة الفتح میں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی کئی جگہ تعریف فرمائی ہے اول فرمایا هُوَ الَّذِيْ اَنْزَلَ السِّكِيْنَةَ فِيْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيُزْجِرُوْا الشُّرُكَّاءَ اَعَادَةً لِّهٖمْ پھر فرمایا لِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ جَنَّتٍ تَجْوِيْ مِنْ تَحْتِهَا اَلْاَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا وَ يَكُوْفِرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَ كَانَ ذٰلِكَ عِنْدَ اللّٰهِ قُوْرًا عَظِيْمًا پھر فرمایا ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله پھر فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يَبَايَعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السِّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَ اَتْمَمَ فَتْحًا قَرِيْبًا پھر فرمایا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰی رَسُوْلِهٖ وَ عَلٰی الْمُؤْمِنِيْنَ وَ اَلَزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰی وَ كَانُوْا اٰحَقُّ بِهَا وَاَهْلُهَا۔

پھر فرمایا مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَ الَّذِيْنَ مَعَهُ اَشِدَّاءُ لِّدَعْوَةِ اللّٰهِ اَعْلٰی الْكُفٰرِ اَنْزَلَ اَسْمٰیْنَهُمْ (الایہ) پھر فرمایا لِيُغِيْظَ بِهِمُ الْكُفٰرَ پھر فرمایا وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّ اَجْرًا عَظِيْمًا اور سُوْرَةَ تُوْبَةِ میں فرمایا وَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْاٰمِنِيْنَ وَ الْاَنْصَارِ وَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ يٰ اٰحِبِّیْ (الایہ)

قرآن مجید کی ان تصریحات کو دیکھ لو اور روافض کی دشمنی کو دیکھ لو جو دو تین اصحابہ کے علاوہ باقی سب کو کافر کہتے ہیں اس فرقہ کی بنیاد ہی بعض صحابہ پر ہے جو لوگ حضرات صحابہ کو کافر کہتے ہیں وہ قرآنی تصریحات کے منکر ہونے کی وجہ سے خود کافر ہیں قرآن کے جھٹلانے کی وجہ سے جب ان لوگوں پر کفر عائد ہو گیا تو کہنے لگے یہ قرآن ہی وہ نہیں ہے جو محمد رسول اللہ ﷺ پر نازل ہوا تھا وہ قرآن امام مہدی کے پاس ہے یہ کہنا خود کفر ہے اور قرآن نے بھی ان لوگوں کو کافر بتا دیا جن کے دل میں صحابہ کی طرف سے بغض ہوگا لِيُغِيْظَ بِهِمُ الْكُفٰرَ کو بار بار پڑھ لیا جائے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ کے سامنے کسی نے حضرات صحابہ کی شان میں کچھ کہہ دیا اس پر ارشاد فرمایا کہ جس کسی کے دل میں کسی بھی صحابی کی طرف سے بغض ہوگا آیت کریمہ کا عموم اس کو شامل ہوگا (یعنی وہ آیت کا مصداق ہوگا) (یعنی اس پر کفر عائد ہوگا) (تفسیر قرطبی)

بعض شیعوں نے نکلتا نکالا ہے کہ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ کیساتھ جو مِنْهُمْ کا اضافہ فرمایا ہے اس میں مِنْ تَبَعِيْضِهِ ہے یہ ان لوگوں کی جہالت ہے حضرات صحابہ کے بغض میں یہ بات کہہ رہے ہیں اور مزید کفر کی چادر میں لپیٹ رہے ہیں سیاق کلام سے واضح ہو رہا ہے کہ مَنْ بیان ہے۔ اگر بالفرض مِنْ تَبَعِيْضِهِ ہو تو کیا آیات قرآنیہ سے دو تین صحابہ کا ایمان ثابت ہوتا ہے جن کے ایمان کے روافض قائل ہیں اللہ تعالیٰ نے جو لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يَبَايَعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ (فرمایا ہے کہ اس سے ان چودہ پندرہ سو صحابہ کا ایمان اور وعدہ رضوان ثابت نہیں ہوتا جنہوں نے حدیبیہ میں رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی جن میں حضرت ابوبکرؓ اور عمرؓ بھی تھے جن کے بغض میں شیعہ جل کر خاک ہوئے جارہے ہیں

سورة توبہ میں جو مہاجرین اور انصاران کے متبعین (اہل السنۃ والجماعۃ) سے رضامندی کا اعلان فرمایا ہے اس میں تو کہیں بھی منہم نہیں ہے یاد رہے کہ حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ بھی سابقین اولین میں سے تھے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور شیعہ اللہ تعالیٰ سے راضی نہیں جو حضرات انصار اور مہاجرین سے راضی ہے جو شخص قصد قرآن کو جھٹلائے ایمان سے منہ موڑے اس سے کیا بات کی جاسکتی ہے شیعوں کا عقیدہ ہے حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ مومن نہیں تھے شیعوں کو خود اپنے ایمان کی فکر نہیں ہے کہ بغض صحابہ انہیں کچھ سوچنے نہیں دیتا عامۃ المسلمین سے ہمارا خطاب ہے ان آیات میں غور کریں تاکہ شیعوں کے کفر میں کوئی شخص شک نہ کرے۔

حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہؓ کے بارے میں اللہ سے ڈرو (دوبار فرمایا) میرے بعد تم انہیں نشانہ نہیں بنا لینا سو جس نے ان سے محبت کی تو میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی اور جس نے ان سے بغض رکھا مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے ان سے بغض رکھا اور جس نے انہیں اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی اور جس نے اللہ کو اذیت دی قریب ہے کہ وہ اسے پکڑ لے گا (رواہ الترمذی کما فی المسئلۃ ۵۵۳)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا کہہ رہے ہیں تو کہہ دو کہ تم پر اللہ کی لعنت ہے تمہارے شرکی وجہ سے۔ (ایضاً)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو کیونکہ (ان کا مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ) تم میں سے کوئی شخص اگر اُحد (پہاڑ) کی برابر سونا خرچ کر دے تو یہ (ثواب کے اعتبار سے) ان میں سے کسی کے ایک مد یا نصف مد کو بھی نہیں پہنچے گا۔ (کذا فی المسئلۃ ۵۵۳ عن البخاری ومسلم)

اس زمانہ میں غلہ تاپنے کا ایک برتن ہوتا تھا اسے مد کہتے تھے۔ (نئے اوزان سے ایک مد کا وزن سات سو گرام کے لگ بھگ بنتا ہے ۱۲)

اللہ تعالیٰ شانہ روافض کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔

وهو الهادی الى سبيل الرشاد، هذا آخر تفسير سورة الفتح، الحمد لله الذي فتح علينا اسرار القرآن وجعلنا ممن يدخل الجنان والصلوة والسلام على خير رسله محمد سيد ولد عدنان، وعلى آله وصحبه ما طلع النيران وتعاقب الملوان.

سُورَةُ الْحَجَرَاتِ بِكَرْبِئَةِ وَهِيَ ثَمَانِي عَشْرَةَ آيَةً وَفِيهَا رُكُوعَانِ

سورہ حجرات مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اس میں دو رکوع اور اٹھارہ آیات ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدِرُوا بِيَدِي اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

اے ایمان والو تم اللہ اور رسولؐ سے پہلے سبقت مت کرو اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ

اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبیؐ کی آواز پر بلند نہ کرو اور نہ نبیؐ کی طرح اونچی آواز سے بات کرو جیسے تم

بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ يَغْضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ

بعض بعض سے اونچی آواز سے بات کرتے ہو ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضبط ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو بے شک جو لوگ

عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ فَلَا تَقْوَىٰ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ۖ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ۝

اللہ کے رسولؐ کے پاس اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں یہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لئے خالص کر دیا ہے ان کے لئے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے

إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۝ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ

بے شک جو لوگ حجروں کے باہر سے آپؐ کو پکارتے ہیں ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ

تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

آپؐ ان کی طرف نکل آتے تو ان کے لئے بہتر تھا اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے۔

رسول اللہ ﷺ کی عظمت اور خدمت عالی

میں حاضری کے احکام و آداب کی تلقین!

تفسیر: رسول اللہ ﷺ کی ازواج مطہرات جن گھروں میں رہتی تھیں انہیں حجرات سے تعبیر فرمایا ہے کیونکہ یہ گھر چھوٹے چھوٹے تھے اور پختہ عمارتیں بھی نہ تھیں کھجوروں کی ٹہنیوں سے بنادی گئی تھیں چونکہ اس سورت کے پہلے رکوع میں ان حجروں کا ذکر ہے اس لئے یہ سورت سورۃ الحجرات کے نام سے موسوم ہوئی۔

رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہونے والوں کو اللہ تعالیٰ شانہ نے تو قیور اور احترام کی تلقین فرمائی اور اس سلسلے میں چند آداب ارشاد فرمائے ہیں۔

اول تو یہ فرمایا کہ اے ایمان والو تم اللہ اور رسول سے سبقت مت کرو یہ لَاتَقْفُوا بِیْنَ یَدَی اللّٰهِ وَرَسُولِهِ کا ترجمہ ہے ان الفاظ میں بڑی جامعیت ہے حضرات مفسرین کرام نے اس کے متعدد معنی لکھے ہیں حضرت مجاہد نے فرمایا کہ تم پہلے سے کوئی بات اپنی طرف سے نہ کہہ دو اللہ تعالیٰ کے فیصلہ کا انتظار کرو وہ اپنے رسول کی زبانی جو فیصلہ فرمادے اس کے مطابق عمل کرو حضرت سفیان ثوری نے بھی تقریباً یہی مطلب بتایا ہے حضرت قتادہ نے فرمایا یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو یوں کہا کرتے تھے کہ اس بارے میں کچھ حکم نازل ہو جاتا اور فلاں مسئلہ میں کوئی قانون نازل ہو جاتا تو اچھا تھا اللہ تعالیٰ کو ان کی بات پسند نہ آئی اور فرمایا اللہ اور اس کے رسول سے سبقت نہ کرو (معالم التنزیل ص ۲۰۹ ج ۳ ابن کثیر ص ۲۰۵ ج ۴)

ساتھ ہی وَاتَّقُوا اللّٰهَ بھی فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اِنَّ اللّٰهَ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ ہے شک اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ حضرت امام بخاریؒ نے عبد اللہ بن ابی ملیکہ سے بواسطہ عبد اللہ بن الزبیر نقل کیا ہے کہ بنی تمیم کا ایک قافلہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آیا اور انہوں نے عرض کیا کہ کسی شخص کو ہمارا امیر بنا دیجئے (ابھی تک آنحضرت ﷺ نے کچھ نہیں فرمایا تھا کہ) حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فقہار بن معبد کو امیر بنانے کا مشورہ دیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اقرع بن حابس کے امیر بنانے کی رائے پیش کی۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا تمہارا اس کے علاوہ کچھ مقدم نہیں ہے کہ میری مخالفت کرو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے آپ کی مخالفت کے طور پر اپنی رائے نہیں پیش کی اس پر جھگڑا ہونے لگے جس سے دونوں کی آوازیں بلند ہو گئی لہذا آیت کریمہ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْلِبُوا (آخر تک) نازل ہو گئی۔

معالم التنزیل میں ہے کہ اس موقع پر شروع سورت سے لے کر اجر عظیم تک آیات نازل ہو گئیں جن میں اللہ اور رسول ﷺ کے حکم سے آگے بڑھنے کی اور آپ کی خدمت میں رہتے ہوئے آوازیں بلند کرنے کی ممانعت فرمادی اور یہ حکم بھی فرمادیا کہ رسول اللہ ﷺ سے باتیں کرو تو ادب کا خیال رکھو اور اس طرح اونچی آواز سے بات نہ کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو ساتھ ہی یہ بھی فرمادیا اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُکُمْ وَاَنْ تَكُنْ لَّکُمْ عُرُوْنٌ (ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ ﷺ کی آواز پر تمہاری آواز بلند ہو جائے اور اس کی وجہ سے تمہارے اعمال حبط ہو جائیں یعنی تمہاری نیکیاں ختم کر دی جائیں اور تمہیں اس کا پتہ بھی نہ ہو صحیح بخاری میں ہے کہ آیات مذکورہ نازل ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اتنا آہستہ بولتے تھے کہ پوچھنا پڑتا تھا کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ (صحیح بخاری ص ۷۱۸)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ثابت بن قیس صحابی رضی اللہ عنہ کو اپنی مجلس سے غیر حاضر پایا تو آپ کو اس کا احساس ہوا ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس کا پتہ چلاتا ہوں وہ حضرت ثابت کے پاس آئے اور انہیں اس حال میں دیکھا کہ اپنے گھر میں سر جھکائے ہوئے بیٹھے ہیں دریافت کیا کہ آپ کو کیا ہوا؟ جواب دیا کہ میری آواز بلند ہے رسول اللہ ﷺ کی آواز پر اپنی آواز بلند کر چکا ہوں (جو اپنی عادت کے طور پر تھی) لہذا میں اہل نار میں سے ہوں اس شخص نے یہ بات رسول اللہ ﷺ کو جا کر بتادی آپ

نے فرمایا کہ جاؤ انہیں جا کر بتادو کہ وہ اہل نار میں سے نہیں ہیں بلکہ اہل جنت میں سے ہیں۔ (صحیح بخاری ص ۷۱۸، ۵۱۰)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم نے بیان کیا کہ آیت بالا نازل ہونے کے بعد



حضرت ابو بکرؓ نے یہ طریقہ اختیار کر لیا تھا کہ جب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو اس طرح پست آواز سے بات کرتے تھے کہ جیسے کوئی شخص رازداری کی باتیں کر رہا ہو اور حضرت ابن زبیر نے بتایا کہ جب یہ آیت نازل ہو گئی تو حضرت عمرؓ اتنی آہستہ بات کرتے تھے کہ صرف رسول اللہ ﷺ ان کی بات سن سکیں حتیٰ کہ بعض مرتبہ آپ سوال فرماتے تھے کہ کیا کہا؟ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ **إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ فَلَا تَعْلَمُ لَهُمْ سُرَّةٌ مِّنْ لَّا نَشْفُو نَازِل فرمائی۔**

(بے شک جو لوگ اللہ کے رسول کے پاس اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے لئے خاص کر دیا ہے ان کے لئے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔

امْتَحَنَ لَفْظِ امْتَحَنَ سے ماضی کا صیغہ ہے جس کا ترجمہ ”جانچ کرنا“ کیا گیا ہے۔ صاحب معالم المتزیل لکھتے ہیں **امْتَحَنَ أَخْلَصَ** کے معنی میں ہے جس طرح سونے کو پگھلا کر خالص کر دیا جاتا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے قلوب کو تقویٰ کے لئے خالص کر دیا ہے ان کے قلوب میں تقویٰ ہی تقویٰ ہے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے آداب و احترام کو دیکھو اللہ تعالیٰ کی بشارتوں کو اور مدح اور توصیف کو دیکھو اور شیعوں کے بغض اور دشمنی کو دیکھو وہ کہتے ہیں کہ تین چار صحابہ کے علاوہ سب کافر تھے۔ (العیاذ باللہ)

فائدہ: حضرات علماء کرام نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی قبر شریف کے سامنے بھی آواز بلند کرنا مکروہ ہے جیسا کہ آپ کی زندگی میں ایسا کرنا مکروہ تھا کیونکہ آپ کا احترام اب بھی واجب ہے اور آپ کو برزخی حیات حاصل ہے۔

جب خدمت عالی میں سلام پیش کرنے کے لئے حاضر ہو تو وہی آواز میں سلام پیش کرے **إِنَّ الَّذِينَ يَنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ (الآیہ) اس آیت کے سبب نزول میں صاحب معالم المتزیل نے متعدد قصے لکھے ہیں جو حضرت ابن عباسؓ حضرت جابرؓ حضرت زید بن الارقم رضی اللہ عنہم سے مروی ہیں..... حضرت زید بن الارقم رضی اللہ عنہم کا بیان ہے کہ عرب کے کچھ لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ آج اس شخص کے پاس چلیں جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اگر وہ واقعی نبی ہیں تو ہمیں سب لوگوں سے آگے بڑھ کر ان پر ایمان لا کر سعادت مند ہونا چاہئے اگر وہ نبی نہیں ہے بلکہ انہیں بادشاہت ملنے والی تو ہمیں ان کے زیر سایہ زندگی گزارنی چاہئے (بہر حال ان سے تعلق قائم کرنے میں فائدہ ہے) اس کے بعد حاضر ہوتے تو یا محمد یا محمد کہہ کر آوازیں دینے لگے اور حضرت ابن عباسؓ کی روایت میں ہے کہ قبیلہ بنی غنم کے آدمی دوپہر کے وقت آئے تھے انہوں نے پکار لیا محمد اخراج الینا (کراے محمد ہماری طرف نکلتے) دوپہر کا وقت تھا آپ آرام فرما رہے تھے ان لوگوں کی چیخ و پکار سے آپ کی آنکھ کھل گئی اور حضرت جابرؓ کی روایت میں ہے کہ یہ لوگ قبیلہ بنی تمیم کے تھے جنہوں نے دروازے پر کھڑے ہو کر آپ کو باہر آنے کے لئے پکارا اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی **إِنَّ الَّذِينَ يَنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے ہیں) وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ اور اگر وہ لوگ صبر کر لیتے یہاں تک کہ آپ خود ہی ان کی طرف نکلتے تو یہ ان کے لئے بہتر تھا) وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے جس کسی سے جو بھی کوئی خطا سرزد ہو تو بہ کر کے معاف کرا لے۔****

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِمَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا

اے ایمان والو! اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اچھی طرح تحقیق کر لو ایسا نہ ہو کہ تم نادانی کی وجہ سے کسی قوم کو ضرر

عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَذِيرٌ ۝

پہنچا دو پھر اپنے کئے پر نادم ہونا پڑے۔

## کوئی فاسق خبر دے تو اچھی طرح تحقیق کر لو ایسا نہ ہو کہ نادانی کی وجہ سے کسی قوم کو ضرر پہنچا دو

**تفسیر:** معالم التنزیل ج ۲۱۲ ص ۳۷ میں لکھا ہے کہ یہ آیت ولید بن عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں نازل ہوئی واقعہ یوں پیش آیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کو قبیلہ بنی المصطلق کی زکوٰۃ وصول کرنے کے لئے بھیجا جب ان لوگوں کو پتہ چلا کہ رسول اللہ ﷺ کی طرف سے ایک شخص ہمارے قبیلہ کی زکوٰۃ وصول کرنے کے لئے پہنچ رہا ہے تو لوگوں نے آبادی سے باہر آ کر اکرام کے طور پر ان کا استقبال کیا چونکہ زمانہ جاہلیت میں ولید بن عقبہ اور قبیلہ مذکورہ کے درمیان عداوت تھی اس لئے شیطان کو ان کے دل میں یہ دوسوہ ڈالنے کا موقع مل گیا کہ لوگ تمہیں قتل کرنے کے لئے آرہے ہیں انہوں نے شیطانی دوسوہ کو حقیقت پر محمول کر لیا اور راستہ ہی سے واپس ہو گئے اور رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آ کر عرض کر دیا کہ ان لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے اور مجھے قتل کرنے کے لئے آمادہ ہو گئے۔

یہ سن کر رسول اللہ ﷺ کو بہت ناگواری ہوئی آپ نے ان سے جہاد کرنے کا ارادہ فرمایا جب آپ کے ارادہ کا ان لوگوں کو علم ہوا تو خدمتِ عالی میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! ہمیں معلوم ہوا تھا کہ آپ کا قصد پہنچا ہے ہم بطور استقبال اکرام کے لئے باہر نکلے تھے ہمارا ارادہ تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کے موافق زکوٰۃ کے اموال آپ کے قاصد کے سپرد کر دیں لیکن آپ کے قاصد نے واپس ہونا مناسب جانا ہمیں اندیشہ ہوا کہ آپ نے ناراض ہو کر کوئی خط لکھ کر انہیں واپس بلا لیا ہو ہم اللہ کے غصہ اور اس کے رسول کے غصہ سے پناہ مانگتے ہیں آپ نے ان لوگوں کی بات کا بھروسہ نہ کیا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو خفیہ طریقہ پر بھیج دیا اور فرمایا کہ جاؤ اگر وہ لوگ ایمان پر باقی ہیں تو ان کے اموال کی زکوٰۃ لے لینا اور اگر دوسری کوئی صورت ہے تو ان کے ساتھ وہی معاملہ کرنا جو کافروں کے ساتھ کیا جاتا ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان کے پاس پہنچے تو انہیں فرمانبردار پایا لہذا ان سے اموال زکوٰۃ وصول کر لئے اور واپس آ کر رسول اللہ ﷺ کو صورت حال سے باخبر کر دیا اس پر آیت کریمہ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا** (الآیۃ) نازل ہوئی جس میں ایمان والوں کو یہ بتا دیا کہ ہر بھروسہ کرنے کی نہیں ہوتی اگر کوئی فاسق آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو اس کی بات سن کر کوئی اقدام نہ کریں بلکہ پہلے خوب اچھی طرح تحقیق کر لیں اور چھان بین کرنے کے بعد کوئی قدم اٹھائیں ایسا نہ ہو کہ صرف خبر سن کر تحقیق کئے بغیر کسی قوم پر حملہ کر بیٹھیں اوپر بعد میں ان کے بے قصور ہونے کا پتہ چلے تو ندامت اٹھانی پڑے اور بے جا اقدام کرنے کا نتیجہ بھگتنا پڑے۔

واقعہ تو ایک جزئی تھا لیکن قرآن حکیم میں ایمان والوں کو ہمیشہ کے لئے نصیحت فرمادی اور متنبہ فرمادیا کہ ہر خبر سچی نہیں ہوتی خبر کی تحقیق ضروری ہے اور تحقیق کے بعد ہی کوئی اقدام کیا جاسکتا ہے آیت کے عموم نے بتادیا کہ یہ ہدایت امور دنیا اور امور آخرت سب سے متعلق ہے اسی لئے احادیث شریف کی روایات میں سچے اور متقی آدمی کی روایت قبول کی جاتی ہے جس راوی کا حال معلوم نہ ہو اسے مستور الحال کہتے ہیں اور اس کی روایت قبول کرنے میں توقف کرتے ہیں حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے مقدمہ میں اس آیت کو ذکر کیا ہے اور اس سے یہ استدلال کیا ہے کہ فاسق کی خبر ساقط ہے مقبول نہیں ہے۔

وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ

اور تم جان لو بے شک تمہارے اندر اللہ کے رسول موجود ہیں بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر وہ ان میں تمہاری بات مان لیں تو تم مشقت میں پڑ جاؤ لیکن اللہ نے

الْإِنِّانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ

ایمان کو تمہارے لئے محبوب بنادیا ہے اور اسے تمہارے قلوب میں حزن کر دیا اور کفر اور فسق اور نافرمانی کو تمہارے نزدیک مکروہ بنادیا یہ لوگ

الرَّشِدُونَ ۖ فَضَّلْنَا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٥٨﴾

ہدایت والے ہیں اللہ کی طرف سے فضل اور نعت کی وجہ سے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔

## اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و انعام سے تمہارے دلوں میں

## ایمان کو مزین فرمادیا اور کفر و فسق اور عصیان کو مکروہ بنادیا

**تفسیر:** ان آیات میں اللہ جل شانہ نے امت مسلمہ کو اپنا ایک بہت بڑا انعام یاد دلایا اور فرمایا کہ دیکھو تمہارے اندر اللہ کا رسول موجود ہے اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ تمہارے اندر اپنے رسول کو مبعوث فرمادیا و ہذا کقولہ تعالیٰ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ دوسری بات یہ بتائی کہ ہمارا رسول جو عمل کرتا ہے اور تمہیں جو حکم دیتا ہے اس میں ان کی اپنی مصلحت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی مدد بھی ہوتی ہے بعض مواقع میں تم مشورہ بھی دیتے ہو تمہارے بہت سے مشورے نتائج کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہوتے لہذا رسول اللہ ﷺ ان کے مطابق عمل نہیں کرتے تم اس سے دلگیر نہ ہو اگر وہ تمام امور میں تمہاری رائے پر چلیں تو بہت سی باتیں ایسی ہوں گی ان کے بارے میں تمہاری رائے قبول کر لی جائے گی تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے اور تمہیں اس کا نقصان پہنچ جائے گا۔

تیسری بات یہ فرمائی (جو بطور امتنان ہے) کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی اسے تمہارا محبوب بنادیا اور اسے تمہارے دلوں میں حزن میں فرمادیا تمہارے دل نور ایمان سے منور ہیں اور اس جگہ گاہٹ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ سچا مومن بندہ کسی قیمت پر بھی ایمان کی نعمت سے محروم ہو جانے پر راضی نہیں ہوتا مزید انعام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں کفر کو اور فسق اور نافرمانی کو مکروہ بنادیا تمہیں کفر سے بھی نفرت ہے اور گناہوں سے بھی۔

ارشاد فرمایا رسول اللہ ﷺ نے تین چیزیں جس کے اندر ہوں وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا۔

۱۔ جس کے نزدیک اللہ اور اس کا رسول اللہ ﷺ ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہوں

۲۔ دوسرا وہ شخص جو کسی بندہ سے صرف اللہ کے لئے محبت کرے۔

۳۔ جب اللہ تعالیٰ نے کفر سے بچا دیا تو اب وہ کفر میں واپس جانے کو اتنا ہی برا جانتا ہے جتنا آگ میں ڈالے

(رواہ البخاری ج ۱)

جانے کو مکروہ جانتا ہے۔

جن لوگوں کے دلوں میں ایمان محبوب اور مزین ہو گیا اور نافرمانی سے نفرت ہو گئی ان کے بارے میں فرمایا

أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّشِيدُونَ (یہ لوگ راہ ہدایت پر ہیں) فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً اور اللہ تعالیٰ کی یہ بخششیں فضل اور انعام کے طور

پر ہیں اللہ کے ذمہ کسی کا کوئی واجب نہیں ہے وہ جسے جو بھی نعمت عطا فرمائے وہ اس کا فضل ہی فضل ہے اور انعام ہی انعام

ہے آخر میں فرمایا وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اللہ علیم ہے اسے سب کا ظاہر باطن معلوم ہے اور حکیم بھی ہے وہ اپنی حکمت کے

مطابق انعام سے نوازتا ہے۔

وَلَا تَأْكُلْ أَمْوَالُ الْيَتَامَىٰ وَنِكَاحِ الْيَتَامَىٰ فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا خِلافٌ فَاصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى

اور اگر ایمان والوں کی دو جماعتیں آپس میں قتال کرنے لگیں تو ان کے درمیان صلح کرو اور پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کرے تو اس سے

الْآخَرَىٰ فَقَالُوا أَلَيْسَ تَفْعَلُ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ

جنگ کرو جو زیادتی کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے سوا گروہ رجوع کر لے تو ان دونوں کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کرو

وَأَقْسُطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ

اور انصاف کرو بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہی ہیں سوا پنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرو

وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔

مومنین کی دو جماعتوں میں قتال ہو تو انصاف کے

ساتھ صلح کرو و سب مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں

تفسیر: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا گیا کہ اگر آپ عبد اللہ

بن ابی کے پاس تشریف لے جاتے تو اچھا ہوتا (عبد اللہ بن ابی رئیس المنافق تھا اسلام کے اور مسلمانوں کے خلاف خود یہ

اور اس کے ساتھی کچھ نہ کچھ حرکتیں کرتے رہتے تھے جس شخص نے اس کے پاس آنے کی رائے دی تھی اس کا مطلب بظاہر

یہ تھا کہ آپ خود ہی اس کے پاس تشریف لے جائیں گے تو ممکن ہے اس کا مخالفانہ جذبہ ختم ہو جائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ

مسلمان ہی ہو جائے رسول اللہ ﷺ ایک گدھے پر سوار ہو کر روانہ ہو گئے اور آپ کے ساتھ دیگر مسلمان بھی تھے جو پیدل چل رہے تھے آپ ایک شور زمین سے گزر رہے جب عبد اللہ بن ابی کے پاس پہنچے تو اس نے کہا اہی تم مجھ سے دور رہو تمہارے گدھے کی بدبو سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے اس کے جواب میں ایک انصاری صحابی نے کہا کہ اللہ کی قسم رسول اللہ ﷺ کا گدھا خوشبو کے اعتبار سے تجھ سے بڑھ کر ہے یہ بات سن کر عبد اللہ بن ابی کی قوم میں سے ایک آدمی کو غصہ آ گیا اور دونوں میں گالم گلوچ ہونے لگی اور دونوں میں سے ہر شخص کے ساتھیوں کو غصہ آ گیا جس کی وجہ سے ٹہنیوں اور ہاتھوں اور چپلوں سے کچھ مار پیٹ ہو گئی حضرت انس رضی اللہ عنہ نے واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ آیت کریمہ وَلَنْ طَافَتْ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اَفْتَكَلُوا اَصْلُهُوا بَيْنَهُمَا واقعہ مذکورہ کے بعد نازل ہوئی یہ صحیح بخاری ۳۷۰ کی روایت ہے صاحب درمنثور نے آیت کا سبب نزول بتاتے ہوئے دوسری روایت بھی نقل کی ہیں (اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے کیونکہ کسی آیت کے اسباب نزول ایک سے زائد بھی ہو سکتے ہیں)۔

آیت کریمہ میں مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کر دینے کا اور اگر صلح ہو جانے کے بعد دونوں جماعتوں میں سے کوئی جماعت زیادتی کرے تو اس سے جنگ کا حکم دیا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے یعنی لڑائی کو چھوڑ دے اور اللہ کے دین کے مطابق جینے کا فیصلہ کر لے اور صلح کرانے والوں کو بتادے اور یقین دلا دے کہ اب ہمیں لڑنا نہیں ہے۔ بغاوت کو دبانے کے لئے جو جنگ لڑی جائے اس میں جو فریق زیادتی پر اتر آیا تھا وہ اپنے ارادہ سے باز آ گیا تو یہ صلح کرانے والے ان رجوع کرنے اور لڑائی چھوڑ دینے والوں کو نہ دبا ئیں حق اور ناحق کو دیکھیں اور عدل و انصاف کے ساتھ دونوں فریقوں کے درمیان صلح کر دیں انصاف بہت بڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے کو پسند فرماتا ہے محض جنگ رکوا دینا کافی نہیں ہے آپس میں صلح بھی کرادی جائے اور یہ جو بات مابہ النزاع ہے اس کو ختم کرادیا جائے ورنہ آئندہ پھر لڑائی کا امکان رہے گا اگر مسلمانوں کی دو جماعتوں میں لڑائی ہونے لگے تو امام المسلمین پر واجب ہے کہ ان کے درمیان صلح کرادے اور دونوں فریق کو کتاب و سنت کے احکام قبول کرنے پر آمادہ کرے اگر کوئی جماعت امام المسلمین ہی سے باغی ہو جائے تو امام ان سے گفتگو کرے ان کی شکایت سنے ان کو کوئی شبہ ہے یا غلط فہمی ہے تو اس کو دور کرے اگر یہ باغی جماعت امام اور امیر کی مخالفت کی ایسی وجوہ پیش کرے جن سے امام کا ظالم ہونا یقینی طور پر ثابت ہوتا ہے تو عامۃ المسلمین اس جماعت کی مدد کریں جو امام کی اطاعت سے منحرف ہو گئی تاکہ امام اپنے ظلم سے باز آجائے اگر باغی فرقہ ایسی وجوہ نہ بتا سکے جن سے امام المسلمین کا ظالم ہونا ثابت ہوتا ہو اور یہ باغی جماعت سمجھانے سے بھی باز نہ آئے اور امام المسلمین سے جنگ کرنے ہی پر تلی رہے تو امام المسلمین اور عامۃ المسلمین اس جماعت سے قتال کریں تاکہ امام المسلمین کے باغی لوگ اطاعت میں آجائیں..... اس سلسلہ کی تفصیلات ہدایہ اور دیگر کتب فقہ میں دیکھی جاسکتی ہیں۔

آخر میں فرمایا اِنَّكَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ کہ سارے مومن آپس میں ایمانی رشتہ کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی ہیں (اول تو انہیں خود ہی بھائی بھائی ہونے کا لحاظ رکھنا لازم ہے آپس میں لڑائی نہ کریں میل محبت کے ساتھ رہیں کسی کی طرف سے کوئی خطا ہو جائے حقوق کی ادائیگی میں بھول چوک ہو جائے تو درگزر کرتے رہیں لفظ اِخْوَةٌ میں اس بات کو واضح فرما دیا) اور اگر دو جماعتوں میں کوئی بگاڑ ہو جائے اور کوئی فریق درگزر کرنے کو تیار نہ ہو جس سے جنگ و جدال کی نوبت آسکتی

ہے تو دوسرے مسلمان اس وقت کے اہم تقاضے کو پورا کریں یعنی دونوں فریق کے درمیان باہمی صلح کرنے کے لئے اٹھ کھڑے ہوں ان دونوں کی اصلاح اور ان کے درمیان صلح کرانے کی ہر ممکن کوشش کریں اس کے لئے تدبیریں سوچیں اور آپس میں جوڑ بٹھا دیں اور آپس میں تعلقات استوار کرادیں ان ساری کوششوں میں اور زندگی کے ہر موڑ میں اللہ سے ڈرتے رہیں اگر خوف خدا ہوگا تو حدود و شرعیہ کی رعایت کر سکیں گے اصلاح کی کوششیں اور اللہ تعالیٰ کا خوف اللہ تعالیٰ کی رحمت کو لانے والی چیزیں ہیں اسی لئے آخر میں لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ فرمایا

سورة النساء میں فرمایا لَاخَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ حَسْبِهِمْ إِلَّا مَنَاصِدٌ كَقَمَحٍ أَوْ صُلَاجٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (نہیں ہے کوئی بھلائی ان کے بہت سے مشوروں میں مگر جو شخص صدقے کا یا اچھی باتوں کا یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کا حکم دے اور جو شخص یہ کام اللہ کی رضا جوئی کے لئے کرے گا سو ہم اس کو بڑا اجر دیں گے) آیت میں فرمایا کہ صدقہ کا حکم اور امر بالمعروف (بھلائی کا حکم دینا اور لوگوں کے درمیان صلح کرانا دینا ان کاموں کا مشورہ ہونا چاہئے، اصلاح بین الناس یعنی لوگوں کے درمیان صلح کر دینا ان کی رنجشیں دور کر دینا اور ان کے دلوں کے جوڑنے کی کوشش کرنا روٹھے ہوئے دوستوں کو مناد دینا میاں بھوی کے درمیان موافقت پیدا کرنا بہت بڑی ثواب کی چیزیں ہیں حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کیا میں تم کو نفلی روزوں اور صدقہ دینے اور نفلی نماز پڑھنے کے درجے سے بھی افضل چیز نہ بتا دوں؟ ہم نے عرض کیا ضرور ارشاد فرمائیے آپ نے فرمایا کہ یہ چیز آپس میں صلح کر دینا ہے (پھر فرمایا کہ بغض یعنی آپس کا لگاؤ) موٹہ دینے والا ہے۔ (رواہ ابوداؤد الترمذی و قال ہذا حدیث صحیح) دوسری روایت میں ہے کہ میں یہ نہیں کہتا بغض بالوں کو موٹہ دینا ہے بلکہ وہ دین کو موٹہ دیتا ہے۔ (مشکوۃ الصالح ص ۱۳۸ از احمد ترمذی)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ

اے ایمان والو نہ تو مرد مردوں کی ہنسی اڑائیں ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں اور نہ

نِسَاءٌ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا تَلْبِسُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ

عورتیں عورتوں کی ہنسی اڑائیں ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں اور نہ اپنی جانوں کو عیب لگاؤ اور نہ ایک دوسرے کو برے لقب سے

الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

یاد کرو اور ایمان کے بعد گناہ کا نام لگنا برا ہے اور جو شخص توبہ نہ کرے یہ لوگ ظلم کرنے والے ہیں۔ اے

آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم

ایمان والو! بہت سے گمانوں سے بچو بلاشبہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں اور تجسس نہ کرو اور تم میں سے بعض بعض کی غیبت

بَعْضُهُمْ أَمُوبٌ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

نہ کریں کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے سو تم اس کو برا سمجھتے ہو اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ

تَوَابٌ رَّحِيمٌ ۝ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ

توبہ قبول کرنے والا ہے مہربان ہے اے لوگو! بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہارے مختلف خاندان اور قبیلے بنادئے تاکہ آپس میں

لِتَعَارَفُوْۤا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ۝

شناخت کر سکو بے شک تم میں سب سے بڑا عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو جو تم میں سب سے بڑا پرہیزگار ہے بے شک اللہ جاننے والا ہے باخبر ہے

## باہمی مل کر زندگی گزارنے کے چند احکام

**تفسیر:** ان آیات میں اہل ایمان کو چند نصیحتیں فرمائی اولاً تو یہ فرمایا لَا یَسْتَحِرُّ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ کہ ایک دوسرے کا

مذاق نہ بنائیں اور کوئی کسی کے ساتھ تمسخر نہ کرے چونکہ مردوں کا آپس میں زیادہ ملنا جلنا رہتا ہے اور عورتوں کا عورتوں سے زیادہ میل جول رہتا ہے اس لئے طرز خطاب یوں اختیار فرمایا کہ مرد مردوں کا مذاق نہ بنائیں اور عورتیں عورتوں کا مذاق نہ بنائیں یہ مطلب نہیں ہے کہ مردوں کو عورتوں کی اور عورتوں کو مردوں کی مذاق اڑانے کی اجازت دی گئی ہے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا ہے کہ ہنسی کرنے والوں کو اس کا کیا حق ہے کہ کسی کا مذاق بنائیں اصل بڑائی ایمان اور اعمال صالحہ سے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہونے سے ہے کوئی شخص دوسرے آدمی کے اعمال اور باطنی جذبات اخلاص و حسن نیت کو نہیں جانتا اور یہ بھی نہیں جانتا کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے یا نہیں؟ موت کے بعد کون کس سے افضل ہوگا اس کا بھی علم نہیں ہو سکتا ہے یا جس کا مذاق بنایا جا رہا ہے وہ مذاق بنانے والے سے بہتر ہو مردوں میں بھی یہی بات ہے اور عورتوں میں بھی اگر موت کے بعد اپنے اچھے حال کا اور جس کا مذاق بنا رہے ہیں اس کی بد حالی کا یقین ہو جاتا تو تمسخر کرنے کی کوئی وجہ بھی تھی، لیکن جب اپنے ہی بارے میں علم نہیں کہ میرا کیا بنے گا تو دوسرے کا مذاق بنانے کا کیا مقام ہے؟ کسی کی مذاق بنانے میں ایک تو تکبر ہے کیونکہ مذاق بنانے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں ایسا نہیں ہوں جیسا وہ ہے اگر اپنے حالات کا استحضار ہو تو کبھی کسی کی برائی اور غیبت کرنے اور کسی کا مذاق بنانے کی نہ ہمت ہو نہ فرصت ملے دوسرے کا مذاق بنانے میں ایذا رسانی بھی ہے اس سے اس کو قلبی تکلیف ہوتی ہے جس کا مذاق بنایا گیا ایذا دینا حرام ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تو اپنے بھائی سے جھگڑا نہ کرو اور اس سے مذاق نہ کر (جس سے اسے تکلیف پہنچے) اور اس سے کوئی ایسا وعدہ نہ کر جس کی تو خلاف ورزی کرے (مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۱۲)

خوش طبعی کے طور پر جو آپس میں مذاق کیا جائے جسے عربی میں مزاح کہتے ہیں وہ درست ہے مگر جھوٹ بولنا اس میں بھی جائز نہیں ہے اور اگر مزاح سے کسی کو تکلیف ہوتی ہو تو وہ بھی جائز نہیں ہے رسول اللہ ﷺ کبھی کبھی مزاح فرمالتے تھے آپ نے فرمایا میں اس موقع پر بھی حق بات ہی کہتا ہوں۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۱۶)

یاد رہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ مذاق بنانا زبان سے ہی ہو آنکھ سے یا ہاتھ سے یا سر سے اشارہ کر کے کسی کا مذاق بنانا اسے معلوم ہو یا نہ ہو یہ سب حرام ہے سورۃ الہمزہ میں اس پر تنبیہ فرمائی ہے۔

فَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی وَاِنَّ لِّکُلِّ هُمْزَةٍ لُّعْظًا



**دوسری نصیحت:** یہ فرمائی وَلَا تَلْبِزُوا أَلْفُسَكُمْ (اور اپنی جانوں کو عیب نہ لگاؤ) یہ بھی بہت جامع

نصیحت ہے کسی کو طعنہ دینا اس کے جسم میں بول چال میں قدم میں عیب ظاہر کرنا زبان سے ہو یا اشارہ سے خط میں لکھ کر یا مضمون شائع کر کے لفظوں کے عموم میں یہ سب باتیں آگئیں اگر کسی میں کوئی عیب موجود ہو تب بھی عیب ظاہر کرنے کے طور پر بیان کرنا حرام ہے کسی دراز قد کو لمبڑھیک یا لمبو یا پستہ قد کو ٹھکنا بتا دیا کسی کے ہلکے پن کی نقل اتار دی جس کی چال میں فرق ہے اسے لنگڑا کہہ دینا تاہینا کو اندھا کہہ کر پکارنا سیدھے آدمی کو بدھو کہنا یہ سب عیب لگانے کے زمرے میں آتا ہے یہ سب اور اس طرح کی جو باتیں عام طور پر رواج پذیر ہیں ان سب باتوں سے پرہیز کرنا لازم ہے رسول اللہ ﷺ کی ازواج میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا قد چھوٹا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ کے سامنے کہا کہ صفیہ کا قد بس اتنا سا ہے (اور یہ بطور عیب لگانے کے کہا) آپ نے فرمایا کہ تو نے ایسا کلمہ بولا ہے کہ اگر اسے سمندر میں ملا دیا جائے تو اسے بھی خراب کر کے رکھ دے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۱۴)

یاد رہے کہ وَلَا تَلْبِزُوا غَيْرَكُمْ نہیں فرمایا بلکہ وَلَا تَلْبِزُوا أَلْفُسَكُمْ فرمایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سب مسلمان آپس میں ایک ہی ہیں جب کسی کو کچھ کہیں گے تو وہ الٹ کر جواب دے گا اس طرح سے اپنا عمل اپنے ہی طرف لوٹ کر آجائے گا دوسرے کو عیب لگانے والا خود اپنی بے آبروئی کا سبب بنے گا۔

**تیسری نصیحت:** یہ فرمائی وَلَا تَبْزُوا بِأَلْقَابِ (اور نہ ایک دوسرے کو برے لقب سے یاد کرو) ایک دوسرے کو برے لقب دینے اور برے القاب سے یاد کرنے کی ممانعت فرمائی ہے مثلاً کسی مسلمان کو فاسق یا منافق یا کافر کہنا یا اور کسی ایسے لفظ سے یاد کرنا جس سے برائی ظاہر ہوتی ہو اس سے منع فرمایا کسی کو کتا یا گدھا یا خنزیر کہنا کسی نو مسلم کو اس کے سابق دین کی طرف منسوب کرنا یعنی یہودی یا نصرانی کہنا یہ سب تابز بالالقاب میں آتا ہے یہ بھی حرام ہے۔

رسول اللہ ﷺ کی اہلیہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہلے یہودی دین پر تھیں ان کا اونٹ مریض ہو گیا تو آپ نے اپنی دوسری اہلیہ زینب بنت جحش سے فرمایا کہ اسے ایک اونٹ دے دو انہوں نے کہا کیا میں اس یہودی عورت کو دے دوں؟ رسول اللہ ﷺ ان کے اس جواب کی وجہ سے غصہ ہو گئے اور ذی الحج اور محرم اور کچھ ماہ صفر کا حصہ ایسا گزرا کہ آپ نے زینب سے تعلقات نہیں رکھے (رواہ ابوداؤد ص ۲۷۶ جلد ۲) مسند احمد ۳۳۷، ۳۳۸ ج ۶ میں ہے یہ واقعہ صفر حج کا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آیت میں تابز بالالقاب سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص نے کوئی گناہ یا برائے عمل کیا ہو اور پھر اس سے تائب ہو گیا اس کے بعد اس کو اس برے عمل کے عنوان سے پکارا جائے مثلاً چور یا زانی یا شرابی وغیرہ کہہ دیا جائے (معالم التنزیل) ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کو کسی گناہ کی وجہ سے عیب دار بتایا یعنی عیب لگایا تو یہ شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک خود اس گناہ کو نہ کر لے (مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۱۴)

پھر فرمایا يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰلَيْهِمْ اَلْحُكْمُ الْعُصُوْۤقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ (اور ایمان کے بعد گناہ کا نام لگنا برا ہے) اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مومن ہو اگر کسی کا مذاق بناؤ گے عیب لگاؤ گے برے لقب سے یاد کرو گے تو یہ فتنہ کا کام ہوگا کہنے والے کہیں گے کہ دیکھو وہ آدمی فاسق ہے مسلمان ہو کر فتنہ اور گناہ گاری کا کام کرتا ہے اپنی ذات کو برائی سے موصوف اور معروف کرنا بری بات ہے کوئی شخص مومن ہو اور اس کی شہرت گناہ گاری کے ساتھ ہو یہ بات اہل ایمان کو زیب نہیں دیتی جب اسلام کو اپنا دین بنا

لیا تو اسلام ہی کے کاموں پر چلیں اور صالحین میں شمار ہوں فاسقین کی فہرست میں کیوں شمار ہوں، تفسیر قرطبی میں یُسُّوْنَ الْاِسْمَ الْقُسُوْقُ کا ایک معنی یہ لکھا ہے کہ جب کسی شخص نے گناہ کر لیا پھر توبہ کر لی تو اس کو فسق کے نام سے یاد کرنا بری بات ہے اور مثلاً نو مسلم کو کافر بتانا سابق گناہ کی وجہ سے زانی یا سارق یا چور کہنا بری بات ہے یعنی جس کے حق میں یہ بات کہہ رہے ہو اس کو بُرے لقب سے کیوں یاد کر رہے ہو؟ اس کی آبرو کے خلاف لقب کیوں دے رہے ہو؟

**چوتھی نصیحت** پھر فرمایا وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَلَا يَلِكُ لَهُمُ الظُّلُمُونَ (اور جو گناہوں سے توبہ نہ کرے سو یہ لوگ ظلم کرنے والے ہیں) ان کا ظلم ان کی جانوں پر ہے تمام گناہوں سے توبہ کریں عموم حکم ان تینوں گمانوں سے توبہ کرنے کو بھی شامل ہے جن کا آیت بالا میں ذکر گزرا۔

**پانچویں نصیحت** پھر فرمایا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظُّلْمِ (اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچو) ساتھ ہی یہ بھی فرمایا إِنَّ بَعْضَ الظُّلْمِ إِشْمٌ (بعض گمان گناہ ہوتے ہیں) بات یہ ہے کہ بدگمانی بہت سے گناہوں کا پیش خیمہ ہوتی ہے بہت سے لوگوں میں وہ بات ہوتی ہی نہیں جسے محض انکل اور گمان سے طے کر لیا جاتا ہے اور پھر اپنے گمان کے مطابق تہمتیں لگاتے ہیں اور غیبتیں کرتے ہیں بدگمانی کی بنیاد پر جو باتیں کہی جاتی ہیں وہ آگے بڑھتی ہیں اس سے آپس میں فتنہ فساد پیدا ہوتا ہے حالانکہ گمان اپنا ایک ذاتی خیال ہوتا ہے خیال کا صحیح ہونا ضروری نہیں اسی لئے سورۃ النجم میں فرمایا ہے إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا (گمان حق کے بارے میں کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا) مومنین سے اچھا گمان رکھیں اور بدگمانی سے پرہیز کریں ایک حدیث میں ارشاد ہے اِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ (یعنی گمان سے بچو کیونکہ گمان سب باتوں سے زیادہ جھوٹی بات ہے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۲۷)

یاد رہے کہ اگر کسی شخص سے کچھ نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو اس سے میل جول میں احتیاط کرنا اور اس کے شر سے بچنے کے لئے یہ خیال کرنا کہ ممکن ہے کہ یہ مجھے کوئی تکلیف پہنچا دے یہ اس گمان میں نہیں آتا جو گناہ ہے اپنی احتیاط کر لے غیبت نہ کرے اور گمان کو یقین کا درجہ بھی نہ دے۔

(آیت کریمہ میں فرمایا کہ اے ایمان والو بہت سے گناہوں سے بچو اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ بعض گمان گناہ نہیں ہوتے بلکہ محض اور مستحسن بھی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھے کہ وہ بخش دے گا معاف فرما دے گا اور ساتھ ہی گناہوں سے بھی پرہیز کرتا رہے نیز مسلمانوں کے ساتھ خاص کر جو مومنین صالحین ہوں اچھا گمان رکھا جائے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا حُسْنُ الظَّنِّ مِنْ حُسْنِ الْعِبَادَةِ (کہ حسن ظن عبادت کی ایک صورت ہے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۲۹ زاحم و ابو داؤد)

البتہ مسلمانوں کو بھی چاہئے کہ ایسے احوال اور ایسے مواقع سے بچیں جن کی وجہ سے دیکھنے والوں کو اور ساتھ رہنے والوں کو بدگمانی ہو سکتی ہے اپنے اعمال و احوال چال ڈھال اور اقوال میں ایسا انداز اختیار نہ کرے جس سے لوگوں کی بدگمانی کا شکار ہو جائے کیونکہ لوگوں کی نظروں میں برا بن کر رہنا بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔

**چھٹی نصیحت** یوں فرمائی وَلَا تَجَسَّسُوا (اور تم تجسس نہ کرو) یعنی لوگوں کے عیوب کا سراغ نہ لگاؤ اور اس تلاش میں نہ رہو کہ فلاں شخص میں کیا عیب ہے اور تنہائی میں کیا عمل کرتا ہے یہ تجسس کا مرض بھی بہت برا ہے بہت سے لوگ اس میں مبتلا

رہتے ہیں حالانکہ اس کا وبال بہت بڑا ہے دنیا اور آخرت میں اس کی سزا مل جاتی ہے اور تجسس کرنے والا ذلیل ہو کر رہ جاتا ہے بہت سی مرتبہ تجسس میں بدگمانی کو استعمال کرنا پڑتا ہے جس کی ممانعت ابھی معلوم ہوئی مومن کا کام یہ ہے کہ اگر اپنے مسلمان بھائی کا کوئی عیب دیکھے تو اسے چھپائے نہ یہ کہ کسی کے عیب کے پیچھے پڑے اور ٹوہ لگائے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی کی کوئی ایسی چیز دیکھ لی جس کے ظاہر ہونے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تو پھر اس کو چھپالیا تو اس کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ جیسے کسی نے زندہ دفن کی ہوئی لڑکی کو زندہ کر دیا۔ (مشکوٰۃ المصابیح ۴۳۳)

اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ منبر پر تشریف لے گئے اور بلند آواز سے پکار کر فرمایا کہ اے وہ لوگو جو زبانی طور پر مسلمان ہو گئے اور ان کے دلوں میں ایمان نہیں پہنچا مسلمانوں کو تکلیف نہ دو اور انہیں عیب نہ لگاؤ ان کے چھپے ہوئے حالات کی تلاش میں نہ لگو کیونکہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے پوشیدہ عیب کے ظاہر ہونے کے پیچھے پڑتا ہے اللہ تعالیٰ شانہ اس کے چھپے ہوئے عیب کا پیچھا کرتا ہے یہاں تک کہ اسے رسوا کرتا ہے اگرچہ وہ اپنے گھر کے اندر ہو۔ (رواہ الترمذی) یاد رہے کہ جس طرح سے کسی کے عیب یا گناہ یا بد حالی کا پتہ چلایا جائے یہ سب تجسس میں داخل ہے چھپ کر باتیں سننا یا اپنے کو سوتا ہوا ظاہر کر کے کسی کی باتیں معلوم کر لینا یہ سب تجسس ہے جو ممنوع ہے۔

**ساتویں نصیحت** یہ فرمائی وَلَا تَغْتَابُ بَعْضُكُم بَعْضًا (کہ تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو حریذ فرمایا اَلْجِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّأْكُلَ لَحْمَ كَيْفٍ مِّنْهُ فَكَيْفَ هُمُوهُ) (کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے سو اس کو تم ناگوار سمجھتے ہو) یعنی غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے جیسے تمہیں مردہ بھائی کا گوشت کھانا ناگوار نہیں اسی طرح غیبت کرنا بھی ناگوار ہونا لازم ہے بات یہ ہے کہ غیبت بہت بری بلا ہے نمازی اور تقویٰ کے دعویدار اور اپنی بزرگی کا گمان رکھنے والے تک اس میں مبتلا ہوتے ہیں دنیا میں کچھ محسوس نہیں ہوتا قیامت کے دن جب اتنی چھوٹی سی زبان کی کھیتیاں کاٹنی پڑیں گی اس وقت احساس ہوگا کہ ہائے ہم نے کیا کیا لیکن اس وقت کا پچھتانا کچھ کام نہ دے گا اب اس بات کو سمجھیں کہ غیبت کیا چیز ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے صحابہ سے سوال فرمایا کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے والے ہیں آپ نے فرمایا اِنْ كُنْتُمْ اَخَاكَ بِمَا يَكْفُرُ کہ تمہارا اپنے بھائی کو اس طرح یاد کرنا کہ اسے برا لگے یہ غیبت ہے ایک شخص نے عرض کیا کہ جو بات میں بیان کر رہا ہوں اگر وہ میرے بھائی کے اندر موجود ہو تو اسے بیان کرنے کے بارے میں کیسا ارشاد ہے؟ فرمایا اگر تیرے بھائی میں وہ عیب کی بات موجود ہے جسے تو بیان کر رہا ہے تب ہی تو غیبت ہوئی اور اگر تو نے کوئی ایسی بات بیان کی جو اس کے اندر نہیں ہے تب تو تو نے اس پر بہتان باندھا۔ (رواہ مسلم ص ۳۲۳، ج ۱)

حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ کسی کا واقعی عیب یا گناہ بیان کرنا ہی غیبت ہے اگر جھوٹی بات کسی کے ذمہ لگا دی تو وہ تہمت دھرنا ہوا اس میں دو گنا گناہ ہے ایک گناہ تہمت دھرنے کا دوسرا غیبت کرنے کا رسول اللہ ﷺ نے یہ جو فرمایا کہ اپنے بھائی کو ایسے طریقہ پر یاد کرنا جس سے اسے ناگواری ہو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوگئی کہ سامنے کہنا بھی غیبت ہے اور تہمت دھرنا بھی غیبت میں شامل ہے کیونکہ یہ دونوں چیزیں سننے والے کو ناگوار ہوتی ہیں غیبت کی بنیاد یہ ہے کہ جس شخص کے بارے میں کچھ کہا جا رہا ہے وہ اسے برا لگے سامنے ہو یا پیچھے جو لوگ غیبتیں کرتے ہیں پھر یوں کہہ دیتے ہیں کہ میں غلط

نہیں کہہ رہا ہوں میں اس کے منہ پر کہہ سکتا ہوں حدیث بالا سے ان کی جرأت بے جا کاپتہ چلا ایسے لوگ نفس اور شیطان کے دھوکے میں ہیں، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں جس کا عذاب اور وبال بہت بڑا ہے اور سمجھتے یوں ہیں کہ ہم گناہ سے بری ہیں اللہ تعالیٰ شانہ سمجھ دے۔

غیبت کا تعلق چونکہ حقوق العباد سے بھی ہے اس اعتبار سے غیبت سے بچنے کا اہتمام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے عرض کیا گیا یا رسول اللہ غیبت زنا سے زیادہ سخت کیسے ہے؟ آپ نے فرمایا ایک شخص زنا کر لیتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمادیتا ہے اور اگر کوئی شخص غیبت کر لے تو اس وقت تک اس کی مغفرت نہ ہوگی جب تک وہ شخص معاف نہ کر دے جس کی غیبت کی (مشکوٰۃ المصابیح ص ۳۱۵) بات یہ ہے کہ غیبت کرنے میں حق اللہ اور حق العبد دونوں کا ضائع کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے چونکہ غیبت کرنے سے منع فرمایا ہے اس لئے غیبت کرنا حرام ہے اور چونکہ کبیرہ کی بھی ہے آبروئی کی ہے اس لئے اس کا حق بھی ضائع کیا اس کا نام احترام سے لیا جاتا ہے کم از کم اس کی برائی (نہ کی جاتی) جب غیبت کر لے تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے اور جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگ لے البتہ بعض اکابر نے یہ فرمایا ہے کہ اگر اسے اطلاع پہنچ گئی ہو تو معافی مانگ لے اور اگر اطلاع نہ پہنچی ہو تو اس کے لئے اتنی بار مغفرت کی دعا کرے کہ دل یہ گواہی دے دے کہ غیبت کی خلافی ہو گئی ایک حدیث میں ہے کہ غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ تو اس کے لئے استغفار کرے جس کی غیبت کی ہے اور یوں دعا کرے اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلَهُ اے اللہ ہماری اور اس کی مغفرت فرما دے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۳۱۵)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس رات کو مجھے معراج کرائی گئی ایسے لوگوں پر میرا گزر ہوا جن کے تابنے کے ناخن تھے وہ ان سے اپنے چہروں اور سینوں کو چھیل رہے تھے میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی بے آبروئی کرتے تھے (رواہ ابوداؤد ۳۱۳ ج ۲) غیبت کرنے والے آیت کریمہ اور احادیث شریفہ کے مضامین پر اور اس سلسلہ کی وعیدوں پر غور کریں۔

جس طرح غیبت کرنا حرام ہے اسی طرح غیبت سننا بھی حرام ہے اگر کوئی شخص کسی کی غیبت کر رہا ہو تو سننے والے پر لازم ہے کہ اس کا کٹ کرے اور جس کی غیبت ہو رہی ہے اس کی طرف سے دفاع کرے حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس کسی نے اپنے بھائی کی طرف سے دفاع کیا جس کا غیبت کے ذریعہ گوشت کھایا جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے کہ اسے دوزخ سے آزاد کر دے اور حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی کوئی مسلمان اپنے بھائی کی آبرو کی طرف سے دفاع کرے اللہ تعالیٰ شانہ کے ذمہ ہوگا کہ قیامت کے دن دوزخ کی آگ کو اس سے دور رکھے اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے آیت کریمہ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ تلاوت فرمائی۔ (ذکر صاحب مشکوٰۃ ص ۳۱۴)

اور حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی منافق کی باتوں سے کسی مومن کا دفاع کیا اللہ تعالیٰ شانہ قیامت کے دن ایک فرشتہ بھیجے گا جو اس کے گوشت کو دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھے گا اور جس کسی شخص نے مسلمان میں کوئی عیب ظاہر کیا اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کے پل پر روک دے گا جب تک

اپنی کہی ہوئی بات سے نہ نکل جائے یعنی معافی مانگ کر اسے راضی نہ کر لے جس کو عیب دار بتایا تھا (رواہ ابوداؤد ۳۱۳۲ ج ۲)  
 اور حضرت جابر اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی مسلمان کی کسی جگہ بے حرمتی کی جارہی ہو اور اس کی آبرو گھٹائی جارہی ہو اور وہاں جو شخص موجود ہو اس کی مدد نہ کرے (یعنی برائی کرنے والے کو اس کے عمل سے نہ روکے) اللہ تعالیٰ ایسی جگہ میں اسے بغیر مدد کے چھوڑ دے گا جہاں وہ اپنی مدد کا خواہش مند ہوگا اور جس کسی نے مسلمان کی ایسی جگہ مدد کی جہاں اس کی آبرو گھٹائی جارہی ہو اور بے حرمتی کی جارہی ہو اللہ تعالیٰ اس شخص کی ایسی جگہ میں مدد فرمائے گا جہاں وہ اپنی مدد کا خواہش مند ہوگا۔  
 (مشکوٰۃ المصابیح ۴۲۳)

ان روایات سے معلوم ہوا کہ غیبت کرنا بھی حرام ہے اور غیبت سننا بھی حرام ہے اگر کسی کے سامنے کوئی شخص کسی کی غیبت کرنے لگے تو اس کا دفاع کرے۔

یہ جو ارشاد فرمایا اُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ اس بارے میں حدیث شریف میں ایک واقعہ مروی ہے اور وہ یہ کہ ایک صحابی نے زنا کر لیا تھا جن کا نام ماعز رضی اللہ عنہ تھا انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں چار مرتبہ اقرار کیا کہ میں نے ایسا کیا ہے پھر ان کو سنگسار کر دیا گیا ایک شخص نے اپنے ساتھی سے راہ چلتے ہوئے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس کی پردہ پوشی فرمائی لیکن اسے رہا نہ کیا یہاں تک کہ کتے کی طرح اس کی رحم کی گئی یعنی پتھروں سے مارا گیا رسول اللہ ﷺ نے یہ بات سن لی اور خاموشی اختیار فرمائی پھر کچھ دور آگے بڑھے تو ایک مردہ گدھے پر گزرا رہا جو اوپر کوناٹنگ اٹھائے ہوئے تھا آپ نے فرمایا فلاں فلاں کہاں ہیں (ایک بات کہنے والا دوسرا بات سننے والا) انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں فرمایا تم دونوں اترو اور اس مردار گدھے کی نعش سے کھاؤ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس میں سے کون کھا سکتا ہے آپ نے فرمایا وہ جو ابھی ابھی تم نے اپنے بھائی کی بے آبروئی کی ہے وہ اس گدھے کی نعش کھانے سے زیادہ سخت ہے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے بے شک وہ اس وقت جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے۔  
 (رواہ ابوداؤد ۲۵۱۲ ج ۲)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مردہ شخص کی غیبت کرنا بھی حرام ہے جیسا کہ زندہ کی غیبت کرنا حرام ہے۔  
 فائدہ: یہ ضروری نہیں کہ زبان سے جو غیبت کی جائے وہی غیبت ہو آنکھ کے اشارہ سے ہاتھ کے اشارہ سے نقل اتارنے سے بھی غیبت ہوتی ہے کسی کی اولاد میں عیب نکالنے کسی کی بیوی کا کوئی عیب بیان کر دے اس میں ڈبل غیبت ہے باپ کی بھی اور اولاد کی بھی اور بیوی کی بھی اور شوہر کی بھی بہت سے لوگوں کو غیبت کا ذوق ہوتا ہے جس سے ملتے ہیں جہاں ملتے ہیں کسی نہ کسی کا برائی سے تذکرہ کر دیتے ہیں اور آخرت کے عذاب سے بچنے کی کوئی فکر نہیں کرتے۔

فائدہ: اگر کسی شخص کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ رکھنے کے لئے کسی ظالم کا حال بیان کر دیا جائے تو یہ غیبت حرام میں نہیں آتا۔  
**اتھویں نصیحت:** پھر فرمایا: **وَاتَّقُوا اللَّهَ** (اور اللہ سے ڈرو) اس میں سب گناہوں سے بچنے کا حکم فرمادیا اور ساتھ ہی **إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ** بھی فرمایا کہ بلاشبہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے مہربان ہے جس کسی سے جو گناہ ہو گیا ہو اس سے توبہ کرے اور کسی بندہ کا کوئی حق مار لیا ہو غیبت کی ہو بے آبروئی کی ہو اس سے بھی معاف کر لے اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا معاف فرمادے گا۔

**نویں نصیحت:** اس کے بعد فرمایا کہ اے لوگو! ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہارے

چھوٹے بڑے قبیلے بنادیئے تاکہ آپس میں جان پہچان ہو کہ یہ فلاں قبیلہ کا ہے اور یہ فلاں خاندان کا ہے آدمی ہونے میں برابر ہو کیونکہ سب آدم اور حواء علیہما السلام کی اولاد ہو لہذا آدمیت میں کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے اور اصل فضیلت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک معتبر ہے اور وہ فضیلت تقویٰ سے ہے إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے اس آیت کریمہ میں فضیلت اور عزت کا معیار بتا دیا ہے اس کے برخلاف لوگوں کا یہ حال ہے کہ بڑے بڑے گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں نمازوں کے بھی تارک ہیں زکوٰۃ نہیں دیتے فسق و فجور میں مبتلا ہیں حرام کھاتے ہیں اور حرام کھلاتے ہیں لیکن نسب کی بڑائی بگھارتے ہیں سید اور ہاشمی اور صدیقی اور فاروقی، عثمانی، علوی، انصاری، شیخ، ملک، چوہدری، اور دیگر نسبتوں کے بغیر اپنا نام ہی نہیں بتاتے آرہے ہیں سید صاحب ڈاڑھی موٹھی ہوئی ہے چٹلون پہنے ہوئے ہیں ٹانگی لگی ہوئی ہے بینک کے منیجر ہیں اپنے نانا جان سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ کے لائے ہوئے اعمال سے کچھ بھی نسبت نہیں، ظاہر اور باطن دشمنوں کے ہاتھ بکا ہوا ہے اور ہیں سید صاحب یہی حال دوسری نسبتیں استعمال کرنے والوں کا ہے یہ لوگ جن قوموں کو کم تر جانتے ہیں ان کے علماء و صلحاء، نمازی اور متقی حضرات کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں کچھ لوگ سفید سرخ رنگ ہونے کی وجہ سے اور کچھ لوگ عربی ہونے کی وجہ سے اپنی فضیلت کی خام خیالی میں مبتلا ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: انک لسست بسخیر من احمر ولا اسود الا ان تفصله بقوی (بے شک تو کسی گورے اور کالے سے بہتر نہیں ہے الا یہ کہ تو تقویٰ میں بڑھ جائے) (رواہ احمد فی مسندہ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ ۱۰۸۵)

رسول اللہ ﷺ نے ایک مرتبہ صفا پر چڑھ کر قریش سے خطاب فرمایا اور فرمایا کہ اپنی جان کو دوزخ سے بچالو میں قیامت کے دن تمہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا بنی کعب بنی مرہ بنی عبد شمس بنی عبد مناف بنی ہاشم بنی عبد المطلب اے جماعت بنی قریش سب سے الگ الگ خطاب فرمایا اور ان سے یہی فرمایا انقلدوا انفسکم من النار کہ اپنی جانوں کو دوزخ سے بچاؤ اپنے چچا عباس بن مطلب اور اپنی پھوپھی صفیہؓ اور اپنی بیٹی فاطمہؓ سے بھی خاص طور سے یہ خطاب فرمایا۔ (رواہ البخاری و مسلم کما فی مشکوٰۃ المصابیح ۴۶۰)

نسب کی بنیاد پر نجات نہیں ہوگی ایمان کی بنیاد پر نجات ہوگی اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر رفع درجات ہوگا رسول اللہ ﷺ کی شفاعت بھی اہل ایمان ہی کے لئے ہوگی۔

جزوی طور پر جو نبی شرف کسی کو حاصل ہے اس کے بل بوتہ پر گناہ کرتے چلے جانا اور اپنے کو دوسری قوموں کے متقی لوگوں سے برتر سمجھنا یہ بہت بڑے دھوکے کی بات ہے رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت، نخوت (یعنی متکبرانہ مقابلہ بازی) کو اور باپوں پر فخر کرنے کو ختم کر دیا ہے اب تو بس مومن متقی ہے یا فاجر شقی ہے انسان سب آدم کے بیٹے ہیں آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ (رواہ ابو داؤد و الترمذی کما فی مشکوٰۃ ۴۱۸)

دسویں نصیحت: إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ بے شک اللہ جاننے والا ہے باخبر ہے۔

استحضار ہے کہ کیونکہ اللہ عظیم و خبیر ہے کس کا کیا درجہ ہے کون ایمان دار ہے کون بے ایمان ہے کون گناہوں میں لت پت ہے اور آخرت میں کس کا کیا انجام ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے سب تقویٰ اختیار کرنے کے لئے فکر مند ہوں تاکہ متقیوں میں حشر ہو اور ان کا جیسا معاملہ ہو۔

لَتَعَارَفُنَا کی تشریح کرتے ہوئے صاحب بیان القرآن فرماتے ہیں ”تعارف کی مصلحتیں متعدد ہیں مثلاً ایک نام

کے دو شخص ہیں خاندان کے تفاوت سے دونوں میں تمیز ہو سکتی ہے اور یہ کہ اس سے دور کے اور نزدیک کے رشتوں کی پہچان ہوتی ہے اور بقدر قرب بعد نسب کے ان کے حقوق شرعیہ ادا کئے جاتے ہیں اور مثلاً اس سے عصبات کا قرب و بعد معلوم ہوتا ہے تو حاجب اور محبوب متعین ہوتا ہے مثلاً یہ کہ اپنا خاندان ہوگا تو اپنے کو دوسرے خاندانوں کی طرف منسوب نہ کرے گا جس کی ممانعت حدیث شریف میں وارد ہوئی ہے آیت کریمہ میں لفظ شُعُوبٌ اور لفظ قَبَائِلٌ مذکور ہے شعب خاندان کی جڑ کو یعنی اوپر والے خاندان کو اور قبیلہ اس کی شاخ کو کہتے ہیں۔

قَالَتِ الْأَعْرَابُ أَمَّا أَقْلٌ لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَكِنَّا خِلَ الْأَيْمَانُ فِي

دیہات کے رہنے والوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے؟ آپ فرما دیجئے تم ایمان نہیں لائے لیکن یوں کہو کہ ہم ظاہری فرمانبردار ہو گئے اور ابھی ایمان تمہارے

قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلَيْتُكُمْ مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْءٌ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

دلوں میں داخل نہیں ہوا اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کی نہیں کرے گا بے شک اللہ غفور ہے

رَحِيمٌ ۚ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ

رحیم ہے ایمان والے وہی ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر پھر انہوں نے شک نہیں کیا اور انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مالوں

وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ۚ قُلْ أَتَعْلَمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ

اور جانوں سے جہاد کیا؟ یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں آپ فرما دیجئے کیا تم اللہ کو اپنا دین بتا رہے ہو اور اللہ

يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا

جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے وہ آپ پر احسان دھرتے ہیں کہ اسلام لے آئے

قُلْ لَا تَمْنُوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ

آپ فرما دیجئے کہ مجھ پر احسان نہ دھرو بلکہ اللہ تم پر اپنا احسان جتاتا ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کی ہدایت دے دی اگر تم

صَادِقِينَ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

سچے ہو بے شک اللہ آسمان اور زمین کی غیب کو جانتا ہے اور اللہ ان کاموں کو دیکھنے والا ہے جو تم کرتے ہو۔

## محض زبانی اسلام کا دعویٰ کرنے والوں کو تنبیہ

تفسیر: معالم التنزیل میں لکھا ہے کہ آیت کریمہ قَالَتِ الْأَعْرَابُ أَمَّا أَقْلٌ بِنِیْ اسد کے چند لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی یہ لوگ مدینہ منورہ میں حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے یہ خشک سالی کا زمانہ تھا ان لوگوں نے ظاہر کیا کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے حالانکہ دل سے مومن نہ تھے انہوں نے مدینہ منورہ کے راستوں میں گندگیاں ڈال کر خراب



کر دیا اور مالوں کے بھاؤ بھی مہنگے کر دیئے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں صبح شام جاتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ کے پاس عرب کے لوگ اپنی جانوں کو لے کر آگئے اور ہم اپنا سارا سامان اور بال بچوں کو لے کر آگئے اور ہم نے آپ سے جنگ نہ کی جیسا کہ فلاں فلاں قبیلہ نے آپ سے جنگ کی یہ باتیں کہہ کر آپ پر احسان رکھتے تھے اور صدقات کے اموال آپ سے طلب کرتے تھے اللہ تعالیٰ شانہ نے آیت بالا نازل فرمائی ارشاد فرمایا **قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا دِیَہَاتِ** کے لوگوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے یعنی دل سے ہم نے آپ کی تصدیق کر لی اور آپ کے دین کو مان لیا **قُلْ لَّعَنُوا مَنُوعُوا** آپ فرما دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے (یہ تمہارا زبانی دعویٰ ہے وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا) (لیکن تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم نے ظاہری طور پر بات مان لی ہے اور فرمانبرداری کا اعلان کر دیا ہے) **وَلَمَّا كَذَبُوا الْوَيْدَانَ فِي الْقُلُوبِ كَفَرُوا** (اور تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا) محض زبانی اقرار اور ظاہری طور پر اعمال اسلام اپنالینے سے بندہ مومن نہیں ہوتا اسلام تصدیق قلبی کا نام ہے منافقین کے بارے میں ارشاد ہے **وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ** (اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں، بات یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے رسول کو دل سے سچا جانے اور ماننے سے مومن ہوتا ہے اگر یقین نہ ہو یا یقین تو ہو لیکن تسلیم نہ ہو یعنی مانتا نہ ہو تو مومن نہیں ہوتا جیسا کہ فرعون کی قوم کے بارے میں فرمایا **وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلُمًا وَعُغُورًا**) (اور انہوں نے ان آیات کا انکار کیا حالانکہ انہیں ان کے سچا ہونے کا یقین تھا اور انکار ظلم اور تکبر کی وجہ سے تھا)

بہت سے لوگ دنیاوی اغراض کیلئے یہ ظاہر کر دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن اندر سے تصدیق نہیں کرتے مسلمان انہیں ظاہری دعویٰ کی وجہ سے مسلمان سمجھ لیں لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک مومن نہیں ہوتے۔

پھر فرمایا **وَلَا تَطِيعُوا اللَّهَ وَاسْأَلُوا لَكُمْ شَيْئًا** اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے دل و جان سے ظاہر سے بھی باطن سے بھی لوگوں کے سامنے بھی تنہائیوں میں بھی تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے کوئی کمی نہ فرمائے گا یعنی تمہارے اعمال کا پورا پورا ثواب دے گا بلکہ کم از کم دس گنا بڑھا کر دے گا اس میں یہ بات بتا دی کہ ایمان اعمال صالحہ پر آمادہ کرتا ہے ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ بھی آخرت میں کام آئیں گے طلب دنیا کے لئے یہ کہنا کہ ہم مومن ہیں اور ظاہری طور پر ایمان قبول کر لینا آخرت میں مفید نہیں ہے وہاں کی نجات اور اجر و ثواب ایمان حقیقی پر موقوف ہے **إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ** (بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے اگر سچے دل سے ایمان قبول کر لو گے تو اس سے پہلے جو کیا ہے اس سب کی معافی ہو جائے گی۔

قولہ تعالیٰ: **لَا يَلْتَمِسْكُمْ قَرَأَ أَبُو عَمْرٍو وَيَالْتَمِسْكُمْ بِالْأَلْفِ** كَقَوْلِهِ تَعَالَى: **وَمَا التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ إِلَّا أَن يَكُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَالًا** (ذکرہ فی معالم التنزیل) (معالم التنزیل میں ہے **لَا يَلْتَمِسْكُمْ** اسے ابو عمرو نے **لَا يَالْتَمِسْكُمْ** پڑھا ہے، الف کے ساتھ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے **وَمَا التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ إِلَّا أَن يَكُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَالًا** اور دوسروں نے بغیر الف کے پڑھا ہے، اور دونوں صورتوں میں معنی ہے، تمہیں نقصان نہیں پہنچے گا

کہا جاتا ہے اَلتَّائِبَاتُ لَا تَلْبِسْنَ لِتُحِبَّ جَبْ نَقْصَانِ هُوَ جَاءَ

اس کے بعد فرمایا اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ (الآیہ) (اس آیت میں یہ بتایا کہ واقعی اور سچے مومن وہی ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے یعنی انہوں نے سچے دل سے تصدیق کی تُوْا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ پھر انہوں نے شک نہیں کیا وَجَاهُكَ ذَا اَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اور انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں سے جاہد کیا) اس میں کافروں سے اور اپنے نفس سے جہاد کرنا اور اپنے کو غیر شرعی کاموں سے اور اپنے خاندانوں اور دیگر افراد کو شریعت اسلامیہ پر چلانے کے سلسلہ میں محنت اور کوشش کرنا سب داخل ہے اپنے نفس کو دینی تقاضوں پر لگانا اس بارے میں مال و جان خرچ کرنا بڑے مجاہد کی بات ہے نفس پر قابو پانے کے لئے فکر مند رہنا لازم ہے صاحب روح المعانی لکھتے ہیں . فسی سبیل اللہ فی طاعة اللہ عز وجل علی تکثیر فنونها من العبادات البدنیة المحضة والمالية الصرفة والمشملة عليهما معا كالحج والجهاد . (فی سبیل اللہ کا مطلب ہے مختلف شکلوں میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں خواہ وہ محض عبادت بدنی ہو خواہ محض مالی خواہ مالی و بدنی دونوں قسم کی ہو جیسے جہاد اور حج)

اُولَٰئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں یعنی ان کا دعوائے ایمان سچا ہے وہ دیہاتی لوگ جنہوں نے اوپر کے دل سے دنیا سازی کے لئے امانا کہہ دیا یہ لوگ مومن نہیں ہیں لفظ انما جو حصر پر دلالت کرتا ہے اس سے یہ معنی مفہوم ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ آیت بالا میں ان لوگوں کو مومن بتایا ہے جو اللہ پر بھی ایمان لائے اور اس کے رسولوں پر اور انہیں اپنے ایمان میں شک بھی نہ ہو اس میں واضح طور پر یہ بتا دیا کہ محض اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور توحید کا قائل ہو جانا ایمان نہیں ہے جو اللہ کے یہاں معتبر ہے اور جس پر نجات کا وعدہ ہے مومن ہونے کے لئے محمد رسول اللہ ﷺ پر ایمان لانا بھی فرض ہے اس میں ان لوگوں کی تردید ہے جو وحدت ادیان کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ بس اللہ کو مان لینا آخرت کی نجات کے لئے کافی ہے یہ ان لوگوں کی گمراہی ہے۔

معالم التنزیل اور روح المعانی میں لکھا ہے کہ جب آیت بالا نازل ہوئی تو وہ دیہاتی لوگ جنہوں نے امانا کہا تھا خدمت عالی میں حاضر ہوئے اور رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ واقعی ہم سچے دل سے اسلام لائے ہیں اس پر آیت کریمہ یُؤْمِنُوْنَ عَلَیْكَ اَنْ اَسْلَمُوْا (الآیہ) نازل ہوئی یعنی وہ آپ پر اس بات کا احسان دھرتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تَسْتَوُوْنَ عَلٰی اَسْلَامِكُمْ آپ فرما دیجئے کہ مجھ پر اپنے مسلمان ہونے کا احسان مت جتاؤ بَلِ اللّٰهُ یَعْنٰی عَلَیْكُمْ اَنْ هٰذَا کُمْ لِاٰیٰتِنَا اِنْ کُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ (بلکہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا احسان جتا رہا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دیدی اگر تم واقعی ایمان میں سچے ہو) جس کا اب دوبارہ دعویٰ کر رہے ہو تو تمہیں اللہ کا احسان ماننا لازم ہے اللہ تعالیٰ کو ظاہر اور باطن سب کا پتہ ہے تمہارے دین کا بھی علم ہے اللہ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا دین اسلام ہے اگر سچے مسلمان ہو گے تو اللہ تعالیٰ کے علم میں مسلمان شمار ہو جاؤ گے پھر وہ اس کی جزا دیدے گا تمہیں اپنے دلوں کی تلاشی لینا چاہئے کہ واقعی مومن ہیں یا نہیں؟

اس آیت میں جو یُؤْمِنُونَ عَلَيْكَ اَنْ اَسْلَمُوا فرمایا ہے اس کے بارے میں یہ سوال ہوتا ہے کہ انہوں نے تو آمنا کہا تھا ان کی بات کو لفظ اسلموا سے تعبیر کرنے میں کیا حکمت ہے؟ اس کے بارے میں ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ انہوں نے جو امنا کہا تھا ان کا پہلی بار بھی دعوائے ایمان صحیح نہ تھا اور دوبارہ جو انہوں نے یوں کہا کہ ہم واقعی سچے دل سے اسلام لائے ہیں یہ بھی اوپر ہی کے دل سے تھا لفظ اسلموا نے اس بات کو ظاہر کر دیا اور ایک بات اور سمجھ میں آئی وہ یہ کہ اس میں احسان دھرنے والوں کو تنبیہ ہے کہ جب سچے دل سے ایمان لانے والوں کیلئے اسلام قبول کرنے پر احسان دھرنا صحیح نہیں تو اوپر کے دل سے اسلام کا دعویٰ قبول کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول ﷺ پر احسان دھرنا کیونکر صحیح ہو سکتا ہے۔

اس میں رہتی دنیا تک آنے والوں اور دین اسلام قبول کرنے کا دعویٰ کرنے والوں کو تنبیہ کر دی گئی کہ جو شخص اسلام قبول کرتا ہے اگر سچے دل سے قبول کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام کا ماننے والا فرد تسلیم کیا جائے گا اور اس کے ساتھ یہ بات بھی بتادی کہ جو شخص اسلام قبول کرتا ہے وہ اپنے بھلے کے لئے قبول کرتا ہے وہ مسلمان پر احسان نہ دھرے کہ میں مسلمان ہو گیا لہذا تم لوگ میرے لئے چندہ کرو اور رونی رزق کا انتظام کرو مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ اس کی مدد کریں لیکن اسے چاہئے کہ مسلمانوں پر احسان نہ دھرے اور نہ ان سے کچھ طلب کرے خود کمائے کھائے آخر زمانہ کفر میں بھی تو کسب کرتا تھا۔

آخر میں فرمایا اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (اور بے شک اللہ جانتا ہے آسمانوں اور زمین کے غیب کو) یعنی چھپی ہوئی باتوں اور چھپی ہوئی چیزوں کو وہ خوب جانتا ہے وَاللّٰهُ بِصِدْقِهِمْ اَعْلَمُ اور اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھنے والا ہے۔

وهذا آخر تفسير سورة الحجرات ، والحمد لله الذى بعزته ونعمته تتم الصالحات وقد فرغت منه فى الليلة السابعة من شهر شعبان فى ١٨١٨هـ والحمد لله اولاً و آخر ا باطناً و ظاهراً .

